


الْمُنْجِدُ

عربی --- اُردو

مکتبہ قدوسیہ لاہور



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

معزز قارئین توجہ فرمائیں!

کتاب وسنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب.....

← عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

← مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

← دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندرجات نشر و اشاعت کی مکمل

اجازت ہے۔

☆ تنبیہ ☆

← کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔

← ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں﴾

← نشر و اشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com

www.KitaboSunnat.com

عربی اور اردو کی جامع ترین لغت

المنجد

مرتب :

لوئیس معلوف

ترجمہ

مولانا عبدالحفیظ بلیاوی

تقدیم :

محمد اسحاق بھٹی

مصحح و شہساز :

قاری عبدالستار

پنسل وینویریٹا

مکتبہ قدوسیہ لاہور

خوبصورت اور معیاری مطبوعات

کتاب و سنت
کی
نشر و اشاعت
کے لیے
کوشاں

23003
م ک ل م

اس کتاب کے
جملہ حقوق اشاعت بحق ناشر محفوظ ہیں

اشاعت — 2009

الہتمام طباعت

ابوبک قزوینی

قزوینی اسلامک پریس

Ph: 42-37351124 , 37230585

E-mail: maktaba_quddusia@yahoo.com

Website: www.quddusia.com

مکتبہ قزوینیہ

رحمان مارکیٹ • غزنی سٹریٹ • اردو بازار • لاہور پاکستان

حرفے چند

آج سے تقریباً ۳۵ سال قبل جب والد محترم حضرت مولانا عبدالحق قدوسی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتبہ قدوسیہ کا آغاز کیا تو اس کی بنیاد عربی کتب کے کاروبار سے رکھی۔ انہوں نے محدود پیمانے پر عربی کتب کی خرید و فروخت شروع کی اور ان کی شہادت (۲۳ مارچ ۱۹۸۷ء) تک الحمد للہ مکتبہ قدوسیہ پورے پاکستان میں عربی کتب کی فراہمی اور طباعت کا ایک اہم ادارہ بن چکا تھا۔ عربی کی ناز و نایاب کتب کے حصول کے لیے شائقین دور دراز سے تشریف لاتے۔ اسی طرح طباعت کے میدان میں بھی مکتبہ قدوسیہ نے عربی کی کئی ایک بلند پایہ کتب شائع کیں۔ عربی زبان و ادب کی خدمت کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کچھ عرصہ قبل مصباح اللغات بہت عمدہ معیار پر اور خوبصورت کمپوزنگ کے ساتھ شائع کی گئی، جب کہ چار جلدوں پر مشتمل ایک بہت اہم کتاب ”تاریخ ادب عربی“ بھی جلد شائع ہو رہی ہے۔ اسی سلسلے میں ہماری ایک اور کاوش المنجد (عربی۔ اردو) آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

مولانا ابوالفضل بلیاوی نے جب مصباح اللغات مرتب کی تو اس کی بنیاد دراصل المنجد ہی تھی، مولانا ابوالفضل نے المنجد کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں بعض اضافے کر دیئے تھے۔ جب کہ کثیر تعداد میں المنجد کے الفاظ حذف کر دیئے تھے اور اس کو مصباح اللغات کا نام دیا تھا۔ ہماری خواہش تھی کہ المنجد کو اس کی اصل حالت میں ترجمہ کے ساتھ شائع کیا جائے۔ چنانچہ ہم نے مصباح اللغات میں ان حذف شدہ الفاظ کو نئے سرے سے ترجمہ کروا کر شامل کر دیا ہے جب کہ ان کے اضافہ جات کو خارج کر دیا ہے۔ یوں المنجد اپنی اصل شکل میں مکمل ہو گئی ہے۔ مولانا عبدالستار صاحب فاضل ریاض یونیورسٹی نے اس مشکل کام کو بہت محنت اور خلوص سے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔

المنجد کی طباعت اور معیار کے متعلق بہتر فیصلہ تو قارئین ہی کر سکتے ہیں۔ البتہ ہم نے بساط بھر کوشش ہے کہ ظاہری اور معنوی اعتبار سے اس کو مفید سے مفید تر بنایا جائے۔ عربی الفاظ کو نمایاں کرنے کے لئے سرخ رنگ کی روشنائی استعمال کی گئی جب کہ اردو کے لیے سیاہ۔ علاوہ ازیں المنجد کے آخری ایڈیشن میں جدید عربی کے جو الفاظ ہیں ان کا ترجمہ بھی شامل کر دیا گیا ہے جو اس نسخے کی اہمیت کو دو چند کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اہل عرب کے ہاں زوزمرہ کے محاورے اور ضرب الامثال کا مختصر اور جامع ترجمہ بھی دیا گیا ہے۔ اپنی حد تک ہم نے کوشش کی ہے کہ تصحیح کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھا جائے۔ اس مقصد کے لئے مختلف ماہرین فن کی خدمات حاصل کی گئیں جنہوں نے بار بار کتاب کی خواندگی کی۔ اس کے باوجود جو

کی کوتاہی رہ گئی ہو، قارئین اس کی نشاندہی فرما کر ہمیں شکریہ کا موقع دیں۔ تاکہ آئندہ طباعت مزید بہتر ہو سکے۔
ہم محترم و مکرم جناب مولانا محمد اسحاق بھٹی کے ممنون ہیں کہ انہوں نے ہماری درخواست پر اپنی گونا گوں مصروفیات
میں سے وقت نکال کر اس بظاہر خشک موضوع پر علمی، تحقیقی اور جامع مقدمہ لکھا۔
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کی زبان کی مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

ابوبکر قدوسی

اپریل ۲۰۰۱ء

تقدیم

”لغت“ عربی کا لفظ ہے اور مذکر استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی ہیں زبان بولی آواز، فرہنگ، وہ کتاب جس میں الفاظ کے معنی درج ہوں اور مشکل الفاظ کے استعمال کا طریقہ بتایا گیا ہو۔ وہ صدیوں کی وساطت سے ایک شخص دوسرے شخص کے سامنے اپنا مقصد بیان کرتا اور اپنی ضرورت کا اظہار کرتا ہے۔

ہر زبان کے لغت کی کتابیں لکھی گئی ہیں اور ان کتابوں میں مشکل الفاظ کے معنی بتائے گئے ہیں۔ اردو زبان کے بھی بہت سے لغت موجود ہیں، جن میں اس زبان کے ماہرین نے دقیق اور مشکل الفاظ کے معانی درج کیے ہیں اور ان کے محل استعمال اور طریق بیان کی وضاحت کی ہے۔ انگریزی کتب لغت بھی معرض تصنیف میں آئی ہیں۔ اس موضوع کی بعض کتابیں وہ ہیں جن میں انگریزی الفاظ کے معنی انگریزی میں بتائے گئے ہیں، بعض میں اردو میں اور بعض میں عربی میں بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح عربی کتب لغت کثیر تعداد میں ضبط تحریر میں لائی گئی ہیں۔ عربی سے عربی میں بھی عربی سے اردو میں بھی عربی سے فارسی اور انگریزی وغیرہ زبانوں میں بھی۔ پھر عربی لغت کی کتابیں صرف اہل عرب ہی نے نہیں لکھیں، غیر عربوں نے بھی اس زبان میں مہارت پیدا کی اور بہت سی کتب لغت تصنیف کی ہیں بلکہ عربی لغت نویسوں میں غیر مسلم بھی شامل ہیں جن کی بعض کتابیں ہمارے ہاں مشہور و متداول ہیں اور ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ غیر مسلموں کی کتابوں میں ایک کتاب ”المنجد“ ہے جو عربی سے عربی کی لغت کی کتاب ہے، پہلی دفعہ ۱۹۰۸ء میں چھپی تھی۔ اب تک پینتیس چھتیس دفعہ چھپ چکی ہے۔ اس کے مصنف کا نام لویس معلوف ہے۔ یہ مشہور مستشرق پادری تھا یعنی فادر لویس معلوف۔ ۱۸۶۷ء میں پیدا ہوا تھا۔ ۱۹۳۶ء میں فوت ہوا۔

کلام و تکلم کا آغاز کب ہوا؟

سوال یہ ہے کہ اظہار مقصد و مدعا کا سلسلہ کب سے جاری ہے اور کلام و تکلم کا آغاز کس طرح ہوا؟ اس کی

ابتدا کب ہوئی اور کس زبان میں ہوئی؟

بعض کتابوں میں مرقوم ہے کہ بات چیت اور گفتگو کا سلسلہ تخلیق آدم سے بھی قبل سے جاری تھا اور جن اور ملائکہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے۔ ان کی کوئی زبان تو ہوگی جس میں وہ محو تکلم ہوتے تھے، لیکن انسانی بیان و کلام کی ابتدا اس وقت سے ہوئی، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت آدم کا اولین مقام جنت تھا۔ وہیں اللہ کی طرف سے انھیں قوت گوئی سے نوازا گیا اور انھیں اس وقت کی موجود اشیا کے ناموں سے آگاہ کیا گیا۔ قرآن اس کا ذکر ان الفاظ میں کرتا ہے۔

وعلم ادم الاسماء كلها- (البقرہ: ۳۱)

یعنی اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے۔

یہی لغت و نطق کی تاریخ ہے اور یہیں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت آدم کو اللہ نے کن چیزوں

کے نام سکھائے؟

جواب دیا جاتا ہے کہ آسمان، زمین، دریا، درخت، پہاڑ، پتھر، پانی، نباتات، حیوانات وغیرہ ان سب چیزوں کے نام بتا دیئے جو اس وقت موجود تھیں اور استعمال میں آ سکتی تھیں۔ فرشتوں کو اللہ نے ان چیزوں کے ناموں سے مطلع نہیں کیا تھا، حالانکہ یہ چیزیں موجود تھیں، اس لیے کہ فرشتوں کو ان کی ضرورت نہ تھی۔ آدم کو چونکہ دنیا میں رہنا تھا اور اس کی اولاد کا سلسلہ آگے بڑھنا اور پھلنا تھا، اس لیے ان کے لیے اکل و شرب کی بھی ضرورت تھی، لباس کی بھی ضرورت تھی اور حالات کے مطابق دیگر بہت سی اشیا کی حاجت تھی۔ یعنی ان تمام چیزوں کے ناموں سے مطلع کر دیا گیا اور پھر وہ اطلاع آگے چلتی رہی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سواری کے جانوروں، مویشیوں اور برتنوں کے نام بھی انہیں بتا دیئے گئے تھے۔

سب سے پہلی زبان

روایات سے واضح ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو زبان سطح وجود پر ابھری اور جس سے دنیا کے اولین انسان حضرت آدم آشا ہوئے، وہ عربی زبان تھی۔ لیکن عربی کے ساتھ حضرت آدم کو کسی اور زبان سے شناسا کیا گیا یا نہیں؟ یہ مختلف فیہ بات ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی زبان عربی تھی، لیکن جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا جس کے کھانے سے اللہ نے منع فرمایا تھا تو عربی زبان ان سے چھین لی گئی اور وہ سریانی زبان بولنے لگے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور غلطی معاف کر دی تو عربی زبان انہیں دوبارہ عطا فرمادی گئی اور وہ جنت سے دنیا میں آئے تو ان کی زبان عربی تھی اور وہ عربی میں گفتگو کرتے تھے۔

عربی زبان کی اہمیت

عربی زبان کے بارے میں متعدد صحابہ کرام سے متعدد روایات مروی ہیں۔ ایک روایت میں بتایا گیا ہے کہ

نبی ﷺ نے فرمایا:

احبوا العرب لثلاث

۱- فانی عربی -

۲- القرآن عربی -

۳۔ ولسان اهل الجنة عربی۔

تم عربی سے تین امور کی بنا پر محبت کرو۔

ایک اس لیے کہ میں عربی ہوں۔

دوسرے اس لیے کہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے۔

تیسرے اس لیے کہ اہل جنت کی زبان عربی ہے۔

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر میں میت سے فرشتوں کے سوال و جواب کا سلسلہ عربی زبان میں ہوگا۔

ایک روایت سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کی طرف سے انبیاء علیہم السلام پر جن کتب و صحائف کا نزول ہوا وہ عربی زبان

میں تھیں، لیکن ان انبیاء علیہم السلام کی زبان انہی قوموں کی تھی، جن قوموں کی طرف انھیں مبعوث فرمایا گیا تھا۔ پھر ان

انبیاء نے ان عربی کتب و صحف کا ترجمہ اپنی اپنی امتوں کی زبان میں کیا۔

معانی و مطالب میں عربی زبان کی وسعت

عربی زبان الفاظ و معانی کے لحاظ سے نہایت وسیع زبان ہے اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے دنیا کی کوئی

زبان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم عرب کے شاعر اور ادیب جس فخر اور غرور کے ساتھ اس زبان میں

اپنی مہارت کا تذکرہ کرتے ہیں دوسرے زبانوں کے پرانے ماہر و ادیب اس انداز سے شاید نہیں کرتے ہوں گے۔

عربی زبان کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ ایک ایک لفظ میں کئی معنی پنہاں ہیں اور اس باب میں اس کا دامن

نہایت کشادہ ہے۔ مثلاً تلوار کر لیجئے عربی میں اس کے لیے بہت سے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اسی طرح شیر، نیزہ،

اونٹ، بکری وغیرہ کے لیے بے شمار الفاظ مستعمل ہیں اور عرب ادب و شعر الفاظ کی اس بے پناہ کثرت پر انتہائی مسرت

اور فخر کا اظہار کرتے ہیں۔

صلوات اور حروف روابط

عربی زبان میں ایک بہت بڑا مسئلہ صلات اور حروف روابط کا ہے۔ کس فعل کا کیا صلہ ہونا چاہیے اور وہ صلہ کن

حروف کے ساتھ آنا چاہیے یہ مسئلہ بے حد اہمیت کا حامل ہے اور انتہائی دشوار بھی ہے۔ اگر فتح کا صلہ ’ب‘ ہے تو کیا

معنی ہوں گے، علی، الی، من اور فی ہے تو کیا ہوں گے۔ اس میں بسا اوقات عربی کے بڑے بڑے ادیب ٹھوکر

کھا جاتے ہیں بلکہ بعض دفعہ بعض اہل زبان بھی لغزش کا شکار ہو جاتے ہیں۔۔۔ عربی کے لغت نویسوں نے اس مشکل

کو پوری طرح پیش نگاہ رکھا ہے اور بتایا ہے کہ کس فعل کا کس موقع پر کیا صلہ آئے گا اور کیا معنی دے گا۔ لیکن اس

باب میں سب سے بہتر اور قابل اعتماد بلکہ کہنا چاہیے کہ حرف آخر قرآن مجید ہے۔ اگر عربی کے کسی ادیب کو اس

کتاب ہدی سے پورا شغف ہے اور اس میں وہ درک رکھتا ہے تو اسے صلات کی پوری مشق ہو جاتی ہے اور حروف

روابط کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔

عربی شعر کا معاملہ

پھر شعر میں الفاظ کا استعمال ایک بہت بڑا فن ہے۔۔۔ شعر ہر اعتبار سے صحیح ہے، ردیف، قافیہ، الفاظ سب معاملہ ٹھیک ہے، لیکن ماہرین فن اس میں بھی خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ملاحظہ ہو۔

خنساء عرب کی بہت بڑی شاعرہ تھی اور مرثیہ گوئی میں اس دور کا کوئی شاعر اس کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا، وہ علاقہ نجد کی رہنے والی تھی اور اس کا اصل نام تماضر تھا۔ چون کہ بے حد چست، تیز طراز ذہین اور خوب رو تھی، اس لیے خنساء کے لقب سے مشہور ہوئی، جس کے معنی ہرنی کے ہیں۔ اس نے زمانہ جاہلیت بھی پایا اور زمانہ اسلام بھی۔ اس کا سلسلہ نسب ساتویں پشت سے عرب کے نامور شاعر امراء القیس سے ملتا ہے۔ شاعری کے فن میں اس کی مہارت سے متعلق بعض دلچسپ باتیں تاریخ کی کتابوں میں مرقوم ہیں۔

دور جاہلیت میں اہل عرب میں یہ دستور تھا کہ مختلف مقامات پر شعر و شاعری کی مجلسیں آراستہ ہوتی تھیں۔ ان مجلسوں میں مرد اور عورتیں برابر کی سطح پر حصہ لیتے تھے۔ خنساء بھی ان میں شامل ہوتی تھی اور اس کے خیچے پر ایک جھنڈا نصب کیا جاتا تھا، جس پر جلی حروف سے لکھا ہوتا تھا۔

الخنساء۔۔۔ ارثی العرب۔۔۔
(خنساء۔ عرب کی سب سے بڑی مرثیہ گو)

تمام عرب شعر انہایت شوق اور لہجہ سے اس کا کلام سنتے تھے۔ نابغہ ذبیانی جس کا اصل نام زیاد بن معاویہ تھا، بڑی توجہ سے اس کے اشعار سنتا تھا۔ ایک مجلس میں خنساء بھی موجود تھی اور حضرت حسان بن ثابت بھی تشریف فرما تھے۔ نابغہ ذبیانی نے خنساء کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں نے ابوبصیر (اعشى) کے اشعار نہ سنے ہوتے تو تمہیں موجودہ دور کے تمام شعرا سے بہتر قرار دیتا۔

حضرت حسان کو دور جاہلیت میں بھی عرب کا بہت بڑا شاعر گردانا جاتا تھا اور زمانہ اسلام میں بھی انھوں نے رسول اللہ ﷺ کی مدح میں جو اشعار کہے، تاریخ اسلامی میں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔

انھوں نے نابغہ ذبیانی کی زبان سے خنساء کے اشعار کی تعریف سنی تو طیش میں آگے اور بولے:

”میں خنساء سے بہتر شعر کہتا ہوں۔“

نابغہ ذبیانی نے یہ الفاظ سن کر حسان سے تو کچھ نہیں کہا البتہ خنساء کی طرف دیکھا۔

خنساء نے حسان سے کہا: ”آپ اپنے قصیدے کے جس شعر کو سب سے اچھا سمجھتے ہیں وہ سنائیے۔“

حسان نے فوراً شعر پڑھا۔

ان الجففات یلمعن فی الضحی
واسیافتا یقطرن من نجدة دما

یعنی ہمارے پاس بڑے بڑے شفاف برتن ہیں جو چاشت کے وقت چمکتے ہیں اور ہماری تلواریں بلندی سے خون چمکاتی ہیں۔

اس شعر میں انہوں نے اپنے قبیلے کی سخاوت کا اظہار بھی کیا ہے اور بہادری و جنگ ہوئی کا بھی!۔
شعرن کر خنساء نے کہا: ”یہ شعرسات مقامات پر بلندی سے گر گیا۔۔۔“ اب وہ ان مقامات کی نشان دہی کرتی ہے۔

- ۱- ”جننات“ کا لفظ دس سے کم پر بولا جاتا ہے۔ اس کے بجائے مناسب لفظ ”جنان“ تھا۔
- ۲- ”غز“ کے معنی پیشانی کی سفیدی کے ہیں۔ اس کی جگہ لفظ ”بیض“ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا۔
- ۳- ”بلیعن“ عارضی چمک کو کہا جاتا ہے۔ یہاں ”یشرقن“ لایا جاتا تو بہت مناسب رہتا۔
- ۴- ”الضحیٰ“ کی نسبت ”الذبی“ زیادہ موزوں تھا کیوں کہ روشنی سیاہی میں زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔
- ۵- ”اسیاف“ کا اطلاق جمع قلت پر ہوتا ہے اس کے بجائے ”سیوف“ استعمال کرنا چاہیے تھا۔
- ۶- ”یعطرن“ میں وہ خوبی نہیں پائی جاتی جو ”یسلسن“ میں پائی جاتی ہے لہذا ”یعطرن“ کی جگہ ”یسلسن“ زیادہ مناسب تھا۔

۷- ”دم کی جگہ ”دما“ ہونا چاہیے تھا اس لیے کہ اس میں کثرت کے معنی پائے جاتے ہیں۔
حضرت حسان نے خنساء کے یہ اعتراضات سنے اور خاموش رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسان نے خنساء کے اعتراضات کو اہمیت دی اور خنساء کے نزدیک شعر اس طرح ہونا چاہیے تھا۔

لنا الحفان البيض يشرقن في الدجی

و سیوفنا یسلین من نجدۃ دماء
عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عہد قدیم میں عرب مور میں بھی عربی زبان کے مختلف گوشوں پر گہری نظر رکھتی تھیں اور اس سے خوب آگاہ تھیں کہ کون سا لفظ کس موقعے اور مقام پر زیادہ مناسب اور موزوں رہتا ہے۔ یہ زبان پران کے عبور کا ثبوت اور اس کی نزاکتوں سے کامل آگاہی کی دلیل ہے۔

ہر زبان کے لغت کی کتابیں لکھی گئی ہیں جو زبان بولی جاتی ہے اس کے نشیب و فراز کو سمجھنے اور مشکل الفاظ کو فہم کی گرفت میں لانے کے لیے لغات کی بہر حال ضرورت رہتی ہے۔ بعض دفعہ کسی لفظ کے معنی کا علم ہوتا ہے، لیکن اس کو مناسب اور صحیح انداز سے استعمال میں لانے میں مشکل پیش آ جاتی ہے اس مشکل سے نکلنے کے لیے کتاب لغت کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔

عربی کتب لغت کی کثرت

عربی لغت کی سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں اور ایک ایک کتاب کئی کئی جلدوں میں لکھی گئی ہے۔ اس طرح ان کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی ہے۔ اس کا اندازہ صاحب بن عباد کے اس واقعہ سے کیجیے کہ ان کو کسی حکمران

نے اپنے یہاں آنے کے لیے درخواست کی تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنے مقام سکونت سے آپ کے ہاں کس طرح آ سکتا ہوں۔ مجھے ساٹھ اونٹ تو فقط لغت کی کتابیں لادنے کے لیے درکار ہوں گے۔
یہ صرف ایک شخص کی بات ہے کہ اس کے پاس کتب لغت کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ انہیں کسی جگہ منتقل کرنے کے لیے ساٹھ اونٹوں کی ضرورت ہے۔ یقیناً ایسے اہل علم بھی ہوں گے جن کے پاس اس سے بھی زیادہ کتابیں ہوں گی۔

عربوں کا فطری ذوق

یہاں یہ بھی عرض کر دیں کہ قدیم دور کے جن عرب شاعروں اور اصحاب فصاحت و بلاغت کا کلام ہم پڑھتے اور سنتے ہیں، وہ کسی کے شاگرد نہیں تھے اور ان میں سے کسی نے کسی استاذ کے سامنے اس طرح زانوئے شاگردی تہ نہیں کیا تھا، جس طرح ہم کرتے ہیں۔ امراء القیس کس کا شاگرد تھا؟ نابذہ ذبیانی کس کے حلقہ تلمذ میں رہا تھا؟ خسّانے کس سے استفادہ کیا تھا؟ حسان بن ثابت نے کس سے اصلاح لی تھی؟

کلثوم بن عمرو عتّابی، سری بن احمد کندی اور اس طرح کے بہت سے شعرا وادبا تھے، مگر کچھ پتا نہیں ان لوگوں نے یہ علم کس سے سیکھا تھا۔ خود نبی ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ انا افصح العرب (میں تمام باشندگان عرب سے زیادہ فصیح ہوں) پھر قبیلہ قریش کی زبان نہایت نکھری ہوئی اور صاف تھی۔ قبائل عرب میں سے بنو قیس، بنو تمیم، بنو اسد اور بنو بذیل وغیرہ قبائل کی زبان نہایت فصیح تھی اور یہ نعمت انہیں ان کے فطری ذوق کی بدولت حاصل ہوئی تھی۔

عرب میں تحریر و کتابت کا آغاز

اب سوال یہ ہے کہ اہل عرب نے تحریر و کتابت کا سلسلہ کب شروع کیا اور کس طرح کیا اور اول عربی رسم الخط کی طرح کس نے ڈالی؟

اس سوال کا جواب محمد بن اسحاق ندیم وراق (وفات تقریباً ۳۹۰ھ) نے اپنی مشہور تصنیف ”الفہرست“ میں دیا ہے اور ہم یہاں اسی سے استفادہ کر رہے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

اس میں اختلاف ہے کہ سب سے پہلے عربی رسم الخط کی بنیاد کس نے رکھی۔ ہشام کلبی کا بیان ہے کہ اس کا اولیٰں موجد عرب عاربہ کا ایک گروہ ہے، جنہوں نے عدنان بن اد کے ہاں سکونت اختیار کی۔ ان کے نام یہ تھے:

۱۔ یہاں یہ وضاحت کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ قبائل عرب کی تین قسمیں ہیں اور وہ ہیں (۱) عرب عاربہ (۲) عرب معربہ اور (۳) عرب مستعربہ۔ عرب عاربہ خالص عربوں کو کہا جاتا ہے اور وہ نو قبیلے ہیں جو ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ وہ نو قبیلے یہ ہیں: عاد، شمر، امیم، عہیل، طسم، جدیش، عملیق، جرہم، وبار۔

عرب معربہ اور عرب مستعربہ کا اطلاق ان لوگوں پر ہوتا ہے جو خالص عرب نہیں ہیں، ان میں دوسری قوموں کا اختلاط پایا جاتا ہے۔ عرب معربہ قحطان کی اولاد ہیں، جن کی اصل زبان سریانی تھی۔ پھر انہوں نے یمن کو اپنا وطن بنا لیا تھا۔ یمن میں انہوں نے بنو اسماعیل سے عربی زبان سیکھی اور وہی ان کی زبان قرار پائی۔

ابوجاؤہوز، حطی، کلمون، صغض، قریات۔^۱

کتابت و تحریر کا آغاز انھوں نے اپنے ناموں کے مطابق کیا۔ یعنی وہ حروف لکھنا شروع کیے جو ان کے ناموں میں پائے جاتے ہیں۔ بعد ازاں وہ ان حروف سے آشنا ہوئے جو ان کے ناموں میں موجود نہ تھے مثلاً 'خا'، 'ذال'، 'ظا'، 'شین'، 'عین'۔ ان حروف کو انھوں نے "روادف" کے نام سے موسوم کیا۔

ابن ہشام کی روایت کے مطابق، یہ لوگ (ابوجاؤہوز، حطی وغیرہ) شاہان مدین سے تعلق رکھتے تھے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے میں "یوم الظلہ" میں ہلاک ہوئے۔

اس کی صورت یہ ہوئی کہ پہلے تو سات دن حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اتنی سخت گرمی میں مبتلا رہی کہ ان کے لیے اس کا برداشت کرنا ممکن نہ رہا۔ جہاں جاتے ہیں، گرمی کی شدت میں مبتلا ہیں۔ سات دن یہ کیفیت طاری رہی۔ اس کے بعد یکا یک آسمان سے سیاہ بادل نمودار ہوا اور سردی کا ریلہ آیا، جس سے لوگ بے حد خوش ہوئے اور اس سیاہ بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ پھر اس بادل میں سے آگ کے شعلے برسنے لگے اور ان شعلوں نے نہایت تیزی کے ساتھ وہاں کے باشندوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب کرنے والے تمام لوگ ان شعلوں میں بھسم ہو گئے۔ قرآن نے اس دن کو "یوم الظلہ" (ساتبان کے دن) سے تعبیر کیا ہے، اس لیے کہ منکرین حق پر سیاہ بادل، ساتبان کی طرح تن گیا تھا۔ صرف وہی لوگ اس عذاب سے محفوظ رہے تھے، جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کے احکام پر عمل کیا تھا۔ یوم الظلہ کو ابوجاؤہوز، حطی، کلمون، صغض اور قریات بھی ہلاک ہو گئے تھے۔

کلمون کی بہن نے ان کی ہلاکت پر شدید افسوس کا اظہار کرتے ہوئے یہ مرثیہ کہا تھا۔

کلمون	رکنی	ہلکہ	وسط	المحلہ
سید	القوم	اتاہ	الحترف	ثارا
جعلت	نارا	علیہم	دارہم	کالمضمحلہ

یعنی "اے کلمون! میرا سہارا ختم ہوا، اس لیے کہ تو آبادی کے عین وسط میں ہلاک ہو گیا۔

قوم کے سردار کو موت نے آدبوچا، جب کہ وہ ساتبان کے نیچے اقامت گزیر تھا۔

اس ساتبان نے ان کے کھروں پر آگ برسادی اور گھرتاہ ہو گئے۔"

گذشتہ سے پیوست

عرب مستقریہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، انھیں بنی سعد بن عدنان بن اد کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ اصل عرب نہ تھے، نہ ان کی آبائی زبان عربی تھی، ان کی شادی بنو جرہم میں ہوئی تو انھوں نے عربی زبان سیکھی، اس لیے ان کی اولاد جو ارض حجاز سے تعلق رکھتی ہے، عرب مستقریہ ہوئی۔

۱ ہمارے ہاں ان ناموں کا تلفظ ی ہے: ابجؤہوز، حطی، کلمن، صغض، قریات۔

۲ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب ان برائیوں سے روکا، جن کا وہ ارتکاب کرتی تھی تو ان لوگوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو اور واقعی تمہیں اللہ نے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تو ہم پر آسمان سے عذاب کی شکل میں کوئی کڑا برسادی۔ چنانچہ ناخذہم عذاب یوم الظلہ (شعر: ۱۸۹) "سائے کے دن کے عذاب نے ان کو آ پکڑا"

القہرست کے مصنف محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے یہ نام ابن ابی سعد کی تحریر میں اس شکل و صورت اور اس اعراب کے ساتھ پڑھے ہیں۔

ابجاؤ ہاؤز، حاظی، کلماں، صاع، فض، قرست۔

کہتے ہیں یہ آخری قافلہ تھا جو عدنان بن اذوغیرہ کے ہاں آ کر ٹھہرا۔ جب ان لوگوں نے اپنے آپ کو عربوں کے قابل میں ڈھال لیا تو عربی انداز کتابت وضع کیا۔ واللہ اعلم

کعب احبار کا کہنا ہے کہ پہلے شخص جنہوں نے عربی فارسی اور ہر قسم کے اسالیب کتابت کو وضع کیا، آدم علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے اپنی موت سے تین سو سال قبل ان اسالیب کتابت کو مٹی پر لکھا اور آگ پر پکایا۔ جب دنیا طوفان کی زد میں آئی تو انداز تحریر کے یہ نمونے محفوظ رہے، چنانچہ ہر قوم نے اپنے اپنے رسم الخط کو پہچانا اور اختیار کیا اور اسی انداز سے لکھنا شروع کر دیا۔

حضرت عبداللہ بن عباس کا فرمان ہے کہ سب سے پہلے جن لوگوں نے عربی رسم الخط وضع کیا، وہ قبیلہ بولان کے تین شخص ہیں۔ انہوں نے انبار کو اپنا مسکن بنایا اور اکٹھے ہو کر حروف مقطوعہ اور موصولہ وضع کیے۔ ان کے نام مرام بن مرہ، اسلم بن سدہ اور عامر بن جدہ ہیں۔ ایک قول کے مطابق مرہ اور جدہ ہیں۔ مرام نے شکل و صورت کو اسلم نے فصل و وصل کو اور عامر نے نقطوں کو وضع کیا۔

اہل حیرہ سے پوچھا گیا: ”تم نے عربی کس سے سیکھی؟“ انہوں نے جواب دیا۔ ”اہل انبار سے!“ نیز کہا جاتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بیس برس کے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عربی سببن بولنا سکھائی۔

محمد بن اسحاق کا کہنا ہے کہ جو چیز واقعیت و حقیقت سے قریب تر اور قابل قبول ہے اور جسے ثقہ لوگوں نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ عربی جن قبائل کی زبان تھی وہ تھے حمیر، طسم، جدلیس، ارم اور حویل۔ یہ عربا عار بہ تھے۔ حضرت اسماعیل نے جب قبیلہ جرہم میں سکونت اختیار کی اور بڑے ہوئے تو اسی قبیلے میں جو خاندان معادیہ بن مضاض جرہمی کی ایک شاخ تھا، شادی کی۔ چنانچہ یہ لوگ ان کی اولاد کے نہیال ٹھہرے۔ اس رشتہ و تعلق کی بنا پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس قبیلے کی زبان سیکھی۔ اس کے بعد مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ضروریات پیش آتی اور ظاہر ہوتی رہیں، حالات کے مطابق ان کی اولاد نے بات سے بات نکالی اور بہت سی چیزوں کے نام وضع کر لیے۔ پھر اس طرح جب دائرہ کلام زیادہ وسیع ہو گیا تو قبیلہ عدنان میں عمدہ اور فصیح شعر کہنے کا رواج ہوا، جو آہستہ آہستہ مزید ترقی کر گیا۔

عرب کا ہر قبیلہ اپنی الگ بولی رکھتا تھا جسے لوگ سیکھتے اور رواج دیتے تھے، لیکن زبان بنیادی طور پر سب کی ایک

ہی رہی۔

اس بات کی تصدیق کھول کی روایت سے ہوتی ہے جو وہ مختلف راویوں سے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پہلا گروہ جس نے عربی خط وضع کیا نفیس، نصر، تیما اور دومہ پر مشتمل ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے۔ انہوں نے اسے تفصیلی شکل میں وضع کیا اور قادر اور نبٹ بن مہسح بن قادر نے اسے پھیلا یا اور عام کیا۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ انبار کے چند افراد نے جو قبیلہ ایا قدیم سے تعلق رکھتے تھے حروف الف، ب، ت، ث وضع کیے اور عربوں

نے اسی سے سب کچھ سیکھا۔

محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن شیبہ کی کتاب مکہ میں خود اس کے ہاتھ سے لکھی ہوئی یہ تحریر پڑھی ہے کہ مجھے علمائے مصر کے ایک گروہ نے بتایا کہ جس نے عربی کے خط جزم کو اختیار کیا وہ بنو خالد بن نصر بن کنانہ کا ایک شخص ہے۔ اسی کی پیروی میں عربوں نے لکھنا شروع کیا۔

ایک دوسرے گروہ کا کہنا ہے کہ جو شخص علم کتابت کو قریش مکہ میں لایا وہ ابو قیس بن عبد مناف بن زہرہ ہے۔ ایک قول کے مطابق حرب بن امیہ ہے۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب قریش نے (جدید تعمیر کے لیے) کعبہ کو گرایا تو اس کے ایک رکن کے نیچے سے ان کو ایک پتھر دست یاب ہوا جس پر یہ تحریر ثبت تھی۔

السلف بن عقبہ یقرأ علی ربه السلام من رأس ثلاثة الاف سنة
یعنی تیسرے ہزار سال کے آغاز میں سلف بن عقبہ اپنے رب کو سلام بھیجتا ہے۔

خزانہ مامون میں چبڑے پر لکھا ہوا عبدالمطلب بن ہاشم کا ایک نوشتہ موجود تھا، جس پر یہ الفاظ مرقوم تھے:

حق عبدالمطلب بن ہاشم من اهل مكة علی فلان بن فلان الحمیری من اهل
وزل صنعا علی الف درهم فضة کیلا بالحديدة و متی دعاه ادبها اجابه شهد الله

و الملکان۔

کہ اہل مکہ میں سے فلاں بن فلاں حمیری پر جو زل صنعا سے تعلق رکھتا ہے، عبدالمطلب بن ہاشم کا چاندی کا ہزار درہم بوزن حدیدہ واجب الادا ہے، جب بھی اس سے اس کا مطالبہ کیا جائے گا، وہ اسے ماننے پر مجبور ہوگا۔ اللہ اور اس کے فرشتے اس پر گواہ ہیں۔

یہ خط عورتوں کے خط کی مانند ہے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں بھی لکھنا جانتی تھیں۔

قصبہ سور میں، مرین کے قبرستان میں ایک عرب کا تب اسید بن ابوالعیص مدفون تھا، قبرستان کے کنارے ایک مسجد تھی۔ سیلاب کی وجہ سے اس میں شکاف پڑ گیا تو وہاں سے ایک پتھر برآمد ہوا جس پر یہ الفاظ کندہ تھے۔

انا اسید بن ابی العیص ترجم الله علی بنی عبد مناف
میں اسید بن ابوالعیص ہوں اللہ بنی عبد مناف پر رحم کرے۔

اب سوال یہ ہے کہ عرب اس نام (یعنی عرب) سے کیوں موسوم ہوئے؟

الفہرست میں مرقوم ہے کہ ابن ابوسعد لکھتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے بیٹوں کو ان کے نضیال کے ساتھ جو قبیلہ جرہم سے تعلق رکھتے تھے دیکھا تو پوچھا۔

”اسماعیل! یہ کون لوگ ہیں؟“

انھوں نے جواب دیا: ”میرے بیٹے اور ان کے نضال جرہم“

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قدیم سریانی زبان میں باتیں کر رہے تھے کہا: ”اعرب لہ“ یعنی ان کو ایک دوسرے میں جذب کر دو اور ملا دو۔

یہ تمام باتیں کہاں تک صحیح ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

اس سے آگے الفہرست میں خط حمیری اور مختلف علاقوں کے رسم الخط اور انداز کتابت کا ذکر کیا گیا ہے جو نہایت دلچسپ ہے۔ متعدد علاقوں کے اسالیب کتابت کے نمونے بھی درج کتاب کیے گئے ہیں۔

کتاب کی خصوصیت

زیر مطالعہ کتاب عربی زبان کے ہزاروں الفاظ پر مشتمل ہے اور اپنے انداز کی ایک منفرد کتاب ہے۔ اس کی بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں سے مطلوبہ لفظ تلاش کرنے کا طریقہ نہایت آسان ہے۔ مثلاً آپ فعل مضارع کے جمع کے لفظ یَسْتَخِرْ جُوْنُ کے معنی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا مادہ تلاش کیجیے جو تین حروف خ ر ح (خ ر ج) ہے۔ اسی طرح آپ کو لفظ یَسْتَبْدِلُوْنَ کی تلاش ہے تو پہلے ب دل (بدل) پر نظر ڈالیے پھر آگے بڑھتے بڑھتے ”یَسْتَبْدِلُوْنَ“ آجائیے۔

اس طرح ثلاثی، رباعی، خماسی وغیرہ کے تمام ابواب آپ کے سامنے آجائیں گے اور مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے گا۔

عربی لغت کی کتابوں کے مختلف طریقوں میں آسان ترین طریقہ یہی ہے جو اس کتاب میں اختیار کیا گیا ہے یعنی حروف تہجی کی ترتیب سے کتاب مرتب کی گئی ہے۔ جیسے ’آ‘، ’ب‘، ’بب‘، ’ببت‘، ’ببت‘، ’ببجد‘، ’ببذ‘، ’آبر‘۔۔۔ ایاد، ایلا تک اس کے آگے ب پھرت اور آخر میں ی۔

یہ نہایت آسان ترتیب ہے اور اس طرح ہر شخص بخوبی کتاب سے استفادہ کر سکتا ہے۔

میرے محترم عزیز ابو بکر قدوسی نے اپنے اشاعتی ادارے مکتبہ قدوسیہ کی طرف سے اس کتاب کی اردو زبان میں اشاعت کا اہتمام کیا ہے۔ ان کی یہ کوشش حد درجہ لائق تحسین ہے۔ یقیناً اہل علم اس کو سراہیں گے اور یہ کتاب ان کے تحقیقی کاموں میں مدد و معاون ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان کے کاروبار میں برکت فرمائے اور یہ قرآن و حدیث کی جو نشر و اشاعت کر رہے ہیں اسے قبولیت سے نوازے۔

محمد اسحاق بھٹی

المنجد کے رموز و اشارات

فا	سے مراد اسم فاعل	مس	سے مراد مصدر	(س)	سے مراد باب سَمِعَ يَسْمَعُ
مفع	سے مراد اسم مفعول	(ض)	سے مراد باب ضَرَبَ يَضْرِبُ	(ک)	سے مراد باب كَرَّمَ يَكْرُمُ
ج	سے مراد جمع	(ن)	سے مراد باب نصر ينصر	(ح)	سے مراد باب حَسِبَ يَحْسِبُ
جج	سے مراد جَمْعُ الْجَمْعِ	(ف)	سے مراد باب فَتَحَ يَفْتَحُ		

اگر کسی کلمہ کی تلاش ہو اور وہ مجرد ہو یا اگر مزید ہو تو مجرد بنا کر یا پہلے حرف بدلا ہوا ہو تو اصل کی طرف لوٹنا کر پہلے حرف کے باب میں تلاش کریں

- (۱۲) تحول: کسی چیز کا زمین ماخذ ہونا یا مثل ماخذ ہونا۔
 (۱۳) تحویل: کسی چیز کو ماخذ یا مثل ماخذ بنا دینا۔
 (۱۴) تخلیط: کسی چیز کو ماخذ سے آراستہ کرنا۔
 (۱۵) تخمیر: فاعل کا کسی فعل کو اپنی ذات کے لیے کرنا۔
 (۱۶) تحیل: فاعل کا اپنی ذات میں ماخذ کا حصول دکھانا یا جتاننا جس سے صرف دکھا دیا بناوٹ مقصود ہو۔
 (۱۷) تدریج: کسی فعل کو آہستہ آہستہ کرنا۔
 (۱۸) تصرف: ماخذ کے حصول میں کوشش کرنا۔
 (۱۹) تعمل: ماخذ کو کام میں لانا یا ماخذ سے کام لینا۔
 (۲۰) تکلف: ماخذ میں الصنع یا بناوٹ ظاہر کرنا۔
 فائدہ: تکلف اور تحیل میں فرق یہ ہے کہ تکلف میں جو تصنع ہے وہ مرغوب فعل ہوتا ہے مگر تحیل میں جس فعل کا ارتکاب ہوتا ہے وہ محض دکھاؤ اور جعل ہوتا ہے۔
 (۲۱) حبان: کسی چیز کے متعلق یہ گمان کرنا کہ وہ ماخذ کے معنی سے موصوف ہے۔
 فائدہ: حبان اور وجدان میں فرق یہ ہے کہ وجدان میں یقیناً پایا جاتا ہے اور حبان میں شک و گمان۔
 (۲۲) صیونت: کسی امر کا ماخذ کے وقت میں واقع ہونا یا اس وقت میں پہنچنا۔
 (۲۳) سلب: کسی چیز سے ماخذ کو دور کرنا۔
 (۲۴) صبروت: صاحب ماخذ ہونا۔
 (۲۵) طلب: ماخذ کو طلب کرنا چاہنا۔

بعض قیاسی احکام

- عربی کے محکم کو فن صرف کے قواعد سے اچھی طرح واقف ہونا چاہئے تاکہ جن قیاسی چیزوں کے ذکر کو چھوڑنے کی عام عادت ہے ان کے استعمال میں غلطی نہ ہونے پائے۔ لیکن پھر بھی بعض قواعد فائدہ کے لیے یہاں لکھ دیئے جاتے ہیں:
- مجرد کو مزید بنا دینے سے حسب ذیل فوائد حاصل ہوتے ہیں:
- (۱) تعدیہ: لازم سے متعدی ہونا یا اگر فعل متعدی ہو تو ایک اور مفعول کا اضافہ ہونا۔
 (۲) تصحیح: صاحب ماخذ بنا دینا۔
 (۳) تعریف: مفعول کو ماخذ کے محل اور موقع میں لے جانا۔
 (۴) وجدان: کسی چیز میں ماخذ کی صفت کا پایا جانا۔
 (۵) ابتدا: کسی فعل کی ابتدا اسی باب سے ہونا بغیر اس کے کہ وہ فعل ثلاثی مجرد سے آیا ہو اور اگر وہ مادہ مجرد سے آیا ہو تو وہاں وہ معنی نہ ہوں جو ثلاثی مزید میں ہیں۔
 (۶) اعتماد: کسی چیز کو ماخذ بنا دینا یا ماخذ میں لینا۔
 (۷) اشتراک: دو موصوفوں کا کسی کام میں اس طرح شریک ہونا کہ ہر ایک فاعل اور مفعول دونوں کی حیثیت رکھتا ہوں۔
 (۸) اقتضاب: کسی فعل کی ابتدا اسی باب سے ہونا اور ثلاثی مجرد مطلقاً کسی باب سے نہ آنا۔
 (۹) الباس ماخذ: کسی چیز کو ماخذ پہنچانا۔
 (۱۰) بلوغ: ماخذ میں آنا یا ماخذ میں پہنچنا۔
 (۱۱) تجب: ماخذ سے پچنا۔

باب تفعیل

- (۱) ابتدا: جیسے کَلَّمَ. اس نے کلام کی (مجرد کلمہ زخمی کرنا) (۵)
 (۲) الہاس ماخذ: جیسے جلل الہرس. اس نے گھوڑے کو جھول پھرائی۔ (۹)
 (۳) بلوغ: جیسے خیم. وہ خیمہ میں آیا۔ (۱۰)
 (۴) تحویل: جیسے نَصَرَ. اس نے نصرانی بنایا۔ (۱۳)
 (۵) تخلیط: جیسے ذَهَبَ. اس نے سنہری بنایا۔ (۱۴)
 (۶) تصحیر: جیسے وَتَرَ الْقَوْسَ. اس نے کمان کو زہ دار بنایا۔ (۲)
 (۷) تعدیہ: جیسے فَرَّخْتَنِي. اس نے مجھے خوش کیا۔ (۱)
 (۸) سلب: جیسے فَرَدَ الْإِبِلَ. اس نے اونٹ سے چھڑی کو دور کیا۔ (۲۳)
 (۹) صبروت: جیسے نَوَّرَ الشَّجَرُ. درخت گھونڈ دار ہو گیا۔ (۲۴)
 (۱۰) قصر: جیسے هَلَّلَ. اس نے لالہ الا اللہ کہا۔ (۲۶)
 (۱۱) مبالغہ: جیسے جَوَّلَ. وہ بہت گھوما (۲۹)
 (۱۲) نسبت بماخذ: جیسے فَسَّقَنِي. اس نے مجھے بدکار کہا۔ (۳۲)

باب مفاعله

- (۱) اشتراك: جیسے قَاتَلَ زَيْدٌ عَمْرًا. زید نے عمرو سے مقاتلہ کیا اور عمرو نے زید سے (۷)
 (۲) موافقت مجرد: جیسے سافر بمعنى سفر۔ موافقت أَعْلَلَ: جیسے بَاعَهُ تَبَهُ بمعنى أَبْعَدْتَهُ موافقت فَعَّلَ: جیسے صَاعَفَ بمعنى ضَعَفَ (۳۱)

باب تفعیل

- (۱) ابتدا: جیسے تَكَلَّمَ. اس نے کلام کیا۔ (۵)
 (۲) احماز: جیسے تَوَسَّدَ الْحَجْرَ. اس نے اپنے پتھر کو تکیہ بنایا۔ (۶)
 (۳) تجب: جیسے تَنَاثَمَ. اس نے گناہ سے پرہیز کیا۔ (۱۱)
 (۴) تحول: جیسے تَنَصَّرَ. وہ نصرانی ہو گیا۔ (۱۲)
 (۵) تعمل: جیسے تَخْتَمَ. اس نے گٹھنی پہنی۔ (۱۹)
 (۶) تدریج: جیسے تَجَرَّعَ. اس نے گھونٹ کر کے پیا۔ (۱۷)
 (۷) تکلف: جیسے تَشَجَّعَ. وہ بہادر بنا۔ (۲۰)
 (۸) صبروت: جیسے تَمَوَّلَ. وہ مالدار ہو گیا (۲۴)

- (۲۶) قصر: اختصار کے لیے کسی کلمہ کا مرکب سے اشتقاق کے طور پر بنانا۔
 (۲۷) لزوم و علاج: فعل میں جو ارج یعنی اعضاء کے کام کا اثر پایا جاتا۔
 (۲۸) لیاقت: کسی چیز کا ماخذ کے لائق ہونا۔
 (۲۹) مبالغہ: کسی امر کی کیفیت یا اس کی مقدار کی زیادتی کو بیان کرنا۔
 (۳۰) مطاوعت: ایک فعل کے دوسرے فعل کو لانا جس سے ظاہر ہو کہ مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کر لیا۔
 (۳۱) موافقت: کسی فعل کا ہم معنی ہونا۔
 (۳۲) نسبت بماخذ: کسی چیز کا ماخذ سے منسوب ہونا۔
 (۳۳) اعطاء ماخذ: مبالغہ دینا۔
 (۳۴) تشارك: دو چیزوں کا فعل کے صدور میں شریک ہونا۔

باب افعال

- (تعریف کے لیے سامنے لکھے ہوئے نمبر کو دیکھو)
 (۱) ابتدا: جیسے أَشْفَقَ وَهُوَ ذُرْغِيَا (مجرد شفق = مہربانی کرنا) (۵)
 (۲) بلوغ: جیسے أَغْرَقَ. عراق میں کاہنچا۔ (۱۰)
 (۳) تصحیر: جیسے أَشْرَكَ النَّعْلَ. اس نے تسمہ دار جو بنا یا۔ (ماخذ شرک بمعنی تسمہ) (۲)
 (۴) تعدیہ: جیسے اخرج = نکالا۔ (۱)
 (۵) تعریض: جیسے أَبْعَثَ الْحِمَارَ = میں گدھے کو بیچنے کی جگہ لے گیا۔ (۳)
 (۶) صیونت: جیسے أَحْصَدَ الزَّرْعَ = کھیتی کے کٹنے کا وقت آ گیا۔ (۲۲)
 (۷) لیاقت: جیسے أَلَامَ الْفَرْعَ. سردار قابل ملامت ہوا۔ (۲۸)
 (۸) سلب: جیسے أَفْجَيْتَهُ = میں نے اس کی شکایت دور کی۔ (۲۳)
 (۹) صبروت: جیسے أَلْبَنَ الْبَقْرَ. گائے کو دودھ والی ہو گئی (۲۴)
 (۱۰) مبالغہ: جیسے أَنْصَرَ النَّخْلَ. کھجور کے درخت میں بہت سی کھجوریں لگیں۔ (۲۹)
 (۱۱) نسبت بماخذ: جیسے أَكْفَرْتَهُ. میں نے اسے کفر سے نسبت دی۔ (۳۲)
 (۱۲) وجدان: جیسے أَبْخَلْتَهُ. میں نے اسے بخیل پایا۔ (۴)
 (۱۳) موافقت: مجرد جیسے أَقْلْتُ الْبَيْعَ بمعنی قَلْتَهُ یعنی فسختہ (۳۱)

باب استفعال

- (۱) طلب: جیسے استطعمته میں نے اس سے کھانا طلب کیا (۲۵)
 (۲) لیاقت: جیسے استرفع الثوب کپڑا قابل بیوند ہوا۔ (۲۸)
 (۳) وجدان: جیسے استکرمته میں نے اسکو کرم سے متصف پایا۔
 (۴)
 (۴) حبان: جیسے استحسننتہ میں نے اس کو اچھا گمان کیا (۳۱)
 (۵) تحول: جیسے استحجر الطین مٹی پتھر بن گئی (۱۲)
 (۶) احتجاز: جیسے استوطن القرى اس نے دیہاتوں کو وطن بنا لیا
 (۶)
 (۷) تکلف: جیسے استعجرا اس نے جرات دکھائی۔ (۳۰)
 (۸) تصر: جیسے استرجع اس نے انا لله و انا اليه راجعون
 کہا۔ (۲۶)
 (۹) مطاوعت افضل: جیسے اقمته فاستقام میں نے اسے سیدھا کر
 وہ سیدھا ہو گیا۔ (۳۰)
 (۱۰) موافقت مجرد: جیسے قرو استقر (۳۱)
 موافقت افضل: جیسے اجاب و استجاب (۳۱)
 (۱۱) ابتدا: جیسے استعان زیر ناف کے بال کاٹے (۵)

باب افعلال

- (۱) مبالغہ: جیسے استوقى الليل رات بہت تاریک ہو گئی (۲۹)
 فائدہ: اکثر یہ باب الوان و عیوب کے لیے آتا ہے جیسے ابيض
 احوال اور ہمیشہ لازم ہوتا ہے۔

باب افعیعال

- (۱) مبالغہ: جیسے اخذ وذب بہت کڑا ہو گیا۔ (۲۹)
 (۲) موافقت مجرد: جیسے اخلونى التمر یعنی خلا (۳۱)

باب افعوال

- (۱) مبالغہ: جیسے اجلو ذ وہ بہت تیز دوڑا۔ (۲۹)

باب افعیلال

- (۱) مبالغہ: جیسے احمأ بہت سرخ ہوا۔ (۲۹)
 یہ باب الوان و عیوب کے لیے مخصوص ہے۔

- (۹) مطاوعت فعل: جیسے علمته فتعلم میں نے اسے سکھایا اور وہ
 سیکھ گیا۔ (۳۰)

باب تفاعیل

- (۱) ابتداء: جیسے تبارک اللہ اللہ بڑی برکت والا ہے (مجرد
 برک۔ اونٹ کا بیٹھنا) (۵)
 (۲) تشارك: جیسے نشانما دونوں نے ایک دوسرے کو گالی دی۔
 (۳۳)
 (۳) تحیل: جیسے تمارض اس نے اپنے آپ کو مریض ظاہر کیا
 (۱۶)
 (۴) مطاوعت فاعل: جیسے باعدنه فتباعا میں نے اسے دور کیا
 سو وہ دور ہو گیا۔ (۳۰)

باب انفعال

- (۱) ابتدا: جیسے انطلق وہ گیا (مجرد مطلق) (۵)
 (۲) لزوم و علاج: جیسے انكسر وہ ٹوٹ گیا۔
 مطاوعت فعل: جیسے كسرتہ فانكسر میں نے اسے توڑا وہ
 ٹوٹ گیا۔
 مطاوعت افعال: جیسے اغافى الباب انما لقی اس نے
 دروازہ بند کیا اور وہ بند ہو گیا۔ (۳۰)
 فائدہ: باب انفعال ہمیشہ لازم ہوتا ہے متعدی نہیں آتا اور ہمیشہ ایسے معانی
 کے لیے آتا ہے جن کا تعلق اعضاء ظاہری سے ہو۔

باب افتعال

- (۱) احتجاز: جیسے احتجز الفار چوہے نے مل بنایا۔ (۶)
 (۲) تخمیر: جیسے اكنال الشعير اس نے اپنے لیے جوٹا پے (۱۵)
 (۳) تصرف: جیسے اكتسب الفندل اسے کوشش کر کے نصیبت
 حاصل کی۔ (۱۸)
 (۴) مطاوعت فعل: جیسے غممنه فاعتم میں نے اسے غمگین کیا اور
 وہ غمگین ہوا۔ (۳۰)
 (۵) طلب: جیسے اکتد فلانا اس نے فلاں سے مشقت طلب کی۔
 (۲۵)
 (۶) موافقت فعل: جیسے اجتذب بعتی جذب
 (۷) موافقت تفاعل: جیسے اختصم بعتی اختصم (۳۱)

باب تفعّل

- (۱) مطاوعت: جیسے ذَخْرَجْتَهُ فَتَدَخَّرَجَ میں نے اسے لڑھکا دیا وہ لڑھک گیا۔ (۳۰)
- علامہ صرف کے نزدیک ان کے علاوہ اور بھی فوائد ہیں جن کو تفوییل کے خوف سے نظر انداز کر دیا گیا۔
- اور ان ابواب مزید فہم کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہر مجرد سے بنالیا جائے بلکہ اس کا مدار سماع اور کتب لغت پر ہے۔

مشتقات

- فعل سے جو اسم مشتق ہوتے ہیں وہ دس ہیں (۱) مصدر (۲) اسم مرۃ (۳) اسم نوع (۴) ظرف مکان و ظرف زمان (۵) اسم آلہ (۶) اسم فاعل (۷) اسم مفعول (۸) صفت مشبہ (۹) اسم تفضیل (۱۰) مبالغہ۔

مثلاً مجرد کے مصادر قیاسی نہیں ان کے بہت سے اوزان ہیں اور ان کا مدار سماع پر ہے لیکن یوں ضبط میں لایا جاسکتا ہے کہ عموماً:

- (۱) جو پیشہ کے معنی پر دلالت کرتے ہوں ان کا وزن فاعل ہے جیسے زراعة تجارة حياكة
- (۲) جو اشتناع کے معنی پر دلالت کرتے ہوں ان کا وزن فعال ہے۔ جیسے آباء شراد جماع
- (۳) جو اضطراب کے معنی پر دلالت کرتے ہوں ان کا وزن فعلان ہے جیسے غلّیان، جولان، حفقان

(۴) جس کی دلالت امراض پر ہو ان کا وزن فعال ہے جیسے صداع زكام دوار

(۵) اس کی دلالت سیر پر ہو ان کا وزن فعال اور فعیل ہے جیسے رجیل و ذمیل

(۶) جن کی دلالت آواز پر ہو ان کا وزن فعال اور فعیل ہے جیسے صراخ خوار زئیر نینیم

(۷) جن کا مدلول رنگ ہو ان کا وزن فاعل ہے جیسے حمرة رزقة خضرة

اور اگر ان معانی پر دلالت نہ ہو تو عموماً:

(۱) فعل کا مصدر فَعُولٌ اور فَعَالٌ کے وزن پر آتا ہے جیسے سَهْوَةٌ نَبْهَةٌ فَصَاحَةٌ

(۲) فعل لازمی کا مصدر فَعَلْتُ کے وزن پر ہے جیسے فَرَحٌ عَطَشٌ

بَلَجٌ

(۳) فعل لازمی کا مصدر فَعُولٌ کے وزن پر جیسے فَعُولَةٌ خُرُوجٌ

نُهُوضٌ

(۴) فَعُولٌ اور فَعَلٌ کے وزن پر جیسے فَهْمٌ نَضْوٌ

غیر ثلاثی کے مصادر

ثلاثی کے علاوہ سارے مصادر قیاسی ہیں۔ فَعَلٌ کا مصدر تَفَعَّلٌ ہے جیسے قَبِلَ تَقْبِيلاً اور تَفَعَّلَ تَفَعُّلاً کے وزن پر بھی آتا ہے مگر کم جیسے وَسِعَ تَوْسَعَةٌ قَدَّمَ تَقَدُّمًا مگر ہمز اللام ہو تو تَفَعَّلَ کا وزن زیادہ اور تَفَعَّلٌ کم آتا ہے جیسے نَبَأْتِنْبِئَةً وَعَاطَتْ طَيْفَةً هُنَّا تَهْنِئَةً اور اگر ناقص ہو تو صرف تَفَعَّلَ ہی کا وزن آتا ہے۔ جیسے حَلَى تَحْلِيَةً زَكَى تَزْكِيَةً اور اگر اجوف ہو تو صرف تَفَعَّلٌ ہی کا وزن آتا ہے جیسے قَوَّيْمًا سَوَّدَ تَسْوِيْدًا

فَاعِلٌ کا مصدر فَعَالٌ ومفاعله جیسے قَاتَلَ قِتَالًا وَمُقَاتَلَةٌ ہے لیکن جن مواد میں فاء مکملہ یا ہ ہو وہاں مُفَاعَلٌ کا وزن متین ہے جیسے يَأْسِرُ مَيَاسِرَةً يَأْمَنُ مَيَآمَنَةً بَاوَمَ مَيَآمَمَةً وَيُوَاطِّئُ

أَفْعَلٌ کا مصدر اِفْعَالٌ ہے جیسے أَكْرَمَ إِكْرَامًا اور اگر عین مکملہ میں حرف علت ہو تو اس کی حرکت ماقبل کو نقل کر کے الف سے بدل دیتے ہیں وہ الف کے جمع ہونے کی وجہ سے ایک کو حذف کر دیتے ہیں اور اس کے عوض میں آخر میں تاء بڑھا دیتے ہیں جیسے امات، اماتة، اغاث اغاثة اشار اشارة

تَفَعَّلٌ کا مصدر تَفَعَّلٌ اور تَفَاعَلٌ تَفَاعُلًا ہے لیکن ان دونوں میں جب لام مکملہ حرف علت ہو تو یا ہ سے بدل کر ماقبل کو کسرہ دیتے ہیں جیسے تَأَنَّى تَأَنِيًّا تَغَاضَى تَغَاضِيًّا

اِفْعَلٌ کا مصدر اِفْعَالٌ، اِنْفَعَلٌ کا اِنْفَعَالٌ اِفْعَوْعَلٌ کا اِفْعِيْعَالٌ اور اِفْعَالٌ ہے جیسے اشترك اشتراكا. انطلق اِنْطِلَاقًا اِحْدَوْدَبَ اِحْدَوْدَبًا اِحْدَوْدَبًا اِسْوَدَّ اِسْوَدَادًا

اِسْتَفْعَلٌ کا مصدر اِسْتَفْعَالٌ ہے لیکن عین مکملہ حرف علت ہو تو الف سے بدل کر حذف کر دیتے ہیں اور آخر میں تاء بڑھا دیتے ہیں جیسے اِسْتَفْعَامٌ اِسْتَفْعَامَةٌ

فَعَلٌ کا مصدر فَعَلْنَا اور فَعَالٌ ہے جیسے ذَخَّرَجَ ذَخْرَجَةً وَذَخَّرَ اِحْدَوْدَبًا اور ان صرف مضاعف ہونے کی صورت میں قیاسی ہے ورنہ ساقی جیسے وَسَوَّسَ وَسَوَّسًا وَسَوَّاسًا

تَفَعَّلٌ کا تَفَعَّلٌ اِفْعَلٌ اِفْعَالًا اِفْعَالٌ ہے جیسے

عمرو، میں اعطی سے اور ”هذا السفر اخصر من ذاك“ میں اخصر، اخصر سے ماخوذ ہے اور کبھی اسم جامد سے بھی آتا ہے جیسے ”ماہا لبادیة انوا منہ، مثل انواء“ نوء سے ماخوذ ہے جس کے معنی بختر کے ہیں۔

خیر و شر اصل میں اخصر اور اشر تھے۔ کثرت استعمال کی بنا پر دونوں سے ہمزے ساقط ہو گئے کبھی اصل کے لحاظ سے مع ہمزہ کے بھی آتے ہیں۔

اوزان مبالغہ

مبالغہ وہ ہے جو موصوف کی زیادتی صفت پر دلالت کرے اس کے مشہور وزن یہ ہیں:

فَعَالٌ جِيسَ عَلَامٍ. نَصَارٌ. فَعَالَةٌ جِيسَ عَلَامَةٍ وَ فَهَامَةٌ. فَعِيلٌ جِيسَ صِدِّيقٍ وَ سَكْبِيرٌ. مَفْعِيلٌ جِيسَ مَسْكِينٍ وَ مِعْطِيزٌ. مَفْعَالٌ جِيسَ مَكْسَالٍ وَ مَقْدَامٌ. فَعَلَةٌ جِيسَ ضَحْكَةٍ وَ ضَجْعَةٌ. فَعَلٌ جِيسَ شَرَةٍ وَ حَوْرٌ. فَعِيلٌ جِيسَ رَجِيمٍ وَ عَظِيمٌ. فَعُولٌ جِيسَ كَذُوبٌ. وَ دُوْدٌ. فَاعِلَةٌ جِيسَ رَاوِيَةٍ. فَعَلٌ جِيسَ غَفْلٌ. فَعُولَةٌ جِيسَ فَرُوقَةٍ. مَفْعَلٌ جِيسَ مِعْرُوبٌ. فَاعُولٌ جِيسَ فَارُوقٌ. فَعَالٌ جِيسَ كَيْبَارٌ. مبالغہ اوزان سامی ہیں اور صرف ثلاثی مجرد سے آتے ہیں لیکن ذراکی، اذکرک سے۔ معطاء اعطی سے۔ مہوان اہان سے و بحسان۔ احسن سے۔ متلائق اتلف سے متلائق۔ املق سے مخالفت۔ اخلف سے اور سمیع اسمع سے۔ نذیر اندر سے۔ زھوق۔ ازھق سے شاذ ہیں۔

تنبیہ

(۱) بعض الفاظ مبالغہ میں تا، تا تانیف کے لیے نہیں بلکہ تاکید مبالغہ کے لیے ہے جیسے علامہ، فہامہ
(۲) فعلیل اگر فاعل کے معنی میں ہو تو مذکر و مؤنث میں فرق کیا جائے گا۔ خواہ موصوف کا ذکر ہو یا نہ ہو جیسے ”رجل نصیر“ امرأة نصیرہ“۔ ”جاء نصیر و نصیرہ“
(۳) فعلیل اگر مفعول کے معنی میں ہو تو موصوف کے ساتھ مذکر و مؤنث میں ایک ہی حالت میں ہوگی جیسے ”زید قتیل“۔ و اتت المرأة جریحا اور بغیر موصوف کے فرق کیا جائے گا جیسے جاء حبیب و حبیبہ
(۴) فاعول اگر فاعل کے معنی میں ہو تو موصوف کے ساتھ مذکر و مؤنث دونوں میں ایک ہی جیسے یحییٰ البتول، مریم البتول اور

جہول کے وزن پر علامت مضارع کے بجائے ميم مضموم لگانے اور ما قبل آخر کو متوج کر دینے سے بنتا ہے جیسے مُقْبِلٌ. مُكْرَمٌ. مُدْخَرٌ. تنبیہ: (۱) قیاس کا تقاضا ہے کہ اسم فاعل اور اسم مفعول کا اشتقاق اپنے ہی فعل سے ہو خواہ مجرد ہو خواہ مزید۔ لیکن کچھ الفاظ بطور شذوذ کے دوسرے سے مشتق ہیں۔ مثلاً اَمْحَلٌ سے مَاحِلٌ. اَمْلَحٌ سے مَالِحٌ. اَبْفَعٌ سے يَابِعٌ. اَعْشَبٌ سے عَاشِبٌ. اَحْبَدٌ سے مَحْبُوبٌ. اُجْنَهُ سے مَجْنُونٌ. حَمْدٌ سے مَحْمُومٌ. اَزْكَمْتُ سے مَزْكُومٌ. اَسَلْتُ سے مَسْئُولٌ.

(۲) اسم مفعول مصدر می طرف زمان و مکان ثلاثی مجرد کے علاوہ دوسرے ابواب سے سب ایک ہی وزن پر آتے ہیں۔ امتیاز قرآن کی بناء پر ہوتی ہے۔

صفت مشبہ

صفت مشبہ وہ ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس میں صفت بطور ثبوت کے ہو۔ ثلاثی سے اس کے اوزان سامی ہیں مثلاً حَسَنٌ، كَرِيمٌ، لَيِّنٌ، سَهْلٌ، صَعْبٌ، لَقِيَانٌ، غَضَبَانٌ، كَسُولٌ، عَطِشِيٌّ، رُوْفٌ گر مادہ کی دلالت لون یا عیب یا حلیہ پر ہو تو اس کے لیے وزن الفعل کا ہے جیسے اَسْوَدٌ، اَعْرَجٌ، اَبْلَجٌ اور ثلاثی مجرد کے علاوہ دوسرے ابواب سے اسم فاعل کے وزن پر آتا ہے اور صفت مشبہ صرف ابواب لازمہ سے آتا ہے جیسے مطمئن، مستقیم

اسم تفضیل

اسم تفضیل وہ ہے جو بہ نسبت دوسرے کے موصوف کی صفت کی زیادتی پر دلالت کرے اس کو فعل التفضیل بھی کہتے ہیں۔ مذکر کا وزن الفعل کا اور مؤنث کا وزن۔ فَعْلَانِيٌّ کا مقرر ہے اور صرف ثلاثی مجرد کے ابواب سے بنتا ہے اور وہ مادے جو رنگ، عیب یا حلیہ پر دلالت کرتے ہوں ان سے اسم تفضیل کا صیغہ نہیں آتا بلکہ اسی وزن پر صفت کا صیغہ آتا ہے۔ وہ ابواب یا وہ مادے جن سے اسم تفضیل کا صیغہ الفعل کے وزن پر نہیں آ سکتا ان سے اسم تفضیل کے معنی کو ظاہر کرنا ہو تو اس کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ لفظ اشد یا اکثر یا انہی جیسے الفاظ کے بعد اس باب کا مصدر منصوب استعمال کرتے ہیں اشد سواذًا. اشد استخراجا اسم تفضیل کا صیغہ معروف سے اور ثلاثی مجرد سے بنا کرتا ہے لیکن بعض الفاظ بطور شذوذ کے جہول اور ابواب غیر ثلاثی سے آتے ہیں مثلاً ”العود احمد“، مثل احمد، حمد سے اور ”حاتم اعطی من

ہوا کے لیے جو اسم ہیں (مثلاً صبا، قبول، جنوب، دبور، شمال، ہیف، حرور، سموم، صرصر، نکباء) وہ بھی مؤنث ساجی ہیں ابن الانباری فرماتے ہیں الريح مؤنثة لا علامة فیہا و كذلك سائر اسمائها الا الاعصار فانہ مذکر

ان کے علاوہ کچھ اسم ہیں جن میں تذکیر و تانیث دونوں جائز ہیں ان میں سے مشہور یہ ہیں: ابط، ابھام، ازار، بلد، جراد، حال، ہانوت، خمر، درع، دلو، روح، زقاق، سبیل، سری، سراویل، سلاح، سکین، سلم، سلم، سماء، سوق، صاع، ضحیٰ، طرس، طریق، عجز، عضد، عقاب، عقرب، عنق، عنکبوت، فردوس، فرس، فہر، قدر، قفا، قمیص، کبد، السان، مسک، ملح، منجیق، موسیٰ، نفس، وراء، انہی کے ساتھ حروف تہجی کے اسم بھی لاحق ہیں۔

ثنیٰ

ثنیٰ وہ اسم ہے جو دو پر دلالت کرے۔

کسی اسم کو ثنیٰ بنانا ہو تو اس کے آخر میں حالت رثیٰ میں الف اور حالت نصیٰ و جریٰ میں یاء ماقبل متزوج اور دونوں حالتوں میں نون کنسور لائیں گے۔ جیسے "جاء الرجلان" رایت الرجلین و مورت بالرجلین۔

اگر کوئی علم مرکب اضافی ہو تو جزء اول یعنی مضاف کو ثنیٰ لائیں گے جیسے "عبدالاحد، عبدالرحمن"

اور اگر مرکب بتائی یا مرکب اسادی ہو تو اپنی حالت پر رہیں گے اور ان سے پہلے مذکر میں ذوا اور مؤنث میں ذوات لائیں گے۔ جیسے ذوا معدی کوب، ذواتا بعلبک

اسم مقنوس (یعنی وہ اسم معرب جس کے آخر میں یاء ماقبل کنسور ہو جیسے القاضی) میں اگر یاء حذف ہوگی ہو تو ثنیہ کی حالت میں پھر لوٹ آئے گی جیسے رام رامیان، داغ داعیان۔

اسم مقنوس (یعنی وہ اسم معرب جس کے آخر میں الف ہو اور اس کے بعد ہمزہ نہ ہو جیسے عصا، رحی) میں اگر الف تیسری جگہ ہو اور کسی سے بدل کر آیا ہو تو ثنیہ بنانے کی حالت میں تو اصل کی طرف لوٹ جائے گا جیسے عصا سے عصوان، فتی سے فتیان۔

اور اگر چٹھی جگہ یا اس سے زائد ہو تو یاء سے بدل جائے گا جیسے ذکریان، قہقرآن، خوزلیان شاذ ہیں، قیاس کا تقاضا تھا کہ قہقہریان، خوزلیان ہوتے۔

موصوف ہو یا نہ ہو جیسے "هذا رسول و تلک رسولہ۔ و جاء رسل و رسولہ"

مذکر و مؤنث

اسم مذکر میں کسی علامت کی ضرورت نہیں۔ مؤنث کی تین علامتیں ہیں۔ تاہم جیسے ظلمة، قوة، نعمة، قدر، قالف مقصورہ جیسے عذری، فضلی، کبریٰ، عظمتی لف ممدودہ جیسے حمراء، سوداء، بیضاء، زرقاء

یہ تینوں علامتیں اسم کے آخر میں زائد ہوتی ہیں ہر وہ اسم جس کے آخر میں ان تینوں علامتوں میں سے کوئی ایک ہو وہ مؤنث ہے لیکن وہ اسم جو مردوں کے نام ہوں مذکر ہی رہتے ہیں اگرچہ ان کے آخر میں ان علامات میں سے کوئی علامت ہو جیسے طلحة، نخلہ، ارطی وغیرہ۔

مؤنث کی دو قسمیں ہیں مؤنث لفظی، مؤنث معنوی، مؤنث لفظی وہ ہے جس میں علامت تانیث پائی جائے جیسا کہ اوپر کی مثالوں سے ظاہر ہے۔

مؤنث معنوی وہ ہے کہ جس میں کوئی علامت تانیث نہ ہو اور اسے اہل زبان مؤنث مانتے ہوں۔

وہ سارے اسم جو مؤنث کے اعلام ہوں جیسے مریم، زینب وغیرہ یا وہ اسم جو طبقہ اثاث کے ساتھ مختص ہوں، جیسے اخت، ام وغیرہ یا وہ سارے اسم جو شہر اور قبیلہ کے نام ہوں جیسے شام، مصر، قریش وغیرہ۔ یا اعضاء انسانی میں سے تمام وہ اعضاء جو دو دو ہوں سب مؤنث معنوی ہیں لیکن اخیر کا حکم اکثری ہے اس لیے کہ صدغ، مزلق، حاجب، خد، مؤنث نہیں۔

ان کے علاوہ کچھ اور بھی الفاظ مؤنث ہیں جن کو اکثر لغت نے صحیح کیا ہے۔ (مولانا ذوالفقار احمد صاحب بھوپالی مرحوم و منقول کی کتاب المبتکر فی ما یعلق بالمؤنث والمذکر اس سلسلہ میں بہت جامع کتاب ہے) یہاں پر سارے کا استقصاء تو بہت دشوار ہے مشہور اسماء درج ذیل ہیں:

اتان، اذن، ارض، ارنب، اروی، است، اصبع، الفعی، الفق، بئر، باع، بنصر، ثعلب، جحیم، جہنم، حرب، خنصر، دار، دبر، ذراع، رجل، رحی، ریح، سعیر، سقر، سن، ساق، شمس، شمال، ضبع، عروض، عصا، عقب، عین، غول، فاس، فخذ، فلک، قدم، قدوم، قوس، کاس، کنتف، کرش، کف، نار، نعل، ناب، ورك، ید، یمین، ینبوع

معدیکرب اوہلبک وغیرہ میں یہ وزن نہیں آئے گا بلکہ جمع بنانا ہوتا
لفظو کی جمع بنا کر اس کلمہ کی طرف اضافت کریں گے مثلاً ذو و معدی
کرب، ذو و بعلبک۔

اور اگر صفت ہو تو شرط یہ ہے کہ مذکر ہو ذوی العقول میں سے ہو
ادلفعل فعلاء لعلان فعلی کے وزن پر نہ ہو اور ایسا اسم بھی نہ ہو
جس میں مذکر مؤنث دونوں برابر ہوں جیسے جریح و صبور اور ایسا
بھی نہ ہو کہ تاء تانیث سے التباس کا خوف ہو جیسے علامہ کچھ ایسے اسماء
ہیں کہ ان میں شرطیں نہیں پائی جاتیں مگر جمع مذکر سالم کے وزن پر ان کی
جمع آتی ہے۔ مثلاً رضون، عالمون، علیون، اهلون، بنون،
سنون اور اسی طرح ہر وہ کلمہ ثلاثی جس کا لام کلمہ حذف کر دیا گیا ہو اور
اس کے عوض میں تاء لایا گیا ہو اس کی جمع بھی واؤ نون سے آتی ہے جیسے
عضون، سبون، منون

جمع مؤنث سالم

جمع مؤنث سالم وہ ہے کہ جس کے آخر میں الف و تاء کی زیادتی
ہو جیسے کموات و شجوات۔ اگر مفرد کے آخر میں پہلے ہی سے تاء ہو تو
جمع بناتے ہوئے اس کو حذف کر دیتے ہیں جیسے سطلبات،
مسلمة، کسلمات

اس وزن پر متعدد جزیل اسماء کی جمع آتی ہے۔

(۱) ہر وہ اسم جس کے آخر میں تاء ہو جیسے ثمرة، کسمرات،

شجرة، کسجرات، امراة، شاة، قلة، أمة، ملة شفة
اس سے مستثنیٰ ہیں۔

(۲) ہر وہ اسم جو مؤنث کا علم ہو جیسے زینب، کسریبات، مریم

کسریبات

(۳) ہر وہ اسم جو مصدر ہو اور تین حرف سے زائد ہو جیسے کسریفات

اختیارات، امتیازات۔

(۴) ہر وہ اسم جس کے آخر میں الف تانیث مقصورہ یا ممدودہ ہو۔

جیسے صحراء، کسحراوات، حمی، کسحمیات،

اور ان اسماء مقصورہ یا ممدودہ میں الف کی تبدیلی یا ہاقا کے تعلق وہی

صورتیں اختیار کی جائیں گی جن کا ذکر قرآن میں ہو چکا ہے۔ اسماء مذکورہ بالا
کے علاوہ میں اس وزن پر جمع کا آنا سہمی ہے جیسے سماوات،

ارضات، سجات، حمامات، سرداقات، شمالات، امہات،

سراویلات وغیرہ۔
الفاظ مجہ میں سے بعض کی جمع اسی وزن پر آتی ہے جیسے تفرافات

اس ممدودہ (یعنی وہ اسم معرب جس کے آخر میں ہمزہ ہو اور اس
سے پہلے الف زائدہ ہو جیسے صحراء، خضراء) میں الف اگر تانیث
کے لیے ہو تو ہمزہ کو واؤ سے بدل لیں گے جیسے صحراء سے
خضراوان۔ بشرطیکہ الف سے پہلے واؤ نہ ہو اور اگر ہو تو ہمزہ کا باقی رکھنا
ضروری ہوتا کہ دو واؤ جمع نہ ہو جائیں۔ جیسے صحراء صحراء ان
اور اگر ہمزہ اصلی ہو تو اس وقت بھی باقی رکھنا ضروری ہے جیسے
للااء، سلااء ان، قراء، سقراء ان۔

اور اگر ہمزہ نہ تو اصلی ہو اور نہ تانیث کے لیے تو دونوں صورتیں
جائز ہیں، ہمزہ کو واؤ سے بدلنا بھی اور باقی رکھنا بھی جیسے سماء سے

سمااء ان اور سماوان
ایسے اسماء جن کا لام کلمہ محذوف ہو اور اس کے عوض میں کچھ نہ ہو تو
ثنیہ بنانے میں لام کلمہ واپس آئے گا جیسے اب، کہ اصل میں ابو تھا
ثنیہ کی حالت میں ابوان ہوگا ایسے تلخوان، حموان، غدوان لیکن
فہ اوید میں واپس نہیں آئے گا عثمان اور یدان ہی کہا جائے گا۔

اور ایسے اسماء جن کے محذوف کے عوض میں کچھ ہو تو ثنیہ اپنی

حالت پر بنایا جائے گا مثلاً ثنیہ، ابن، اسم بیلستان، ابنان، اسمان
کہیں گے۔ کچھ ایسے اسماء ہیں جن کا ثنیہ نہیں آتا۔ مثلاً بعض، اجمع،
جمعا، کل، اصعوب، دیار اور اسماء ممدودہ اور اسم تفضیل جس کا استعمال

من سے ہو جیسے لیدان الفضل من الرجالین۔

جمع

جمع کی دو قسمیں ہیں جمع سالم اور جمع مکسر۔ جمع سالم وہ ہے جس
میں واحد کا وزن باقی رہے زیادتی جو کچھ ہو وہ آخر میں اور جمع مکسر وہ ہے
جس میں واحد کا وزن باقی نہ رہے کچھ نہ کچھ تغیر ہو جائے جمع سالم کی دو
قسمیں ہیں جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم۔

جمع مذکر سالم

جمع مذکر سالم وہ ہے جس میں کلمہ کے آخر میں حالت رفعی میں واؤ

ماقبل مضموم اور حالت نھی و جری میں یاہ ماقبل مکسور اور ان دونوں کے

بعد نون ہو جیسے "جاء مسلمون رأیت مسلمین و مررت

بمسلمین"

اس وزن پر جمع بنانے کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر اسم محض ہو صفت کے

معنی ملحوظ نہ ہوں تو تاء تانیث سے خالی ہو اور مرکب نہ ہو۔ اسی لیے طلحة

باوجودیکہ مذکر کا علم ہے مگر واؤ نون سے جمع نہیں آئے گا اسی طرح

ساکن ہو جیسے مساجد، مناہر، اناعم، قنادیل
(تنبیہ) جمع قلت پر الف لام استغراق داخل ہو یا ایسی چیز کی
طرف اضافت ہو جس کی دلالت کثرت پر ہو تو کثرت کا فائدہ دیتی ہے
جیسے ایہا الشیوخ لا تکتونوا کالفیتیة۔ احفظوا انفسکم
جمع کثرت وہ ہے جو تین سے زیادہ الی غیر النہایہ کے لیے
استعمال ہوتی ہے۔ اس کے اوزان بہت ہیں، صرف چند قیاسی ہیں جن کا
ذکر آگے آئے گا۔ جمع سالم کی دونوں قسمیں بعض کے نزدیک جمع قلة
فائدہ دیتی ہیں اور بعض کے نزدیک مطلق جمع کا بغیر قلت و کثرت کا لحاظ
کیے ہوئے جس کا مآل یہ ہے کہ قلت و کثرت دونوں کا فائدہ دیتی ہیں۔

جمع کثرت کے قیاسی اوزان

- (۱) فَعْلٌ فَعْلًا جمع جیسے عَلْبٌ جمع عَلَبٌ۔ صور کا جمع
صور صُرُوفٌ جمع صُرُودٌ
- (۲) فَعْلٌ فَعْلًا جمع جیسے قَطَعْنَا جمع قَطَعْنَا لکن فَعْلًا جمع
کبھی فَعْلًا آتی ہے جیسے حَلَبْنَا جمع حَلَبْنَا۔ لَحِيكَ جمع
لَحِيءٌ۔
- (۳) فعالہ رباعی مجرد کی جمع جیسے بلبلی جمع بلابل، حندس
کی جمع حنادس اور خماسی مجرد و مزید کی جمع بھی جیسے سفر جل
کی جمع سفار بلور خندو رسی کی جمع خندارس۔
- (۴) فواعل پر ثلاثی کی جمع جس کے فاعل کے بعد واو یا الف کی
زیادتی ہو جیسے جوہر کی جمع جوہر۔ خاتم کی جمع خواتم۔
- (۵) فاعل مؤنث کی جمع جس کا تیسرا حرف مدہ ہو جیسے محفہ کی جمع
صحائف، رسالہ کی جمع رسائل۔
- (۶) اَفَاعِلُ اَفَاعِلٌ جمع (الہزہ) کی جمع اَفَاعِلُ اَصْبَحَ جمع
اَصَابِعُ اَمْلِكُ جمع اَنَامِلُ اَجْدَلُ جمع اَجْدَالُ
- (۷) اَفَاعِلُ اَفَاعِلٌ اور اَفْعُولُ جمع جیسے اسلوب کا جمع
اسالیب اجوز کا جمع او اجیز۔
- (۸) فعالیہ اس رباعی کی جمع جس کے حرف آخر سے پہلے مدہ ہو
جیسے قرطاس کی جمع قرطاسیس۔ عصفور کی جمع عصفاریہ۔
- (۹) مفاعیل مفعول اور مفعول کا جمع جیسے مَبْضِعٌ جمع مَبْاضِعٌ۔
مکنس کا جمع مکناس۔
- (۱۰) مفاعیل مفاعیل اور مفعیل مفعول کی جمع مفتاح کی جمع
مفتاحیح۔ مسکین کی جمع مساکین۔ مقدور کی جمع
مقادیر۔

اور بعض کی جمع کسر آتی ہے جیسے 'اساکل' فاعل بطارکة
کراولہ
تنبیہ: اگر کلمہ ثلاثی ہو اور اس کا عین کلمہ جمع ہو اور فَعْلًا
کے وزن پر ہو تو جمع بنانے سے عین کلمہ کو فتح دینا ضروری ہے۔ جیسے تمررة
تَمَرَاتٌ۔ رَحْمَةٌ رَحِمَاتٌ۔
اور اگر فَعْلًا فَعْلًا کے وزن پر ہو تو فتح دینا ساکن رکھنا اور فاعل
کی حرکت جیسی حرکت دینا بھی جائز ہے جیسے کِسْرَاتٌ کِسْرَاتٌ
کِسْرَاتٌ، کِسْرَاتٌ خُجْرَاتٌ خُجْرَاتٌ، خُجْرَاتٌ خُجْرَاتٌ
خُجْرَاتٌ۔

اور اگر کلمہ اجوف ہو تو عین کلمہ جمع میں ہمیشہ ساکن رہے گا خواہ فاء
کی حرکت کیسی ہی ہو جیسے جَوَزَاتٌ جَوَزَاتٌ بیعتے بیعتے۔
اور اگر ناقص ہو تو اس کا حکم وہی ہے جو جمع کا ہے جیسے رَمِيْقَةٌ
رَمِيَانَةٌ رَمِيْقَةٌ رَمِيَاتٌ رَمِيَاتٌ رَمِيَاتٌ اگر فاعل کسر اور لام
کلمہ واوی ہو تو صرف فتح دینا اور ساکن رکھنا جائز ہے اور ہم شکل فاء بنانا
جائز نہیں جو وانشاز ہے۔ اسی طرح اگر فاء مضموم ہو اور لام یا ئی ہو تو
بھی دونوں صورتیں ہوں گی اتباع جائز نہیں۔
اور اگر کلمہ مدغم ہو تو جمع بنانے سے کلمہ ادغام نہیں ہوگا۔ جیسے
ضَمَّتْ ضَمَاتٌ۔ عَزَّتْ عَزَاتٌ

جمع مکسر

اوپر بتلایا جا چکا ہے کہ جمع مکسر وہ ہے جس میں واحد کا وزن اپنی
حالت پر باقی نہ رہے کچھ نہ کچھ تغیر ہو جائے۔ اس تغیر کی تین صورتیں ہیں
کبھی تو زیادتی سے جیسے رَجُلٌ جمع رَجَالٌ۔ کبھی حذف سے جیسے رسول سے
رسل۔ کتاب سے کتب اور کبھی محض حرکت کی تبدیلی سے جیسے اَسَدٌ
اَسْدٌ۔ بَعْتُ جمع بَعْتُ۔

جمع مکسر کی دو قسمیں ہیں: جمع قلت، جمع کثرت۔

جمع قلة ہے جس سے تین سے دس تک کی تعداد معلوم ہوتی ہے
اس کے چار وزن ہیں:

- (۱) اَفْعَالٌ جیسے طِفْلٌ جمع اَطْفَالٌ۔ اَفْعَالٌ جیسے نَہْرٌ جمع نَہَرٌ۔
- (۲) اَفْعَالٌ جیسے رَغِيْفٌ جمع اَرْغِفَةٌ۔ فَعْلَانٌ جمع فَعْلَانٌ۔ فَعْلَانٌ جمع فَعْلَانٌ۔
- (۳) اَفْعَالٌ کی دوبارہ جمع اَفَاعِلٌ کے وزن پر ہے جیسے اِنْعَامٌ جمع اِنْعَامٌ۔
- (۴) اِنْعَامٌ اور اَفْعَالٌ کی جمع اَفَاعِلٌ کے وزن پر جیسے اَكْلَبٌ جمع اَكْلَابٌ آتی ہے
اس کو جمع متبئی الجموع کہتے ہیں اور اس سے مراد تمام وہ اوزان ہیں جن
میں الف جمع کے بعد دو حرف متحرک یا تین حرف ہوں اور درمیان میں یا ہ

کو یاہ سے بدل دیتے ہیں۔ جیسا حلی سحلیاء۔ ادنیٰ سے
دئی۔

کچھ صفات کے سینے ایسے ہیں جن میں تذکیر و تانیث برابر ہے اور
وہ یہ ہیں:

- (۱) فَعَالَةٌ جِيسُو جَلٌ فَهَامَةٌ اِمْرَاَةٌ فَهَامَةٌ.
- (۲) مِفْعَالٌ جِيسُو جَلٌ مِفْعَالٌ اِمْرَاَةٌ مِفْعَالٌ اَو مِيقَانَةٌ
شاذ ہے۔
- (۳) مِفْعِيلٌ جِيسُو جَلٌ مِعْطِيزٌ اِمْرَاَةٌ مِعْطِيزٌ اَو مَسْكِينَةٌ شاذ
ہے۔
- (۴) مِفْعَلٌ جِيسُو جَلٌ مِفْعَلٌ اِمْرَاَةٌ مِفْعَلٌ مِفْعَلٌ.
- (۵) فُعْلَةٌ اَو فُعْلَةٌ جِيسُو جَلٌ ضَحْكَةٌ اِمْرَاَةٌ ضَحْكَةٌ اَو اِرَاكٌ
عین کو فتح دے دیا جائے تو قاطعیت کے معنی ہوں گے جیسے
ضحکة۔ بہت ہنسنے والا حمزة۔ بہت عیب لگانے والا لُزَاة۔
بہت ٹھٹھا کرنے والا۔

(۶) فعول جو فاعل کے معنی میں او فاعیل جو مفعول کے معنی میں ہو
جیسو جل صبور، غلام قتیل، امرآة قتیل، لیکن یہ اس
وقت ہے جب کہ موصوف معروف ہو ورنہ تاء کے ساتھ فرق
کرنا ضروری ہے ہاں عدوۃ شاذ ہے۔

کبھی فاعیل جو مفعول کے معنی میں ہو یا جو معروف ہونے کے
مؤنث کو تاء کے ساتھ لاتے ہیں خاتمة سعیدة، عاقبة
حمیدة اور کبھی فاعل کے معنی میں مؤنث بخیر تاء کے
جیسو امرآة عقیم، یحیی العظام و ہی زینم۔

جو صفات کہ طبقات ہی کے ساتھ مخصوص ہیں جب معنی حدوث
کا لحاظ نہ ہو تو عموماً آخر میں تاء نہیں آتی جیسا لائق، موضع، حامل اور
حدوث کے معنی کا لحاظ ہو تو تاء آتی ہے جیسو صنعت فہی مریضة۔

صفت کی جمع

اگر صفت کا سینہ ذوی العقول کے لیے ہو خواہ مذکر خواہ مؤنث اس
کی جمع جمع سالم لاتے ہیں جیسو حال صادقون، نساء صادقات جو
صفت لفعول فعلاء، لعلان فعلی، کے وزن پر یا اسم فاعل ناقص کا یا
فعلیل بختی مفعول ہوان کے احکام جدا گانہ ہیں۔

(۱) جو صفت مفعول لفعول فعلاء کے وزن پر ہو اس کی جمع فعل کے
وزن پر آتی ہے جیسا حمور کاحمر۔ ازرق کوزرق،
اعرج کعرج، اعسی کعسی، لیکن اگر کلمہ اجوف یا بی ہوتو
فاء کو کسرہ دے دیتے ہیں عید، بیض، ہیف، عید،

اسم جمع و شبہ جمع

اسم جمع وہ ہے جس سے جمع کے معنی ظاہر ہوں اور اس کے لیے اسی
ماہ سے مفرد نہ ہو جیسو خیل، قوم، ربط، جیش۔

شبہ جمع وہ ہے جو جمع کے معنی کو ظاہر کرے اور واحد جمع میں تاء کی
وجہ سے امتیاز ہو مثلاً ذوق کہ اس کا مفرد ذوق ہے، شکر کہ اس کا واحد
شکر ہے۔ اور اسی قبیل سے وہ کہ واحد اور جمع میں یاہستی کی وجہ سے
فرق ہو جیسو لرومی، رومیوں میں کا ایک بالمجوسی، مجوسیوں میں
ایک۔ لیکن اس کا لحاظ رہے کہ پہلا غیر ذوی العقول کے لیے اور دوسرا
ذوی العقول کے لیے۔

ہر اسم جمع اور شبہ جمع کی جمع مفردات کے طرز پر آتی ہے جیسو قوم
کی جمع قوام، رفقة کی جمع رفق، نجم کی جمع نجوم اور قوم کی جمع
اروام۔

صفت

صفت ہر وہ اسم ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ
کوئی وصف ہو اس کی پانچ قسمیں ہیں۔ (۱) اسم فاعل، (۲) اسم مفعول،
(۳) صفت مشبہ، (۴) اسم تفضیل، (۵) اوزان مبالغہ۔

صفت کی تانیث

سینہ صفت کو اگر مؤنث بنانا ہو تو آخر میں نا لگا دو جیسو صادق
صادقة، عالم، عالمة، لیکن وہ صفت جفعلان یا فعل کے وزن پر یا
اسم تفضیل ہو اس کے احکام جدا گانہ ہیں۔

(۱) جو صفت کا فعلان کے وزن پر ہو اس کے لیے مؤنث فعلی

کے وزن پر آتی ہے جیسو عطشان، سعطشی، سکران
سکرئی، ظمان، سظمائی، لیکن بعض کلمات ایسے ہیں
کہ ان کی تانیث تاء کے ساتھ آتی ہے اور وہ یہ ہیں البان،
حبلان، خمصان، سخنان، صوجان، ضوجان،
قشوان، مَصَّان، موتان، ندمان، نصران اور بعض کلمات
کی تانیث فعلی کے وزن پر بھی اور تاء کے ساتھ بھی آتی ہے
جیسو عطشان، سعطشی اور عطشانة، غضبان سے
غضبی اور غضبانه۔

(۲) صفت کا سینہ جو لفعول کے وزن پر ہو اس کی تانیث لفعلاء

کے وزن پر ہو جیسو بیض، سبیضاء، اسمر، سمراء۔
(۳) اسم تفضیل کے لیے مؤنث کا سینہ فعلی ہے جیسا کرم سے
کرمی، اصغر، سمغری، لیکن اگر کلمہ ناقص وادی ہو تو واو

اکابر۔
مؤنث اسم تفضیل کی جمع سالم فعلیات کے وزن پر چسے
عظمیات، کرمیات اور جمع کسرفصل کے وزن پر چسے صغر، کثیر،
صیغہ تنہی الجوس کی جمع کسرتو نہیں آتی لیکن جمع سالم آتی ہے چسے
ضوارب کی جمع ضواریات، الماضل کی جمع الماضلون۔

نسبۃ

کسی چیز کی طرف نسبت ظاہر کرنے کے لیے اسم کے آخر میں یاء
مشدود لائق کرنے کا نام نسبت ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ ما قبل یاء کو ما نسبت
کی وجہ سے کسرہ دیا جائے چسے رجل مضروباً۔
اگر اسم ثلاثی کسور اعمین ہو تو نسبت کرتے وقت عین کو فتح دیا
جائے گا۔ مثلاً فخذ فی فخذی اور ملک فی ملک کہا جائے گا
اور اگر رباعی ہو تو فتح یہ ہے کہ عین پر کسرہ باقی رہے گا۔ جیسے مشرق میں
مشرق فی مغرب مثل مغربی یثرب مثل یشربی۔
اگر کسی ایسے اسم کی طرف نسبت ہو جس کے آخر میں تاء ہو تو اس کا
حذف کرنا ضروری ہے جیسے قاہرۃ سے قاہری۔

اگر اسم کے آخر میں تیسرا حرف الف مقصورہ ہو تو واؤ سے بدل دیا
جائے گا۔ جیسے عصا سے عَصَوِی۔ فتی سے فَنَوِی۔
اور اگر چوتھا حرف ہو الف مقصورہ اور اصل ہو تو واؤ سے تبدیلی
زیادہ ہے جیسا کہ مؤمنی سے موموی اور حذف کرنا بھی جائز ہے جیسے
مَرْبِی اور اگر اصلی نہ ہو بلکہ زائد ہو تو خواہ تانیث کے لیے ہو خواہ الحاق
کے لیے تو وہاں پر حذف مختار ہے جبلی اور دیوبلی کہا جائے گا اور واؤ
سے بدل دیں تو یہ بھی جائز ہے اس صورت میں جبلی، دفروی کہا
جائے گا لیکن الف تانیث کو جب واؤ سے بدلتے ہیں تو اکثر اس سے پہلے
ایک الف بڑھادیے ہیں جیسے طوباوی۔ ذُنَبَاوی۔

اور اگر الف مقصورہ ایسے اسم میں واقع ہو جس کا دوسرا حرف
متحرک ہو تو حذف کر دیا جاتا ہے جیسے مصطفیٰ سے مُصْطَفِی اور بعض
واؤ سے بدلنا بھی جائز کہتے ہیں اس صورت میں کہا جائے گا مُصْطَفَوِی
اگر اسم کے آخر میں الف ممدودہ تانیث کے لیے ہو تو واؤ سے بدل دیا
جائے گا جیسے صفراء سے صفراوی۔ بیضاء سے بیضاوی اور اگر
اصلی ہو تو اس کا باقی رکھنا ضروری ہے جیسے قزاق سے قزاقی۔ ابتداء سے
ابتداء۔ انتہاء سے انتہائی۔

اور اگر اصلی نہ ہو تو باقی رکھنا اور واؤ سے بدلنا دونوں جائز ہے جیسے
رداء سے ردائی بلکہ داوی، سماء سے سماءائی بلکہ سماوی۔

ایض، اھیف کی جمع۔

(۲) جب مفت فعلان فعلی کے وزن پر ہو تو اس کی جمع فعلالی یا
فِعال کے وزن پر آتی ہے جیسے سکاری و حیاری سکران
و حیوران کی جمع اور جیاع و غضاب جوعان اور
غضبان کی جمع۔

(۳) اسم فاعل ناقص کی جمع فَعْلَہ کے وزن پر آتی ہے جیسے دعاة
رماة، غزاة کا اصل ان کا ذَعْوَةُ زَمِيَّة غزبہ ہے۔

(۴) ایسے مادہ سے جو ہلاکت، درد یا تشقت کے معنی پر دلالت
کرتے اس سے فعلیل بمعنی مفعول کی جمع فعللی کے وزن پر آتی
ہے جیسے جریح کی جمع جرحی، صریح کی جمع صریعی
شیت کی جمع شتی اور ای رحل یا گیا ہے اس کو بھی جو معنی
میں اس سے مشابہت رکھتا ہو اور فعلیل بمعنی فاعل ہو جیسے
مریض کی جمع مرضی۔ یا فیل کے وزن پر ہو جیسے زمن کی جمع
زمنی یا فاعل کے وزن پر ہو جیسے ہالک کی جمع ہلکی۔

صفات کی جمع کے بقیہ قیاسی اوزان چھ ہیں۔ فَعَال، فَعْلَہ، فُعَل،
فَوَاعِل، فُعْلَاء اور اِفْعَال۔

(۱) فَعَال اور فَعْلَہ ہر اس اسم کی جمع ہے جو فاعل کے وزن پر ہو اور
اس کا لام کلمہ جمع ہو جیسے زائر کی جمع زَوَار۔ صائم کی جمع
صَوَام اور کاتب کی جمع کتبا، ظالم کی جمع ظَلَمَہ۔
فَعْلَہ کا وزن عموماً اس فاعل کی جمع کے لیے ہے جو اجوف سے
ہو اور کسی پیشے پر دلالت کرتا ہو جیسے ساقا، باعہ، حاکما،
صاغہ کراصل میں سوقہ، بیعہ، حیکہ، صوغہ تھے۔

(۲) فعل بھی فاعل کی جمع جیسے سَجْد ساجد کی جمع سَجْدَات نام کی
جمع جَوْع جائع کی جمع۔

(۳) فَوَاعِل فاعلۃ کی جمع جیسے صواحب صاحبۃ کی جمع
عوادل عاذلۃ کی جمع اور فاعل کے وزن پر اس فاعل کی جمع
بھی آتی ہے۔ جو طبقہ اثاث کے صفات کے لیے ہو جیسے
عواقر، عاقبر کی جمع حوامل حال کی جمع طوائق طاق کی جمع۔

(۴) فَعْلَاء فعلیل کی جمع جو معنی میں فاعل کے ہو جیسے کرماء
کریم کی جمع عَلَمَاء علیم کی جمع۔

(۵) اِفْعَال فعلیل کی جمع جو مضاعف یا معتل اللام ہو جیسے
اغنیاء عنی کی جمع اقویاء قوی کی جمع۔

مذکر اسم تفضیل کی جمع جمع سالم افعلون کے وزن پر آتی ہے جیسے
اعظمون اکرمون اور جمع کسرا فاعل کے وزن پر جیسے اصاغور۔

حذف ہو گیا ہو اور محذوف منہ میں دو حرف باقی ہوں تو نسبت کرتے ہوئے اس محذوف حرف کو واپس لایا جائے گا جیسے ابسے ابویٰ اخ سے اخوی۔

لفظ اخسکور ہنسکی طرف نسبت تاء کے ساتھ ہوتے ہوئے کہا جاتا ہے اختی و بنتی اور بعض حذف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اخوی بنوکلور لفظ ابنسکی نسبت میں ابنساور بنوکلہا جاتا ہے۔ بلور دم جیسے الفاظ میں محذوف کو لونا دینا اصح ہے کہا جائے گا یدویٰ ذمویٰ کلور بغیر واؤ کے لائے ہوئے بھی نسبت کرنا جائز ہے جیسے یدئی، دمئی۔

اور اگر کسی کلمہ میں محذوف کے عوض میں ہمزہ وصل لایا گیا ہو جیسے کہ ابھر اسمہن تو عوض کو حذف کر دینا اور محذوف کو لونا بنا جائز ہے۔ اسطور ابنسکی نسبت میں سمویٰ اور بنویٰ کہنا جائز ہے اور ابنیٰ و اسمیٰ بھی کہنا جائز ہے۔

اور اگر محذوف کے بدلے میں تاء تانیث ہو تو تاء کو حذف کر دیا جائے گا اور محذوف کو دوبارہ لایا جائے گا جیسے سنقے سنویٰ لغة سے لغویٰ اور زلقے وزنیٰ اور صلقة وصلیٰ۔

شبیہ اور جمع کی طرف نسبت کرنا ہو تو مفرد کی طرف لونا دیا جائے گا جیسے عراقین سے عراقیٰ، مسلمین سے مسلمیٰ۔

یہی حکم ہے کہ ان کا جو شبیہ اور جمع کے ساتھ لائق ہیں جیسے انہین سے انہیٰ اور ثنویٰ، عشورین سے عشویٰ، اربعین سے اربعیٰ۔

ایسے جمع جن کے لیے مفرد نہیں جیسے اباہیل و صنادید اور یا مفرد تو ہیں لیکن اس لفظ سے نہیں جیسے مخاطر، مناجد، نساء نسبت کرتے ہوئے اپنے حال پر باقی رہیں گے جیسے مخاطریٰ، مناجدیٰ، نسانی۔

بعض علماء صرف کے نزدیک جمع مکرر نسبت کی حالت میں اپنی وضع پر رہے گا جیسے ملائکتے ملائکی، ملوکے ملوکی اور جو جمع مکرر علم ہو گیا ہو وہ بھی نسبت کی حالت میں مفرد کی طرف لونا یا نہیں جائے گا۔ جیسے انبارے انباری، انصارے انصاری، اہوازے اہوازی۔

اور مرکب بنائی میں نسبت کرتے ہوئے آخر کا جزء حذف کر دیا جائے گا اور اول جزء کی طرف نسبت کریں گے جیسے بعلمیٰ و معدیٰ جب کہ بعلمکار، معدیٰ کربکی طرف نسبت کرنا ہو اور کبھی مجموعہ کی طرف نسبت کرتے ہیں جیسے بعلمکی و معدیٰ کربی۔

اور مرکب اضافی کی صورت میں کسی میں جزء اول کی طرف نسبت کرتے ہیں اور کسی میں جزء ثانی میں جیسے امراء القیس سے امرئی

اور اگر اسم منقوس ہو اور یاہ تیسری جگہ میں ہو تو اس کو واؤ سے بدل دیتے ہیں اور اس کے ماقبل کو فتح دیتے ہیں جیسے عمی سے عمویٰ اور اگر چوتھی جگہ یا اس سے زائد ہو تو حذف کرنا جائز ہے جیسے قاضی سے قاضی۔ ماضی سے ماضی اور واؤ سے بدلنا بھی جائز ہے اور اس سے صورت میں ماقبل کو فتح دیا جائے گا کہا جائے گا قاضویٰ، ماضویٰ اور اگر پانچویں جگہ یا اس سے زائد ہو تو حذف کرنا ضروری ہے جیسے مستعلیٰ سے مستعلیٰ، معتدیٰ سے معتدیٰ۔

اگر کلمہ فعیل کے وزن پر ہو اور آخر میں حرف صحیح ہو تو وزن اپنی حالت پر باقی رہے گا۔ جیسے حنیف سے حنیٰ خلیل سے خلیل اور اگر ناقص ہو تو ایک یا دو کو حذف کر دیا جائے گا اور دوسرے کو واؤ سے بدل دیا جائے گا اور ماقبل کو فتح دیا جائے گا جیسے غنی سے غنیٰ، غلی سے غلیٰ، غلوی سے غلویٰ۔

اور اگر فعیل کے وزن پر ہو مضاعف اور معتل نہ ہونے کی صورت میں یاہ کو حذف کر دیا جائے گا اور ماقبل مفتوح ہوگا جیسے مدینہ سے مدنیٰ، لہریضے لہریضیٰ، بعض الفاظ میں یاہ کا باقی رہنا شاذ ہے جیسے طبعی، سلیقی۔

اور اگر مضاعف یا معتل عین ہو تو کچھ حذف نہیں ہوگا طویلگی نسبت میں کہا جائے گا طویل اور عزیز لہن عزیز۔

جو کلمہ فعیل و فعیلکا بیان کیا گیا ہے یہی فعیل و فعیلین بھی جاری ہوگا جیسے عقیل سے عقیلی، قصی سے قُصویٰ، قلیلہ سے قَلِیْلٰی، اُمیْمٰتے اُمِیْمِیٰ۔

اگر اسم کے آخر میں واؤ چوتھی جگہ یا اس سے زائد پر ہو اور اس کے ماقبل ضمہ ہو تو نسبت کرتے ہوئے واؤ کو حذف کر دیا جائے گا۔ فلنسوقے فلنسیٰ اور ترفوقے ترفیٰ کہا جائے گا اور نہیں تو واؤ باقی رہے گا جیسے عدویٰ دلو سے دلوئی۔

اگر اسم کے آخر میں یاہ مشدود ہو اور اس سے پہلے دو حرف ہوں تو یاہ کا حذف کرنا ضروری ہے جیسے شافعی کی طرف نسبت کرتے ہوئے شافعی ہی کہا جائے گا اور اسکندر بنی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اسکندری۔

اور اگر یاہ سے پہلے ایک ہی حرف ہو جیسے حتیٰ تو دوسرے حرف کو فتح دینا اور تیسرے کو واؤ سے بدل دینا واجب ہے جیسے کہ حتیٰ سے حیویٰ۔

اور اگر دوسری یاہ واؤ سے بدل کر آئی ہو تو نسبت کرتے ہوئے پورا واؤ ہو جائے گی جیسے طی سے طویٰ، اگر کسی کلمہ سے آخر کا حرف

اور مرکب اسنادی میں صدر یعنی جزء اول کی طرف نسبت ہوتی ہے اور عجز یعنی جزء ثانی کو حذف کر دیا جاتا ہے جیسے تابط شوالے تابطی، ذرحیالے ذری۔

دیر القمے ویرانی، عبدالاشہلے اشہلی، ابوبکرے بکری عبد منافے منافی کبھی مرکبات اضافیہ میں پورے یک طرف نسبت کرتے ہیں جیسے عین ابلے عین، ابلی وادی آش سے وادی آشی، عین حورے عین حوری۔

حروف تہجی کے لحاظ سے ان اسماء کے تفصیل جو قواعد نسبت کے خلاف مستعمل ہیں

انف کبیر	ء	أَنَافِي	ء	حورراء	ء	حُرُورِي	ء	رُوحَاء	ء	رُوحَائِي
أُمِيَه	"	أُمُوِي	"	حرمين	"	حِرْمِي	"	رے	"	رَازِي
بادِيَه	"	بَدُوِي	"	حضر موت	"	حَضْرَمِي	"	رباب	"	رَبِي
بحرين	"	بِحْرَائِي	"	خزينة	"	خَزِينِي	"	سهل	"	سَهْلِي
بهاء	"	بَهْرَائِي	"	ذهر	"	ذَهْرِي	"	سليقة	"	سَلِيْقِي
تهامة	"	تَهَامِي	"	ذير	"	ذَيْرَائِي	"	سليمة الازد	"	سَلِيْمِي
تيم اللات	"	تَيْمَلِي	"	داريا	"	دَارَائِي	"	سليم	"	سَلِيْمِي
ثقيف	"	ثَقْفِي	"	رب	"	رَبَائِي	"	شام	"	شَامِي
جمة عظيمة	"	جَمَائِي	"	رقبة عظيمة	"	رَقْبَائِي	"	شعر كثير	"	شَعْرَائِي
جذيمة	"	جَذْمِي	"	رامهرمز	"	رَامِي	"	صدر كبير	"	صَدْرَائِي
جلولاء	"	جَلُولِي	"	ردينه	"	رُدَيْنِي	"	صنعاء	"	صَنْعَائِي
بنی الحیلی	"	حُبَلِي	"	روح	"	رُوحَائِي	"	طبيعة	"	طَبِيعِي
عميرة كلب	"	عَمِيرِي	"	فراھيد	"	فُرُودِي	"	مروا الشھجانی	"	مَرُورِي
بنی عبیدة	"	عَبِيدِي	"	قويم	"	قُومِي	"	امرؤ القيس	"	مَرُوقِيسِي
عبد شمس	"	عَبْشَمِي	"	قریش	"	قُرَشِي	"	ھجر	"	هَاجِرِي
عبدالدار	"	عَبْدَرِي	"	كنت	"	كَنْتِي	"	ھذيل	"	هَذَلِي
عبد قيس	"	عَبْقِيسِي	"	لحیة عظيمة	"	لُحَيَائِي	"	انباط	"	نَبَاطِي
عبداللہ	"	عَبْدَلِي	"	ملیح خزاعة	"	مُلْحِي	"	ناصره	"	نَصْرَائِي
								يمن	"	يَمَانِي

تانیث کا یا الف نون زائد تاہ تو علامت تانیث یا الف نون سے متصل ہو تو حرف ہوگا وہ اسی حالت پر رہے گا جس پر تفسیر سے پہلے تھا۔ جیسے ثمرۃ کی تفسیر ثمر، بشر حکما بشیری، سمران کی سمریاء، سکران، سکیران، غصیبان، گرکہ مؤنث معنوی کا ہو تو تفسیر بنانے میں تاہ۔

اگرکہ مؤنث معنوی کا ہو تو تفسیر بنانے میں تاہ مقدمہ کا ظاہر ہونا ضروری ہے جیسے ارض سے اریضة، شمس سے شمیسة لیکن شرط یہ ہے کہ التباس سے امن ہو ورنہ جہاں التباس کا خوف ہوگا ظاہر نہیں

تفسیر

قلت یا حارث ظاہر کرنے کے لیے اسم میں کچھ تغیر کرنے کا نام تغیر ہے۔ ثلاثی مجرد سے فعل کے وزن پر آتا ہے جیسے کلب سے کلیب، عبید سے عبید، رُجُل سے رجیل ثلاثی مزید رباہی اور خماسی سے اگر چہ حارث مدہ نہ ہو تو فعل کے وزن پر جیسے جعفر سے جعیفر، سفر جمل سے سفیر لہذا اگر مدہ ہو تو فعل کے وزن پر جیسے قرطاس سے قریطیس مضرب سے مَضْرِبٌ یا گرام کے آخر میں علامت

و عید تہوگی اور اخت اور بنت کی تفسیر اُخِيَّةُ بُنِيَّةُ آئے گی۔

شٹی اور جمع سالم کی تفسیر اس طرح پر آئے گی مؤمنان کی مویمان، مومنون کی مویمنون، مومنات کی مویمنات۔

اسی طرح جمع قلت کی تفسیر ارغفة کی ارغفة ہوگی۔

اور جمع کثرت کی تفسیر بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مفرد کی تفسیر بنا کر واؤن لگا دیا جائے گا جیسے غلاہی جمع غلمان کی تفسیر کی صورت یہ ہوگی

کہ غلاہی تفسیر غَلِيمِہا کر واؤن لگا کر غلیمونکہا جائے گا۔ اسی طرح شاعر کی جمع شعراء کی تفسیر بشوعرو نہ ہوگی اور اگر مذکر لا

بعقل یا مؤنث ہو تو آخر میں اسی طرح الف تاء لگائیں گے جیسے جاربتہ کی جمع جوار کی تفسیر جویریات درہم کی جمع دراہم کی درہمات

اور مرکب اضافی کی تفسیر اسی طرح پر ہوگی کہ پہلے جزء کی تفسیر بنا کر دوسرے جزء کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں گے مثلاً عبد اللہ کی تفسیر

عبید اللہ ہوگی اور یہی حالت مرکب بنائی کی ہوگی جیسے معیدیکرب کی تفسیر معیدیکرب، حضر موت کی تفسیر حضر موت، نفظویہ

کی تفسیر نفظویہ، خسة عشر کی خمسة عشر، بعلبک کی بعلبک۔

اور مرکب اسنادی مثلاً تابط شر کی تفسیر نہیں آتی۔

تنبیہ:

کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کی تفسیر خلاف قیاس آتی ہے۔ ابیحور،

بحور کی۔ انیسیان، انسان کی۔ رویجل، رجل کی، اصیلال،

اصیل کی۔ عشیشیة عشیة کی۔ اَصِيْبِيَّة. صبية. اغیلمة غلمة

کی۔ اسی طرح قویس، ذریع، حریب، نعلیل، عویس، ذوید

کہ ان سب میں قیاس کی مطابق آخر میں تاء ہونی چاہئے تھی۔

ہمزہ کی کتابت کے قواعد:

ہمزہ اگر ابتداء میں واقع ہو تو ہمیشہ الف کی صورت میں لکھا جائے

گا جیسے اسماء، ابناء، اکوام اسی طرح اگر ابتداء میں ہو مگر اس کے

ساتھ کوئی دوسرا حرف متصل ہو جیسے باجمل، لافضل لیکن لئلا اور

لئن اور یو مثلاً اور حینشلش تخفیف کے لیے کثرت استعمال کی بنا پر اپنی

حرکت کے موافق لکھا جائے گا۔

اور اگر ہمزہ وصل ہو اور فاء یا واؤ کے بعد واضح ہو تو حذف کر دیا

جائے گا بشرطیکہ اس کے بعد ہمزہ ہو جیسے فانتسی، واذن لی۔

اور اگر ہمزہ درمیان میں واقع ہو اور ساکن ہو تو اپنے ماقبل کی

حرکت کے موافق حرف علت کی صورت میں لکھا جائے گا۔ جیسے ہاس

بونس ہنس لیکن ہمزہ وصل کے بعد ہو اور بدلا ہوا ہو تو اثناء کلام میں

کریں گے، مثلاً خمسینجب کہ محدود مؤنث ہو تو تفسیر میں خمسین کہیں گے خمسین نہیں تاکہ محدود مذکر کے لفظ خمسین کی تفسیر سے التباس نہ

ہو۔

اگر کلمہ میں حرف علت ہو اور تعلیل ہو چکی ہو تو تفسیر بنانے میں اصل کی طرف لوٹ جائے گا۔ مثلاً باب کی تفسیر بویس اور تاب کی تفسیر

نیسب ہوگی۔ اس لیے کہ باب کا الف واؤ اور ناب کا الف یاہ تھا اس وجہ سے کہ ان کی جمع ابواب اور انیاب آتی ہے اور قاعدہ ہے کہ جمع تکسیر

اسماء کو اصل کی جانب لوٹا دیتی ہے۔

اور اگر کلمہ ایسا ہو کہ یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا الف واؤ سے بدلا ہوا ہے یا یاہ سے تو وہاں پر ماقبل کے ضمہ کا لحاظ کرتے ہوئے تفسیر میں واؤ لایا

جائے گا۔ جیسے عاج سے عویج کہا جائے گا۔

لفظ عید کی تفسیر عیید شاذ ہے۔ قیاس کے لحاظ سے عوید ہونا چاہئے تھا اور اگر واؤ اور یاہ بدلے ہوئے نہ ہوں تو اپنی حالت پر رہیں

گے مثلاً سورے سویر، بیت سے بیبت۔

اگر ام کا دوسرا حرف الف زائد ہو تو واؤ سے بدل دیا جائے گا۔ جیسے خالد سے خوید، ضارب سے ضویوب۔

اور اگر تیسرا حرف الف یا واؤ ہو تو یاہ سے بدل کر یاہ تفسیر میں مدغم ہو جائے گا جیسے عصلے عُصَي، دلوے دُلَي، عجوزے عُجَيَر۔

کتاب سے کُتِب۔

اور اگر واؤ متحرک ہو اور لام کلمہ نہ ہو تو یاہ سے بدلنا اور باقی رہنا دونوں جائز ہے جیسے جدول سے جَدَيْلًا جَدْيُول، ادور سے اُدَيوَا

اُدَيور۔

اگر تیسرا حرف یاہ ہو تو یاہ تفسیر میں ادغام کر دیا جائے گا جیسے نصیر سے نصَيَر، ججیل سے ججَمِيل۔

اور اگر چوتھا حرف واؤ یا الف ہو تو یاہ سے بدل دیا جائے گا جیسے عصفور سے عصفير اور سلطان سے سَلْطِين۔

اسم تفضیل اگر ناقص ہو تو تفسیر میں تو یاہ تفسیر کا مابعد فعل تعجب کی مانند مفتوح رہے گا جیسے هُوَ اُحْيِلُّ مِنَ الْعَمَلِ۔

اسماء محدوفة الاعجاز کی تفسیر اس طرح پر ہوگی۔ اُحْي، اُحْي، ذُحْي اور اگر ایسا اسم ہو کہ اخیر کا حرف حذف کر کے شروع میں ہمزہ وصل لگایا گیا ہو تو تفسیر بنانے میں ہمزہ وصل حذف کر دیا جائے گا اور حذف

حرف واپس آ جائے گا جیسے ابن کہ اس کی تفسیر بنی ہوگی۔

اور اگر محذوف کے عوض میں تاء ہو تو صرف محذوف کو واپس لائیں گے اور عوض کو حذف نہیں کریں گے جیسے زنة عدك تفسیر و زينة

ہیں جیسے 'قال'، 'باع'، 'باب'، 'ناب'۔

لیکن اس قاعدے کے لیے حسب ذیل شرائط ہیں۔ یہ واو یاہ فاکلہ کی جگہ میں نہ ہوں مدہ زائدہ سے پہلے الف حشریہ سے پہلے اور یاے مشدد اور نون تاکید سے پہلے نہ ہوں۔ ناقص کے عین کلمہ کی جگہ میں نہ ہوں۔ جس کلمہ میں یہ واقع ہوں وہ فعلان و فعلی کے وزن پر نہ ہو اور ایسے لفظ کے ہم معنی نہ ہو جس میں تعلیل نہیں ہوتی۔

اگر کسی کلمہ میں واؤ یا جمع ہو جائیں اور ان میں سے پہلا ساکن ہو تو واؤ کو یاہ کر کے باء میں ادغام کر دیتے ہیں جیسے 'طی' میت مرمی کر اصل میں طوی' میوت۔ مرموی تھے۔

واو یا یاہ اگر الف زائدہ کے بعد طرف میں واقع ہوں تو ہمزہ سے بدل جاتے ہیں جیسے کساء سماء بناہ طباء۔

جودہ زائدہ مفرد میں ہو جب جمع بنایا جائے اور الف جمع کے بعد واقع ہو تو ہمزہ سے بدل جاتا ہے جیسے عجوز سے عجائز۔ قلاذہ سے قلائد، صحیفہ سے صحائف۔

باب الفتحال کے فاکلہ میں اگر واو یا یاہ واقع ہو تو تاء سے بدل جاتے ہیں جیسے 'التی' التسر۔

الفتحال کے فاکلہ میں اگر وال یا ذال یا زاء واقع ہو تو تاء کو وال سے بدل لیتے ہیں جیسے 'اذان اذذکر' اذدان کہ بصل میں اذتان' اذتکر' اذذتان تھے۔ اذذکر میں وال کو ذال اور ذال کو وال کرنا دونوں جائز ہے۔ اذکر اور اذکر دونوں کہہ سکتے ہیں۔

الفتحال کے فاکلہ میں اگر ساؤ ضاؤ طاء فاء واقع ہوں تو تاء کو طاء سے بدل دیتے ہیں جیسے 'اضطرب' اطرد' اظطم۔ اظطم جیسے میں طاء کو طاء اور طاء کو ظا کرنا دونوں جائز ہے۔ اظطم اور اظطم دونوں کہہ سکتے ہیں۔



اصل کی طرف لوٹا دیا جائے گا اور اسی حرف کی صورت میں لکھا جائے گا جس سے تبدیلی ہوئی تھی جیسے "بارجل انذن" اور "هذا الذي اوتمنت عليه" اور ہمزہ متوسطہ متحرک اپنی حرکت کے موافق حرف کی صورت میں لکھا جائے گا خواہ اس سے پہلے ساکن ہو یا متحرک۔ جیسے لوم رؤف سال۔

اور اگر مفتوح ہو اور بعد ضمہ دکرہ کے ہو تو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف کی صورت میں لکھا جائے گا جیسے سؤال' رمال' مؤنث اور اگر ہمزہ الف اور یاہ کے درمیان واقع ہو تو ہمزہ اور یاہ دونوں کی صورت میں لکھنا جائز ہے جیسے بقاء ی یقائمی۔

اور اگر ہمزہ الف اور حائر میں سے یا کے علاوہ کسی اور کے درمیان واقع ہو اور کسور یا مضموم ہو تو اپنی حرکت کے موافق حرف کی صورت میں اور مفتوح ہو تو ہمزہ کی صورت میں لکھا جائے گا جیسے بقاءہ بقاءہ بقاءہ۔

ہمزہ اگر کلمہ کے آخر میں واقع ہو اور اس کے ما قبل ساکن ہو تو ہمزہ کی صورت میں لکھا جائے گا جیسے جنزء شئیء شئیء۔

اور اگر ما قبل متحرک ہو تو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف کی صورت میں لکھا جائے گا جیسے ہیؤ لکئا، ظمیء۔

اگر ہمزہ طرف میں واقع ہو اور تاء تانیث لاحق ہو اور ہمزہ سے پہلے حرف صحیح ساکن ہو تو ہمزہ کو الف کی صورت میں لکھا جائے گا۔ مثلاً نشاۃ اور اگر متحرک ہو تو ما قبل کی حرکت کے مشابہ حرف سے لکھا جائے گا جیسے ففۃ، لؤلؤۃ۔

اور اگر ما قبل مغل ہو تو یاہ کے بعد یاہ کی صورت میں اور الف اور واؤ کے بعد ہمزہ کی صورت میں لکھا جائے گا جیسے بخطیبۃ بربینۃ قراءۃ' صلاءۃ، مروءۃ، سوءۃ۔

ابدال کے قواعد:


ایک حرف کی جگہ میں دوسرے حرف کے رکھنے کا نام ابدال ہے کثیر الیقوع قواعد حسب ذیل ہیں۔

اگر الف ضمہ کے بعد واقع ہو تو واؤ سے بدل جائے گا۔ جیسے ضارب سے ماضی مجہول کا مینہ ضارب اور قاتل سے قوتیل۔

اگر یاہ ساکن ضمہ کے بعد واقع ہو تو واؤ سے بدل جائے گی جیسے ایقن سے فوقن۔ ایسر۔ مؤیسر۔

اسی طرح اگر واؤ ساکن کسرہ کے بعد واقع ہو تو یاہ سے بدل جائے گا جیسے موزان سے میزان۔ موعاد سے میعاد۔

واؤ یا یاہ متحرک ہوں اور ما قبل مفتوح ہو تو الف سے بدل جاتے



أَبَدًا. ظرف زمان ہے۔ مستقبل میں نفی
واثبات کی تاکید کے لیے آتا ہے جیسے لَا
أَفْعَلُهُ أَبَدًا میں اس کو ہرگز نہیں کروں گا۔
[أَفْعَلُهُ أَبَدًا] میں اس کو یقیناً کروں گا۔
الْأَبَدِيَّةُ جس کی انتہاء نہ ہو۔
الْأَبَدِيَّةُ دوام جس کے لیے انتہاء نہ ہو۔
خرت۔

أَبْرَ (ن ض) أَبْرًا وَأَبْرًا. الْعُقْرُبُ
فَلَانَا: چھو کا لفظ۔ فیتہ کرنا، خوراک
میں سوئی کھانا۔ ہلاک کرنا، اللُّزْعُ: اصلاح
کرنا اور گامہ دینا
الْقَبْرِ: کنواں کھودنا۔
الْأَبْرَةُ. سوئی، ڈنک، چٹلی، ابْرَةُ الْقُرْنِ:
الْأَبْرَارُ سوئی بنانے والا۔ پوس۔ درخت خرما کو
گامہ دینے والا۔

حَمَلٌ کا لحاظ کرتے ہوئے جمع کیا گیا۔ ان کو ہم
کتاباً اَبَدِيَّةً بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان کا نقشہ
جمع نمبر درج ذیل ہے:

ا	ح	۸	ص	۶۰	ت	۳۰۰
ب	ط	۹	ع	۷۰	ث	۵۰۰
ج	ی	۱۰	ف	۸۰	خ	۶۰۰
د	ک	۲۰	ض	۹۰	ذ	۷۰۰
ه	ل	۳۰	ق	۱۰۰	ض	۸۰۰
و	م	۳۰	ر	۲۰۰	ط	۹۰۰
ز	ن	۵۰	ش	۳۰۰	غ	۱۰۰۰

الْأَبْرَارُ: سوئی بنانے اور فروخت کرنے والا پوس۔
شُعْلُ الْإِبْرَةِ: سوئی کے ساتھ معروف طریقہ

تَأْتَبُ بِهِ: تعجب کرنا اور خوش ہونا۔
تَأْتَبُ بِهِ: تعجب کرنا، خوش ہونا، فخر و غرور
کرنا۔

أَبَاهُ يَا بَاهُ. بِالسَّهْمِ: تیر سے مارنا۔
آبَتْ (ن ض) كَأَبَتْ (س كَأَبَتْ) وَأَبَوْنَا
النَّهَارُ: سخت گرم ہوا۔ صفت آبَتْ وَأَبَتْ
وَأَبَتْ.

تَأْتَبُ الْجَمْرُ: بھڑکانا۔
أَبْتَةُ الْعَصَبِ: غصہ کی تیزی۔
أَبْحَدُ حروف تہجی کے مجموعوں کا پہلا کلمہ
اور وہ مجموعے یہ ہیں: ابجد، حوز، حطی، کلمس،
سحفص، قرشت، شخذ، ضطغ، حروف کی یہ
ترجیب جمل کے حساب کی رعایت سے ہے
الْأَبْحَدِيَّةُ: ان الفاظ کو بولنے میں جن میں
حروف تہجی کو حساب

أَبَدٌ (ض) أَبْوْدًا.

الشَّاعِرُ: غریب لغت استعمال کرنا۔

أَبَدٌ (ن) أَبْوْدًا. الْحَيَوَانُ: جنگلی ہونا۔

أَبَدٌ (س) أَبَدًا. جَنْجَلِيٌّ هُوَ غَلْبِيَّةٌ: غضبناک
ہونا۔

تَأَبَّدَ ابدی ہونا، جنگلی ہونے کا مکان کا
ویران ہونا اور جنگلی جانوروں کا مسکن بننا۔

الْأَبَدُ زمانہ جمع آباد و اُبود۔ ازلی۔ قدیم
بیشہ رہنے والا، کہا جاتا ہے لَا آتِيَهُ أَبَدٌ
الْأَبْدِينِ وَالْأَبْدِينِ وَأَبْدُ الْأَبْدِ وَأَبْدُ
الْأَبَادِ وَأَبْدُ الدَّهْرِ الخ 'میں اس کے پاس
بھی نہیں آؤں گا۔

الْأَلْفُ الف کی دو قسمیں ہیں ساکنہ و
متحرکہ۔ ساکنہ کو حرف لین بھی کہتے ہیں جیسے
قَالَ، قَامَ، بَاعَ، مَتَحَرَّكَہ اور اس کا نام ہمزہ
بھی ہے اور یہ کئی معانی میں مستعمل ہے۔

(۱) استفہام جیسے قُرَأَتْ؟ أَمَا قُرَأَتْ؟ أَلَمْ
تَقْرَأْ؟ أَمَّا الْيَتِيمَ أَخُوكَ؟

(۲) نداء قریب: جیسے زَيْدُ أَقْبِلْ (ای زید!)

(۳) کسویدہ: جیسے لَا أَبَالِي أَقَمْتِ أَمْ
قَعَدْتِ مجھے تیرے کمرے ہونے یا بیٹھے کی
کوئی پرواہ نہیں یعنی دونوں میرے نزدیک برابر
ہیں۔

آ حرف نداء ہے بعید کے لیے یا جو بعید کی مانند
ہو جیسے غافل اور سونے والا۔

آبٌ اُست کا ہمینہ (رومی مینے کا نام)

الْأَبُ: عیسائیوں کے نزدیک اَقْنوم اول
جس کو باپ

آبٌ (ن) أَبًا و أَبَابًا و أَبَابَةً و أَبَابَةً.
إِلِيهِ: مشتاق ہونا۔

آبٌ (ض) نَبِيًّا و أَبًا و أَبَابًا و أَبَابَةً آمادہ
و تیار ہونا۔ آبٌ آبَةٌ: کسی کے قصد کی مانند
قصد کرنا۔ کسی کی روش اختیار کرنا۔

يَدُهُ إِلَى السَّيْفِ: سونٹے کے لیے ہاتھ
بڑھانا۔

أَبَّ جِئْنَا-چلانا۔

أَفْخَرُوا وَتَعَطَّطُمْ: کہے ہیں۔

الْأَبَانِيُّ الْآبُ: گھاس تر و خشک، موسیٰ کا چارہ
الْأَبَانُ الْإِبَابُ: پانی سیراب۔

أَبْلَفٌ (أَبْلَفٌ) أَبْلَفٌ لَمْ يَبْزُجَانَا. لَا يُؤْبَهُ لَهُ:
اس کی طرف التفات نہیں کی جاتی۔
أَبْلَهٌ بغير ذر کرنا۔ سمجھنا۔

تَابَهُ عَلَيْهِ بکبر کرنا۔ بڑا بننا۔ عَنْ كَذَا:
اپنے آپ کو بالا و برتر سمجھنا۔

الْأَبْهَةُ وَالْأَبْهَةُ دَوَانِي. غرور۔ نخوت۔

أَبْلَانٌ (أَبْلَانٌ) إِبَانَةٌ وَأَبْوَةٌ وَأَبْوَابٌ هُوَ:

الْبَيْتُ مِمْرُورٌ كَرِنَا. کہا جاتا ہے۔ [ابوتہ

وامستہ ہیں اس کے لیے ماں باپ بن گیا۔

أَبِي. فَلَانًا: کسی سے یہ کہنا کہ میں تمہارے

اوپر اپنے باپ کو خدا کرتا ہوں۔

تَأْبَى. فَلَانًا بَابٌ نَانَا.

الْأَبُ عِيسَايُوسَ كَرِنَا تَمِينٌ مَعْبُودَانِ

میں سے اول انتم جس کو باپ کہتے ہیں۔

الْأَبُ بَابٌ. وَهُوَ مَعْمُولٌ جَوْ كَرِنَا جِزْ كَرِنَا

بَاعَثَ إِجْمَاعًا يَبَاعَثُ إِصْلَاحًا هُوَ، اس کا اعراب

حَالِفٌ رَفْعِيٌّ فِي مِوَاوِسَ وَهُوَ حَالِفٌ نَهْشِيٌّ فِي الْف

سے اور حالت جری میں یا سے آتا ہے۔ تم کہتے

هُوَ. [جَاءَ أَبُوكَ] رَأَيْتَ أَبَاكَ وَمَرَزَتْ

بِأَيْدِكَ وَرَمَدِيٌّ كَرِنَا مِوَاوِسَ فِي يَأْبِيٌّ أَوْ

يَأْبِيَّتُجَ آيَاءَ وَأَبُونُ.

أَبُو الْيَقْظَانَ مَرَعٌ. کہا جاتا ہے [لَا أَب

لَكَ وَلَا أَبَاكَ وَلَا أَبَاكَ يَجْلِسُ خَرِيءٌ هُنَا

مگر معنی میں جملہ انشائیہ دعائیہ کے ہیں۔ مدح

وَذَمٌّ دُونِ مَوْقُوعٍ پُرِ اسْتَعْمَالُ كَرِنَا جَاتَا هُوَ

كَبِيٌّ كَالِيٌّ كَرِنَا مَوْقُوعٍ پُرِ هُنَا أَوْ [بَابِيٌّ أَنْتَ] كَرِنَا

مُقَدِّمِيٌّ هُوَ كَرِنَا مِيرَابُ تَمِينٌ أَوْ رَفْدَا هُوَ.

أَبِي (ف ض) إِيَاءَ وَأَبَانَةً وَتَأْبَى.

الشَّيْءُ: تَابِعٌ كَرِنَا. انکار کرنا۔ مَفْتَأُ

جَ آبُونُ وَأَبَاةٌ وَأَبَانَةٌ.

أَبِي عَلَيْهِ وَتَأْبَى نَازِرُهُنَا. خود دار ہونا۔

أَبَاهُ إِيَاءً. الشَّيْءُ: جَوْدَارٌ هُنَا.

الْأَبِيٌّ نَفَرْتُ كَرِنَا وَالْأَبِيٌّ رِذَالٌ سَ اسْمِ

آپ کو بلند رکھنے والا۔

بَابِيٌّ أَنْتَ مِيرَابُ آبُ پُرِ قَرْبَانَ هُوَ جَ آبَاءُ وَ

إِبُونُ وَاحِدٌ مَوْثٌ أَيْبَةٌ: يُقَالُ: نَفْسٌ أَيْبَةٌ

یعنی بولا جاتا رزائل سے اپنے آپ کو بلند رکھنے

أَبْلَسٌ (أَبْلَسٌ) أَبْلَسٌ وَأَبْلَسٌ (أَبْلَسٌ) أَبْلَسٌ

کا اچھی طرح انتظام کرنا۔ مَفْتَأُ أَبْلَسٌ وَأَبْلَسٌ

أَبْلَسٌ.

أَبْلَسٌ (أَبْلَسٌ) أَبْلَسٌ رَاهِبٌ هُنَا.

أَبْلَسٌ بَيْتٌ أَوْ نَوْسٌ كَالْمَالِكِ هُنَا

الْإِبِلُ جَمَاعَتٌ كَرَجْعٌ كَرِنَا.

تَأْبَلٌ. الْإِبِلُ جَمَاعَتٌ كَرَجْعٌ كَرِنَا.

الْإِبِلُ وَالْإِبِلُ أَوْ نَوْسٌ (مفرد کے لیے اس کا

استعمال نہیں ہوتا) جَ آبَالُ.

الْأَبْلَسُ قَبِيلَةٌ. کہا جاتا ہے [جَاءَ فِي أَبْلَسَةٍ]

وہ اپنے قبیلہ میں آیا۔

الْأَبْلَسُ جَ آبَالُ وَأَبْلَسٌ وَالْأَبْلَسِيُّ وَ

الْأَبْلَسِيُّ رَاهِبٌ.

الْإِبَالَةُ: جماعت۔ مال کا بہترین انتظام۔

حَسَنُ سِيَاسَةٍ. الْإِبَالِيُّ نَفَرَةٌ. ابابیل جمع

ہے اس کا واحد نہیں طَبِيرُ ابابیل: نول کے

غول پرندے۔

الْمَابِلَةُ بَيْتٌ أَوْ نَوْسٌ وَالْمَابِلِيُّ

إِبْنُ سَيْطَانٍ كَالْعِلْمِ جَسَجَ ابابیل و

ابابلسة.

أَبْسَلَانُ (ض) أَبْسَلَانٌ. بَشِيٌّ: عَيْبٌ لَكَانَا.

تہمت رکھنا كَرِنَا الدَّمُ فِي الْحُرْحُوحِ كَالْمَالِكِ

الْأَبْسَلَانِيُّ عَيْبٌ كَرِنَا كَرِنَا كَرِنَا جَ ابْنُ ابْنِ

الْقَدْحَانِ كَرِنَا كَرِنَا.

أَبْسَلَانٌ: عَيْبٌ لَكَانَا. شَرْمٌ دَلَانَا. مرہ کے

اوصاف و محاسن شمار کرنا وَتَأْبَنَةٌ جِيحِيٌّ پُرِنَا.

انتظار کرنا۔

إِبَانٌ. الشَّيْءُ: کسی چیز کی ابتداء۔ کسی چیز کا

وقت۔

الْأَبْسَلَانِيُّ: عَيْبٌ، كَرِنَا، كَرِنَا كَرِنَا جَ ابْنِ

إِبَانَةٍ. الرَّجُلُ جَمَاعَةٌ سَاسِحِيٌّ.

الْإِبَانِيُّ بِيَانٌ.

الْأَبْسَلَانِيُّ وَالْأَبْسَلَانِيُّ بِيَانٌ سَاسِحِيٌّ كَرِنَا

كَرِنَا كَرِنَا جَمَاعَةٌ شَرْمٌ فِي مِوَاوِسَ

ہے۔ (یونانی لفظ)

الْأَبْسَلَانِيُّ وَالْأَبْسَلَانِيُّ بِيَانٌ سَاسِحِيٌّ كَرِنَا

کالی کلاڑی۔

کے مطابق ہننا۔

إِبْرَةُ مَغْطَبَةٌ تَقْبَلُ نَمَا

الْمَشْبُورُ وَخَتُونَ فِي قَلَمِ لَكَ نِي كَرِنَا

الْإِبْرِيُّ وَالْإِبْرِيُّ عَمَّا سَوَا (یونانی)

الْأَبْرِيْسِمُ بِشَمِ (فارسی)

إِبْرِيْلُ لَطِيْنِي سَمِي سَالِ كَاجُ قَرْمَاهَا.

إِبَانٌ كَرِنَا جِزْ كَرِنَا كَرِنَا كَرِنَا

هُوَ فِي إِبَانِ شِبَابِيَّةٍ هُوَ نَوْجُوَانِي كَرِنَا

ہے۔

الْإِبْرِيُّ وَالْإِبْرِيُّ.. مِنْ الدَّهَبِ:

خالص سونا۔

الْإِبْرِيْسِمُ وَالْإِبْرِيْسِمُ بِشَمِ

الْإِبْرِيْقُ لَوْنٌ جَ آبَارِيْقُ جَمَاعٌ (مغرب)

مَفْتَأُ إِبْرُ وَأَبَارُ وَأَبُوْرُ بَصَاحِيَّةٌ أَبْرَا:

ظلم کرنا۔

أَبْسَلَانُ (ن) إِبْسَلَانٌ وَأَبْسَلَانٌ جَمَاعَةٌ

تَأْبَسُ. الْقَوْمُ كَرِنَا هُنَا.

الْإِبْسَلَانِيُّ: مِنْ النَّاسِ مَجْمُوعَةٌ جَمَاعَةٌ.

أَبْسَلَانُ (ن) أَبْسَلَانٌ. الْجَمْعُ كَرِنَا كَرِنَا

پاؤں کو بازو سے باندھنا۔

تَأْبَسُ الْجَمْعُ: اباض نامی رت سے باندھنا

(دیکھئے الْإِبْسَلَانِيُّ الْجَمْعُ: اباض نامی رت

سے باندھا ہوا ہونا۔

الْإِبْسَلَانِيُّ جَ آبَاضٌ. وَالْمَبْسُورُ جَ

مَابِضٌ لَوْنٌ كَرِنَا كَرِنَا كَرِنَا كَرِنَا

الْأَبَاضُ أَوْ نَوْسٌ كَرِنَا كَرِنَا كَرِنَا

کرتی رت سے باندھنا۔

تَأْبَسُ الشَّيْءُ: بَغْلٌ فِي لِيَانَا.

الْإِبْسَلَانِيُّ بَغْلٌ (مذکر و مؤنث) جَ آبَابُ. إِبْسَلَانٌ

الْجَبَلُ دَاخِرٌ كَرِنَا.

الْإِبَابُ بَغْلٌ فِي لِيَانَا كَرِنَا جِزْ

أَبِقُ (س) وَأَبِقُ (ن ض) إِبَاقًا وَأَبَاقًا

وَأَبَاقًا. الْعَبْدُ جَمَاعَةٌ مَفْتَأُ. إِبِقُجُ أَبِقُ

وَأَبَاقُ

تَأْبِقُ جَمْعُهُنَا. الشَّيْءُ: انکار کرنا۔ اوپر

سے۔

والی جان۔

رجُلٌ أَبَاءَ. خود در مرد۔

تَاتَبَ وَاتْتَبَ: بے آستین والی قمیص پہننا۔

الْإِنْتَبَ: بے آستین والی قمیص۔ رج اتوب

وَاتَّبَ وَاتَابَ وَآتَابَ.

آتَابَكَ. امیر، سردار۔ اس لفظ کا اطلاق اولاد

سلاطین کے اتالیق پر ہوتا تھا۔

آتَابَكَ امیر سردار: اس لفظ کا اطلاق اولاد

سلاطین کے اتالیق پر ہوتا تھا۔ (ترکی لفظ)

الْإِتَادَ: دوپٹے کے وقت گائے کی ٹانگوں میں

باندھنے کی رشتی۔ رج آتدہ و آتد.

الْإِتْرَجُ وَالْأُتْرُجُ. لیوں۔ لیوں کا

درخت۔

أَتَلَ (ض) أَتَلًا وَآتَلْنَا وَآتَلْنَا. غصّہ کی

وجہ سے آہستہ آہستہ چلنا مِنْ الطَّعَامِ: شکم

بیر ہونا۔

أَتَمَّ (ن) أَتَمًا. دو چیزوں کو جمع کرنا۔

بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔ تاخیر کرنا۔

الْمَأْتَمُ: لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ۔ عموماً

اس کا استعمال اس مجمع کے لیے ہوتا ہے جو اظہار

غم کے لیے ہو۔ رج مآتم.

الْإِتَانُ: گدھی۔ رج اَتْنٌ وَأَتْنٌ وَأَتْنٌ وَ

إِسْتَانٌ. گدھی خریدنا۔ اور [كَانَ حِمَارًا

فَاسْتَانًا] کا مقصد یہ ہے کہ وہ صاحب عزت

تھا، ذلیل ہو گیا۔

الْإِتُونُ: حمام کا آئینہ۔ چونکہ بنانے کی

بھی۔ رج اَتْنٌ وَأَتَاتِينِ.

أَتَا (ن) أَتَوًا وَإِذَا الشَّجَرُ: پھل ظاہر

ہونا۔ بھٹ پھل دار ہونا بہ و عَلَيْهِ: پھل

خوری کرنا۔

أَتَوْتُهُ إِتَاوَةً: رشوت دینا۔

إِتَاءُ. الْأَرْضُ: زمین کی پیداوار۔

الْإِتَاوَةُ: خزان۔ رشوت۔ رج آتأوی.

أَتَى (ض) إِيْتَانًا وَأَيْتًا وَإِيْتَانَةً وَمَاتَانَةً.

آنا. الْمَكَانُ: حاضر ہونا۔ الشَّيْءُ: کرنا

عَلَى الشَّيْءِ: پورا کرنا۔ ناذر کرنا۔ الرَّجُلُ:

مرد کے پاس سے گزرنا عَلَيْهِ الدَّرَهْرُ:

ہلاک کرنا۔

أَتَى تَاتِيَةً وَتَاتِيًا. الماء: پانی بننے کے لئے

راستہ نکال دینا۔

آتَاهُ مُؤَاتَاةً. عَلَى الشَّيْءِ: موافقت

کرنا۔

أَتَى إِيْتَاءً. فَلَانَا الشَّيْءُ: دینا۔ إِلَيْهِ

الشَّيْءُ: بھیجنا الرَّجُلُ: بدلہ دینا۔

تَاتَى. الْأَمْرُ: تیار ہونا آسان ہونا لِلْأَمْرِ:

زری برتنا اور میانہ روی اختیار کرنا

مَعْرُوفَهُ: درپے ہونا۔

إِسْتَأْتَى. الرَّجُلُ: آنے کی درخواست

کرنا۔ سَسَفَ سَجَهْنَا

الْأَتَى وَالْأَتَاوَى. اجنبی۔ مسافر۔ سِلَ:

أَتَى وَأَتَاوَى: اچانک آنے والا سیلاب۔

الْمَاتَى وَالْمَاتَانَةُ. جہت۔ سمت۔ کہا جاتا

ہے [أَتَى الْأَمْرَ مِنْ مَاتَاهُ أَوْ مَاتَاتِيهِ اس

نے معاملہ کو ٹھیک طریقہ سے انجام دیا۔

اِث (س ن ض) اِثًا وَأَثُوًا وَأَثَانَةً.

الْبَثَاتُ وَالشَّعْرُ: گنجان ہونا۔ صفت (اِثٌ)

وَأَيْثٌ] رج اثاث۔

أَكْتَفَ الْفِرَاشُ: بچھانا۔

تَأْتَكُ. مال پانا۔

الْإِتَاثُ. سامان خانہ۔ سال۔

أَثَرَ (ن ض) أَثْرًا وَأَثَارَةً وَأَثْرَةً.

الْحَدِيثُ: نقل کرنا۔ صفت مفعول

(مأثور)۔ اُ: اکرام و تعظیم کرنا۔

أَثَرَ (س) أَثْرًا. يَفْعَلُ كَذَا: کرنے لگا۔

لِلْأَمْرِ: پورے انہماک سے مشغول ہونا۔

عَلَيْهِ: پکارا ارادہ کرنا عَلَيْهِمْ: اپنے لیے بہتر

چیزوں کو چھانت لینا۔

أَثَرَفِيهِ: اثر کرنا۔

أَثْرُهُ إِيفَارًا: اکرام کرنا۔ چنانہ فضیلت دینا۔

أَثَرَ كَذَا بِكَذَا: بچھے لگانا۔

تَأَثَّرَ وَأَثَثَرَ. فَلَانَا: نقش قدم کی بیروی

کر ٹھینہ وہ: اثر قبول کرنا۔

إِسْتَأَثَرَ. بِالشَّيْءِ عَلَى الْغَيْرِ: اپنے لیے

مخصوص کر لینا۔

—اللَّهُ بِهِ: وفات دینا۔

الْأَثْرُ: نشان۔ حدیث۔ سنت۔ مدت۔ رج

آثار و. أَثْرًا. عِلْمُ الْآثَارِ: پرانی یادگار

چیزوں کا علم۔ کہا جاتا ہے [خَرَجَ فِی

(أَثْرِهِ) وَفِی (أَثْرِهِ) وہ اس کے بعد نکلا

وَعَلَى الْأَثْرِ یعنی فوراً

الْأَثْرَى. ماہر آثار قدیمہ۔

الْأَثْرُ وَالْأَثْرُ. زخم کا نشان۔ آثار و. أَثْرًا.

الْأَثْرُ. تلوار کا جوہر۔ رج أثور.

الْأَثْرَةُ. رج أثور و الأثارة. بقیہ علم۔ خاندانی

و موروثی شرافت۔

الْأَثْرَةُ. پسندیدگی۔ ترجیح۔ خود غرضی۔

الْأَثْرِيُّ. تلوار کا جوہر۔ معزز۔ رج أثراء.

فَرَسٌ. أَيْبَرُ: کھروں کے بڑے نشان والا

گھوڑا۔

الْأَثْرِيُّ. قدماء کے نزدیک بمعنی نواہ۔

آسمان۔ اور علماء طبیحات کی اصطلاح میں الجبر کو

کہتے ہیں اور یہ وہ مادہ ہے جس کے تھوہ سے

گرمی بڑھتی اور آواز دور تک جاتی ہے۔

حَدِيثٌ مَأْثُورٌ. وہ بات جو قرآن بعد قرن نقل

ہوئی چلی آئے۔ اور اسی سے ہے [الْكَسِيفُ

الْمَأْثُورُ] خاندانی تلوار۔

الْمَأْثُورَةُ الْمَأْثُورَةُ. عمدہ فعل۔ خاندانی و

موروثی عزت۔ رج مآثور.

أَثْفَهُ (ن) أَثْفًا. بچھے جانا، طلب کرنا۔

أَثْفَتْنَا ثَانِيًا. القدر: پائے پر رکھنا۔

تَأَثَّفَ. الرَّجُلُ الْمَكَانُ: جم کے

رہنا۔۔۔۔۔

الْقَوْمِ الْأَمْرَ وَعَلَيْهِ:

الْأَثْفِيَّةُ. دیکھنے کا پایہ۔ جماعت۔ رج۔

أَثْفِي. ثَالِثَةً. الْأَثْفِي: پہاڑ کے ایک حصہ کو

جس کے سامنے دو چھپر رکھ کر اس پر ہانپی

رکتے ہیں [کہا جاتا ہے] رَمَاهُ اللَّهُ بِثَالِثَةِ

الْأَثْفِيِ اللَّهُ اس کو بدترین مصیبت میں مبتلا

کرے۔

أَثَلَ (ن) أَثْلًا وَأَثَلَ (ك) أَثَالَةً. ج

پکڑنا۔ صفت أَثِيلٌ وَمُؤَثِّلٌ.

گردن میں درد والا ہونا۔ صفت آجل و آجیل۔	حملہ کرنا۔	اَقْلُ الْمَالِ: زکوٰۃ دینا۔ اصل ٹھہرانا۔
آجیل: ہتھیے رہنا۔ مدت مقرر کرنا۔ مہلت دینا۔	آج: الماء: کھاری ہونا۔ تَاجَجَ وَتَاجَّ وَانْتَجَّ: بھڑکنا۔ اِنْتَجَّ الْحَرُّ: تیز گرم ہونا۔	المَرءُ تَطْيِيمُ كَرْمَا الْمَنْجَدُ: مجدد بزرگی کی بنیاد رکھنا۔
الرَّجُلُ: درد گردن کا علاج کرنا۔	الْأَجْحُجُ: نینت کھاری پانی۔	تَأْتَلُ: بڑ بڑانا۔ اَلْمَا هُوَ الْمَالُ: کما کر بڑھانا۔ الْبِنُو: کھودنا۔
تَاجَلُ: ہتھیے رہنا۔ مدت معین کرنا۔	الْأَجْحُ: گرمی کی شدت ج إجاج و الأَجْحِجُ: شور۔ جلنے کی آہٹ۔	الْأَقْلُ: جھاڑو کا درخت جو کہ ریت والے علاقے پانی کے قریب زیادہ پیدا ہوتا ہے عام طور پر زینت کے لئے بویا جاتا ہے کبھی کبھی اس سے چھوٹے بڑے پیالے بنائے جاتے ہیں۔
إِسْتَأْجَلُ: مدت معین کرنا۔	أَجْدَه وَّأَجْدَه وَّأَجْدَه: قوی کرنا۔ مضبوط کرنا نَاقَةَ أُجْدُ: مضبوط اونٹنی۔	واحد ائله ج آخال وواثلاث واثول- [نَحَتْ اَثْلَه] اس نے اسے عیب لگایا اور اس کا مرتبہ گھٹایا۔
أَجَلُ: ہاں۔	الإِجَادُ: چھوٹا طوق۔	الْإِثْلَةُ وَالْإِثْلَةُ: گھریلو سامان۔ اصل سامان۔
الأَجَلُ: مدت۔ وقت۔ موت۔ ج آجال۔	المُؤَجَّدُ: مضبوط کیا ہوا۔ بِنَاءٌ مُؤَجَّدُ: مضبوط عمارت۔ ثَوْبٌ مُؤَجَّدُ النَّسِيْجِ: مضبوط بنا ہوا کپڑا۔	الْأَثْلَةُ وَالْأَثَالُ وَالْأَثَالُ: موردی مال یا شرافت یا بزرگی۔
الأَجَلُ: سبب۔ کہا جاتا ہے [مَنْ أَجْلِكَ فَعَلْتُ هَذَا] تمہاری وجہ سے میں نے ایسا کیا۔	أَجْر (ض ن) أَجْرًا وَّإِجَارَةً وَّأَجْرَ إِيجَارًا الرَّجُلُ عَلَيَّ كَذَا: بدلہ دینا۔ مزدوری دینا۔	أَثِمُ (س) إِثْمًا وَاثْمًا وَاثْمًا وَمَثْمًا: گناہ کرنا۔ صفت۔ أَثِمُ جِ أَثْمَاءُ وَاثِمُ جِ أَثْمَةٌ۔
الإَجَلُ: گردن کا درد۔ الإَجَلُ: نیل گاؤں کا گلہ۔ ج آجال۔	أَجْر (ض) أَجْرًا وَّأَجَارًا وَّأُجُورًا. الْعَظْمُ: جرجانا الْعَظْمُ: جوڑنا۔	أَثِمُ (ن ض) أَثْمًا. اللَّهُ فَلَانًا كَذَا: گنہگار قرار دینا اور مزو دینا۔
الْأَجَلُ وَالْأَجِلَةُ: دیر سے ہونے والا۔ آخرت۔	أَجْر. الطَّيْنُ: پکانا۔	أَثْمَةٌ: گناہ کی طرف منسوب کرنا۔
أَجْم (ض) أَجْمًا: أَجْمِيًا و تَاجِمُ النَّهَارُ: سخت گرم ہونا۔ تَاجِمٌ عَلَيْهِ: غضبناک ہونا۔ تَاجِمُ الْأَسَدُ: جھاڑی میں داخل ہونا۔	أَجْرُ مُوَأَجِرَةٌ. الرَّجُلُ: مزدور بنانا۔	أَثْمَةٌ: جٹلائے گناہ کرنا۔
الأَجْمَةُ: گنجان درخت۔ جھاڑی۔ شیر کے رہنے کی جگہ۔ ج أَجْمٌ وَّأَجْمٌ وَّأَجْمَاتٌ جِ أَجَامٌ۔	إِيجَارًا. الذَّاءُ فَلَانًا وَمِنْ فَلَانٍ: کرایہ پر دینا۔ صفت کا صيْنَةُ مُؤَجِّرٌ بَكْسَرٍ الْعِجِمِ: ہے مؤاجر نہیں۔	تَأْتِمُ: گناہ سے بچنا۔
الأَجْمَةُ: گنجان درخت۔ جھاڑی۔ شیر کے رہنے کی جگہ۔ ج أَجْمٌ وَّأَجْمٌ وَّأَجْمَاتٌ جِ أَجَامٌ۔	إِنْتَجَرَ: صدقہ کرنا۔ مزدوری طلب کرنا۔ عَلَيْهِ بَكْدًا: اجرت پر مزدور ہونا۔	الْإِثْمُ جِ أَثَامٌ وَالْمَأْتِمَةُ وَالْمَأْتِمُ: ناجائز فعل۔ گناہ۔ جرم۔
الأَجْمُ: قلعہ۔ ج آجام۔	إِسْتَجَرَ. الدَّارُ: کرایہ پر لینا الرَّجُلُ: مزدور رکھنا۔	الْأَثْمُ لَوْجِيًا: انسانی اجناس کا نام ان کی خصوصیات ان کے اخلاق اور ان کی گروپ بندی کا علم۔ (یونانی لفظ)
أَجْن (ن ض) أَجْنًا وَّأُجُونًا وَّأَجْن (س) أَجْنًا. الماءُ: رنگ اور مزہ بدلنا۔ صفت۔	الأَجْرُ ثَوَابٌ: جِ أُجُورٌ وَّأَجَارُ. الأَجْرَةُ: لینٹ۔ جِ الأَجْرُ. الأَجْرَةُ: جِ أَجْرٌ وَّالإِجَارَةُ: کرایہ۔ مزدوری۔	أَثَا (ن) أَثَا وَاثَارَةٌ وَأَثَى (ض) أَثِيًا وَاثِيَةً. به: چغل خوری کرنا۔
أَجْن (ن ض) أَجْنًا وَّأُجُونًا وَّأَجْن (س) أَجْنًا. الماءُ: رنگ اور مزہ بدلنا۔ صفت۔	إِجَاصُ: آلو بخارا زرد آلو۔	تَأْتُوا و تَأْتُوا: بادشاہ کے پاس مقدمہ لے جانا۔
أَجْن وَّأَجْنُ.	إِجَاصُ: ناپسالی 'الطوث' آلو بخارا واحد آجاصتہ	المَأْتِيَةُ وَالْمَأْتَاةُ: چغل خوری۔
أَجْن (ن ض) أَجْنًا وَّأُجُونًا وَّأَجْن (س) أَجْنًا. الماءُ: رنگ اور مزہ بدلنا۔ صفت۔	أَجَل (ن) أَجَلًا. عَلَيْهِ شَرًّا: کسی کے خلاف شر اٹھانا۔	أَجَّ (ن) أَجَجًا: بھڑکنا۔ صفت۔ أَجَجٌ وَّأَجُوجٌ. أَجُوجًا. الماءُ: کھاری ہونا۔ أَجَجُ النَّارُ: بھڑکانا عَلَى الْعَدُوِّ: دشمن پر
أَجْن وَّأَجْنُ.	أَجَل (س) أَجَلًا: ہتھیے رہنا۔ دیر کرنا۔	

کا پھل خالے کے آخر تک باقی رہے۔ ج
مآخبر
مؤخر: الشيء: چیز کا پچھلا حصہ
المؤخر: وہ شخص جو کہ اپنے کچھ ہتھکڑیوں
تہن میں رسم و رواج کے چھوڑنے میں اہم
لوگوں کے ساتھ نہ چلے۔

الاحوز: اصطلح (گھوڑوں کو باندھنے کا
مقام) فارسی)

احظر: میں پرپاؤں مارنے والا گھوڑا۔

اخل: انگریزوں کی ایک جنس جو پھول
خوشبودار سبز و سفید پیدا کرتی ہیں۔

أخوان: اخوة: وہ بھائی یا دوست بننا۔
أخى: للذابة: اخیہ بنانا (دیکھئے لفظ آخیر)
أخى إخیاء و مؤاخاة و إخواة: وہ بھائی یا
دوست بننا۔

تأخى: وہ بھائی بنانا یا بھائی کہہ کے پکارنا۔
تواخى: قصد کرنا۔

تأخیا: باہم بھائی بھائی ہونا۔
الأخ والأخ والأخو والأخو: بھائی۔

سأخى: دوست۔ مثلیہ۔ أخوان ج أخوة
وأخوة وإخوان و أخوان و أخوان
و آخاء اور بقول بعض الإخوان اس أخ

کی جمع ہے جو دوستی کے لحاظ سے بھائی کے معنی
میں ہے اور الإخوة اس أخ کی جو نسبت بھائی

کے معنی میں ہے۔ اور نسبت کے لیے اخوی
واخوی۔

الأخوت: بہن۔ ج أخوات۔
الأخية والأخية: رسی جس کے دونوں

سرے زمین میں گاڑ دیتے ہیں اور اوپر کو ملحقہ سا
نکلا ہوا ہوتا ہے جس میں جانوروں کو باندھتے

ہیں۔ ج أواخى وأخایا وأواخ کہا جاتا
ہے شد اللہ بینکما أوأخى الإخیاء اللہ

تعالی تم دونوں کے درمیان بھائی بندی کے
علاقہ کو مضبوط کرے۔

أخيون ناگ پھنی۔
أخيون ایک انگریز جو نساپ سری کے نام

الأخذة: افسوں، منتر، درندوں کے شکار
کے لیے گڑھا۔

الأخذة: بے حس یا اعضاء کی پوست۔
الإخذة: پانی جمع ہونے کی تالاب جیسی جگہ

ج إخاذات و إخاذ إخاذة ج جمع أخذ و
أخذ۔

الأخذة: قیدی۔ ج أخذی
الأخذة: لڑائی میں دشمن سے چھینا ہوا مال،

غصب کیا ہوا مال۔

المأخذ: راستہ لینے کا طریقہ یا وقت یا وہ جگہ
جہاں سے کوئی چیز لی جائے ج مأخذ۔

المأخذ: جہنم، جال۔
مأخذ الكتاب: علمی تحقیق کے مراجع۔

أخذ تأخیراً: وہ عنہ: پیچھے کرنا۔
تأخر و استأخر: پیچھے رہنا۔

الأخر: غیر۔ ج آخرون مؤنث آخری
و آخره ج آخر و آخریات۔ بطور کنایہ

بولتے ہیں ان بعد اللہ الآخر یعنی اللہ اس
شخص کو دور کرے جو ہم میں سے نہیں ہے۔

الأخر: پچھلا حصہ۔ کہا جاتا ہے اشق
الثوب أخراً و من آخر أمر نے کپڑے کو

پیچھے سے پھاڑ دیا۔
الأخر: دیری۔ کہا جاتا ہے إجاء أخرة و

بأخرة وہ آخر میں آیا۔
الأخر: پچھلا۔ ج آخرون مؤنث

آخری ج آخریات۔ کہا جاتا ہے إلا أفعلة
آخر الدهر و آخری اللیالی یعنی میں

اس کو کبھی نہیں کروں گا۔
أخريات الحیة: باغ کا آخری حصہ۔

الأخرة و الأخری: دار البقا اور نسبت کے
لیے أخروئی۔

المؤخر: و المؤخره: ج مآخر
و الأخرة: من العین: کپڑی کی طرف آنکھ کا

گوشہ۔
مؤخره الرّجل و مؤخرته و آخرته

کبادہ کا پچھلا حصہ۔
المسخر من الخل: کھجور کا درخت جس

العدد: ایک بڑھا دینا۔
أخذ: بہ کٹھا ہونا۔ شفق ہونا۔ و التخذ:

آکیلا ہونا۔
استأخذ: آکیلا ہونا۔

الأخذ: ایک، آکیلا، پکنا۔ مؤنث إحدى
کہا جاتا ہے، فلان أخذ الإحدین فلاں بے

مثل ہے۔ إحدى الأخذ: بڑا عجیب
مجاہد۔

أخذ: ایک ایک۔ کہا جاتا ہے، جازاً أخذ
أو أأخذ أخذ یعنی وہ لوگ ایک ایک کر کے

آئے
الأخذ: اتوار کا دن۔ یک شنبہ۔ ج آحاد۔
أخذ۔

الأخذة: پکارتی۔
أخذ (س) أخذنا: پوشیدہ دشمنی اور کینہ

رکھنا۔
أخذ مؤاخاة الرّجل: کسی سے دشمنی

رکھنا۔
الأخذة: کینہ۔ ج إخذ

الأخبوط و الأخطبوط: جملوں کی قسم کا
ایک کپڑا۔

أخذ (ن) أخذنا و تخذنا: لینا۔ ہ و بہ:
پکارتا۔ ہ بذنبہ: سزا دینا۔ مواخذہ کرنا۔ علی

یدہ: کرنے سے روک دینا۔ من شاربہ:
چھانٹنا۔ کرنا۔ عنہ: نقل کرنا۔ یکمنا۔ علی

نفسہ: گھرائی کرنا۔ فیہ الخمر: اثر کرنا۔
یفعّل: کرنے لگانا۔ فی کذا: شروع کرنا۔

أخذہ و بأخذہ: طریقہ اختیار کرنا۔ کسی کے
اخلاق کو اپنانا۔

أخذہ بجاؤ کرنا۔
أخذہ مؤاخذه بلامت کرنا۔ عتاب کرنا۔

ہ علی ذنبہ و بذنبہ: سزا دینا۔
أخذ: کر دینا۔ بنا دینا۔ عاجز ہونا۔

أخذ: أخذہ و تخذہ (س) تخذنا۔ صدقاً:
دوست بنا لینا۔

أخذ استأخذ: درو کی وجہ سے سر جھکانا۔
أخذ: آشوب چشم۔

سے معروف ہے۔ طب میں اس کو غلیظ بلغم اور پیشاب آور کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ (یونانی لفظ)

أَدَمُ (ض ن) أَدَا. هُوَ الْمَوْتِلُ: مصیبت کا اچانک آنا۔ الْأَمْرُ: بھاری اور دشوار ہونا۔ الرَّجُلُ فِي الْأَرْضِ: سفر کرنا۔ تَأَدَّى الْأَمْرُ: سخت و ہولناک ہونا۔ صفت آویندہ۔

الْأَدِيدُ: شور۔ الْإِدَادُ وَالْإِدَاةُ: سخت و دشوار کام۔ مصیبت جِ إِذَا وَ إِدَى:

أَدَبٌ (ك) أَدَبًا: زیرک و دانش مند ہونا۔ صاحب ادب ہونا۔ صفت آویدب جِ أَدَبًا:

أَدَبٌ (ض) أَدَبًا وَأَدَبٌ إِيْدَابًا: دعوت کا کھانا تیار کرنا۔ أَدَبُهُ وَأَدَبُهُ: دعوت میں بلانا۔

کہا جاتا ہے [أَدَبُهُمْ عَلَى الْأَمْرِ] اس نے ان سب لوگوں کو کام پر جمع کر دیا۔

أَدَبٌ: مہذب بنانا۔ شائستہ بنانا۔ ادب سکھانا۔ جرم پر سزا دینا۔

تَأَدَّبَ: مہذب و شائستہ بنانا۔ ادب سیکھنا۔ عَنِ فَلَانٍ: کسی کے اطلاق پر اٹھنا۔ یہ: اقتدا کرنا۔

إِسْتَأَدَّبَ: ادب سیکھنا۔

الْأَدَبُ: اخلاقی ملکہ جو ناشائستہ باتوں سے روکتا ہو۔ زیرکی۔ خوش طبعی۔ جِ آداب نیز

آداب کا اطلاق ہر قسم کے علوم و معارف پر ہوتا ہے یا ان کے صرف دلچسپ حصے پر۔ کسی

چیز یا کسی شخص کے مخصوص قوانین جیسے آداب مجلس۔ آداب درس وغیرہ، علم ادب۔

وہ علم جس کے ذریعہ بول چال اور تحریر کی غلطیوں سے محفوظ رہے۔

الْأَدْبِيَّةُ وَالْمَادْبِيَّةُ وَالْمَادْبِيَّةُ: کھانا جو دعوت کے لیے تیار کیا جائے۔ جِ مَادْبٍ:

صفت آدر۔

أَدَمٌ (ض) أَدَمًا الْخَيْرُ: سالن لگانا۔ صفت مفعول مَادْوَمٌ. إِدِيمٌ:

وَأَدَمٌ إِيْدَامًا. بَيْنَ مَتَخَصِمِينَ: صلح

کرنا۔ أَلَفْتُ وَاتَّفَقْتُ بِيَدِ كَرْنَا:

أَدَمٌ (ن) أَدَمًا. أَهْلُهُ: اپنے لوگوں کے لیے نمونہ بننا۔

أَدَمٌ (س) أَدَمًا وَأَدَمٌ (ك) أَدَمَةٌ. گندم گوں ہونا۔

إِنْدَمَ: سالن سے روٹی کھانا۔

الإِدَامُ: ہر موافق و مناسب چیز۔ سالن۔ جِ آدَامٌ وَأَدَمٌ:

الأُدَمُ: ہر وہ چیز جس کو سالن بنایا جاسکے۔

الْأَدَمَةُ وَالْأَدَمُ: چڑے کا ظاہری یا اندرونی حصہ، کہا جاتا ہے [فَلَانَ إِدَامٌ قَوْمُهُ وَ أَدَمٌ بَنِي أَبِيهِ وَأَدَمَةٌ قَوْمُهُ] فلاں اپنی قوم کا سردار ہے۔

أَدَمٌ: سیدنا ابو البشر آدم علی نبیہا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا اسم گرامی۔ افراد جنس پر بھی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ جِ وَاوَادِمُ: نسبت کے لیے

آدیمی۔

الْأَدَمُ: گندم گوں۔ مَوْضِعًا دَمَاءُ جِ أَدَمٌ. الْإِدَامُ: چڑے کی تجارت کرنے والا۔

الْأَدِيمُ: پکایا ہوا چڑا۔ أَدِيمُ النَّهَارِ: دن کی روشنی۔ کہا جاتا ہے: ظَلَّ أَدِيمُ النَّهَارِ صَانِمًا: وہ پورے دن روزہ سے رہا۔ أَدِيمٌ الصُّحْحَى: چاشت کی ابتداء۔ أَدِيمُ اللَّيْلِ: رات کی تاریکی۔ وَالْأَدِيمُ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ الْأَرْضِ: آسمان یا زمین کا ظاہری حصہ۔ جِ أَدَمٌ وَأَدَمٌ وَأَدَمَةٌ وَأَدَامٌ:

الأَدَمَةُ: قرابت۔ وسیلہ۔

أَدَا (ن) أَدَوًا. النَّمْرُ: پکٹا اللبیب: گلاڑھا ہونا۔ أَدَوًا: اللبیب: بلونا۔ الرَّجُلُ: دھوکا دہنا۔

وَأَدَمٌ وَأَدَمَةٌ وَأَدَامٌ:

وَأَدَمَةٌ: قرابت۔ وسیلہ۔

أَدَا (ن) أَدَوًا. النَّمْرُ: پکٹا اللبیب: گلاڑھا ہونا۔ أَدَوًا: اللبیب: بلونا۔ الرَّجُلُ: دھوکا دہنا۔

وَأَدَمٌ وَأَدَمَةٌ وَأَدَامٌ:

وَأَدَمَةٌ: قرابت۔ وسیلہ۔

تَأَدَّى وَتَأَدَّى: آہ بنانا۔ تیاری کرنا۔ زمانہ کے حوادث کے ذریعہ کے لیے اسباب مہیا کرنا۔

الْإِدَاةُ: آہ۔ جِ أَدَوَاتُ:

الْإِدَاةُ: چڑھا چھوٹا رتن۔ جِ أَدَاوَى:

أَدَى (ض) أَدَى وَأَدَى قَادِيَةٌ. الشَّيْءُ: پہنچانا۔ او اکرنا۔

أَدَى (ض) أَدَى وَأَدَى قَادِيَةٌ. الشَّيْءُ: پہنچانا۔ او اکرنا۔

أَدَى الْمَاءَ: تیاری کرنا۔ قوی ہونا۔ عَلِيَّةٌ: مدد کرنا۔

تَأَدَّى لَهُ مِنْ حَقِّهِ: ادا کرنا۔ إِلِيهِ الْخَيْرُ: پہنچنا۔

إِسْتَادَى: فَلَانًا الْمَالَ: لینا۔ عَلِيَّةٌ: مدد چاہنا۔

الْأَدَاءُ: ادا کی۔ ادا کی۔ پہنچانا۔

إِذَا: زمانہ ماضی کے لیے ظرف ہے اور اس کے بعد ہمیشہ جملہ واقع ہوتا ہے۔ اور کبھی جملہ کو حذف کر دیتے ہیں اور اس کے عوض تنوین لاتے ہیں۔ جیسے مَتَى جَاءَ كُنْمُ الْمَوْتِ فَيَجِيئُ تَعْلَمُونَ یہ اصل میں یوں ہے

فَيَجِيئُ إِذْ يَجِيءُ تَعْلَمُونَ. اور کبھی مفاجأة کے لیے آتا ہے جیسے بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ إِذْ جَاءَ رِيْدٌ اور کبھی لام لتقلیل کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے جیسے [صُرِبْتُ ابْنِي إِسْمَاءَ] میں نے اپنے بیٹے کو مارا اس وجہ سے کہ اس نے گستاخی کی تھی۔

إِذَا: زمانہ مستقبل کے لیے ظرف ہے اور معنی شرط کو متضمن ہوتا ہے جیسے إِذَا اجْتَهَدْتَ نَجَحْتَ جب تم کوشش کرو گے تو کامیاب ہو گے۔ اور حرف مفاجأة بھی ہے جیسے [خَرَجْتُ فَإِذَا أَسَدٌ بِالْبَابِ] میں نکلا تو اچانک دروازہ پر شیر تھا۔

أَذَرَ وَأَذَارٌ: ماہر۔ جِ (رومی مینیے کانام) الْإَذْرِيُونُ: سورج کبھی۔

إِذَا: حرف شرط ہے بمعنی ان۔ اور دو فعلوں کو جزم دیتا ہے جیسے إِذْ مَا تَقَمُّمُ أَفَمُ.

إِدْنٌ وَ إِذَا: حرف جزا حرف جواب اور حرف مکافاة ہے۔ اگر فعل کو نصب دے تو نون کے ساتھ لکھا جائے گا ورنہ الف کے ساتھ۔ یہ حرف یا تو سمیت کے پیداکر کرنے پر دلالت کرے گا فعل کے ساتھ متصل ہونے کی صورت میں فعل مضارع کو نصب دے گا۔ قسم اور لانا فیہ کے بغیر فعل مضارع سے متصل نہ ہوگا۔

اگر وہ حال میں حاصل شدہ سبب پر تمہیہ کرے تو اس وقت عامل نہ ہوگا۔ جسے إِذَا هَذَا هُوَا

الاصواب-

أَذَانٌ أَذَاتِيْس (۳۱) نوں کا نام جس کو شعی
عیسوی سال میں مارچ بولا جاتا ہے۔ (سربانی لفظ

الْأَذْرِيُونُ ایک پھول کا نام جس کا رنگ مائٹا
جیسا ہے ہوتا ہے باغوں میں کثرت کے ساتھ

لگایا جاتا ہے۔ أَذْنًا. إِلَيْهِ وَلَهُ نَهَانُ لَكَانَا. سَنَدًا
أَذْنٌ (س) حَدَّثْتَهُ فَأَذَّنَ لِي أَحْسَنُ

کہا جاتا ہے [حَدَّثْتَهُ فَأَذَّنَ لِي أَحْسَنُ
الْأَذْنُ] میں نے بات چیت کی تو اس نے اچھی

طرح کان لگا کر بات کی۔
إِذْنَا وَإِذْنًا. لَهُ فِي الشَّيْءِ إِجَازَةٌ وَيَا

سارح کرنا إِذْنَا وَإِذْنًا وَأَذْنَا وَإِذْنَا
بِالشَّيْءِ: جَانِبًا.

أَذْنُهُ (ن) أَذْنَا كَانَ بِرَمَانًا. كَوْشَلِي كَرْنَا.

أَذْنٌ كَسِي كَانِ فِي رِدِّهِ يَوْمًا.
أَذْنٌ إِيْذَانًا. فَلَانَا الْأَمْرُ وَبِالْأَمْرِ نَبِيْلَانَا.

آگاہ کرنا الرَّجُلُ كَانَ بِرَمَانًا الْعَشْبُ: خَشِكُ
ہونے لگنا وَأَذْنٌ تَأْذِينًا. بِالصَّلَاةِ: إِزَانٌ

دینا۔
أَذْنٌ الْوَلَدُ كَانَ كَرِيمًا كَرْنَا.

تَأْذَنُ. حَسَمَ كَمَا الْأَمْرُ: آگاہ کرنا۔ جَلَانَا.
بِالشَّرِّ: ذُرَانًا. الْأَمِيرُ فِي النَّاسِ: أَمِيرًا كَا

اعلان کرنا اور دھمکانا۔
إِسْتَأْذَنُ: إِجَازَةٌ تَطْلُبُ كَرْنَا. عَلَيْهِ: أَمْرٌ

آنے کی اجازت مانگنا۔
الْأَذْنُ. إِجَازَةٌ عِلْمٌ، كَمَا جَاتَا فِي لِقَاءِهِ

بِأَذْنِي. اس نے اس کو میری دانستی میں کیا۔
الْأَذْنُ وَالْأَذْنُ: مَعْنَى (مَوْتٌ) جِ أَذْنٌ

تفسیر أَدْبِيَّةٌ. أَذَانُ الْفَارُو الْجَدِي وَ.
الْأَرْبُ وَالْفَيْلُ: مَعْنَى حَيَوَانَاتِ كَانِ

أَذْنُ الْكُوْزِ: تُوْنِي. كَمَا جَاتَا فِي فَلَانٌ أَذْنُ
مِنَ الْأَذَانِ فَلَانُ بِرَأْيِكِ كِي بَاتِ سُنُ كَرْمَانِ

لیتا ہے اور یہ لفظ واحد ہی متضرب جمع مذکر مؤنث
سب میں استعمال ہوتا ہے جیسے [ہی أَذْنُ

هُمَا أَذْنُ هُمُ أَذْنٌ] اور کہا جاتا ہے [جَاءَ نَا
شِرًا أَذْنِي] وہ لالچ کرتا ہوا آیا و جاء لا يسأ

أَذْنِي. وَهُوَ قَائِلٌ هُوَ كَرْنَا.

الْأَذْنُ: خَوَاشِ.

الْأَذْنُ: نَخْرٌ وَار كَرْنَا.

الْأَذْنُ وَالْأَذْنِي: بَرَّةٌ كَانُ وَاللَا.

الْأَذْنُ وَالْمُوْدُنُ: إِزَانٌ دِيْنَةُ وَاللَا.

الْأَذْنُ: رِدَارٌ لِيْذْرُ. كَيْفِي.

الْمُعْتَدَّةُ: إِزَانٌ دِيْنَةُ كِي جَدُّ. مَنَارُهُ جِ

مَازَنُ.

أَذْيٌ (س) أَدَّى وَأَدَاةٌ تَكْلِيْفٌ پَانَا. مَعْت

أَذِي.

أَذْيٌ إِيْذَاءٌ. الرَّجُلُ تَكْلِيْفٌ بِبَنِيَانَا.

تَأْذِي. تَكْلِيْفٌ كَمَلَانَا.

الْأَذْيُ وَالْأَذْيَةُ وَالْأَذَاةُ: تَكْلِيْفٌ، رَجْمٌ

الْأَذْيُ: تَكْلِيْفٌ زَدُّ.

الْأَذْيُ. سَخْتٌ تَكْلِيْفٌ بِبَنِيَانَا وَاللَا. سَخْتٌ

تَكْلِيْفٌ يَانَةُ وَاللَا.

الْأَذْيُ: مَوْجٌ وَرِيَانٌ أَوْ أَدْيُ.

أَرْبٌ (س) أَرْبَانًا. مَاهِرٌ هُوَانَا. مَعْتٌ أَرْبٌ

أَرْبِي. مَوْثٌ أَرْبِيَّةٌ. أَرْبٌ بِالشَّيْءِ: عِ

مَشَاقٌ هُوَانَا. مَاهِرٌ وَدَانَا هُوَانَا إِلَيْهِ: مَشَاقٌ هُوَانَا.

الرَّجُلُ: كَسِي كَانِ كَرْنَا عَضَاكَ رَجَانَا عَلَيْهِ: تَوِي

هُوَانَا.

أَرْبٌ (ض) أَرْبَانًا. الْعُقْدُ: مَضْبُوطٌ مَرَّةً لَكَانَا

الرَّجُلُ: عَضُوبٌ بِرَمَانًا.

أَرْبٌ (ك) أَرْبَانَةٌ وَإَرْبَانًا. عَقْلٌ مَعْدُودَانَا

هُوَانَا مَعْتٌ أَرْبِيٌّ وَأَرْبٌ.

أَرْبٌ. الشَّيْءُ: مَضْبُوطٌ كَرْنَا الشَّيْءُ:

عَكْرَةٌ عَكْرَةٌ كَانَا.

أَرْبِيَّةٌ مُوَارِبَةٌ. فَرِيْبٌ دِيْنَا، دَهْوَا دِيْنَا.

أَرْبٌ إِيْرَابَانَا. عَلَيْهِمْ: كَامِيَابٌ هُوَانَا.

تَأْرَبٌ: بِجَلْفٍ زِيْرِكُ بِنَا الْأَمْرُ: دُشْوَارٌ

هُوَانَا.

إِسْتَأْرَبٌ: مَخَاطَبٌ دِيْنَا. وَشَعِيْ صِچْپَاتِي هُوَانَا

مَدَارَاتُ كَرْنَا. قَرَضٌ لِيْنَا.

الْأَرْبُ: حَاجَةٌ، ضَرْوَةٌ، اِسْتِمَارَةٌ جِ

أَرْبٌ.

الْأَرْبُ: عَضُوبٌ كَمَا جَاتَا فِي [فَطْلَعْتُ

الدَّبِيْحَةُ إِرْبَانًا إِرْبَانًا] یعنی میں نے ڈیجھ کے

عَضُوبٌ كَمَا كَانَا. ضَرْوَةٌ جِ أَرْبٌ.

وَالْأَرْبِيَّةُ: جَالَاكِي. حَلِيْبَةٌ.

الْأَرْبُ: اِسْتِحْتٌ شَهَادَةٌ أَوْ رَجْعٌ كِي اِنْقَالِ كِي

دَرْمِيَانُ كَا فَاصِلَةٌ.

الْأَرْبُ. جَالَاكِي. بِبِيْرَانِشُ كِي وَقْتُ كِي

كَانِي بَكْرِي كِي عَجَّةٌ.

الْأَرْبِيَّةُ: مَرَّةٌ كَتِي كِي مَلَكَةٌ كَا بِبِيْرَانِشُ أَرْبٌ.

الْأَرْبِيَانُ: جِيْبَةٌ كَمَلَانَا.

الْمَارَبُ وَالْمَارَبِيَّةُ: بِتَشْلِيْثِ رَاءِ مَارَبِيَّةٌ.

حَاجَةٌ جِ مَارَبٌ.

إِرْبٌ: دِيْكِيْعِي مَادَنَةٌ وَرَثٌ.

أَرْبٌ: مَجْرَاكَانَا. بِيْنَهُمْ: فَسَادٌ كِي اِسْمٌ

مَجْرَاكَانَا.

تَأْرَبْتُ: النَّارُ: مَجْرَاكَانَا.

الْأَرْبَةُ وَالْإِرْبَاتُ: اِسْتِمَارَةٌ.

أَرْجٌ (س) أَرْجَانًا وَارِيْجَانًا وَفَارَجٌ: خَوْشِيْبُو

دِيْنَا، مَهْلَكَةٌ. مَعْتٌ أَرْجٌ. أَرْجُ النَّاسِ:

رُوْنِي مِيْنُ آوَارِبَلْدُ كَرْنَا.

أَرْجٌ (ض) أَرْجَانًا. الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ: حَقٌّ

مِيْنُ بَاطِلِ كِي اِسْتِمَارَةٌ كَرْنَا.

أَرْجٌ. الْقَوْمُ وَبِيْنَهُمْ: اِسْمَانَا، اِسْمَانَا، اِسْمَانَا كُو

دُوسَرِي كِي خِلَافٌ مَجْرَاكَانَا. مَعْتٌ أَرْجٌ

النَّارُ: رُوْشُنُ كَرْنَا.

الْأَرْجُوَانُ: اِسْمَانَا اِسْمَانَا دَرَجَتٌ كَا نَامٌ.

سَرَخٌ رُكٌ. سَرَخٌ رُكٌ كِي كِرْدِي.

اِرْجُوْنٌ (عَلْمٌ كِيْمَا) اِسْمَانَا اِسْمَانَا اِسْمَانَا كُو

هُوَانَا مِيْنُ قَلِيْلِ مَقْدَارِ مِيْنُ پَانِي جَاتِي كِي عَجَلَا كِي

چَرْنُ خِلَافَتِي مِيْنُ كَامِ آتِي كِي هُوَانَا اِسْمَانَا كِي عِلَامَتٌ

(۸) هُوَانَا.

أَرْخٌ تَارِيْخَانَا وَآرَخٌ مُوَارِخَةٌ. الْكِتَابُ:

تَارِيْخٌ كَا نَامٌ.

التَّارِيْخُ: وَقْتُتٌ كَا اِسْمَانَا كَرْنَا. تَارِيْخٌ

الشَّيْءِ: كَسِي چِيْزُ كِي وَاقِعٌ هُوَانَا كَا وَقْتُتٌ جِ

تَوَارِيْخٌ.

عِلْمُ التَّارِيْخِ. اِسْمَانَا اِسْمَانَا جِ مِيْنُ حَوَادِثِ

واقعات صحیح تاریخ کے بیان کے جائیں۔

الأرض خلیل ایک جگہ پر لے لے جے جزیروں کا مجموعہ۔

أرض جیولوجیا یا آرکیولوجیا پرانی تعمیرات اور آثار قدیمہ کا علم

الإردب: ایک بڑا پیمانہ جس میں چوبیس (۲۴) صاع غلہ آتا ہے۔

أرض (ن ض ف) أرضا و أرضاً: ستم سکرنا۔ کہا جاتا ہے افلاک یارذالی وطنہ ا فلاں ہر پھر کے اپنے وطن ہی کی طرف آتا ہے۔

اللیل: ٹھنڈی ہوتا۔ صفت ارض و أرض و آروز اور کہتے ہیں ابناء لیلۃ آرزہ یا رزمین فیہا لشدۃ بزہا، ہم نے ایسی ٹھنڈی رات گزار دی جس میں ہر شخص سردی کی شدت کی وجہ سے سکر جا رہا تھا۔ و آرزت اصابعہ من البرد اس کی انگلیاں سردی کی وجہ سے سکر گئیں او بشجرۃ آرزۃ اوہ

درخت جو جڑ پڑے۔

أرض القوم: قوم کا سردار۔

الأرض: صنوبر کا درخت۔

الأرضیۃ: صنوبر کی ایک اعلیٰ قسم جس کی لکڑی انہابی قیمتی ہوتی ہے پہاڑوں اور سرحد علاقوں میں پیدا ہوتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں اس کا کوئی وجود نہیں۔

الأرض و الأرز و الأرد و الرز: چاول۔

دھان۔

الإستقراطی عزت و اربطہ کا ایک فرد۔

الإستقراطیۃ عزت و اربطہ۔

أرض (ن) أرضاً: بھڑکانا۔ دیت دینا۔

أرضیۃ: عیسائی مذہب کا اعلیٰ عہدوار۔

أرض: بینہم: فساد اٹانا۔ ایک کو دوسرے کے خلاف آکسانا۔ الحرب او النار: بھڑکانا۔

الأرض دیت۔ رشوت۔ ج أرض۔

أرض (ن) أرضا و أرضاً: اراضیۃ المکان: سرسبز اور خوش منظر ہوتا۔ صفت ارض۔

ارضث (س) ارضا و ارضت

الخشثۃ: دیک خوردہ ہونا۔

أرض: الکلام وغیرہ آراستہ کرنا۔ تیار کرنا۔

تأرض: بالمکان: اقامت کرنا۔ زمین میں جم کے رہنا لکذا: درپے ہونا۔

استأرض: السحاب: زمین سے قریب فضا میں پھیل جانا۔

الأرض: زمین۔ ج ارضون و اروض و اراض و آراض: زکام۔ جوڑی بخار۔ کہا جاتا ہے اتانا ابن ارض امارے پاس غیر معروف النسب مسافر آیا ارض النعل ا جوتہ کی تلی۔

الأرضۃ: ایک قسم کا کثیر اجڑ لکڑی کھاتا ہے دیک۔ ج ارض

الأرضی شوکی لذیذ انوری جس کی چھدر بولا جاتا ہے۔

الأرضی: ایک درخت جس کا پھل عناب کی مانند سرخ ہوتا ہے۔

أرضماسا جس کو شیعہ بھی عربی میں بولا جاتا ہے و مشق کے علاقہ کا ایک گھاس جو جنگل میں پیدا ہوتا ہے۔

أرضیا: کلدستوں میں استعمال ہونے والا ایک پودا

الأرضن و الأرعن: آرگن۔ ایک قسم کا باج۔

الأرضی: آلہ موسیقی مشرقی علاقے میں استعمال ہوتا ہے۔ کاناکے دو ٹکٹوں میں جوڑ لگا کر سوراخ بنائے جاتے ہیں ان سوراخوں پر انگلیاں رکھ کر آواز پیدا کی جاتی ہے۔

أرق (س) أرقا و أرق: رات میں نیند نہ آنا۔ صفت ارق و أرق و أرق آخر کاکلہ اس شخص کے لیے ہے جس کی عادت ہی بے خوابی کی ہو۔

أرقہ: تاریخاً و أرقہ ایراقہ۔ بیدار رکھنا۔

الیرقان و الأرقان و الأرقان: برفان بیماری جس

میں آدمی کا رنگ سیاہ یا زرد ہو جاتا ہے اور یہ عارضہ کھیت کو بھی ہو جاتا ہے۔

الأرق: درختوں اور پودوں کا رس چوسنے والا کیڑا۔

ارک (ن ض) أروکا: الجمل: پیلو کے پتے کھانا۔

الأرضی: کلابی رنگ کا ایک پودا۔

ارک (س) أروکا و ارك: الجمل: پیلو کے پتے کھانے سے پیٹ میں درد ہوتا۔ ارک و ارك: النجیح: زخم کا لہجہ ہو جانا۔ الاراک: درخت پیلو۔ واحد اراکۃ ج ارك و اراک۔ الاریکۃ: آراستہ و مزین تحت۔ ج اراک و اراک کہا جاتا ہے اھو کریم الماروک اوہ کریم الاصل ہے۔ اریکۃ: زخم کا کچا ہونا۔ ارضک: امریکی علاقے میں پائے جانے والا صنوبر کا درخت

ارم (ض) أرم: ما علی المائدۃ: سب کچھ چٹ کر جانا الأرض: زمین میں جڑ و شاخ کچھ بانی نہ چھوڑنا۔ صفت مفعولی أرماء و ما رومۃ الشیء: جڑے ختم کر دینا الرجل: نرم مزاج بنانا۔ الجمل: مضبوط بننا۔ الارمہ و ارمہیں: کہا جاتا ہے۔ بحر ق علیہ الارم وہ اس کے اوپر حصّہ کی وجہ سے دانت پیتا ہے۔ پتھر۔ انگلیوں کے کنارے۔ نکلیاں۔ الارمہ و الارمہ میدان میں رہنمائی کے لیے نصب کئے ہوئے پتھر۔ کہا جاتا ہے اما بیض ارم او ارم اس میں کوئی نہیں۔ اس کا استعمال ہمیشہ نفی میں ہوتا ہے۔ ج ارم و ارم۔ الارومۃ و الارومۃ و الارومہ: درخت کی جڑیں ارم اور حسب کے لیے استعارہ استعمال کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے انفس ذات اکرمة من اطیب ارمۃ یعنی کریم الارمہ نشان راہ ج ارم

ارن (اس) ارنا و ارنبا و ارنبا البعیر نشاء
 میں آنا۔ صفت ارن و ارنون۔
 ازب۔ ازب گھریلوں و جنگلی خرگوش۔
 الأزویة و الأروية۔ پہاڑی بکرا (مذکر
 و مؤنث دونوں کے لیے مستعمل ہے)۔ ج
 اروی و اراب و اروی۔
 ارع (ض) اریبا۔ النخل: شہد بنانا۔
 اری (س) اریبا۔ صدرہ علی: غضبناک
 ہونا۔
 اری۔ اللذابة جانور کے لیے تھان بنانا۔
 التارسلکانا۔ بھڑکانا۔
 تازی۔ بالمکان: اقامت کرنا غنہ:
 پیچھے رہ جانا۔
 الاریة۔ جانور کا تھان۔
 ارن (ض) ارنا و ارنبا و ارنبا:
 القدر: جوش مارنا۔ سننا القدر و ہما:
 جوش دینے کے لیے آگ جانا۔ ار علی
 کذا: بھڑکانا۔ براہینہ کرنا۔ الشیء: جمع
 کرنا۔
 تازر۔ المجلس: اہل مجلس کا مغرب
 ہونا۔ اسم الآرة ہے۔
 الأزیو۔ بادل گرج۔ ویک کی سنناہٹ۔
 سروی۔
 ازب (ض) ازبا۔ الماء نہاری ہونا۔
 الازب۔ لیم۔ پست قدم۔ چالاک۔
 الازب و الازب۔ لہا۔
 المشراب۔ پرنالہ۔ بدرو۔ پانی پینے کی جگہ۔
 نابدان۔ ج مازیب۔
 ازج (س) ازجا۔ الغضب: گھاس کا
 طویل ہونا۔
 ازج۔ البیت: لہا بنانا۔
 ازح (ض) ازوحا و تازح۔ ویرگانا اور
 پیچھے رہ جانا۔ صفت ازوح۔ ازحت قدمہ:
 پھسلنا۔
 الازدرخت و الازدرخت۔
 ایک درخت جس کے زاد پھول ہوتے ہیں اس
 کی لکڑی سخت اور عمدہ ہوتی ہے۔ (فارسی لفظ

ہے)۔
 الازاد ایک قسم کی کھجور۔
 از (ض) ازرا۔ بالشیء: احاطہ کرنا۔
 البسات: بگھ جانا۔
 وازر۔ فلانا: قوی کرنا۔ ازرة و ہانپنا۔
 ازرة موازرة مدد دینا۔ غم خواری کرنا۔
 تازر و تزور و انتر۔ ازار پہننا۔ تہ بند
 پاندھنا۔
 الازر۔ قوت۔ پیٹھ، کہا جاتا ہے اشد بہ
 ازرة اس کو اس کے ذریعہ قوت حاصل ہوتی
 اور اسی سے قرآن میں ہے اشد بہ
 ازری یعنی اس کے ذریعہ مجھے قوت دے۔
 الازر۔ جز۔ تہند۔
 الازر تہ بند باندھنے کی جگہ۔
 الازرة: تہ بند باندھنے کی ہیئت۔ کہا جاتا ہے
 الکل قوم ازرة یا تزورنھا یعنی ہر ملکہ
 و ہر رتے۔
 الازار۔ ہر وہ چیز جو تم کو چھپالے۔ چادر۔
 پاکدامنی۔ تہند۔ پشتہ دیوار۔ ج ازرة
 وازر۔
 الازارة۔ تہند۔
 المنزر و المنزرة۔ تہند۔ ج مازر: کہا
 جاتا ہے اشد للامر منزرہ جب کہ
 مستعدی ظاہر کرے۔ انصر مؤزدا پوری
 مد۔
 از (س) ازفا و ازوفا۔ قریب ہونا۔
 الرجل: جلدی کرنا۔ الجرح: زخم بھر
 جانا۔
 ازفة ایذا جلدی کرنا۔
 تازف۔ الرجل: پست قدم ہونا۔ بد خلق
 ہونا۔
 تازف۔ قریب قریب قدم رکھنا۔ القوم:
 بعض کا بعض سے قریب ہونا۔
 الازف۔ ٹھکی و بد حالی اور اسی سے ہے۔ الی
 عیشہ ازف اس کی زندگی تک ہے۔
 الازفة۔ قیامت کا دن۔
 الازفی۔ تیز قدمی و چستی "بمشی

الازفی وہ تیز چلتا ہے۔

ازق (ن ض) ازقا و ازقس) ازقا

و تازق تک ہونا۔

المازق۔ تک جگہ۔ میدان جنگ۔ ج
 مازق۔

ازل (ض) ازلا و تازل۔ ٹھکی و سختی میں
 پڑنا۔ صفت ازل۔ ازله نروکنا۔ باز رکھنا۔

الازل۔ بلا مصیبت۔ جھوٹ۔

الازل۔ ٹھکی۔ وہ زمانہ جس کے لیے ابتدائہ
 ہو۔

الازلئی۔ قدیمی۔ وہ ذات جس کے وجود کی
 ابتداء نہ ہو۔

ازمہ (ض) ازما و ازوما۔ دانت سے
 کاٹنا۔

الحیل: رستی کو مضبوط بنا۔ الذھر
 علیہ سخت ہونا۔ بصاحبہ: ہمیشہ ساتھ

ساتھ رہنا۔ عن الشیء: رکنا۔ علیہ:
 محافظت کرنا۔ الباب: دروازہ بند کرنا۔

تازم۔ القوم: ٹھکی اور قحط سالی لاحق ہونا۔
 زمانہ کی سختی سے دردمند ہونا۔

الازم و الازمة و الازوم۔ ٹھکی۔ نوکدار
 دانت ج ازم و اوازم و ازم۔ الازم:

پرہیز کرنے والا۔

الازم۔ پرہیز۔ کہتے ہیں "اصل کل دواء
 الازم" ہر دوا کی جڑ پرہیز ہے۔ الازم:

قوت۔

الازمة و الازمة۔ سختی و ٹھکی۔ قحط۔ ج ازم
 وازم و ازمت و اوازم۔ الازمة: دن میں

ایک ہی مرتبہ کھانا۔

المازم۔ تک جگہ۔ میدان جنگ ج مازم۔
 الازون (علم کیمیا) ایک قسم کی گیس ہے جو

تین آکسیجن سے بنتی ہے۔ اس کی علامت
 O³ ہے۔

ازی موازاة الرجل: ایک دوسرے کے
 مقابل اور قریب ہونا۔

تازی۔ تازیبا۔ القوم: باہم قریب ہونا۔
 تازی۔ غنہ: مزنا۔

إِرَاءَ. مقابل۔ سامنے۔ کہا جاتا ہے، جلس
إِرَائِهِ وَبَارِئِهِ وَهَسَّ كَمَقَالٍ بِيضًا. إِرَاءُ
الْأَمْرِ: کام کا منتظم۔ اور کہا جاتا ہے، هُمْ
إِرَاؤُهُمْ وَهَلُوكَ ان كَمَمَائِلِ يَمِينِ
أَسَّ (ن) أَسًا. الدَّارُ: بنیاد رکھنا۔

بَيْنَ النَّاسِ: فساد پھیلانا۔
أَسَّسَ: البَيْتَ: بنیاد رکھنا۔

الْأَسَّ وَالْإِسَّ وَالْأَسَّسَ وَجَاسَاسًا
وَالْإِسَّاسَ وَالْأَسَّسَ وَجَاسَاسًا
وَالْإِسَّاسَ: بنیاد۔ کسی چیز کی بنیاد۔ الْإِسَّ:
چوبلیے میں تھوڑی راکھ۔

الْأَسَّاسُ: چغل خور۔

أَسَّاسٌ (علمِ کیمیا) کا ایک قاعدہ ہے جس کی
جزرہ O.H کے تحت عمیقین پودے سے پانی اور
نمک الگ کیا جاتا ہے۔

إِسْفِيدَاجٌ وَاسْفِيدَاجٌ. سفیدہ کا شغری۔
مُؤَسَّسَةٌ: کارپوریشن 'اوارہ کارخانہ' 'بیمنی'
اشی ٹیوشن 'فرم' کہا جاتا ہے مؤسسۃ علمیۃ
علمی اوارہ مؤسسۃ صناعیۃ کارخانہ۔

الْإِسْتِ: جڑ۔ بنیاد۔ سرین۔

الْإِسْتِ: اصل بنیاد سرین

إِسْبَانِجٌ (نبات) ایک مزیدار بربری

إِسْفِيدَاجٌ یا اسْفِيدَاجٌ: سفید چھرے۔

الْإِسْفِيرِینُ: ایک سفید رنگ کی گولی دوائی جو کہ
سر درد اور بخاروں کے لئے استعمال کرائی جاتی
ہے۔

الْأَسْتَاذُ: معلم۔ مدرس۔ عالم۔ مَسَائِدَةٌ وَ
أَسَاتِیذُ. اور تاجروں کی اصطلاح میں حسابات
کا جزل رجسٹر۔

الْإِسْتَارُ: فِی الْبَدَدِ: چار۔ لہی الوزن:

سازے چار شمال۔ مَسَاتِیرُ. (لہدی)

الْإِسْتَهْرَاقُ: مونا ریشمی کپڑا۔ ریشم اودھونے
کے تاروں کا بنا ہوا کپڑا۔

الْإِسْتِزَاجِیَّةُ: فوجی قیادت میں لشکر کو
چلانے کا ایک خاص فن (یونانی لفظ ہے)

الْإِسْتِخَارَةُ: مشرقی پلاشہای کاہنوں کا
مخصوص لباس۔

إِسْتِیْدِیُو یا أَسْتُوْدِیُو: فلموں کے بنانے کا یا
تصاویر اتارنے کا مقام۔

الْإِسْتِیْلِینُ: (علمِ کیمیا) ایک بے رنگ اور بے بو
گیس خطرناک قسم کی ہے۔ معدنیات کے
نکلنے میں کام آتی ہے۔

أَسَدٌ (ض) أَسَدًا وَأَسَدًا إِنْسَادًا.
الْکَلْبُ بِالصَّیْدِ: آسانا۔ براہِ جنت کرنا۔

أَسَدٌ بَيْنَ الْقَوْمِ: فساد انگیزی کرنا۔

أَسَدٌ (س) أَسَدًا. شیر کو دیکھ کر دہشت
کھانا۔ اخلاق میں شیر کی طرح ہونا عَلَیْهِ:
جرات کرنا۔

تَأَسَّدَ وَاسْتَأَسَّدَ. شیر کی مانند ہونا۔

عَلَیْهِ: جرات کرنا۔ وَاسْتَأَسَّدَ النَّبْتُ:
اٹھائی لبا ہونا۔

الْأَسَدُ: شیر۔ زرمادہ دونوں کے لیے استعمال
ہے۔ کہا جاتا ہے، هُوَ الْأَسَدُ. هِیَ الْأَسَدُ
بِحُجَلِ كَمَقَالٍ وَأَسَدٌ وَأَسَدًا.
بِحُجَلِ كَمَقَالٍ. اور شیرنی کولہوۃ کہتے ہیں۔

الْمَأَسَدَةُ: شیر کے رہنے کی جگہ یا دو جگہ
جہاں شیر بہت ہوں۔ مَسَائِدُ.
أَسْرَهُ (ض) أَسْرًا وَإِسْرًا: تم سے
پاندھنا۔

أَسْرَهُ أَسْرًا وَإِسْرًا وَإِسْرًا: قید
کرنا۔

تَأَسَّرَ: عَلَیْهِ دیر لگانا۔
إِسْتَأَسَّرَ: قیدی بننے کے لیے اپنے آپ کو
حوالہ کرنا۔

الْأَسْرُ: سر کہا جاتا ہے "هَذَا لَكَ بِأَسْرِهِ"
یہ کل تمہارے لیے ہے۔

الْإِسَارُ: تمہے پایاں۔
الْأَسْرُ: پیشاب کار کرنا۔

الْأَسْرَةُ: خاندان۔ مضبوط زہر۔ شمس۔
الْأَسْبِرُ: قیدی۔ مَسْأَرُی وَأَسْرَاءُ.

مَسْأَرُی وَأَسْرَاءُ. مَسْأَرُی: ماسورہ،
مَسْأَرُی: ماسورہ ہر پوری والا گول چاہئے،
کانا ہویا لہا ہویا ہے۔

الْأَسْرُبُ وَالْأَسْرُوبُ وَالْأَسْرِبُ: سیمہ۔

الْإِسْطِبَلُ: اصطبل۔ مَسْأَرُی وَأَسْرَاءُ.

الْإِسْطِبَلِیُّ: علم الجمال وہ علم جس میں
خوبصورتی کے بارے میں عموماً بحث کرے یا اس
شعور کے بارے میں بحث ہو جو جمال دلوں میں

اٹھارے۔ (یونانی لفظ ہے)
الْإِسْطِبَلِیُّ: ایک پودا جس کے پھول سفید یا
گلابی یا سفید ہوتے ہیں۔

الْإِسْطِبَلِیُّ: ایک پودا جس کے پھول سفید یا
گلابی یا سفید ہوتے ہیں۔

الْإِسْطِبَلِیُّ: ایک درخت جس سے گوند
بہتا ہوتا ہے اور بطور دوا بھی استعمال ہوتا
ہے۔

الْإِسْطِبَلِیُّ: ایک قسم کا آلہ جس سے
عجمی ستاروں کی بلندی کا اندازہ کرتے ہیں۔

الْإِسْطِبَلِیُّ وَالْإِسْطِبَلِیُّ: اصل وغرض
ماہ۔ مَسْأَرُی وَأَسْرَاءُ: قدماء فلاسفہ کے
زردیک عناصر اربعہ کو کہتے ہیں۔

الْأَسْطُورَةُ: قصہ۔ کہانی۔ مَسْأَطِیرُ.
الْأَسْطُولُ مَسْأَطِیلُ: جنگی کشتیوں یا جنگی
طائروں یا تجارتی کشتیوں یا شکاری کشتیوں کا
مجموعہ (یونانی لفظ)

الْأَسْطُولَةُ: ستون۔ کھبا۔ جانور کی ٹانگ۔
مَسْأَطِیلُ: کہا جاتا ہے "هَمَّ مَسْأَطِیلُ
الزَّمَانِ" وہ لوگ زمانے کے حکماء اور مخصوص
افراد ہیں۔

أَسْفٌ (س) أَسْفًا. عَلَیْهِ: عمیق ہونا۔
أَسْفُوسٌ کرنا۔ مَفْتَحٌ سِیْفٌ.
أَسْفَهُ إِسْفَا: غضبناک کرنا۔ عمیق کرنا۔
تَأَسَّفَ: افسوس کرنا۔ تَأَسَّفَتْ بِذِهِ: پھٹ
جاتا۔ کہتے ہیں "یا أَسْفِیْ وَیا أَسْفَا عَلَیْ
کَذَا" مجھے اس پر کس قدر افسوس ہے۔

الْأَسُوفُ: جلدی عمیق ہونے والا۔ نرم
دل۔

الْأَسِیْفُ: عمیق۔ وہ شخص جو مونا نہ ہوتا
ہو۔ مَسْأَرُی وَأَسْرَاءُ: مَسْأَرُی وَأَسْرَاءُ:
قیدی۔ حدیث میں ہے "لَا تَقْتُلُوا عَسِیْفًا
وَلَا أَسِیْفًا" مردور اور قیدی کو قتل مت
کرو۔

أَسْفٌ (س) أَسْفًا. عَلَیْهِ: عمیق ہونا۔
أَسْفُوسٌ کرنا۔ مَفْتَحٌ سِیْفٌ.
أَسْفَهُ إِسْفَا: غضبناک کرنا۔ عمیق کرنا۔
تَأَسَّفَ: افسوس کرنا۔ تَأَسَّفَتْ بِذِهِ: پھٹ
جاتا۔ کہتے ہیں "یا أَسْفِیْ وَیا أَسْفَا عَلَیْ
کَذَا" مجھے اس پر کس قدر افسوس ہے۔

الْأَسُوفُ: جلدی عمیق ہونے والا۔ نرم
دل۔

الْأَسِیْفُ: عمیق۔ وہ شخص جو مونا نہ ہوتا
ہو۔ مَسْأَرُی وَأَسْرَاءُ: مَسْأَرُی وَأَسْرَاءُ:
قیدی۔ حدیث میں ہے "لَا تَقْتُلُوا عَسِیْفًا
وَلَا أَسِیْفًا" مردور اور قیدی کو قتل مت
کرو۔

أَسْفٌ (س) أَسْفًا. عَلَیْهِ: عمیق ہونا۔
أَسْفُوسٌ کرنا۔ مَفْتَحٌ سِیْفٌ.
أَسْفَهُ إِسْفَا: غضبناک کرنا۔ عمیق کرنا۔
تَأَسَّفَ: افسوس کرنا۔ تَأَسَّفَتْ بِذِهِ: پھٹ
جاتا۔ کہتے ہیں "یا أَسْفِیْ وَیا أَسْفَا عَلَیْ
کَذَا" مجھے اس پر کس قدر افسوس ہے۔

الْأَسُوفُ: جلدی عمیق ہونے والا۔ نرم
دل۔

الْأَسِیْفُ: عمیق۔ وہ شخص جو مونا نہ ہوتا
ہو۔ مَسْأَرُی وَأَسْرَاءُ: مَسْأَرُی وَأَسْرَاءُ:
قیدی۔ حدیث میں ہے "لَا تَقْتُلُوا عَسِیْفًا
وَلَا أَسِیْفًا" مردور اور قیدی کو قتل مت
کرو۔

أَسْفٌ (س) أَسْفًا. عَلَیْهِ: عمیق ہونا۔
أَسْفُوسٌ کرنا۔ مَفْتَحٌ سِیْفٌ.
أَسْفَهُ إِسْفَا: غضبناک کرنا۔ عمیق کرنا۔
تَأَسَّفَ: افسوس کرنا۔ تَأَسَّفَتْ بِذِهِ: پھٹ
جاتا۔ کہتے ہیں "یا أَسْفِیْ وَیا أَسْفَا عَلَیْ
کَذَا" مجھے اس پر کس قدر افسوس ہے۔

الْأَسُوفُ: جلدی عمیق ہونے والا۔ نرم
دل۔

الْأَسِیْفُ: عمیق۔ وہ شخص جو مونا نہ ہوتا
ہو۔ مَسْأَرُی وَأَسْرَاءُ: مَسْأَرُی وَأَسْرَاءُ:
قیدی۔ حدیث میں ہے "لَا تَقْتُلُوا عَسِیْفًا
وَلَا أَسِیْفًا" مردور اور قیدی کو قتل مت
کرو۔

اجھی طرح پیداوار نہ ہو۔

الأسافة: افسوس۔ زمین کی نرمی۔

الإنسْفِج: انسج۔ واحد: إنسْفِجَة۔

الإنسْفِنْد: سفیدرائی۔ سفید۔

الإنسْفَقُورُ وَالسْفَقُورُ: ایک قسم کا دریائی

جانور ہے جو گرم ممالک میں ہوتا ہے اور

گرگٹ سے بڑا اور موٹا ہوتا ہے اور دم چھوٹی

ہوتی ہے۔

السقموی: سمندری لمبی مچھلی جس کا گوشت

لذیذ ہوتا ہے۔

الأسكلّة: بحر روم کی ہر بندر گلاب۔

أساكيل.

أسل (س) أسالة وأسیل (س) أسلا.

زرم، ہوار، لمبا ولامٹ ہوتا۔ صفت آسینل

مؤنث آسینة۔

أسل الرّمح: تیز کرنا۔ اپنی کی مانند بنانا۔

تأسل ه: عاقل و عادات میں مشابہ ہونا۔

کہا جاتا ہے "هو علی أسال من أبیه" وہ

اپنے باپ کے مشابہ ہے۔ آسال کا مفرد نہیں

آتا۔

الأسل: تپلی اور لمبی شاخوں والی ایک قسم کی

ناتات، واحد أسلة۔ تیزی اور ہر تیز اور

تپلی گوار اور چمڑی۔

الأسلة: زبان کی نوک۔ ذراع کا باریک

حصہ۔

الاسم: دیکھنا۔ مہادس۔

الاسمنت: سیٹ

أسامة: شیر کا علم جنس۔

أسن (ن ض) أسنا و أسونا و أسین

(س) أسنا و تأسن. الماء: ہنغیر ہونا۔

بدیودار ہونا۔ صفت اسین. تأسن و دة:

بدل جانا۔ تأسن آباہ: باپ کے اخلاق اختیار

کرنا۔

أسین (س) أسنا. الرّجل: سڑے ہوئے

پانی والے کنوئیں میں داخل ہونے سے بیہوش

ہونا۔ پھر چمڑا۔ صفت اسین۔

الأسن: چوٹی کا پتھر۔ جو آسان۔ الآسان:

آثار قدیمہ۔ آسان الثیاب: کپڑے کے

پوسیدہ اور کھینچے ہوئے حصے۔

الأسن: رشتی کی لڑی۔ ج أسون.

أسا (ن) أسوا و أسا. الجرح: علاج

کرنا۔

الرّجل: تسلی دینا۔ صفت مفعولی اسی۔

و ما سوا بينهم: صلح کرنا۔ ه بفلان: کسی

کو کسی کے لیے نمونہ قرار دینا۔

أسی تاسیة. الرّجل: علاج کرنا۔ تسلی

دینا۔ مدد کرنا۔

أسی مؤاساة. الرّجل فی مالہ: مالی

بہردی کرنا۔ آسیتہ. بنفسی: اپنے برابر

سمجھنا۔

تأسی: مبر کرنا۔ تسلی پانا و التسی: یہ:

اقتداء کرنا۔ پیروی کرنا۔

تأسی. القوم: ایک دوسرے کو تسلی دینا۔

الأسوة و الأسوة: اقتداء نمونہ۔ وہ چیز

جس سے تسلی حاصل ہو۔ ج اسی و اسی:

الأساء: دوا۔ ج اسیة۔

الأسو. دوا۔

الأسی: معالج۔ طیب۔ ج أساة و اساء

مؤنث اسیة ج اسیات و اواس۔

الأسوان: ٹنگین۔

النساء: تسلی دینا۔

الأسا: مبر۔

أسی (ض) أسیا. له من الشی: کسی کے

لیے باقی چھوڑنا۔

أسی (س) اسی: ٹنگین ہونا۔ صفت آس

و آسیان: ج آسیانوں. مؤنث اسیة:

أسیانہ ج آسیانات و آسیات و آسیایا.

الأمساءة: تکلیف دہ حادثہ جو ٹنگین کر دے وہ

ڈرامہ جو بڑے بڑے لوگوں میں دہشت پیدا کر

دے۔

الأسیة: ستون ج اواس کہا جاتا ہے

"ملك ثابت الأواسی" مضبوط سلطنت۔

الآش: سوکھی روٹی۔

أشب (س) أشبا و تأسب. الشجر: شجرت

گنجان ہونا۔ کہ جانا۔ صفت أشب۔

أشبه (ن ض) أشبا. ملامت کرنا۔ عیب

کیری کرنا القوم: مختلف لوگوں کو ملا کر گروہ

بنانا۔

أشب. الشجر: گنجان کرنا القوم:

آسانا۔

تأسب و انتسب. القوم: مل جل جانا۔

الأشب: درختوں کا ایس طرح گنجان ہونا کہ

جس سے گزرتا وہ شور ہو۔

الأشابة: لوگوں کا مخلوط گروہ۔ کمالی جس میں

حرام ملا ہو۔

نسب ماشوب۔

مؤتسب. مخلوط غیر خالص نسب۔

أشیر (س) أشرا: تکبر کرنا۔ اکزنا۔ صفت

أشیر و أشر و أشران. ج أشرونا

و أشرون و أشاری و أشاری.

أشیر (ض) أشرا. الخشبة: چیر پو آشیر.

الأسنان: کناروں کو تیز کرنا۔

أشیر و أشیر. المنشار: آرے کے

دندانے واحد أشيرة۔

الأسیر. ٹڈی کے پاؤں کا خار۔ ٹڈی کے دم

کے سرے پر کی گروہ۔ ج واشیر۔

الغاشیر. ٹڈی کے منہ کا وہ حصہ جس سے وہ

کسی چیز کو کاٹتی ہے۔ ٹڈی کے پاؤں کا خار۔ ج

تأشیر۔

أشیر علی و رفقة: اس نے کسی کام کے لئے

تحریر اجازت دی۔

المنشار: آرمہ۔ حاشیر و مواشیر۔

الاشقی: ستارے۔ ج اشقی، اشقی.

الاشقیل: ایک قسم کی نباتات۔

الأشنة: ایک قسم کی نباتاتی چیز جو درختوں پر

پھیلتی ہے۔

الأشنان و الأشنان: ایک قسم کی نباتات

جس کو ہاتھ دھونے میں استعمال کرتے تھے۔

أص. الشی: توڑنا۔ زرم کرنا۔

أصص. الشی: مضبوط کرنا۔

تأصصوا و اتقصوا: جمع ہونا اور پھیل کرنا۔

الأصيص. شکت برتن۔ گلدہ۔ پیشاب

اصر + اصل

اصل

اصم + اف

کرنے کا برتن۔ مضبوط عمارت۔ کچی۔

الأصيص: قریب قریب کے گھر۔

أصد وأصد: اللب: بند کرنا۔

وأصدہ: چھوٹی قمیص پہنانا۔

الأصدۃ: چھوٹی قمیص۔ کرتی۔ ج اصد

وإصاڈ۔

الأصید: صحن خانہ۔

أصر (ض) أصرًا: الشيء: توڑنا۔

الخيمة: خیمہ کے لئے ج بناؤ فلانا علیہ:

متوجہ کرنا۔ مہراں بنانا۔

أصرہ مؤاصرة: پڑوسی ہونا۔

تأصروا: باہم پڑوسی ہونا۔

انتصروا القروم: کثیر التعدد ہونا النبئ:

نبی اور نبیان ہونا۔

الأضر والأضر والأضر: عہد۔ بیان۔

بوجہ گناہ سے آزار۔ کان کا سوراخ۔

الأضار: ج أضر والأضر: ج ایاضر

الأضارة: خیمہ کی رستوں کی گھونٹا۔

الأصرة: تعلق۔ رشتہ داری۔ ج اواصر۔

اضطیل: اضطیل۔

اضطرك: ایک خوبصورت درخت تین سے چھ

میٹر لمبا ہوتا ہے اس کے پتے سفید ہوتے ہیں

پھول مالے کے پھول جیسے ہوتے ہیں۔ دودھ

والے درخت کے نام سے مشہور ہے۔ صحت

کے لئے پڑا فائدہ مند ہے۔

الصف: ایک قسم کا درخت۔

أصل (ک) اصالة: جزوالا ہونا۔ جڑ پکڑنا۔

شريف الاصل ہونا رتبہ: عمدہ ہونا۔ صفت

أصیل۔

أصل (س) أصلا: الماء: کچھڑکی وجہ

سے متغیر ہونا اللغۃ: بودا ہونا۔

أصل فلان يفعل كذا: بمعنى طفق

یعنی فلان ایسا کرتے گا۔

أصله: جزوالا بنانا۔ اصل بیان کرنا۔ شرافت

بیان کرنا۔

أصل أيضا: شام کے وقت میں داخل

ہونا۔ شام کے وقت آنا۔ اسی سے ہے آتینا

مؤصلین ہم شام کے وقت آئے۔

تأصل: جزوالا ہونا۔

استأصل الشيء: جڑ سے اکھیرنا۔

استأصلت الشجرة: جڑ پکڑنا۔

الأصل: جڑ۔ وہ چیز جو فرع کے مقابل ہو۔

والد۔ مصدر و شج۔ ما فعلته اصلا میں نے

اس کام کو پہلے نہیں کیا۔ ج اصلا

والأصول: وہ قوانین جن پر کسی علم یا فن کی

بنیاد ہوتی ہے۔

الأصیل: عصر و مغرب کے درمیان کا وقت

ج اصل و اصائل و اصل و اصلان

والاصیل: بغیر وکیل کے خود میں دین

کرنے والا۔

الأصيلة: جزوالا۔ جازوا باصیلتهم وہ

سب کے سب آئے۔

أض (ن ض) أضاً: الضیاء: مجبور کرنا۔

مضطر کرنا۔ فلانا: تھکانا۔

انتضض: الضیاء: تھکانا۔

الأض: جڑ۔ کہا جاتا ہے فلان کریم

الأض: فلاں شریف الاصل ہے۔

الأضاض: پناہ لینے کی جگہ۔ جلن، سوزش۔

الأضاض: تالاب۔ جوہر۔ ج اضمی

واضیات۔

الأضاضة: خربوزہ کی فالیز۔ بید کا جنگل۔

اضم (س) أضما: علیہ: غضبناک ہونا۔

بہ: تکلیف پہنچانے لگنا۔

الأضم: کینہ۔ حسد۔ غصہ۔ ج اضمات

أط (ض) أطيظا: آواز نکالنا۔ چڑچڑانا

الأبیل بلبلا۔ کہا جاتا ہے "ہم اهل أطيظ و

صہیل" وہ اونٹ اور گھوڑے والے ہیں۔

أطره (ض ن) أطرا واطره: موڑنا۔

مطاطر: موڑنا۔

تاطر: دوہرنا۔

الأطير: کمان کا خم۔

الأطير: گناہ۔ کہا جاتا ہے أخذہ باطير

غیرہ اس نے اس کو دوسرے کے جرم میں

پکڑ لیا۔

الاطار: چو کھٹا گھیرا۔ ہر احاطہ کرنے والی

جزیج اطر

قطرہ ناخنوں پر چڑھا ہوا گوشت۔

الاطل والاطل: ج اطل: الایطل ج

ایاطل: پہلو۔ کوکھ۔

اطم الاطام: قلعوں کو بلند کرنا۔

تاطم السيل: سیلاب کا بلند ہونا النار:

آگ سے لپٹ اٹھنا علیہ: بڑا بٹنا۔ غضبناک

ہونا۔

الأطم: قلعہ۔ ج اطام

الاطو: سمندری پھول۔ ایک قسم کی موٹی

کھال کی پھلی۔ زرافہ۔ گائے۔

الاطمة: آگ جلانے کی جگہ۔ چولہا۔ ج

أطامہ

أف (ن ض) أفًا وأفًا وأفًا: غم اور

بے قراری کی وجہ سے أف أف کہنا۔

الأفف: بے قراری۔ وقت۔

الأف: ناخن کا تراشہ۔ کان کا میل۔

أف: اسم فعل بمعنى العجز والكره (میں ناپسند

کرنا ہوں میں بے قرار ہوں)

الأف: بہت أف کرنے والا۔

أفخ: تالو پر بارنا۔

الباfox: تالو۔ بچے کے سر کا وہ نرم حصہ جو

حرکت کرتا رہتا ہے۔ ج یاfox کہا جاتا ہے

الأفخارستيا: عیسائیوں کے نزدیک قربان

مقدس کارزار۔

أفد (س) أفدا: جلدی کرنا۔ صفت أفد

واستأفد: الترشح: کوچ قریب ہونا۔

الأفد: بنی اسرائیل کے بڑے پادریوں کا

مخصوص لباس۔ (عبرانی لفظ ہے)

الأفرنج والأفرنجة والفرنج:

یورپ کے باشندے ہمسائے ترکی و روم کے

(فرائیس لفظ)

أف (ض) أفرا وأفورا: خدمت کرنے

میں چستی دکھلانا۔

أف (ض) أفرا: کودنا۔ اچھلنا۔

الأفستين: ایک قسم کی دوکان نام۔

اکر (ن) اکر و تاکر۔ الارض: جو تپتا

اور کاشت کرتا۔

الاکار: ہیکار۔ ج اکرة و اكارون

الاکار: اش فقہاء کے نزدیک وہ زمین جو

زمیندار کو دی تاکہ وہ اس پر کاشت کریں اور آباد

کریں۔

الاکارینا: کھانا جانے کا ایک آلہ۔

الاکور و دینون: گانے بجانے کا آلہ

اکاسیا: ایک درخت کا نام جو امریکہ میں پایا جاتا

ہے۔ اس کی پھول اچھی ہوا والا سفید یا گلابی

رنگ پھول ہوتے ہیں۔

الاکسیر: (کیما) جسم کا آکسیجن کے ساتھ

جمد ہو جانا۔ اس کی کئی اقسام ہیں ان میں سے

ایک لوہے کا رنگ آلود ہونا اور جسم کا گرم ہونا۔

الاکسید: وہ جسم جو دو بیسٹ چیزوں سے

مرکب ہوا ان دونوں سے ایک آکسیجن ہے۔

المؤکد: جس سے اس کی آکسیجن نکل جائے۔

الاکسرس: خوش مشرقی لوگوں کے نزدیک

گر جاکا ایک عمدہ۔

الاکسیجن: ایک گیس جس میں رنگ و بو

نہیں ہوتی سانس لینے کے لئے ضروری ہے اور

ایسے ہی جسموں کو گرم کرنے کے لئے اس کی

ہوا میں ۱/۵ کی نسبت ہے۔ اس کی تعبیر (O)

کے ساتھ ہوتی ہے۔

الحجر: الاکسیجن وہ گرم جسم شعلے جس

کی ہیٹ (O) NA اور اس میں نمک پتیل والا

بلا یا جاتا ہے اور جب وہ پانی میں رکھا جاتا ہے تو

پھل جاتا ہے اور اس سے آکسیجن ظاہر ہوتا

ہے۔

الماء: الاکسیجن چھٹنے والا سیل عام طور پر

محلول شکل میں فروخت ہوتا ہے۔

اکفف و اکفف: الیکافا۔ الحمار: گدھے

پر پالان باندھنا الیکاف: پالان بنانا۔

الاکف: پالان۔ ج اکفف و اکفف۔

الاکف: پالان بنانے والا۔ پالان بیچنے والا۔

اکل (ن) اکل و ما کلا۔ الطعام: کھانا

الشی: فنا کرنا۔

قسمت ہے۔

اقل (ض ن) اقل و اقل (س) اقل

الرجل: شادیاں ہونا المرصع: دودھ کا ختم

ہو جانا۔

اقل: تعظیم کرنا۔

تافل: تکبر کرنا۔

الاقیل: اونٹ کا بچہ۔ ج اقال و اقال

مؤنث اقیلة۔

اقل (ض) اقل: النافق: بے وقت دہنا

اللذ فلانا: ضعیف العقل بنا دینا۔

اقل (س) اقل و اقل: ضعیف العقل ہونا۔

صفت اقلین و مافون۔

تافل: تکلف کسی عادت کو اختیار کرنا۔ کھنا۔

او اخر الامور: انجام کی فکر کرنا۔

الاقان: وقت۔ کہا جاتا ہے "جاء فی اقلان

ذلک" وہ اس کے دوران میں آیا۔

الاقیون: اقل۔

الاقایا: دو اکانام۔

الاقحوان و القحوان: پاونہ۔ واحد

اقحوانہ و قحوانہ۔ ج اقاچی و اقاہ۔

اقاحی الامر: امر کا آغاز۔

الاقط و الاقط و الاقط و الاقط

و الاقط و الاقط۔ اقط۔ بچیر۔

الاقطاط: بچیر کا ٹکڑا۔

الاقصیص: ایک قسم کی گھاس جس کے پتے

کانسی کے پتے مانند ہوتے ہیں ترش اور کڑوی

ہوتی ہے۔

اکذ و وکذ۔ العهد و السراج: مضبوط

کرنا۔ مضبوط باندھنا۔ الشی: ثابت کرنا۔

تاکذ و توتکذ۔ مضبوط ہونا۔ ثابت ہونا۔

الاکید: مضبوط، موثق۔ ثابت۔

الاکائد و التاکید: وہ تھے جس سے زین

کے گلے حصہ کو باندھیں۔

الاکینیوم: شعاعوں والا جسم بیسٹ جس کی

رمز (A.C) ہے۔

الاکیدیہ: پھولوں کی قسم کا ایک پودا جس کے

پھل بالٹارنگ مزید ارنڈائے والے ہیں۔

اقل (ض) اقل: آفاق میں جانا الجلد:

رباغت دینا۔ صفت مفعول اقل ج آقفة

و اقل۔

اقل (س) اقل: کرم اور علم میں انتہا تک پہنچنا

صفت اقل و اقل۔

اقل الطریق: راستہ کا درمیانی حصہ۔

الأقل و الأقل: کنارہ، کنارہ آسمان۔ ہواؤں

کے جلنے کی جگہ۔ ج آفاق۔

الأقیقة: رباغت دی ہوئی کھال۔ سخت

مصیبت۔

الأقل و الأقل: یعنی کشتی کے اطراف جو

زمین کے ساتھ مس کریں۔

الأفاق: کمانے کے لیے آفاق میں پھرنے

والا۔

الأقفة و الأقفة: پہلو۔ کوکھ۔

الأقل: چمڑے کا بڑا دل۔

الأقل: وہ خط جس پر خط عمودی واقع ہو۔

اقل (ض) اقل و اقل و اقل (س)

اقل و اقل: جھوٹ بولنا۔ صفت اقل ج

اقل و اقل۔ ج اقل و اقل ج

اقل و اقل: اقل عن رابہ۔ رائے سے

پھیر دینا۔

اقل المکان: بے بارش والی ہونا۔ اقل

الرجل: ضعیف العقل ہونا۔

انقل: البلد باہلہ: اقل جانا الارض:

خنگ سالی سے جل جانا۔

الأقل و الأقل و الأقل: جھوٹ۔

گناہ۔ اقل کی جمع اقلان۔

الأقل و المافول: خیر سے محروم، عاجز

رائے والا۔

المؤتفکات: ہواؤں جو مختلف سمت سے

چلیں۔ وہ بستیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے اقل کر

تیار کر دی۔

اقل (ض ن) و اقل (س) اقل و اقل:

غائب ہونا۔ غروب ہونا۔ صفت اقل ج اقل

و اقل۔ کہا جاتا ہے "فلاق کعبہ سافل

ونجمہ اقل" یعنی وہ بد نصیب اور برگشتہ

زَيْدًا“ زید کے علاوہ سب لوگ آئے اور کبھی صفت کے لیے غیر کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے ”لِي رَسَالٍ إِلَّا رَجَالٌ“ میرے آدمی تمہارے آدمیوں کے علاوہ ہیں۔ اور کبھی نعتی کے بعد حصر کے لیے آتا ہے جیسے ”مَا ضَرَبَ إِلَّا زَيْدًا“ یعنی زید ہی نے مارا۔

أَلْب (ن ض) أَلْبَا وَأَلْبٌ جمع ہوتا۔

أَلْبَتِ السَّمَانَ: پیچہ برستا۔

أَلْب (ن ض) أَلْبَا وَأَلْبٌ جمع کرتا۔ أَلْب

بَيْتَهُمْ: فساد انگیزی کرتا۔

أَلْب: کسی شخص کی عداوت پر اکٹھا ہونے والی قوم، کہا جاتا ہے ”هُمْ عَلَيَّ أَلْبٌ وَأَجْدٌ“ وہ سب میری عداوت پر ایک ہیں۔

أَعْوَج شَهَادَاتٍ اور اُتَمُوخِيَّے کے درمیان کا

فاصلہ۔

أَلْبَكِيَّة: جنگل کا جانور جو امریکہ میں ہوتا ہے۔

أَلْت (ض) أَلْتَا وَأَلْتٌ وَإِلَاتًا. الرُّجُلُ

حَقَّةُ: حق میں سے گھٹانا۔ أَلْتُ الشَّيْءُ:

گھٹانا۔ (لازم و متعدي) أَنَّهُ يَمِينًا: قسم دلاتا۔

الرُّجُلُ: کسی کو اس کے ارادے سے باز رکھنا۔

أَلْتَنَةً: تموزا عطیہ۔ گزرے ہوئے واقعہ پر

جموئی قسم۔

أَلْدِي: اسم موصول۔ حَشِيْرٌ، أَلْدَانٌ. ج

أَلْدُونٌ تصغير اللَّذْيَانِ وَاللَّذْيَانِ وَاللَّذْيُونِ

مَوْزِعٌ التِّي ج اللُّوَاتِي وَاللَّاتِ وَاللَّاتِي حَشِيْرٌ اللَّتَانِ وَاللَّتَانِ. تصغير اللَّتِيَا وَاللَّتِيَا.

أَلْسَنَةٌ (ض) أَلْسَانٌ: خیات کرتا۔ دھوکا

دینا۔

أَلْسِنٌ: دیوانہ ہوتا۔ صفت مألوسٌ.

أَلْسَنَةٌ مَوَالِسَةٌ: ندر کرتا۔ خیات کرتا۔

أَلْسِنٌ: دیوانگی۔ خیات۔

أَلْفَةٌ (س) أَلْفًا. مألوس ہونا۔ نجات کرتا۔

صفت أَلْفٌ ج أَلْفٌ وَأَلْفٌ ج أَلْفٌ وَأَلْفٌ ج أَلْفٌ

أَلْفٌ ج أَلْفٌ اور اسم الألفئة. أَلْفٌ

الْمَكَانِ وَالْمَنَةُ وَإِلَافًا: کسی جگہ سے مانوس

ہونا۔

أَلْفَةٌ (ن ض) أَلْفًا. ایک ہزار دینا۔

آل: حرف تعریف ہے کبھی عہدی ہوتا ہے

جیسے ”اشْتَرَيْتَ عَبْدًا ثُمَّ بَعْتَ الْعَبْدَ“

میں نے غلام کو خرید اور پھر اسی غلام کو بیچ دیا۔

اور کبھی جہتی جیسے، خَلِيقَ الْإِنْسَانِ ضَعِيفًا“

انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اور کبھی اسم

موصول ہوتا ہے۔ جب کہ اسم فاعل واسم

مفعول پر داخل ہو جیسے، جَاءَ نَبِيُّ الضَّارِبِ

وَالْمَضْرُوبِ“ اور صفت مشبہ پر جو داخل

ہوتا ہے اس میں صحیح مذہب یہ ہے کہ وہ حرف

تعریف ہے۔

أَل (ن) أَلَانٌ: نیزے سے مارنا۔ دھکانا۔

الرُّجُلُ: دوڑنا اللؤلؤ: رنگ صاف ہونا۔

چکانا۔

أَل (ض) أَلَا وَاللَّاءُ وَالْيَاءُ. المَرِيضُ:

کراہنا۔

الرُّجُلُ فِي دُعَائِهِ: بگڑ گزانا۔

أَلَّت (س) أَلَلًا. الأَسْنَانُ: دانتوں کا

خراب ہونا۔

أَلَلُ: الشَّيْءُ: کسی چیز کو نوک دار بنانا۔

أَلَلٌ: عہد۔ پڑوسی۔ عمدہ اصل۔ عداوت و

کینہ۔

أَلَاكَةٌ: چھوٹا نیزہ۔ جگ کا سارا سامان۔

فَرَسٌ مَبْلٌ: حیرت انگیز گھوڑا۔

أَلَا: ایک لفظ ہے جو کلام کے شروع میں

مخاطب کو متوجہ کرنے کے لیے اور ابجد کی

چیزوں پر زور دینے کے لیے مستعمل ہے جیسے،

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ خِرَدٌ رَارٌ هُوَ يَتَّقِي عِيَابَ

بِي قَوْفٍ هِيَ. حرف تنبیہ جیسے ”أَلَا يَا صَاحِبَ

قَوْمٍ“ خبر دار الہے سامنے کی ہڑا ہو جا۔ حرف

عرض جیسے ”أَلَا تَقْبُولُونَ بِنَا“ یعنی براہ کرم

ہمارے پاس آئیے۔ حرف تفضیض جیسے

أَلَا تَقْبُولُونَ وَتَرْتَدُّونَ عَنِّي كَيْفَ تَهْتَبُونَ تَوْبَةً كَر

مَعْنَى چاہئے اور اپنی شرارت سے باز آ جانا

چاہئے۔

أَلَا: حرف تفضیض جیسے أَلَا تُكْرِمُونَ أَسْوَدَ

تَوْ تَوْ كَوَاعِبِ الدِّينِ كِي مَزَتْ كَرْنِي چاہئے۔

أَلَا: حرف استثناء: جیسے ”جَاءَ الْقَوْمُ إِلَّا

أَكْلَهُ (ن) أَكَلًا وَأَكَالًا وَأَكَالًا. رَأْسُهُ:

سر کھلانا۔

أَكَل (س) أَكَلًا وَتَأَكَّلٌ. أَلْسِنٌ او

الغَوْدُ: دانت یا کڑی کا کھو کھلا ہو کر گر جانا۔

أَكَلَةٌ وَأَكْلَةٌ أَي كَالَا. الشَّيْءُ: کچھ کھلانا۔

أَكَلَةٌ مَوَالِكَةٌ: ساتھ کھانا۔ کھلانا۔

أَتَكَّلٌ. بعض کا بعض کو کھانا۔ مِن

الغَضَبِ: غصے سے جل اُٹھنا۔ غصے سے تھما

باننا۔

أَتَكَّلَتِ النَّارُ: آگ کا سخت لپٹ والی ہونا۔

أَسَاكَلَةٌ. الشَّيْءُ: کھانا تیار کرنے کو کہنا

”قَلَانٌ يَسْتَأْكِلُ الضُّعْفَاءَ“: فلاں غریبوں

کا مال کھا رہا ہے۔

الأَكْلُ وَالْأَكْلُ: بھل۔ خوراک۔ کشادہ

رزق۔

أَلَاكَةٌ: لقمہ۔ نعبت۔

أَلَاكَةٌ: اکل کا اسم مرتبہ۔

أَلَاكَةٌ: خارش۔ کھانے کی بیت۔ نعبت۔

أَلَاكَةٌ: خارش۔

أَلَاكَةٌ: وہ بیماری جو عضو کو سزا دے۔

أَلَاكَالٌ: کھانا۔ اسی سے ہے ”مَنَازِلُتُ

أَكَالًا“ میں نے کچھ نہیں چکھا۔

أَلَاكَالٌ: خارش۔

الأَكَالُ وَالْأَكِيلُ وَالْأَكُولُ وَالْأَكْلَةُ:

بہت کھانے والا۔

المَاكِلُ: خوراک۔ ج مَاكِلٌ

المَاكِلَةُ: خوراک۔ جو چیز کھائی جائے۔

المَمَكِلَةُ: چھوٹا پیالہ۔

أَلْمِنْكَالُ: چوچہ۔ ج مَاكِلٌ

أَلْيَاكُولُ: خوراک۔ جو چیز کھائی جائے۔ ج

مَاكِلٌ

أَكَلُ الشَّمْلِ: ایک جانور بڑھ والا پستان والا۔

أَلَاكَةٌ: عضو میں بیماری کا کبیرا

إِسْتَاكَمَ: مَوَالِكَةٌ: نیلہ بن جانا۔

أَلَاكِمَةٌ: نیلہ۔ چھوٹی پہاڑی۔ ج أَكَمٌ

وَأَكَمَاتٌ ج أَكَامٌ وَأَكَمٌ وَأَكَامٌ

أَكِي (ض) أَكِيًا: دستاویز لیکنا۔

لکادی گی۔ یا اور میم کو جمع کر کے بللیہم بولنا ناجا تر ہے۔	الأولوق: دیوانگی۔ خون۔	الفة الافا ومؤلفة. باہم انس و محبت کے ساتھ رہا الفہ المکان ایلاف: کسی جگہ سے کسی کو مانوس بنا دینا بللیہم: ہزار بنانا۔
اللہ: ذات واجب الوجود کا نام بللیہم: اے اللہ۔	الاولوق: دیوانہ۔	الفو: ہزار ہونا۔
الألوهة والألہة والألہیة والألوهیة والألہانیة۔ معبودیت۔	المملوق: بے وقوف۔	الف کتاب: مسائل کو جمع کرنا لشیء: ایک کو دوسرے سے ملا لینیہم: محبت ڈالنا۔ محبت واقع کرنا لالف: پورے ہزار کرتا۔
الإلہة۔ بڑا ساپ۔ نیا چاند۔	الک الکا والوکة والوکا و مالکا۔	الف ہونا تالف لشیء: اجزاء کا مرتب طور سے اکٹھا ہونا۔
الألہة والألہة۔ آفتاب۔	الک الإلہة: پیغام پہنچانا۔ الفرس للجام: گھوڑے کا لگام کو چبانا۔	الف: اوپری دل سے محبت کرنا۔ انقلوا وتالفوا: اکٹھا ہونا۔
علم الألہیات۔ وہ علم جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے بحث کی جائے۔	استالك: الؤحیة: کسی کا پیغام لے جانا۔	استالف: دوست و ساتھی ڈھونڈنا۔ الوف والألفة: دوستی۔
آل (ان آلوا) والوا وألیا وألی تالیة وانتلی ابتلاء۔ فی الأمر: کوتاہی کرنا۔	المملک والملاک: فرشتہ۔ ملائک ملائکة۔	الف: ہزار الف و آلف۔
سستی رکھنا۔ کہا جاتا ہے علم یال جہذا اس نے اپنی کوشش میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کی۔	الاولوک والألوکة والمالک والمالکة: پیغام۔ لکناک و مالک۔	الف: حروف تہجی کا پہلا حرف۔ ہر چیز میں کا ایک مرد جس کی بیوی نہ ہو۔ بازو کے اندرونی حصہ کی ایک رگ کا نام۔
آلی ایلاء وتالی والتعلیہ قسم کھانا۔	المملوک: دیوانہ۔	أوالف الطیر: گھروں میں رہنے والے پرندے۔
الاولیٰ عطیہ۔ بھری کی میٹھی۔	للانکسزون: بہت باریک عنصر جس کا وجود نظر نہ آئے انتہائی خطرناک مٹی چارج والا۔	الف کی طرف نسبت۔ اور اصطلاحا اس قصیدہ کو کہتے ہیں جس میں کسی فن کے قواعد بیان کئے گئے ہوں۔ جس کے اشعار کی تعداد ہزار ہو اور ان میں مشہور تر "الفیہ ابن مالک" ہے۔
الألویٰ والألوة والألویة: اگر کی تکڑی تالاویہ۔	اللم (س لکما) دکھی ہونا۔ مضطلم۔ لم تالیما واللمہ ایلاما۔ دکھ دینا۔	الإلیف: عہد۔ پروانہ راہداری۔
الألوة والألوة والألیة قسمیة کی جمع آلیا۔	تالیم۔ دکھی ہونا۔	التالیف: مصدر کتاب۔
الالیٰ بہت قسمیں کھانے والا۔	اللم۔ دکھ۔ ج آلام۔	الاولف: بہت محبت کرنے والا۔ لکھ۔
المیلاة وہ کپڑے کا ٹکڑا جس کو نوحہ والی عورت اپنے ہاتھ میں لے کر ہلاتی جاتی ہے۔ حال۔	اللم۔ درناک۔	المالک: مرغوب و مانوس چیز۔ مالک۔
الی (س لکما) الکیش: مینڈھے کا بڑی چمکی والا ہونا۔ مفضلان والی مونث الیاء والیانة۔ لکھی۔	اللم۔ ہیرا۔	المولف: مصنف۔ ہزار کا مالک۔
الالیة ذنبہ کی چمکی۔ شہان بفر تارہ کے۔ تالیات والیات۔	الاولیوم: ایک سفید سا کان خفیف موصل حرارت اور بجلی کے لئے بہت فائدہ مند ہے گھریلو برتنوں میں عام استعمال ہوتی ہے۔ بیٹھ جسم جس کی رمز AL ہے۔	الف (ض لقا و تالق و انقلق البرقی: بجلی چمکانا۔ کو تارہ۔
الالی والالی والالی نعمت لآلہ۔	الہ (ف) لؤلوهة والاہة والوہیة پرستش کرنا۔ بندگی کرنا۔	الف: الریحل: جھوٹ بولنا۔
الآلہ والالی ایک قسم کا درخت جو ہمیشہ سبز رہتا ہے اور اس کا پھل کڑوا ہوتا ہے۔ واحد الآلہ۔	الہ (س لکما) متحیر ہونا۔ کہا جاتا ہے "ألہت علیہ" میں نے اس پر بہت زیادہ جرح فرز کیا۔	الف القا: دیوانہ ہونا۔ مضغنیق و مما لوق۔
الآلای۔ فوج کا دستہ ج الایات۔ ترکی کلمہ ہے۔ اس کے لیے عرفی لفظ ہے۔	الہ ہ: غلام بنانا۔ خدا کا مرتبہ دینا۔ پرستش کرتا۔	الالی: بھیریا۔ لکھی بدخلق لؤلہة: بندریا۔
حرف جر ہے۔ معالی ذیل میں مستعمل	الآلہ۔ معبود بن جانا۔ باخدا ہونا۔ استالہ۔ معبود سے مشابہ ہونا۔ الولہ۔ معبود۔ لؤلہة۔ یعنی اللہ: حرف شدہ یا کے بدلے میم	

کرنٹ۔

الامیر بیولوجیا علم الاجنہ چہ بچہ کا علم۔

امت (ض) امتنا واقنتہ ابتداء کرتا۔ قصد کرتا۔

الامت کمزوری۔ بلند جگہ۔ شک۔ خالی ہونا۔ شیبہ۔ فراز۔ ج امانت و امانت۔

امح (س) امحا گرم ہونا۔ بیاسا ہونا۔ (ض) امح تیز چلانا۔

صیف امح بخت گرمی۔

امح (ض) امحانا الخرج خورد کرتا۔

امح (س) امحا علیہ غفبتناک ہونا۔

امدیت بیان کرنا السقواء ایک قطرہ نہ چھوڑنا۔

الامد غایت، آخری حد۔ غصہ۔ ج امداد کہا جاتا ہے "طال علیہم الامدان کے اوپر مدت طویل ہو گئی۔"

الامد و لامدہ بھری ہوئی کشتی۔

امر (ن) امر او امرہ و اما را حکم دینا۔

صفت امر اور صفت مفعول ماضور کہا جاتا ہے امرہ الشیء و بالشیء و امرہ ان یفعل و بان یفعل اس کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کا حکم دینا۔

امر (س) امر او امر (ک) امرہ و اما را بامر و احکام ہونا علیہ و بالی ہونا۔

امر (س) امر او امرہ و امرہ الشیء بہت ہونا۔

الرجل بہت موسی کا مالک ہونا۔ صفت امر۔

امرہ و بامر و احکام ہونا۔

امرہ مرامر فی امر: مشورہ کرتا۔

امرہ امرازا حکم دینا اللہ بال یا نسل بڑھانا۔

تامر و التمر و استامرہ مشورہ کرتا۔

تامر علیہ تسلط ہونا۔ زبردستی کرنا۔ استمر الامر وہ برہن بر داری کرنا۔

استمر او ناصر او باہم مشورہ کرتا۔

استمر و بفلان: کسی کے قتل کی سازش

کے موقع پر بھی بولتے ہیں۔

الامام آگے۔ و اما ملک کلمہ تخریر ہے۔

بمعنی بچو۔ الامام لید کر و موٹ دونوں کے لیے) پیش امام۔ جس کی اقتداء کی جائے۔ پیشوا۔ ذوری

جس سے معمار عمارت کی سیدھ قائم کرتے ہیں۔ نمونہ۔ واضح راستہ۔ سبق جتنا ہر روز

لا کے پڑھیں۔ قرآن۔ خلیفہ۔ امیر لشکر۔ مصلح اور منتظم۔ الامامہ خلافت و پیشوائی۔

الامۃ جماعت۔ لوگوں کا گروہ، طریقہ۔ وقت۔ قد و قامت۔

الامۃ ابن پڑھ۔ امیہ ہنا لکھنا جانے والے لوگ

امۃ

الامۃ و الامومہ بل ہونا۔ ماد ریت۔ التامیہ زمین جائید اور وسائل آمدن کو قومی ملکیت میں لینا۔

اما حرف تمبیہ ہے اس کے بعد اکثر قسم آتی ہے جیسے اما واللہ جرف عرض جیسے "اما

تذول بنا۔"

اما حرف شرط و تاکید جیسے "اما الذین آمنوا فیلعلمون انه الحق جو لوگ ایمان لائے وہ اس کے حق ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔

حرف تفصیل جیسے "اما زید فریح اس کے جواب میں فاء کا آنا ضروری ہے۔

اما حرف تفصیل ہے جیسے "انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کنورا ہم نے انسان کو راستہ دکھلا دیا اس کے بعد وہ شکر گزار بندہ بنے یا ناشکرانہ بن گئے۔ اور اس کے مواقع استعمال میں سے موضع شک و ابہام

و اباحت و تحجیر ہے جیسے "سواء اما زید و اما عمرو یعنی یازید آیا یا عمرو۔ جبکہ یہ معلوم نہ ہو کہ ان دونوں میں سے کون آیا۔ اور جیسے

تعلّم اما الفقہ و اما اللغۃ یعنی یا فقہ یا لغت سیکھو۔

بجلی کا سخت کرنٹ۔

الامیر ۳۶۰۰ میگا واٹ بجلی کا

الامیر الساعی

الامیر الساعی

ہے انتہاء زمانہ کے لیے جیسے "درس الی المسایاں نے شام تک پڑھا۔ انتہاء مکان

کے لیے جیسے "سار الی البیت گھر تک چلا۔ بمعنی عند جیسے "کلامہ اشعی الی من

الرحیق ابن کی گفتگو میرے نزدیک شراب سے زیادہ مرغوب ہے۔ بمعنی لام جیسے "الامرا

الیک معاملہ تیرے اختیار میں ہے۔ بمعنی مع جیسے "ضمہ هذا الی ذاک اس کو اس کے ساتھ مالا۔

الیک اسم فعل بمعنی دور رہو۔ ہو جیسے "الیک عنی یعنی تو مجھ سے دور ہو جا۔ اور بمعنی

خذ جیسے "الیک الکتاب یعنی کتاب کو لے لو۔

الی اولیٰ کی جگہ استعمال ہوتا ہے جیسے "العرب الالی قدماء عرب۔ اولیٰ اسم

اشارہ جمع قریب کے لیے ہے۔

ام حرف عطف ہمزہ استفہام کے بعد تسویہ اور برابری کے مفہوم کے لیے آتا ہے ہے۔

جیسے "اقرب ام بعد ما تو عدون اور کبھی بل کے بمعنی میں آتا ہے۔ جیسے "ہا

یستوی الاعسی والبصیر ام تستوی الظلمات والنور۔

المن) اما و اتمہ و تاممہ و اتمہ قصد کرنا و اتمہ چند بار ملانا۔ دماغ پر مشورہ پہنچانا۔

امامۃ و اما و اما۔ القوم و بالقوم بالام بنا۔

امت امومہ بل ہونا۔

تاممہ المراد بل ہونا۔

اتمہ بہ اقتدا کرنا۔ و استامہ۔ بالام ہونا۔

استامہ المراد بل ہونا۔

الامہ بل۔ کسی چیز کی اصل ج افضات و امانت اور بقول بعض افضات انسان کے لیے اور امانت بہائم کے لئے۔ ام اربع و اربعین کن مجھورا۔

ام الدماغ دماغ کی جملی۔ ام الراس دماغ یاد دماغ کی جملی۔

لا ام لک کلمہ ذم ہے اور کبھی مدح و استحسان

الامتنہ: قولان بعیدہ
الامتنہ: اطمینان۔ دل کا سکون۔ امانت۔ ہر ایک پر بھروسہ کرنے والا۔
الامنیۃ: معتد علیہ۔ امانی و امانت
الامانۃ: امانت۔ ودیعت۔ ج امانات
فریضہ و خداوندی۔
الایمان: مان لینا۔ تصدیق کرنا۔
الامون: سواری جس کے ٹھوکر کھانے کا خوف نہ ہو۔
الامین: امانت دار۔ وہ شخص جس کے پاس امانت رکھی جائے۔
البلد الامین: مکہ معظمہ۔
الامان: امانت دار۔ معتد علیہ۔ کا شکار۔ وہ شخص جو لکھنا نہ جانتا ہو۔
امین وامین: اسم فعل بمعنی قبول کرنا۔
المؤمن: مان لینے والا۔ تصدیق کرنے والا۔
تیز اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے ہے۔
السامون: معتد علیہ۔
المنامن: امن دے خونی کی جگہ۔
امہ (س) امنہ وامنیہ الشیء بھولنا۔
امہ (ن) امنہ اللہ فی الامر: عہد و پیمان کرنا۔
تاقۃ السرۃ: مال بنانا۔
الامنۃ: مال
امنا (ن) وامنی (س) وامی (ض) امرۃ۔
امت الحاربیۃ: باندی ہونا۔
امت الاموۃ السنوۃ: میاؤں میاؤں کرنا۔
امی الحاریۃ: باندی بنانا۔
تامی واستامی الحاریۃ: باندی بنانا۔
الامۃ: اردنی۔ اندری۔ ج اماء واموات
وام: نسبت کے لیے اموی تصغیر امیۃ۔
امیۃ: قریش کا ایک قبیلہ۔ نسبت کے لیے اموی اور بسا اوقات اموی بھی کہتے ہیں۔
ان (۱) حرف مصدری سے فعل مضارع کو نصب دیتا ہے جیسے
ان تصیرموا حیر لکم
کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے۔

المتنصر: مشورہ۔ کہا جاتا ہے
من المتنصر قریب من المتنیر: وہ مشورہ سے بعید اور چغلی سے قریب ہے۔
امس: مبنی علی انکر: کل گذشتہ۔
الامیس: (اعراب حالت میں) گذشتہ ایام میں سے کوئی دن۔ ج آس واموس وآس۔
نسبت کے لیے السسی خلاف قیاس۔
الایمیع والایمعد: ہر ایک کی رائے کی پیروی کرنے والا۔ لوگوں کے ساتھ بغیر بلائے ہونے دعوت میں شریک ہونے والا۔ ج امعون اور اصع کی اصل النی معن ہے۔
اصعد: اضعاع کی
ایمانت نامہ کی نہیں مبالغہ کے لئے ہے۔
تافع واستناع: ہر ایک کی رائے کا تابع بننا۔
املاہ: املاہ واملاہ تامیلا: امید کرنا۔
تامل الامر وفیہ: غور کرنا۔ دیر تک سوچنا۔
الامل والامل: امید ج آمل۔
الاملۃ: امید۔
الاملۃ: وہ لوگ جن کی مدد کی امید رکھی جائے واحد امل۔
الامل جدر (علم کیسیا) C-S-H-B
المنامل: امید۔ جس کی امید رکھی جائے۔
امن (ک) امانۃ: امین ہونا۔ امانت دار ہونا۔ معتد علیہ ہونا۔ صفت امین۔ ج امنہ۔
امن (ض) امنہ: اعتماد کرنا۔ بھروسہ کرنا۔ مائل ہونا۔ صفت امن۔
امن (س) امنہ وامنا وامانا وامنتہ: مطمئن ہونا۔ صفت امن وامین وامن۔
الاسدزم: محفوظ رہنا۔
امن آمین کہنا: امن وامینان میں کرنا۔
امن وامینان علی کذا: کسی کو کسی چیز کا امین بنانا۔
امن سمحنا۔
امنہ ایسانا امن ویناہ: تصدیق کرنا۔
اعتماد و بھروسہ کرنا۔
تایجاد و مطیع ہونا۔
استمانہ: امن طلب کرنا۔ امین سمحنا علی کذا۔ امین بنانا۔

کرنا۔
الامر: امر: حکم فرمان۔ ج امور۔
الامر: امر: "لا امر ما کان کذا"
کام۔ واقعہ۔ چیز جیسے "اولو الامر"
کسی چیز کی وجہ سے ایسا ہوا۔
اسلامی حکومت کے حکام و علماء۔
الامیر: امراء: مشورہ دینے والا۔
الامرۃ: امر کا اسم مرہ۔
الامرۃ: امر کا اسم نوع۔ حکومت۔ ولایت۔
الامارة: علامت۔ ج امارات۔
الامر: عجیب۔ خلاف شرع و خلاف عقل سلیم بات۔
الامر والامرۃ: کمزور رائے والا۔ کہا جاتا ہے "مالہ امر ولا امرۃ" یعنی اس کے پاس کچھ نہیں۔
الامار: بہت حکم دینے والا۔ برائی پر اکسانے والا۔ مؤنث امرارة۔
التامور: برتن۔ دل۔ بادشاہ کا وزیر۔
التامورۃ: راہب کا صومچہ۔ شیر کا کھچارہ۔
التاموری: التاموری والتومری۔
انسان۔
الامیر: حکم دینے والا۔ والی قوم۔ شریف آدمی۔ اس کلمہ کا اطلاق اس شخص پر ہوتا ہے جو شریف الاصل ہو اگرچہ صاحب امر نہ ہو۔
پڑوسی۔ وہ شخص جس سے مشورہ کیا جائے۔
امیر البحر: بحری کمانڈر۔
امیر الای: فوج کے ایک دستہ کا سربراہ بحری بیڑے کا کپتان۔ ج امراء۔
امیر الامیر: شاہی ٹیکس۔
الامیر: کانفرنس۔
سیرسیرج موتراث کانفرنس
موسمردلی نیشل کانفرنس۔ مؤتمرد
ثقافی اولی کانفرنس۔ مؤتمر علمی۔ علمی کانفرنس۔ مؤتمر سیاسی۔ سیاسی کانفرنس
امیر المؤمنین: حضرت عمر بن الخطاب اور بعد والے خلفاء کا لقب
المؤتمر: فا: خوردائے ایام عجز کا آخری دن۔

(۴) مخفف ہے اس مشغلہ سے اور افعال یعنی ان کے مشارک کے بعد آتا ہے جیسے

سَيَكُونُ مَرَضِيًّا مَرَضِيًّا اللَّهُ جَعَلَ جَانِبَهُ حَسْبِيًّا

تم میں سے بہتر ہوں گے۔ لوگوں نے گمان کر لیا کہ

آزمائش نہیں ہوگی۔ "فَاَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ

(۳) مفسر یعنی اسی جیسے "اصْنَعِ الْفُلْكَ" پس وحی بھیجی ہم نے طرف

اس کی یہ کہ بنا سکتی کو۔ "لَمَّا أَنْ جَاءَ

(۲) نازیدہ تاکید کے لیے جیسے "الْبَشِيرِ" جب آیا خوشخبری لانے والا۔

ان حرف شرط سے وہ فعلوں کو جزم دیتا ہے

"أَنْ كَضْرِبًا تَضْرِبُ" اگر تومارے گا

جیسے مارا جائے گا۔

حرف نفی ہے۔ جملہ اس میں داخل ہوتا ہے اور

بعضوں کے نزدیک قیاس کا عمل کرتا ہے

جیسے "أَحَدٌ خَيْرٌ مِنْ أَحَدٍ" یعنی عافیت کے بغیر کوئی کسی سے

بہتر نہیں۔ اور کبھی جملہ فعل میں داخل ہوتا ہے جیسے

"أَدْرِي أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدُ مَا تَوْعَدُونَ" میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے

وہ قریب ہے یا بعید۔

* مخفف ہے ان مشغلہ سے اور انہا صورت میں

زمانہ ہوتا ہے جیسے "أَنَا زَيْدٌ قَائِمٌ" ان حرف تاکید سے اسم کو نفی اور خبر کو

رفع دیتا ہے جیسے "أَنَا زَيْدٌ قَائِمٌ" ان حرف تاکید سے اسم کو نفی اور خبر کو

رفع دیتا ہے جیسے "لَعْنُ اللَّهِ" ناقصہ حملتھی "لَعْنُ اللَّهِ" یعنی اللہ اس کو نشتی پر

لعنت کرے جو جھ کو تیرے پاس لائی ہے اس کے جواب میں کہا جائے

یعنی یہاں اور اس کے سوا پر بھی۔ ان حرف تاکید سے جو خبر کو رفع اور اسم کو

نصب دیتا ہے اور جملہ کو تاویل مفرد کرتا ہے

جیسے "بَلِّغْنِي أَنْ زَيْدًا قَائِمٌ" جھ کو زید کے قیام کی خبر بھیجی۔

ان (ض) اَيْنَا وَاَنَا وَتَانَانَا:

کراہتا ہے آہ کرنا اور الائنہ: الائنہ والائنان والائنان:

یہت کراہنے والائنان والائنان:

الائنان والائنان: کراہتا (حاصل مصدر) انا میں (واحد متکلم کی ضمیر مرفوع منفصل)

الائنان: تانا کہتا۔ ائنانیہ: ڈیک خود غرضی۔ اذعاء۔ ائنانیہ: پھر کہنا۔ ملامت کرنا۔ ائناناس: مشہور لذیذ خوشبودار پھل کا نام

ہے اکثر ہمالک خطہ استوائی میں پویا جاتا ہے۔ ائنانس: کاد رخت جس کے پھل کو مانجا یعنی

آم بولا جاتا ہے۔ اس کا پھل سخت گھٹلی والا اور مزیدار ہوتا ہے۔

الائنان: منک یا ایک قسم کا عطر۔ الائنیق: عرق کشید کرنے کا آلہ۔ ج

الائنی (جدید) ائنت وائنت (تو واحد حاضر مذکر و مؤنث کی ضمیر مرفوع منفصل) ج ائنت وائنت: وہ علم جس میں انسانی طبائع

اس کی معیشت، فنون، اوزار اور ایجادات پر بحث ہوتی ہیں۔ الائتموان: سفید شفاف جوہر جو طبع شدہ

حرف پر لگایا جاتا ہے جس کی رمز S.B (علم) کیلئے) ائنت (س) ائنتا: الحديد: لوہے کا کپا

ہوئے نرم ہوتا۔ مخنت ہونا۔ صفت (ائنت) مکان ائنت: جہی زمین میں گھاس وغیرہ

جلدی آگے۔ ائنتہ: مؤنث بنانا۔ مؤنث سمجھنا۔ مخنت بنانا

ائنتہ: مؤنث بنانا۔ مؤنث سمجھنا۔ مخنت بنانا

ائنتہ: مؤنث بنانا۔ مؤنث سمجھنا۔ مخنت بنانا

ائنتہ: مؤنث بنانا۔ مؤنث سمجھنا۔ مخنت بنانا

ائنتہ: مؤنث بنانا۔ مؤنث سمجھنا۔ مخنت بنانا

ائنتہ: مؤنث بنانا۔ مؤنث سمجھنا۔ مخنت بنانا

ائنتہ: مؤنث بنانا۔ مؤنث سمجھنا۔ مخنت بنانا

ائنتہ: مؤنث بنانا۔ مؤنث سمجھنا۔ مخنت بنانا

ائنتہ: مؤنث بنانا۔ مؤنث سمجھنا۔ مخنت بنانا

ائنتہ: مؤنث بنانا۔ مؤنث سمجھنا۔ مخنت بنانا

ائنتہ: مؤنث بنانا۔ مؤنث سمجھنا۔ مخنت بنانا

ائنتہ: مؤنث بنانا۔ مؤنث سمجھنا۔ مخنت بنانا

ائنتہ: مؤنث بنانا۔ مؤنث سمجھنا۔ مخنت بنانا

ائنتہ: مؤنث بنانا۔ مؤنث سمجھنا۔ مخنت بنانا

ائنتہ: مؤنث بنانا۔ مؤنث سمجھنا۔ مخنت بنانا

ائنتہ: مؤنث بنانا۔ مؤنث سمجھنا۔ مخنت بنانا

جننے کی ہو۔ مرد کے لیے بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اس لیے کہ مفعول کا وزن دونوں کے لیے

یکساں ہے اور اس کے مقابلہ میں مذکار ہے یعنی وہ عورت جس کی عادت لڑکے جننے کی ہو۔

الانجین: وہ آسمانی کتاب جو عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی۔ ج اناجیل۔ (کلمہ یونانی ہے جس کے

معنی بشارت کے ہیں) ائناس (س) ائناس (س) ائناس وائسنہ

وائسنہ (س) ائناس (س) ائناس وائسنہ: ائناس (س) ائناس (س) ائناس وائسنہ

وائسنہ (س) ائناس (س) ائناس وائسنہ: ائناس (س) ائناس (س) ائناس وائسنہ

وائسنہ (س) ائناس (س) ائناس وائسنہ: ائناس (س) ائناس (س) ائناس وائسنہ

وائسنہ (س) ائناس (س) ائناس وائسنہ: ائناس (س) ائناس (س) ائناس وائسنہ

وائسنہ (س) ائناس (س) ائناس وائسنہ: ائناس (س) ائناس (س) ائناس وائسنہ

وائسنہ (س) ائناس (س) ائناس وائسنہ: ائناس (س) ائناس (س) ائناس وائسنہ

وائسنہ (س) ائناس (س) ائناس وائسنہ: ائناس (س) ائناس (س) ائناس وائسنہ

وائسنہ (س) ائناس (س) ائناس وائسنہ: ائناس (س) ائناس (س) ائناس وائسنہ

وائسنہ (س) ائناس (س) ائناس وائسنہ: ائناس (س) ائناس (س) ائناس وائسنہ

وائسنہ (س) ائناس (س) ائناس وائسنہ: ائناس (س) ائناس (س) ائناس وائسنہ

وائسنہ (س) ائناس (س) ائناس وائسنہ: ائناس (س) ائناس (س) ائناس وائسنہ

وائسنہ (س) ائناس (س) ائناس وائسنہ: ائناس (س) ائناس (س) ائناس وائسنہ

وائسنہ (س) ائناس (س) ائناس وائسنہ: ائناس (س) ائناس (س) ائناس وائسنہ

وائسنہ (س) ائناس (س) ائناس وائسنہ: ائناس (س) ائناس (س) ائناس وائسنہ

وائسنہ (س) ائناس (س) ائناس وائسنہ: ائناس (س) ائناس (س) ائناس وائسنہ

وائسنہ (س) ائناس (س) ائناس وائسنہ: ائناس (س) ائناس (س) ائناس وائسنہ

وائسنہ (س) ائناس (س) ائناس وائسنہ: ائناس (س) ائناس (س) ائناس وائسنہ

وائسنہ (س) ائناس (س) ائناس وائسنہ: ائناس (س) ائناس (س) ائناس وائسنہ

وائسنہ (س) ائناس (س) ائناس وائسنہ: ائناس (س) ائناس (س) ائناس وائسنہ

وائسنہ (س) ائناس (س) ائناس وائسنہ: ائناس (س) ائناس (س) ائناس وائسنہ

وائسنہ (س) ائناس (س) ائناس وائسنہ: ائناس (س) ائناس (س) ائناس وائسنہ

وائسنہ (س) ائناس (س) ائناس وائسنہ: ائناس (س) ائناس (س) ائناس وائسنہ

وائسنہ (س) ائناس (س) ائناس وائسنہ: ائناس (س) ائناس (س) ائناس وائسنہ

انسان کی خصوصیات۔ اکثر اس کا استعمال اخلاق محمودہ کے لیے ہوتا ہے۔

الأنفوس: بیٹھ اُٹس کرنے والا من الکلاب: نیک لائے والا کلاب اُنس۔

الأنیس: اُنس کرنے والا۔ وہ شخص جس سے اُنس حاصل ہو کہا جاتا ہے۔ "مَا بِالذَّارِ مِنْ أَنْيْسٍ" یعنی گھر میں کوئی نہیں الانیس:

یک آبی پرندہ جس کی آواز گائے کی آواز سے مشابہ ہے۔ مرغ۔

الأنیسَة والمأنوسَة: ہنگ۔

المُونِس: اُنس دینے والا۔ شیخ شبہ کے دن کا نام۔ ابو مونس: شیخ۔

المُونِسَات: چھپیار۔

الأنیسولین شوگر کی بیماری کی دوا۔

الأنیسون (ایک دوا کا نام)

انص (ض) انیضا. اللحم: خراب ہونا۔

انص (ن) انیضا. خوف کی وجہ سے آنسوں کا حرکت کرنا۔

انص ایناصا. اللحم: نیم بریاں کرنا۔

انص (س) انفا. من العار: خوددار ہونا۔

ناپسند کرنا۔ مفت (انوف) اور اسم (الانفَة)

البعیر: ناک میں درد ہونا۔ مفت (انف)

انف (ن ض) انفا: ناک پرانا۔

انص (ض) انصاف. الشی: لاسر نو کرنا۔

اور اسی سے ہے "استأنف الدعوی" یعنی

اس نے اپیل کی۔

الأنف: ناک۔ أنف الجبل: پہاڑ کا ٹکڑا ہوا

گوشہ۔ "أنف کل شیء" ہر چیز کی ابتدا کہا

جاتا ہے "مات حنفاً أنفہ" ہوا پنی طبعی

موت مر۔ رعم أنفہ: وہ ذلیل ہوا۔ حمی

أنفہ: وہ غالب و زبردست ہوا۔ ج أنف

وأنرف وأنف

أنفا: بھی کہا جاتا ہے "ذکرتنا أنفا" میں

نے اس کو ابھی یاد کیا۔ یہ ہمیشہ برہنہ ظرفیت

منسوب ہوتا ہے۔

أنفَة الشَّبَاب: آغاز جوانی۔ کہا جاتا ہے

"مَصَّتْ أَنْفَةَ الشَّبَابِ" جوانی کی مٹی ختم ہو گئی۔

الأنف: من الریاض: وہ سرسبز و شاداب

حصہ زمین جس کو کسی جانور نے چرانہ ہو۔

کأنس۔

أنف: وہ پیالہ جس سے کسی نے پیانہ ہو۔

الأنیف: نرم لوہا۔ تمام زمینوں سے پہلے

پیداوار اگانے والا پہاڑ۔

أنف العُجَل: زیب و زینت کا ایک پودا اس کے

پھول بعض جانوروں کے سر کے مانند ہوتے

ہیں اس کے متعدد رنگ ہیں۔

رَجُلٌ أنافی: بڑی ناک والا مرد۔

المُستأنف: من الأمر: وہ کام جس کو ابھی

کسی نے نہ کیا ہو۔

أنیق (س) انقا: خوش ہونا۔ الشی: پسند

کرنا بہ: پسند کرنا اور ماسوا پر ترجیح دینا الشی:

خوبصورت و تعجب انگیز ہونا۔ صفت أنیق

وأنیق ومونق. کہا جاتا ہے "رَوْضَةُ أنیق و

أنیقَة" خوبصورت باغ۔

أنقَة: تعجب میں ڈالنا۔

أنقَة ایناقا و نیفا: تعجب میں ڈالنا۔ بیٹا

مصدر خلاف قیاس ہے۔

تأنق: نفاست پسند ہونا فی الکلام او

العمل: اچھی طرح کرنا المكان: پسند

آنے کی وجہ سے جدانہ ہونا۔

الأناقَة و الإناقَة: حسن پسندیدہ۔

الأنوق: عقاب "هُوَ أعزُّ مِنْ بَیضِ

الأنوق" وہ عقاب کے اٹھنے سے زیادہ کیاب

ہے۔ بطور مثل کے اس چیز کے لیے بولتے ہیں

جس کا حصول محال ہو۔

انی (ض) انیا وانی و آناء وانی تانیة:

قریب ہونا۔ آنا النبات پک جانا۔

انی یانی وانی (س) انیا وانی: دیر کرنا۔

پیچھے رہنا۔ صفت انی

انی ایناء. فلانا: دیر کرنا۔ پیچھے ڈالنا۔

تانی و استانی. فی الامر وہ: اچھی طرح

غور فکر کرنا الرجل: مہلت دینا۔

الأناء: نواقار۔ بردباری۔ صبر و مہلت۔

الأناء و الانی و الانی: صفت ک اپنی۔

انسی۔

الأنی: بردباری۔ نرمی۔ پورا دن یا اس کا ایک

جزو۔ ج آناء وانی کہا جاتا ہے "آناء اللیل

و أطراف النهار" یعنی رات اور دن۔

رَجُلٌ آن: بردبار اور حمیدہ مرد۔

الأناء: برتن۔ ج أنیه و ج أو ان.

انی (ا) ظرف مکان ہے اور دو تعلقوں کو

مجروح کرتا ہے جیسے "انی تجلس اجلس"

جہاں تو بیٹھے گا میں بیٹھوں گا۔

(۲) بمعنی کہاں سے جیسے "انی لك هذا"

یعنی تمہیں یہ کہاں سے حاصل ہوا؟

(۳) ظرف زمان بمعنی کب جیسے "انی

جنت" تم کب آئے؟

(۴) استفہامیہ بمعنی کیف جیسے "انی یُنحی

هذه الله بعد موتها" اللہ اس کو کیونکر

زندہ کرے گا اور اسی سے ہے "فانوا حرثکم

انی شبتکم"

أنوفیلِس (بعوضه الاجمیه)

لمیر یا بخار پھیلانے والا پھجر۔

آه و آه و آه و آه و آه و آه و آه۔ آه۔

آه (ن) آها و آه و آه و آه و آه و آه۔ آه۔

آه کرنا۔

أهَب و تَاهَب. للأمر: تیار و آمادہ ہونا۔

الأهبة: سامان۔ کہا جاتا ہے "أخذ للسفر

أهبة" اس نے سامان سفر لیا۔

الأهَاب: کھال۔ مٹی کھال۔ ج أهَب و

أهَب و آهبة۔

الأهرة: گھریلو سامان۔ اچھی حالت۔ بیت۔

ج أهر و أهرات۔

أهل (ن ض) أهلاً و أهولاً. الرَّجُل:

شادی شدہ ہونا امرأة: نکاح کرنا۔ صفت

مفعولی (ماہولۃ)

أهل (س) أهلاً بہ: اُنس حاصل کرنا۔

أهل المكان أو البلد: آباد ہونا۔ صفت

أهل و ماہول۔

کے لئے جو ہر قسم کی اچھی ڈیزائننگ سے مزین ہوتی ہے اس کے دونوں اطراف درخت اور فہیات بنائے جاتے ہیں (لاطینی) الاؤ فریضی منطق العنان حاکم۔ (یونانی لفظ) اوتو متاتیک: ہر مشن جو خود چل کر بندھ ہویا کہہ بغیر کسی کے حرکت کے۔

الانیا: وہ پانی جس کو دوپہر کے وقت پئیں۔
الایوج: بلندی۔ فن موسیقی کا ایک سُر۔
الایح: اٹلے کی سفیدی۔

آدہ: اودا و اودا۔ الامر خرائبار (ن) اودا و اودا۔

کرنا۔ تھکا دینا الحمل: جو جھل کرنا صفت (آہر) اور صفت مقبولی: (مورود) (ازدا) لقی: العنسی: مائل ہونا

(اوزا وازد) العود: جھکانا۔ ٹیڑھا کرنا۔ اوزد (س) اوزا و اوزا۔ ٹیڑھا ہونا۔ مڑنا۔ (ازد) (ازد) مڑنا۔

صفت موفت الامور: شاق گزارنا۔ گراں ہونا۔ انااد انباذا: مڑنا۔ جھکانا۔ ٹیڑھا ہونا۔

الاوز: شقت۔ ٹیڑھا پن۔

الاوزة: بوجھ۔
المواد: نصیبتیں۔

الاوزار: گرمی۔ پیاس۔ دھواں۔ ج۔ اوز۔
الآرة: چولہا۔ آگ جلانے کی جگہ۔

الاوزانوم: شعاع والا جسم جو اہم بم میں داخل کیا جاتا ہے۔

الاوزیومین: جدید قسم کی دوائی جو کہ مچس جیسی امراض استعمال ہوتی ہے۔

الاوزة: بظ۔ مرغابی۔ ج۔ اوز۔
الماوزة: وہ جگہ جہاں طین زیادہ ہوں۔

آس بیوس اوسا و ایاسا: دینا۔ بدل دینا۔

استاسا: عطیہ مانگنا۔ مدد طلب کرنا۔ ساتھ رہنے کو کہنا۔

الاوز: عطیہ۔ بھیڑیا۔
الآس: چولہے کی بقیہ راکھ۔ شہد۔ جھتہ میں باقی ماندہ شہد۔ قبر۔

الاوزسبوز سفید کان سخت سب اجسام میں

کے معنی میں آتا ہے جیسے لازمتک اور تقییبی حقیقی میں تمہارے ساتھ لازم

رہوں گا یہاں تک کہ تم میرا حق پورا کر دو اور کبھی الایح کے معنی میں آتا ہے جیسے لافتن العدر او یخضع میں دشمن کو یقیناً قتل

کروں گا مگر یہ کہ وہ تابع ہو جائے۔
آب (ن) اوبنا و مابا۔ من السنفر۔ لوش۔

واپس ہونا۔ صفت (آب) ج اوب و آیاب و آواب الماء: رات میں کسی چشمہ پر اترنا

الشمس: آفتاب کا غائب ہونا۔ غروب ہونا الی اللہ: توبہ کرنا۔

آبہ (ن) اوبنا: قصد کرنا۔ آب الیہ بمسی کے پاس رات کے وقت جانا۔

اوب (س) اوبنا: غضبناک ہونا۔ اوب و ایب: عنہ۔ توبہ۔ اوب الایوم: پچھ میں سے گول کاٹنا۔

اوب و اوب مواوبہ: القوم: سارے دن چلنا اور رات میں قیام کرنا۔

تاوب و تائب و اتتاب: لوشا الماء: رات میں کسی چشمہ پر اترنا۔

الایوب: الاویبة و الایاب: واپس

والاؤب: قصد۔ عادت۔ راستہ۔ جہت۔ کہا جاتا ہے "جاؤ امن کل اوب" وہ لوگ ہر

جہت سے آئے۔ "وکنت علی صوب فلان و اوبہ" میں فلاں کی روش اور طریقے

پر تھا۔ الاویبة: جانور کی ٹانگ۔ ج اویبات۔

الایاب: توبہ کرنے والا۔ ج اوابون۔
الماب: لوشے کی جگہ۔ ج ماوبس کہا جاتا ہے "بینہما ثلاثہ ماوب" ان دونوں کے

درمیان تین منزل کا فاصلہ ہے۔
اوتوبانکس ایک پودا جس کے زرد پھول ہوتے ہیں اس سے گوند نکال کر بعض سبز

انگوریوں میں ملا کر دوائی دی جاتی ہے۔
انوسس: بڑی گاڑی سواریوں کو منتقل کرنے

کے لئے چلائی جاتی ہے۔ اس کو سوز کی یا بوشریا بس بولتے ہیں۔

اوتوشتراد: خصوصی شارع خاص گاڑیوں

اہلہ اہبالا: شادی کر دینا (واہلہ) للامر: لائق بنانا یا سمجھنا۔ اہل بہ: کسی سے

آہلا و سفہا بہن۔
تاہل و اتہل: شادی شدہ ہونا۔ تاہل للامر: لائق ہونا۔

استاہل الشی: کسی چیز کا اہل ہونا۔
الرجل: لائق سمجھنا۔ استاہل: پگھلی ہوئی

چربی لیٹایا کھانا۔
آہلا و سفہلا: خوش آمدید۔ تقدیر عبارت کی یوں ہے "صادقت آہلا لا عرنا و

وطنت سفہلا لا و عرا" تو نے اپنے لوگوں کو پایا جنیوں کو نہیں اور نرم زمین میں آیا سخت

میں نہیں۔
الآہل: کتبہ۔ رشتہ دار۔ ج اهلون و اہال و آہال و اہلات و اہلات آہل الرجُل: بیوی۔ اہل الامر: حکام۔ اہل

المذہب: متبعین مذہب۔ اہل الوب: بدو۔ اہل المدر و الحضر: عرب کے

شہری۔
الاہلیة: قابلیت۔

الاہل و الاہلی: پانچ جانور وغیرہ۔
الاہل: پال بچوں والا۔

المؤہذلات طبی: استعدا جو آدمی کو کسی کام کے قابل بنا دیتی ہے۔

او حرف عطف میں سے ہے اور اس کے مواقع استعمال حسب ذیل ہیں۔

(۱) شک جیسے "لینشا یوما او بعض یوم" ہم ایک دن یا دن کے کچھ حصہ میں ٹھہرے۔

(۲) ابہام جیسے "نحن او انتم علی الحق" ہم یا تم حق پر ہیں۔

(۳) "حالیس الحسن او ابن سیرین" حسن کے پاس بیٹھو یا ابن سیرین کے پاس۔

(۴) "سراکبا او ماشا" سوار چمچہ جیسے

(۵) "کلمة اسم او فعل او حرف" (کلمہ یا اسم ہے یا فعل یا حرف) کسی الی

زیادہ نقل جسم بھٹ جس کا رمز O.S ہے۔
اؤنس: بھیریا۔

آقا (ن) اوقاف: نقصان پہنچانا۔ فاسد کرنا
”آفت اوقاف و اوقاف و اوقاف“ البلاء:

آفت زدہ ہونا۔

آفت: مصیبت۔ ہر وہ عارضہ جو کسی چیز
کو فاسد کر دے۔ ج آفات۔

آق (ن) اوقاف: علیہ: اوپر سے جھانکنا۔
جھلکا۔ جلائے مصیبت کرنا۔ نحوست لانا۔

اوق: ہر کسی پر شقت ڈالنا۔ کھانا کم کرنا۔
تاوق: زکنا۔

الأوق: بوجھ۔ نحوست۔ بدبختی۔ کہا جاتا
ہے ”القی علیّ اوقہ“ اس نے اپنا بوجھ جھ

پڑا دل دیا۔ ”زبہ اوق“ وہ نحوس ہے۔
الأوقۃ: جماعت۔ اس سے ہے ”جاء القوم

بأوقیہم“ قوم پوری کی پوری آئی۔
الأوقۃ: گڑھا جس میں پانی جمع ہو جائے ج

اوقات و اوق۔
الأوقیہ: نصف رطل کا چھٹا حصہ۔ ج اواق

و اواقی۔ الأواقی: ڈھرکی۔
المووق: نحوس: الموقوف: کھانے میں

دیر کرنے والا۔
الأوقیانوس: بحر اٹلانک۔ بحر محیط۔

اوقالیونوس: جس کو لغت میں کینا بھی بولتے
ہیں۔ معنی: کونین۔ بہت تیزی سے پھیلتا ہے

اس کی لہائی سو میٹر تک چلی جاتی ہے۔ زمین کو
خٹک کرنے میں فائدہ مند ہے۔

الأوکسیجن: آکسیجن
الآل: سراب۔ یا وہ سرابی کیفیت جو چلچلاتی

دھوپ میں زوال سے پہلے محسوس ہوتی ہے۔
آل الرّجلی: اہل و عیال۔ اس کا استعمال

صرف اشراف ہی میں ہوتا ہے خواہ شرافت
دینی ہو یا دنیوی جیسے آل النبی و آل

فرعون“ اور آل الحجام و آل الإسکافی
نہیں کہا جاتا۔

آل النجیل: پہاڑ کے اطراف۔
الآلۃ: اوزار۔ ج آل و آلات الآلۃ

الحذباء: تابوت۔ الآلۃ الخیاطۃ: سینے
کی مشین۔ الآلۃ الکتابۃ: ٹائپ رائٹر۔

الآلۃ: حالت شدت۔ چوب خیمہ۔
الآلاتی: سازندہ۔ اوزار کے کارخانہ کا

نقشہ۔
الأول: پہلا۔ ج أوائل و أوال و أولون

مؤنث اولیٰ۔ ج اول و اولیات۔ اول
جب صفت واقع ہوتا ہے تو غیر منصرف ہوتا

ہے جیسے ”لقیئتہ عاماً اول“ اور اس کے ماسوا
صورتوں میں منصرف ہوتا ہے۔ جیسے ما

رأیت لہ اولاً و لا آخراً“ اور کہا جاتا ہے
لقیئتہ اول ذی یدین“ یعنی صبح کو سب سے

پہلے میں اس سے ملا۔ اور بولتے ہیں ”اعمل
کذا اول ذی یدین“ یعنی یہ کام میں سب

سے پہلے کروں گا۔
آل (ن) اولاً و مآلاً: الیہ: لوٹنا۔ (ایلاً

و اولاً) الرعیۃ: انتظام کرنا۔ (اولاً و ایلاً
و ایلاً) علی القوم: حاکم ہونا۔

اولۃ: الیہ: واپس کرنا (و تاوّل) الکلام:
تفسیر کرنا۔ و تاوّل فیہ الخیر: خیر و صلاح

محسوس کرنا۔
إقتال: المال: انتظام کرنا۔

المآل: لوٹنے کی جگہ۔ نتیجہ۔ مآل
الکلام: مفاد۔

الإیالۃ: حکومت۔ سیاست۔ صوبہ۔ ج
ایالات۔

اولاء و اولیٰ: جمع قریب کے لیے اسم
اشارہ ہیں مذکر مؤنث دونوں کے لیے۔ اور

اولاء پر ہاتھیہ داخل ہوتا ہے اور ہنولاء کہا
جاتا ہے، اور آخر میں ک خطاب بھی لاحق

ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے اولئک اور اولاء و
اولی الذین کے معنی میں بھی مستعمل ہیں۔

أولون: ذوق جمع مؤنث اولات۔ اس کی
واحد ذات ہے۔ تم کہتے ہو جآء فی اولو

العلم و اولات الفضل“
آم (ن) أومأ: سخت پیاسا ہونا۔ آم (ک)

أومأ و ایاماً و ایاماً) السحل و علیہا:
شہر کا لے کے لیے جھتہ کے نیچے دھواں کرنا۔
الأومۃ پیاسا کرنا۔
الأوام: پیاس۔ دوران سر (والایام)
دھواں۔ ج ایم۔
أذن (ن) أذن: علی نفسیہ: زنی کرنا۔
أذن (ن) و تاوّل: الرّجلی: سنجیدہ و پر وقار
ہونا۔
الأذن: زنی۔ آرام۔ سکون۔ وقار کے
ساتھ چلنا۔
الآن و الأوان: وقت۔ ج آونۃ۔
الآن: ابھی۔
الإیوان: محل۔ ج ایوانات و أوایین۔
الأوان: کچھوے (اس کے لیے واحد نہیں)
آہ (ن) أوها و اوہ و تاوؤہ: دردمند
ہونا۔ آہ آہ کرنا۔
الأوہ: بیٹ آہیں کرنے والا۔
الآهۃ: آہ۔ کراہ۔ کھسرہ۔
أوی (ض) أویا و إوآء: البیت و الی
البیت: ٹھکانا لینا۔ پناہ دینا۔ آرتنا۔ (و أوی
و أوی) ہ البیت و الی البیت ٹھکانا دینا۔
پناہ دینا۔ آمارنا۔
أوی (ض) أویۃ و ایۃ و ماویۃ و ماوآء:
لہ: رحم کھانا۔ نرم دل ہونا۔ ترس کھانا۔
تاوی و تاووی۔ الطیور: اکٹھا ہونا۔
انتوی و اتوی: پناہ لینا۔ لہ: ترس کھانا۔
الماوی و الماوآء: ٹھکانا۔ جائے پناہ۔
این آوی: گھیرو۔ بعض اس کی کنیت ابو
زھروہ کہتے ہیں۔ ج بنات آوی۔
الآیۃ: علامت من الکتاب: آیت
الآیۃ: عبرت۔ آئی و آیات۔
آیۃ الرّجلی: وجود۔ کہا جاتا ہے ”خارج
القوم بآیہم“ قوم پوری جماعت کے ساتھ
نکلے۔
آئی: حرف ندا ہے جیسے ”آئی زیلہ“ حرف
تفسیر جیسے ”زآیت غضبفا آئی أسدا“
آئی: ہاں۔ ہمیشہ قسم سے پہلے واقع ہوتا ہے
جیسے ”آئی و اللہ“

انہیں کے مختلف مواقع استعمال ہیں۔

(۱) شرط کے لیے اس صورت میں دو فعلوں کو مجزوم کرتا ہے۔ جیسے ”أَيَّا تَضْرِبُ أَضْرَبُ“ جس کو تو مارے گا میں ماروں گا۔

(۲) استفہام کے لیے جیسے ”أَيْكُمْ أَتَى“ تم میں سے کون آیا؟

(۳) اسم موصول جیسے ”سَلَّمْ عَلَيَّ أَيُّهْمُ أَفْضَلُ“ ان میں سے جو افضل ہے اس کو سلام

کر۔

(۴) مال کے معنی پر دلالت کرنے کے لیے اس صورت میں کمرہ کی صفت واقع ہوتا ہے۔

جیسے ”زَيْدٌ رَجُلٌ أَيْ رَجُلٌ زَيْدٌ يَهْتَمُّ بِالْعِلْمِ“ اور کبھی موصوف باللہ منادی پر یا

کے بعد مخاطب کو متنبہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے ”يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ“

اینا: وہ حرف جو متاخر منصوبہ مفصلہ کے شروع میں لگایا جاتا ہے جس سے مقصد تخصیص

پیدا کرتا ہوتا ہے جیسے ”إِيَّاكَ أَغْنَى“ آیا بعید کے لیے حرف ندا ہے اور کبھی ہمزہ کو

ہے بدل کر جیابولتے ہیں۔

آدِينِيذِ اِيذَا وَاذًا مَضْبُوطٌ وَخَجْتُ هُوَ تَأْيِيذٌ تَأْيِيذًا وَايِيذٌ مَوَائِدَةٌ تَوِي كَرْتَا

ثابت کرتا ہے صفت (مؤيّد و مؤيّد) صفت مفعول مؤيّد و مؤيّد (تأييد): قوی ہونا۔

الَادُو الْاَيِيذُ قُوْتٌ۔

الْاَيِيَاذُ: ہر وہ چیز جو کسی چیز کے لیے باعث تقویت ہو۔ بردہ۔ بناہ۔ فضاء آسمانی۔ مضبوط پہاڑ۔ اَيِيَاذُ الْجَيْشِ: فوج کا دایاں و بائیں بازو۔

الْاَيِيذُ: قوی۔

الْمَوَائِيذُ: بڑا معاملہ۔ مصیبت۔ ج ماووذ مؤايد۔

اَيِيَاذُ: ماہ مئی (رومی مہینے کا نام) اَيِيِيَاذُ: چپٹ کی صفائی کے لئے دوئی استعمال کی جاتی ہے۔

اَيِيِدِيُو لَوْ جِيَا: قصورات اور افکار میں بحث کرنے والا فن۔ ایک خاص مذہب جو افکار کو ہی

بنیاد تصور کرتا ہے۔ (یونانی لفظ)

اَيِيَسُو (اَيِيَسُو) اَيِيَا سَا. مِنْه نَا مَيِدُ هُوَا. صَفْت (اَيِيَسُو)

اَيِيَسُو وَايِيَسُو اَيِيَا سَا نَا مَيِدُ كَرِيَا.

الْاَيِيَسُو: پچاس یا اس سے زائد عمر والی عورت۔

أَعْرَضُ يَنْفِيضُ أَيَضًا: لوٹنا۔ کہا جاتا ہے۔ ”فَعَلَهُ أَيَضًا“ اس نے اس کو بھی کیا۔

اَيِيَهَا بِرُفْعٍ مَصْدَرِيَّةٌ فِي حَالِيَّةِ كِي بِنَا بِرُفْعٍ. اَيِيَكِ حَالِيَّةٌ سِي دُوسِرِي حَالِيَّةٌ بِرُفْعٍ. كِهَا جَا تَا هِي ”أَعْرَضُ سُوَاذُ شَعْرُهُ بِيَاضًا“ اس کے

بالوں کی سیاہی سفیدی سے بدل گئی۔

الْاَيِيَفُوْتَةُ: مجسمہ اچھو۔ اس کے مقابل میں عربی لفظ النُّصْمَةُ ہے۔

اَيِيَكُ (س) اَيِيَا وَاسْتَايِيَكُ. الشَّجْرُ: مٹھان ہونا۔

الْاَيِيَكُ: مٹھان درخت۔ واحد (اَيِيَكَةُ) الْاَيِيَكُ: پھل دار۔

اَيِيَلُ: عبرانی میں اللہ تعالیٰ کا نام۔ معنی قوی قدر ہے۔

الْاَيِيَلُ وَالْاَيِيَلُ وَالْاَيِيَلُ. بَارَهُ سَكَمَاجِ اَيِيَايَلُ. اَيِيَلُوْلُ: ماہ تمبر (رومی مہینے کا نام)

أَمْ يَنْبَغُ اَيِيَمَةٌ وَأَيَوْمًا وَأَيْمًا. الرَّجُلُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ أَوْ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا: رائد و بیوہ ہونا۔ صفت مذکر و مؤنث (اَيِيَم) ج اَيِيَانِيْمُ وَاَيِيَامِي وَأَيْمُونٌ وَأَيْمَاتٌ.

اَيِيَمَهُ: رائد و بیوہ کرتا۔ تَأْيِيْمُ: عرصہ تک بے نکاح کے رہنا۔

الْاَيِيْمُ: سانپ۔ نراڑ دہلیج ایوم۔ اَيِيْمُ اللّٰهِ: اللہ کی قسم۔

الْاَيِيْمَةُ: عیب و نقص۔ کہا جاتا ہے ”الْحَرْبُ (مَائِيْمَةُ) مَيْتِيْمَةٌ“ لڑائی عورتوں کو رائد

کرتے والی اور بچوں کو یتیم بنانے والی ہے

أَنْ يَنْبَغُ أَيِيَا: وقت آنا۔ کہا جاتا ہے ”أَنْ لَكَ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا“ تمہارے لیے ایسا کرنے

کا وقت آ گیا۔ الْاَيِيْنُ: مٹھن۔ ماندگی۔

الْآنُ وَالْاَوْرَانُ مَا دُوَا نُو دِكْهُو۔

اَيِيَانُ اِسْمٌ شَرْطِيٌّ هُوَ. دُوَا فَعْلُوْنُ كُو جَزْمٌ دِيْتَا هِي جِيَسِي ”اَيِيَانُ تَضْرِبُ أَضْرَبُ“ جب تم مارو گے میں ماروں گا۔ اسم استفہام جیسے ”اَيِيَانُ تَرْجِعُ لَوَكْبٍ وَايِيَسُ هُوَا كَا؟“ اور متنی کے معنی میں بھی آتا ہے بمعنی کب۔

اَيِيْنُ: اِسْمٌ ظَرْفٌ هُوَ بِمَعْنِي كِهَا هِي جِيَسِي ”اَيِيْنُ يُوَسِّفُ لِيُوْسُفَ كِهَا هِي؟“ اور معنی شرط کو مضمن ہو کر دو فعلوں کو جزم دیتا ہے خواہ ما اس کے ساتھ لاحق ہو یا نہ ہو جیسے ”اَيِيْنُ أَوْ اَيِيِنْمَا تَقْفُ أَقْفٌ“ تو جہاں کھڑا ہو گا میں کھڑا ہوں گا۔

اَيِيُوْنُ بَجَلِي كِي مَجْمُوْعَاتِ مِيْنُ سِي اَيِيَكِ ذِرَهُ جَبِ اِسْمٌ بَجَلِي مِيْنُ كِي هُوَا جَائِي تُو اَيُوْنُ مُوجِبٌ هُوَا هِي اُوْرُ جَبِ زَيَادِي تُو جَائِي تُو اَيُوْنُ سَالِبٌ (مثنیٰ) ہوتا ہے۔

اَيِيَهُ: کچھ اور کہو۔ یا کرو۔ یا سناؤ۔ اَيِيَا وَايِيَا وَايِيَا وَايِيَا. الشَّمْسُ: آفتاب کی روشنی۔ اور ایسا ہی نباتات کی روشنی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ وَالْاَيِيَاةُ: آفتاب کے گرد کا دائرہ۔

اَيِيُوْنُ بَجَلِي كِي مَجْمُوْعَاتِ مِيْنُ سِي اَيِيَكِ ذِرَهُ جَبِ اِسْمٌ بَجَلِي مِيْنُ كِي هُوَا جَائِي تُو اَيُوْنُ مُوجِبٌ هُوَا هِي اُوْرُ جَبِ زَيَادِي تُو جَائِي تُو اَيُوْنُ سَالِبٌ (مثنیٰ) ہوتا ہے۔

اَيِيَهُ: کچھ اور کہو۔ یا کرو۔ یا سناؤ۔ اَيِيَا وَايِيَا وَايِيَا وَايِيَا. الشَّمْسُ: آفتاب کی روشنی۔ اور ایسا ہی نباتات کی روشنی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ وَالْاَيِيَاةُ: آفتاب کے گرد کا دائرہ۔

اَيِيُوْنُ بَجَلِي كِي مَجْمُوْعَاتِ مِيْنُ سِي اَيِيَكِ ذِرَهُ جَبِ اِسْمٌ بَجَلِي مِيْنُ كِي هُوَا جَائِي تُو اَيُوْنُ مُوجِبٌ هُوَا هِي اُوْرُ جَبِ زَيَادِي تُو جَائِي تُو اَيُوْنُ سَالِبٌ (مثنیٰ) ہوتا ہے۔

اَيِيَهُ: کچھ اور کہو۔ یا کرو۔ یا سناؤ۔ اَيِيَا وَايِيَا وَايِيَا وَايِيَا. الشَّمْسُ: آفتاب کی روشنی۔ اور ایسا ہی نباتات کی روشنی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ وَالْاَيِيَاةُ: آفتاب کے گرد کا دائرہ۔

اَيِيَهُ: کچھ اور کہو۔ یا کرو۔ یا سناؤ۔ اَيِيَا وَايِيَا وَايِيَا وَايِيَا. الشَّمْسُ: آفتاب کی روشنی۔ اور ایسا ہی نباتات کی روشنی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ وَالْاَيِيَاةُ: آفتاب کے گرد کا دائرہ۔

اَيِيَهُ: کچھ اور کہو۔ یا کرو۔ یا سناؤ۔ اَيِيَا وَايِيَا وَايِيَا وَايِيَا. الشَّمْسُ: آفتاب کی روشنی۔ اور ایسا ہی نباتات کی روشنی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ وَالْاَيِيَاةُ: آفتاب کے گرد کا دائرہ۔

اَيِيَهُ: کچھ اور کہو۔ یا کرو۔ یا سناؤ۔ اَيِيَا وَايِيَا وَايِيَا وَايِيَا. الشَّمْسُ: آفتاب کی روشنی۔ اور ایسا ہی نباتات کی روشنی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ وَالْاَيِيَاةُ: آفتاب کے گرد کا دائرہ۔

اَيِيَهُ: کچھ اور کہو۔ یا کرو۔ یا سناؤ۔ اَيِيَا وَايِيَا وَايِيَا وَايِيَا. الشَّمْسُ: آفتاب کی روشنی۔ اور ایسا ہی نباتات کی روشنی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ وَالْاَيِيَاةُ: آفتاب کے گرد کا دائرہ۔

اَيِيَهُ: کچھ اور کہو۔ یا کرو۔ یا سناؤ۔ اَيِيَا وَايِيَا وَايِيَا وَايِيَا. الشَّمْسُ: آفتاب کی روشنی۔ اور ایسا ہی نباتات کی روشنی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ وَالْاَيِيَاةُ: آفتاب کے گرد کا دائرہ۔


اَيِيَهُ: کچھ اور کہو۔ یا کرو۔ یا سناؤ۔ اَيِيَا وَايِيَا وَايِيَا وَايِيَا. الشَّمْسُ: آفتاب کی روشنی۔ اور ایسا ہی نباتات کی روشنی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ وَالْاَيِيَاةُ: آفتاب کے گرد کا دائرہ۔

اَيِيَهُ: کچھ اور کہو۔ یا کرو۔ یا سناؤ۔ اَيِيَا وَايِيَا وَايِيَا وَايِيَا. الشَّمْسُ: آفتاب کی روشنی۔ اور ایسا ہی نباتات کی روشنی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ وَالْاَيِيَاةُ: آفتاب کے گرد کا دائرہ۔

اَيِيَهُ: کچھ اور کہو۔ یا کرو۔ یا سناؤ۔ اَيِيَا وَايِيَا وَايِيَا وَايِيَا. الشَّمْسُ: آفتاب کی روشنی۔ اور ایسا ہی نباتات کی روشنی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ وَالْاَيِيَاةُ: آفتاب کے گرد کا دائرہ۔

اَيِيَهُ: کچھ اور کہو۔ یا کرو۔ یا سناؤ۔ اَيِيَا وَايِيَا وَايِيَا وَايِيَا. الشَّمْسُ: آفتاب کی روشنی۔ اور ایسا ہی نباتات کی روشنی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ وَالْاَيِيَاةُ: آفتاب کے گرد کا دائرہ۔

اَيِيَهُ: کچھ اور کہو۔ یا کرو۔ یا سناؤ۔ اَيِيَا وَايِيَا وَايِيَا وَايِيَا. الشَّمْسُ: آفتاب کی روشنی۔ اور ایسا ہی نباتات کی روشنی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ وَالْاَيِيَاةُ: آفتاب کے گرد کا دائرہ۔



البابونج و البابونج بابونج۔
بافولو جیاعلم طب کی ایک قسم جس میں
بیارپوں کی تشفیغی علامات اور اسباب کی بحث

ہوتی۔
باج (باج و باج) نکلانا۔
الباج و الباج: قسم نکل۔ کہا جاتا
"الناس باج واحد"۔ لوگ ایک
روش طریقہ پر ہیں۔ و الباج ہمیں جو بھیڑ
کبری کے مالک سے لیا جائے۔
الباجوج: جو بیسیج جو تئوں کی ایک قسم

(فارسی لفظ فراہمی لفظ)
البادزھر زہر باد (ایک بیماری کا نام)
البادنجان و البادنجان بیگن۔
بازر (بازر) بازار و بازار چھوڑنا الشئی:

چھاننا۔ ذخیرہ کرنا الخیر: پوشیدہ طور پر کرنا۔
آبار: قس کے لیے کنواں بنانا۔
البشر کنواں۔ ج آبار و آبار و بناؤ و
آبورد (کلہ مؤنث ہے)
البورق: زہرہ۔ آتھران۔ ذخیرہ۔
آبار امون۔ البیرمون۔ عیسائیوں کا یوم عید

(یونانی)
البانامیج و البیرنامیج: بحث۔ فہرست

حدیث کے راویوں اور اسناد کتب کی فہرست۔
البازود: بارود۔
البازودہ: بدوق۔ ج بوارید۔
آبار و نقسی متاز شخصیت کا لقب جس کو
یورپ میں اراضی تحفہ حکومت وقت دیا کرتی

اور افعل صیغہ تجب کے فاعل پر جیسے "اکرم
بہ احسن بہ" اور نفس و عین کے تاکید
لانے میں جیسے "جاء الوزیر بنفسہ" وزیر
خود آیا۔

اور کلمی کے فاعل پر جیسے "کفی باللہ
شہیدا"۔
اور مفعول پر جبکہ اس کا تعدد ایک مفعول کی
طرف ہو جیسے "کفی بالمرء کذباً ان
یحدث بكل ما سمع" اور مبتدا پر باہمی
حیثیت ہے جیسے "بحسبک درہم"
بجائے "حسبک درہم" کے۔

اور اذا فجائیہ کے بعد قیاسی حیثیت سے
جیسے "خرجت فاذا بزیذی الطریق"
اور اس جال پر جس کا عامل مثنی ہو جیسے
رجعت بتخانیہ رکاب"۔

اور کبھی عن و علی و ائی کے معنی میں آتا ہے۔
البابا: پوپ ج باوات نسبت کے
لے (بابوی)

بابا، ہ و بہ ہسی سے بابی و انت و
امھمہا۔ الولد: بابا کہنا۔
البیونو: صل درمیانی حصہ۔ آکھ کی پتی۔
عالم۔ خوش طرح سردار۔

بابیل خرات کے کنارے کا وہ مشہور شہر جو
کلدانیوں کا دارالسلطنت تھا۔ جس کو نروڈ نے
بساہا تھا۔
البابلی: خادوگر۔ شراب۔ زہر۔
البابور: شیر۔ اس کی عربی پانچرہ ہے

ب حروف جر میں ہے۔ معانی ذیل کے
لے مستعمل ہے۔
الباء: دوسرا حرف ابتدائی حروف میں سے۔

اس کا مخرج دونوں ہونٹوں کا ملنا ہے۔
حساب جمل میں اس کا نمبر (۲) ہے۔

(۱) الصاق: جیسے امسکت بالغلام میں
نے غلام کو پکڑ لیا۔
(۲) استعانة: جیسے "کتبت بالقلم" میں
نے قلم سے لکھا۔
(۳) مصاحبت: "اذهب بسلام"

سلامتی کے ساتھ جاؤ۔
(۴) ظرفیت: جیسے "سار باللیل" وہ
رات میں چلا۔

(۵) بدل: جیسے "باع الکفر بالایمان"
اس نے ایمان کے بدلے کفر لیا۔
(۶) تعدیہ: جیسے "ذهبت بہ الی البیت"

میں اس کو گھر تک لے گیا۔
(۷) قسم: جیسے "باللہ اللہ کی قسم"
(۸) سببیت: "لقیت بزیذی الہ ہوال"

میں زید کی وجہ سے خرات میں پڑ گیا۔
(۹) تاکید: اور یہ زائد ہوتا ہے اور زیادتی

کے مواقع حسب ذیل ہیں۔
کانثقی کی خبر میں جیسے "وما کان
بمنکر" یہ منکر نہیں۔ لیس کی خبر میں

جیسے "لیس زید بقائم" زید کھڑا نہیں ہے۔ ما
مشابہ لیس کی خبر میں جیسے "ما اللہ عافیل"
اللہ عافیل نہیں ہے۔

البَسْبَسِيْلِق. کہنی کے قریب ایک رگ کا نام۔
 بَاش. رئیس. بَاش کا تب۔ ہڈی کلرک۔
 البَاشَا. پاشا کا معرب۔ جو ایک معزز لقب ہے
 جس کو سلطان ترکی مخصوص مراتب کے لحاظ
 سے دیا کرتا تھا۔ ج. باشادات و باشادات.
 البَاشِق. ایک شکاری پرندہ۔
 تَبَاط. لیٹنا۔ فارغ البال ہونا۔ مطمئن ہونا۔
 عَنَه. اعراض کرنا۔
 باقَة (ن) بُوْقًا و اِنْبَاق. عَلَيْهِ الوَيْلُ:
 اچانک آنا۔
 البَاقَة: گلہ ستہ۔
 بُوْل (ک) بُوْؤْلَة و باآلة. کزور اور
 ذلیل ہونا۔ صفت (بئیل)
 بَاطُو. بگاج اس کی عربی معطف ہے۔
 بَاطُو تُوْلُو جِنَا. جنگلی جانوروں کی ریسرچ کا
 علم۔
 بَان. لمبے چوں والا درخت سفید پھولوں والا
 جس سے تیل نکالا جاتا ہے۔
 البَانُ. بیل مچھلی۔
 البَالَة: عِنْد التَّجَار. کپڑوں کا بیڈل۔ اس
 کی فصیح عربی امالہ ہے۔
 البَالُو. ناچ گھر۔ اس کی فصیح عربی مرقص
 ہے (جدید)
 البَالُون. غبار۔ اس کی فصیح عربی مُنْطَاد
 ہے۔ (جدید)
 بَانْطَلُون: چٹون شروال کی طرح انگریزی
 پاجامہ۔
 البَايَا. بھنڈی ترکاری۔ (جدید)
 بَاة (ف) بَاها. سمجھنا۔ کہا جاتا ہے "مَا بَاة"
 لِأَمْرٍ أَوْ بِأَمْرٍ" اس نے معاملہ کو نہیں
 سمجھا۔
 البَاوِيَاب: مونا درخت جو افریقہ میں پایا جاتا
 ہے۔
 بَاي (ف) بَاوَا. عَلَيْهِم: فخر کرنا۔ تکبر
 کرنا۔
 بَاي. مالدار یا صاحب گھر (ترکی زبان میں)
 ایشیاء کے علاقہ میں صاحب قیادہ کو بولتے ہیں۔

تھی۔ (فرائشی)
 البَاَز. ج. بِنَان و بُوُز و اَبُوُز و (البَاَز
 و البَاِزِي) ج. اَبُوُز و بُوَاِز و بِيْزَان و
 بُزَاة: باز۔
 البَاَزْدَار. بازو غیرہ شکاری پرندہ رکھنے والا۔
 ج. بَزَادِرَة.
 البَاَزَار. بازار۔
 البَاَزْرَاكَا. سوداگر۔
 البَاَزْرَاكَا: عيسائيوں کے نزدیک روح مقدس
 اقوم ثالث جس کا ترجمہ فریاد طلب کیا گیا۔
 (یونانی)
 باریوم: سفید دھات جس کی علامت Ba ہے۔
 البَاَزْهَر. دیکھئے۔ باد زھر۔
 بُوَس (ک) بَاسَا. مضبوط و بہادر ہونا۔
 صفت (بئیس و بئیس)
 بَيْس (س) بُوَسَا و بِيْسَا و بُوُوسَا و
 بُوُوسِي. سخت حاجت مند ہونا۔ صفت۔
 (بائیس) ج. بُوَس.
 بَيْس. فعل ماضی جامد ہے۔ مذمت کے لیے
 مستعمل ہے اور بَيْس الرَّجُل سے بنا ہے۔
 اَبَاس. مُصِيْبِيْنَ پڑنا: مصیبتوں اور سختیوں
 میں مبتلا کرنا۔
 تَبَاسَس. تکلف مفلح ہونا۔
 اِبْتِاس. ناپسند کرنا۔ غمگین ہونا۔ اور اسی سے
 ہے "لَا تَبْتِيْسُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ" جو
 کچھ وہ کرتے ہیں اس پر غم نہ کیجئے۔
 البَاس. بہادری۔ قوت۔ خوف۔ عذاب۔ لَا
 بَاسَ بِه: اس پر کوئی اعتراض نہیں لَا بَاسَ
 عَلَيْكَ: تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں۔ لَا
 بَاسَ فِيْه: اس میں کوئی حرج نہیں۔ لَا بَاسَ
 اَنْ تَقْرُقُوْا: تمہارے جاننے میں کوئی
 دشواری نہیں۔
 البُوَس. ج. اَبُوَس و (البَاسَاء و
 البُوَسِي) شدت و دھماکی۔ و البَاسَاء: لڑائی۔
 بھوک۔
 بَنَاتُ بَيْس: مصیبتیں۔
 بَيْس. و بَيْسُ الْعَذَاب: سخت عذاب۔

بججے مصیبتیں حاصل ہوئیں۔
البجج بحدونظاء عروض کی اصطلاح میں
 شعر وں کا وزن۔
بجسون (ض) **بجسا** و **بجسن** الماء:
 پانی جاری کرنا **البعج** نزع چیرنا۔
بجس و **البجس** و **بجسن** الماء: پانی
 جاری ہونا۔ بہنا۔
البجس و **البجس**: پینے والا۔ عین
بجس نیت پانی والا چشمہ۔ ماء **بجس**:
 بہتا ہوا پانی۔
بجعم (ف) **بجعما**: تلوار سے کاٹنا۔
البجع ایک قسم کا پرندہ جس کی چونچ لمبی اور
 چوڑی ہوتی ہے اور اس کی چونچ کے نیچے بڑا سا
 پونٹ ہوتا ہے۔ واحد **بجعة**۔
بجلدن و **بجلرس** **بجلا** و **بجولا**:
 خوش ہونا۔ خوش حال ہونا۔ صفت (باجل)
بجلر (ک) **بجالة** و **بجولا**: معزز ہونا۔
 صفت (بجیل)
أبجله الشئ کافی ہونا۔
بجلی حرف جواب مثل نعم کے۔ اسم فعل
 بمعنی حسب۔ تم کہتے ہو "بجلك" یعنی
 تمہارے لیے کافی ہے۔
بجم (ض) **بجما** و **بجومما**: گھبراہٹ یا
 عاجزی سے خاموش ہونا۔
بجم: بمعنی مجرد۔ دیر کرنا۔ تیز نظر ڈالنا۔
 متعجب ہونا۔
بج (س) **بعا** و **بجحا** و **بجوحا** و
بجحا و **بجوحا** و **بجحا**: گلو گرفتہ
 ہونا۔ ٹیٹھی ہوئی آواز والا ہونا۔ صفت (أبج)
مؤنث بجاء۔ ج **بج**
بجحة و **بجحة**: کسی کی آواز کو بھاری کر
 دینا۔
البجحة: آواز میں بھاری پن اور خشونت۔
بجیح و **تبجیح**: اچھی طرح ٹھہرنا۔
تبجیح الدار: گھر کے وسط میں ٹھہرنا۔
تبجیح العوب فی لغاتہا" توسع
 کرنا۔

سے سرخ ہو گئے ہوں۔ مؤنث **بجاء** ج **بج**
بقرن (ن) **بقنا** و **تبقنا** و **بقرن** نانی
 اچھی طرح پینے کے لیے دریا کے بند کو توڑ
 دینا۔
أبجق: الماء بہہ پڑنا **بالکلام** تیز بولنا۔
أبجق زندے کا بچے۔
بجقة (ن) **بجقا**: بھارتنا۔ تیز مارنا۔ **بج**
الکلاء الناقاة: نمونٹ کرنا۔
الأبج مشاہدہ آنکھ والا۔ مؤنث **بجعا** کہا جاتا
 ہے۔ "عین **بجعا** کشادہ آنکھ۔
بجیح: الصبی: بچے کو بہلانا۔
تبجیح: اللحم ٹوہلا ہونا۔
بجم (س) **بجحا**: بہ: خوش ہونا۔
أبجج نمونٹا گوشت سے بھر ہوا۔
رمل بجج جمع شدہ ریت
تبجیح فخر کرنا۔ بڑا بننا۔
البجیح نیت فخر کرنے والا۔
بجلرن بججودا و **بججد** **بالمكان**:
 اقامت کرنا۔
أبجد من الناس: جماعت **من الخیل**:
 سوادو سے زائد گھوڑے۔
بجدة الأمر و **بجدة** و **بجدة**
 حقیقت۔ اصلیت۔ کہا جاتا ہے: "عندہ
بجدة الأمر" وہ حقیقت شاس ہے۔ "وهو
أبج **بجدة الأمر**" وہ معاملہ کی حقیقت کا
 جاننے والا ہے۔
أبجد: دھاری دار کپڑا۔ ج **بجد**۔
بجر (س) **بجرا** **الرجل**: موٹی جڑوا لی
 اور باہر کو نکلی ہوئی ناف والا ہونا۔ بڑے پیٹ
 والا ہونا۔ دودھ اور پانی سے پیٹ بھرنے کے
 باوجود سیراب نہ ہونا۔ صفت (بجر) و (بجر)
بجور: النبیذ: پینے میں زیادتی کرنا۔
الباجر: فا۔ پھولے ہوئے پیٹ والا۔ ج
بجورة۔
أبجر۔ ج **أباجر** و **أباجر** و (البجری)
 ج **بجاری**۔ بُرائی۔ مصیبت۔ بڑا معاملہ۔ کہا
 جاتا ہے "لَقِيْتُ مِنْهُ **البجاری**" اس سے

ببتك و **أببتك** کتنا۔
الببتكة کھولنا۔ ج **ببتك**۔
البابتك و **الببتك** نمانے والا۔ تلوار۔
ببتل (ن ض) **بتلا** و **ببتل** الشئ: نہایت
 کر دیا کرتا۔
ببتل و **ببتل**: دنیا سے بے تعلق ہو کر خدا کی
 طرف متوجہ ہونا۔ شادی نہ کرنا۔
أببتل نبتنا۔
عطاء (بتل) بے مثل عطیہ۔ آخری عطیہ۔
الببتول: غیر شادی شدہ عورت جو شادی کی
 طرف رغبت نہ کرے۔
الببتولة و **الببتولة**: تخرم کی حالت۔
الببتیل: دنیا سے بے تعلق۔ وادی کو بچلے
 حصے کی ٹالی۔ **ببتیل** پتلی کرنا۔ ج **ببتل**۔
أبتولا مقبول آمدن والے خوبصورت عمدہ
 لکڑی والے درخت جو کہ زیادہ تر روں میں پیدا
 ہوتے ہیں۔
ببت (ن ض) **ببتا** و **ببتك** **الخبر**: خبر
 پھیلانا۔
ببت و **ببتا** و **أببت** **فلانا الخبر**: آگاہ
 کرنا۔ بتانا۔
ببتا **القوم** **الأسرا**: ایک دوسرے کو
 راز بتانا۔
أببت: پھیلانا۔ متفرق ہونا۔ غار وغیرہ کا اڑنا۔
الببت: براگدیگی حال۔ سخت غم۔
ببتب: **الخبر**: پھیلانا **الخبر** اڑانا۔
ببترا (ض) **ببترا** و **ببترا** و **ببترا** و **ببترا**
 و **ببترا** و **ببترا** و **ببترا** و **ببترا** و **ببترا**
 چھبیاں نکالنا۔ صفت (ببترا و ببترا)
أببترا: فا۔ بغیر کھوے ہوئے ٹکٹے والا پانی۔
 حاسد۔
الببتیر۔ بہت کہا جاتا ہے "کثیر الببتیر"
المبتور: نیت بالدار۔ وہ شخص جس پر حسد
 کیا جائے۔
ببتع (س) **ببتعا** **الشفة** **خاصة** کسوت
 خون سے سرخ ہونا۔
الأبتع: وہ شخص جس کے ہونٹ کثرت خون

الْبَخْسُ: من ناقص۔ قرآن عزیز میں ہے۔ ”وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ“ ان کو بیعت ہی کم قیمت کو بیچ ڈالا۔

الْبَخْسُ: وہ زمین جو بغیر سیراب کئے ہوئے پیداوار آگائے۔

الْبَخْسِيُّ: من الزرع: وہ کھیتی جو بغیر آبیاشی کے پیدا ہو۔

الْأَبَاخِسُ: اٹھکیاں۔

بَخْسٌ بَخْسٌ: سورج سرورج کرنا۔

أَبَخَسَ: سورج، أَبَخَسِيَش: مثالی، عطیہ رشوت کی صورت میں یا عزت کی صورت میں (یہ سب الفاظ غیر فصیح عربی زبان کے ہیں)

بَخَصَ (ف) بَخَصًا: عَيْنُهُ: آنکھ نکال لیا۔

بَخَصَ (س) بَخَصًا: الرَّجُلُ: کسی کی آنکھ کے اوپر یا نیچے غدہ ہونا۔ صفت (المخص) مَوْنَتْ بَخَصًا: بَخَصٌ

بَخَصٌ: تیز نظر سے دیکھنا۔ پلکوں کا اٹک جانا۔

أَبَخَصَ: نچلے ابرو کے نیچے گوشت اس وقت ظاہر ہو جب غور سے دیکھے جیراگی یا اٹکا کے وقت قدم کا گوشت اٹھیوں کی جڑ کا گوشت۔

مَبْخُوضٌ: القَدَمِينَ: وہ شخص جس کے قدموں میں گوشت کم ہو۔

بَخَعَ (ف) بَخَعًا: نَفْسُهُ: غم یا غصہ سے اپنے آپ کو ہلانے میں ڈالنا۔ الشَّاةُ: ذبح کرنے میں گدی تک کاٹ دینا لہ نصحہ:

خالص خیر خواہی کرنا الرَّيْكَةُ: کتوں پانی نکلنے تک کھودنا فَلَانًا خَيْرَةٌ: تصدیق کرنا۔

بَخَعَ (س) بَخَعًا: وَبَخَاعَةً: بالحق: اقرار کرنا۔ حق کے سامنے جھک جانا۔

بَخَقَ (ف) بَخَقًا: وَابْخَقَ: عَيْنُهُ: کالی کرنا پھوڑنا۔

رَجُلٌ (أَبْحَقُ) وَبَاحِقُ وَبَحِيقُ وَمَبْحُوقٌ: کانارو۔

عَيْنٌ (بِخْفَاءٍ) وَبِاخْفَاءٍ وَبِخَيْفَةٍ وَمَبْخُوقَةٌ: کالی آنکھ۔

عَصَةٌ مَشْطًا: کرنا۔

بَخَعَ: اسم فعل ہے تعریف اور اظہار خوشنودی کے لیے مستعمل ہے اور تاکید کے لیے مکرر بولتے ہیں۔ کہتے ہیں بَخَعَ بَخَعَ کرہ سے۔ یا تو میں سے بمعنی واہو۔ آفریں شاہاش۔

بَخَيْخَ: فِي النَّوْمِ: خَرَأْتُ لِيَا الْبَعِيضُ: اُوٹ کا بلبلانا اور منہ کا جھماکے سے بھر جانا۔

الرَّجُلُ: کسی کو شاہاش دینا۔

بَخَيْخَ وَتَبَخَيْخَ: الْحَرُّ: کم ہو جانا۔

بَخْتَهُ (ن) بَخْتًا: نارنا۔

بَخْتَهُ: لاجواب کر دینا۔

بُخْتٌ: بزدل ہونا۔

الْبُخْتُ: نَفِيدٌ (فارسی کلمہ ہے جس کے لیے فصیح لفظ الْخَطُطُ ہے)

الْبُخَيْتُ وَالْمَبْخُوتُ: نَفِيدٌ: در۔

بَخْتَرُ بَخْتَرَةً وَتَبَخْتَرُ: خَوْش رَقْدَارِي سے چلنا۔ منکبرانہ چال چلنا۔

الْبَخْتَرِيَّةُ وَالْمَبْخَرِيَّةُ: منکبرانہ چال۔

بَخَرْتُ (ف) بَخَرًا: الْقَدْرُ: بھاپ نکلنا۔

بَخَرْتُ (س) بَخَرًا: الْفَمُ: گندہ ذہن ہونا۔

صفت (أَبْخَرُ) تَبَخَّرُ: دھونی لینا۔ دھونی سے خوشبودار ہونا۔

الْبَخَارُ: بھاپ آبخورۃ الباخرة۔ ایشیر۔

الْبُخُورُ: ہر وہ چیز جس سے دھونی دی جائے ج آبخورۃ و بَخُورَاتُ

بَخُورُ مَرْيَمَ وَبَخُورُ الْأَنْكُرَادِ وَبَخُورُ الْبِرِّ وَبَخُورُ السُّودَانَ وَبَخُورُ الْبَرْبَرِ۔

مختلف قسم کے نباتات کے نام۔

الْمَبْخُورَةُ: عودسوز۔

بَخَرْنَا (ن) بَخَرْنَا: عَيْنُهُ: آنکھ پھوڑنا۔

بَخَسَهُ (ف) بَخَسًا: گھٹانا اور اسی سے ہے "لَا تَبْخَسَنَّ أَخَاكَ حَقَّهُ" اپنے بھائی کا حق مت گھٹاؤ۔ ظلم کرنا۔ بَخَسَ عَلَيْهِ: آنکھ پھوڑنا۔

بُخْتَرِيَّةٌ: خَالِصٌ دُوَسْتِي كَرْنَا فَلَانًا: تانا۔

الْبُخْتُ: مَحْضٌ خَالِصٌ۔ شَرَابٌ بَخْتٌ: سادہ بغیر کسی چیز سے ملا ہوا۔ مِسْكَ بَخْتٌ: خالص مسک۔

عَرَبِيٌّ بَخْتٌ: خَالِصٌ نَسَبٌ وَالْأَعْرَبِيُّ مَوْنَتْ بَخْتَةً: محض کالفظ واحد مشبہ جمع مذکر مؤنث سب کے لیے آتا ہے۔ اگر

چاہو تو مؤنث مشبہ جمع لاسکتے ہو۔

الْبُخْتَرُ وَالْبُخْتَرِيُّ: پست قدمی بدن والا۔

بَخْتٌ (ف) بَخْتًا: فِي الْأَرْضِ: کھودنا۔

اور اسی سے مثل ہے "كَالْبَاخِتِ عَنْ حَتْفِهِ بِظِلْفِهِ" یعنی وہ اپنی ہلاکت و بربادی کا سامان خود پیدا کرتا ہے

بَاخِتُهُ: خطاب کرنا۔ گفتگو کرنا۔

تَبَاخَتْوُا: باہم گفتگو کرنا۔

بَخَشَرُ الشَّيْءِ بَخَشْرَةً: متفرق کرنا۔ بکھیرنا۔

کھولنا۔

ف تَبَخَشَرُوا: بکھیرنا۔ جدا جدا کرنا۔ ظاہر ہونا۔

بَخَزُوا (س) بَخَزًا: سندر دیکھ کر ڈر سے جیران یا مہبوت ہونا۔ سخت پیاسا ہونے کی وجہ سے سیراب نہ ہونا۔ صفت (بَخَزُ)

بَخَزَ (ف) بَخَزًا: الْأَرْضُ: شق کرنا النَّاقَةَ: کان چیرنا۔ صفت مفعول (بَحِيرَةٌ) بَحَائِرٌ وَبَخِيرٌ۔

الْبَاخِرُ: مہبوت۔ بیوقوف۔ فضولی۔

الْبَاخُورُ وَالْبَاخُورَاءُ: ماہ جولائی کی سخت گرمی۔ الْبَاخُورُ: چاند۔

الْبُخْرَانُ: فی عرف الاطباء: امراض حادہ کا وہ تغیر جو اچانک پیدا ہوتا ہے۔ نیز شدت مرض سے قوت بدر کہ میں غلظ پیدا ہوتا۔

الْبُخْرَيْنِ: ایک شہر کا نام نسبت کے لیے (جرائی) غلاب قیاس۔

بَخَّ (ن) بَخًا: فِي النَّوْمِ: خَرَأْتُ لِيَا: تانا۔

بَادِرٌ مَبَادِرَةٌ وَبِدَارًا إِلَى الشَّيْءِ: جلدي کرنا الشَّيْءِ: وقوع سے پہلے کرنا۔ بَادِرٌ فَلَانًا الشَّيْءِ وَالْيَدِ: کسی چیز کے لیے کسی سے سبقت کرنا۔ آگے بڑھ جانا۔

تَبَادُرَ القَوْمِ: جلدي کرنا۔
تَبَادُرَ وَابْتَدَرَ: القَوْمِ أَمْرًا: بعض کا بعض سے سبقت کرنے کے لیے بڑھنا۔
الْبَادِرُ: جلدي کرنے والا۔ سبقت کرنے والا۔ ج. تبادر۔

الْبَادِرَةُ: تیزی یا تیزی کے وقت بَدَعُ (ف) بَدَعًا: الشَّيْءِ: گھڑنا۔ بغیر نمونہ کے کوئی چیز بنانا۔ ابتداء کرنا۔ ایجاد کرنا۔ بَدَعُ (ك) بَدَعًا وَبَدُوعًا: بے مثال ہونا۔ انوکھا ہونا۔

بَدَعُ (س) بَدَعًا: موٹا ہونا۔ صفت (بَدِيعُ) بَدَعًا: بدعت کی نسبت کرنا۔

أَبْدَعُ: کسی کام کو خوش اسلوبی سے کرنا۔ بیدہ: چھوڑ دینا (وَابْتَدَعُ) الشَّيْءِ: ایجاد کرنا۔ الرَّجُلُ: بدعتی نکالنا۔

تَبَدَّعُ: بدعتی ہونا۔
اسْتَبَدَّعُ الشَّيْءِ: عجیب و نادر سمجھنا۔
أَبْدَعُ: انوکھا۔ نا تجربہ کار مرد۔ کہا جاتا ہے فَلَانٌ بَدَعُ فِي الْأُمُورِ فَلَانٌ نے اس کام کو پہلی مرتبہ کیا۔ ج. ابْدَاعُ وَبُدُوعُ۔

الْبِدْعَةُ: بغیر نمونہ کے بنائی ہوئی چیز۔ دین میں نئی رسم۔ وہ عقیدہ یا عمل جس کی کوئی اصل قرون ثلاثہ مشہور و لہا بالخیر میں نہ ملے۔ ج. بَدَعُ۔

الْبِدْيَعُ: اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے ہے۔ کہا جاتا ہے اللہ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ نے آسمان و زمین کو بغیر کسی نمونہ کے پیدا کیا ہے۔

بَدَعُ (س) بَدَعًا: زمین پر گھسنا۔
بِالشَّرِّ أَوْ بِالْأَقْدَارِ: آلودہ ہونا۔
بَدَعُ (ف) بَدَعًا: الْجَوْزُ أَوْ اللُّوزُ: اخروٹ یا بادام توڑنا۔

بَدَأُ (ف) بَدَأْتُ وَابْتَدَأْتُ وَتَبَدَّأْتُ الشَّيْءُ وَبِهِ: شروع کرنا۔ پہلے کرنا۔ بَدَأُ بِلَفْلَانٍ: آگے بڑھانا۔ بَدَأُ الشَّيْءُ: شروع کرنا۔ پیدا کرنا۔ بَدَأُ وَأَبْدَأُ: اللہ الخلق: پیدا کرنا۔ صفت (بَادِي) بَدَأَهُ: شروع کرنا۔ فضیلت دینا۔

البَدْوُ وَالبَدَاةُ وَالبَدَائَةُ وَالبَدْوَةُ: شروع کرنا۔ ابتداء کہا جاتا ہے، أَفَعَلَهُ بَدَأً وَبَدُوً بَدُوً وَأَوَّلَ بَدُوً وَبَادِيً بَدُوً وَبَدَاةً ذِي بَدُوً يَعْنِي: میں اس کو ساری چیزوں سے پہلے کروں گا۔

والبَدَائَةُ: کسی جگہ کے لیے سفر کی ابتداء۔ تم کہتے ہو، اِكْتَرَيْتُ الْقُرْبَانَ لِلْبَدَاةِ وَالرَّجْعَةَ: میں نے گھوڑے کو آمدورفت کے لیے کرایہ پر لیا۔ بَدُوً كِي جَمْعُ أَبْدَاءٍ وَبُدُوعٍ. أَلْبَدَاءُ: اصل۔ سبب ج. مَبَادِي. أَلْمُبْتَدَأُ: پہلا۔ وہ اسم مسند الیہ جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو۔

الْإِبْتِدَائِيُّ: پہلا کہا جاتا ہے۔ الْمَحْكَمَةُ الْإِبْتِدَائِيَّةُ: وہ حکمہ جو فیصلہ کرنے کا زیادہ اختیار رکھتا ہے۔ التَّعْلِيمُ الْإِبْتِدَائِيُّ: ابتدائی تعلیم۔ الشَّهَادَةُ الْإِبْتِدَائِيَّةُ: پرائمری سند۔

أَبْدَأُ الرَّجُلُ: عمدہ کلام لانا۔ کہا جاتا ہے۔ فَلَانٌ مَا يُبْدِئُ وَمَا يُبْعِدُ يَعْنِي فَلَانٌ آدَمِيٌّ نُوْ عَمْدٍ عَمْرٍ كَرَسَكَا ہے اور نہ اس کو اعادہ کر سکتا ہے۔

بَدَحُ (ف) بَدَحًا: هُ بِالْعَصَا: لاشعری سے دار بنا لیسو: ظاہر کرنا۔ تَبَادَحُوا: بِالشَّيْءِ: باہم مل کر پھینکنا۔

البَدْحُ: ج. بَدُوحُ وَبِدَاحُ وَ (البِدَاحُ) ج. بَدْحُ وَ (البُدْحَةُ): وسیع زمین۔ بَدَحُ (ف) بَدَحًا وَ (ف) بَدَحًا وَ (ف) بَدَحًا وَ (ف) بَدَحًا: عالی مرتبہ ہونا۔ صفت (بَدِيخُ) ج. بَدِخَاءُ۔

تَبَدَّحَ عَلَيْهِ: برا بنانا۔
بَدَرَ (ن) بَدَرًا: إِلَى الشَّيْءِ: جلدي کرنا۔ هُ إِلَى الشَّيْءِ: کسی چیز کے لیے کسی سے سبقت کرنا۔

بَحَقَّتْ (س) بَحَقًا: عَيْنُهُ: بڑی طرح کاٹی ہونا۔

بَخَّلَ (س) بَخْلًا وَبَخْلًا (س) بَخْلًا: بخل ہونا۔ کجوس ہونا۔ صفت بَخِيلٌ ج. بَخِلَاءٌ عَلَيْهِ وَ عَنهُ: کسی سے بخل کرنا۔ صفت بَاخِلٌ ج. بَخْلٌ۔

بَخَّلَهُ: بخل کی جانب منسوب کرنا۔
أَبَخَّلَهُ: بخل بنانا۔
البِخَالُ وَالبِخَالُ وَالمَبْخَلُ وَالبِخْلُ: بے بخت کجوس۔

المَبْخَلَةُ: باعث بخل۔ اور اسی سے ہے، "أَلْوَلَدُ مَبْخَلَةٌ مَجْنُونَةٌ لِأَنَّهَا بَعَثَتْ بَخْلًا أَوْ بَعَثَتْ بَرْدًا يَهْتَمُّ بِهَا"۔
بَدَّ (ن) بَدًّا: رَجُلِيهِ: ناگھیں پھیلانا۔ الرَّجُلُ عَنِ الشَّيْءِ: دور کرنا۔ روکنا۔

بَدَّ (س) بَدَدًا: زیادتی گوشت کی وجہ سے دونوں رانوں میں فاصلہ ہونا۔
بَدَّدَ الشَّيْءِ: متفرق کرنا۔ بکھیرنا۔ الرجل: سمٹنا۔

بَادٌ مَبَادَةٌ وَبِدَادًا: مبادلہ کے طور پر بیچنا۔ القوم فِي السَّفَرِ: ہر ایک کا اپنا اپنا زاد و سفر لانا اور پھر مل کر خرچ کرنا۔

أَبَدَّ الشَّيْءَ بَيْنَهُمْ: ہر ایک کا حصہ دینا۔
زمین کی طرف ہاتھ بڑھانا۔
تَبَدَّدَ: متفرق ہونا۔ القوم الشَّيْءِ: آپس میں حصے تقسیم کرنا۔

اسْتَبَدَّ بَكْدًا: اپنے آپ کو ترجیح دینا۔
الْأَمْرُ بِلَفْلَانٍ: کسی معاملہ کا بے قابو ہونا۔
البَدَّةُ وَالبَدِيدُ: حش و نظیر۔
البُدُّ: چارہ کار۔ بھانگنے کی جگہ۔ تم کہتے ہو، "لَا بُدَّ مِن هَذَا يَهِيَ لِأَنَّهُ بَدَلٌ وَالبَدَّةُ وَالبَدَادُ: حصہ۔"

ذَهَبُوا (أَبَادِينُ تَبَادِينُ) یعنی وہ لوگ متفرق ہو گئے۔ وَطَيْرٌ أَبَادِينُ وَتَبَادِينُ متفرق ہونے پر۔
المُسْتَبَدُّ: کام شروع کر کے خاتمہ ہی پر دم لینے والا۔

بَدَلَنَّ (بَدَلًا وَأَبْدَلًا وَبَدَّلَ الشَّيْءُ:

تاور۔

بَدَّلَ (ف) بَدَّلَهَا وَبَادَاةَ الرَّجُلِ كَسَى
کے پاس اچانک آنا۔ صفت (بادہ) مؤنث
(بادہ) ج بَوَادُهُ۔

تَبَادَهُو: الشَّعْرُ أَوْ الخُطْبُ: بَاهِمٌ بَعْدَ
فکر و تامل کے شعر پڑھنا یا تقریر کرنا۔
اِبْتَدَاهُ: الخُطْبَةُ: بَعْدَ فِكر و تامل کے تقریر
کرنا۔ صفت (مبتدہ و مبتدہ)

البَدَاهَةُ وَالبَدَاهَةُ: هِرَجِيْرٌ كَأَخَارِ: كَمَا جَاءَتْ
ہے، لِحَقُّهُ فِي بَدَاهَةِ جَرِيْدٍ وَوُجُوْدِ كَأَخَارِ
ہی میں اس سے جا ملا۔ اچانک۔

البَدِيْهِى: بِرَبِيْهِى: (وہ چیز جس کے جاننے
کے لیے غور و فکر کی ضرورت نہ ہو۔

بَدَّلَانَ) بَدُّوْا وَبَدَّوْا وَبَدَّوْا وَبَدَّوْا: بَدَّوْا
ظاہر ہونا۔ صفت (باد) ج بَادُوْنَ وَبَدُّوْا
وَ بَدُّوْا لَهٗ فِي أَمْرٍ: خِيَالٌ سَوِيْحَانٌ۔

بَدَّلَانَ) بَدَّوْا وَبَدَّوْا وَبَدَّوْا وَبَدَّوْا: بِادِيَةٍ
کی طرف جانا۔ بادیہ میں اقامت اختیار کرنا۔
صفت (البدوی و تبدی): ظاہر ہونا۔

تَبَادَى: بِدَوِيٍّ صَفْتٌ هُوَانَا۔
البَدُو وَالبَادِيَّةُ وَالبَدَاوَةُ: سَحْرَاءٌ جَبَلٌ۔

ج بَادِيَاتٌ وَبَوَادٍ وَالبَدْدُ: خَانَةٌ بِدَوَشٍ
عربی قبائل اور بدو کی طرف نسبت کے لیے
(بَدُوِيٌّ وَبَدُوِيٌّ) مَوْنِثٌ بَدُوِيَّةٌ ج
بَدَاوِيٌّ۔

البَدُوَّةُ: وَادِيٌّ كَأَكْنَارِهِ۔

البَدَاةُ: هَمِيْسٌ خَاكٌ قَائِمٌ كَرْدُهُ رَأَى: ج
بَدَوَاتٌ۔

بَدَّ (س) بَدَّوْا وَبَدَّوْا وَبَدَّوْا وَبَدَّوْا وَ
بَدُّوْةٌ: بِدَحَالٍ هُوَانَا: شَكْلَةٌ حَالٌ هُوَانَا: صَفْتٌ
(بَدَّ وَبَدَّ) مَوْنِثٌ (بَدَّ وَبَدَّ) وَبَادَاةٌ

بَدَّلَ (ن) بَدَّأَ: غَابَ هُوَانَا: فَاقَتْ هُوَانَا۔
بَادَاةٌ: سَبَقَتْ كَرْنَا۔

البَدَّ وَالبَدِّيْدُ: مِثْلٌ أَوْ كَمَا جَاءَتْ هُوَانَا: رَجُلٌ
بَدِّيْدٌ كَأَنَّهُ رُوْزٌ غَارِمَرِدٌ۔

بَدَّأَ (ف) بَدَّأَ الشَّيْءُ: نَاطِقٌ كَرْنَا
الشَّخْصَ وَعَلَى الشَّخْصِ: خَاطَرَتْ كَرْنَا

بَدَّتْ كَرْنَا۔

بَدَّأَ (ف) وَبَدَّى (س) وَبَدَّوْا (ك) وَبَدَّوْا (ك)
بَدَّأَةُ: فُحْشٌ كُوْهُ هُوَانَا: يَتَوَقَّفُ هُوَانَا: صَفْتٌ
(بَدَّى)

أَرْضٌ بَدِيْفَةٌ: ذُوْهُ زَمِيْنٍ جَسْمٍ فِيْهَا مِثْلُهَا نَدُوْهُ۔
أَبْدَأَ: فُحْشٌ كُوْنِيٌّ كَرْنَا۔

بَادَاةٌ: مَجْهَلٌ كَرْنَا: فُحْشٌ كُوْنِيٌّ كَرْنَا۔

بَدَّحَ (ف) بَدَّحَا: جِيْرَانَا الجِلْدَ عَنِ
العَرَقِ: كَمَا هُوَانَا۔

تَبَدَّحَ: السَّحَابُ: بِرَسَدٍ۔

البَدَّحُ: يَبْجُنُ: ج بَدُّوْحٌ: كَمَا جَاءَتْ هُوَانَا۔
فِي رَجَلِيْهِ بَدُّوْحٌ: اس کے پاؤں میں بواہی

ہے۔

البَدَّحُ: بَرَانُوْا فِي خِرَاشٍ۔

بَدَّخَ (س) بَدَّخَا وَبَدَّخَ (ف) بَدَّخَا وَ
بَدَّخَ (ك) بَدَّخَا وَتَبَدَّخَ: بَلَدٌ هُوَانَا۔

تَكْبَرُ كَرْنَا: بَرِيْ شَانٌ وَوَالَا هُوَانَا: صَفْتٌ (بَادِخِ)
ج بَوَادِخِ وَ(بَدِيْخِ) ج بَدَّخَا۔

بَادَّخَا: فُخْرٌ كَرْنَا فِيْهَا مِقَابِلُ كَرْنَا۔

بَدَّرَ: المَاءُ: فَضُولٌ خَرَجِيٌّ فِيْهَا يَكْمِيْرُنَا۔
صَفْتٌ (بَدَّرٌ وَتَبَدَّرٌ وَتَبَدَّرَةٌ)

تَبَدَّرَ وَابْتَدَّرَ: مَتَفَرِّقٌ هُوَانَا: تَبَدَّرَ المَاءُ:
رَتْجٌ بِدَلٍ كَرِيْمٌ يَزِيْرُنَا۔

بَدَّرَقَ: المَاءُ: يَكْمِيْرُنَا: فَضُولٌ خَرَجِيٌّ كَرْنَا۔
تَكْمِيْرَانِيٌّ كَرْنَا۔

المُبَادِرِقُ: رَاهِبٌ رَهْبَانٌ رَهْبَانَا۔

بَدَّعَ (ف) بَدَّعَا: تَكْمِيْرَانِيٌّ فِيْهَا مِثْلُهَا۔
ذُرَانَا: بَدَّعَ الإِنَاءُ: بَرْتَنٌ كَأَمِيْرَانَا۔

أَبَدَّعَهُ: ذُرَانَا: خَوْفٌ دَلَانَا: تَكْمِيْرَانِيٌّ فِيْهَا مِثْلُهَا۔
ذُرَانَا۔

البَدَّعُ: بَرْتَنٌ سَعِيْرٌ كَرْنَا: يَكْمِيْرَانِيٌّ۔

بَدَّلَ (ن) (ض) بَدَّلَا: الشَّيْءُ: دِيَانَةٌ سَخَاوَاتٌ
كَرْنَا: كَمَا جَاءَتْ هُوَانَا، بَدَّلَ نَفْسَهُ ذُوْنَ أَوْعَنْ

فَلَانِ اس نے فلاں کی حمایت میں اپنی جان لڑا

دی۔ صفت (بَادِلٌ وَبَدُّوْلٌ) اور صفت
مفعولی (مَبْدُوْلٌ) بَدَّلَ جُهْدَهُ: پوری

کوشش کرنا۔

تَبَدَّلَ وَاتَّبَدَّلَ: چھجھورا ہونا۔ وقار کے خلاف کرنا۔

بَدْمَجْر (بَدَامَةٌ): کسی رائے پر چٹکی کے ساتھ ڈٹ جانا۔ صفت بَدْمِجْم۔

الْبُدْمُ: نور اندیشی۔ قوت۔ طاقت۔ رائے کی عمدگی۔ مروت۔

الْمُبْدِمُ: مضبوط اوٹھی۔

بَدَّلَان (بَدَّوَا وَأَبْدَى أَبْدَاءَ عَلَيْهِمْ عَشْرًا يَكُنَا):

بَدَّوْرَكَ (بَدَّاءُ وَبَدَائَةٌ): عجز گو ہونا۔ صفت (بَدْيِي مَجْ أَيْدِياعَوْنَتْ (بَدْيِيَّةٌ) الْبَدَّاءُ: بیہودہ کلام۔

بَرَزَن (بِرَا وَمِرَّةٌ وَالذَّةُ: اطاعت کرنا۔ حسن سلوک کرنا۔ خدمت کرنا۔ صفت (بَرَجٌ أَبْرَارٌ وَبَارٌّ جَبْرَةٌ).

بَرَّزَ (ض) بَرَّأَ وَبَرَّازَةٌ وَبُرُؤَةٌ: فی قولہ: بَرَّجَ بُونَا خَالَفَهُ: اطاعت کرنا بَرَّزَ الْبَجِينِ: قسم پوری ہونا۔ بَرَّزَ السَّلَاةُ: نماز کا مقبول ہونا۔ بَرَّزَ اللَّهُ الصَّلَاةَ: نماز کو بول کرنا۔

بَرَّزَةٌ: نیک چلن قرار دینا۔ وجہ جواز پیدا نہ۔

بَارَةٌ: حسن سلوک کرنا۔ مہربانی کا برتاؤ کرنا۔

أَبْرٌ: خٹکی کا سفر کرنا عَلَيَّهِ: غالب ہونا۔

كُنْ هُوَ اللَّهُ حَاجَّتَهُ: قبول کرنا الْيَدِينَ تَبَرَّرَ: نیک ہونا۔ نیکی کے اظہار کا ارادہ کرنا۔

تَبَرَّرَةٌ: اطاعت کرنا۔

الْعَرَبُ أَبْرَهُمْ كَمَا مَقْصِدِيهِ هِيَ كَرِبٌ عَرَبٌ كَمَا بٌ سَيَاةٌ فَجِجٌ وَهُدًى هِيَ جَوْشِمٌ سَاسَةٌ دُورٌ هُوَ۔

الْبُرِّيُّ: اچھی بات۔

الْمَبْرُورَةُ: جو نیکی پر اُبھارے۔ عطیہ۔ ج مَبْرَاتٌ وَ مَبَارٌ۔

الْمَبْرُورُ: مِنَ الْأَفْعَالِ: شہ۔ جھوٹ نیابت سے خالی۔

الْبُرِّيْرُ: نورِ رُخْتِ بِهَلْوَاكَ بِهَلْمَعَلٌ: واحد بُرِّيْرَةٌ بُرَّاهُ (ف) بُرَّوَعًا وَ بُرُوعًا: نیت سے

ہست کرنا۔

بُرُوحٌ (س) بُرُوعًا وَ بُرَّاءٌ اَوْ بُرَّائَةٌ: مِنَ الْعَيْبِ وَالذَّنْبِ: خلاصی پانا۔ نجات پانا۔

بُرِّيُّ (س) وَ بُرَّأُ (ف) وَ بُرُؤُكَ (بُرَّوَعًا وَ بُرُوعًا): مِنَ الْمَرَضِ: شَفِيَابٌ هُوَا۔

چنگا ہونا۔

بُرَّاهُ تَبَرَّرَةٌ: بری کرنا۔ پاک کرنا

الْتَهْمَةُ: نور کرنا۔

أَبْرَأُ الْمَرِيضُ: شَفَاؤُهُ: هُوَ مِنَ الدِّينِ: بری کر دینا أَلْرَجُلُ: مینیے کی پہلی رات میں داخل ہونا۔

بَارَأُ شَرِيكَهُ: شریک سے جدائی اختیار کر لینا۔

تَبَرَّأُ مِنَ الذَّنْبِ: گناہ سے بیزار ہونا۔

تَبَرَّأُ الزَّوْجَانُ: شوہر بیوی کا ایک دوسرے سے جدا ہونا۔

اِسْتَبْرَأُ: قَرْضُ يَأْتِيهِ مِنَ الْبُرِّيِّ وَالْبُرِّيُّ مَخْلُصٌ خَالٍ: گناہ توہمت سے پاک۔ ج بُرِّيِيُونٌ وَ بُرَّاءٌ وَ بُرَّاءٌ وَ أَبْرَاءٌ وَ أَبْرَاءٌ: مَوْثٌ بُرِّيْفَةٌ وَ بُرِّيْفٌ ج بُرِّيْفَاتٌ وَ بُرِّيَاتٌ وَ بُرِّيَاةٌ،

الْبِرَاءُ: مینیے کی پہلی رات۔ اِئْتِنَا الْبِرَّاءَ مَيِّنِي كِي اَخْرِي رَاةً: كَمَا جَاةَا هُوَ؛ اَنَا بُرَّاءٌ مِنْ كَذَا اَمِنْ اِس سَے بری ہوں۔ (اِس کا مشنیے جمع نہیں اور نہ اِس کے لیے مؤنث ہے)

الْبِرَّاءَةُ: شکاری کی جھوپڑی۔ ج بُرَّاءٌ

الْبِرَّائَةُ: بری کا مصدر۔ فرمان۔ پروانہ۔ ج بِرَأْتُ.

الْبَارِي: پیدا کرنے والا۔ صحت یاب جس کی لاغری باقی ہو۔

الْبِرِّيَّةُ: مخلوق۔ ج بُرِّيَاةٌ،

الْبِرَّائِلُ وَالْبِرَّائِلِيَّةُ: پرندہ کی گردن کے پر۔

الْبِرَّائِلِيُّ: مرغ۔

بِرَّالٌ وَ تَبْرَّالٌ وَ اِبْرَآءٌ: الطَّائِرُ: پرندہ کا لڑنے کے لیے گردن کے پر کھڑے کرنا۔

الْبِرِّيْنَجُ: مٹی کا پرنا۔ ج بُرِّيَانَجٌ

بُرِّيْرٌ بَكٌّ بَكٌّ: بَرَّوَانَا: صفت (بُرِّيَارٌ)

تَبَرَّرُ مَوْحِي هُوَا۔

الْبُرِّيْرِيُّ: قوم ہر ایک فرد۔

الْبُرِّيْرُ: مغربی افریقہ کی ایک قوم۔ اور بسا اوقات اس لفظ کا اطلاق رنگیوں اور حبشیوں پر بھی ہوتا ہے۔ ج بُرَّابِرٌ وَ بُرَّابِرَةٌ.

بُرِّيَصٌ: الْأَرْضُ: ہینٹھا۔

الْبُرِّيَضُ: بِرِيْبُ (پاچ)۔

بُرِّيْتُ (ض) بُرَّيْتَا: الشَّيْءُ: کانا۔

بُرِّيْتَا (س) بُرَّيْتَا: بَیْرَانٌ هُوَا۔

الْبُرِّيَوَاتُ وَالْمَبْرِيَوَاتُ: چینی۔ شہر سفید

الْبُرَّاتُ: بگھاڑا۔

الْبُرَّاتُ وَالْبُرِّيْتُ: ناہر راہبر۔ ج أَبْرَاتُ.

الْبُرِّيْتَانُ: نارنگی۔ نارنگی کا درخت۔ واحد (بُرِّيْتَانَةٌ)

الْبُرِّيْنُ: ج مِنَ السَّبَّاحِ وَالْقَطِيْبِ: بچہ۔

بُرِّيَانُ: جَبَلٌ ج بُرِّيَانٌ.

بُرِّيَانُ (س) بُرِّيَانُ: کھانا پتھا ہونا۔ بُرُوجَتُ عَيْنُهُ: آنکھ کا سیاہ اور کشادہ ہونا۔ خوبصورت ہونا۔ صفت (أَبْرَجٌ) اور آنکھ کی صفت (بُرُجَاءُ) ج بُرُجْ.

بُرُجٌ: الشَّيْءُ: ظاہر ہونا۔ بلند ہونا۔

بُرُجٌ وَ أَبْرَجٌ: بُرُجٌ: ہونا۔

تَبَرَّرَجَتُ: الْمَرْأَةُ: اجنبیوں کے سامنے آراستہ ہو کر نکلتا۔

أَبْرَجٌ: خُوبَصُورَةٌ: نمایاں۔ روشن۔ ج

أَبْرَجٌ: البُرُجُ: بستون۔ قلعہ۔ محل۔ منار۔ گنبد۔ ج

بُرُجٌ وَ أَبْرَجٌ وَ أَبْرَجَةٌ: البُرُجُ: آسمانی برجوں میں سے ایک۔ آسمانی برج بارہ ہیں جن کے نام یہ ہیں۔ حمل۔ ثور۔ جوزاء۔ سرطان۔ اسد۔ سنبلہ۔ میزان۔ عقرب۔ قوس۔ جدی۔ دلو اور حوت۔

فَلَيْكُ البُرُجُ: حَوزَةٌ دَائِرَةٌ جَسْ كُ سَوْرَجِ آسْمَانِي مِيں ہوتا ہے اور یہ دائرہ بارہ حصوں پر مشتمل ہے۔

ہر ایک کے ۳۰ درجے ہیں۔ موجودہ دور کے علماء اس کا نام دائرہ گرہن رکھتے ہیں۔

استبرده: عسٹرا پانا۔ استبرد علیہ

لسانہ: اس نے اس پر زبان درازی کی۔

البرد: سردی۔ نیند۔

البرود: اول۔

البرودة: ایک اول۔ بدھمی۔

البرودون: ٹٹو۔ گھوڑا۔ ترکی گھوڑا۔ ج برادین۔

برود (ن) برودا۔ میدان کی طرف نکلتا۔

برود (ن) وبرود (س) برودا گمائی کے بعد

مشہور ہوتا۔ صفت (نارڈ)

ابروزہ: نکالنا۔ الکتساب: شائع کرنا۔

الرجل: ارادہ سفر کرنا۔

البروخ: دو چیزوں کے درمیان کی روک۔

مرنے کے وقت سے دوبارہ اٹھنے تک کا زمانہ۔

ج بروزخ: بروزخ الایمان: ایمان کی

ابتداء اور آخر کے درمیان کی حالت۔ یا شک

یقین کے درمیان کی حالت۔

تیزوق: القمر: بغیر گھوڑوں اور اونٹوں

کے جمع ہونا۔

البرازیق: لوگوں کی جماعتیں۔ بڑے راستے

کے ارد گرد چھوٹے راستے۔ واد برزینق

بروس (س) برسنا: مقروض پر تین کرنا۔

بروس: الارض: نرم بنانا۔

البروس والبروس: روٹی۔

البروسیان: ایک قسم کی کھجور۔

البروسکوب: وہ عینک جس کے ذریعے

رکاوٹوں کے باوجود دیکھا جاتا ہے۔

بروسمہ: برسام میں جھلا کر دینا۔

البروسام: ایک ہذیبائی بیماری۔

بروسم: برسام میں جھلا ہونا۔ صفت

(مبوسم)

بروش (س) برشا و برش: سفید داغوں

والا ہونا۔ صفت (ابروش و مبروش) مکان۔

ابروش: مختلف رنگوں کی نینت نباتات والی

زمین۔ سنۃ برسنا: سال جس میں گھاس کی

پیداوار نینت ہو۔

البروشه والبروش: سفید داغ۔

بارح: المكان: جھاڑیوں۔

البریح: ج ابواح و (التبریح

والبرحاء: سخت۔ تکلیف۔ برائی۔

البریح: دہشت انگیز معاملہ۔

امر (بریح): تکلیف دہ معاملہ۔

البارح والبارحة: گزشتہ رات۔ البارحة

الاولی: گزشتہ رات سے پہلی رات۔ کہا جاتا

ہے ہذہ فغلة بارحة یہ فصل غلط اور غیر

ابراوی ہے۔

بروحی: ایک کلمہ جس کو نشانہ میں غلطی کے

وقت بولتے ہیں اور مروحی اس کے خلاف

ہے۔

البارح گرم ہونے ج ابواح

ابن بریح: کون۔

ب برد (ن) بردا و برد (ک) بردودة:

عسٹرا ہونا۔ صفت (برد و بارد و بردود

وبراد) بردت الارض: اولے پڑنا۔ برد

القوم: سردی لگنا یا اولے پڑنا۔ برد الحق

علیہ اولہ: ثابت ہونا۔ برد فلان: سونا۔

سست ہونا۔ کہا جاتا ہے، جد فی الامر ثم

برد اس نے معاملہ میں کوشش کی پھر عسٹرا

پڑ گیا۔

برد (ن) بردا: الخدیند: ریتی سے

رگڑنا۔ الخیز روٹی پر پانی ڈالنا لغین: عسٹرا

سرمیر لگانا۔

برودہ (ن) بردا او بردة: عسٹرا کرنا

الوجع: تکلیف کو لگا کرنا۔ سکون دینا الحق:

جاہت کرنا۔ واجب کرنا بردنا اللہ و برد

علینا: رات کو عسٹرا لگانا۔

ابرد: موسم سرما یا اولوں میں داخل ہونا لیبہ

البرید: قاصد بھیجنا لسی: عسٹرا کرنا۔

تبرود: عسٹراک چاہنا۔ کہا جاتا ہے نزل فی

الماء یتبرد وہ عسٹراک حاصل کرنے کے

لیے پانی میں آنا۔

تبارد: کسی کام میں سست ہو جانا۔ عسٹراک

ظاہر کرنا۔

ابتود: عسٹرا سے پانی سے غسل کرنا۔

البارج: ماہر کشتی یان۔

البارجة: بڑی چلی کشتی۔ ج ابواح۔ کہتے

ہیں، ما فلان الا بارجة قد جمع فیہ

کل الشیر یعنی فلاں بڑا شیر ہے۔ سفینۃ

بارجة کھلی ہوئی کشتی۔

تباریح النبات: نباتات کے پھول۔

الابریج: دودھ بولنے کا آلہ۔

البرجاس: چراغ کی ایک قسم جو مسافر سواروں

کے ساتھ جلائے جاتے تھے۔

البرجد: موٹا دھاری دار کپڑا۔

البرجیس: ایک ستارہ کا نام جس کو مشتری

کہتے ہیں۔ نینت دودھ والی اونٹنی۔

البرجعة: ج ابواح، اگلیوں کے جوڑ۔

ہاتھ پیر کی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں۔ اگلیوں کے

جوڑ کی پشت۔

البراجم: قبیلہ حمیم کی ایک شاخ۔ ان

الشقی و افد البراجم اشہ عرب میں سے

ہے اس شخص کے حق میں بولتے ہیں جو لالچ کی

وجہ سے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالے۔ اس کا

واقعہ یوں ہوا کہ جب سوید بن ربیع نے عمرو

بن ہند کے بھائی کو مار ڈالا تو عمرو بن ہند نے بنو

حمیم کے سو آدمیوں کو جلائے کی قسم کھائی اور

بنو دارم (قبیلہ بنی حمیم کی ایک شاخ) کے

نانوے آدمیوں کو قتل کر کے جلائے لگا تو ایک

شخص جو براجم میں سے تھا گوشت کے جلنے کی بو

پا کر وہاں آ موجود ہوا۔ عمرو بن ہند نے اس کو

بھی قتل کر کے اپنی قسم پوری کر لی۔

برج (س) براحا و برحا: المكان

ومنہ: پٹنا۔ جدا ہونا۔ زائل ہونا۔ کہا جاتا ہے،

ما برح ولا برحت غیبا بمعنی مازال

ولا زلت۔ برج الحفاء: ظاہر ہونا۔

برج (ن) برحا: الرجل: غضبناک ہونا

(بروحا) الصید: داہنی جانب سے گزرتا۔

صفت (بارح و برروح و بریح)

برج۔ یہ الامر: تمکات سخت تکلیف دینا۔

اللہ عنک تکلیف دور کرنا۔

ابرحہ: ہٹانا۔ تعظیم کرنا۔ تجب میں ڈالنا۔

البریش: سفید داغوں والا۔ برشمة برشمة و برشاما۔ الرُّجُل: غم کی وجہ سے خاموش ہونا یلیہ: گھورتا۔ تیز نظر سے دیکھنا۔ البرشمة: برقع۔ برشنة: الرسالة: گوند سے چپکانا۔ البرشان: گوند۔ لیٹی۔ برص (س بکوصا) برص کی بیماری والا ہوتا۔ صفتا برص) مؤنث برصاء ج برص۔ ارض برصاء: مختلف جگہوں سے چری ہوئی زمین حبة برصاء: سفید داغوں والا سانپ۔ ابرصاء: برص کی بیماری میں مبتلا کر دینا۔ تبرصن: الارض: چرا کر بالکل صاف کر دینا۔ البرص: ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے جلد سفید ہو جاتی ہے اور سخت تکلیف دہ خارش پیدا ہو جاتی ہے۔ سام تبرص: چھگی۔ شنیہ کی صورت میں ہذان ساما تبرص اور جمع کی صورت میں هؤلاء سوام تبرص و ابارص بولتے ہیں۔ الاببرص: چاند۔ برص (ن بکوصا) الماء من العين: تھوڑا لگانا۔ برص (ن بکوصا) النبات: اکھو لگانا۔ برص و ابرص: المکان: بیٹھ اکھو والی ہونا۔ تبرص: تھوڑی چیز پر زندگی گزارنا۔ الشی: تھوڑا تھوڑا لینا الماء: چوستا الارض: روئیدگی ظاہر ہونا۔ البرص: تھوڑا جھوڑا و برص و ابرص کہا جاتا ہے۔ ہذا برص من عدیۃ یہ بیٹھ میں سے تھوڑا ہے۔ البرصاء: زمین جس میں کچھ نہ اگے۔ البارص: اکھو۔	عین (بروض) تھوڑے پانی والا چشمہ۔ البرص والبرصاء: تھوڑا۔ المنبروض: کثرت داودیش کی وجہ سے تنگ دست۔ المنبرطس والمنبرطس: بائع اور خریدار کے درمیان دلال للممبرطس: کرایہ پر گھوڑوں اور گدھوں کو چلانے والا۔ البرطاش: پتھر کی چوکت۔ فصیح عربی الاشکفة ہے۔ برطلہ برطلہ: رشوت دینا تبرطل: رشوت لینا۔ البرطل: ٹوپی۔ البرطل: رشوت۔ لسا پتھر بڑا طویل برطم: اللیل: تاریک ہونا البرطل: غصہ کی وجہ سے ہونٹ لگانا (تبرطم) غصہ سے پھولنا۔ البرطام والبرطام: موٹے ہونٹ والا۔ برع (ن و تبرع (س و تبرع (ک) براعة و برؤعا: علم یا فضیلت یا جمال میں کمال ہونا۔ صفتا برع) بروعہ: علم یا فضیلت یا جمال میں غالب ہونا۔ برع الجبل: پہاڑ پر چھنا۔ تبرع بالعتاء: صدقہ کرنا۔ تبرع کرنا۔ البریع: عقل و جمال میں کامل تبرق بریع: دور سے چمکنے والی بجلی۔ بروعم برعومة و تبرعم: الشجر: ٹھکونہ لگانا۔ البرعوم والبرعومة: جبراعیم و البرعوم والبرعومة) تبراعیم: ٹھکونہ یا ٹھکوتہ۔ بھل کا غلاف۔ لبرع: لعاب۔ برعٹ: المکان: بیٹھ پسوں والا ہونا۔ البرعوت: پسو۔ بتواغیت۔ برعوت البعر: جھینگا۔ البرعل والبرعل: سخت چھنی ہوئی گندم۔ لبرعش: چھمر۔ و اجمہر غشہ) البرعی والبرعی: بیچ والی کیل۔ ج براعی	فصیح عربی لولب ہے۔ البرفیر: ارغوانی رنگ۔ ارغوانی رنگ سے رنگا ہوا پتھر۔ برق (ن) برق و برؤقا و برؤقا و برؤقانا و برؤقا۔ البرق: ظاہر ہلالشیہ: چمکانا۔ روشن ہلالشما: چمکتی ہوئی بجلی والا ہونا۔ البرجل: دھمکانا۔ برقت (ن بکوصا) و برقت و ابرقت۔ لمرأة: آراستہ ہونا۔ برق (س بکوصا): تھیر ہونا۔ چندھیا جانا۔ خیرہ چشم ہونا۔ برقة: آراستہ کرتھوڑی عینہ و بعینہ: آکھ پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا۔ ابرق: برق زدہ ہونا۔ دھمکانا۔ دور کا سفر کرنا سینفہ: چمکانن و جہہ: ہٹانا تبرقت لشما: چمکتی ہوئی بجلی والا ہونا۔ البرق: بجلی بھڑوق کہا جاتا تبرق خلب و برق خلب و برق الخلب بے بارش کی بجلی۔ البارقة: بجلی والا بادل۔ تلواریں سحابہ براقة: بجلی والی بدل۔ البرقة: دہشت۔ خوف۔ البرق: گھبراہٹ۔ دہشت۔ بھیڑ کا پچ۔ ج براق و تبرقان۔ البرق: گروہ۔ و اجل (بروق): بزدل۔ البرقة: بھوق و الابرق) بھارق: سخت ترین زمین جس میں ریت گارا پتھر ہو۔ اس کی تصغیر ابریق) ہے لابرق: سیاہ سفید رنگ والا۔ البراق: اس جانور کا نام ہے جس پر نبی کریم ﷺ شب معراج میں سوار ہوئے تھے۔ اس جانور کا قد گدھے سے بڑا اور ٹھہر سے چھوٹا تھا۔ البراق: تھوڑا سائیل یا گھی جو کھانے میں ڈالا جائے۔ مترق: الضیح: صبح طلوع ہونے کی جگہ۔
---	--	---

ہوتا۔
 بَزَخٌ لَّهُ: فروتنی کرنا۔
 بَزْرٌ (ض) بَزْرًا: الحُبُوبُ: بونا۔ بیج چھیننا
 (وَبَزْرٌ) القَنْدَرُ: سالہ ڈالنا۔ بَزْرٌ الإِنَاءُ:
 بھرنے۔ کہتے ہیں، فَلَانٌ بَزْرٌ كَلَامَهُ وَقَوْلُهُ
 فَلَانٌ نے اپنی گفتگو میں تمک مرچ ملانا۔
 البَزْرُ: بیج۔ حَمٌّ: واحد (بزرہ) بیج بَزْرُورِ
 لا یخفی علیہ آباؤک یعنی مجھ جیسے پر
 تمہاری کہیں پوشیدہ نہیں رہ سکتیں۔ البَزْرُ:
 ریخت۔
 الْمَرْأَةُ (البَزْرَاءُ) بیعت اولاد والی عورت۔
 البَزَارُ: بیج اور سالہ کا بیج والا۔
 البَزِيرُ: سیل کا بڑا۔ دھوبی کا تختہ
 (والمبیزر): دھوبی کی موگر۔
 البَزِيرَارُ: بازپانے والا۔ کاشکار۔ بیسیارہ
 (معرب)
 بَزْعٌ (ک) بَزَاعَةٌ: الغَلَامُ: خوش طبع بچی
 اور چست ہونا۔ صفت (بزیع) مؤنث
 (بزیعة)
 قَبِزَعٌ: الغَلَامُ: چست و پھرتیلا ہونا۔
 الشَّرُّ: شروقتنہ کا بھڑکانا۔
 البَزَاعُ: بغیر جھک کے گفتگو کرنے والا لاکا
 (والبزيع) من العُلَمَانِ: تیز خاطر۔ چرب
 زبان لاکا۔ البَزِينِجُ: شریف آدمی۔
 بَزَعَتْ (ن) بَزَعًا وَبَزُوعًا: الشَّمْسُ:
 طلوع ہونا۔ بَزَعُ الْحَاجِمِ: شتر لگانے:
 خون بہانا۔
 إِبْتِزَعُ: الربيع: فصل بہار کا شروع ہونا۔
 نُجُومٌ (بوزاغ) طلوع ہونے والے
 ستارے۔
 المَبِزُغُ: نشتر۔
 بَزَقُ (ن) بَزَقًا: تھوکلنا۔ بونا۔
 البَزَاقُ: تھوک۔
 البَزَاقُ: ایک قسم کا گھونٹا۔ واحد بَزِزَاقَةٌ
 بَزَلٌ (ن) بَزَلًا وَبَزَلٌ: الشَّيْءُ: سوراخ
 کرنا۔ الشَّرَابُ: صاف کرنا۔ بَزَلُ الأَمْرِ:

تَبَزَّى لِمَعْرُوفِهِ: بھلائی کے درپے ہونا۔
 إِبْتِزَى: تراشا۔ جالہ: پیش آنا۔
 البَرَى: مٹی۔
 البَارَى: فا۔ پیدا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے
 اسم حسنیٰ میں سے ہے۔ تیر کا تراشنے والا۔
 امثال عرب میں سے اَعْطَى القَوْسَ بَارِيهَا
 کمان تراشنے والے کو دو۔ یعنی کام اس شخص کے
 سپرد کرو جو اس کی اہلیت رکھتا ہو۔
 البَرَايَةُ وَالبَرَاءُ: تراشہ۔ چھیلن۔
 البَرِيَّةُ: مخلوق۔ بھرا یا۔
 الإِبْرِيَّةُ وَالبَرِيَّةُ: سر کی بھوسی جو کنگھی
 کرتے وقت گرے۔
 البَرَاءَةُ وَالمِبْرَاءُ وَالمِبْرَاةُ: چاقو۔
 تراشنے کا اوزار۔
 بَزْرَةٌ (ن) بَزْرًا وَبَزْرِيًّا: چھیننا۔ غالب ہونا
 الشَّيْءُ مِنْهُ: زبردستی لے لینا۔
 إِبْتِزَ مِنْهُ الشَّيْءُ: زبردستی چھین لینا۔
 البَزْرُ: کتان یا روئی کے کپڑے۔ بھسیار۔ ج
 بَزْرُورِ:
 البَزْرَةُ: کپڑے۔ بھسیار۔ بیت۔
 البَزَارُ: پارچہ فروش۔
 البَزَارَةُ: پارچہ فروشی۔
 البَزَابُورُطُ: پاپیورٹ (جدید) پروانہ
 راہداری۔ اس کے لیے فصیح لفظ الجواز ہے۔
 بَزِينِزُ: تیز چلنا۔ سخت ہانکنا۔ بھگانا۔ بیعت
 حرکت کرنا۔
 بَزَجُ (ن) بَزَجًا: فخر کرنے میں مقابلہ کرنا
 عَلَيَّ فَلَانًا: بھڑکانا۔ آسانا۔ برا بھینٹہ کرنا۔
 بَزَجَةٌ: آراستہ کرنا۔ خوبصورت بنانا۔
 بَزَجَةٌ: فخر کرنے میں مقابلہ کرنا۔
 تَبَزَّجًا: باہم فخر کرنا۔
 بَزَخُ (س) بَزَخًا: نکلے ہوئے سینہ اور
 دھکی ہوئی پیٹھ والا ہونا۔ صفت (ابزخ)
 مؤنث (بزخاء) بَزَخُ:
 تَبَزَّخَ عَنِ الأَمْرِ: پیچھے ہٹنا۔ نکلے ہوئے
 سینہ اور دھکی ہوئی پیٹھ والے کی طرح چلنا یا
 بیعتنا۔ تَبَزَّخَتْ المَرْأَةُ: بڑے سرین والی

بَزْرَةٌ۔
 أَبْرَةٌ: دلیل لانا۔
 البُرْهَةُ وَالبُرْهَةُ عَرَصٌ: زمانے کا ایک
 حصہ۔ بَزْرَةٌ وَبُرْهَاتُ:
 البُرَاهِمَةُ: ہندوؤں کی ایک ذات مفرد
 (بُرْهَمَن)
 بُرْهَنٌ: الشَّيْءُ وَعَلَيْهِ وَعَنْهُ: دلیل قائم
 کرنا۔
 تَبْرَهَنٌ: دلیل سے ثابت ہونا۔
 البُرْهَانُ: دلیل۔ بھراہین۔
 البُرْوَازُ: چوکھا (جدید) اس کے لیے فصیح
 لفظ کفاف اور اطراف ہے۔
 البُرْوَيْسِيُّ: دعویٰ قائم یا وجود بیکاری اور
 نقصان کے اور اک کے۔
 البُرْوَيْسِيَانِي: معروف عیسائی مذہب پر دُث
 کو ماننے والا۔
 البُرْوَيْتُونُ: ہمدرد و جن کا زہرہ
 البُرْوَيْتَارِيَا: کام کرنے والا طبقہ (لاطینی لفظ)
 البُرُومُ: بدبودار جسم سمندری پانیوں سے
 نکالا جاتا ہے سرخ بیٹے والے مادے کی شکل میں
 علامہ BR
 اَبْرُومِزُ (الصفْر): پتیل
 اَبْرُومِيْزُ: ہوا کی پیمائش کا آلہ
 بَرَا (ن) بُرًا وَابْرِيًّا: اِبْرَاءُ: النَّاقَةُ:
 اونٹنی کی ناک میں حلقہ ڈالنا۔
 البُرَّةُ: حلقہ (خواہ کنگن ہو یا پالی یا پارسیج
 بُرَى وَ بُرَاتُ وَ بُرَيْنُ وَ بُرَيْنُ: کہا جاتا
 ہے اَعْطَنَةُ الدُّنْيَا بُرْتَهَا یعنی دنیا اس کے
 ہاتھ میں آگئی ہے۔
 بُرَى (ض) بُرِيًّا وَابْتَرَى: السَّهْمُ وَ
 القَلَمُ: تیر یا قلم تراشنا۔ صفت مفعولی (بُرِيٌّ
 وَ مَبْرِيٌّ)
 الشَّخْصُ: ڈبلا کرنا۔ کمزور کرنا۔
 بَارَى: الرَّجُلُ: آگے بڑھنے کی کوشش کرنا
 اِمْرَأَةٌ: فراق کی شرط پر صلح کرنا۔
 اَبْرَى: مٹی لگانا۔
 تَبَارِيَا: باہم آگے بڑھنے میں مقابلہ کرنا۔

کسی کام کو کر گزرتا۔ رایکونی نئی رائے پیش

کرنا۔ کسی رائے پر جم جانا۔

بزول (بزول) بزول۔ البعیر مؤنث کا جوان ہونا

مؤنث (بازلج) بزول و بزول و بزول۔

تیزول و ابتزل نوران ہونا۔

تیزول و ابتزل: الخمر شراب کے برتن

میں سوراخ کرنا الجسد: جسم سے خون

چکنا۔

السقاء معق کا مینا

استیزول: الشی: کھونا الخمر: صاف

کرنا۔

البزل: بختی۔

البزل: ایک قسم کا پہاڑی بکرا۔

البزال: برما۔ سوراخ کرنے کا اوزار۔

البزال: شراب کے شے کا سوراخ۔

البازل: اونٹ کی کچلیوں کا دانت۔ تجربہ کار

مرد۔ کہتے ہیں زمی باشہب بازل وہ دشوار

معاملہ میں پھنس گیا۔ الانزل

بڑی مصیبت۔ عمدہ رائے۔ کہا جاتا ہے امرأة

بزلاء الزأی عمدہ رائے والی عورت۔

وخطئة بزلاء صاف و واضح طریق کار۔

المبزل: شراب صاف کرنے کا آلہ۔

سوراخ کرنے کا اوزار۔

بزم (ن) بزما۔ غلیہ: اگلے دانوں

سے کاٹنا الشیء: اٹھا لانا ثوبہ: چھین

لینا لناقة: اگھوٹے اور شہادت کی انگلی سے

دو ہلاتو القوس: کمان کے تانت کو اگھوٹے

اور شہادت کی انگلی سے پکڑ کر تیر چلانا۔

البزیم: ساگ یا ترکیبی، غیرہ کا مضامندہ

کے لیے پتہ چمکانا۔

بزأ (ن) بزوا۔ غلیہ: دراز دسی کھلڑا

وابزأه و ابزأی بہ) غالب آبزأ و بزأ

ببزی بزأ و ابزأی ابزأ) لگے ہوئے سینے

اور دھسی ہوئی پیٹھ والا ہونا صفت (بزی)

مؤنث و اء۔

تبازی: باز کے مشابہ ہونا۔ سرین اٹھا کر

ہلاتے ہوئے چلنا۔

البزول و نظیر۔

البزوی دودھ پیتا بچہ۔ کہا جاتا ہے "

بزیی ذہیر اودھ شریک بھائی ہے۔

البزغیجک۔

الباز و البازی یا۔

بسر (ن) بسا و بسا۔ الابل: آہستہ

آہستہ ہانکنا اور بس بس کہنا۔ "بس المال فی

البلاد" ملک میں مال کا پھیلا دینا۔ "بس

السویق" بھی یازتوں کے تیل میں ستولانا

القوم عنہ دھکانا۔ "وأسس بالنافة"

دوسنے کے لیے چکانا۔

ابسر زمین پر پانی کا بہنا۔ الگ ہٹنا۔

البس و البیس۔ بلا۔ کوشش۔ ج بساس

البیسس: ٹھوڑا کھانا۔

البیسسہ: گھی یا زیتون کے تیل میں ملا ہوا

ستویا آنا۔

البسوس: اُدغنی جو بغیر بس بس کہے ہوئے

دودھ نہ دے۔ ج بسنس۔

بس بس و بس بس: بکریوں، اوتھوں،

بیویوں کے ہلانے یا ڈانٹنے کے لیے کلمہ۔

ابسوس: جاس بن مرہ البکری کی خالہ جس کی

وجہ سے بنی بکر اور بنی تغلب کے درمیان مشہور

جنگیں ہوئیں اور اس کا نام منحوس سمجھا جاتا

ہے۔

بسبس: بالغمم او الابل: بس بس کہہ

کے ہلانے۔ کسی سے بس کہنا۔

البیسس: بیابان، بے گھاس پانی والی زمین۔

ج بسباس: ترہاٹ البسباس

والترہاٹ البسباس: جھولی اور باس

باتیں۔

البستان: باغ۔ بسبتین (جدید)

البستانی: باغ والا۔ باغبان البستانی من

نبات: لگائے ہوئے پودے۔

البسات: سال کے آخر میں عیسائیوں کے ہاں

بسترینہ۔

جو تخماف پیش کئے جاتے ہیں۔

البسر (ن) بسرہ

جلدی کرانا۔ مغلوب

کرنا (وأسسر) الفرحة نچوڑ کر ہاندھنا

الحاجة بے وقت طلب کرنا النخلة:

درخت خرمائیں قبل از وقت ہونے لگانا

المیات: تر گھاس چرانا۔ و أسسر النخل: گدر بجزور

والا ہونا۔

بسر (ن) بسرا و بسورا: ترش رو ہونا۔

صفت (بأسر) اور اسی وجہ سے شیر کو

(البسور) کہا جاتا ہے۔

تبسر و أسسر: الحاجة بے وقت طلب

کرنا۔ أسسر بالامر: شروع کرنا

تازہ لیمہ۔ أسسر لونه: بدل جانا۔

البسر: ٹھنڈا پانی۔ کہا جاتا ہے "وجه بسر"

، تیوری چڑھا ہوا چہرہ۔

البسر: تازہ چیز۔ گدر بجزور واحد۔

بسار: البسرة: طلوع کے وقت کا آفتاب۔

الباسورج: بواسیر۔ بواسیر کی بیماری۔

المبسور: بواسیر کی بیماری والا۔

المبسورات: ہوا میں جن کا چلنا بارش کی

علامت ہو۔

بسط (ن) بسطط: التفیسر پھیلاتا

بسطط کسی کا دل بڑھانا البسط: ہاتھ

الغذز: عذر ظاہر کرنا یا کھول کرنا

القوم: وسیع ہونا۔ فلانا علیہ: فضیلت دینا

السيف: تلوار سوختا۔

بسط (ک) بساطة: بسط ہونا۔ پر مذاق

ہونا۔

بسط: الغوب: کھل کر باتیں کرنا۔

بساطة: پھیلاتا۔ دراز ہونا۔ بے

تبسط و أسسط: سیر و تفریح کرنا۔

الباسط فا: اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسی میں

سے ہے۔

الباسطہ: دور کی مسافت۔

الباسطہ: کھلا ہوا ہاتھ۔

بسط و بسط (بسط و بسط): دسترس۔ کمال۔

البسطہ: فراخی زندگی۔

بسطة العیش: چھونا۔ فرش۔ بسط

البساط: بسط

البيساط: كشاده زمين۔
 البسيط: مفرد۔ كشاده زمين۔ پر مذاق۔
 بسيط الوجہ: كشاده رو۔ ہنس كہ۔
 البسيط: خلاف مركب شعرون كا ايک وزن جس کے الفاظ یہ ہیں۔ مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن۔
 بسيط اليدين: فاض۔ حى۔ ج بسطاء۔
 البسيطة: زمين۔ زمين كا ہوا حصہ۔
 اسطرما: گوشت ہانڈی۔
 بسق (ن) بسقا: تمو كيا۔
 بسق (ن) بسوقا: النخل: لیے تھے اور لمي ٹھينوں والا ہوتا۔ مفت (باسبق) اصحابہ وعلی اصحابہ: فضيلت میں بڑھ جاتا فحی علمہ: ماہر ہونا۔
 بسقا: لبا كرا۔
 تبسق: لبا ہونا۔
 الباسقا: مؤنث۔ سفيد صاف رنگ كا بادل۔
 مصيبت۔ ج بواسق و بواسق السحاب: ابتداءى بادل۔
 البسكويتى خشك روٹى يا خشك حلوى۔
 البسكو لو جيا علم نفس يا علم قلب۔
 بسل (ك) بسلا و بسالة: بہادر ہونا مفت (بسول و بسابل) ج بسل و بسلاء و بسئل۔
 بسل (ن) بسولا: الرجل: غصہ يا بہادری سے توری چڑھانا۔ مفت (بسئل و بسئل النبيل): نبيل كا تيز ہونا اللحم: گوشت كا بدبودار ہونا۔
 بسله (ن) بسلا: لامت كرا۔ حلال كرا۔ جائز كرا عن حاجتہ: منع كرا۔ رو كرا۔
 ابسله: ہلاكت کے لیے جموڑ دينا۔ رہن ركھنا اللہ الشئ: حرام كرا و لكذا: پیش كرا ابسل نفسه للموت: مرنے کے لیے تيار ہو جانا۔
 بسله: ناپنديدہ بنا دينا (بسئل و ابسئل) نفسه للموت: اپنے آپ كو موت کے لیے پیش كر دينا۔

باسله: لڑائی میں حملہ كرا۔
 تبسل: غصہ يا بہادری سے توری چڑھانا۔
 استبسل: مرنے يا مارنے کے لیے جنگ میں كو پڑنا۔
 البسل: سختی۔ حلال۔ حرام (واحد جمع مذكرو مؤنث مساوی ہیں) کہا جاتا ہے۔ "هذا بسل عليك" یہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ اور کہا جاتا ہے "بسلا لہ" اس کے لیے خرابی ہو۔
 الباسل: شمر۔ ج بواسل۔ اور کہا جاتا ہے "يوم باسل" سخت دن۔ وغضب باسل "تيز غصہ۔
 البسالة: وليرى۔ بہادری۔ كراہت۔
 البسلى: ايک قسم كى نباتات۔
 البسئل: حرام۔ كروہ چہرہ والا۔ برتن میں شراب كا بقیہ۔
 بسم (ض) بسما و تبسم و ابسبم: مسكرانا۔ مفت (باسم و تبسبم) المتبسم: وانت۔ ج مباسم۔
 البسام و المباسم: بہت مسكرانے والا۔
 بسمل بسم اللہ كہنا۔
 بسمله عيسائيوں کے نزدیک اقايم باپ بيٹا اور روح مقدس کے نام سے ابتداء كرا۔ اور مسلمانوں کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحيم پڑھنا۔
 ابسن خوش رنگ و خوش وضع ہونا۔
 بش (س) بشا و بساشة: ہنس كہ ہونا۔
 كشادہ رو ہونا للشي: كسى چیز كو ديكھ كر بشارت ظاہر كرا بالصديق: دوست كو ديكھ كر خوش ہونا۔ مفت (بش و باش و بشوش و بشاش) ابشت: الأرض: نباتات كا آپس میں گٹھ جانا۔
 بشيش الرجل: بشارت ظاہر كرا۔
 تبشيش: بہ كسى سے كشادہ روٹى سے پیش آنا۔
 البشتخته: جمو یا صندوق۔
 بشر (ن) بشر الجلد: چمڑا چھيل دينا

الشارب: مونچھ مونچھ كرا كھال ظاہر كر دينا الجواز الأرض: بڑى كاسب كچھ كھا جانا۔
 بشو (ض) و بشو (س) و ابشرو و ابشبر بشو: خوش ہونا۔ ابشرو الأرض: اكلوا اكلانا۔ کہا جاتا ہے۔ "بشرونى بوجہ حسن" وہ مجھ سے كشادہ روٹى سے ملا۔
 بشره: خوش كرا۔ خوشخبرى دينا۔
 ابشرو: فلانا: خوشخبرى دينا۔ خوش ہونا۔ قرآن میں ہے ﴿وايشروا بالحقبة التى كنتم توعدون﴾ الامر و وجہہ: حسين پر رونق بنا دينا الشئ: چھيلنا۔
 باشر الامر: كسى كام كو خود كرا۔ باشره العيتم: نعمتوں میں پلنا المرأة جماع كرا۔
 تباشروا: بالامر: ايک دوسرے كو خوش خبرى دينا۔
 البشر: چہرہ كى رونق۔ كشادہ روٹى۔
 البشير: خوش خبرى دینے والا۔ ج بشراء۔
 البشارة: حسن و جمال۔
 البشارة: كھال كا تراشہ۔ ہدیہ جو خوشخبرى دینے والے كو ديا جائے۔
 البشارة: خوشخبرى۔ ج بشارات و بشارتو: بشارتو الوجہ: چہرہ كى خوبىاں۔
 بشارتو الضيخ: آقا صبح۔
 البشار: كمينہ آدمى۔
 البشر: انسان (مذكرو مؤنث، واحد، جمع) ابو البشر: حضرت آدم مہينا و عليه الصلوة والسلام كى كيت۔
 ابن البشر: حضرت عيسى عليه السلام كا لقب عيسائيوں کے نزدیک۔
 البشرة: كھال كا اوپر كا حصہ، ساگ گھاس۔
 ج بشر۔
 البشائر: خوش خبرى۔ ہر چیز كى ابتداء۔
 البشرى: خوشخبرى۔
 المبشرات: بارش كى اميد دلانے والى ہوا كى۔
 بشع (س) بشعا و بشاعة الشئ: بدمزہ ہونا المرأة: زشت رو ہونا فلان

بالأمر: ضيق میں ہونا۔

تَشَعُّعٌ: بے مزہ ہونا، بد صورت ہونا۔
ناپسندیدگی ظاہر کرنا۔

استَشْعَعَهُ: بے مزہ سمجھنا۔

بَشَقَةٌ (ض) و بَشَقَةٌ (س) بَشَقًا
بالعصاة: لامحی سے مراد۔

البصائر: ایک شکاری پرندہ جس کو ایشق

بَشَلٌ (ن ض) بَشَلًا: جلدی کرنا۔

الخبير: گھڑا الثوب: دور دور سینا فی

غملة: بڑے طریقہ سے کرنا۔

ابتشك: جموت ہونا الكلام: گھڑیلنا۔

البشاك: بڑا جموتا۔

بشيم (س) بشما: من الطعام: بد ہضمی

ہونا

من الشئ: آگنا ہونا۔ صفت (بشيم)

البشام: ایک خوشبودار درخت کا نام جس کی

کلوی سے خلال بناتے ہیں۔ واحد اس کا بشامة

ہے اور دوا فروش اس کے بیج کو حَبُّ

الباشا کہتے ہیں۔

بص (ض) بصيصًا و بصًا: چمکانا۔ روشن

ہونا الماء: رشنا۔ کہا جاتا ہے "بص لینی

بیسیر" اس نے مجھے تھوڑا دیا۔

بصص: الجرو: لپے کا آنکھیں کھولنا

الأرض: الكواکب الشجرة: کو نپل لگانا۔

البصاصة: آنکھ۔

البصيص: چمک۔ بچکلی۔ اور اسی سے ہے

"أقلت وله بصيص"

بصيص بصيصًا: بمعنی بصص۔

(ربصيص) الكلب: دم بلانا۔ فلان:

چاپوسی کرنا۔

بصر (ک) بصر (س) بصرا و بصارة

و بیه جانا۔ دیکھنا۔

بصر (ن) بصر الشئ: کاننا۔

بصرة الأمر: پہچاننا۔ معلوم کرنا۔

وبصر: بصرہ میں آنا الجرو: لپے کا

آنکھیں کھولنا۔

باصر الشئ: دور سے جھانک کر دیکھنا۔

دیکھنے میں مقابلہ کرنا۔

أَبْصَرَ: دیکھنا۔ بیابانا الرجل: بصرہ میں آنا

- أَبْصَرَ الطريق: واضح نمایاں ہونا۔

تَبَصَّرَ: الشئ: غور سے دیکھنا فی الشئ:

سوچنا، غور کرنا۔

تَبَاصَرُوا: کسی چیز کو پہلے دیکھ لینے میں مقابلہ

کرنا۔

استَبَصَّرَ الأمر: ظاہر ہونا الأمر: ظاہر

کرنا۔ اچھی طرح دیکھنا فیہ: سوچنا۔ غور کرنا۔

البصر: دیکھنے کی قوت۔ آنکھ۔ علم۔ ج البصار

کہا جاتا ہے "آتیتہ بین سمع الأرض

وبصرها" میں اس کے پاس اس وقت پہنچا

جبکہ کوئی نہیں تھا صرف زمین ہی دیکھنے والی

سننے والی تھی۔

البصرة: ایک شہر کا نام جو باہم لے چلے

دریائے جلد و فرات کے مغربی کنارہ پر واقع

ہے۔

البصرتان: بصرہ و کوفہ۔ والبصرة:

سخت زمین۔ لیس دار مٹی جس میں ٹکریاں بھی

ہوں۔ ج بصرار۔

البصير: دانہ۔ پیاز۔ ج بصراء

البصيرة: عقل۔ زیرکی۔ دانائی۔ عبرت۔

شاہد۔ حجت۔ کہا جاتا ہے "جوارحه بصيرة

عليه" اس کے اعضاء اس کے اوپر گواہ ہیں۔ و

فراصة ذات بصيرة" سچی فراست۔

الباصرة: آنکھ۔ ج بواصر۔ کہتے ہیں

"خبير العشاء بواصره" بہترین کھانا وہ ہے

جو تار مٹی سے پہلے کھالیا جائے۔

المبصر والمبصرة: واضح روشن دلیل۔

المبصر: تمہان۔ کہا جاتا ہے "رئت علي

بستاني مبصر" میں نے اپنے باغ کے لیے

ایک تمہان مقرر کیا۔

بصعة (ف) بصعا جمع کرنا الماء: پانی

بہنایا رشنا۔

البصع برات کا کچھ حصہ۔

بے وقوف۔ انگشت شہادت اور بیچ

والی انگلی کے درمیان کا فاصلہ۔

البصيع بينه جو جسم سے ٹک رہا ہو۔ ج

بضع

الأبضع بے وقوف۔ اس کو تاکید کے موقع

پر بھی استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں "أخذت

حفتي أجمع أبضع" مؤنث (بضعاء) ج

أبضعون و بضع اور اس کو جمع پر مقدم

نہیں کرتے۔

بصق (ن) بصقًا: تھوکتا الشاة: حاملہ

بکری کو دوہنا۔

البصاق: تھوک۔ اور جب تک منہ میں ہو

اس کو رقی کہتے ہیں۔

باصقة: آگ برسانے والے لڑائی کے تھیار۔

بصلة و تبصلة: من ثيابہ: تنگا کرنا۔

تبصل القشر: چمکانا کا مونا ہونا۔

البصل: پیاز۔ واحد بصلة. البصلة: لوہے

کا خود، اور اسی سے ہے "خروجوا كأنهم

الأصل و على رؤوسهم البصل" وہ لوگ

نکلے گویا کہ ڈنٹے والے سانپ ہیں اور ان کے

سروں پر خود ہیں۔ اس قول میں اصل: جمع

أصله کی ہے جو ایک قسم کا زہر یلا سانپ ہے۔

بصل لفار: جنگلی پیاز۔ عوام اس کو بصيلة

کہتے ہیں۔

بصم (ن) بصمًا. القماش: سامان پر

علامت لگانا۔

البصم: خضر اور نضر کے درمیان کا فاصلہ۔

ثوب و بصم: مونا غف کپڑا۔

رجل ذو بصم: مونا مرد۔

البصمة: علامت۔

البصما طواکی ایک قسم

بصا (ن) بصوا. غريمة: قرضدار سے

سب کچھ لے لینا۔

البصرة: چنگاری۔ انگارہ۔

بصر (ض س) بصاصة و بصوضة:

مونا بے کے ساتھ پٹے اور نرم چمڑے والا

ہونا۔ صفت (بص و باص و بصيص)

مؤنث بصنة و باصنة و بصيضة.

بصر (ض) بصًا و بصوضًا و بصيصًا.

الماء: تھوڑا تھوڑا بہتا الحجرج: پانی رستا
تخیل کے لیے کہا جاتا ہے "فلان مایض"
حجرہ" یعنی فلاں کے خیر کو حاصل نہیں کیا
جاسکتا العین: آنسو لگانا کہا جاتا ہے "فلان
ماتض عینہ" فلاں کی آنکھوں سے آنسو
نہیں نکلا۔ یعنی وہ مصیبتوں پر صبر کرنے والا
ہے "أوقار العود" بجانے کے لیے چھیڑنا۔
لہ: دینا۔

بضضا وبضاضة: تھوڑا دینا یا تھوڑا پانی
دینا۔

أبض: لہ: تھوڑی سی چیز دینا۔

بضض تبضضا: ناز و نعمت کی زندگی بسر
کرنا۔

ابتض: القوم: ساری قوم کو تباہ کر دینا۔

تبضض: فلانا: سب کچھ لے لینا۔ حقہ
من فلان: تھوڑا تھوڑا کر کے وصول کرنا۔

بتر (بضوض) کم پانی والا کتوال۔ ج
بضاض۔

البضض والبضاضة: تھوڑا پانی۔

البض: موٹائی کے ساتھ نرم جسم اور پتلی
کھال والا۔ مؤنث بضة. البض والبضنة
کھادود۔

البضينة: جو کچھ کسی کے بغض میں ہو کہا
جاتا ہے "أخرجت له بضينتي" میں نے
اپنی تمام مملوکہ چیزیں اسے دیدیں۔

بضع (ف) بضعاً وبضع. الشئ: کاٹنا۔
چیرنا۔ شتر کاٹنا۔

بضع (ف) بضعاً. الكلام: سمجھنا
الكلام: واضح ہونا من فلان: آگیا جانا۔ ٹک
دل ہونا۔

أبضعه. الكلام: واضح طور سے بیان کرنا۔
أبضع الشئ: سرمایہ بنانا المرأة: نکاح کرنا۔
الماء فلانا: سیراب کرنا۔

تبضع واستبضع: سرمایہ لینا الشئ:
سرمایہ بنانا۔ تبضع العرف: پینہ کا تھوڑا
تھوڑا بہنا۔ استبضع الرجل الشئ: کسی
کے لیے سرمایہ بنانا۔

الباضع: لوگوں کے سامان کو اٹھانے والا
شمشیر برآں۔

المبضع: نثر۔ مبضع.

أله بضع من الرجال: لاغر۔

البضعة والبضعة: گوشت کا ٹکڑا۔ مبضع

وبضع وبضاع وبضعات.

البضع والبضع: رات کا کچھ حصہ۔ تین

سے نو تک کی تعداد۔ کہا جاتا ہے "بضع بينين

وبضع عشرة من النساء وبضع

وعشرون امرأة" اور مذکر کے لیے بضعة

عشر من الرجال وبضعة وعشرون

اور بضع کی تقدیم واجب ہے اس لیے عشرون

وبضع: کہا جاتا ہے۔

البضاعة: سرمایہ۔ پونجی۔ مبضائع.

بضم (ن) بضمًا. الزرع: موٹے دانہ

والا ہونا۔

البضم: خوشہ۔ نفس۔ کہا جاتا ہے "هو

كريم البضم" وہ کریم النفس ہے۔

بظ (ن) بظًا. الجرح: زخم کو چیرنا۔

شگاف کرنا۔

بظط: عاجز ہونا۔ تھکنا۔

البظ: واحد (البظة) بطخ (نزدادہ

دونوں کے لئے) ج بطوط و بظاط.

البظة: بظ کے شکل کی شیشی۔

المبظ ج مباط و (المبظة): نثر۔

شگاف دینے کا اوزار۔

البطاطا: آلو (جدید)

بظبط. البظ: آواز کرنا۔ پانی میں غوطہ لگانا

الرجل: کزور رانے والا ہونا۔

بطوء (ک) بظاء و بظاء و بطوؤنا

وآبطا: دیر کرنا۔ مفت (بطی) مؤنث بطينة

ج بظاء

أبطأ و بظًا. عليه وبالأمير: دیر کرنا۔

مؤخر کرنا۔

باطاة: نال مثل کرنا۔

تبطًا و تباطًا. في سيرة: پیچھے رہنا۔

استبطاه: دیر کرنے والا پانا۔ یا سمجھنا۔

المنطاة: باعث دیری۔

بظحه (ف) بظحًا: بچھانا۔ منہ کے بل
گرننا۔

بظح. البتت: منگیزی بچھا کر ہوا کرنا۔

تبطح و انبطح و استبطح: الوادی:

پھیلنا۔ کشادہ ہونا۔ انبطح الرجل: منہ کے

بل گرننا۔

الباطح: فاء منہ کے بل گرنے والا۔

البطحاء و البطاخ و بطانح و بطحوات

و (الأبطح ج أباطح. و البطححة) ج

بطانح و (البطح: کشادہ نالہ جس میں

ریت اور چھوٹی ٹکڑیاں ہوں۔

البطححة: قد قامت۔ مسافت۔

البطححة: خصلت۔ عادت۔ کہا جاتا ہے

"هذه بطحة صدق"

البطاح: ایک بیماری جو بخار سے پیدا ہوتی ہے

اور برسام کے مشابہ ہوتی ہے اور اسی سے ہے

(البطاحی)

بظحه (ف) بظحًا: چائنا۔

أبطح: بہت خربوزے والا ہونا۔ البطحح:

خربوزہ۔ خربوزہ کی تیل۔ واحد بطححة.

البطحح الأصفر: زرداء / گرما۔ ایک لذیذ اور

شھذا پھل۔

المبطححة: خربوزوں کی فالیز۔ ج مباطح

بطرة (ن ض) بظرا: چیرنا۔ شگاف دینا۔

مفت مفعول (مبظور و مبظير)

بظر (س) بظرا: زیادتی نعمت کی وجہ سے

حیران ہونا۔ اترانا الحق: تکبر سے قبول نہ کرنا

الشئ: ناپسند کرنا حالانکہ وہ چیز ناپسندیدگی کے

قابل نہ ہو النعمة: جہالت یا تکبر سے حقیر

سمجھنا اور ناشکری کرنا۔ مفت (بظور)

أبظرة: دہشت میں ڈالنا۔ ناشکر گزار بنانا کہتے

ہیں "أبظرة ذرعه" اس پر اس کی طاقت سے

زیادہ لا دیا۔ ذرعه أبظرة کی ضمیر مفعول

سے بدل اشتهال ہے۔

بظرا: رائیگاں۔ کہا جاتا ہے "ذهب دمه

بظرا" اس کا خون رائیگاں گیا۔

بَطُونٌ وَأَبْطُنٌ وَبُطْنَانٌ كَمَا جَاءَتْ فِي "أَلْقَتِ الدَّجَاجَةُ ذَائِبُهَا" يَعْنِي مَرَعِي نَعْنِي نَعْنِي دَعِي - "وَصَاحَتْ عَصَا فِيرِ بَطْنِي" يَعْنِي وَهْ يَمُوكَا هُوَا.

البطن: پیٹ کی بیماری۔
البطن: حریص جس کا نصب العین صرف پیٹ ہو۔

البطنة: ڈبر۔
البطنة: زیادتی خوارک کی وجہ سے بہت زیادہ شکر پڑی۔

البطن جِ ابطنة و بطن: تنگ، جس کا جانور کے پیٹ کے نیچے سے باندھتے ہیں۔ کپڑے کا ایک ٹکڑا جس کو ٹھوڑے پر رکھیں۔

بجانے کے لیے ڈالتے ہیں۔ کہا جاتا ہے۔ "فَلَا نَعْرِضُ الْبَطْنَ" فلا غنی آسودہ حال ہے "وَالْتَقَتْ حَلَقَتَا الْبَطْنِ" معاملہ سنگین ہو گیا اور مصیبت سخت ہو گئی۔

بطانة: القوب: کپڑے کا استر۔ الرجُل: اہل وعیال خاص لوگ۔ حمید: جِ بطنان: راز دار۔

من القدام: تلوا جِ ابطنة و بطنان۔
الباطنة: حمید۔

البطين: دور۔ کہا جاتا ہے "شأؤ بطين" مسافت بعیدہ "حینس بطين" بھری ہوئی تھلی۔ البطين: بڑے پیٹ والا۔

المبطن: پتلے پیٹ والا۔
المبطنة: ایک قسم کی کشی۔
الباطية: بڑا پیالہ۔ شراب کے لیے شیشہ کا برتن۔ نقو اط۔

بَطَّ (ن) بَطًّا: العوذ: بجانے کے لیے چھینرنا۔ درست کرنا۔

ابط: الرجُل: موٹا ہونا۔ صفت (بظنظ)
البط: فقط کا تابع ہے۔ کہا جاتا ہے "هُوَ فَطَّ بَطًّا" وہ سخت مزاج ہے۔
بَع (ن) بَعًا: الماء: کثرت سے بہانا۔
البعاع: سامان۔ بادل کا پانی جو ابھی نہ برسنا ہو۔ کہا جاتا ہے "أَلْقَى السَّحَابُ بَعَاعَهُ"

بَطَّلَ (ك) بَطَّالَةٌ وَبَطُولَةٌ: ذمیر ہونا بہادر ہونا۔ صفت (بَطَّلَ) جِ أَبْطَالٌ: مؤنث بَطَّلَةٌ: جِ بَطَّلَاتٌ۔

بَطَّلَةٌ: باطل کرنا۔ بیکار کرنا۔
أَبْطَلٌ: لغو کام کرنا۔ صفت (مَبْطَلٌ) الشَّيْءُ: ضائع کر دینا۔ باطل کرنا الرَّجُلُ: مسخر کرنا۔

بَطَّلَ: بہادر بننا۔ بیکار رہنا۔ کہا جاتا ہے "تَبَطَّلُوا بَيْنَهُمْ" انہوں نے اپنے درمیان لغو اور باطل امور کئے۔

البطالة: بیکاری۔ کام سے فراغت۔
البطالة: بہادری۔
الباطل: فا۔ تاحق۔ جِ اباطيل: شیطان۔

جادوگر۔ جِ بَطَّلَةٌ۔
البطل: باطل۔ جھوٹ۔ اور کہا جاتا ہے "ذَهَبَ ذَمُّهُ بَطْلًا" اس کا خون رائیگاں گیا۔
الابطالة والابطولة: باطل۔

البطم والبطم: بن۔ بن کا بھل۔
بطن (ب) بَطُونًا وَبَطْنًا: پوشیدہ ہونا صفت (باطن)

بطن (ن) بَطْنًا: الوادی: داخل ہونا و لہ: پیٹ پر مارنا۔ بطن الأمر: کسی معاملہ کی تہ کو پہنچنا۔ (بَطُونًا وَبَطْنًا) بَطْلَانٌ وَبِنَه: کسی کے خواص میں سے ہونا۔

بطن (س) بَطْنًا وَبَطْنًا: بَطْنَانَةٌ: بڑے پیٹ والا ہونا۔ صفت (بَطْنٌ وَبَطْنٌ وَمَبْطَانٌ)۔

بطن بطنًا: جتلائے درد شکم ہونا۔ صفت منبطون۔
بطن و بطن: القوب: استر لگانا۔ اللدابة: تنگ کسنا۔ بطن الشئ: پوشیدہ کرنا۔

باطنة: سرگوشی کرنا۔ دوستی کرنا۔
بساطن: المكان: ڈور ہونا۔
بطن واستطن: الشئ: اندر داخل ہونا

الأمر: معاملہ کی تہ معلوم کرنا۔
البطن: پیٹ۔ ہر چیز کا اندرونی حصہ۔ بطن الأرض: زمین کا پست حصہ۔ القوم: گروہ جو قبیلہ سے کم اور عمارت سے زائد ہو۔ جِ

بَطَّلَ: جاور کا علاج کرنا۔ فعل بندی کرنا۔ صفت (مَبْطَرٌ وَبَطْبِرٌ وَبِطَارٌ) جِ بِيَاطِرُهُ۔

البطيرة: سالوتری کا پیشہ۔
البطارية: توپوں کا مجموعہ جو کہ دشمن پر گولہ باری کرنے کے لئے نصب کیا جاتا ہے۔

البطوريز: زباں دراز۔ بہت چمکنے والا۔ مؤنث بطورية۔
البطرشيل والبطرشين: ایک قسم کا لہبا کپڑا جس کو کاہن ڈیوٹی کے وقت استعمال کرتا ہے۔

البطريق: رومیوں کا جرنیل۔ جِ بَطَارِقٌ وَبَطَارِيقٌ وَبَطَارِقَةٌ۔
البطريق: پرندوں کی ایک قسم جو کہ شمالی علاقوں میں رہائش پذیر ہیں جس کے پیچھے کے پر سیاہ اور سینے کے پر سفید ہوتے ہیں۔

البطارق: لہبا۔
البطرك والبطريزك والبطرنك: پادریوں کا سردار۔ عیسائیوں کے کسی گروہ کا مذہبی سردار۔ جِ بَطَارِكَةٌ وَبَطَارِكٌ۔

بطش (ن) بَطَشًا: پہ: سختی سے پکڑنا علیہ: حملہ کرنا۔ ٹوٹ پڑنا۔ صفت (باطش) وَبَطَاشٌ وَبَطِيٌّ: کہا جاتا ہے "فَلَانٌ بِيَطَشُ فِي الْعِلْمِ بِيَاعِ بَسِيطٍ" یعنی فلاں علم کو بہت جلدی حاصل کر لیتا ہے۔

باطشة: ایک دوسرے کو سختی سے پکڑنا یا حملہ کرنا۔

الآنطع: وہ شخص جس کے نیچے کے سامنے والے دانت گر گئے ہوں۔

البطاقة: خط، پرچہ، پرزہ۔ بطاقة القوب: کاغذ کی وہ چٹ جس میں کپڑے کی قیمت لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ جِ بَطَائِقٌ۔

بطل (ن) كِبَالًا وَبَطُولًا وَبَطْلَانًا: فاسد ہونا۔ بیکار ہونا۔ باطل ہونا۔ صفت (باطل) (بَطَّالَةٌ) فِي كَلَامِهِ: مسخر کرنا۔

الفاعل من العمل: بیکار ہونا۔ صفت (بَطَّلَ)

بادل نے سارا پانی برسا دیا۔ ”الْفَيْ مَعَاغِهِ عَلَيْهِ“ اس نے اپنا بوجھ اس پر ڈال دیا۔
 الْبَيْعَةُ: جلدی جلدی بولے جاتا۔
 بَعَثَهُ (ف) بَعَثًا وَتَبَعًا: تہا بھیجتا یہ :
 دوسرے کے ساتھ بھیجتا ہے: برا بھیجتے کرنا۔
 جوش دلانا کہا جاتا ہے ”بَعَثَهُ مِنْ نَوْمِهِ“ اس نے اس کو نیند سے بیدار کیا۔ ”وَبَعَثَهُ عَلَى الشَّيْءِ“ اس نے اس کو فلاں کام کرنے پر آکسایا الْمَيْتَ: دوبارہ زندہ کرنا۔ اور اسی سے ”يَوْمَ الْبَعْثِ“ ہے یعنی روزِ قیامت۔
 بَعَثَ (س) بَعَثًا: نیند سے بیدار ہونا۔
 تَبِعْتُ الشَّيْءَ: کسی چیز کا تیزی سے ظاہر ہونا الشَّيْءُ مِنْهُ: شعری آمد ہونا۔
 تَبَاعَثُوا: عَلَى الشَّيْءِ: ایک دوسرے کو کرنے پر برا بھیجتے کرنا۔
 اِنْبَعَثَ: بھیجا جانا۔ کسی چیز کا تیزی سے ظاہر ہونا فِي السَّيْرِ: جلدی کرنا۔
 اِنْبَعَثَهُ: بھیجتا۔
 الْبَعْثُ وَالْبَعْثُ: فوج: ہر وہ جماعت جو کہیں بھیجی جائے۔ ج بَعْثٌ وَبُعُوثٌ
 الْبَعْثُ وَالْبَيْثُ: جس کو تم بیدار رکھے اور نیند سے اٹھا اٹھا دے۔
 اَلْبَاغُوثُ ج بَوَاعِثٌ عِيَسَايُوسُ كِي عِيدِ فَسَحِ كِدُوسِرُ دِنِ نَمَا۔
 الْبَاغُوثُ: عیسائیوں کی اصطلاح میں استقامت کی نماز (کلمہ سریانی ہے)
 الْبَاِئِثُ وَالْبَاِئِثَةُ: سب ج بَوَاعِثُ
 الْبَيْثُ وَالْمَبْعُوثُ: بھیجا ہوا۔ اٹھایا ہوا۔
 بَعَثَهُ بَعَثَةً: بکھیرنا الْمَتَاعَ: اَلْبَاِئِثَانَا۔
 تَبَعْتَهُ: اَلْنَا پلٹا جانا۔ کہا جاتا ہے ”تَبَعْتُهُ نَفْسِي“ یعنی میرا نفس مضطرب ہو گیا اور کھلی ہوئے گی۔
 بَعَجَ (ف) بَعَجًا: الْبَطْنُ: پھاڑنا۔ صفت (بائع) صفت مفعولی (مَبْعُوجٌ وَبَعِيَجٌ): بچنے نہ کر دو نمونہ دونوں کے لیے مستعمل ہے۔
 ج بَعَجَى الْاَرْضُ اَبَارًا: بہت کونیں کھودنا الْمَطَرُ الْاَرْضَ بَعَجَ فِيهَا: شدت و قوت کی

وجہ سے چھروں کو ظاہر کر دینا بطنہ لہ: خیر خواہی میں مبالغہ کرنا۔
 تَبِعْتُ وَابْتَعَجْتُ: السَّحَابُ: برس کر کھل جانا السَّيْلُ: سیلاب کا تیزی کے ساتھ بڑھنا عَلَى بِالْكَلامِ: بہت زیادہ باتیں کرنا۔
 الْمَبْحِجَةُ: وادی کا کشادہ حصہ۔ ج بَوَاعِجُ بَعْدَ (ك) بَعْدًا وَبَعْدًا (س) بَعْدًا: دور ہونا۔ ہلاک ہونا۔ مرنا۔ صفت (بَاعِدٌ ج بَعْدٌ) وَبَعْدٌ مفرد و جمع دونوں کے لیے (و) بَعْدٌ ج بَعْدَاءٌ وَبَعْدٌ: دور ہونا۔ اَبَعَدُ: دُور ہونا۔ (اَبَعَدُهُ وَبَعَدَهُ) وَبَاعَدُهُ: پرور کرنا۔
 تَبَاعَدُوا: ایک دوسرے سے دور ہونا۔
 تَبَعَّدُ: دور ہونا۔
 تَبَاعَدَ وَابْتَعَدَ وَاسْتَبَعَدَ: غنہ: دُور ہونا۔
 اسْتَبَعَدَ الشَّيْءَ: دُور پانا یا بچھنا۔
 الْبُعْدُ وَالْبَعْدُ وَالْبُعْدَةُ: دوری۔ رائے و دور اندیشی۔ بَعْدَ اللهِ: بددعا ہے۔ یعنی اللہ اس کو ہلاک کرے یا خیر سے محروم کرے۔
 الْبُعَادُ: بعید کی مانند صفت ہے۔ دور۔
 بَعْدٌ: ظرفِ زمان ہے یعنی پیچھے۔ اور اس کے لیے اضافت لازم ہے اور اگر اضافت نہ ہو تو ارادہ اضافت کی صورت میں جی برضہ ہوتا ہے اور اگر اضافت نیت میں بھی نہ ہو تو مضموم ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے۔ بَعْدٌ وَبَعْدًا وَمِنْ بَعْدِ الْاَتَعَدُ: بہت دور۔ خیانت کرنے والا۔ ج اَبَاعَدُ.
 بُعِدَ نَفْطَيْنِ عَلَى كَمْرَةٍ: دو نونوں نطفوں کے پاس سے گزرنے بڑے دائرے کے دو قوسوں میں سے چھوٹا۔
 رَجُلٌ (مَبْعَدٌ) بہت دور دور کا سفر کرنے والا۔
 بَعْرٌ (س) بَعْرًا: الْجَمَلُ: ۹ سالہ یا چار) ۴ سالہ اونٹ ہوتا۔
 بَعْرٌ (ف) بَعْرًا: بیگنی کرنا۔
 بَعْرٌ المعنى: وَبَعْرَةٌ وَبَعْرَةٌ: ساری بیگنی

اور کھردرا ہوتا۔

بَعْلٌ (ن) بَعْلَةٌ وَبُعُولَةٌ الرَّجُلِ
لِلْمَرْأَةِ: شوہر ہوتا۔ بَعْلَتُ الْمَرْأَةِ: شوہر
والی ہوتا۔

بِعْلٌ (س) بَعْلًا بِأَمْرِهِ: تہمیر ہونا۔ صفت
(بعل) مؤنث جبعلہ۔

تَبَعَلَّتِ الْمَرْأَةُ: شوہر کی اطاعت کرنا۔

بَاعَلَ الْقَوْمُ قَوْمًا: آپس میں شادی بیاہ
کرنا۔

اسْتَبَعَلَ الْمَكَانَ: بارانی ہونا۔ الرَّجُلُ
لِلْمَرْأَةِ: شوہر ہونا۔

الْبِعْلُ: ج بُعُولٌ وَبَعَالٌ وَبُعُولَةٌ: شوہر۔
بیوی کو بیغل اور بعلہ بھی کہتے ہیں۔ الْبِعْلُ:

مالک۔ سردار۔ کہتے ہیں۔ ”من بَعَلَ هَذِهِ
النَّاقَةَ“ اس اونٹنی کا مالک کون ہے۔ اسی کے

لحاظ سے کنعانی وغیرہ بُت پرست اپنے
معبودوں پر لفظ بعل کا استعمال کرتے تھے۔

الْبِعْلُ مِنَ الْأَرْضِ: بارانی زمین۔

بَعْلَبَيْكُ: ملک شام کے ایک شہر کا نام۔ نسبت

کے لیے بَعْلَبَيْحِي وَبَعْلِيٌّ
الْبِعِيمِ: ایک بُت کا نام۔ لکڑی کی بنی ہوئی

درت۔ موم کی گڑبید۔ رَجُلٌ بَعِيمٌ: شعر نہ
بہ سکتے والا مرد۔

بَعَائِي وَبِعْفُ بَعْرًا وَبَعِي بَعِيًّا:
ناہ کرنا۔ خطا کرنا ہ بالعين: نظر بد لگانا

عَلَيْهِمُ الشَّرُّ: کسی کے ساتھ برائی کرنا
الشِّيْءُ مَكْتَبِيٌّ لِيْمًا۔

بِعٌ (ن) بَعًا، الدَّمُ: خون کا جوش میں آنا۔

بَغِيْعٌ بَغِيْعَةٌ: السَّطَا: بچھونا روندنا۔

الْمَبِيْعُ: گفتگو میں گڑبڑی کرنے والا۔ بہت
بلد باز۔

بَعْتُ (ف) بَغْنَا وَبَاعْتُهُ اِجَابَكَ اَنَا۔ کہا

جاتا ہے ”لَسْتُ اَمِنٌ مِنْ بَعَاتِ الْعَدُوِّ“

میں دشمن کے اچانک آجانے سے مامون نہیں
ہوں۔

بِعْتُ (س) بَغْنَا: سبزی مائل سفید ہونا۔
رد آلود ہونا۔ صفت (أَبْعْتُ) ہونٹ بھننا

الْأَبْعْتُ: ایک آبی پرندہ۔ ج بَعْثٌ وَ
أَبَاغَتْ. الْأَبْعْتُ: شیر۔

الْبَغْفَةُ: سبزی مائل سفیدی۔

الْبَغْفَاءُ: مِنَ النَّاسِ: لوگوں کا مخلوط گروہ۔

کہا جاتا ہے۔ ”ذَخَلْنَا فِي الْبَغْفَاءِ“ ہم لوگوں
کی جماعت میں داخل ہو گئے۔

الْبَغَاثُ: بثلیث الباء: سبزی مائل سفید

رنگ کا ایک پرندہ۔ جو گدھ سے چھوٹا اور اڑنے

میں سست ہوتا ہے۔ ج بغفان، عرب کے

قول ”إِنَّ الْبَغَاثَ بَارِضْنَا يَسْتَسِيرُ“ کا

مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پڑوس میں رہتا ہے
وہ ہماری وجہ سے معزز بن جاتا ہے۔

الْبَغِيْتُ: گیہوں۔

بَغْفَرُ الْقَوْمِ: جوش میں آنا۔ آپس میں مخلوط

ہونا۔ بَغْفَرَةٌ: جدا جدا کرنا۔ متفرق کرنا۔

بَغْفَرَتْ نَفْسُهُ وَتَبَغْفَرَتْ: جی متلانا۔

الْبَغْفَرُ: بیوقوف۔ بڑے ذلیل ڈول کا اونٹ۔

بَغْدَادُ: عراق کے ایک شہر کا نام جس کو

مدينة السَّلَام اور زوراء اور دار السَّلَام

بھی کہتے تھے۔

تَبَغَّدُوا: بغداد کی جانب منسوب ہونا۔ بغداد

والوں کی مشابہت اختیار کرنا۔

بَغْرٌ (س) بَغْرًا وَبَغْرًا: بانی پینا اور سیراب

نہ ہونا۔ صفت (بغیر و بغیر) ج بَغَارِيٌّ وَ
بَغَارِيٌّ

بَغْرَثٌ (ن) بَغْرًا: السَّمَاءُ: برساتا

النَّجْمُ: ستارہ کرنا۔

بَغْرَتُ الْأَرْضِ: بارش ہونا۔

الْبَغْرُ: بیاس جس میں سیرابی نہ ہو۔

(والبغر) سخت بوچھار۔ کہا جاتا ہے۔

”تَقَرَّفُوا شَعْرَ بَغْرٍ“ وہ لوگ ہر طرف

متفرق ہو گئے۔

الْبَغْرَةُ: پانی کی قوت۔

بَغْرٌ (ف) بَغْرًا: لاٹھی سے مارنا۔

الْبَغْرُ: سرعت حرکت۔ چستی۔

الْبَاغِرُ: چست۔ فسق و فجور میں منہک۔

الْبَاغِرِيَّةُ: حریر کی مانند ایک قسم کا کپڑا۔

الْبُؤْغَاظُ: آبانے۔ ج بُوَاغِزٌ۔

بَغْسَتْ (ف) بَغْسًا: السَّمَاءُ: ہلکی بارش

برساتا الصَّبِيُّ إِلَى أَمَةٍ: روانا ہو کر متوجہ

ہوتا۔

بَغْسَتْ الْأَرْضُ: ہلکی بارش پڑنا۔

الْبَغْسَةُ: ہلکی بارش۔

بَغْضٌ وَبَغْضٌ (ن) ك) وَبَغْضٌ (س)

بَغَاضَةٌ: دشمنی کرنا۔ نفرت کرنا

(مَا أَبْغَضَنِي لَهُ وَمَا أَبْغَضَهُ إِلَيَّ) سبویہ

نے کہا کہ جب تم ”مَا أَبْغَضَنِي لَهُ“ کہو تو

اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے نزدیک

بہت زیادہ مبغوض ہوں اور جب مَا أَبْغَضَهُ

إِلَيَّ: کہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے

ز نزدیک بہت زیادہ مبغوض ہے۔

بَغْضَةٌ إِلَيْهِ: نفرت دلانا۔ دشمنی دلانا۔

أَبْغَضَهُ: دشمنی کرنا۔ نفرت کرنا۔

تَبَغَّضَ إِلَيْهِ: دشمنی کرنا۔

تَبَاغَضُوا: ایک دوسرے سے دشمنی کرنا۔

الْبَغْضُ: نفرت۔ دشمنی۔

الْبَغْضَةُ وَبَغْضَاءٌ وَبَغَاضَةٌ: سخت

دشمنی۔ الْبَغْضَةُ: دشمنی کرنے والے لوگ۔

الْبَغِيضُ: سخت دشمنی رکھنے والا۔

بَغْلَهُمْ (ف) بَغْلًا: باپ کی طرف سے کسی

کی اولاد کو دغا قرار دینا۔

بَعْلٌ: بمعنی بَعْلٌ فِي الْمَشْيِ: تھک

جانا۔ عاجز ہونا۔

الْبَعْلُ: فحش۔ ج بَعَالٌ وَأَبْعَالٌ. مؤنث بَعْلَةٌ

ج بَعْلَاتٌ وَبِعَالٌ.

الْبِعَالُ: فحش والا۔ بیچارہ ہونے والا۔

بَغْمَتْ (ف) ن) ض) بَغْمًا وَبَغْمًا وَ

بَغْمَتْ الظَّنِيَّةُ: بہت نرم آواز نکالنا۔

صفت (بَاغِمَةٌ وَبَغْمٌ) بَعْمُ الرَّجُلِ

صَاحِبِهِ: مبہم گفتگو کرنا۔

بَاغِمَةٌ: نرم آواز سے گفتگو کرنا۔

الْبَغَامُ: بہرن کی آواز۔

الْبَغْمَةُ: عورتوں کا ہار (کلمہ ترکی ہے) ج

بُعْمٌ.

ہے ”جاء فلان بالصقر والبقر أو الصقارَى والبقارَى“ فلاں شخص جھوٹ اور مصیبت لایا۔ یعنی مصیبت کا سبب بنا۔ البقیرَى بچوں کا ایک کھیل۔ البقار بگائے والا۔ گائے کا چرواہا۔ الباقِر والباقور والبقور بگایوں کا ریورز یہ اسم جمع ہیں۔

فِتْنَةٌ (باقِرَةٌ): نخب کو ختم کر دینے والا بڑا فتنہ۔

البقیرة والبقیر: بغیر آستینوں والی عورتوں کی قمیص۔ ناقَةٌ بَقِیرَةٌ: اونٹنی جس کا پیٹ چاک کر کے بچ نکالا گیا ہو۔

البقس: ایک درخت کا نام جس کی لکڑی سخت ہوتی ہے اور اس سے چمچے بنائے جاتے ہیں۔ واحد (بقسہ)

البقساط سبک کی ایک قسم (فارسی لفظ) بقط (ن) بقطاً. متاعاً: سز کے لیے جمع کرنا متفرق کرنا فلاناً بستانہ: تہائی یا

چوتھائی پید اور کی شرط پر دینا۔

بقط. فی الجبل: چڑھنا۔

الشئ متفرق کرنا۔

تَبَقَطُ: الشئ: توڑنا توڑنا لینا المغبر: توڑنا توڑنا حاصل کرنا۔

البقط: توڑنے کے وقت کی گرمی ہوتی

بھجوریں۔ متفرق جماعت۔

البقطة: زمین کا ایک حصہ۔

بَقِع (س) بقعاً الطير: مختلف رنگ والا

ہونا۔ مفت (ابقع) مؤنث بقعاء ج بقع فلان

بالشئ: آگیا کرنا الأرض منه: خالی ہونا۔

بَقِع (ف) بقعاً وبقع: جاننا۔ تم کہتے ہو ”ما

أذرى أين بقع“ میں نہیں جانتا وہ کہاں گیا۔

بقع الثوب: رنگتے ہوئے سفید داغ چھوڑنا۔

تَبَقِع: داعار ہونا۔ تَبَقِعَت العباب: کپڑوں پر پانی کے چھینٹا اس طرح ڈالے گئے کہ

پانی رہے ہوئے بے رنگ خشک ہوتے ہی تری ہو گئے۔

انْبَقِع: تیز جانا۔

بَقِن (ن) بقاً الماء من فيه نابی کو منہ میں سے زور سے پھینکا لنا المعطاء: بخشش وسیع کرنا ماله: بکھیرنا۔ متفرق کرنا الجواب: پھاڑنا (بقاً وبقوقاً) البنت: انا السماء: لگاتار کثرت سے بارش ہونا المرأة: بہت اولاد والی ہونا البنت: بہت کھل والا ہونا۔ (بقاقاً وبقاً وابق) على القوم: بہت بک بک کرنا۔

بَقِي ماله: متفرق کرنا۔ (وابق) البنت: بہت کھل ہونا۔ وابق ولد فلان: بہت ہونا۔ ابنت المرأة: بہت اولاد والی ہونا۔ السماء: لگاتار بہت بارش ہونا۔

البق: کھل۔ پھل۔

البقاق: گھر کا ردی سامان۔ رجل بقاق

وبقافة: بہت بولنے والا مرد۔

بَقِق بَقِيقَةً: الكوز في الماء: بن بن کی

آواز نکالنا القندر: ابلنا الرجل: بہت بک بک

کرنا۔

البقاق: بہت بولنے والا۔ کہا جاتا ہے

”رجل لقلاق بقق“ بہت بکواس کرنے

والا۔

البقجة: کپڑے وغیرہ کی گھڑی۔ (جدید)

البقدونس: ایک قسم کی نباتات۔

بَقِر (ف) بقراً پھاڑنا۔ کھولنا۔ وسیع کرنا۔

بَقِر (س) بقراً: نگاہ کا پتھر اگانا۔

أبقر المرأة عن جبينها: پیٹ چیر کر بچہ

نکالنا۔

إبقر: پھلنا۔ کھل جانا۔ وسیع ہونا۔

تَبَقِر: الرجل: علم یا مال میں زیادتی والا

ہونا۔

البقر: بگائے۔ تیل (اسم جنس)۔ احد (بقورة)

ج بقرات و بقر و بقر و أبقار

و أباقر و أباقير. بقر الوحش أو البقر

الوحشي: تیل گائے۔ جوع البقر: سخت

بھوک۔ عيون البقر: ایک قسم کا گور۔ بقر

الماء بگائے کے مشابہ ایک قسم کی مچھلی۔ البقر والبقارَى: جھوٹ۔ مصیبت۔ کہا جاتا

بقان (ن) بقوا الشئ: غور سے دیکھنا عليه تعدي کرنا۔ زیادتی کرنا۔ مفت (بقو) البقرة: پچا مکھل من النبات: جھگوز جو سفید نکلا ہو۔

يقونيا: ایک بھول دار پودے کا نام

بَقِي (ض) بقعاء وبقيا وبقى وبقية وبقية

بَقِيَة الشئ: طلب کرنا الرجل: حق سے

بٹ جانا۔ نافرمانی کرنا عليه: زور زدستی کرنا۔

ظلم کرنا۔ مفت (باغ) ج بقعاء وبعيان

السعاء: سخت برساتا الأمة: زنا کرنا

المجروح: سوجنا، خراب ہونا پیپ سے ہیرنا۔

ابتغى وبتغى: الشئ: طلب کرنا۔

أبتغاه الشئ: طالب بنانا۔ طلب کرنے میں

مدد دینا۔ کہا جاتا ہے ”ابتغى ضلتي“ میری گم

شدہ چیز کی تلاش میں مدد کرو۔

باعت الأمة بقاء و مباحاة: زنا کرنا۔

تباغى: القوم: بعض کا بعض پر ظلم کرنا۔

ابتغى: بھل ہونا۔ آسان ہونا۔ کہا جاتا ہے

”لا ينبغي لك أن تفعل ذلك“ تمہارے

لیے مناسب نہیں کہ ایسا کرو۔ (اس فعل کا

ماضی مستعمل نہیں)

استبغى: الشئ: طلب کرنا القوم: طلب

کرنے میں مدد جانا۔

البغى: ظلم۔ جنایت۔ گناہ۔ بہت بارش۔

فساد۔ کہا جاتا ہے ”برئ جزؤه على

بغى“ یعنی اس کا زخم مندمل تو ہوا لیکن اندر

فاسد راہ باقی رہ گیا ہے۔

البغية والبغية والبغية: مرغوب

و مطلوب۔ البغيتماجت۔

البغى نیکو کار و نیکو عورت۔ ج بغايا. بغايا

الجيش: فوج کے ہراول دستے۔

المبغى والمبغاة: طلب کرنے کی نوعیت یا

جگہ۔ کہا جاتا ہے ”بغيت المال من

مبغاته“ میں نے مال کو اس کے موقع سے

تلاش کی۔ جیسے کہتے ہیں ”آتيت الأمر من

مقاتته“ میں نے کام کو اس طرح انجام دیا جیسا

دینا چاہئے۔

بَكَاتُ (ف) وَبَكُونْتُ (ك) بَكَوْا وَ
بَكَاتُوا وَبَكَأَ وَبُكَأَ. الناقَةُ: کم دودھ
والی ہونا البکر: کم پانی والا ہونا العین: کم آنسو
والی ہونا۔ صفت (بکئی وَ بکینة وَ بکعی
وَ بکینة) ج بکاء وَ بکایا. اَبَدَ بکَاءً: کم
دادودھش والے ہاتھ۔ +

بکئی (س) بکأ: اپنی حاجت سے محروم
رہنا۔ اَبکأ الذر: کم پانا۔
بکئہ (ن) بکئنا: تلوار یا لٹھی سے مارنا۔
حجت میں غالب ہونا۔ کہا جاتا ہے "بکئہ حتی
أسکئہ" وہ اس پر حجت میں غالب رہا یہاں
تک کہ اس کو خاموش کر دیا۔

بکئہ: بمعنی بکئہ: زجر کرنا۔ سرزنش کرنا۔
جہڑ کرنا۔ اور اسی سے ہے تَبَكَيْتُ الصَّخْبِرِ.
بکئینا: انتہائی باریک ٹومہ (جراثیم)
اس کو دور بین کے ساتھ دیکھا جاسکتا ہے۔
البکتر یولوجیا: جراثیم کا علم اس علم کا طب
میں بیماریوں کی تحقیق میں بڑا فائدہ ہے۔

بکرو (س) بکروا: الی الشئی: جلدی کرنا۔
بکرو (ن) بکروزا: آگے بڑھنا عَلَیْہِ
وَآلِیْہِ صَاحِجِ کے وقت آنا فی الشئی: صَاحِجِ
سورے کرنا۔

ابکرو وَ بکرو: آگے بڑھنا۔ جلدی کرنا
فَلَانَا: صَاحِجِ کے وقت آنا۔ بکروہ۔ عَلَیْہِم:
کسی کو صَاحِجِ سورے بھیجنا۔ بکرو المصلی:
اَوَّلِ وقت میں نماز کے لیے آنا۔

باکروہ: صَاحِجِ کے وقت آنا۔

تبکرو: آگے بڑھنا۔

ابنکرو: کسی چیز کے ابتدائی حصہ پر قابض ہونا
فَلَانَا: صَاحِجِ کے وقت آنا۔

الباکرو: فا: آتاه ب اکروا: وہ اس کے
پاس صَاحِجِ کے وقت آیا۔

البکرو: والدین کا پہلا بچہ۔ (مذکر و مؤنث
دونوں کیلئے ہے) جو ان گائے: نواری۔ ہر چیز کا
اول۔ ج انبکار۔ البکرو: ہر فعل کہ اس جیسا
اس سے پہلے نہ ہوا ہو۔ الضربۃ البکرو:
تلوار کا وار جو قاتل ہو۔ کرم بکرو: پہلا دانہ

البوقال والباقول: بویام۔ مٹی کی دوات۔
ج بوقایل۔

البقلادی: طوی کی ایک قسم
بَقْم. الثوب: کپڑے کو قسم سے رنگنا۔

البقم: ایک قسم کی کڑی جو کپڑے رنگنے میں
کام آتی ہے۔

البقم: دھتورا۔

البقامة: من الصوف: اُون جو دھننے میں
گر جائے اور کاتنے کے قابل نہ ہو۔ کزرد بے
عقل مرد۔

بقا (ن) بقاوة وَ بقی (ض) بقیا. فَلَانَا
بعینہ: دیکھنا۔ نظر ڈالنا: انتظار کرنا۔

بقی (س) بقاء وَ بقی (ض) بقیا: ہمیشہ
رہنا۔ ثابت رہنا۔

انقی: عَلَیْہِ: رحم کرنا۔ مہربانی کرنا۔
(وَقِی وَ تَقِی وَ اسْتَقِی) ء: ثابت کرنا۔

باقی رکھنا۔ اسْتَقِی مِنْہ: کچھ باقی رکھنا۔
تَقِی: باقی رہنا۔

الباقی: فا: اللہ تعالیٰ کے اسمائے حتیٰ میں
سے ہے۔

الباقیة: الباقی کا مؤنث۔ ج الباقیات
والبراقی۔

البقوی والبقوی والبقی والبقیة: باقی
ماندہ۔ ج بقایا: کہا جاتا ہے "فَلَانَ بقیة
قومہ" فلاں اپنی قوم کے بہتر لوگوں میں سے

ہے۔

المبقی: بقا۔ زندگانی۔ ج المباقی۔
بکہ (ن) بکأ: مزاحمت کرنا۔ الشئی:

چھڑانا۔ صَاحِجِ الدابّة: چلا کر تھکانا۔
بک الرّجل: محتاج ہونا۔

تباک. القوم: ہجوم کرنا الشئی: تو بر تو
ہوتا۔

الباک: فا: بیوقوف۔
بکة: مکہ کرمہ۔

بکک وَ تَبکک: الْقَوْمُ عَلَیْہِ: ہجوم کرنا
جَمْعُ (بکبک): بہت بڑی جماعت۔ رَجُلٌ

بکبک: سخت مزاج مرد۔

أَبْتَع. لَوْنُہ: خوف یا غم سے بدلے ہوئے
رنگ والا ہونا (أَبْتَعَ مِمَّ سے زیادہ صَحِجِ ہے)

البقعة والبقعة: زمین کا ٹکڑا۔ ج بقاع وَ
بُقَع. کہا جاتا ہے "فَلَانَ حَسَنَ البُقَعَة عِنْدَ
الأمیر:" فلاں امیر کے پاس اچھے رتبہ والا

ہے۔ وَ البُقَعَة: پانی جمع ہونے کی جگہ۔
البقیح: وہ جگہ جہاں مختلف قسم کے درختوں

کی جڑیں ہوں۔ اِنْبِیَیْع: کتا۔
الباقعة: الباقع کا مؤنث۔ ہوشیار و زیرک مرد

جس کو فریب نہ دیا جاسکے۔ ج بواقع کہا جاتا
ہے "مَا فَلَانَ إِلَّا باقِعة مِنَ البواقِع" یعنی

فلاں بڑا چالاک ہے۔
الابقیح: سیاہ سفید داغوں والا۔ مؤنث بقعاع۔

ج بقع: کوہ جس میں سیاہ سفیدی ہو۔ ج
بقعاع. سَنَة بَقْعَاء: سال جس میں سرسبز

و خشک سالی دونوں ہوں۔
الابقیح: کم بارش والا سال۔

بقل (ن) بقلًا وَ بَقُولًا وَ أَبْقَل. ظاہر ہونا
نَاب البعیر: نکلنا المکان: سبزی آگنا۔

صفت (باقل وَ بقل وَ بقیل). وَجْہ
الغلام: سبزہ آغاز ہونا۔ بَقْلٌ بَعِیْرُہ بَقْلًا:

ساگ پات جمع کرنا۔ وَ أَبْقَل القوم: سبزی پانا
قوم کے مویشی کا سبزی کو چرنا۔

بَقْلٌ: وَجْہ الغلام: سبزہ آغاز ہونا۔
تَبَقْلٌ وَ ابْتَقْلٌ: سبزے کی تلاش میں جانا

المأشیة: سبزہ چرنا۔
البقل: سبزی۔ ترکاری۔ ج بقول وَ أَبْقَال

البقلّة: البقل کا واحد (بَقْلَةُ الحَمَاء وَ
بَقْلَةُ الزُّهراء وَ بَقْلَةُ اللّیثیة) خرّہ کا

ساگ۔
البقلّة الباردة: عشق بچہ۔

بَقْلَةُ الانتصار: کرم کلا۔
الباقلاء وَ الباقلی وَ الباقلی: لویا۔

أَرْضٌ (بِقْلَةٌ وَ بَقِیْلَةٌ وَ بَقَالَةٌ وَ مَبْقَلَةٌ)
سبزی والی زمین۔

البقال: سبزی فروش۔
المبقلّة: سبزی کی جگہ۔

بِقَائِمِهِ يَدِي“ یعنی جبکہ اس کے بقعہ پر میرا ہاتھ نیچے۔

بَل (ض) بَلَّأَ وَ بَلَّأَ وَ بَلَّوْا. مِنْ مَرَضِهِ: صحت یاب ہونا۔ چنگا ہونا (بلا فی الْأَرْضِ) جانا (بَلَّوْا) الرِّيحُ: سرد ہوا کا چلنا۔

أَبْلُ الشَّجَرُ: چھلدار ہونا العُودُ: کدوی میں تری کا ہونا۔ مِنْ مَرَضِهِ: صحت یاب ہونا۔ أَبْلَهُ فِي الْأَرْضِ: لے جانا۔

بَلَّلَ الثُّوبَ: تر کرنا۔ قَبَّلَ وَابْتَلَّ: تر ہونا وَاسْتَبَلَّ مِنْ مَرَضِهِ: صحت یاب ہونا۔

البَّلُّ: صحت وشفاء۔ مباح۔ اور اسی سے عباسؓ کا قول ہے ”لَا أَحْلَاهَا لِمُعْتَسِلٍ وَهِيَ لِشَارِبٍ حَلٌّ وَبَلٌّ“ میں اس کو نہانے والے کے لیے حلال قرار نہیں دیتا اور وہ پینے والے کیلئے حلال و مباح ہے۔ چالاک۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ بِلُّ الْبَلَالِ“ وہ بڑا چالاک ہے۔

البَّلَّةُ: جوانی کی تروتازگی۔ البَّلَّةُ: تری۔ رزق۔ خیر۔ البَّلَالُ وَالبَّلَالُ وَالبَّلَالُ: تری، پانی، دودھ پیلانی کا اتنا حصہ جو طق کو تر کر دے۔

البَّلَالَةُ: اتنی مقدار جس سے کوئی چیز تری جا سکے۔ تھوڑی سی چیز۔ تری۔

البَّلَلُ: رخ۔ البَّلْبَلُ وَالبَّلْبَلَةُ: نمی کے ساتھ ٹھنڈی ہوا۔ البَّلْبَلَةُ: صحت۔

ذُو بَلِيٍّ وَبَلِيٍّ وَبَلِيَّانٍ: دُور کی غیر معلوم جگہ۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ بَلِيٌّ بَلِيٌّ“ وہ دُور کی غیر معلوم جگہ میں ہے۔

الأَبْلُ: بدکار۔ بڑا جھڑالو۔ سخت بخیل۔ مونت بَلَاءُ. ج بَلٌّ. اور کہا جاتا ہے ”لَا شَيْءَ أَبْلُ لِلْجَنَسِ مِنْكَذًا“ جسم کے لیے اس سے زیادہ کوئی چیز موافق نہیں۔ صَفَاءُ بَلَاءُ: چٹنا پتھر۔

البَّلَانُ: حمام میں نہلانے والا۔ مَوْتُ بَلَاءَةَ وَالبَّلَانُ ج بَلَاءَاتُ: حمام۔

تَبَكَّلَ فِي الْكَلَامِ: گزیرہ گفتگو کرنا ؕ وَ عَلَيْهِ كَهَلِي طُلُوحٌ مَارِطٌ مِنْ غَالِبِ آتَاءِ الشَّيْءِ: غنیمت سمجھ کر لینا الرَّجُلُ: خوش عیشی کی زندگی بسر کرنا فِيمَشِيئَتِهِ: تاز سے چلنا۔

أَتَبَكَّلَ الشَّيْءُ: غنیمت سمجھ کر لینا۔ البَكْلَةُ: حال۔ ہیئت۔ شکل و صورت۔

طَبِيعَتُ ج بَكْلٍ البِكَاةُ وَالبِكَيْلَةُ: ایک قسم کا کھانا جو آنا، ستو، گھی یا روغن زیتون ملا کر تیار کیا جاتا ہے۔ البِكَيْلَةُ: غنیمت۔

بِكَاوُورِيَا تانوی کی آخری کلاس کی سند (یونانی) الْكَلِيكُ: حکومت کے لئے خاص سامان اور زمین۔ (یونانی)

بِكْمٌ (س) بَكْمًا وَبِكَامَةً: گونگا ہونا۔ صفت (أَبِكْمٌ) ج بُكْمٌ وَ (بِكْمِيْمٌ) ج بُكْمَانٌ۔

بِكْمٌ (ك) بَكَامَةً: جان بوجھ کر خاموش ہونا۔

تَبَكَّمَ: الْكَلَامُ عَلَيْهِ: گفتگو کا بند ہو جانا۔ بَكِيٌّ (ض) بَكَاءٌ وَبَكِيٌّ: رونہ۔ صفت (بَالِكٌ) ج بَكَاةٌ. مَوْتٌ بَاكِئَةٌ ج بَاكِئَاتٌ وَبَوَاكٍ۔

بَكِيٌّ وَبَكِيٌّ: المَيِّتُ: میت پر رونہ۔ بَكِيٌّ وَبَكِيٌّ وَاسْتَبَكِيَّ: الرَّجُلُ رَلَانًا۔ تَبَاكِيٌّ: رونے کی صورت بنانا۔ حَلْفٌ رَوَانًا۔

البِكَاءُ وَالبِكِيٌّ: بہت رونے والا۔ التَّبَكُّاءُ وَالتَّبَكُّاءُ: گریہ یا کثرت گریہ۔ المَبَكِّيُّ: رونے کی جگہ ج مَبَاكٍ۔

بَلٌّ: حرف عطف ہے۔ سابق سے اضرب کیلئے آتا ہے جیسے ”مَا ذَهَبَ زَيْدٌ بَلِّ عَمْرُو“ میں علم عمر کے لیے ہے اور زید سکوت عنہ کے حکم میں ہے۔

بَلَّةٌ (ن) بَلًّا وَبَلَّةٌ وَبَلَّلًا: بِالمَاءِ: تر کرنا بَلَّ يَدَهُ: دینا۔

بَلٌّ (س) بَلَّلًا وَبَلَّلًا: بَكْدًا: فتح مند ہونا۔ کامیاب ہونا۔ پالینا، جیسے ”إِذَا بَلَّتْ

أَعْرُكَ نَارٌ بِكْرًا: آہل جس میں سے ابھی کچھ لپانہ گیا ہو۔ خَلَّ بِكْرًا: تیز سرکہ۔ الذَّرَّةُ البِكْرُ: ذرا سفت۔

البِكْرُ: جوان اونٹ۔ ج أَبْكُ وَنِكْرَانٌ وَبِكَارٌ وَبِكَارَةٌ. مَوْتٌ بِكْرَةٌ ج بِكَارٌ البِكْرَةُ: صُبح۔ تم کہتے ہو ”أَتَيْتَهُ - بِكْرَةً“ میں اس کے پاس صبح کے وقت آیا۔

البِكْرَةُ وَالبِكْرَةُ: وزنی سامان اُتارنے چھانے کی چرخی۔ ج بَكْرٌ وَبِكْرَاتٌ. کہا جاتا ہے ”وَالْبِكْرَاتُ شَرُّهُنَّ الصَّائِمَةُ“

چرخوں میں سے بڑی وہ ہے جو گھومے نہیں۔ البِكْرَةُ: جماعت۔ اور اسی سے ہے ”جَانُوا أَعْلَى بَكْرَةَ أَبِيهِمْ“ وہ سب کے

سب آئے کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ البِكَارَةُ: دو شیرگی۔ کنوارا پن۔ البِكْرِيَّةُ وَالبِكْرِيَّةُ: الہر کا اسم۔

البَاكُورَةُ: پہلا میوہ۔ ہر چیز کا پہلا۔ ج بَوَاكِيْرٌ وَبَاكُورَاتٌ۔

البَكِيْرُ وَالبَاكُورُ وَالبِكُورُ: ہر چیز میں سے پہلے تیار ہونے والا۔ موسم بہار کی ابتدا کی بارش۔

البَكِيْرَةُ: بھل یاد رخت خرما جو پہلے تیار ہو جائے۔ ج بَكَاوِرٌ۔

المُبَكِّرُ: فَا. موسم بہار کی پہلی بارش۔ المَبَكَّرُ: بھل یاد رخت خرما جو پہلے تیار ہو جائے۔ اَرْضٌ مَبَكَّرٌ: جلدی اگانے والی

زمین۔ ج مَبَاكِيْرٌ۔ بَكْسَةٌ (ن) بَكْسًا: مغلوب کرنا۔

بَكْعَةٌ (ف) بَكْعًا: بدن کے مختلف حصوں پر رخت مارنا۔ حجت سے مغلوب کرنا بد سلوکی سے پیش آنا۔ کہا جاتا ہے ”مَا أَذْرَى أَيْنَ بَكْعٌ“ میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں گیا۔ وَبَكْعٌ الشَّيْءُ: بخش دینا۔

بَكْعَةٌ: ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ حجت سے مغلوب کرنا۔ رَجُلٌ (أَبْعَجٌ) ہاتھ کٹا سرد۔

بَكْلٌ (ن) بَكْلًا وَبَكْلٌ: الشَّيْءُ: ملانا الرَّجُلُ: آنا، ستو، گھی ملا کر کھانا تیار کرنا۔

صفت (بلید و ابلد)

بلد: کمزور رائے والا ہونا۔ کم ہمت ہونا۔
الفرس: آگے نہ بڑھنا السحابیہ: نہ

برستان: الرجل: بجل کرنا فی اصطلاح

البعض: مسکون جگہ کی آب و ہوا کا عادی بنانا۔

اور اسی سے ہے "حدیقة التلبید" وہ باغ

جس میں غیر جگہ کے حیوان یا نباتات کو آب و

ہوا کا عادی بنایا جائے۔

أبلد: القوم: شہر میں ہمیشہ رہنا۔ أبلدۃ

البلد: شہر میں ہمیشہ رکھنا۔

قبتد: سست و کند خاطر ہونا۔ کند ذہنی ظاہر

کرنا۔ افسوس کرنا الرجل: دونوں ہاتھوں سے

تالی بجانا الصبح: روشن ہونا۔

القوم: غیر آباد شہر میں آباد ہونا۔

المنبلود: متحیر۔

البلدۃ والبلد: ج بلاد و بلدان:

ایک جگہ آباد یا غیر آباد۔ البلدۃ: والبلدۃ

سینہ۔ کہا جاتا ہے "هو واسع البلدۃ" وہ

کشاہد سینہ والا ہے۔ شہر: ہتھیلی۔ کہا جاتا ہے

"صوبت بلدقہ علی بلدتہ" یعنی اپنی ہتھیلی

کو اپنے سینہ پر مارا۔

البلدان: بصرہ و کوفہ۔

البلور والبلور: ایک قسم کا شیشہ۔ ایک

قسم کا سفید و شفاف جوہر۔

تبلور و تبلور: بلور کے مشابہ ہونا۔

الانبلیز و طین الانبلیز: مصر کی وہ مٹی جو

دربائے نیل زمین سے بہا لاکر چھوڑا جاتا ہے۔

انبلس: بے خیر ہونا۔ شکست دل ہونا۔ غمگین

ہونا من رحمۃ اللہ: ناپوس ہونا فی امورہ:

متحیر ہونا۔ صفت (بلس و مبلس)

فلاق: غم کی وجہ سے خاموش ہونا۔

انبلسہ: متحیر کر دینا۔

البلس: بے خیر آدمی۔

البلاس: ٹاٹ۔ بالوں سے بنا ہوا فرش ج

بلس۔

البلاس: ٹاٹ بیچنے والا۔

تبلج: الہ: پست۔ خوش ہونا۔

إبلج و إبلج: ابلج حجا: ظاہر ہونا۔

واضح ہونا۔

البلجۃ و البلجۃ: سپیدہ صبح (والبلیج)

ایروں کے درمیان کشادگی۔

بلجۃ بالحام: صبح ہے۔

البلج و البلج: کشادہ رو۔

بلج (ن) بلعاً: الثری: خشک ہونا۔

البلج: پانی ختم ہونا۔ صفت (بلوح) الرجل

بالأمر: انکار کرنا الغریم: مفلس ہونا

الرجل بشہادۃ پیمانہ۔ (بلوحا و بلع و

تبلج) تھکا۔ عاجز ہونا۔ کہا جاتا ہے "بلع و

بلع علی" یعنی میں نے اس کے پاس کچھ

نہیں پایا۔

أبلج: النخل: بچی کھجوروں والا ہونا۔

بالج: القوم: جن نہ ہوتے ہوئے جھگڑنا اور

غالب ہو جانا۔

تبلجاً: باہم انکار کرنا۔

البالج: زمین جس میں کچھ نہ اگے۔ ج

بوالج۔

أبلج: کچی کھجور۔ کھجور کی ابتدائی حالت کو

طلع کہتے ہیں، پھر اس کے بعد خلال پھر بلج

پھر بلس پھر رطب پھر تمر۔

أبلج: ایک پرندہ جو گدھ سے بڑا ہوتا ہے

ج۔ بلدحان۔

بلجاء: پھولوں کی پیداوار اور عطر والا پودا جو کہ

زیادہ تر مصر میں پویا جاتا ہے۔

بلج (س) بلجاً و تبلج: بکیر کرنا۔

یوقوف ہونا۔ صفت (أبلج کوئت بلجاء و

(بلج و بلج)

البلج و البلاخ: ایک قسم کا درخت جس کو

شاہ بلوط کہتے ہیں۔

بلد (ن) بلوداً: بالمکان: اقامت

کرنا۔ شہر بنانا۔ صفت (بالدج) بلدۃ۔

بلد (س) بلدلاً: کشادہ ابرو ہونا۔ صفت

(ابلد)

ملس (س) بلادۃ: سست و کند خاطر ہونا۔

البلدۃ: بیت و حال۔ کہا جاتا ہے "طویت

السفء علی بلدتہ و بلدتہ" ملک کو باوجود

اس کی تری کے میں نے لیٹ لیا۔ و طویت

فلان علی بلدتہ و بلدتہ و بلدتہ و بلدتہ

بلدتہ: باوجود عیب کے میں نے فلاں کو

برداشت کیا۔

البل: بیرون مفضل: مستقل۔ کہا جاتا

ہے "خصم بل یعنی مستقل جھگڑاؤ۔

البلان: وہ کانٹے دار پودا جو زمین میں پھیل کر

ناقابل کاشت بنا دیتا ہے۔

البلول: تھوڑا پانی۔

بلبل بلدتہ و بلدتہ: القوم: پودا کا بیج۔

جوش دلانا۔ غم میں مبتلا کر دینا الالسنۃ:

مخلوط کرنا الامتعۃ: متفرق کرنا۔ بکھیرنا

الاراء: خراب کرنا گاڑنا۔

تبلبل: بکھیرنا۔ غم میں مبتلا ہونا۔

البلبل: بلبل ج بلابل۔ بلبل الابریقی:

لوئی کی ٹوٹی۔ عوام کے نزدیک بلبل بچوں کا

ایک کھیل بھی ہے جس کے لیے فصیح لفظ

"ذوامۃ" (لو) ہے۔

بلت (س) بلتاً: الشئ: ٹھنڈا۔

بلت (ن) بلتاً و بلت (س) بلتاً

و انبلت: ٹھنڈا۔

أبلتۃ: یحییٰ: قسم دلانا۔ أبلت الرجل:

مفتگو سے رک جانا۔

البلیت و البلیت: مختصر کلام کرنے والا۔

فصیح: خوش بیان۔ عقلمند۔

المسکت: آراستہ کلام۔

البلج: ناہر۔ ہر چیز کا جانتے والا۔

البلتی: زبان آور۔ فصیح۔

البلت: ڈوسالہ پرانا جادو جیسا ہو گیا ہو۔

بلج (ن) بلوجاً و ابلج و تبلج و انبلج

و انبلج: الصبح: روشن ہونا۔

بلج (س) بلجاً: صندرة: مطمئن ہونا

الحق: واضح ہونا۔ ظاہر ہونا۔ صفت (بلج)

مؤنث بلجاء و الأبلج: نیچرہ علیحدہ ابروؤں

والا۔

بلط

بلع + بلع

بلع

۷۳

ابلیس: شیطان کا علم جنس۔ ج۔ ابلیس
وَابْلِسًا.

أَبْلِسًا شَيْئًا: کڑی پاک غذا لوہے پر اشخاص یا
مقاتل کو تصاویر بنانا بلا سگ جس سے ڈھال کر
اور زار اور برتن بنائے جاتے ہیں۔

مکرہ چہرہ والا ہونا۔ جملائے برسام
ہوئے۔ تَبْلِسُ و تَبْلِسُ۔ گھبراہٹ کی وجہ سے
خاموش ہونا۔ و تَبْلِسُ: مکرہ چہرہ والا بنا

و تَبْلِسُ: سرود کی قسم کا ایک ملامہ ہے۔ جس کا
زخم ریب لگایا جاتا ہے۔

الْبَلْسَامُ: برسام ایک بیماری کا نام
الْبَلْسَمُ: مسور۔ مسور کے مشابہ ایک قسم کا
الْبَلْسَانُ: دانہ۔

ایک درخت ہے جس کے پھول چھوئے سفید
رنگ کے ہوتے ہیں اور پتے تلی کے مانند اور
اس سے خوشبودار تیل نکلتا ہے۔

الْبَلْسُونُ: بَلَسُ: فَلَانًا مِمَّنَالَةَ: لے لیتا۔

بِالْبَصَةِ: کسی پر کود پڑنا۔ حملہ کر لینا۔
تَبْلَسُ الشَّيْءُ: پوشیدہ طور سے طلب کرنا۔
تَبْلَسْتُ الْعَنَمَ: کم دودھ والی ہونا۔

الْبَلْصُوصُ: ایک قسم کا پرندہ۔ ج۔
بَلْنَصِي.

بَلَطُ (ن) بَلَطًا و بَلَطًا و أَبْلَطُ. الدَّارُ:

پتروں کا فرش لگانا۔ "وَبَلَطَ الرَّجُلُ" چلنے
میں تھکنا۔ بَلَطُ أَذْنَهُ: گوشہ پٹی کرنا، کہا جاتا
ہے "إِذَا هَفَاصِيكَ فَبَلَطَ لَهُ" کہا جاتا
جب

تجھارے کے تو اس کی گوشالی کرو۔

أَبْلَطُ: اللص الرجل: سب کچھ چرائینا۔

(وَأَبْلَطُ) محتاج و فقیر ہونا۔

بَالَطُ و تَبَالَطُ: القوم: تلوار سے لڑنا۔

وَبَالَطَهُ: چھوڑ کر ہماگ جانا۔ بَالَطُ فِي
أُمُورِهِ: مبالغہ کرنا۔

الْبِلَاطُ: ہموار زمین۔ پتھر کے چٹوے جو
فرش لگانے کے کام میں آتے ہیں اور اسی سے

بِلَاطُ الْمَلِكِ: یعنی محل شاہی اور
مجازاً

بمعنی مجلس شاہی۔
الْبَلُوطُ: ایک بڑا درخت ہے جس کا تیز موٹا

اور کڑی مضبوط ہوتی ہے اور اس کی چھال سے
دباغت دیتے ہیں اور اس کا پھل کھایا جاتا ہے۔

بَلُوطُ كَالْمَعْلُ: ایک قسم کی گھاس ہے جس
بَلُوطُ الْأَرْضِ: خردت، و شاہ بلوط: ایک

کے پتے کا سنی کے مانند ہوتے ہیں۔

بَلُوطُ الْمَلِكِ: خردت، و شاہ بلوط: ایک
قسم کا جنگلی درخت جس کی کڑی سخت اور

مضبوط، پھل گول اور پیڑوں کے کنارے کٹاؤ
دار ہوتے ہیں۔

الْبَلْطِيُّ: ایک قسم کی مچھلی۔

بَلَطَخَ: اپنے آپ کو زمین پر پھینکانا۔

الشَّيْءُ: چوڑا کرنا۔

الْبَلِطَةُ: کھانسیوں کی ایک قسم

تَبْلَطُ: چوڑا ہونا۔ بَلَعُ الشَّيْءِ: لگتا بلعہ

بَلَعُ (ن) بَلَعًا و أَبْلَعُ: لگتا بلعہ
بَلَعًا و أَبْلَعُ: لگوانا۔ اور کہا جاتا ہے

رَيْفَةً "اس نے اس کو تھوک نکلنے کی مدت کی
مہلت دی۔ (بلع و تبلع)

الشَّيْءُ فَيُرَاسِهِ: بڑھاپا ظاہر ہونا۔

وَتَبْلَعُهُ: کھوت لیتا۔

الْبَلْعَةُ: چکل کا سوراخ۔ ج۔ بَلَعُ.

الْبَلْعَةُ: بہت کھانے والا مرد۔

الْبَلُوعُ: بہت نکلنے والا۔

المَبْلَعُ: حلق۔

المَبْلَعُ: بہت کھانے والا و اللبوعه ج بوالبع

و بَالِيعُ: موری۔ بدرو۔

بَلَعَمَ: اللقمة: لگانا۔

الْبَلْعَمُ و الْبَلْعُومُ: حلق۔ ج۔ بَلَاعِم.

الْبَلْعَمُ: بہت کھانے والا۔ تیز نکلنے والا۔

بَلَعَهُ بَلُوعًا: پھینچنا الشمر: پکنا

الْعَلَامُ: (ن) بَلَعُ (بَالَعُ) مَوْنُثُ
(بَالَعَةٌ و بَالَعُ) العلة: تیز ہونا۔ اور کہا جاتا
ہے "بَلَعُ مَنِي سِرِّهِ" تمہاری ننگلو سے

میں بہت متاثر ہوں۔
بَلَعُ الرَّجُلُ: جملائے شقت ہونا۔

بَلَعُ (ن) بَلَاعَةٌ: بلیغ ہونا۔ صفت (بلیغ)

بَلَعَاءُ: بلیغ ہونا۔ صفت

بَلَعَهُ و أَبْلَعَهُ: اليه: بلیغ عنہ

الرَّسَالَةَ إِلَى الْقَوْمِ: پیغام رسائی کرنا۔

الْفَارِسُ: تیز دوڑنے کے لیے لگام کو بڑھانا۔

بَلَعُ فِي الْأَمْرِ: مبالغہ کرنا۔

تَبْلَعُ بِالشَّيْءِ: اتقا کرنا۔ قاعنت کرنا۔

بِهِ الْعِلَّةُ: تیز ہونا۔

تَبَالَعُ فِيهِ الْمَرْضُ: سخت ہونا اور انتہا کو

پہنچنا الرَّجُلُ فِي الْكَلَامِ: بکلف بلاغت

الذَّبَاعُ فِي الْجِلْدِ: دباغت کا
سے کام لینا

کھال میں تھیں طرح سے ہونا۔

الْبَلْعُ و الْبَلْعُ: بلیغ۔ خوش بیان۔ انتہا کو پہنچنے

والا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ أَحْمَقُ بَلْعٍ
وَالا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ حَمْفَاءُ بَلْعَةٍ"

یہ قوف ہے۔" الباعی بلیغ
اور کہا جاتا ہے "وَجِيشُ بَلْعٍ" اللہ تعالیٰ کا حکم

نافذ ہے۔ ہر جگہ کو پہنچنے والا

لِجَرِّهِ رَجُلٌ (بَلْعٌ مَلْعٌ) حیث مرد۔

البَلْعَةُ: انتہائی بوقوفی۔

البَلْعَةُ و الْبَلَاعُ و التَّبْلَعُ: مزارع کی مقدار۔

البَلَاعُ: پیغام کسی چیز تک پہنچنا۔ کفایت۔

کتاب جس میں کسی مسئلہ کا حکم بیان کیا جائے۔

بَلَاغَاتُ: البلاغات: چغل خوریاں۔

البَالِغُ: عین بلوغ کو پہنچنے والا۔ کہا جاتا ہے

"غَلَامٌ بَالِغٌ وَ جَارِيَةٌ بَالِغَةٌ وَ أَمْرٌ
بَالِغٌ" البالغاء: نافذ حکم۔

الْبَالِغَةُ: جانور کے پائے۔

البَلَاغِيُّ و الْبَالِغِيُّ: مانی الضمیر کو فصیح و بلیغ

عہدت میں ادا کرنے والا۔

الْأَبْلَغُ: ہر وہ چیز جس کو انتہا درجہ تک پہنچادیا
گیا ہو۔

المَبْلَغُ: مبالغہ کرنے والی اصطلاح میں اغلاط اور بوجہ

”وبلوشر وبلية“ وہ شر میں مبتلا ہے اور اس پر غالب ہے۔ ج ابتلاء۔

الْبَلِيَّةُ: وہ اونٹنی جس کو اس کے مالک کی قبر پر زمانہ جاہلیت میں باندھ دیا کرتے تھے اور چارہ پانی کچھ نہیں دیتے تھے یہاں تک کہ وہ مر جاتی تھی۔

المبليات: میت کے تابوت کے ارد گرد نوحہ کرنے والی عورتیں۔

بلي: حرف تصدیق ہے۔ بمعنی ہاں۔ اکثر استفہام کے جواب میں واضح ہوتا ہے۔ اور ایجاب کیلئے مختص ہے خواہ اس سے پہلے مثبت ہو یا منفی۔ جیسے ”اقام زيد“ کیا زيد کھڑا ہوا۔

اس کے جواب میں ”بلي“ کا مطلب ہے کہ ہاں کھڑا ہوا۔ ”اقام زيد“ کیا زيد نہیں کھڑا ہوا۔ اس کے جواب میں ”بلي“ کا مطلب یہ ہے کہ ہاں کھڑا ہوا۔

الم: من العود: برطکا مونا تار۔ برطکی نمونی آواز۔ ج بئوم (جدید)

بن (ض) بنا وابن: بالمكان: اقامت کرنا۔ ابنت السحابة: کسی روز تک برسا۔

بنن: الشاة: بکری کو مونا کرنے کیلئے باندھنا۔

تبتن: جدی نہ کرنا۔

البنان: پورے۔ انگلیوں کے اطراف۔ انگلیاں۔

البنانة: البنان کا واحد۔ انگلی۔ اوپر کا پورا راج بنانات۔

البنانة: سر سبز باغ۔

البنن: ایک درخت کا دانہ ہے جس سے تپوہ بنا جاتا ہے۔

ممكان (بن) بدودار جگہ۔ البن: چربی۔

بلق: الرجل: بیوقوف پانا۔

تبلة: بیوقوف ہونا۔ حجت میں عاجز ہونا۔ الطریق: بغیر رہنمائی اور پوچھ پاجھ کے چلنا۔

بلم شہہ چیز کو ڈھونڈنا۔

بالهه: فریب دینا۔

تبالة: جھگڑ بیوقوف بنا۔

بله: چھوڑ دے (اسم فعل ہے)

بلهنية: العيش: زندگی کی فراخی و آسودگی۔

بلهس: تیز چلنا۔

بلا (ن) بلوا و بلاء: الرجل: آزمانا۔

تجر یہ کرنا۔ امتحان لینا۔

بلي (س) بلي و بلاء: الثوب: بوسیدہ ہونا۔ صفت (بال و بلي)

بلي تبلية و ابلي ابتلاء: الثوب: بوسیدہ کرنا۔

بالي مبالاة و بلاء و بالة و بالآ: الامور و بالامور: پروا کرنا۔

بالاه: مقابلہ پر فخر کرنا۔ ایک دوسرے کو گھٹانا۔

ابلي: فلانا عذره: کسی کے سامنے عذر پیش کرنا اور اس کا قبول کرنا۔ ملامت زائل کرنے کیلئے عذر بیان کرنا۔

حسننا: میدان جنگ میں شجاعت ظاہر کرنا۔

ه يمينا: قابل اطمینان قسم کھانا۔

تبالة: آزمائش کرنا۔

ابتلي: قسم کھانا۔ آزمائش کرنا۔

الشئ: پچھانا۔

استبلي: ہر باتش کرنا۔

ابتلولى: العنشب: دراز ہونا۔

البلوى والبلوة والبلية والبلية: معصیت۔ آزمائش۔ ج بتالينا۔

البلاء: غم جو جسم کو گھلا دے۔ آزمائش خواہ خیر سے ہو یا شر سے۔

البلو والبلی: پُرانا، بوسیدہ۔ کہا جاتا ہے ”هو بلوا سفار و بليها“ وہ سفر اور تجربہ میں پُرانا ہوا ہے۔

یعنی بڑا تجربہ کار ہے۔

بلق (ن) بلوقا: جلدی کرنا (و ابلق) البات: چھوٹ کھول دینا یا جلدی سے بند کر دینا۔

بلق الجارية: نکارت زائل کرنا۔

بلق (س) و بلق (س) بلقا و ابلق و ابلق و ابلاق و ابلولق: سیاہ اور سفید داغوں والا ہونا۔ صفت (ابلق) مؤنث بلقاء۔

بلق (س) بلقا: متحیر ہونا۔ ششدر ہونا۔

ابلق: البات: بالکل کھانا۔

ابلق: چمکانا۔

البلق: سبک مرمر۔ بڑا خیمہ۔ بالوں کا خیمہ (و البلقة) سیاہی و سفیدی۔

الابلق الفرد: سمواں بن عادی کا قلعہ جو سفید سیاہ پتروں سے بنا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے ”طلب الابلق العقوق“ یعنی اس نے غیر ممکن چیز کو طلب کیا۔ اس لیے کہ ابلق زکوٰۃ اور عقوق حاملہ کو کہتے ہیں۔

البلوق و البلوقه: جھگڑ۔ زمین کا وہ حصہ جہاں کوکھ نہ آئے۔ ج بتالينق۔

المبلق: سیاہ سفید داغوں والا۔

بلقع: المكان: خالی ہونا۔ صفت (بلقع) کہا جاتا ہے ”دار بلقع“ خالی مکان۔

البلقع و البلقعة: خالی زمین۔ ج بتلایق (البلقع و المرأة البلقعة) ہر خیر سے خالی عورت۔

البلقعي: صاف۔ کہا جاتا ہے ”سهم او سنان بلقعی“ یعنی صاف بھل والا تیر یا نیزہ۔

بلم: الرجل: بُرائی بیان کرنا۔

ابليمت: شفتہ: سوئے ہوئے ہونٹ والا ہونا۔ صفت (ابلم) البليمة: ہونٹ کی سوجن۔

البلم: ایک قسم کی چھوٹی چھلی۔

بله (س) بلها و بلاهة: ضعیف العقل ہونا۔ کمزور رائے والا ہونا۔ صفت (ابله) مؤنث بلهاہ۔ ج بله۔

بله (س) بلها و بلاهة: ضعیف العقل ہونا۔ کمزور رائے والا ہونا۔ صفت (ابله) مؤنث بلهاہ۔ ج بله۔

بله (س) بلها و بلاهة: ضعیف العقل ہونا۔ کمزور رائے والا ہونا۔ صفت (ابله) مؤنث بلهاہ۔ ج بله۔

بله (س) بلها و بلاهة: ضعیف العقل ہونا۔ کمزور رائے والا ہونا۔ صفت (ابله) مؤنث بلهاہ۔ ج بله۔

بله (س) بلها و بلاهة: ضعیف العقل ہونا۔ کمزور رائے والا ہونا۔ صفت (ابله) مؤنث بلهاہ۔ ج بله۔

بله (س) بلها و بلاهة: ضعیف العقل ہونا۔ کمزور رائے والا ہونا۔ صفت (ابله) مؤنث بلهاہ۔ ج بله۔

بله (س) بلها و بلاهة: ضعیف العقل ہونا۔ کمزور رائے والا ہونا۔ صفت (ابله) مؤنث بلهاہ۔ ج بله۔

بله (س) بلها و بلاهة: ضعیف العقل ہونا۔ کمزور رائے والا ہونا۔ صفت (ابله) مؤنث بلهاہ۔ ج بله۔

بله (س) بلها و بلاهة: ضعیف العقل ہونا۔ کمزور رائے والا ہونا۔ صفت (ابله) مؤنث بلهاہ۔ ج بله۔

بله (س) بلها و بلاهة: ضعیف العقل ہونا۔ کمزور رائے والا ہونا۔ صفت (ابله) مؤنث بلهاہ۔ ج بله۔

بله (س) بلها و بلاهة: ضعیف العقل ہونا۔ کمزور رائے والا ہونا۔ صفت (ابله) مؤنث بلهاہ۔ ج بله۔

بله (س) بلها و بلاهة: ضعیف العقل ہونا۔ کمزور رائے والا ہونا۔ صفت (ابله) مؤنث بلهاہ۔ ج بله۔

بله (س) بلها و بلاهة: ضعیف العقل ہونا۔ کمزور رائے والا ہونا۔ صفت (ابله) مؤنث بلهاہ۔ ج بله۔

بله (س) بلها و بلاهة: ضعیف العقل ہونا۔ کمزور رائے والا ہونا۔ صفت (ابله) مؤنث بلهاہ۔ ج بله۔

وہن لانا۔
 البناء: عمارت۔ البنية والبنية وبنیات اور کہا جاتا ہے "بناء علیہ" نصب کے ساتھ اس وجہ سے کہ مفعول لہ ہے۔
 البناية: مرہ شرف۔
 البنية والبنية: عمارت۔ بنی و بنی والبنية: ڈھانچہ۔ شکل۔ فطرت۔ کہا جاتا ہے "فلائ صحیح البنية" فلاں صحیح الفطرت ہے بنية الكلمة: صیغہ اور مادہ۔
 البنيان: مرہ عمارت۔ کہا جاتا ہے "کانتہم بنیان مروض" گویا وہ لوگ مضبوط عمارت کی مانند ہیں۔
 البانی: فا۔ بنیة۔ مؤنث بانیة ج بوانی۔
 البوانی: بیوی کی پسلیاں۔ اونٹنی کی ٹانگیں اور اس سے ہے "بني البيت علی بوانیہ" اس نے گھر کو اس کی بنیاد پر بنایا۔
 البنا: معمار۔ جٹاؤن۔
 الابن: بیٹا۔ جنون و انباء: تفسیر بنی اور نسبت کیلئے بنی اور بوی (اصل کے لحاظ سے اور ہمزہ وصل کو ساقط کر کے) مؤنث ابنة: ابن السبیل: مسافر۔ ابن جحلا: مشہور آدمی۔ ابن لیلہا: بڑے کام والا۔ ابن ذکاء: صبح ابن الطود: آواز بازگشت۔ "هو ابن یومہ" وہ ایسا شخص ہے جو بھل آئندہ کی فکر نہیں کرتا۔ "هو ابن بظیہ" وہ ایسا شخص ہے جس کو ہمیشہ اپنے پیٹ ہی کی فکر رہتی ہے۔
 الانیم: بیٹا۔ میم زائد ہے اور اعراب میں نون میم کے تابع رہتا ہے۔
 البنت: جہنات: بیٹی اور نسبت کیلئے بنتی و بوی۔ بنت الشفة: کلمہ الأرض: کھری الیمین: قہوہ العین: آتلا عفود أو الکرم: شراب۔ بنات الذہر: وبنات طبق: سختیاں۔ بنات اللیل و بنات الصدر: انکار۔ بنات الأرض: چھوٹی چھوٹی ندیاں۔

رخی کر القميص: گریبان لگانا۔
 البینقة والبنقة: گریبان۔
 طریق (مبتق) کشادہ راست۔
 النفوس: خبوزہ کا ٹکڑا بنیاقیس۔
 بتکت الجاریتان: قبیلہ سے باہر ہو کر دونوں کا ایک دوسرے کو اپنے اپنے قبیلہ کی خبر پانا۔
 بتکت بالمکان و فیہ: اقامت کرنا۔
 فی عزہ: جاگزیں ہونا۔
 البتک: جز رات کا حصہ۔ کہا جاتا ہے "مضیٰ بتک من اللیل" رات کا حصہ گزر گیا۔
 البتک: بیک۔ ج بتوک (اس کی عربی معنی ہے)۔
 بتکویاس یا لوزة المعدة: معدہ کے پیچھے ایک غدہ جو کہ غذا کو جس بنا کر زندگی کا سامان مہیا کرتا ہے۔
 بنی (ض) بنیا و بناء و بنیان و بنیة و بنایة البیت: تعمیر کرنا الأرض: آباد کرنا۔ مکانات بنا جلی اھلہ و بہا: پہلی رات میں بیوی کے پاس جانا الرجل: بہتر سلوک کرنا الطعام بذتہ: مونا کرنا الکلمة: مٹی بنا جلی کلامیہ: کسی کے کلام کی نقل کرنا۔
 بناء تبنیة: بنانا۔ تعدید کثرت کیلئے ہے۔
 انباء: عمارت بختا۔ یا سامان تعمیر دینا۔ مکان بنانا۔
 بٹس: غنہ: پیچھے ہٹنا۔
 البنصر: چٹنگیا اور بیچ کی انگلی کے درمیان کی نقل۔ جٹناصر (مؤنث) جٹناصر۔
 البنفسج: بنفشہ البنفسج (شہ)۔
 بظنون: پتلون جو کہ شروال کی طرح آگریز گ پینتے ہیں۔
 بنق (ن) بنقا و بنق و بنق۔ الیہ: پہنچنا۔
 بنق الکلام: جمع کرنا۔ درست کرنا۔
 الکذب: گمراہی۔ مکان: اقامت کرنا الشی: کسی چیز کا قلاوڑا الظہرہ بالسوط:

الفرس الابلق: چنگر گھوڑا
 البتوغراف: فوٹو گراف مشین
 بنج (ن) بنجا۔ اصل کی طرف لوٹنا۔
 بنجہ: بھگ پلا کر سلا دینا۔
 البنج: بھگ۔
 البنج: اصل۔ جز۔
 البنجکشت: لوگ (جدید)
 البنجرة: توپ کا دھنرجٹا جبر (جدید)
 البند: بڑا جھنڈا۔ جمیل۔ کتاب کی فصل یا فقرہ۔ قید۔ ج بند۔ کہا جاتا ہے "فلائ کثیر البند" فلاں بہت جیلوں والا ہے (جدید)
 البندر: بند گارہ۔ سمندر کے کنارے کا شہر۔
 شہر میں تاجروں کے قیام کی جگہ ج بنادر (جدید) (الشہا بندر) سودا گروں کا رئیس۔
 بندق الیہ: تیز نظر والا۔
 البندق: بندوق کی گولی۔ ایک درخت کا نام۔
 واحد بندقة: بندوق درخت کا پھل۔
 البندقیة: پارود۔
 البندیرة: بڑا مھول
 البندیرة: جھنڈا
 البزین: تیل کی ایک قسم جو جیز جتا ہے جلدی دھونواں دیتا ہے پڑول سے نکالا جاتا ہے گاڑیوں میں بطور ایندھن اور کپڑوں کی صفائی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔
 بیس (س) بنسا و بنس۔ بڑائی سے گریز کرنا۔
 بٹس: غنہ: پیچھے ہٹنا۔
 البنصر: چٹنگیا اور بیچ کی انگلی کے درمیان کی نقل۔ جٹناصر (مؤنث) جٹناصر۔
 البنفسج: بنفشہ البنفسج (شہ)۔
 بظنون: پتلون جو کہ شروال کی طرح آگریز گ پینتے ہیں۔
 بنق (ن) بنقا و بنق و بنق۔ الیہ: پہنچنا۔
 بنق الکلام: جمع کرنا۔ درست کرنا۔
 الکذب: گمراہی۔ مکان: اقامت کرنا الشی: کسی چیز کا قلاوڑا الظہرہ بالسوط:

کی ساتویں، آٹھویں، نویں رات۔
البہر: من المکان والزمان: وسط۔

درمیان۔
البہار: خوبصورتی۔ ایک قسم کا خوشبودار

پھول جس کو "عین البقر" (گاؤ چشم) بھی

کہتے ہیں۔
البہار: بیت۔ اباہیل: دینی ہوئی روٹی۔

ایک قسم کی سفید مچلی۔
البھیڑ: موٹے سرینوں والی شریف

عورت۔ بی۔ بہانور۔
الابہر: پیٹھ۔ کہا جاتا ہے "فلان خدیند

الابہر" فلاں مضبوط پیٹھ والا ہے۔ گردن کی

شہ رگ۔ و (الا بہران) دور گریں ہیں جو

قلب سے نکلے ہیں اور انہی سے ساری شریان

جسم میں پھیلی ہوئی ہیں اور اسی سے بے مہما

زال: اجعہ الالم حتی قطع ابہرہ"۔

اس کو تکلیف بار بار ہوتی رہی یہاں تک کہ اُسے

ہلاک کر دیا۔
البامزہ: بڑے چوں والے نرگس کی قسم کا پودہ

جو کہ گلستہ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ایک ہی

دیف پھول نکالتا ہے۔
بہرج: الدماء: رانگیاں کرنا المکان:

جگہ کو رفاہ عام کیلئے کر دینا یہم الدلیل: رہنا

کا پدے راستے سے ہٹ جانا۔
تبہرج: تکبر کرنا العزاة: آراستہ ہونا۔

المکان: رفاہ عام کیلئے ہونا۔
البہرج: باطل۔ ردی۔ کہا جاتا ہے "لؤلؤ

بہرج" ردی موتی۔ کھوٹا ذرہم۔ مکان۔
بہرج: رفاہ عام جگہ۔

تبہرج: تکبر سے اڑتے ہوئے چلنا۔
بہرج: بھڑم۔ بھڑم۔ شغوفہ: مہندی کا خضاب

لگانا۔
تبہرج: مہندی لگانے سے سرخ ہونا۔
البہرج: سر۔ برہمنوں کی عبادت۔
البہرج: مہندی۔
البہرج: زور دہنگ کی ایک قسم
البہرج: ایک درخت کا نام جو کہ اوزار بنانے

(بہرج و بہرج)
بہرج (ن) بہاجہ و بہجانا:

خوبصورت ہونا۔ صفت مذکر (بہرج) و صفت

مؤنث (بہرج)
بہرج: خوبصورت بنانا۔

بہرج: خوبصورتی میں مقابلہ کرنا اور فخر

کرنے۔
ابہرج و تبہرج: المکان: سرسبز ہونا۔
ابہرج و تبہرج و تبہرج و استہرج: بہ:

خوش ہونا۔ تبہرج: خوبصورت ہونا۔
البہرج: خوبصورتی۔ تروتازگی۔ خوشی یا

ظہور خوشی۔
البہرج: خوش۔ بہ:

بہرہ (ن) بہرہ: غالب ہونا۔ فضیلت میں

بڑھ جانا۔ فلانا: بہتان لگانا۔ فلانا: بوجھ

کی وجہ سے ہانپنے لگانا۔
الرجل: ہمسروں سے فائق ہونا (القمر):

ستاروں کی روشنی پر غالب ہونا (بہرہ و

بہرہ) الشمس: روشن ہونا۔
بہرہ و تبہرہ: سخت دوڑنے سے ہانپنا۔ صفت

(بہرہ و تبہرہ) و تبہرہ: پوری کوشش

کرنے۔
ماہرہ مباحرہ و بہارہ: فخر کرنے میں

مقابلہ کرنا۔
ابہر: مجب کام کرنا۔ فقیری کے بعد مالدار

ہونا۔ دوپہر کی گرمی میں داخل ہونا۔ تلون

الاطلاق ہونا۔
ابہر: پوری پوری کوشش کرنا۔ جموٹا دعویٰ

کرنے۔ و: واقعی عیب لگانا الشیف: تلوار کے دو

کھڑے ہونا۔
انہار: اللیل أو النهار: آدھا ہونا علینا

اللیل: رات کا دراز ہونا (وانس بہر) اللیل:

رات کا بہت تاریک ہونا۔
تبہر: الإناء: برتن کا بھر جانا السحابہ:

بادل کا چمکانا۔
البہر: حکمن سے ہانپنا۔ کہا جاتا ہے "بہرہ

لہ:" اس کیلئے ہلاکت ہو۔ لیلۃ البہر: مینے

بنات نعتی الخمر سات سٹالا جو

قلب شمالی کی جانب دکھائی دیتے ہیں۔ اور اسی

کے مانند سات نفس الصغریٰ ہیں۔

بنات الفصیل: لمبے چوں والے ایک پودے کا

نام۔ بنت و رذان: مہر بلا۔
البیئۃ: عمارت۔ خانہ کعبہ۔ (البیئۃ

الخضرۃ: آسمان۔
نبات لطریق: چھوٹے چھوٹے راستے جو

بڑے راستے سے نکلے ہوں۔ اور اسی سے ہے

"ذخ نبات لطریق" یعنی اپنے اوپر بڑے

بڑے امور کو لازم سمجھو اور کد فریب کو چھوڑ

دو۔
المبانی: شرافتیں۔ حوزف المبانی:

حرفیہ حقی۔
النبوۃ: فرزند پر۔

بہا (ن) و بہی (س) و بہو (ک) بہا

و بہاء و بہوا: بہ مانوس ہونا لہ: سمجھنا۔

کہا جاتا ہے "ما بہات لہ وما باہت لہ"

میں نے اس کو نہیں سمجھا۔
بہا (ن) بہا و ابہا: البیت: سامان سے

خالی کرنا۔
ابہا: بہ مانوس ہونا۔

بہت (ن) و بہت (ک) و بہت بہتا

و بہتا: ہکا بکا رہنا۔ تمیر ہو کر خاموش ہونا

(چھپول اور مشہور ہے)۔
بہت (ن) بہتا: اپناک پکڑنا (ہ بہتا و

بہتانا) تہمت لگانا۔ صفت (بہتا) و

(بہوت) ج بہت۔
بہتہ و باہتہ: جموٹی تہمت لگا کر ہکا بکا کر

دینا۔ باہت الرجل: بہتان لگانا۔
البہتۃ: حیرانی (والبہت و البہتان)

جموٹی تہمت۔
البہوت: جموٹی تہمت لگا کر ہکا بکا کر دینے

والابح بہت۔
البہت و البہتان: جموٹی۔

بہجۃ (ن) بہجا و ابہجۃ: خوش کرنا۔
بہج (س) بہجا: بہ: خوش ہونا۔ صفت

(بہی) مؤنث بہیۃ۔ بہاۃ: خوبصورتی میں

غالب ہوتا۔

بہی (س) بہی البیت: ویران ہوتا۔

خالی ہوتا۔

بہی البیت: بربادہ کرنا۔

باہاۃ: فی الحسنین: حسن و خوبی میں مقابلہ

پر فخر کرنا۔

ابہی: خوبصورت چہرہ والا ہونا الإنشاء: خالی

کرنا۔ الخیل: جنگ کے لیے کام نہ لینا۔

ابہی: بہ: فخر کرنا۔

تباہوا: باہم فخر کرنا۔

البہو: مکان یا خیمہ کے آگے کا کرہ جو مہمان

وغیرہ کے قیام کا گاہ کا کام دے۔ ملاقات کا کرہ ج

ابہاء و بہو و بہی

باء بیوء یؤنأ: الیہ: نوش بائہ و بائیہ:

لوانا بالحق او بالذنب: اقرار کرنا فیلان

بفلان بواء: بدلے میں قتل کیا جانا۔ کہا جاتا

ہے ”دم بواء دم“ خون خون کے برابر۔

بوء بہ: یعنی ان لوگوں میں سے ہو جائیں کو

اس کے بدلے میں قتل کیا جائے اور اسی سے

مہلہ کا قول بجر کیلئے ہے۔ ”بؤیشنع نعل

کلیب“ یعنی کلیب کے جوئے کے تھے کے

برابر ہوجا۔

بواء: المكان: اترنا۔ نازل ہونا الرفح

نخوة: کسی کی طرف سیدھا کرنا۔ بواء و بوا

لہ منزلا: کسی کیلئے تیار کرنا۔

اباء: منة: بھانجا بالمكان: اقامت کرنا۔

الشی و بالشی الیہ و علیہ: لوانا و

منزلا و فی المنزل: اجرتا القاتل

بالقتیل: منتول کے بدلے میں قاتل کو قتل

کرنا۔

تبوا: المكان و بہ: اقامت کرنا۔

تبوا: الشیان: مساوی ہونا۔

البانة و البینة و المنوا و المبانة:

مزل۔ و البینة: حالت۔ کہا جاتا ہے ”انہ

حسن البینة“ وہ اچھی حالت والا ہے۔

حاجة (مبينة) شدید حاجت۔

البہلہ و البہلۃ: لعنت۔

الباہل: بغیر کسی کام کے آنے جانے والا۔

بغیر ڈنڈے کے چرانے والا۔ بے ہتھیار۔ ناقة

باہلہ: وہ اونٹنی جس کے نتھوں پر بندش نہ

ہو۔ ج بہل و بہل۔ مؤنث باہلۃ۔

الباہلۃ: بیوہ عورت۔

البہلول: بہت شنہ والا۔ بشور۔ جامع

فضائل سردار۔ ج بہالیل۔

البہلولان: بداری۔ رسی پر چلنے والا۔

بہم: بالمکان: مستقل اقامت کرنا۔

البہم: ماں سے علیحدہ کر کے چرانا۔

ابہم: الباب: بند کرنا الزکمان: بھبی

گھاس والی ہونا۔ (وتبہم و استبہم) الأمر

علیہ: مشتہ ہونا۔ دشوار ہونا۔

استبہم علیہ: شور مچانے کی وجہ سے

مکتوب پر قادر نہ ہونا۔

البہم و البہم و البہام: گائے، بھیر،

بکری کے بچے۔ واحد (البہمة و البہمة)

البہمة: دلیر جس پر کوئی قابو نہ پاسکے۔ پھر

کی چٹان۔ سخت و مشکل کام۔ ج بہم۔ البہم:

مشکل امور۔

البہمی: جو کی مانند ایک قسم کی نباتات۔

البہیم: کالا۔ فرس بہیم: ایک ہی قسم کا

گوڑا۔ لیل بہیم: پوری تاریک رات۔ ج

بہم و بہم۔

البہیمۃ: چارپایہ۔ ج بہانم۔ البہیمۃ: ہر

وہ جس میں قوت گویائی نہ ہو۔

الانہیم: گوگھا۔ ج بہم: خاموش۔

الانہام: سر۔ انگوٹھا (مؤنث) کبھی ذکر

استعمال کیا جاتا ہے۔ ج ابانم و ابانہم۔

المبہم: مع امر مبہم: غیر معروف

معاملہ کلام مبہم: غیر معروف کلام۔

طریق مبہم: غیر واضح راستہ۔ حانط

مبہم: دیوار جس میں دروازہ نہ ہو۔

بہن (س) بہنا: بہت خوش ہونا۔

بہا (ن) و بہی (س) و بہو (ک) بہاء

حسین و خوبصورت ہونا۔ ظریف ہونا۔ صفت

کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

بہزہ (ف) بہزا و بہزہ: سختی سے

دھکیانا۔ غلبہ کرنا۔

المبہز: سختی سے بہت دھکیلنے والا۔

بہش الیہ (ف) بہشا: خوشی سے متوجہ

ہونا۔ مشتاق ہونا بیدہ الیہ: لینے کیلئے ہاتھ

پڑھانا للکساء: رونے کیلئے آمادہ و تیار ہونا

عنه: محمود کرید کرنا۔

بہش و تبہش: القوم: رکھا ہونا۔

البہش: بزگوگل (گوگل ایک دوکانام ہے)

رجل بہش: ہشاش بشاش مرد۔

النواء: ایک بڑے سانپ کی قسم۔

بہصل و تبہصل: پیرے اتار کر جوئے کی

بازی پر لگانا۔ بہصل القوم من مالہم:

علیحدہ کر دینا۔ نکال دینا۔

بہظہ (ف) بہظا و ابہظہ: الحمل او

الأمر: بوجہل کرنا۔ باعث مشقت ہونا۔

ابہظ حوضہ: بھر دینا۔

الباہظۃ: مؤنث۔ باعث مشقت و تکلیف۔

مصیبت۔

المبہوظ: طاقت سے زیادہ تکلیف دیا ہوا۔

القرن المبہوظ: مغلوب۔

البہق: برص کی بیماری کے علاوہ جسم پر سفید

داغ۔

بہق الحجر: پتھر پر آئی ہوئی ایک قسم کی

گھاس جو کالی کی مانند ہوتی ہے۔

بہلۃ (ف) بہلا: اللہ: لعنت کرنا۔

والبہلۃ: چھوڑنا۔ (و استہل) الوالی

رعینۃ: بلا روک ٹوک چھوڑ دینا۔

بہلت: الناقة: اونٹنی کے تھن سے بندش

نول دینا اور بچہ کو دودھ پینے دینا۔

ابہل: الی اللہ: گوگھا کر ڈھکا کرنا۔

باہل۔ بغضہم بعضا: ایک دوسرے پر

صحت کرنا۔

تبہلوا و تباهلوا: باہم لعنت کرنا۔

انتہلا: ایک دوسرے پر لعنت کرنا۔

ہے۔
 البؤر نجاہ و ہلاک ہونے والا۔ بے خبر۔ کہا جاتا ہے "امراة بوز و قوم بوز" ہلاک ہونے والی عورت یا قوم (مذکر مؤنث واحد جمع سب کے لیے یکساں) البؤر من الأرض: غیر مزروعہ زمین۔
 البؤر: غیر مزروعہ خراب زمین۔ آزمائش ہلاکی۔ کساد بازاری۔
 البوار نہلاکت۔ کساد بازاری۔ ڈار البوار: دوزخ۔
 البورق بوزک۔ سہاگا۔ سوڈا۔
 البورق: ایک قسم کی درپائی، معمولی۔ ج بوارق۔
 البورق و البورق چٹائی۔
 البورق: چٹائی بیچنے والا۔
 الباز باز: ایک قسم کا شکاری پرندہ۔ ج بوزان و ابواز۔
 البوز و البوزة: دودھ شکر کی جمائی ہوئی برف۔
 البوزجواز بملاز زمین اور چھوڑے عہدہ داروں کا طبقہ اور بڑے مالدار جو کہ آرام و عیش کی زندگی گزارتے ہیں۔
 باسئلان) بوسنا: بوسن لینا۔
 البوسینو: بوسن۔
 البوسنطہ: بڑا ک خانہ (جدید)
 باش (ن) بوشا و بوش و تبوش۔
 القوم: بل جل کر شور مچانا۔
 البوش و البوش: لوگوں کی ملی جلی جماعت۔ کہا جاتا ہے "تو کہم ہوشا بوشا" اس نے ان لوگوں کو ملا جلا چھوڑا۔ اوباش اسی کی جمع مقلوب ہے۔
 البوشی و البوشی: محتاج جس کے بہت بال بچے ہوں۔
 باصہ (ن) بوضا: سابق ہونا۔ آگے بڑھنا منہ بجا کر چھینا فی الامر: امرار کرنا۔
 بوض: میدان میں آگے بڑھنا الشی: صاف رنگ والا ہونا۔

اباح: السنو: ظاہر کرنا شینا: نجان کرنا، مباح کرنا۔
 استباح: الشی: جائز و مباح ظہرانا یا سمجھنا۔ کسی چیز پر اقدام کرنا۔ القوم نجاہ و برباد کر دینا۔
 الاباحی: جموعات کو کرنے اور مامورات کو چھوڑنے کی اجازت دینے والا۔
 الباحۃ: نانی یا اس کا بڑا حصہ۔ بہت سے کھجور کے درخت۔ محسن۔ باحة الطريق: وسط راستہ۔
 البواح: کھلم کھلا۔ کہا جاتا ہے "فعلہ بواحا" اس نے اس کو کھلم کھلا کیا۔
 البؤح: تول کی بات ظاہر کرنے والا۔
 البوخی: پچھاڑا ہوا۔ کہا جاتا ہے "تو کہم بوخی"۔
 باخ (ن) بوخا: سمجھنا۔ کہا جاتا ہے "عذا حتی باخ" وہ دوڑا یہاں تک کہ تھک گیا الحو و الغضب و النار: ٹھنڈا پڑنا۔ دھیم ہونا۔ بجمنا (بوخا) اللحم: بگڑنا۔ خراب ہونا۔
 اباخ: النار: بجمانا۔ اور اسی سے ہے "ایخ غنک الظہیرة" ٹھہر دینا یہاں تک کہ دوپہر کی گرمی کم ہو جائے۔
 باذیبوذ بوذا: محتاج ہونا۔ فروتنی کرنا۔ لوگوں پر ظلم کرنا۔
 باز (ن) بوزا و بوزا: ہلاک ہونا السوق او السلعة: کساد بازاری ہونا العمل: باطل ہونا الأرض: غیر مزروعہ ہونا (وینار) الرجل: تجربہ کرنا۔ آزمائش کرنا۔ بوز: الأرض: زمین کو بغیر کھیتی کے چھوڑ دینا۔
 ابارة: ہلاک کرنا۔
 تبور: نفسہ: اپنے آپ پر ہلاکت کی وجہ سے فوج کرنا۔
 البانور: غیر مزروعہ زمین۔ ج بوز: کہا جاتا ہے "حانور بانو" یعنی کسی رہنما کی اطاعت نہیں کرتا اور نہ کسی چیز کی طرف توجہ کرتا

البواغیک بڑے سائب کی قسم۔
 باسرن) بويا: لہ زریبان ہونا۔
 بوب: الكتاب: بواب میں تقسیم کرنا۔
 تبوب: الرجل: زریبان بنانا۔
 الباب: دروازہ من الكتاب: کتاب کا باب۔ ج ابواب و بینان۔
 البابة: فی الحساب و الحدود: غایت، انتہا، شرط۔ قسم۔ عادت۔ کہا جاتا ہے "هذا شی من بابک" یہ چیز ایسی ہے جو تمہارے لیے مناسب ہے، ج بابات۔
 بابات الكتاب: نظریں۔
 البواب: نوربان۔ ج بوابون۔
 البوابة: نوربانی۔ درپائی کی اجرت۔
 البوت: ایک پہاڑی گھاس کا نام۔
 البوتقة و البودقة: کھلا۔
 البوناس: بونا شیم۔ اس کی علامت: K
 البوناسیو: بونا شیم کاربونیٹ۔ ایک سفید چمکتا ہوا زرد مادوں کے جوڑنے اور کھاد میں کام آتا ہے۔
 البونان زیادہ استعمال والا گیس جو کہ گھروں میں جلایا جاتا ہے اس کا رمز C.H میں بروٹان C-8 تیز دھواں کی خاطر داخل ہوتا ہے۔
 بات (ن) بوئا و ابات و ابناث: الشی و عن الشی: کھود کرید کرنا۔ بات المنکان: کھود کر مٹی ملانا۔ بات الثراب: متفرق کرنا۔ بات الرماد: کھینچنا۔
 استنبات: الثراب: مٹی نکالنا۔ کہا جاتا ہے "تَرَكَ دَارَهُمْ حَوْث" (بوت) یعنی ان کے گھروں میں مل جلایا اور ویران کر دیا۔
 باج (ن) بوخا: الشی فلانا و علیہ: نازل ہونا۔ پھینچنا۔ آڑنا البوق: چمکتا۔ البعیر: تھکتا۔
 اباح و تبوخ: البوق: زور سے چمکتا۔
 باح (ن) بوخا و بوخا و بوضحة: الشی: ظاہر ہونا۔ مشہور ہونا الیہ بالسیر: ظاہر کرنا۔

إنباص: منقبض ہوتا۔

البوص: ذوری (البوص) رنگ۔ صورت، شکل۔ چتر۔ ریشم یا کتان۔ ج انبواص البوصی: ایک قسم کی کشتی۔ طریق (بانص) دور کا راستہ۔

باص (ن) بوضا: جھانکے پڑنے کے بعد خوبصورت چہرہ والا ہوتا بالمکان: اقامت کرتا۔

باط (ن) بوطا: دولت مندی کے بعد محتاجی یا معزز ہونے کے بعد ذلیل ہونا۔

البوطہ: کھالی۔ کپڑے وغیرہ میں گول نقش۔ ج بوط۔

باع (ن) بوغا: عطیہ دینے کے لیے ہاتھ بڑھانا القوس: دور دور قدم ڈالنا۔

(وتبوع) الحبل: باع سے اندازہ کرنا۔ دیکھئے لفظ باع باع و تبوع للمساعي:

باغ پھیلا نا۔

انباع العرق: بہنا الحية: اچھلنے کے لیے لہا ہونا الشجاع من الصف: بہادر کا صف سے لگنا الرجل اليه: کشادہ روئی سے بڑھنا۔ انباع له في بضاعة: بیچنے میں سہولت برتنا۔

الباع: دونوں ہاتھوں کے پھیلانے کی مقدار، کہا جاتا ہے "طويل الباع و رخص الباع" یعنی فاض۔ "وقصير الباع و ضيق الباع" یعنی تنگ عاجز۔ ج انواع و باعات و بیعان۔

البوع: سر دونوں ہاتھوں کے پھیلانے کی مقدار۔ اور اسی سے مثل ہے "لا يعرف كوعه من بوعه" وہ کوع اور بوع کو نہیں پہچانتا۔ پوری جہالت کیلئے ضرب المثل ہے۔

باعه: الدار: گھر کا حصہ۔

البيع: دور دور قدم رکھنے والا۔ کہا جاتا ہے "فارس بيع" دور دور قدم رکھنے والا گھوڑا۔

بوغاء الطيب: خوشبو کی مہک۔

باعه (ن) بوغا: غلبہ کرنا برابر ہونا۔ کہا جاتا ہے "انك لعالم لاتباغ" یعنی تو ایسا عالم

ہے جس کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔

تبوع الذم به: جوش مارنا فلان عليه: غالب ہونا۔

البوغاء: خاک۔ غبار۔ بوغاء الطيب: خوشبو کی مہک۔

البوغائية: چھٹنے والے انگری جو بنفش اور سرخ رنگ کے پتوں والی امریکی انگری بطور زینت استعمال ہوتی ہے۔

باق (ن) بوقا و بؤقا: لڑائی جھگڑا برپا کرنا القوم: بیوقوفی کرنا۔ چوری کرنا۔ باقت الباقعة القوم: مصیبت پہنچنا۔ باق القوم عليه: اکٹھے ہو کر ظلماً قتل کرنا۔ باقت السفينة: ڈوبنا۔ باق الشئ: غالب ہونا۔ ظاہر ہونا۔ خراب ہونا۔

بوق: في البوق: بگل بجانا۔ تبوق: جموت پوننا الوباء في الماشية: جانوروں میں وبا پھیلنا۔

انباق عليهم الشر: برائی و مصیبت پہنچنا بہ: ظلم کرنا۔

البوق: بگل۔ تری۔ نرسنگھا۔ ج انبواق و ببقان و بوقات۔ اور کہا جاتا ہے "جاء بالبوق و نفع في البوق" اس نے ڈنگے کی چوٹ اعلان کیا۔ نیز اس معنی میں آتا ہے کہ

بیوردوہ اور لائے گنگوکی۔

البوقه بارش کی سخت بوجھار۔ ج بوق۔ الباقعة گلدرست۔ ساگ پات کا مٹھا باقات۔

الباق: من المتاع: بے قیمت۔ کہا جاتا ہے "متاع باق" بے قیمت سامان۔

الباقعة: مصیبت۔ شر و فساد۔ کہا جاتا ہے "رفعت عنك باقعة فلان" یعنی میں نے تجھ سے فلاں کی لائی ہوئی مصیبت کو اٹھا دیا۔ ج بواق۔

البواق: بگل بجانے والا۔ المبوبق: کلام باطل۔

البوقیضاء: ایک قسم کے درخت کا نام۔

باك (ن) بوکا: بیچنا یا خریدنا الامر: مخلوط ہونا القوم راہبم: رائے میں

بواق: بگل بجانے والا۔ المبوبق: کلام باطل۔

البوقیضاء: ایک قسم کے درخت کا نام۔

باك (ن) بوکا: بیچنا یا خریدنا الامر: مخلوط ہونا القوم راہبم: رائے میں

بواق: بگل بجانے والا۔ المبوبق: کلام باطل۔

البوقیضاء: ایک قسم کے درخت کا نام۔

گر بڑی ہو جانے کی وجہ سے کوئی راستہ نہ پانا۔

الرجل: مراحم ہونا۔ انباک عليه الامر: گڑبڑ ہو جانا۔

بال (ن) بؤلا و مبالا: پیشاب کرنا۔ بؤله و ابالہ: پیشاب کرنا۔

البال: دل۔ کہا جاتا ہے "ماخطر الامر ببالی" یہ معاملہ میرے دل میں نہیں گزرے۔

حال و شان۔ کہا جاتا ہے "فلان زحی البال" فلاں آسودہ حال ہے۔ خیال۔ کہا جاتا ہے "کاسف البال" جس چیز کا اہتمام کیا جائے کہا جاتا ہے "لیس هذا من بالی" یعنی یہ ان چیزوں میں سے نہیں جن کی میں پروا کرتا ہوں۔ "وامر ذوبال" یعنی ایسا کام جو قابل اہتمام ہو۔ "وما بالک" یعنی تمہاری کیا حالت ہے۔

البال: سندر کی مچھلیوں میں سے ایک مچھلی۔

بیل مچھلی۔ البالۃ: شیشی۔ خموشبو کی ڈبیہ۔

البول: پیشاب۔ البول: لڑکا۔ عدو کثیر بول العجوز: شراب۔

البولة: لڑکی۔ البوال: ایک بیماری جس میں پیشاب کثرت سے آتا ہے۔

البولة: بہت پیشاب کرنے والا۔ البولة: وہ چیز جو پیشاب لانے کا سبب ہو۔

البولة: پیشاب کرنے کا برتن۔ البولیضة او البولیضة: رسید۔ ہنری۔ ج بوال الصن

بولغار: موٹروے وسیع اور کھلا روڈ جس کے دونوں اطراف فٹ پاتھ اور خوبصورت درخت اور پودے ہوں (فرامیسی کلمہ)

البولیس: پولیس۔ اس کی عربی شریطی اور حلواز ہے۔

البوم و البومة: الو۔ ج انوام (دونوں لفظ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے مستعمل ہیں)

بانہ (ن) بؤنا: فضل و زیادتی میں غالب ہونا۔

البولیس: پولیس۔ اس کی عربی شریطی اور حلواز ہے۔

البوم و البومة: الو۔ ج انوام (دونوں لفظ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے مستعمل ہیں)

بانہ (ن) بؤنا: فضل و زیادتی میں غالب ہونا۔

البولیس: پولیس۔ اس کی عربی شریطی اور حلواز ہے۔

البوم و البومة: الو۔ ج انوام (دونوں لفظ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے مستعمل ہیں)

بانہ (ن) بؤنا: فضل و زیادتی میں غالب ہونا۔

النُّونُ وَالنُّونُ بُورِي۔ فصل۔ دو چیزوں کے درمیان فرق۔
النُّونَةُ چھوٹی بچی۔
البان ایک قسم کا درخت جس کے پتے بید کے پتے کی طرح ہوتے ہیں اور اس کے محل سے خوشبودار تیل نکلتا ہے اور بوجہ طویل ہونے کے اس سے قد کو تھمبھہ دی جاتی ہے۔
البوان والبوان خمیر کھرا کرنے کا ستون ج ابُونَه وَبُون وَبُونَ۔
بُونَسِيَانُ تھمبھہ میٹر سبار درخت جس کے لمبے پتے اور انگریزی طرز کے خوبصورت پھول ہوتے ہیں زمین کے لئے پویا جاتا ہے۔
بالافن) بُوْهًا لِلشَّيْءِ سَمَّاهُ كَمَا جَاءَ فِي "مَا بَهَتْ وَمَا بَهَتْ الْأُمُورُ" لَمْ يَمُوتْ L

بَيْتُ الشَّيْءِ زَاتٍ فِي كَرْنِ الْعَدْوِ كَمَا
خَرْنٌ وَالنَّائِبَةُ كَمَا جَاءَ فِي رَأْيِهِ زَاتٍ فِي
سَوْجٍ بِحَارٍ كَرْنًا۔
بَيْتُ الشَّيْءِ تَمْدَادُهُ كَمَا جَاءَ۔
ابانہ شب پاشی کرنا۔ کہتے ہیں۔ ابانہ اللہ
أَحْسَنُ أَيْتِهِ بِمَعْنَى ابَانَةِ۔
إِسْتَبَاتُ زَاتٍ فِي خَوْرَاكِ مَبِيَا كَرْنًا۔
الْبَيْتُ ج. بَيْوتٌ وَابْنَاتُ بَيْوتَاتٍ
وَ ابَانِيَةٌ أَوْ بِقَوْلِ بَعْضِ بَيْوتَاتٍ أَوْ
أَبَانِيَةٌ إِشْرَافٌ كَيْلِيَةً مَخْتَصٌ فِيهِ تَقْوِيمٌ
مُتَيْتٌ كَمَا فِي مَكَانٍ، إِشْرَافٌ۔ بَيْتُ الرَّجُلِ
أَلِ وَ عِيَالٌ بَيْتُ الشَّعْرَةِ مَعْرُوفٌ كَلَامٌ جَوْدٌ
مَعْرُوفٌ بِشَامِلٍ هُوَ بَيْتُ الْقَصِيدَةِ تَقْوِيمُهُ
كَمَا فِي بَحْرِ شِعْرِ جَوْشَاعٍ كَمَا فِي غَرَضٍ كَمَا فِي
مَخْضَمٍ هُوَ۔
بَيْتُ الْمُقَدَّسِ أَوْ الْبَيْتُ الْمُقَدَّسُ:
مَلِكُ شَامٍ كَمَا فِي شَهْرٍ كَمَا فِي بَيْتِ الْمَالِ:
حُكُومَةُ إِسْلَامِيَّاتٍ كَمَا فِي خَزَائِنِ بَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ:
كَلْبِيَّ كَمَا فِي جَالِ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ أَوْ الْبَيْتِ
الْحَرَامِ كَمَا فِي مَعْظَمِهِ أَوْ كَمَا فِي جَاوِيَّ
جَادِيَّ بَيْتِ بَيْتِ نَهْ مِيرَ اِبْرَاهِيمَ هُوَ كَمَا
كَمَا فِي مَعْرُوفٍ كَمَا فِي مَلَا هُوَ۔
الْبَيْتَاتُ شَبَّ خَوْنِ وَالنَّائِبَةُ
الْبَيْتُ وَالْبَيْتَةُ زَاتٍ فِي خَوْرَاكِ كَمَا جَاءَ
هِيَ "لَهُ بَيْتٌ لَيْلَةٌ" هُوَ كَمَا فِي رَاتٍ
فِي خَوْرَاكِ هُوَ۔
الْبَانِيَةُ وَالْبَيْوتَةُ بَانِيٌّ۔ هَرُوهٌ بِحَارٍ جَسْرٍ
رَاتٍ كَمَا فِي بَيْتِ هُوَ أَوْ رُوهُ مَعْنَى هُوَ بَيْتٌ هُوَ
جَاتَا هُوَ "أَسْقِنِي مِنْ بَيْوتِ السَّقَاءِ" بِعَيْنِ
مَجْهُدٍ كَمَا فِي رَاتٍ مَعْنَى هُوَ كَمَا فِي رَاتٍ
هُوَ أَوْ مَعْنَى هُوَ كَمَا فِي رَاتٍ كَمَا فِي رَاتٍ
هُوَ كَمَا فِي رَاتٍ۔
الْبَيْوتَةُ أَيْ مَعْرُوفٌ جَسْرٍ كَمَا فِي رَاتٍ
مَعْرُوفٌ رَاتٍ سَوْجٍ بِحَارٍ فِي رَاتٍ۔ سَبَّ
بَيْوتَةٌ مَعْرُوفَةٌ دَانَتٌ۔
الْمَيْتَةُ زَيْتٌ كَمَا فِي شَبَّ بَانِيٍّ كَمَا فِي
الْمَيْتَةُ مِنْ النِّسَاءِ كَمَا فِي شَوْهَرِ وَالِ

عورت۔
الْمُسْتَبِيَةُ تَقْوِيمٌ۔
بَيْعٌ تَبْيِيحًا بِهَيْبَةٍ سَعِيدٌ تَلَانًا۔
الْمَحْمُومُ كَمَا فِي تَقْوِيمِ كَرْنًا۔
بَادٌ بَيْدٌ بَيْدًا وَ بِيَادًا وَ بِيودًا وَ
بَيْدُودَةً هَلَاكٌ هُوَ بَادَتِ الشَّمْسُ
بِيودًا غَرُوبٌ هُوَ۔
أَبَادَةٌ هَلَاكٌ كَرْنًا۔
بَيْدٌ بِمَعْنَى غَيْرِ اسْمِ كَرْنًا كَمَا فِي إِضَافَةِ اسْمِ
كِي طَرَفٍ هُوَ فِي جَسْرٍ أَوْ غَرُوبٍ هُوَ فِي
جَسْرٍ "فَلَانٌ كَثِيرٌ الْمَالِ بَيْدَانَهُ بِخَيْلٍ"
بِمَعْنَى غَيْرِ أَنَّهُ بِخَيْلٍ۔
الْبَيْدَاءُ نِيَابَانٌ ج. بَيْدٌ وَ بَيْدَاوَاتٌ۔
الْبَيْدَاءَةُ فُوجٌ كَمَا فِي بَيْدَاءَةٍ (بَيْدَاءِيٌّ)
بَيْدَرٌ: الْحِنَطَةُ وَ هِيَ لَكَانَتُ۔
الْبَيْدَرُ كَمَا فِي خَرْمٍ۔
الْبَيْدَقُ هِيَ شِكَارِيٌّ بِرَنْدٍ۔
بَيْدَاغُو جَسْرِيٌّ كَمَا فِي تَقْوِيمِ وَ تَرْتِيبِ كَرْنًا۔
الْبَيْدَقُ نَمْرٌ كَمَا فِي جَسْرٍ بَيْدَلٌ وَ لَمْ يَلَا۔ أَوْ رَاسِيٍّ
سَعِيدٌ الشَّطْرُ نَجْعٌ هُوَ بِمَعْنَى شَرْحِ كَرْنًا
مَهْرٍ جَسْرٍ كَمَا فِي بَيْدَقٍ هُوَ فِي جَسْرٍ بِبَادِقٍ۔
الْبَيْدَقُ جَسْرٌ ج. بِيَارِقٌ وَ (الْبَيْدَرُ)
قُدَارٌ جَسْرٌ أَوْ رَادِرٌ۔
الْبَيْدَمُونُ وَ الْبِيَادَمُونُ نِيَابَانِيٌّ كَمَا فِي عِبَادَتِ
كَمَا فِي كَرْنًا خَاصٌ عَمِيدٌ (يُونَانِيٌّ لَفْظًا)
الْبَيْزَارُ نَازِرٌ كَمَا فِي كَرْنًا كَمَا فِي بِيَارِقَةٍ۔
الْبَيْزَرَةُ كَمَا فِي شِكَارِيٍّ۔ بَازِيٌّ كَمَا فِي رُكُوعِيٍّ۔
بَيْشٌ: اللَّهُ وَ جِهَةٌ فَوْضَلٌ وَ تَرْتِيبٌ۔
أَبَاشٌ: الشَّحْرَةُ جَسْرٌ بِمَعْنَى دِيَانَةٍ۔
الْبَيْشُ هِيَ كَرْنًا فِي زَهْرِيٍّ كَمَا فِي رَاتٍ۔
الْبَيْشُ نَمْرٌ كَمَا فِي رَاتٍ جَسْرٍ فِي رَاتٍ كَمَا فِي رَاتٍ
هِيَ جَسْرٌ أَيْبَاشٌ۔
الْبَيْضُ وَ الْبَيْضُ شَكْلِيٌّ۔ تَحْتِيٌّ كَمَا فِي رَاتٍ هُوَ
"وَقَفُوا فَيُحْيِيصُ بَيْضٌ" هُوَ لَوْ كَمَا فِي رَاتٍ
تَحْتِيٌّ فِي رَاتٍ۔
بَاضٌ (ض) بَيْضًا. الطَّائِرُ نَائِبٌ دِيَانَةٍ۔
صِفَتٌ مَذْكُورَةٌ (بَاضٌ) مَوْثٌ بَاضٌ

بوايض اور اسم مبالغہ (بيوض) ج بيض
و بيض باض الحور: گرمی سخت ہونا
فلانا: سفیدی میں غالب ہونا السحاب:
بارش ہونا
بقامت کرنا۔ تبيين
سفید کرنا۔ اور اسی سے تبيين
الکتابت ہے۔ بمعنی مسودہ کو صاف کر کے
لکھا اور تبييض الانية بمعنی قلعی کرنا۔
اور کہتے ہیں بيض الله وجهہ اللہ اس
کے چہرہ کو روشن کرے۔
اباحست: المرأة: سفید بچہ جننا۔
بانضة: سفیدی میں غالب ہونے پر مقابلہ
کرنا۔
ابتاض: خود پہننا القوم: فنا کر دینا۔ قوم
کے میدان میں داخل ہونا۔
ابيض و ابيض سفید ہونا۔
البياض: سفیدی۔ دودھ۔ بياض العين:
آنکھ کی سفیدی۔ بياض البيضة: اٹلے کی
سفیدی۔ بياض الجلد: بے بال چڑیا۔
بياض الوجه: شہرت و نیک نامی۔ بياض
النهار: دن کی روشنی اليوم: تمام دن
الأرض: عمارت سے خالی زمین البطر:
گردہ کی چرلی۔ اور کہتے ہیں فلان يلبس
السواد و البياض: دو سیاہ و سفید پہنتا ہے۔
اور کبھی سواد کو فساد کے لیے اور بياض کو صلاح
کے لیے مثال قرار دیتے ہیں۔
البيضة: لبیض کا واحد۔ ائرا۔ ج بيضات
اور بيض کی جمع بيوض ہے۔ خصیر۔ خود۔
بيضة القوم: چوپال۔ بيضة البلد: شہر کا
سب سے بڑا آدمی۔ گنام نب والا۔ بيضة
الدیک: مرغ کا ائرا (جو چیر ناممکن الحصول ہویا
ایک ہی مرتبہ پائی جائے اس کے لیے یہ لفظ بولا
جاتا ہے، جیسے اردو میں جھینس کا ائرا)
الحور: گرمی کی شدت الخدر: لڑکی۔
العقر: آخری اولاد۔
الابيض: مؤنث بيضاء۔ ج بيض:
سفید۔ تلوار الموت الابيض: ناگہانی
موت۔ و الخيط الابيض: کناہیہ ہے سفیدہ

صح ہے۔ البياض: نعمت و احسان۔ کہا
جاتا ہے اتينه في بياض القيط میں اس
کے پاس سخت گرمی میں آیا و كلمته فما رد
علی بياض ولا سوداء میں نے اس سے
گفتگو کی اس نے اچھا یا برا کوئی جواب نہیں دیا۔
اللحالی البياض: چاندنی راتیں۔ قمری مینے کی
تیر ہویں، چود ہویں، پندر ہویں راتیں۔
و ایام البياض: انہی راتوں کے دن۔
الابيضان: دودھ اور پانی یا دودھ اور چرلی یا
روٹی اور پانی۔ اور کہا جاتا ہے اما رائتہ مندأ
بياض میں نے اس کو دودھ مینے یا دودھ سے
نہیں دیکھا اور هذا بيض منذ الك شاذ ہے۔
قیاس اشد بياض ہے۔ البياض: چاندنی۔
گیوں۔

البياضة: بہت ائروں والی۔
البيضان: من الناس: سفید قام لوگ۔
باط (ض) بياض: لاغری کے بعد مونا ہونا۔
البيظ: چوٹی کے اٹلے۔
باع (ض) بعا و ميعا: فلانا کتابا
او من فلان کتابا۔ بیچنا۔ خریدنا۔ صفت
(باع) جمع باعاة صفت مفعول (مبيع)
بايعه مبايعه: باہم عقد بیچ کرنا۔ باہم معاہدہ
کرنا۔ کہا جاتا ہے بايعوه بالخلافة و ببيع
له بالخلافة لوگوں نے اس کی خلافت کی
بیعت کی۔
اباع: الشئ: بیچنے کے لیے پیش کرنا۔
تبايعا: باہم خرید و فروخت کرنا۔
ابتاع: الشئ: خریدنا۔
انباع: الشئ: راج ہونا۔
البيع: فروختگی۔ خرید۔
البيعة: عہد و پیمان۔
البيعة: کلیسا۔ گرجا۔ یہودیوں کا عبادت خانہ
ج بيع و بيعات و بيعات۔
البياعة: سامان فروختی۔ ج بیاعات۔
البيع و البياح: بیچنے والا۔ خریدار۔
باع يبيع بيعا و تباع الدم: جوش میں
آنا۔

البيعة: ایک قسم کی گھاس کا نام ہے۔
بيقر: تھکانا۔ ہلاک ہونا۔ سر جھکائے ہوئے
تیز چلنا۔ غیر معلوم جگہ میں جانا فی مابله:
جلہری سے تباہ و برباد کر دینا الذاز: آرتا۔
الابيقو: بے خیر و بے فیض آدمی۔
البيكار: برکار۔
البيلسان و البلسان: ایک تہم کا درخت
ہے جس سے خوشبودار تیل نکلتا ہے۔
البيمارستان و المارستان: شفاخانہ۔ اس
کے لیے عربی لفظ "مستشفى" ہے۔
بان (ض) بينا و بينونا و بينونة عنه:
جد اہونا۔
بان (ض) بينا و تبيانا و تبيانا: ظاہر
ہونا۔ واضح ہونا۔ صفت (بين و بانين) ج
اينساء و بيناء و ابيان۔
ابان: الشئ: ظاہر کرنا۔ واضح کرنا۔ کاٹنا۔
جد اکرنا الشئ: ظاہر ہونا، واضح ہونا۔ صفت
(مبين) کہا جاتا ہے "ضربہ قبايان زاسه
من جسده" اس نے اس کو مارا اور اس کے
سر کو دھڑ سے جدا کر دیا۔
بين الشئ: واضح ہونا۔ ظاہر ہونا۔
الشجر: بچہ نکلا الشئ: واضح کرنا۔
البننت: نکاح کر دینا۔
باينه: چھوڑ کر جدا ہونا۔
تبين: الشئ: واضح ہونا الشئ: واضح
کرنا۔ غور و تامل کرنا۔
تباينا: ایک دوسرے کو چھوڑنا۔ ایک
دوسرے سے دور ہونا۔ تباين الشينان:
باہم مشققات ہونا۔
استبان: الشئ: واضح ہونا الشئ: کسی چیز
کی وضاحت طلب کرنا۔
بين: درمیان (طرف ہے)
بين بين (دونوں کلمے بنی برفتحہ ہیں) بمعنی
درمیان۔ متوسط۔ اور کہا جاتا ہے بينا
أو بينما نحن نصرّب۔
البين: جدائی۔ وصل۔ کہا جاتا ہے "تقطع
بينهما" یعنی ان کے میل ملاپ میں فصل

واقع ہو گیا۔

ذات البین: نسب۔ رشتہ داری۔ دوستی۔
عداوت۔ فساد۔ کہا جاتا ہے ”سعی فی
اصلاح ذات بینہم“ یعنی ان کے اصلاح
حال میں کوشش کی۔

البین: گوشہ۔ دو زمینوں کے درمیان کا
فاصلہ۔ حد نظر تک کی زمین کا ٹکڑا۔ ج بیون
لفظ بین کے معنی ترکی زبان میں ہزار کے ہیں۔
بین پاشی کے معنی ہزار کا سردار۔

البیانو: ہاتھی دانت سے بنایا آلہ موسیقی جو ایک
صندوق کی طرز کا ہوتا ہے اور اس میں تاریخیں لگی
ہوتی ہیں گانے والا تاروں پر انگلیاں لگاتا ہے تو
اس سے مقصود آواز نکلتی ہے۔

البیان: سن۔ فصیح گفتگو جو مافی الضمیر کو ظاہر
کرے۔

البائیة۔ البائن کا مؤنث۔ دلہن کا جہیز

(مولدۃ)

البائیة۔ سہرا کنواں۔

البیئة: البین کا مؤنث۔ دلیل و حجت ج
بیئات۔

بَاہَ یَیَّاهَ بَیَّہَا۔ لہ: مطیع ہونا، واقف ہونا،

جاننا۔

یُّبَاکُ اللہُ۔ بمعنی یُوَاکُ اللہُ۔ خدام کو

مالک بنائے، تمہارے رتبہ کو بلند کرے۔ اور

کہا جاتا ہے ”ہی بن ہی“ یا ”ہیان، بیان“


یعنی وہ مجھ پر انب ہے، نہ وہ معلوم ہے نہ اس

کا باپ ”وَلَسْتُ اَدْرِیْ اٰیُّ ہٰی بنِیِّ

ہو“ میں نہیں جانتا وہ کون آدمی ہے۔

الْبُوْرُوْرْدِی: بادشاہ وزیریاں دونوں کا مشور۔

(ترکی)



التاقية: غصّة کی تیزی۔ اور بُرائی کی طرف تیز ترقی۔

اتّأمت. المرأة: جوڑواں جننا۔ صفت (متّئم) اور اگر یہی عادت ہو تو ایسی عورت کو (متّئم) کہتے ہیں۔ ج متّئم۔

تأعم. احاء: جوڑواں پیدا ہونا۔ صفت (تئم) وتؤم وتئيم) الثوب: تانا بانادونوں میں دو سوئی بنا۔ صفت مفعولی (متّام)

التوأم: جوڑواں۔ ج توأم وتوأم. مؤنث توامة: کہا جاتا ہے ”هذا توأم هذا وهذه توامة هذه“ اور جب دونوں جمع ہوں تو ان کو توأمان وتوأم کہتے ہیں جیسے زوجان وزوج. التوأم: جوئے کے تیروں میں سے ایک تیر۔ توأم النجوم أو اللؤلؤ: ستارے یا موتی جو آپس میں گتے ہوئے ہوں۔

تَبَّ (ن) تَبَّ. الشئ: کانفلانا: ہلاک کرنا۔

تَبَّ وَتَبَّ وَتَبَّابًا وَتَبَّيْنَا: ہلاک کرنا۔ اور کہا جاتا ہے ”تَبَّأ لهُ“ یعنی اللہ اس کے لیے خیران و ہلاکت لازم کرے۔ ”وَجَبَّ يَدَاهُ“ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔

تَبَّب. فلانا: کسی سے تباک کہنا۔ ہلاک کرنا۔

أَتَبَّ: کمزور وضعیف کرنا۔ استتب. الأمر: درست ہونا۔ درست طریقے سے جاری رہنا۔ الرجُل: کمزور و عاجز ہونا۔ الطریق: چلنا ہونا۔

تنبیہ“ بھی داخل ہوتا ہے جیسے ہاتا، ہاتان و ہولاء۔

خطاب کی حالت میں کاف لاحق کرتے ہیں۔ جیسے تانک وتانک و تیک وتیک (تلك) میں تاء کا فقر لغت رویہ ہے) ثنی کے لیے تانک وتانک اور جمع کے لیے اولنک و اولاک و اولالک: اور تنک کے علاوہ ان سب پر ان سارے احوال میں ہاء تنبیہ بھی داخل ہے۔

التأبوت: کلزی کا صندوق۔ اور اسی سے تابوت میت ہے۔ کشتی۔ ج توأبیت۔

تَأْتَا تَأْتَا وَ تَأْتَاءُ: بولتے ہوئی تلتانا۔ صفت تاتاء المطفل: چانالمحارب: لڑائی میں اظہار شجاعت کے لیے اڑتے ہوئے چلنا۔

تَارَةٌ (ف) تَارًا: چہرنا۔ آثار آثارًا: دیکھنا۔ کملگی لگانا بالعصاء: لاٹھی سے مارنا۔

التارة: ایک مرتبہ۔ ہمزہ کا ترک کثرت استعمال کی وجہ سے ہے۔ کہا جاتا ہے۔ ”فعلت تارة هذا وتارة ذاك“ و ”تارة بعد تارة“ ج تارات وتیر وتیر

تَارًا (ف) تَارًا. الجرح: زخم کا بھرنا۔ مندمل ہونا القوم فی الحرب: لڑائی میں ایک دوسرے سے قریب ہونا۔

تَتَّق (س) تَأْفًا. الأناة: برتن کا بھرنا۔ الرجُل: غصّہ سے بھرنا۔ صفت (تقق) ومتّاق

اتّاق. الأناة: برتن بھرنا۔

النساء: حروف مابئی کا تیرا حرف (مؤنث) ج تاءات: نسبت کے لیے ثانی وتاوی و تَبَّوئ: کہا جاتا ہے ”قَصِيْدَةٌ ثَابِيَةٌ وَ تَابِيَةٌ وَ تَبَّوئ“ اس کا استعمال کئی طرح سے ہوتا ہے۔ فعل کے آخر میں متکلم اور مخاطب کی ضمیر ہو کر جیسے فَمَنْتَ وَفَمَنْتَ وَفَمَنْتَ وَفَمَنْتَ وَفَمَنْتَ اور کبھی تانبیک کی علامت جیسے قَائِمَةٌ وَذَهَبَتْ اور کبھی جنس میں سے واحد پر دلالت کے لیے جیسے شجرة۔

اور کبھی مبالغہ کے لیے جیسے فِهَامَةٌ عَلَامَةٌ اور کبھی یہ حرف جر ہوتا ہے اور حم کے لیے آتا ہے اور لفظ اللہ کو جردیتا ہے۔ جیسے نالله۔

اور کبھی کبھی اس لفظ کے علاوہ دوسرے کو بھی جردیتا ہے جیسے تریبی۔

اور کبھی صیغہ ثننی الجموع کے آخر میں نسبت پر دلالت کے لیے جیسے مبالغہ۔

اور کبھی حرف محذوف کے بدلہ میں جیسے زَنَادِقَهُ زَنَادِقِ كَيْ جَع۔

اور افعال کے اوائل اور وسط میں بھی زیادہ کیا جاتا ہے جیسے تَفَاتَلٌ وَافْتَسَلٌ اور کبھی اسماء کے آخر میں جیسے ملکوت کی تاء۔

اور کبھی اول کلمہ کے حرف محذوف کے بدلہ میں جیسے عظة۔ اور کبھی آخر کلمہ سے جیسے شفة۔ تا۔ مؤنث مفرد کے لیے اسم اشارہ ہے۔ اس کا مشنی تان۔ ج اولاء اور اس پر ”ہاء“

تَبَلٌ وَتَابِلٌ وَتَوْبَلٌ الطَّعَامُ: مسالہ ڈالنا۔
التَّبَلُ: سر کینہ۔ دشمنی۔ کہا جاتا ہے
”بینہما تَبَلٌ“ ان دونوں کے درمیان
عداوت ہے ج تَابِلٌ وَتَوْبَلٌ۔
التَّابِلُ وَالتَّابِلُ وَالتَّابِلُ: مسالہ۔
التَّبَالُ: مسالہ والا۔ مسالہ پیچنے والا۔
التَّوْبَلُ: مِنَ التَّحَامِسِ وَالتَّحَدِيدِ: زورات
جو کوٹے میں گریں۔
تَبِنٌ (ض) تَبِنًا: الذَّابَّةُ: بھوسہ کا چارہ
دینا۔
تَبِنٌ (س) تَبِنًا وَتَبَانَةً: سمجھ دار و ذکی ہونا۔
صفت (تَبِنٌ)
تَبِنٌ: بھوسے کے ذخیرہ میں بھوسہ رکھنا۔
الرَّحِمُ: باریک بین ہونا۔
التَّبِنُ: جانگھیا پہننا۔ لنگوٹ باندھنا۔
التَّبِنُ: بھوسہ واحد (تَبِنَةٌ) ج اتبانا و
تَبُونٌ: بڑا پیالہ۔
التَّبِينُ: بھوسہ کے رنگ کا۔
التَّبَانُ: بھوسہ پیچنے والا۔
التَّبَانُ: لنگوٹ۔ جانگھیا۔ نیکر۔
تَبَانٌ (ض) تَبَانًا: غزوہ کرنا اور مال غنیمت
حاصل کرنا۔
التَّبَرُ: قوم تاتار۔ واحد (تَبْرٌ) کہا جاتا ہے
”جاء القوم تَبْرٌ وَتَبْرٌ“ لوگ پہ
در پہ آئے اس کی اصل وَتَبْرٌ ہے۔
التَّبَسُّ: تمباکو (یہ لفظ ترکی الاصل ہے اس کے
معنی دھوئیل کے ہیں)۔
تَبْرٌ (ن) تَبْرًا وَتَبْرًا: تاجروں و تاجروں
و تَبْرًا وَتَبْرًا: سوداگری کرنا۔
التَّبْرَةُ: سوداگری۔ سرمایہ۔
التَّبَارُ: سوداگری۔ حرب شراب پیچنے والے کو
تاجر کہا کرتے تھے۔ ج تَبْرًا وَتَبْرًا وَتَبْرًا
اور کہا جاتا ہے ”صناعة تاجرة“ رائج
سامان۔ ج تَبْرًا
المَصْرُ: سوداگری۔ سرمایہ۔ اور اسی سے
”صناعة تاجرة“ ہے
المَصْرُ: سوداگری۔ سرمایہ۔ اور اسی سے
”صناعة تاجرة“ ہے

جاتا ہے ”تَبِعَتْ احوالہ“ میں اس کے
احوال کو ٹوٹا رہا۔
تَبَاعَتٌ: الأَخْيَارُ: نیک دوسرے کے پیچھے
آنا۔
اِسْتَبْعَهُ: پیچھے چلنے کو کہنا۔
التَّابِعُ: جن مذكر التابعین مؤنث۔
التَّبِيعُ: تابع عاشق۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ تَبِيعُ
الكَرْمِ“ وہ فیاض کا عاشق ہے۔
التَّبِيعُ: بہت تابعداری کرنے والا۔
التَّبِيعَةُ: ج تبعات و (التَّبَاعَةُ) ج
تَبَاعَاتٌ: تاوان۔ ڈانڈ۔ کہا جاتا ہے ”الْهَذَا
الْفِعْلُ تَبِيعَةٌ“ یعنی اس فعل سے ضرر لاحق
ہونے والا ہے۔
تَبِيعٌ: عین کے بادشاہوں کا لقب۔ ج
التَّبَاعَةُ وَالتَّبِيعُ: سایہ۔ شہد کی پوی گھسی ج
تَبَاعِيعٌ۔
التَّبِيعُ: مددگار۔ پیروی کرنے والا۔ ج تَبَاعِيعٌ
وَ تَبَاعِيعٌ۔
التَّبَاعِيَةُ: تابع کا مؤنث۔ نوکرانی۔ خادمہ۔
جیدہ۔
التَّبَاعِيُّ: تابع اور تابو کی جانب نسبت۔ وہ
شخص جس نے بحالت ایمان صحابہ کرام کی
زیارت کی ہو اور حالت ایمان ہی پر انتقال ہوا
ہو۔
التَّبَاعُ: تابع کا مصدر۔ اور کبھی صفت کے
طور پر استعمال کیا جاتا ہے جیسے ”شَهِدْنَا هُنَّ
أَيَّامًا تَبَاعًا“
الِاتِّبَاعُ: سر کسی ایسے کلمہ کا لانا جو ماقبل کے
کلمہ کے ہم وزن ہو۔ جیسے کثیر بئیر۔ غیبث
نبیث۔
التَّبِيعُ: تمباکو۔
التَّبِيعَةُ: بیٹکن کی قسم سے تلف رنگوں کے
پھولوں والا پودا جو کہ زینت کے لئے استعمال
ہوتا ہے۔
تَبَلَةٌ (ن) تَبَلًا وَتَبَلًا: الخُبُّ أَوْ
الدَّهْرُ: بہار کر دینا۔ عقل کو ضائع کر دینا۔
صفت مفعولی (مَتَبُولٌ وَ تَبِيلٌ) ہے۔

التَّبَابُ: کمی۔ نقصان۔ ہلاکت۔
التَّبِيَةُ: سخت حالت۔ التَّبَابُ: بوڑھا اور
کمزور مرد۔ کہا جاتا ہے ”كُنْتُ شَابًا فَصُرْتُ
تَابًا“ میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہو گیا۔ ج
اَتَّبَابٌ۔
تَبَّتْ: الرَّجُلُ: بوڑھا ہونا۔
تَبْرٌ (س) تَبْرًا: ہلاک ہونا۔
تَبْرٌ (ض) تَبْرًا: ہلاک کرنا۔ توڑنا۔
اَتَّبَرٌ: عَنِ الْأَمْرِ: پیچھے ہٹنا باہر ہونا۔
تَبْرَةٌ: ہلاک کرنا۔
التَّابُورُ: فوجی جماعت۔ ج تَوَابِيرٌ۔
التَّبَارُ: ہلاکت۔
التَّبِيرُ: سونے کا بغیر ڈھلا ہوا ڈھیلا۔ واحد
تَبِيرَةٌ۔
التَّبِيرِيَّةُ: سر کی بھوسی (ھیریہ میں ایک
لغت ہے)
الْمَتَّبِيرُ: ہلاکت شدہ۔ ناقص۔
تَبَعًا (س) تَبَعًا وَتَبَاعًا وَتَبَاعَةً وَاتَّبَعَهُ:
پیچھے چلنا۔ ساتھ چلنا۔ فرمانبردار ہونا۔ صفت
(تَبِعٌ) واحد اور جمع دونوں کے لیے آتا ہے۔
ج اتبَاعٌ وَ (تابع) ج تَبِعٌ وَتَبِعَةٌ وَتَوَاعِيعٌ
وَ تَبَاعٌ وَ تَبَاعٌ: التابع نوکر۔ خادم۔ جن۔ تَبِعٌ
وَ اتَّبَعُ الشَّيْءُ: پیروی کرنا۔ نشان قدم پر
چلنا۔
تَبِعَهُ: پیروی کرنا۔ تَبِعَ بِهِ كَذَا: لاحق کرنا
تابع: بَيْنَ الْأَعْمَالِ: لگاتار کرنا۔
التَّحْدِيثُ: بعضی طرح بیان کرنا العمل:
محکم کرنا۔ مضبوط کرنا فَلَانًا عَلَى الْأَمْرِ:
موافقت کرنا۔ کہا جاتا ہے ”تَابِعْنِي بِمَالِهِ
عِنْدِي“ یعنی اس کا جو کچھ میرے پاس تھا اس کا
اس نے مجھ سے مطالبہ کیا۔
اتَّبَعَهُ: پیروی کرنا۔ لاحق ہونا۔ اتَّبَعَهُ كَذَا:
لاحق کرنا۔
التَّبَاعُ (ع ج) تناسب رات ایک مقدار کے
زائد ہونے سے دوسری مقدار زائد ہو جائے
اور اس کے کم ہونے سے دوسری کم ہو جائے۔
تَبِعَ: الْأَمْرُ: دیر تک تلاش و جستجو کرنا۔ کہا

منجورة" تجارتی ملک۔
تحت: نیچے۔ اس لفظ کے لیے اضافت لازم ہے اور جب اضافت سے علمدہ کرتے ہیں تو مٹی پر ضمہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں "جاء من تحت" ج تحتوت۔
التحتوت: کہنے۔ اونٹی درجہ کے لوگ۔
التحتانی: تحت کی جانب منسوب۔ نیچے کی چیز۔
تحتحة: من مکانہ: حرکت دینا۔ کہا جاتا ہے "فلان لا یتحتج من مکانہ" فلاں جگہ سے حرکت نہیں کرتا۔
التحتحة: حرکت۔ تسمہ کی حرکت کی آواز۔
اتحفہ: الشیء وبالشیء و (اتحفہ) بد: بدیہ کرنا۔ تحفہ دینا۔
التحفہ والتحفہ: بدیہ۔ نفس قیمتی چیز۔ ہر وہ چیز جو کسی کے سامنے لطف و مہربانی کے طور پر پیش کی جائے۔ ج تحفہ۔
تخم (ن) تخمًا: القوب: نقش و نگار کرنا۔
اتخم اتخمًا: سخت سیاہ ہونا۔
التاجم: جولاہ۔
الاتخم: سخت سیاہ۔
التاجی: باغبان۔
تخ (ن) تخوخة العجین: گندھے ہوئے آٹے کا ترش ہونا (تخما) العجین او الطین: گندھے آٹے یا مٹی کو نرم ہونے کے لیے پانی بڑھانا۔
اتخ العجین: کھٹا کرنا۔ نرم ہونے کے لیے زیادہ پانی ڈالنا۔
التخ: کھٹا خیر۔ تل کا عصارہ۔
التخت: تحت۔ تخت۔ تخت الملک: تخت شاہی۔ تخت المملكة: دار السلطنت۔
جامد دان۔ تختوت۔
التختحة: کنت۔ ہکلا پن۔
التختاخ والتختانی: ہکلا۔
تخذہ (س) اتخذًا: لیتا۔

تخمہ (ض) تخمًا: حد مقرر کرنا۔
تخم (س) تخمًا واتخم: بد ہضمی ہونا۔
اتخمہ: الطعام: بتلائے بد ہضمی کرنا۔
تاعخم: ملکی ملکک: سرحدیں متصل ہونا۔
التخم والتخم: سرحد۔ ج تخوم۔
السدراج والسدراج: ایک خوبصورت پرندہ جس کی دم لمبی ہوتی ہے۔ ج تدارج۔
توز (ن) ض) تزًا و تزورًا: العظم: کٹ کر کرنا عن قویہ: الگ ہونا۔ دور ہونا۔ (توزارة) الرجل: موٹا اور ڈھیلا ہونا۔ صفت (تاز)۔
اتوزہ: دور کرنا۔ اتزیدہ: ہاتھ کاٹ دینا۔
التوز: اصل۔ جز۔ مہار کی ذوری۔
التوزی: من الأیدی: کٹا ہوا ہاتھ۔
توزب (س) توزبًا: المکان: بہت مٹی والا ہونا۔ الشیء: مٹی لگ جانا۔
توزب (س) توزبًا و متوزبًا: الرجل: محتاج ہونا۔ صفت (توزب و تزوب) ج تزواب: اور اسی سے ہے "توزب بعد ان اتوزب" وہ مالدار ہونے کے بعد محتاج ہو گیا۔
توزب و اتوزب: مالدار ہونا۔ کم مال والا ہونا۔
توزب و اتوزب الشیء: خاک ڈالنا۔
تاریہ: ہمعصر ہونا۔ دوست ہونا۔
تتوزب مٹی ہونا: خاک آلود ہونا۔
التوزاب: مٹی۔ ج تزوبہ و تزبان۔
التوزاب: بکری کا دست۔
التوزب: ہم عمر۔ اکثر اس کا استعمال عورتوں کے لیے ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے "ہذہ تزب فلانة" یہ عورت فلانی کی ہم عمر ہے۔
التوزباء: مٹی۔ زمین۔ کہتے ہیں "بینہما ما بین الحزباء والتزباء" ان دونوں کے درمیان آسمان زمین جیسا فرق ہے۔
التوزبة: مٹی۔ قبرستان۔ ج تزوب۔ تزوبہ۔
الانسان: انسان کی قبر۔
التوزب: فقیر۔ ریح تزوبہ" خاک اڑانے والی ہوا۔ "لحم تزب": خاک آلود گوشت۔

"مکان تزب" بہت مٹی والی جگہ۔

التزبنة: ج تزب: ایک قسم کی گھاس ج تزبات: انگلیوں کے کنارے۔ سرانگشت۔

التزبنة: سینہ کی بڑی۔ سینہ کا بالائی حصہ۔
تزبنة البعیر: اونٹ کے نحر کرنے کی جگہ۔

ج تزائب۔

المتزبنة: فقر وفاقہ۔ کہا جاتا ہے "منسکین ذو متزبنة" یعنی خاک آلود مسکین۔

توزر تززرة: جلدی جلدی بولنا اور بہت بولنا۔ گفتگو میں نرم ہونا۔ دن کے لحاظ سے ڈھیلا ہونا۔ الشیء: خوب ہلانا۔

تتوزر: ہل جانا۔

الترزیر: سختیاں۔

توزج (س) توزجا: الرجل دشوار پانا،

مشکل و مشتبہ پانا۔

توزج (ن) توزجا: چھینا۔ پوشیدہ ہونا۔

التزبج: مضبوط پھول والا۔ مؤنث تزبجة:

اور کہا جاتا ہے "ریح تزبجة" تیز ہوا۔

توزجم: الکلام: ترجمہ کرنا۔ صفت

(توزجمان و تزجمان) ج تزاجمة

وتزاجم: الرجل: عادات و اخلاق و بیان

کرنا۔ عنہ: کسی کے معاملہ کو واضح کرنا۔ کہا

جاتا ہے "توزجمہ بالتزکبة" اس نے ترکی

زبان میں ترجمہ کیا۔

توزجم: الکلام: مشتبہ ہونا۔

التزجمة: ترجمہ۔ سواخ عمری۔ ج تزواجم

و تزجمة الكتاب: کتاب کا دیباچہ۔

توزح (ف) توزحًا و تزوح: غمگین کرنا۔

توزحہ و اتزوحہ: غمگین کرنا۔

التزوح: غم محتاجی۔ فقیری۔ ج تزواح۔

التزوح: کم خیر والا۔ ہم نوا۔

المتزوح: من التوق: اونٹنی جس کا دودھ

جلدی سے ختم ہو جائے۔ ج متزویح۔

توزز (ض) و توزز (س) توززًا و توززًا

و توززًا: الشیء: خشک ہونا۔ مضبوط ہونا۔

سخت ہونا۔ الماء: پانی کا جم جانا۔

توززہ (ض) توززًا: پچھڑنا۔

أَثْرَزَ: الشَّيْءُ: سَخَتْ كَرْتًا: خَشَكَ كَرْتًا: كَمَا جَاءَا
 فِي "الْحَزْمِيُّ يُتْرَزُ لَحْمَ الدَّابَّةِ" دُوْر جَانُوْر
 كَيْ مَوْشُ كُو سَخَتْ كَرُوْتِي هِي۔

التَّارِزُ: سَخَتْ وَقُوِي: اُوْر اَسِي سِي هِي "اِنَّ
 عَجِيْنَكُم لَتَارِزٌ" تَهَارَا خَمِيْر سَخَتْ هِي۔
 خَشَكَ حِيْرُ جَس مِيں رُوْحُ نِه هُو۔ مَرُوْد۔

التَّرَازُ: اِهْاِك مَوْت۔

تَرَسَةٌ: وُضْعَالُ پَهْنَانَا يَدِيَا۔ (تَرَسٌ: وُضْعَالُ
 لَگَانَا يَ وُضْعَالُ سِي اِسِي اُپْ كُو چَهْپَانَا مَعْت
 (تَارِسُ) كَمَا جَاءَا فِي "لَا يَسْتَوِي الرَّاجِلُ
 وَالْفَارِسُ وَالْاَكْشَفُ وَالنَّارِسُ" پِيْرل
 اُوْر سُوْر اُوْر بِي وُضْعَالُ وَا اُوْر وُضْعَالُ وَا اُوْر اُوْر
 نَهِيں۔

أَثْرَسَ الْبَابُ: دُرُوَا هِيْدُ كَرْتَا۔

اَثْرَسَ: بِالْتَرَسِ اَوْ غَيْرِهِ: وُضْعَالُ وَغَيْرِهِ
 سِي اِيْمِي حَفَاطَتُ كَرْتَا۔

التَّرَسُ: وُضْعَالُ۔ جَ اَثْرَاسُ وَتَوَاسُ
 وَتَوَرَسُ وَتَرَسَةٌ: تَرَسُ الشَّمْسِ:
 اَقْتَابُ كِي كَلِيَا۔ كَمَا جَاءَا فِي "غَابَ تَرَسُ
 الشَّمْسِ"

المُتَرَسُ وَالْمُتَرَسَةُ: جَ مَتَارِسُ وَ
 (المُتَرَسُ) جَ مَتَارِسُ: دُرُوَا اِي كِي
 پِيچِي لَگَانِي كَا وُضْعَالُ دِيُوَارُ وَغَيْرِهِ جَس كِي پِيچِي
 چَهْپِي كَرُوْمَن سِي پِيچِي۔

التَّرَاسُ: وُضْعَالُ بَنَانِي وَا وُضْعَالُ وَا۔

التَّرَاسَةُ: وُضْعَالُ سَازِي۔

التَّرَسَانَةُ وَالتَّرَسَخَانَةُ: اَلْحِجْرُ خَانِدُ۔ جِهَازُ
 سَازِي كَا كَارِخَانِدُ۔

تَرِشٌ (س) تَرِشًا: بِدُ غَلَقُ هُوَا۔ مَعْت
 (تَرِشُ)

تَرِصٌ (ك) تَرِصَةً: الشَّيْءُ: سِيْرَحَا
 هُوَا۔ مَضْبُوْبُ هُوَا۔ مَعْت (تَرِصُ)

تَرِصٌ وَاتْرِصٌ: الْجِيْزَانُ: سِيْرَحَا كَرْتَا۔
 مَعْت مَعْبُوِي (تَرِصُ وَ مَتْرِصُ): كَمَا جَاءَا
 فِي "اَثْرِصُ مِيْزَانِكُ فَاِنَّهُ شَائِلٌ" اِيْمِي
 تَرَا وُورِ سَتُ كَرُوَا سِي لِي كِي وَهُ اَعْمِي هُوِي هِي۔
 الْمُتَرِصَاتُ: سِيْرَحِي كِي هُوِي نِيْرِي۔

تَرِيعٌ (ع) تَرِيعًا: بِرَائِي كِي طَرَفُ سَبِقَتُ
 كَرْتَا۔ مَعْت (تَرِيعُ وَ تَرِيعُ) الْكُوْرُ وَ
 الْحَوْضُ: مَهْرُ جَانِدُ۔ مَعْت (تَرِيعُ)

تَرِيعَةٌ (ف) تَرِيعًا: عَنِ الْأَمْرِ: كَسِي كَامُ
 سِي پِيْرِنَا۔ بَارُ كَهْنَا۔

تَرِيعٌ: الْبَابُ: دُرُوَا هِيْدُ كَرْتَا۔

اَتْرِيعٌ: الْإِنَاءُ: بِرَتْنُ مَهْرِنَا۔

تَتْرِيعٌ: إِلَيْهِ بِالْبَشَرِ: كَسِي كُو جَلْدِي سِي بِرَائِي
 پِيچَانَا۔

اِتْرِيعٌ: الْإِنَاءُ: بِرَتْنُ كَا مَهْرِنَا۔

التَّرِيعَةُ: دُرُوَا هِي۔ كَمَا جَاءَا فِي "فَتَحَ تَرِيعَةُ
 الدَّارِ" اِس نِي گَهْرُ كَا دُرُوَا هِي كُهُوَا۔ بَاغُ كِي
 طَرَفُ جَانِي وَا لِي نَالِي۔ سِيْرُ مِي كَا پَايِي۔ مَنِيْرُ كِي
 دَرَجِي۔ حَوْضُ كَا دِهَانِدُ۔ دُو دِيُوَاؤُنُ يَا دُو

سَمْنَدَرُوْنُ كِي دَر مِيَا نِ مَهْرِي نِه۔ جَ تَرِيعُ
 التَّرِيعُ: دَر بَانُ (وَا اَتْرِيعُ) مِنْ السَّبِيلِ:

وَهِي سِيْلَابُ جُو دُوِي كُو مَهْر دِي۔

تَرِيفٌ (س) تَرِيفًا وَ تَتَرِيفٌ: خُوْشْعَالُ هُوَا۔
 اَسَاسُ سِي زَنْدُگِي سَرُ كَرْتَا۔ مَعْت (تَرِيفُ
 وَ تَرِيفَتُ)

تَرِيفَةٌ وَ اَتَرِيفَةٌ: الْمَالُ: سَرُ كَشُ بِنَا دِيَا۔
 خَرَابُ كَر دِيَا۔ اَتَرِيفُ الرَّجُلُ: سَرُ كَشِي

وَبِعَادَتُ بِرَا صِرَارُ كَرْتَا۔

اِسْتَرِيفٌ: سَرُ كَشِي كَرْتَا۔ تَكْبِيْرُ كَرْتَا۔

التَّرِيفَةُ: نَعْمَتُ وَ اَسَاسُ۔ خُوْشُ وَا نَقْدُ كَهَا نَا۔
 پِيْدَا اِنُشِي طُوْرُ پَر اُوْر كِي هُوْنَتُ كِي دَر مِيَا نِ
 اِهْمَارُ۔

الْاَتَرِيفَةُ: وَهُ فِخْصُ جَس كِي اُوْر كِي هُوْنَتُ
 مِيں پِيْدَا اِنُشِي كِي اِهْمَارُ اِهُوَا۔

الْمَتَرِيفُ وَ الْمُتَرِيفُ: خَالِمٌ۔ خُوْشُ حَالُ
 نَعْمَتُ مِيں پِلَا هُوَا۔ وَهُ فِخْصُ جُو بِطُوْرُ خُوْدُ جُو چَا پِي

كَرِي اُوْر كُوِي رُو كِنِي وَا لَانِه هُوَا۔

التَّرِيفَاسُ: زَمِيْنُ كِي اِنْدَرُ پِيْدَا هُوْنِي وَا لِي
 اِعْمُوْرِي جُو كِي سَانِپُ كِي هُوِي هِي اُوْر لَنْدِيْ
 كَهَا نَا سَهْمَاتَا هِي عَامُ طُوْرُ پَر جَنْگَلُ مِيں پِيْدَا هُوِي

هِي۔

التَّرِيفَةُ: بِهَلِي كِي بَدِي۔ جَ "التَّرَاقِي وَ

التَّرَاقِي" كَمَا جَاءَا فِي "تَرِيفَةُ تَرِيفَةٌ" بِيْعِنُ
 اِس نِي اِس كِي بِهَلِي كِي بَدِي پَر بَارَا۔ "وَبَلَّغَتْ
 زُوْحُهُ التَّرَاقِي" وَ قَرِيْبُ السُّوْتُ هُوَا۔

تَرِكَةٌ (ض) تَرِكًا وَ تَرِكَانًا وَ اِتْرِكَةٌ:
 چَهُوْرْتَا۔

تَارِكَةٌ مَنَارِكَةٌ وَ تِرَاكًا: چَهُوْرْتَا الرَّجُلُ:
 مَصَالِحَتُ كَرْتَا۔

تَنَارِكُوا: الْأَمْرُ بَيْنَهُمْ: چَهُوْرْتَا۔

التَّرِكَةُ وَ التَّرِيكَةُ: شَتْرُ مَرِغُ كَا چَهُوْرْتَا هُوَا
 اِنْدَرُ اِنْدِي كَا خُوْلُ جَس مِيں سِي سِي نِچِي نِچِي كِچَا

هُوَا۔ خُوْدُ۔ وَهُ عَوْرَتُ جَس سِي كُوِي شَادِي نِه
 كَرِي۔

التَّرِكَةُ وَ التَّرِيكَةُ: چَهُوْرْتَا هُوِي چِيْرُ اُوْر اِسِي
 سِي "تَرِكَةً كَالْمِيْتِ"

التَّرِيكُ: چَهُوْرْتَا هُوَا مِنْ الْكِرْمِ اَوْ التَّغْلِي:
 خُوْشِي يَا نِچِيَا۔ جَس مِيں سِي كَهَا كَر تَهُوْرَا چَهُوْرْتَا دِيَا

گِيَا هُوَا۔

التَّرَاكُ: بَهْتُ چَهُوْرْتَا وَا لَانِه۔

نَزَمٌ: بِنِجَلِي اِبْدِ مَن سِي مِچْنِي وَا لِي رِيْلُ كَا زِي۔

تَرَمَسٌ: جِنِگُ سِي غَايِبُ رَهْنَا۔

تَرَمَسَتُ الدَّابَّةُ: جَانُوْرُ كِي جِزِي كِي
 اِنْدَرُوِي حِصَّةُ مِيں تَرَمَسُ كِي مَشَابِهُ پَنْحِيَا نِ

نِكَلَانَا۔

التَّرَمَسُ: اِيكُ قِصْمُ كَاغَلَتُ جُو كَرُوَا هُوَا تَا بِي اُوْر
 چِنْدُو نِ پَانِي مِيں مِجْگُوْرُ اِسْتِعَالُ كِيَا جَاتَا هِي۔

التَّرَمُوسُ: قَهْرُ مَوْسُ (فَارِسِي لَفْظُ)

التَّرَمُومِيْتَرُ: قَهْرُ مِيْمِيْرُ (بِنِجَارُ پِيكُ كَرْنِي كَا اَلِدُ)
 التَّرَمِيْنُجُ: لِيْمُو۔ لِيُو كَا دَرِخْتُ۔

التَّرَمِيْنَجَانُ: خُوْشِيُو دَارُ مِچْنَلُ جَس كَا خُوْشِيُو دَارُ
 شَرِبَتُ اِسْتِعَالُ هُوَا تَا بِي۔

التَّرَانِيْبُ: كَسِي شِيْرُ اِيْلِكُ سِي سَامَانُ تِجَارَتُ
 گَزَارَنِي پَر جُوَا جَاهَزَاتُ نَامِه فَرِي دِيَا جَاتَا هِي۔

تَرَهَةٌ (س) تَرَهًا: بِطَلُ چِيْرُو نِ مِيں پَنْحِنَا۔
 التَّرَهَةُ: بِطَلُ۔ مَصِيْبَتُ۔ جَ تَرَهَاتُ

التَّرَهَاتُ: چَهُوْرْتَا رَا سِي۔

التَّرَهُ: بِطَلُ۔ جَ تَرَا دِيْنِه۔

تَرِي (ض) تَرِيًا: فِي الْأَمْرِ: دِيْرُ كَرْتَا۔

الترياق: اجدواف زهر هو (والترياقة): شراب۔

تَسَع (ف ض) تَسَعًا. القوم: نواں ہونا۔ اپنے کو ملا کر نواں بنا دینا۔ قوم کے مال کا نواں حصہ لینا۔ نواں حصہ لینا۔

اتسَع. القوم ہونا۔ التسعة: (نو ۹)۔ مؤنث۔ تسع ۹ کہا جاتا ہے تسعة رجال وتسع نساءً وتسعة عشر رجلاً وتسع عشرة امرأة۔ ج تسعات۔

التسع والتسيع: نواں حصہ۔ تسع کی جمع اتساع۔

تَسْعُونَ: نوے (۹۰)۔ التسع: مہینہ کی ساتویں آٹھویں نویں راتیں۔

تَسَاع: نونو: کہا جاتا ہے ”جاء القوم تَسَاع“ قوم کے لوگ۔ نونو آئے (یہ غیر منصرف ہے)۔

التساعي: نودالا۔ التَسَاعِيَّة: عيساويں کی نماز جو نونو کی ادا کی جاتی ہے مقررہ عیدوں سے پہلے۔

التسوعاء: مہینہ کا نواں دن حبل (مسنوع) نولای کی بیٹی ہوئی رتھی۔

تَشْرِينِ الْأَوَّلِ: ماہ اکتوبر (ترکی مہینے کا نام) تَشْرِينِ الثَّانِي: ماہ نومبر۔ ج تَشَارِينِ: تشارین کو فصل خریف پر دلالت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

التَّشَارِينِ: موسم خزاں پر آگاہی کے لئے جو کلمہ استعمال کیا جاتا ہے۔

عام لوگوں کے نزدیک اس کا معنی توت کے پتے جو کہ جانوروں کو ان دو ماہ (ستمبر اکتوبر) میں کھلائے جاتے ہیں۔

تَع (ن) تَعَةً وَتَعًا: وحیلا ہونا۔ تے کرنا۔ تَعِب (س) تَعِبًا: مشقت میں پڑنا۔ تھکانا۔ صفت تَعِب۔

اتعبه: تھکانا اتعب الاناء: بھرنے القوم تھکے ہوئے جانوروں والے ہونا۔

التَّعَبُ: مشقت۔ تھکن۔ ج اتعاب۔

التَّعَبُ وَالتَّعْبَةُ: تھکن۔ تھکانا۔ تھکن کی جگہ۔ باعث تھکن۔ کہا جاتا ہے ”استخراج المعنى متعباً للخواطر“

معہ کا حل کرنا طبیعت کی تھکن کا باعث ہوتا ہے۔ ج متاعب۔ تَعْتَعَةً: جھنجھٹا۔ حرکت دینا۔ تَعْتَعُ فِي الْكَلَامِ: بھگانا۔

التَّعَالُجُ: خوفناک جھوٹی خبریں۔ تَعَس (ف) وَتَعِس (س) تَعَسًا وَتَعَسًا: ہلاک ہونا۔ پھسلنا اور منہ کے گل کرنا۔ صفت (تَعَس وَتَاعَس وَتَعِيسُ)

تَعَسَهُ وَاتَّعَسَهُ اللہ: بد نصیب بنانا۔ ہلاک کرنا۔ کہا جاتا ہے ”تَعَسَالُهُ“ یعنی اللہ اس کو ہلاک کرے۔

التعيس: س ہلاکت۔ بدی۔ تزل۔ التَّعِيسَةُ: سختی سے گرنا۔

التَّعِيسَةُ: سب ہلاکت۔ کہا جاتا ہے ”هَذَا الْأَمْرُ مَنْحَسَةٌ مَتَّعَسَةٌ“ یہ معاملہ باعث نحوست و ہلاکت ہے۔

تَعِص (س) تَعِصًا: زیادہ چلنے سے پھوں میں درد ہونا۔ تَعِب (س) تَعِبًا: ہلاک ہونا۔

اتَّعَبَهُ: ہلاک کرنا۔ التَّعَبُ: ہلاکت۔ میل کچیل۔ بھوک۔ عیب وفساد۔

التَّعَبُ وَالتَّعْبَةُ: گناہ۔ قبیح۔ کہا جاتا ہے ”مَا فِيهِ تَعْبَةٌ“ یعنی اس میں کوئی ایسا عیب نہیں جس کی وجہ سے اس کی شہادت رد کی جائے۔

تَعَوْتُ (ف) تَعَوًّا وَتَعَوًّا. السَّحَابَةُ: پانی بہہ پڑنا۔ تَعَوُّ الْعُرُقُ: کثرت سے خون جاری ہونا۔

تَعَرَّأْنَا. الْقِدْرُ: جوش مارنا۔ ابلنا۔ جُرْحٌ (تَعَارٌ) کثرت سے خون بہانے والا زخم۔ تَعَفَّفَهُ: کسی سے تھو تھو کھنا۔

التَّشْفُ: ناخن کا میل۔ ج تَفَفَّفَهُ.

التَّيْفَانُ: وقت۔ کہا جاتا ہے ”أَتَيْتُكَ بِتَيْفَانِهِ وَعَلَى تَيْفَانِهِ“ میں مناسب وقت میں تمہارے پاس آیا۔

التَّيْفَانُ ذُوهُ وَوَالِي نَهَاتِ جَسِّ كَاتَاخُولِ دَارِ أَوْرِ اس کے پتے دوہرے ہوتے ہیں پتے توڑنے پر دوہرہ لگتا ہے۔

التَّيْفَةُ: حقیر و ذلیل عورت۔ التَّيْفَةُ: ایک قسم کا چھوٹا کیزا جو چڑے کو خراب کر دیتا ہے۔

تَفَى (س) تَفَاً: سخت غضبناک ہونا۔ تَفِينَةٌ وَتَفِيَةٌ: الشَّىءُ: وقت۔ تَفَيْتُ (س) تَفَيْتًا: میل کچیل غالب ہونا۔

صفت (تَفَيْتُ). کہا جاتا ہے ”قُضِيَ تَفَيْتُهُ“ اس نے میل کچیل کو دور کیا۔ تَفَيْتُ. الدَّمَاءُ مَكَانَهُ: آلودہ کرنا۔

التَّفَاحُ: سب۔ سب کا درخت۔ واحد تَفَاحَةٌ ج تَفَافِيحُ.

التَّفَاحَتَانُ: دونوں ران کے سرے۔ التَّنْفِخَةُ: سب کی پیداوار کی جگہ۔ اتْفَرَ الشَّجَرُ: کو چیلیں لگنا الرَّجُلُ: ناک کے بالوں کا ہونٹ کے گڑھے تک لہا ہونا۔

الرَّجُلُ (النَّافِرُ وَالتَّيْفُ وَالتَّفْرَانُ): میل۔ گندا۔ التَّفْرَةُ وَالتَّفْرَةُ وَالتَّفْرَةُ: اوپر کے ہونٹ کا گڑھا۔

تَفْرَةُ الشَّجَرِ: کوئیل۔ وَالتَّفْرَةُ: درخت کے نیچے اگنے والی گھاس۔ یادہ گھاس جس کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے جانور چرنے لگے۔

التَّفْرُوقُ: غلاف خراب۔ تَفَل (ن ض) تَفَلًا: تھوکرنا۔

تَفَل (س) تَفَلًا. الرَّجُلُ: تیل و خوشبو نہ لگانے کی وجہ سے بدبودار ہونا۔ صفت (تَفَل) مؤنث (تَفَلَةٌ وَتَفَالٌ).

اتْفَلَهُ: بدبودار کر دینا۔ التَّنْفَلُ وَالتَّنْفَلُ وَالتَّنْفَلُ: لومڑی۔ مؤنث تَنْفَلَةٌ.

تلع (ف) تلعا و تلوعا. النهار: دن چڑھنا۔ اصْحٰحِي: چاشت کا وقت ہونا۔ الرَّجُلُ وَالظَّنْيُ: سر باہر نکالنا۔ تلح (س) تلعا۔ الاناء: بھر جانا۔ تلعا وتلعه۔ سِنَّةٌ: گردن لمبی ہونا الرَّجُلُ: لمبی گردن یا لمبے قد والا ہونا۔ صفت (اتلَع وتلوع) گردن لمبی کرنا۔ اتلَع وتلَع وتلَع. في مشيئة: چلنے میں گردن لمبی کرنا۔ التلوع: ارد گرد بہت دیکھنے والا۔ اناء تلع: بھر اہو برتن۔ التلعة: بلند زمین۔ پست زمین۔ ج تلعات وتلاع و تلوع التلعة: شستی کا بادبان۔ ج تلعات التلغراف: ٹیلیگراف تار تلف (س) تلفا: ہلاک ہونا۔ برباد ہونا۔ اتلَفه: ہلاک کرنا۔ برباد کرنا۔ فنا کرنا۔ التليفة: ہلاک ہونے والی چیز۔ المتلقات والتلاف: بہت تلف کرنے والا۔ المتلف والمتلفة: ہلاکت کی جگہ۔ ہلاکت کا سبب۔ پچھیل میدان۔ تلفزيون: ٹیلی ویژن (جس کے ذریعے تصاویر اور آواز دور تک پہنچائی جاتی ہے) اس کی عربی تلفاز ہے (یونانی لفظ) التلغزة: دور سے دیکھنا۔ تلك: مؤنث بید کے لیے اسم اشارہ۔ التلم: زمین میں ہل کی بنائی ہوئی لیک ج اتلام۔ التلم: سبز خط لڑکا۔ کاشکار۔ سار۔ سار کی لمبی دھونکی۔ ج تلام۔ التلمون: بیہوشی کے احکام کی کتاب "تَلْمَد و تَلْمَدٌ لِفُلَانٍ" شاگرد ہونا۔ تَلْمَد و تَلْمَدُ الْوَلَدُ: شاگرد بنانا۔ التلميد: شاگرد۔ ج تلاميد و تلامده۔ التلثة والتلونة: حاجت۔ تلان: ابھی۔

کرنا۔ الحبل في البئر: کنوئیں میں رسی لگانا۔ الشئ في يده: رکھنا۔ کہا جاتا ہے "تَلَه (بتلئة) سوء" اس نے اسے بُرے فعل کی تہمت لگائی۔ الیہ: عاجزی کرنا۔ گڑگڑانا۔ اتَل: الذابئة: باندھنا۔ کھینچنا۔ المناع: پکانا۔ التلال والتلالة: گراہی۔ التل: من الأرض: چھوٹا ٹیلہ۔ ج تلال و تلؤل. واحد تلة۔ التلئة: حالت۔ (والتلئة): لینے کی حالت۔ کرنے کی حالت۔ اور کہا جاتا ہے۔ "في خلفة تلة" اس کی عادت میں کاہلی ہے۔ التليل ج اتله و تلل تلان: گردن ج تلئ: پچھاڑا ہوا۔ المتل: وہ چیز جس سے کسی کو پچھاڑا جائے۔ کہا جاتا ہے "زُمع متل" سیدھا اور سخت نیزہ قومی و مضبوط آدمی یا اونٹ۔ اتلاب اتلنابا۔ الامر: درست ہونا الحسار: سرو سبز اٹھانا۔ کہا جاتا ہے قیاس "مُتَلَبٌ" یعنی قیاس مطروہ "طریق مُتَلَبٌ" سیدھا سہارا۔ التلب: نقصان۔ کہا جاتا ہے "تَلَب و تَلْبًا" یعنی اللہ اس کے لیے نقصان و ہلاکت کو لازم کرے۔ المتالب: ہلاکت کی جگہیں۔ تَلَد (ض ن) تَلُوْدًا. المآل کالابل و الغم: خاندان میں پرانے زمانے سے مال کا ہونا۔ صفت (تالذ و تلذ و تلذ و تلذ و تلذ و تلالذ و تلذ) اور اس کے خلاف طاریق و طریف ہے۔ (ن و تلذ) (س) فی القوم و بالمکان: اقامت کرنا۔ کہتے ہیں "تلذ فلان عندنا" یعنی فلاں کے ماں باپ ہمارے ہی یہاں پیدا ہوئے۔ اتلذ. الرجل: موروثی مال والا ہوا۔ مال حاصل کرنا۔ تلذ: مال جمع کرنا۔ التلسكوب: دوربین (جدید) اس کے لیے عربی مرقب ہے۔

تفه (س) تَفَّهًا و تَفَّوْهًا. الشئ: کم ہونا۔ گھٹنا ہونا۔ حقیر ہونا۔ کہا جاتا ہے۔ "تفه عطاء فلان" فلاں کی داد و بخش کم ہے۔ (تفاهة) الطعام: بے مزہ ہونا۔ صفت (تفه و توافه) (تفوها) الرجل: کم عقل ہونا۔ صفت (تافه) اتفه. الشئ: کم کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ "اعطيت فاتفهت" تم نے دیا اور کم دیا۔ اتفن. الامر: مضبوطی سے کرنا۔ تفن. الارض: پیداوار زیادہ ہونے کے لیے بیچنا۔ التفن: طبیعت۔ کہا جاتا ہے "الفصاحة من تَفْنِه" فصاحت اس کی طبعی چیز ہے۔ گارا جو خشک ہو کر پھٹ جائے۔ حوض کا بقیہ گدلا پانی رجل (تفن و تفن) کام کا اچھی طرح کرنے والا۔ کام میں ماہر۔ ج اتقان التفنة: حوض کا بقیہ گدلا پانی۔ تَفْنَع: بھبھانا۔ الكلام لولنا اور واضح نہ کرنا۔ التفتضة: زبان بھلانا۔ التفتية: تھکنیک تفتی: (دیکھئے مادہ وقی) تگہ (ن) تگًا: روند کر چل دینا۔ تگہ التیذ: مد ہوش کر دینا۔ تَك (ن) تَكُوْكَا. الرجل: لاغر ہونا۔ بیوقوف ہونا۔ صفت (تک) جھاٹھوں و تگگہ و تگاک و تگک۔ استتک. التگة: پانچامہ میں ازار بند ڈالنا۔ التگة: ازار بند۔ ج تگک۔ المتک: پانچامہ میں ازار بند ڈالنے کی سلائی۔ تگا. (دیکھئے مادہ وکأ) تگتگہ تگتگہ: روند کر چل دینا۔ گلے گلے کر دینا۔ الساعة: تک تک کرنا۔ تکل: (دیکھئے مادہ وک) التکینک والتکینة: کسی کام میں کامیابی کے لئے ذرائع استعمال کرنا۔ تَلَه (ن) تَلَا: پچھاڑنا۔ الشئ الیہ: دفع

تله (س) تَلُّهُا: حیران ہوا لَشَّى: تلف ہونا۔ تَلُّهُه وَتَلُّه غَنْه: بھولنا۔ اور کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ نَالَهُ الْعَقْلُ وَمَتَلَّوْهُ الْعَقْلُ“ مرد عقل زائل شدہ۔

أَثَلَهُ الشَّى: برباد کرنا۔ تباہ کرنا۔

تَلَا (ن) تَلَّوْا: ۵: پیچھے چلنا۔ چھوڑنا۔ کہا جاتا ہے ”تَلَا بَعْدَ قَوْمِهِ“ اس نے اپنی قوم کا ساتھ چھوڑ دیا اور پیچھے رہ گیا۔

(تلاؤة) الْكُتَابُ: پڑھنا۔

تَلَّى (س) تَلَّى: مِنَ الشَّهْرِ يَوْمٌ: ایک دن باقی رہنا۔

اتلَاہ: آگے بڑھنا۔ پیچھے کرنا۔ اتلَاہ فلانا: پیچھے چلنا۔ اتلَاہ عَلَیْ فُلَانٍ: حوالہ کرنا۔ تم کہتے ہو اَتَلَيْتُ فُلَانًا ذِمَّةً: یعنی میں نے فلان کے ذمہ کر دیا۔ اَتَلَيْتُ حَقَّی عِنْدَهُ: یعنی میں نے اس کے پاس اپنے حق میں سے کچھ باقی نہ رکھا۔

تَلَاہ تَلَّیةً: پیچھے چلنا۔ تَلَّى الرَّجُلُ: نذر پوری کرنا۔ آخری سانس میں ہونا۔

تَلَّى: ۵: پیچھے چلنا۔ پیچھے بڑنا۔ کہا جاتا ہے ”تَلَّیْتُ حَقَّی“ میں اپنے حق کے پیچھے ہوں یہاں تک کہ پورا وصول کر لیا۔ تَلَّى الرَّجُلُ: بہت مال جمع کر خفہ عیندہ: کچھ چھوڑ دینا۔

تَلَّیْتُ الْأُمُورَ أَوِ الْخِیْلِ: ایک دوسرے کے پیچھے ہونا۔ کہا جاتا ہے ”حَانَّتْ الْخِیْلُ تَنَالِیًا“ یعنی بے درپے آئے۔

تَلَاہ: موافقت کرنا۔ تاجداداری کرنا۔

اسْتَلَّاهُ الشَّى: پیچھے کرنے کو کہنا۔

۵: انتظار کرنا۔

النَّالِی: پیچھے چلنے والا۔ میدان گھوڑ دوڑ کا چوتھا گھوڑا۔ رَحَالَیَاتُ

النَّالِیة: النَّالِی کَامُوث۔ النَّوَالِی

النَّوَالِی: سرین نوالی الخیل: گھوڑے کے پیچھے حصے۔ یعنی دم اور ٹانگہ۔

التَّلَاةُ: ذمہ۔

التَّلَاةُ: وہ چیز جو کسی چیز کے پیچھے ہو۔ اَوْشَشَی کا بچہ جس کا دودھ چھرا دیا جائے اور وہ اپنی ماں

کے پیچھے چلے۔ تَلَّوْا: مُوثٌ تَلَّوْا۔

التَّلَاةُ: ہمیشہ پیچھے چلنے والا۔

التَّلَّی: بہت مال والا۔ بہت قسمیں۔ کھانے والا۔

التَّلَاوَةُ وَالتَّلَّیة: بقیہ جیسے تَلَاوَةُ الدِّیْنِ یعنی قرض کا بقیہ۔ کہا جاتا ہے ”ذَهَبَتْ تَلَّیةُ الشَّبَابِ“ جوانی کا بقیہ جاتا رہا۔ اور کہا جاتا ہے ”فُلَانٌ بَقِیةُ الْکِرَامِ وَ تَلَّیةُ الْاِحْزَانِ“ فلاں بزرگوں کا اور شرفاء کا بقیہ ہے۔

الْمُتَالِی: تابع۔ گویے کے سر میں سر ملانے والا۔

تَمَّ (ض) تَمَّ وَ تَمَّامًا وَ تَمَامًا وَتَمَامًا وَتَمَامَةً: پورا ہوا۔ لَشَّى وَ عَلَیْهِ: پورا کر علیٰ امرہ: جاری و تازہ کرنا الیٰی موضع کذا: پہنچانا۔ غَنْهُ الْعَیْنُ: تعویذ۔ لگا کر نظر بد دور کرنا۔

تَمَّمَهُ وَآتَمَّهُ: پورا کرنا۔ مدت تک پہنچا دینا۔ کہا جاتا ہے تَمَّمَّ عَلَی الْجَوْرِیْحِ“ یعنی اس نے زحیٰ کو مار ڈالا۔ تَمَّمَّ الْمَوْلُوْدُ:

تعویذ لگانا۔ اتم علی المَحَلِّ: ارادہ کرنا اور جانا۔ اتمَّت الحَبَلِی: ولادت کا زمانہ

قَرِیْبٌ هُوَ الْقَمَرُ: بدر کا آل ہونا۔

تَمَّامٌ الْقَوْمُ: سب کا آنا۔

اسْتَمَّمَّ الشَّى: پورا کر لَشَّى: پورا کرنے

کو کہنا۔

التَّمُّ: بط کی ایک قسم جس کی گردن لمبی ہوتی ہے۔

التَّمُّ: کلباؤ المَبْدَر التَّمُّ: ماہ کا بل۔

التَّمَّامُ بِتَثْلِیثِ النَّاءِ وَالْاِغْلَابِ الْفَتْحِ:

کمال۔ وہ چیز جس سے کسی چیز کو پورا کیا جائے۔

اور اسی معنی میں تَمَّ وَ تَمَّ وَ تَمَّ وَ تَمَّامَةٌ

و تَمَّامَةٌ: ہے۔ چاند کے پورا ہونے کی رات۔ اور کہا جاتا ہے ”بَدْرٌ تَمَّامٌ وَ بَدْرٌ تَمَّامٌ“ لَیْلَةُ التَّمَّامِ“ جاڑے کی لمبی رات۔

التَّمَّامَةُ: بقیہ۔

التَّمَّامَةُ: جس سے کسی چیز کو پورا کیا جائے۔

التَّمَّیْمُ: مضبوط۔ پورے ق دو قامت والا۔

التَّمَّیْمَةُ: تعویذ۔ تَعْوِیْضٌ تَعْوِیْضٌ

تَعْوِیْضٌ تَعْوِیْضٌ

تَعْوِیْضٌ تَعْوِیْضٌ

تَعْوِیْضٌ تَعْوِیْضٌ

تَعْوِیْضٌ تَعْوِیْضٌ

تَعْوِیْضٌ تَعْوِیْضٌ

التَّمَّیْمَةُ: تعویذ۔ تَعْوِیْضٌ تَعْوِیْضٌ اور ”امَّا طَةَ التَّمَّامِ“ کہنا ہے بڑے ہونے سے۔

تَمَّ تَمَّامَةً: فی الکلام: جلدی جلدی بولنا اور واضح نہ کرنا۔ صفت (تتمتہ) مؤنث تَمَّامَةٌ.

تَمَّرَهُ (ن) تَمَّرًا وَ تَمَّرَهُ: کھجور کھلانا۔

اللَّحْمُ: چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کا ٹاٹ اور خشک کرنا۔

أَتَمَّرَ وَ تَمَّرَ: الرُّطْبُ: خشک کھجور ہونا۔

النَّخْلَةُ: محل دار ہونا۔ تَمَّرَ الْقَوْمُ: بہت کھجوروں والا ہونا۔

تَمَّرَ: اللَّحْمُ: خشک ہونا۔

تَمَّرَ: النَّخْرُ: خراب۔ واحتمرہ: نخمرات و

تُمُورٌ وَ تَمْرانٌ: التَّمْرَةُ: چایک کے سرے کی گڑہ۔

التَّمْرُ الْهِنْدِی: الہی۔

التَّمْرانُ: خمرافروش۔

التَّمْرانُ: بہت کھجوروں والا۔ کھجور دلال۔

الْمَتَمَرُّ: کھجور کا گوشہ دیا ہوا۔

الْتَمَرِيُّ: کھجوروں کا شائق۔

التَّامُرِی وَ التَّامُورِی: انسان۔ کہا جاتا ہے

”مَا بِالْبَادِرِ تَامُورٌ أَوْ تَمُورٌ“ گھریں کوئی نہیں یا کچھ نہیں۔

تَمُوزٌ وَ تَمُوزٌ: ترکی مہینہ۔ مطابق ماہ جولائی۔

التَّمَسُّحُ: گھڑیاں۔ تَمَسُّحِی

تَمَسُّحٌ ج تَمَسُّحِی: گوہ کی شکل کا ایک

جانور بڑے جسم والا لمبی دم والا چھوٹے پاؤں والا

سرد دم اور پیٹ پر کچھوے کی طرح مضبوط جلد۔

جس کو گرگھ بولتے ہیں۔

تَمَّه (س) كَمَّهًا وَ تَمَّاهُ: الطَّعامُ: ٹویا

مرہ خراب ہونا۔ صفت (تتمہ) تَمَّانٌ بَيْنَهُمَا:

مقابلہ کرنا۔ اندازہ کرنا۔

أَتَمَّ: الْمَرَضُ الصَّبِيُّ: بڑھنے سے روکنا۔

صفت (مفعولین) الرَّجُلُ: دور ہونا۔

التَّنُّ: فَنضٌ - مَشٌ - هَمَسٌ - تَنَنٌ

تَنَنٌ

تَنَنٌ

تَنَنٌ

تَنَنٌ

تَنَنٌ

تَنَنٌ

التَّيْنِ: جملي۔ اُردوحد آسمان میں ایک جگہ کا نام۔ ج تَنَاتِين۔
 تَنَّا (ن) تَنُونًا: بالمَكان: اقامت کرنا۔
 صفت (جاش) ج تَنَاءُ۔
 التَّنُوبُ: واحد التَّنُوبَةُ۔ صنوبر کی قسم کے مشہور درخت جس کا تاسید حال ہوتا ہے عام باغوں میں زینت کے لئے بویا جاتا ہے۔
 التَّنَبُّكُ وَالتَّنْبَاكُ: تمباکو۔
 التَّنْبَلُ وَالعِنْبَالُ وَالتَّنْبُولُ وَالتَّنْبَالَةُ: پست قدم۔ کند ذہن۔ سست ج تَنَابِيلُ وَتَنَابِلَةٌ۔
 التَّنْبَلُ وَالتَّنَابُولُ: پان۔
 التَّنَجْرَةُ: پاٹری۔ دیک (جدید)
 التَّنَجِينُ: ٹکسلن ایک دھات جو بجلی کی تاروں میں استعمال ہوتی ہے۔ اور فولاد جوڑا جاتا ہے۔ علامت دھا "W"
 تَنَخَّ (ن) تَنُوخًا وَتَنَخَّ وَتَنَخَّ: بالمَكان: اقامت کرنا۔
 تَنَخَّ (س) تَنَخًا: بد بھسی ہونا۔
 التَّنَخَةُ: جٹلاہ بد بھسی کرنا۔
 التَّنُوبُ: صنوبر کی مانند ایک درخت کا نام۔ واحد تَنُوبَةٌ۔
 التَّنُورُ: تور۔ ج تَنَانِيرُ۔
 التَّنَارُ: تور بنانے والا۔
 التَّنَضُّبُ (دیکھئے مادہ ضب)
 التَّنُوفَةُ وَالتَّنُوفِيَّةُ: بے پانی کا جنگل ج تَنَائِفُ۔
 التَّنَبُّكُ: ٹین (جدید)
 التَّنَكُّجِيُّ: ٹین بنانے والا۔ (جدید)
 تَهْتَهْتَه: لغویات میں مشغول ہونا۔
 التَّهَاتِهَاتُ: لغویات، باطل باتیں۔
 تَهَمَّ (س) تَهَمًا: اللحم: خراب ہونا۔ صفت (تہم)
 أَتَهَمَ وَتَاهَمَ وَتَهَمَّ: سر زمین۔ تہامہ میں آنا یا نازل ہونا۔
 التَّهْمَةُ: بد بھ۔
 تَهَامَةٌ: مٹکہ معظمہ۔ ملک حجاز کے جنوبی

علاقے۔ نسبت کے لیے تھامی و تھام۔ ج تَهَامِيُونَ وَتَهَامُونَ۔
 إِتَهَمَ وَتَهَمَ (دیکھئے مادہ ہم)
 تَهَنَّ (س) تَهَنًا: صفت (تہن)
 تَهَّأَ (ن) تَهَّؤًا: غافل ہونا۔
 التَّهْوَاءُ: رات کا ایک حصہ۔ کہا جاتا ہے "مَضَى تَهْوَاءُ مِنَ اللَّيْلِ" رات کا ایک حصہ گزر گیا۔
 التَّوَّ: اکیلا۔ ایک لڑی کی بی ہوئی رتھی۔ ج آتَوَّأَ: کہا جاتا ہے "جاء تَوَّأً" وہ تصد کر کے آیا۔ کوئی چیز اس کو باز نہیں رکھ سکتی۔
 تَوَّأَ (ن) تَوَّأًا وَتَوَّأَةً وَتَوَّأَةً وَمَتَّأًا وَتَوَّأَةً: إِلَى اللَّهِ: گناہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا۔ نام و پشیمان ہونا۔ صفت (تَوَّأَبُ) اللَّهُ عَلَيْهِ: بخش دینا اور دوبارہ مہربان ہونا۔ صفت (تَوَّأَبُ)
 اسْتَتَأَبَهُ: توبہ کرنے کی ترغیب دینا۔
 التَّوَّتُ: توت کا درخت۔ توت کا پھل۔
 التَّوْتِيَا: یہ ایک قسم کا پتھر ہے جو بطور سرمہ کے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک قسم کی سمندری سپی جس پر کائے ہوتے ہیں اور اس کے اندر سے انڈے کی زردی کی مانند ایک چیز نکلتی ہے جو کھائی جاتی ہے۔
 تَوَّجَّ (ن) تَوَّجًّا: تاج پہننا۔
 تَوَّجَّهَ: تاج پہننا۔
 تَوَّجَّجَ: تاج پہننا۔
 التَّوَّاجِجُ: تاج والا۔
 التَّوَّاجُ: شاہی ٹوپی۔ ج تَوَّاجِحَانُ۔ تَوَّاجُ الْجَبَّارِ: ستارے۔ تَوَّاجُ الْعُمُودِ: ستون کے بالائی حصہ کے نقش و نگار۔
 التَّوَّابِيغِيَّةُ: پانچ قسم کے پھولوں کا گلدستہ۔
 تَوَّاحَ يَتَوَّحُ تَوَّاحًا لَهُ الشَّيْءُ: تیار ہونا۔
 تَوَّاحَتْ (ن) تَوَّاحًا وَتَوَّاحًا: الإضْبَعُ فِي الْجِسْمِ الْوَارِمِ أَوْ الرُّخْوِ: انگلی کا سوجے ہوئے یا زرم حصہ بدن میں دھنس جانا۔
 التَّوَّذَرِيُّ وَالتَّوَّذَرِيُّ: ایک دو کا نام تَوَّزَّ (ن) تَوَّزًّا: الماء: جاری ہونا۔

أَتَارَهُ إِتَارَةً: بار بار لوٹانا۔
 التَّوَّرُ: چھوٹا برتن۔ قاصد۔
 التَّوَّارَةُ (دیکھئے تار)
 التَّوَّارَةُ وَالتَّوَّارِيَّةُ: آسانی کتاب جو سیدنا موسیٰ پر نازل ہوئی تھی۔ ج تَوَّارَاتُ وَتَوَّارِيَّاتُ۔
 تَوَّزَّ (ن) تَوَّزًّا: الشَّيْءُ: سخت ہونا۔
 تَوَّافُ (ن) تَوَّافًا: البَصْرُ: نگاہ کا چند ہیا جانا۔
 التَّوَّافَةُ وَالتَّوَّافَةُ وَالتَّوَّافَةُ: عیب۔ کہا جاتا ہے "مَافِيهِ تَوَّافَةٌ" اس میں کوئی عیب نہیں۔ گناہ۔
 تَوَّافًا (ن) تَوَّافًا وَتَوَّافًا وَتَوَّافًا وَتَوَّافًا وَتَوَّافًا: وَتَوَّافًا: هُ وَالْيَهْ: شائق ہونا۔ اِلَى الْعَايَةِ: جلدی کرنا۔ صفت (تَوَّافِقُ وَتَوَّافِقُ): عینہ بِالذَّمُوعِ: بہنا۔ تَوَّافِقُ مِنْهُ: ذُرَابًا نَفْسِيهِ: جان دینا۔
 تَوَّوَّقَ إِلَى الشَّيْءِ: آرزو مند ہونا۔ شائق ہونا۔
 تَوَّالٌ يَتَوَّالُ تَوَّالًا: جادو کرنا۔ جادو کا علاج کرنا۔
 التَّوَّالَةُ وَالتَّوَّالَةُ: معصیت ج تَوَّالَاتُ۔
 التَّوَّالَةُ وَالتَّوَّالَةُ: جادو وغیرہ۔
 التَّوَّامَةُ: موتی کے مشابہ چاندی کا انڈہ۔ بالی۔ شتر مرغ کا انڈہ ج تَوَّامُ وَتَوَّامُ: نوم کو عوام ٹوم (لہسن) کے بجائے استعمال کرتے ہیں۔
 التَّوَّامُ: مالا پہنا ہوا۔ کان میں بالی بیٹنے والا۔
 تَوَّارًا وَتَوَّارًا: الصَّيْدُ: کبھی دائیں کبھی بائیں سے حملہ کرنا۔
 التَّوَّامُ: الحَمَامُ: حمام کی بھٹی۔
 تَوَّاهُ (ن) تَوَّاهًا: ہلاک ہونا۔ ضائع ہونا۔ راستہ گم کرنا۔ قاصد الحقل ہونا۔
 التَّوَّاهُ وَالتَّوَّاهُ: ہلاکت۔ فَلَاحَةُ تَوَّاهُ: گمراہ کر دینے والا۔ ایمان۔ ج تَوَّاهُ وَج تَوَّاهُ: تَوَّاهُ وَآتَاهُ: ہلاک کرنا۔
 تَوَّوَى (س) تَوَّوَى: المَالُ: برباد ہونا۔
 ہلاک ہونا۔ صفت (تَوَّوَى وَتَوَّوَى) کہا جاتا ہے

”لاتوی علیہ“ اسے کوئی نقصان نہیں۔

اتواہ اتواہ اللہ: ہلاک کرنا۔

المثواة: باعث ہلاکت۔ باعث نقصان کہتے ہیں ”الشح مثواة“ بخل باعث نقصان ہے۔

رجتاو ومتویات۔ التیاترو: خمیڑ اس کی عربی مُمَثَل ہے اور مولدن کے نزدیک مسرح۔

التیاترو: فن کار

تآح (ض) تیحآ: لہ: مقدر ہونا۔ تیار ہونا فی مشیہ: بھگانا۔

اتآحہ اتآحہ: تیار کرنا۔ مقدر کرنا۔ کہا جاتا ہے ”اتآح اللہ لہ الشر“ اللہ نے اس کے لیے شر کو مقدر کر دیا۔

المُتآح والمینآح: امر مقدر۔ فیصل شدہ۔

التیآح والتیحآن والتیحآن والتیحآن

والمینح: لایعنی امور میں مشغول ہونے

والا۔ اور کہا جاتا ہے ”رجل ییح“ ہمیشہ بلا

میں مبتلا رہنے والا مرد۔

تآخہ (ض) تیخآ: کھجور کی چھڑی سے

مارنا۔

المینخہ: کھجور کی چھڑی۔

التید: نرمی، کہا جاتا ہے ”تیدک زیداً“ زید سے نرمی کر۔

تآر (س) تیرآنا۔ البخر: جوش میں آنا۔

التیآر: جوش مارنے والے سمندر کی لہر۔

مغرور: کہا جاتا ہے ”قطع عرفاً تیآر“ اس

نے تیز پہنے والی رگ کو کاٹا۔ ”فرس تیآر“

دوڑنے میں موج کی طرح چلنے والا گھوڑا۔

التیر: تکبر و غرور۔

تآرہ (دیکھتآر)

تآرہ (ض) تیرآ و تآیرہ: غلبہ کرنا۔ کہا

جاتا ہے ”تآر السہم فی الرمیة“ شکار میں

تیرنے حرکت کی۔

التیآر: پست قد سخت جوڑوں والا۔

تآس یتیس۔ الجدی: بکرا بن جانا۔

تیس۔ فرسہ: سدھانا۔ عَن كَذَا:

باز رکھنا۔

تآیس: مدافعت کرنا۔

تتآیس۔ المآء: موجوں کا ٹکرانا۔ (او

استیتست) الغز: بکری کی طرح ہوجانا۔

التیس: بکرا۔ جنگلی بکرا۔ زہر۔ ج

تیس و تیس و تیس۔ لعیة التیس:

ایک قسم کی نباتات۔

التیسیة والتیسویة: بکرے جیسی

طبیعت۔ کہتے ہیں۔ فی فلان تیسیة

وتیسویة

التیس: بکری والا۔

الآتیس: بکری جیسا۔

تآع (ض) تیعا و تیعا و تیعا۔ القیء:

لکلامآء: بہنا اور زمین پر پھیلنا۔

الیہ: جلدی کرنا اور مشتاق ہونا۔ (تیعا)

الطریق: طے کرنا السمن: روٹی کے

کٹڑے سے گھی اٹھانا۔

تآع۔ مَا آکلہ: اُلٹی کر دینا لشی: لوانا۔

تتبع۔ اِلی الشیر و تتابع) فی الشیر:

برائی کی طرف سبقت کرنا۔ مفت (تبع

وتیعا)

الریح بالورق: اڑالے جانا۔ تتبع فی

الامر: اصرار کرنا۔ کہا جاتا ہے ”انہ یتتابع

فی الأمور“ وہ اپنے آپ کو معاملات میں بغیر

سوچے سمجھے ڈال دیتا ہے۔

تآک (ض) تیوکآ: بیوقوف ہونا۔ مفت

(تآک) أحمق تآک: بہت بیوقوف۔

اتآک۔ الشعر: اکھیرنا۔

تینک: نمونٹ کے لیے اسم اشارہ۔ اس کی تصغیر

(تیآک) ہے اور اس پر حاء تمہیدہ داخل ہوتا ہے

اور کہا جاتا ہے ہاتیک)

تآمہ (ض) تیمآ و تیمآ۔ الحب: غلام بنا

دینا۔ ذلیل کر دینا۔

التیم۔ سر۔ عشق کی وجہ سے عقل کی خرابی۔

غلام کہا جاتا ہے ”هو تیم اللہ“ وہ اللہ کا بندہ

ہے۔

التیمة والتینمة: بکری جو گھر میں چارہ دے

کردوبی جائے۔ بکری جو بھوک کے بیقت ذبح

کی جائے۔

التیمآ: بیابان۔ نام ایک مقام کا۔

التین: انجیر۔ انجیر کا درخت۔ واحد (تینہ)

المتآنة: وہ زمین جہاں انجیر کے درخت بہت

بڑے ہوں۔ کہا جاتا ہے ”أرض متآنة“ بہت

انجیر والی سرزمین۔

التیان: انجیر بیچنے والا۔ انجیر خشک کرنے والا۔

تآہ (ض) تیہآ۔ تکبر کرنا تیہآ و تیہآنا)

سرگشتہ پھرنا۔ گمراہ ہونا۔ مفت (تیآہ

وتیہآن)

التیوع: ہر ترکاری جس کا دودھ نلکے جب اس

کو کاٹا جائے۔

التیوقراطیة: وہ حکومت جس کے قائم ہونے

کے متعلق نظریہ ہو کہ اللہ کی قائم کردہ اور اس

کو چلانے والے خدا تعالیٰ کے نمائندے ہیں۔

تیہ و آتآہ۔ ہ۔ گمراہ کرنا۔ ضائع کرنا۔

التآہ والتیہآن والتیہآ والتیہآن:

تکبر۔ مغرور۔


التیہ: ڈیک۔ غرور۔ گمراہی۔ چٹیل میدان

جس میں انسان بھٹک جائے۔ تیہآہ و آتآیہ

واتآوہة۔

أرض تیہآہ و متیہآہ و متیہآہ و متیہآہ

وتیہآہ۔ راستہ بھٹکانے والی سرزمین۔



ث: الاء بنیادی حروف میں سے چوتھا حرف ہے۔ حروف ثنویہ سے ہے۔ حساب جمل میں اس کی گنتی (۵۰۰) ہے۔
ثیب (س) ثاباً وثیب وثائب: برائی لینا۔ صفت (مثنوب) وثائب الاخبار: جتو کرنا۔

الثاب والثوباء والثائب: برائی ٹاننا: پیاسا رکھنا۔ سیراب کرنا الثار آگ بھجانا الغضب: غصہ ٹھنڈا کرنا ہ عن الامر: کسی کام سے روکنا۔

ثاجت (ف) ثاجا الغنم: میاں۔ الثواج: بھیڑ بکری کی آواز۔ ثید (س) ثادا الثبت: شاداب ہونا۔ الرجل أو المکان: ٹھنڈا ہونا۔ صفت (ثید و ثیید)

الثاد والثاد: نیناک مٹی۔ تری سردی۔ برا کام۔ نرم و سرسبز نباتات۔ الثاد: موٹی عورت۔

الثاداء: لوٹری۔ "معا انا ابن ثاداء" میں عاجزا اور کمزور رائے والا نہیں ہوں۔ الثاد: موٹاپا۔

ثار (ف) ثاراً القییل والقییل: خون کا مطالبہ کرنا۔ قاتل کو قتل کرنا۔ صفت (ثانیر) کہا جاتا ہے "ثاره بکذا"

یعنی اس نے فلاں کے ذریعہ خون کا بدلہ لیا "وثیر زید". زید سے خون کا بدلہ لیا گیا۔ آثار و آثار: منہ: خون کا بدلہ لینا۔

استنثار: خون کا بدلہ لینے کے لیے فریاد کرنا۔ الثار والثورة: خون کا بدلہ۔ جرم کا بدلہ۔ ج آثار و آثار وثانیر: کہا جاتا ہے "هو ثارک" وہ تمہارے رشتہ دار کا قاتل ہے۔ "وینا ثارات فلان" اے فلاں کے قاتلو! "والثار المنیم" خون کا کامل بدلہ جس کے بعد طالب آرام سے سورے۔

ثنط (ف) ثاطأ اللحم: خراب ہونا۔ بگڑنا۔

ثنط: الرجل: زکام ہونا صفت (منطوط) الثواط: زکام۔

الثاطة: بدبودار کچھڑ۔ اور اسی سے مثل ہے "ثاطة مدت بماء" اس وقت بولتے ہیں جبکہ ایک خرابی کے ساتھ اسی جیسی دوسری خرابی ہو جائے۔ جیسے "اردو میں مفاسی میں آنا گیا" ج ثاط۔

الثاطاء: بیوقوف عورت۔

تؤل وتائل جسده: سے والا ہونا۔ الثولول: مہ۔ پستان کا سر۔ بھنی ج تائلیل۔

ثای (ف) ثایاً وثای: الشی چرنا۔ بھاننا۔ کمزور کرنا۔ فاسد کرنا۔ وثای فی القوم کشت و خون کرنا۔

ثی (س) ثای: الشی: چھد جانا۔ الثای: زخم کے نشان۔

الثای: سر کہا جاتا ہے "فلائن یزاب الثای" فلاں فساد کی اصلاح کرتا ہے۔

ثب (ن) ثبایا: جم کر بیٹھنا۔ وقار سے بیٹھنا الامر: پورا کرنا۔

ثبت (ک) ثبابة وثبوة: بہادر ہونا۔ صاحب عزم ہونا۔

ثبت (ن) ثبأتا وثبونا: فی المکاد ٹھہرنا۔ قیام کرنا علی الامر: مداومت کرنا۔

صفت (ثابت و ثبیت و ثبت) الامر عنده: ثابت ہونا۔ موکد ہونا۔

ثبته وثبته: ثابت کرنا الحق: دلائل سے موکد کرنا۔ نام روج رجسٹر کرنا۔ لکھنا اور کہا جاتا ہے "طغنه فاثبت فیہ الرمخ" اس نے اس کو تیز ہار اور گھسا دیا۔

اثبت و ثابت: الامر: پوری طرح سے پہچانا۔

استثبت و تثبت: فی الامر والرأی: جلدی نہ کرنا۔ مہلت سے کام لینا۔ مشورہ کرنا۔ اور حقیقت کی جستجو کرنا۔

الثبت: ثابت ہونا۔ حجت۔ دلیل۔ کہا جاتا ہے "لا احکم الا بثبت" میں بغیر حجت و برہان کے فیصلہ نہیں کرتا۔

الثبات: برقع کے بند۔ کپاہہ باندھنے کے تھے۔

الثبات: ایسی بیماری جو حرکت سے عاجز کر دینے والی ہو۔ بہادر شہسوار جس کا حملہ بھر پور ہو۔

الاثبات: ایجاب۔ ٹہنی کی ضد۔

الاثبات: قوم کے معتبر لوگ۔ مفرد ثبت کہا

جائے "فَلَانٌ ثَبْتُ مِنَ الْأَثْبَاتِ" یہ مجاز ہے
 چیسے کہ "فَلَانٌ حُجَّةٌ" جبکہ روایت میں ثب
 الفَوَابِتُ مِنَ النَّحُومِ: سیاروں کے علاوہ
 ستارے۔ واحد ثَابِتَةٌ۔
 الثَّمْبُتُ: عین۔ تسموں سے بندھا ہوا۔
 مَرِيضٌ مَثْبُتٌ: زیادتی مرض کی وجہ سے
 بچھوٹنے سے جدا نہ ہونے والا۔
 الثَّقِيْبُ: نیسانوں کے نزدیک سات رازوں
 میں سے ایک راز
 شَجَّ (ن) ثَبَجًا وَثَبَجَ: الكلام: ٹھیک
 طریقے سے گفتگو نہ کرنا الخط: تخریر میں غیر
 معروف طریقہ استعمال کرنا۔
 شَجَّ (ض) ثَبَجًا وَثَبَجًا: پاؤں کی انگلیوں
 پر بیٹھنا۔
 شَجَّ وَتَشَجَّ الرَّاعِي بِالْعَصَا: راضی کو پیٹھ
 پر رکھ کر اس کے پیچھے ہاتھ رکھنا۔
 اثْبَاجُ السَّقَاءِ: بھر جانا الرجل مونا اور
 ڈھیلا ہونا۔
 الشَّجَّ: کاندھے اور پیٹھ کا درمیانی حصہ
 "الشَّجَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ" درمیانی حصہ بڑا
 حصہ بلند حصہ۔ ج "اثْبَاجُ وَثَبُوجُ" کہا جاتا
 ہے۔ "يُرَكَّبُونَ شَجَّ هَذَا الْبَحْرِ" وہ لوگ
 اس سمندر کے بڑے حصے پر سوار رہ گئے۔
 "وَتَسْتَمِتُ الْحَمْرُ اثْبَاجَ الْأَكَامِ"
 گدھے ٹیلوں کی بلندیوں پر چڑھ گئے۔
 الاثْبَاجُ: چوڑی پیٹھ والا۔ کبڑا۔
 رَجُلٌ مَشَجَّ: لمبا بے ڈول مرد۔
 ثَبْرَةٌ (ن) ثَبْرًا: لعنت کرنا۔ دھکانا۔
 مَجْرُومٌ كَرُمًا: ہلاک کرنا عن كَذَا: روٹنا، پٹانا۔
 (ثَبْرًا) ہلاک ہونا۔
 ثَبْرَتٌ (س) ثَبْرًا: القَرْحَةُ: پھٹنا اور بہنا۔
 ثَابِرٌ ثَبْرًا وَمَثَابِرَةٌ: علی الأمر:
 مداومت کرنا۔ بیٹھتی کرنا۔
 ثَبْرٌ: فَلَانًا بِالشَّيْءِ: کسی کو کسی چیز پر روک
 دینا اللہ فَلَانًا: ہلاک کرنا۔
 تَثَابَرُوا: ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔

المَثْبُورُ قَرْمٌ زَمِينٌ۔ زمین یا پہلاگا گڑھا۔
 المَثْبُورُ بُوْرٌ خَانِدٌ۔ عورت یا اونٹنی کے بٹنے
 کی جگہ۔
 المَثْبُورُ زَوْكًا هُوَ: محروم۔
 ثَبَطْنَا (ن) ثَبَطًا وَتَثَبَطْنَا: عَنِ الْأَمْرِ:
 روکنا باز رکھنا علی الأمر کسی کو کسی کام پر
 موقوف رکھنا۔
 اَثَبَطْنَا: المرضُ بِنَهَارٍ كَأَجْدَانِهِ هَوَانًا۔
 تَثَبَطْنَا: عَنِ الْأَمْرِ زَيْرًا كَأَنَّكَ رَكْنًا۔
 الشَّبَطُ: كَزْرُورٍ۔ يَوْقُوفٌ۔ ج اثْبَاطٌ وَثَبَاطٌ
 مَوْثٌ ثَبُطٌ
 ثَبِقَ (ض) ثَبَقًا وَتَثَبَقًا: الشَّهْرُ: پانی کی
 زیادتی سے تیز بہنا۔ العین جلدی آنسو بہانا۔
 الثَّبِيلُ وَالنَّسْلُ: بَرْتَنٌ كِي تَلِي كَابَاتِي مَانِدَةً
 ثَبِنَ (ض) ثَبِنًا وَثَبَانًا: الثَّوْبُ: کٹارہ موڑ
 کر لینا۔ (د تثنین) الشَّيْءُ: پھانٹر میں لینا۔
 بِإِجْمَاعِهِ: كَيْفِيَّةٌ فِي نَفْسِهِ مِثْلُ رَكْبٍ لِيْنًا۔
 الثَّبِنَةُ: ج ثَبِنٌ وَ (الْبَيَانُ) ج ثَبِنٌ:
 پھانٹر۔
 الثَّبِينُ: نِجَارٌ كَأَنَّكَ هُوَ جِبَدٌ اس کو موڑ لیں۔
 المَثْبِنَةُ: تھیلی جس میں عورت اپنا آئینہ
 وغیرہ رکھتی ہے۔ ج مَثَابِنٌ۔
 ثَبِي (ض) ثَبِيًا: الشَّيْءُ: جمع کرنا۔
 ثَبِي: الشَّيْءُ: جمع کرنا۔ تعظیم کرنا۔ درست
 کرنا۔ پورا کرنا۔ کہا جاتا ہے "ثَبِي اللَّهُ لَهُ
 النِّعَمُ" اللہ تعالیٰ نے اسے نعمتوں کے انبار
 دیئے علی الأمر: ہمیشہ رہنا علی فَلَانٍ:
 کسی کے خلاف مدد طلب کرنا۔
 الثَّبِيَةُ: حَوْضٌ كَا دَرْمِيَانٍ۔ جماعت۔
 شَهْرًا أَوْ رَوْسًا: جماعت۔ ج ثَبَاتٌ وَثَبُونٌ۔
 الْأَثْبِيَّةُ: بڑی جماعت۔ ج أَنَابِيٌّ۔
 الثَّبِيُّ: لَوْغٌ كِي بَهْتٌ تَعْرِيفٌ كَرْنَةُ وَاللَّـ
 ثَبِنَ (س) ثَبِنًا: اللِّحْمُ: بدبودار ہونا۔
 اللُّهَةُ: ڈھیلا ہونا۔ صفت ثَبِنَةٌ۔
 شَجَّ (ن) ثَبَجًا وَثَبَجًا: المَاءُ: بہنا (ثَبَجًا)
 المَاءُ: بہانا۔
 انْشَجَّ: المَاءُ: بہنا۔

وَأَثْرَى مَوْثِ ثَرْيَةً وَثَرْيَاءُ أَثْرَبَ الْأَرْضِ: زمین کا نمنّاک ہونا۔
 ثَرْيَاءُ: تڑکنا مکان: چھڑکنا۔
 الثَّرَى: تڑی۔ (والثراء) نمنّاک مٹی۔ خیر
 ج اَثْرَاءُ کہا جاتا ہے "يَبْسُ الثَّرَى بَيْنَهُمْ"
 یعنی وہ لوگ آپس میں دوست ہونے کے بعد
 دشمن ہو گئے۔ و "فَلَانَ قَرِيبَ الثَّرَى"
 یعنی فلاں خیر سے قریب ہے۔
 الثَّرَى وَالثَّرَى: مِنَ الْمَالِ: بہت مال۔
 رِمَاحِ ثَرْيَةً: بہت نیزے۔
 نَعَّ (ض) نَعًا: کھانا ہوائے گردینا۔
 انْفَعُ: الْأَجْحَلُ مِنَ فَمِهِ وَالدَّمُ مِنَ أَنْفِهِ
 اَوْ جُرْحُهُ: تے ہونا۔ لکنا۔ بہنا۔
 نَعَبَ (ف) نَعْبًا: المَاءَ: جاری کرنا۔
 عَلَيْنَهُمُ الْعَارَةُ: لوٹ ڈالنا۔
 انْتَعَبَ: المَاءَ: نالی یا پرنالہ میں جاری ہونا۔
 الثَّعْبُ: وادی میں پانی بہنے کی جگہ۔ ج
 نَعْبَانِ: مَاءٌ أَوْ دَمٌ نَعْبٌ وَ نَعْبٌ وَ
 أَثْعُوبٌ: بہتا ہو پانی یا خون۔
 الثَّعُوبُ: پت۔
 الثَّعْبَةُ وَالثَّعْبَةُ: غیبت قسم کا گرگٹ۔
 المَنْعَعُ: نالی یا پرنالہ۔
 الثَّعْبَانُ: زرناسپ۔ اژدہ۔ ج نَعْبَانِ
 نَعَطَ (س) نَعَطًا: الثَّعْلُ أَوْ المَاءُ:
 بدبودار ہونا الشَّفَقَةُ: سوچنا اور پھٹنا۔
 النُّعْطَةُ: گندہ اٹلا۔
 نَعَلْتُ (س) نَعْلًا: أَسْنَانُهُ: ایک دوسرے
 کے اُوپر دانتوں والا ہول صفت (انْعَل)
 مَوْثِ نَعْلًا ج نَعْلُ:
 انْعَلُ: الْأَمْرُ: دُشْوَار ہونا اس طرح پر کہ یہ
 معلوم نہ ہو کہ کس طرح انجام دیا جائے
 الضَّبُوفُ: بہت ہونا۔
 النُّعْلُ: اٹنی یا بکری یا گائے کے تھن میں
 باکھ کی زیادتی۔ ج نَعُولُ:
 النُّعْلُ: ایک قسم کا کیزا جو منگ میاں بدبو
 ہونے پر پیدا ہوا جاتا ہے۔
 النُّعْلُولُ: غضبناک۔

(ثَوْرًا)
 ثَوْرًا (ن) ثَوْرًا وَثَوْرًا وَثَوْرًا: الثَّخْبُ:
 روٹی توڑ کر شوربے میں تڑکنا۔ صفت مفعولی
 (ثَوْنِدٌ وَثَوْنُودٌ) ثَرِيدٌ تَارِكُنَا ثَوْرًا الثَّوْبُ:
 کپڑا رنگ میں بھلونا۔
 ثَوْرًا وَثَوْرًا: مِنَ المَعْرَكَةِ: میدان جنگ
 سے زخمی اٹھایا جانا۔
 الثَّوْرُ: بھلی بارش۔
 الثَّوْرُ: ہونٹوں کی پھین۔
 الْأَثْرَادُ: پیٹھے ہوئے ہونٹوں والا۔
 الثَّرِيدُ وَالثَّرِيدَةُ: شوربے میں تڑکی ہوئی
 روٹی۔ ج ثَرَانِدٌ وَثَوْرُودُ:
 اَرْضٌ مَثْرُودَةٌ وَمَثْرُودَةٌ: زمین جس پر
 بھلی بارش ہوئی ہو۔
 ثَوْرَعٌ (س) ثَوْرَعًا: الرَّجُلُ: طفلی ہونا۔
 الثَّرَغْلَةُ: مرغ کی گردن کے پر۔
 الثَّرُغْلُ: داہلو مڑی۔
 الثَّرُغُولُ: ایک قسم کی گھاس۔
 ثَرَمَةٌ (ض) ثَرَمًا وَثَرَمًا: جڑ سے دانٹ
 توڑنا۔
 ثَرِمَ (س) ثَرِمًا وَانْتَرِمَ: ٹوٹے ہوئے
 دانٹ والا ہونا۔ صفت اَثْرَمُ مَوْثِ ثَرَمَاءُ ج
 ثَرَمُ:
 الثَّرَمَانُ: ایک درخت ہے اُشٹان کی مانند
 جس کی اُونٹ اور بکری کھاتے ہیں۔
 الْأَثْرَمَانُ: شبِ دروز۔ زمانہ و موت۔
 ثَوْرًا (ن) ثَوْرًا وَثَوْرًا وَثَوْرًا: ثَوْرِي (س) ثَوْرِي:
 الرَّجُلُ: بہت مال والا ہونا۔ ثَرَاةٌ: بالدار
 میں بڑھ جانا۔ ثَرُ اللّٰهُ القَوْمُ: زیادہ کرنا۔
 أَثْرَى اَثْرَاءً: بہت مال والا ہونا۔ صفت
 (ثَوْنِيٌّ وَ مَثْرُ وَ اَثْرِيٌّ) مَوْثِ ثَرَوَاءُ:
 الثَّرَاءُ وَالثَّرَوَةُ: مال یا قوم کی کثرت۔
 الثَّرِيًّا: بالدار عورت (ثَوْرًا) کی تصغیر،
 ستاروں کے مجموعے کا نام۔ جَمَارٌ:
 الثَّرَوَانُ: بہت مال والا۔
 ثَوْرِي (س) ثَوْرِيٌّ وَ اَثْرِيٌّ: الثَّرَابُ: خشک
 ہونے کے بعد تروزم ہونا۔ صفت (ثَرِيٌّ)

السَّحَابُ: برسنا۔ صفت ثَاوِقُ:
 انْفَذَقَ: النَّاسُ عَلَيْهِ: حملہ کرنا۔
 ثَدَّمَ: الاَثْرِيْقُ: چھنا لگانا۔
 الثَّدْمُ: گنگلو اور جمت میں عاجز۔ بیوقوف
 سَسَفَ مَوْثِ ثَدْمَةً:
 البِدَامُ: چھنا۔
 اَدِنَ (س) ثَدْنَا: اللّٰحْمُ: بدبودار ہونا۔
 (وَتَدَنَ) الرَّجُلُ: پُرْگُوشَت اور بھاری ہونا
 صفت (تَدَنٌ وَ مَثَدَنٌ)
 اَتَدَنَ: الشَّيْءُ: چھوٹا کرنا۔
 ثَدَّاهُ (ف) ثَدَّوًا: تڑکنا۔
 ثَدِي (س) ثَدِيٌّ: تڑہونا۔
 الثَّدْيُ وَالثَّدْيُ: پستان (مذکر و مؤنث) ج
 ثُدِيٌّ وَثُدِيٌّ وَ اَتُدِيٌّ:
 الثَّدْيَانُ: بڑی پستان والی عورت۔
 ثَرَّ (ن ض) ثَرًّا وَثَوْرًا وَثَوْرَةً
 وَثَرَاةً: الشَّيْءُ: کشادہ ہونا السَّحَابَةُ او
 العَيْنُ: بہت پانی والا ہونا۔ صفت مَوْثِ (ثَوْرَةٌ
 وَثَوْرٌ) صفت مذکر (ثَوْرٌ) ج ثَوْرًا: کہا جاتا
 ہے۔ "مَطَرٌ ثَوْرٌ" بڑی بوندوں کی کثیر بارش
 "ثَوْرٌ فَرَسٌ ثَوْرٌ" کشادہ قدم رکھنے والا گھوڑا۔
 "بَسَاةٌ ثَوْرٌ" کشادہ سوراخ۔ پستان۔ اور زیادہ
 دودھ والی بکری۔
 ثَوْرَةٌ (ن) ثَوْرًا: مَثْرَقٌ کرنا السَّحَابَةَ
 مَآثِنًا: برسنا۔
 ثَوْرٌ المَكَانُ: تڑکنا۔
 الثَّرُ: بہت بولنے والا۔
 الثَّرَاةُ: بہت بولنے والا۔
 الثَّرَاةُ مِنَ الثَّوْمِ: بہت پانی والا چشمہ۔
 ثَوْرَبَهُ (ض) ثَوْرَبًا وَثَوْرَبَةً وَثَوْرَبَ عَلَيْهِ
 وَ اَثْرَبَهُ: ملامت کرنا۔ فعل کی مذمت کرنا۔
 "اَقْرَبَ الكَيْبُشُ" زیادہ پردے کی چربی والا
 ہونا۔ صفت (اَثْرَبُ) مَوْثِ ثَوْرَبًا:
 الثَّرَبُ: پردے کی چربی۔ ج ثَوْرُوبٌ وَ
 اَثْرَبٌ ج اَثْرَابُ:
 ثَوْرُوبٌ ثَوْرُوبَةٌ: الشَّيْءُ: کھیرنا۔ مَثْرَقٌ کرنا
 الکَلَامُ: وادی تباہی بک بک کرنا۔ صفت

ثَعَالَة: مادہ لومڑی کا علم (غیر منصرف)
أَرْضٌ مُتَعَلَّةٌ: بہت لومڑیوں والی زمین
ثَعْلَبٌ وَتَعْلَبٌ: لومڑی کی طرح کمر
و فریب کرنا۔

الثَعْلَبُ: لومڑی۔ جس کے متعلق مشہور ہے کہ اس کے بال ہر سال گر جاتے ہیں اور اسی سے ہے ”ذاء الثعلب“ اس بیماری کا نام ہے جس میں بال گرتے ہیں۔ مادہ کو ثَعْلَبَة اور زکو ثعلبان کہتے ہیں۔ اور ثَعْلَبُ کا اطلاق مذکورہ مؤنثوں پر ہوتا ہے۔ ج ثَعَالِبُ وَثَعَالٌ الثَعْلَبُ: بھالے کا سر اجو بھل کے اندر داخل ہو۔

الثَعْلَبِيَّةُ: دم کی بڑی۔ سرین۔

عِنَبُ الثَعْلَبِ: کومے۔ کہا جاتا ہے ”مَكَانٌ مُتَعَلَّبٌ وَ أَرْضٌ مُتَعَلَّبِيَّةٌ“ بہت لومڑیوں والی جگہ یا زمین۔

ثَفَنَعَ كَلَامَةً: غلط ملط ہونا۔ فَهُوَ ثَفَنَعَ وَ ثَفَنَاعٌ کہا جاتا ہے۔ فلاں اپنی کلام میں غلط ملط کرتا ہے۔

ثَعَبٌ (ض) ثَعْبًا: الجمد۔ بچھلنا۔ الدَّمُ: بہنا۔

تَثَعَبْتُ لِسْتَهُ بِالذَّمِّ: سوڑھے سے خون بہنا۔

الثَعْبُ: ج ثعاب و آثعاب و (الثَعْبُ) ج ثغبان و ثغبان: پہاڑ کے سایہ میں تالاب جہاں دھوپ نہ پہنچے اور اس وجہ سے پانی ٹھنڈا ہو۔

ثَغْرٌ (ف) ثَغْرًا: الاناء: سوراخ کرنا یا توڑنا
سِنَّهُ: اُكْبِرْنَا الثَّلْمَةَ: بند کرنا الجذار: گرا دینا الرَّجُلُ: دانت توڑنا۔ کہا جاتا ہے ”ثَغْرَهُمْ وَثَغْرَ عَلَيْهِمْ“ اس نے ان پر پہاڑ کے درے کو بند کر دیا۔

ثَغْرٌ وَثَغْرٌ: منہ کچلا جانا الصَّبِيُّ: دانت ٹوٹنا یا لگانا۔

الثَغْرُ وَالثَغْرُ: دانت و دانت لگانا۔
الثَغْرُ: اگلے دانت۔ منہ۔ سر حد۔ پہاڑ یا ڈاؤنی کی کشادگی۔ ج ثغور: کہا جاتا ہے۔

أَمْسُوا ثَغْرًا: یعنی وہ لوگ متفرق ہو گئے۔
الثَغْرَةُ: رخسہ۔ ہنسی کی بڑیوں کے درمیان کا گڑھا۔ آسان راستہ۔ اور اسی سے ہے ”هُوَ يَخْتَرِقُ ثَغْرَ الْمَجْدِ“ وہ بزرگی کے راستوں پر چلتا ہے۔

الثَغْرُورُ: ملک کی سرحدوں پر خوف کی جگہ۔
المَثَغْرُ: منفذ۔

الثَغْرَبُ: زرد دانت۔
أَثْمٌ: الوادی: درخت ثمامہ والی ہونا
الرَّاسُ: سفید ہونا الرَّجُلُ: غضب ناک بنانا۔ بھلاؤ بد ہنسی کرنا۔

ثَاعَمَهُ: بوسہ دینا۔
الثَّغْمُ: کانٹے والا کتا۔

الثَّغْمُ بِكَارِي كِتَا: الثَّغَامُ: ایک قسم کا سفید پھولوں والا درخت
و ان ثغامہ۔
الثَّغَامُ: سفید۔
الثَّغْلَانُ: جن و انس

ثَعَثَ (ن) ثَعَاءً: الشَّاةُ: مہینا۔ کہا جاتا ہے ”ماله ثاعية ولا راعية“ اس کے پاس نہ بکری ہے نہ اونٹنی۔ ”وما بالدار ثاع ولا راع“ یعنی گھر میں کوئی نہیں۔

أَثَعَى الثَّغَاءُ: الشَّاةُ: مہینے پر آسانا۔ کہا جاتا ہے ”أَثَعَتْهُ فَمَا أَثَعَى وَلَا أَرَعَى“ میں اس کے پاس آیا تو اس نے نہ بکری دی نہ اونٹنی۔

الثَّغِيَّةُ: بھوک۔ اور قبیلہ کا خالی ہونا۔ کہا جاتا ہے ”أَصَابَ الْحَيَّ ثَغِيَّةً“ قبیلہ بھوک میں جلاؤ ہے۔

ثَغَا (ف) ثَغَاً: القدر: جوش ٹھنڈا کرنا۔
الثَّغَاءُ: رائی۔ واحد (ثَغَاةً)
ثَغْدٌ: الدرغ: زرہ کو لباس کے نیچے پہننا۔

الثَّغَاةُ: اُور تلتے سفید بال (و المثاقفید) کپڑوں کے آستر۔ واحد مَثَغْدٌ۔
أَثَغْرٌ وَثَغْرٌ: الحمار: بچھے سے ہانکنا۔

اِسْتَثَغَرَ: الكلب بذنبه: دم دبانا۔
المَصَارِعُ بِثَوْبِهِ: لنگوت کسنا۔

الثَّغْرُ وَالثَّغْرُ: زین کے پچھلے حصہ کا تسمہ ج اَثْفَارٌ۔

ثَقَلُ (ن) ثَقْلًا وَثَقُلَ: الرَّجُلُ: چکی کے نیچے چڑھ بچھانا الشَّيْءُ: یکبارگی یکبیر دینا۔

أَثَقَلُ: الخمر: تقرتا الشَّرَابُ: تچھٹ والا ہونا۔

ثاقلة: ہم نشینی کرنا۔
تَثَقَّلَ: محمد و بزرگی سے کوتاہ ہونا۔ کہا جاتا ہے ”تَثَقَّلَ عَرَفُ سُوَيْءٍ“ اس کو بداصلی نے محمد و بزرگی سے کوتاہ بنا دیا استہ: بیٹھنا۔

الثَّقَالُ: سست رفتار اونٹ وغیرہ۔
الثَّقَالُ: چکی کے نیچے بچھانے کا چمڑا۔

(و الثَّقَالُ) چکی کا ٹھپلا پٹ۔
الثَّقَلُ وَالثَّقَالُ: تچھٹ۔

ثَفَنَتَ (ض) ثَفْنًا: الثَّاقَةُ: گلنے سے مارنا۔
ثَفَنَهُ: دغ کرنا۔ مارنا۔ ثَفَنَ الشَّيْءُ: لازم ہونا۔

ثَفَنَتَ (س) ثَفْنًا: يَدُهُ: کام کرنے سے سخت ہونا۔ اَثْفَنَ العَمَلُ يَدُهُ: سخت کر دینا۔
ثاقلة: ہم زانو ہو کر بیٹھنا۔ کسی کے ساتھ گے رہنا یہاں تک کہ اس کا مجید معلوم کر لینا علی كذا: مد کرنا۔

الثَّقِيَّةُ: من البعير: اونٹ کا وہ حصہ جو بیٹھے ہوئے زمین پر لگے اور سخت ہو گیا ہو کہا جاتا ہے ”حوى البعير على ثقياته“ یعنی اونٹ بیٹھ گیا۔ من الانسان: زانو من الخيل: گوڑے کے زانو کا اندرونی حصہ۔ ج ثَقِنَاتُ السَّيْفَةِ: لوگوں کی جماعت۔

ثَقَا (ن) ثَقْرًا: ه: تابع ہونا جیروی کرنا۔
بچھے جانا۔

أَثَقَى: الرَّجُلُ: تین عورتوں سے نکاح کرنا (و ثَقَى) القدر: ہانڈی کو چولھے کے پایہ پر رکھنا۔
المَثَقَى: وہ شخص جو تین یا زیادہ بیویوں کو دغمن کر چکا ہو۔

المَثَقَاةُ: وہ عورت جس کے تین یا زیادہ شوہر مر چکے ہوں۔

ثقب (ن) ثقباً الشيء سورخ کرنا۔
 چھیدنا۔ (ثقبوناً) النار زوشن ہونا النجم
 چمکنا الطائر اونیچا اڑنا الناقة بہت دودھ
 والی ہونا زاہبہ تانڈ ہونا الرائحة پھیلا۔
 ثقب (ک) ثقباً: سرخی میں آگ کے
 مشابہ ہونا۔ صفت (ثقباً) مؤنث ثقبیة۔
 ثقب و ثقب الشيء سورخ کرنا۔
 ثقبه ثقباً: بڑھایا ظاہر ہونا۔ (ثقب و انقب)
 النار زوشن کرنا (ثقف و انقب سورخ
 ہونا۔

الثقب سورخ۔ ج انقب و ثقب۔
 الثقبیة: چھوٹا سورخ۔ ج ثقب و ثقب
 الثقب و الثقب۔ جھٹی۔ جھوٹی جھوٹی
 لکڑیاں جن سے آگ سا لگی جاتی ہے اور جس کو
 عوام شحط یا نبط کہتے ہیں۔
 الثاقب: رأی ناقب: عمرہ راع۔ "عقل"
 ثاقب: عقل کامل۔ حسب ثاقب: مشہور
 جب کہا جاتا ہے نحن انقب الناس
 احساباً ہم لوگوں میں حسب کے لحاظ سے
 مشہور ہیں۔
 الانقب: امور میں بہت زیادہ دخل دینے

والا۔
 المثقب: زبردست سورخ کرنے کا اوزار۔ کہا جاتا
 ہے "رجل مثقب" یعنی سجدہ دار تجربہ کار
 عمرہ راع والا۔
 المثقب و المثقب: بڑا راستہ سخت و
 دشوار راستہ۔ کہا جاتا ہے "هو طلاع
 المناقب" یعنی وہ بہادر ہے۔

المثقب سورخ کیا ہوا۔
 ثقف (س) وثقف (ک) ثقفا وثقفا
 وثقافة: زبردست و سبک و چالاک ہونا۔ صفت
 (ثقف و ثقفا و ثقیف و ثقیف)
 ثقفه (س) ثقفاً: کامیاب ہونا۔ فتح مند
 ہونا۔ پایلانا۔ (ثقف و ثقافة و ثقوفة)
 الکلام جلدی سے سمجھ لینا۔
 ثقفه (ن) ثقفاً: دانائی میں غائب ہونا۔

بالروح نیزہ مارنا۔
 ثقف الروح سیدھا کرنا الولد منہذب
 بنانا تعلیم دینا۔
 ثقافته: ہتھیاروں سے باہم کھیلنا۔ دانائی میں
 غالب ہونے کی کوشش کرنا۔ جھگڑا کرنا۔ کہا
 جاتا ہے "ثاقفته ثقفته" یعنی میں نے اس پر
 غالب آنے کی کوشش کی اور غالب ہو گیا۔
 ثقفاً: باہم جھگڑا کرنا۔ دانائی میں ایک
 دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرنا۔
 الثقیاف: جھگڑا۔ نیزوں کے سیدھا کرنے کا

اوزار۔
 امرأة ثقاف: موکی و ذہین عورت۔
 الثقیف: بہت زیرک و چالاک۔ خل
 ثقیف: بہت کھنسا کر۔
 المثقف: شعراء کے عرف میں یعنی نیزہ۔
 ثقل (ک) ثقلاً و ثقالةً: بھاری ہونا۔
 صفت (ثقیل و ثقال و ثقال) ج ثقلاء
 و ثقال و ثقل السمع کچھ بھرا ہونا القول:
 سننا بگاڑ ہونا المرأة: جمل ظاہر ہونا۔
 ثقلاً (ن) ثقلاً: وزن معلوم کرنے کے

لیے ہاتھ میں اٹھانا۔
 ثقل (ک) ثقلاً: المریض سخت بیمار
 ہونا۔
 ثقلاً: بوجھل کرنا الحرف: تشہید دینا
 علیہ: بھاری بوجھ لانا ہ المرض: سخت
 ہونا۔ "انقلبت المرأة" حمل کا بھاری ہونا

اور ولادت کا وقت قریب ہونا۔
 ثقلاً: شکستہ ثقل ظاہر کرنا عنہ: دیر لگانا
 القوم: باوجود مدد طلب کیے جانے کے مدد
 کے لیے نہ اٹھنا۔
 انقل الی الدنيا: ہائسل ہونا۔
 انشتقل الشيء: بوجھل ہونا الشيء:
 بوجھل ہونا بفلان: بوجھ کو محسوس کرنا۔
 الناقل: بوجھل۔ مرض ناقل: سخت
 مرض۔ دینار ناقل: پورا دینار۔ ج ثواقل:
 کہا جاتا ہے "اصبح ثاقلاً" یعنی اس کو مرض
 نے بوجھل کر دیا۔

الثقل مسافر کا سامان اور اس کے نوکر چاکر۔
 کہا جاتا ہے "اغبطه ثقله" اس کو اس کے
 برابر دیدوں و انتقال۔ و الانتقال زمین کے
 خزانے اور دینے۔ مردے۔ قرآن مجید میں
 ہے ﴿واخرجت الأرض أثقالها﴾ و
 زمین اپنا بوجھ باہر نکال چھینے گی۔

الثقل گنہگار۔
 الثاقل الاقدس: معبود ذات کے تین
 اقسام میں سے تیسرا اقدس مقدس روح۔
 الثقلة و الثقلة و الثقلة و الثقلة:
 کل ساز و سامان۔ کہا جاتا ہے "وارثحلوا
 بثقلتهم" وہ لوگ مع اپنے پورے ساز و سامان
 کے چلے گئے۔ الثقلة: پیٹ میں خوراک کی
 گرانی۔ اونگھ۔ کہا جاتا ہے "وجدت ثقلة فی
 جسدی" میں نے اپنے بدن میں سستی
 محسوس کی۔

المثقال: تولے کے اوزان۔ مثقال
 الشيء: چیز کا وزن یا چیز کی ترازو۔ ج مثاقیل
 اور مثقال عرف میں ڈیڑھ درہم کے وزن کا
 ہوتا ہے اور کچھ کم اور کچھ زیادہ۔
 ثقل (س) ثقلًا و ثقلًا: اٹھنا۔ ہم کرنا۔
 صفت (ثقل و ثقلان): مؤنث ثاکل
 و ثاکلة و نکلیج و ثواکل و ثکالی۔
 ائکل الأم و ولدها و ائکل الولد امہ:
 بچے سے ماں کو گم کر دینا۔ اور ماں کے سامنے
 بچے کا مر جانا۔

الثقل و المثقال: بچے کو بہت گم کرنے
 والی عورت۔ جمع مشکیل: کہا جاتا ہے
 "نساء العزاة مشکیل" عازبوں کی عورتیں
 بچے کو گم کرنے والی ہیں۔
 المشکلة: سب گمشدگی فرزند۔ کہا جاتا ہے
 زُمحه لذ الذات مشکلة" اس کا نیزہ ماؤں
 کے لیے بچوں کے گم کرنے کا سبب ہے۔
 ثکم (ن) ثکماً الامرا و الطرق: کسی
 امر یا کسی راستے کیلئے لازم ہونا۔ الازار: پیروی
 کرنا لہ الامور واضح طریقہ سے بیان کرنا۔
 و ثکم (س) ثکماً: بالمکان: اقامت

المُثَلَّتْ والمُثَلِّتُ: بادشاہ کے پاس چل
خوری کرنے والا۔

المُثَلَّتُ: مِنَ الْأَحْرَافِ: تین نطقوں والا یا
تین حرکتوں والا۔ والمُثَلَّتُ فِي الْهِنْدَسِيَّةِ:
تین ضلعوں والی شکل۔

المُثَلُّوْتُ: تین سے مرکب۔ وہ چیز جس کی
تہائی لے لی گئی ہو مِنَ الْجِبَالِ: تین لٹوں کی
ٹی ہوئی رستی۔ كَسَاءٌ مَثَلُّوْتُ: اُون بال اور
اُونٹوں کے بال کا بنا ہوا کپڑا۔

المُثَلُّوْفَةُ: تین چمڑے کا بنا ہوا توشہ دان۔
تَلَبَّجَتْ (ن) تَلَجًا وَاتَّلَجَتْ السَّمَاءُ:
برف گرا۔ تم کہتے ہو تَلَجْنَا السَّمَاءَ یعنی
ہمارے اوپر برف پڑی۔

تَلَبَّجَتْ (ن) تَلَجًا: نفسی بہ والیہ:
خوش ہونا۔ مطمئن ہونا۔
تَلَبَّجَتْ (س) تَلَجًا وَاتَّلَجَتْ: نفسی
بہ۔ مطمئن ہونا۔ خوش ہونا۔

تَلَجٌ: فَوَادُهُ: بلید الطبع ہونا۔ صفت
(مَثَلُوجٌ) الفَوَادُ: تَلَبَّجَتْ الْأَرْضُ
وَاتَّلَبَّجَتْ: برف پڑنا۔

اتَّلَجَهُ: خوش کرنا۔ اتَّلَجَ القَوْمُ: برف میں
داخل ہونا۔ اتَّلَبَّجَتْ عَنْهُ الحُمَّى: زائل
ہونا۔ اتَّلَجَ ماء البئر: ختم ہونا۔

التَّلَجُ: برف۔ تَلَجُجٌ: واحد تَلَجَةٍ. ماءٌ
تَلَجٌ: ٹھنڈا پانی۔

التَّلَاجُ: برف بیچنے والا۔
التَّلَاجِيُّ: التَّلَاجِيُّ: بہت سفید۔ کہا جاتا ہے "فَضْلٌ
تَّلَاجِيٌّ"

المُتَلَجَّةُ: برف کی حفاظت کی جگہ۔
المَثَلُوجُ: برف پڑی ہوئی چیز۔ رَجُلٌ
مَثَلُوجٌ الفَوَادُ: بلید الطبع مرد۔ ماءٌ
مَثَلُوجٌ: برف سے ٹھنڈا کیا ہوا پانی۔

تَلَطَّ (ض) تَلَطًا: الثَّوْرُ أَوْ البَعِيرُ: پٹا
پانچنا کرنا۔

تَلَعٌ (ف) تَلَعًا: رَأْسُهُ: کپٹا۔ تَوَزَّأَ:
تَلَعٌ (ف) تَلَعًا: رَأْسُهُ: کپٹا۔ تَوَزَّأَ:
المُتَلَعُ: مِنَ التَّمْرِ: پھٹ کر زمین پر گری

الْأَثَلْبُ وَالْأَثَلْبُ مَثَلُوجٌ يَأْتِيهِمْ كَأَنَّ
أَثَلْبًا:

المُثَلَّبُ: وہ شخص جس کی عادت عیب لگانے
کی ہو۔

المُثَلَّبَةُ: عیب۔ گالی۔ کہا جاتا ہے "مَا
عَرَفْتُ فِيهِ مَثَلْبَةً" میں اس کے اندر کوئی
عیب نہیں جانتا۔ مَثَلْبٌ: مَثَلْبُ الْأَمْرِ:
کسی امر کے عیوب۔

تَلَّتْ (ن) تَلَّتًا: الشَّيْءُ: تہائی لینا۔
القَوْمُ: تہائی مال لے لینا۔ تیرا ہونا۔

تَلَّتْ: الْإِثْنَيْنِ: اپنے کو ملا کر تین کر دینا
الشَّيْءُ: مَثَلْبٌ يَأْتِيهِ الشَّرَابُ: تہائی باقی رہنے
تک پکا لاشی: تین مرتبہ کرنا۔

أَتَلَّتْ: القَوْمُ: تین ہونا۔ تمیں ہونا۔ مثلاً
"كَأَنَّهُمْ تِسْعَةُ وَعِشْرِينَ فَاتَّلَتُوا" وہ لوگ
اُنٹیں تھے تمیں ہو گئے۔

التَّلَاةُ: تین۔ مَوْنَةٌ تَلَاةٌ:
ذُو التَّلَاةِ: تین لٹ والی رستی۔ اور تم کہتے
ہو "فَعَلَهُ تَلَاةً" اس نے اس کو تین مرتبہ

کیا۔
التَّلْتُ: اُونٹنی کا تیرا پچ۔ کہا جاتا ہے
"سَقَى زُرْعَهُ التَّلْتُ" اس نے اپنے کھیت کو

تین دن میں ایک مرتبہ پانی دیا۔
التَّلْتُ وَالتَّلْتُ: تہائی۔ جِ التَّلَاتُ: اور
اسی معنی میں (التَّلْبِتُ) ہے۔

التَّلَاتَاءُ وَالتَّلَاتَاءُ وَيَوْمَ التَّلَاتَاءِ: منگل۔
اس کا تثنیہ تَلَاتَاءَانُ: اور جمع تَلَاتَاتُ
وَثَلَاتَاتُ ات وَثَلَاتُ:

الحِطُّ التَّلْتِيُّ: موٹے حروف والا خط۔
اتوا تَلَاتٌ أَوْ مَثَلَّتْ وہ تین تین آئے۔ یہ
غیر منصرف ہے اور مذکر و مؤنث دونوں کے
لیے یکساں ہے۔

التَّلَاتَانُ وَالتَّلَاتَانُ: کونے کا پودہ۔
التَّلَاتُونَ: تمیں (مذکر و مؤنث)
التَّلَاتُ: تین سے مرکب۔

المُثَلَّلُ: جو تانت کہ تین لٹ کا ہو۔ بربط۔
باجہ کا تیرا تانت۔ جِ مَثَالِبُ:

تَلَبَّجَتْ (س) تَلَجًا: الشَّيْءُ: رخصہ دار ہونا۔
العَجَلَةُ: سگڑا۔

التَّلْبُ: بوڑھا اونٹ جس کے دانت گر گئے
ہوں۔ جِ ثَلْبَةٌ وَأَثَلَابُ:

والتَّلْبُ: عیب دار۔ ذلیل۔ زَمْعٌ قَلْبُ:
رخصہ دار تیز۔

کرتا۔

تَكْمُ: الطَّرِيقُ وَتَكْمَتُهُ: راستہ کا درمیان
قَلَّ (ن) تَلَا: البِنُو: کونئیں سے مٹی نکالنا
الْوَعَاءُ: برتن سے سب کچھ نکال لینا (تَلَا
تَلَلًا) القَوْمُ: ہلاک کرنا البَيْتُ: گرا دینا۔

ذُحَادِيْنَا: کہا جاتا ہے "تَلَّ اللَّهُ عَرَشَهُمْ" یعنی
اللہ نے ان کے ملک کو برباد کر دیا۔ وَتَلَّ
عَرَشَهُمْ اُن کی عزت ضائع ہو گئی التَّرَابُ:

گرا۔ ذُحَادِيْنَا ذِي حَافِرٍ: لید کرنا۔
أَتَلَّهُ اِتْلَالًا: مرمت کرنے کا حکم دینا۔
الرُّجُلُ: بہت بھیڑوں والا ہونا۔ فَمَهُ: بے
دانت والا ہونا۔

تَقَلَّلَ: البَيْتُ: آہستہ آہستہ گرا۔
اِنْقَلَّ: ڈھے جانا۔ گرا جانا۔
الغُلُّ: ہلاکت۔ دانتوں کا گرا۔
الْيَلَّةُ: ہلاکت۔ جِ تَلَّلَ:

الْيَلَّةُ: بھیڑوں کا ریوڑ۔ اُون۔ کہا جاتا ہے
"كَسَاءٌ جَيْدٌ التَّلَّةُ" عمدہ اُون کا کپڑا۔
کونئیں کی نکالی ہوئی مٹی۔ جِ تَلَّلَ وَتَلَالُ:
اُون، بال اور اُونٹوں کے بال کا مجموعہ۔

التَّلَّةُ: لوگوں کی جماعت۔ کہا جاتا ہے۔
"فَلَاذَنْ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ التَّلَّةِ وَالتَّلَّةِ" فلاں
بھیڑوں اور آدمیوں کی جماعت میں فرق نہیں
کرتا۔

التَّلَّةُ: نیستی و ہلاکی۔ جِ تَلَّلَ:
المَثَلَّةُ: بیابان میں ساہنباں۔
تَلَبَّهُ (ض) تَلَبًا: عیب لگانا۔ ملامت کرنا۔
غیبت کرنا۔ گالی دینا۔ دَحْرًا كَرَانًا الشَّيْءُ: رخصہ
دار۔

ذُحَادِيْنَا: بہت بوڑھا ہونا اور دانتوں کا
تَلَبَّ (س) تَلَبًا: الشَّيْءُ: رخصہ دار ہونا۔
العَجَلَةُ: سگڑا۔

التَّلْبُ: بوڑھا اونٹ جس کے دانت گر گئے
ہوں۔ جِ ثَلْبَةٌ وَأَثَلَابُ:

والتَّلْبُ: عیب دار۔ ذلیل۔ زَمْعٌ قَلْبُ:
رخصہ دار تیز۔

تَلَبَّجَتْ (س) تَلَجًا: الشَّيْءُ: رخصہ دار ہونا۔
العَجَلَةُ: سگڑا۔

التَّلْبُ: بوڑھا اونٹ جس کے دانت گر گئے
ہوں۔ جِ ثَلْبَةٌ وَأَثَلَابُ:

والتَّلْبُ: عیب دار۔ ذلیل۔ زَمْعٌ قَلْبُ:
رخصہ دار تیز۔

تَلَبَّجَتْ (س) تَلَجًا: الشَّيْءُ: رخصہ دار ہونا۔
العَجَلَةُ: سگڑا۔

التَّلْبُ: بوڑھا اونٹ جس کے دانت گر گئے
ہوں۔ جِ ثَلْبَةٌ وَأَثَلَابُ:

والتَّلْبُ: عیب دار۔ ذلیل۔ زَمْعٌ قَلْبُ:
رخصہ دار تیز۔

تَلَبَّجَتْ (س) تَلَجًا: الشَّيْءُ: رخصہ دار ہونا۔
العَجَلَةُ: سگڑا۔

التَّلْبُ: بوڑھا اونٹ جس کے دانت گر گئے
ہوں۔ جِ ثَلْبَةٌ وَأَثَلَابُ:

ہوئی مجبور۔ تم کہتے ہو: ”تَنَابَرَتِ الثَّمَارُ فَطَلَعَتْ“ پھل پھرنے اور پھلنے۔

ثَلَمَ (ض) ثَلَمًا وَثَلَمًا. الحَايِطُ: رخہ ڈال دینا الإنَاءُ: کنارے سے توڑنا۔

ثَلِمَ (س) ثَلِمًا وَتَلَمَّ وَانْقَلَمَ: رخہ پڑنا۔ ثَلِمَ ثَلِمَةً فِي مَالِهِ: کچھ ضائع ہونا۔

الثَّلْمُ: ج انلام و (الثَّلْمَةُ) فِي الحَايِطِ وَنَحْوِهِ: شگاف۔ رخنہ۔ الثَّلْوِيُّ: ہوئی جگہ۔

الْأَثْلَمُ: ہر وہ چیز جس کا رخنہ ظاہر ہو۔ مٹی پتھر۔

ثَمَّ (ن) ثَمًّا. الشَّيْءُ: درست کرنا۔ تم کہتے ہو ”ثَمَمْتُ أُمُورِي“ میں نے اپنے امور کو درست کر لیا۔ ثَمَمْتُ الشَّاةَ الثَّبْتَ بِفَمِّهَا:

کبری نے گھاس کو اپنے منہ سے صاف کر لیا۔

انْتَمَّ: الجَسْمُ: کھانا۔ کزور ہونا الشَّيْخُ: پوڑھا ہونا۔ مغت (ثَمَّة)

ثَمَّ وَثَمَّةً: وہاں۔ اسم ہے جس سے بعد کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

الثَّمَّ: ثَمَّ کا مصدر بمعنی درست کرنا۔ اور اسی سے ہے ”كُنَّا أَهْلَ ثَمَّةَ وَرَمَّةَ“ ہم اصلاح و مرمت کے اہل تھے۔ اور کہا جاتا ہے۔ ”ہو

ثَمَّةَ وَرَمَّةَ او ثَمَّةَ وَرَمَّةَ او ثَمَّةَ وَرَمَّةَ“ وہ اس کا جید وردی قلیل و کثیر ہے۔ اور کہا جاتا

ہے ”مالہ ثَمَّ وَلاَ رَمَّ“ یعنی وہ کسی چیز کا مالک نہیں۔

ثَمَّ: حرف عطف ہے۔ ترتیب اور ترائی کے لیے مستعمل ہے۔ اور اس پر تا بھی آتا ہے کہا

جاتا ہے ثَمَّتْ. الثَّمَّةُ: سوکھی گھاس کا ٹھاٹھا۔

الثَّمَامُ: ایک قسم کی گھاس جو لائی نہیں ہوتی واحد ثَمَامَةٌ.

المِثْمُ: مِنَ النَّاسِ: لبتھا برابر قسم کا کھانا کھانے والا۔

ثَمَاهُ (ف) ثَمًّا: چربی کھانا الرَّاسُ: چکنا توڑنا الأَنْفُ: کنارہ توڑ دینے سے خون بہنا۔

ثَمَّجَهُ (ض) ثَمَّجًا: باہم ملانا۔

المُثْمِجُ: مختلف رنگوں سے رنگنے والا۔

مُؤْتَمٌ مِثْمِجَةٌ.

ثَمَدًا (ن ض) ثَمَدًا وَاتَّمَدًا وَاسْتَمَدًا. المَاءُ: پانی جمع ہونے کے لیے حوض کی مانند

بنانا۔ ثَمَدَ الشَّيْءُ فَلَانًا: کسی کے پاس کسی چیز کا اس طرح ہونا کہ اس کا سارا مال ضائع ہو

جائے۔ النَّاقَةُ بِالْحَلَبِ: دوہنے میں اونٹنی کا دودھ کو سبک لینا۔

الْأَثْمَدُ وَاتَّمَدَ وَاسْتَمَدَ: تھوڑے پانی کی طرف جانا۔

اسْتَمَدَهُ: بخشش طلب کرنا۔ الثَّمَدُ وَالثَّمَدُ: تھوڑا پانی جو جاڑوں میں جمع

رہے اور گرمیوں میں خشک ہو جائے گڑھا جس میں بارش کا پانی جمع ہو۔ ج ثمداد

الإِثْمَدُ وَالْأَثْمَدُ: ایک قسم کا پتھر جس سے سرمہ تیار کیا جاتا ہے اور جس کو علماء کیمیا تہیون

کہتے ہیں۔ رَجُلٌ مَثْمُودٌ: وہ شخص جس کو ساتلین کی

کثرت مفلس بنائے۔ ثَمَرُ (ن) ثَمُورًا وَاتَّمَرَ. الشَّجَرُ:

پھلدار ہونا۔ صفت (ثَامِرٌ وَثَمِيرٌ). اَثْمَرَ الشَّجَرُ الثَّمَرَ: پھل لانا۔ اِثْمَرَ القَوْمُ:

پھل کھلانا۔ ثَمَرٌ: مَالُهُ: بڑھانا۔ زیادہ کرنا۔

اسْتَمَرَّ: الشَّيْءُ: نتیجہ خیز بنانا الرَّجُلُ: پھل پانا۔

الثَّمَرُ: پھل۔ واحد ثَمْرَةٌ. ج ثَمَارٌ ج ثَمَرَاتٌ وَثَمَرٌ. الثَّمْرَةُ: نسل۔ اولاد۔ ثَمْرَةٌ

اللِّسَانِ: زبان کا کنارہ السُّوْطُ: چابک کے سرے کی گرہ۔ اور اسی سے ہے ”أَمَرَ

الْحَجَلَادَانِ يَذُقُ ثَمْرَةَ سَوِطَةٍ“ اس نے جلاد کو حکم دیا کہ کوڑے کے سرے کی گرہ کو

چکلے۔ ثَمْرَةُ القَلْبِ: دوستی۔ مُجْتَبَعٌ: اور اسی سے ہے ”حَصْنِي بِثَمْرَةِ قَلْبِي“ اس نے

مجھ کو اپنی دوستی کے لیے خاص کیا۔ الثَّامِرُ: لوبیا۔

شَجَرَةٌ ثَمْرَاءٌ: پھل دار درخت۔ أَرْضٌ

ثَمْرَاءٌ: بہت پھلوں والی زمین۔

ثَمَّلَ (س) ثَمَلًا: مست ہونا۔ صفت (ثَمَّلٌ)

ثَمَلَهُ (ن ض) ثَمَلًا: فریادیں کرنا۔ کھلانا پلانا۔ غمخواری کرنا۔

أَثَمَلَهُ: مدہوش کرنا۔ أَثَمَلَ اللَّيْنُ: بہت جھاگ والا ہونا۔

(رَثَمَلٌ) اللَّيْنُ: جھاگ اٹھنے کے لیے اچھالنا۔

تَثَمَّلَ: مافی الإناء: پینا۔ الثَّمَلَةُ ج ثَمُولٌ وَ(الثَّمَلَةُ) ج ثَمَلٌ

(الثَّمَلَةُ) ج ثَمِيلٌ وَثَمَائِلٌ وَ(الثَّمَالَةُ) ج ثَمَالٌ: حوض یا برتن میں باقی ماندہ پانی

و غیرہ۔ الثَّمَالَةُ: جھاگ۔ الثَّمَالُ وَالثَّمَالُ: زہر قاتل۔

ثَمَالٌ: القَوْمُ: قوم کا فریادیں۔ الثَّمِيلُ: کھادودھ۔

الثَّمَلَةُ: حوض۔ تالاب۔ البَثْمَلَةُ: حوض کی تلی کی کچڑ۔ چرواہے کا

تھیلا۔ جس کو وہ اپنے کندھے پر رکھتا ہے۔ ثَمَنَ (ن ض) ثَمَنًا. الرَّجُلُ: کسی شخص

کے مال کا آٹھواں حصہ لینا الشَّيْءُ: آٹھواں حصہ لینا القَوْمُ: آٹھواں ہونا۔

ثَمَنَ (ك) ثَمَانَةً. الشَّيْءُ: قیمتی ہونا۔ ثَمَنَ. الشَّيْءُ: قیمت کا اندازہ کرنا۔ آٹھ

صلحوں والی بنانا۔ أَثَمَنَ. القَوْمُ: آٹھ ہونا۔ أَثَمَنْتُ المَالَ

زَيْدًا وَزَيْدٌ قِيمَتَ دِيَارِ

الثَّمَنِ: بیع شدہ چیز کا بدلہ۔ قِيمَتُ ج أَثْمَانٌ وَأَثْمَنَةٌ وَأَثْمَنٌ.

الثَّمَنِ وَالثَّمَنِ: آٹھواں حصہ۔ ج اثمان اسی معنی میں ثَمِينٌ ہے اور الثَّمِينُ: قیمتی۔

آتُوا (ثَمَانٌ وَثَمْنٌ) وہ لوگ آٹھ آٹھ آئے (غیر منصرف ہے)

الثَّمَانِيَّةُ: آٹھ۔ مؤنث ثَمَانٌ۔ اور تم کہو گے ”ثَمَانِيَّةٌ عَشْرٌ رَجُلًا وَثَمَانِي عَشْرَةٌ امْرَأَةً“

القَامِنُ: آسواں۔

القَمَانُونَ: آستی۔ (۸۰)

المُحْمَنُ: وہ چیز جس کی قیمت کا اندازہ کیا گیا ہو۔ بہت پہلے۔ آٹھ طلوں والی چیز۔

الثَّنَّةُ: گھوڑے کے پاؤں کے پچھلے حصے کے بال۔ ج ثُنن۔

الثَّنْدُوَّةُ وَالثَّنْدَوَةُ: مرد کا وہ حصہ جو عورت کے پستان کا ہے۔ ج ثناد۔

ثَنِي (ض) ثَنِيًا. الثَّنِي: موڑنا۔ لیٹنا۔

بعض کو بعض پر تہہ کر دینا و کنا زیدًا حاجت سے باز رکھنا۔ دوسرا ہونا۔ تم کہتے ہو ”ہذا

وَاحِدٌ فَآثِيَةٌ“ یہ ایک ہے تم دوسرے بن جاؤ

کہا جاتا ہے ”ثَنِي عَلَيْهِ بَصْرِيَّةٌ ثَانِيَةٌ“ اس نے اس کو دوبارہ مارا۔ ”وَفَلَانٌ لَثِيْبِي وَلَا يَنْتَلُكُ“ یعنی فلاں چلنے کی طاقت نہیں رکھتا۔

”وَفَنِي صَدْرُهُ“ یعنی اس نے اپنے دل میں دشمنی کو پوشیدہ کیا۔

ثَنِي الثَّنِي تَثْنِيَةً: دوہرا کرنا یا لامبو: ایک کام کے ساتھ دوسرا کام ملا دینا۔ الکلمة: شنیہ کی علامت لگانا۔ ایک حرف پر دو نطقے لگانا۔

أَثِي: الرَّجُلُ: دوسرا ہونا عَلَيهِ تَعْرِيفُ کرنا عَلَيهِ بِالضَّرْبِ: دوبارہ مارنا۔

تَثَانًا: عَلَيهِ: بہرہاںیاں ظاہر کرنا۔

اسْتَثْنِي: الثَّنِي: حکم عام سابق سے نکالنا

فُلَانًا وَعَلَى فُلَانٍ: کسی کو غیر کے حکم سے خارج کرنا۔

إِثْنُونِي: صدرہ عَلَي البَغْضَاءِ: بغض و عداوت پر مشتمل رہنا۔

الثَّنِي: مِنَ الثَّوْبِ: پیچ۔ لیٹ۔ تم کہتے ہو ”أَرْسَلْتُهُ ثَنِي كِتَابِي“ میں نے اس کو اپنے

خط میں ملفوف کر کے بھیجا مِنَ الْوَادِي: موڑ

مِنَ اللَّيْلِ: وقت مِنَ الْحَيَّةِ: کندلی ج آٹنا۔ آٹنا۔ آٹنا۔ کلام: دوران گفتگو۔ تم کہتے

ہو ”جَاؤْ فِي آتْنَاءِ الْأَمْرِ“ یعنی وہ لوگ کام کے درمیان میں آئے۔

الثَّنِي: دہرائی ہوئی بات۔ ج ثنية

(وَالثَّنِيَانُ) سردار سے دوسرے درجہ کا آدمی۔

الثَّنَاءُ: تعریف۔ ج اثنية۔

الثَّنَاءُ: اُونٹ کے زانو باندھنے کی دہری رشتی۔

أَقْوَا (ثَنًا وَمَثْنِيًا): وہ لوگ دو دو آئے (غیر

منصرف ہے اور مذکر مونث کے لیے یکساں ہے)۔

الثَّنِي: ج ثناء وَثَنِيَانُ: وہ جانور جس کے سامنے کے دانت گر گئے ہوں۔

الثَّنِيَّةُ: سامنے کے اوپر کے نیچے کے دو دو دانت۔ ج ثنایا استثناء: کہا جاتا ہے ”حَلَفَ

يَمِينًا لَيْسَ فِيهَا ثَنِيَّةٌ“ اس نے بغیر اشتہاء کے قسم کھائی۔ کھائی کا راستہ۔ کہا جاتا ہے۔

”فُلَانٌ طَلَّاعُ الثَّنَائِيَا“ یعنی فلاں مشقتوں کا برداشت کرنے والا ہے۔

تَثْنِيَةُ الْأَشْتِرَاعِ: موسیٰ کی کتابوں میں سے پانچویں کتاب۔

الثَّنَائِي: مِنَ الْأَلْفَاظِ: دو حرفوں والا۔

إِثْنَانٌ يَوْمُثٌ ثَنَانٌ وَإِثْنَانٌ يَوْمُ: الاِثْنَانُ وَيَوْمُ الْإِثْنَيْنِ: پیر کا دن۔ سوموار۔

الثَّنَانِي: يَوْمُثُ الثَّنَانِيَّةِ: دوسرا۔

الثَّنَانِيَّةُ: يَكْنَزُ: ج الثَّنَانِي: الثَّنَوِي وَالثَّنِيَا: مِنَ الْجَزْوَرِ: ذبح کیے

ہوئے جانور کا سر پاؤں مستثنیٰ کیا ہوا۔

الثَّنِي: بِرِبْطِ بَاجِجٍ: پہلے تار کے بعد والا

تار ”مَثْنِي الْوَادِي: وادی کا موڑ۔ ج المَثَانِي: المَثَانِي: قرآن کی آیتیں۔

مَثَانِي الثَّنِي: کسی چیز کی لڑی وغیرہ۔

وَالْمَثَانِي مِنَ الدَّابَّةِ: زانو اور کہنیاں۔

المَثَانَةُ: اُون اور بال وغیرہ کی رشتی۔ کئی

لیٹ ج مثنایہ۔

ثَاب (ن) ثَوْبًا وَثَوْرًا: لوٹنا النَّاسُ: اکٹھا

ہونا المَاءُ: حوض میں جمع ہونا (ثَوْبَانًا

وَأَثَوْبًا إِثْوَابًا) المَرِيضُ: چنگا ہونا۔

ثَوْبِيَّةٌ: مِنَ كَذَا: بدلہ دینا الرَّجُلُ: جانے

کے بعد واپس ہونا۔ (وَتَثَوَّبُ) الْمُصَلِّي: فرض کے بعد نفل نماز پڑھنا۔

أَثَابَ إِثَابَةً: الرَّجُلُ: چنگا ہونا الرَّجُلُ: بدلہ دینا ۵ جزاء ۵: دینا۔

الحَوْضُ: بھرتا۔

تَثَوَّبُ: ثواب حاصل کرنا۔

إِسْتَبَابَ: المَالُ: لوٹنا الرَّجُلُ: بدلہ مانگنا۔

الثَّنَابُ: فَا: بارش سے پہلے کی تیز ہوا مِنْ

الْبَحْرِ: سمندر کا بڑھتا ہوا پانی بھاننا کے بعد۔

الثَّوْبُ: کپڑا ج ثِيَابٌ وَأَثَوْبٌ: ثَوْبٌ: کہا جاتا ہے ”طَاهِرٌ أَوْ دَسَسَ الثِّيَابُ“ پاک

نفس یا عیبت النفس۔

الثَّوَابُ وَالمَثْوِيَّةُ وَالمَثْوِيَّةُ: اعمال کا بدلہ۔ خیر ہو یا شر عموماً خیر کے لیے مستعمل ہے۔

الثَّوَابُ: شہد۔ شہد کی مکھی۔

الثَّوَابُ: بزاز۔ کپڑے کا سوداگر۔ کپڑے والا۔

الثِّيَابِي: کپڑوں کا محافظ۔

المَثَابُ وَالمَثَابَةُ: جمع ہونے کی جگہ۔

”مَثَابُ الْبَيْتِ وَمَثَابَتُهَا: کنوئیں کے ارد گرد کے اونچے پتھر۔

الثَّوَجُ: مٹی چونہ اٹھانے کی نوکری۔

ثَاخَتْ (ن ض) ثَوْرًا وَثِيْبًا: الإِضْبَعُ فِي الْوَرْمِ أَوْ الرَّجُلِ فِي الْوَحْلِ: اَلْأُتَى: درم میں یا پیر کا کچھڑ میں دھنسا۔

ثَار (ن) ثَوْرًا وَثَوْرًا: جوش میں آنا۔ بھڑکنا۔ اور اسی سے ہے ”ثَارَتْ

الْفِتْنَةُ بَيْنَهُمْ“ ان کے درمیان فتنہ و فساد بھڑک اٹھا۔

الغُبَارُ أَوْ الدُّخَانُ: بلند ہونا الجَوَادُ: ٹیڑوں کا ظاہر ہونا نَفْسُهُ: جی کا مٹلانا الیہ

وَبِهِ: حملہ کرنا۔ کود پڑنا۔

ثَاوْرَةٌ مَثَاوِرَةٌ وَثَوَارًا: ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔

ثَوْرَةٌ وَأَثَارَةٌ وَاسْتِثَارَةٌ: جوش دلانا۔ ثَوْرَ الْأَمْرِ: کھود کرید کرنا۔ ثَوْرَ الْكِتَابِ: معانی میں بحث کرنا۔

کرنے والا۔ موتی میں سوراخ کرنے کا آلہ
(الشيئة) بکریوں کا باڑہ۔

بہ: اقامت کرنا لَزَجْل: مرنا۔
ثَوَى: دفن کیا جانا۔

قَوَاهِ ثَوِيَّةٌ. فِي الْمَكَانِ: ٹھہرانا۔ قیام
کرانا۔

أَثَوَى: اقامت کرنا لَثَوَاهِ: مہمانی کرنا۔
اَثَوَاهِ فِي الْمَكَانِ: ٹھہرانا۔ قیام کرانا۔

تَثَوَاهِ: مہمان بننا۔
الثَوَّةُ: گھر کا سامان، راستہ کے نشان کے
پتھر۔ رُثْوَى.

الثَاوَةُ وَالثَايَةُ: اوتھوں کا باڑہ۔
الثَوَى: مہمان۔ مہمان خانہ، قیدی۔ رُثْوِيًّا

مَوْثُوِيَّةٌ. الثَوِيَّةُ: بھیڑ بکری گائے اوتھ
کا باڑہ۔ عورت۔ کہا جاتا ہے "هَذِهِ ثَوِيَّةٌ

فُلَانٌ" یہ فلاں کی بیوی ہے۔
الثَوِيَّةُ: پتھر جو راستہ میں نصب کر دیا جائے

تاکہ چرواہے کے لیے علامت رہے جبکہ وہ
رات میں واپس ہو۔

المَثْوَى: منزل۔ مَثَاوٍ. ابو المَثْوَى:
مہمان۔ اَبُو مَثْوَاهُ: میزبان۔ اُمُّ مَثْوَاهُ:

میزبان کی بیوی۔
تَثَيَّبَتْ وَتَيَّبَتْ. المَرَاةُ زَوْجَهَا: موت

یا طلاق کی وجہ سے شوہر سے جدا ہونا۔ صفت
(تَيَّبَتْ) وَالتَّيَّبُ: باکرہ کی ضد۔ شادی شدہ

مرد یا عورت۔ (مذکر و مؤنث) دونوں کے لیے
یکساں ہے۔ تم کہتے ہو "جَلَّ تَيَّبٌ" شادی

شدہ مرد/عمرأة تَيَّبٌ" شوہر سے جدا شدہ
عورت/شب: جو عورتوں کے لیے ہے اس کی

جمع تہیات ہے اور کہا جاتا ہے "بُنُو تَيَّبٌ"
کونوں جس میں پائی جمع ہو۔

المُثَيَّبُ: خاندان سے جدا شدہ عورت۔
الْمُثَيَّبِلُ: پہاڑی بکری۔ نامرد۔ عورتوں کے

پاس بیٹھے والا۔
تَيَّبَلٌ وَتَثَيَّبَلٌ. الرَّجُلُ: عقل مندی کے

بعد بیوقوف بننا۔
الغَيْبِلُ وَالتَّيَّبِلُ: ایک قسم کی گردہ دار نباتات جو

زمین پر پھیلتی ہے۔
الثَّيْنِ: موتی نکالنے کی جگہ، موتی میں سوراخ

تَقْوَرٌ: جوش میں آنا۔

ثَوْرَانٌ. الشَّفَقُ وَثَوْرَةٌ: شفق کی سرخی۔
الثَّوْرُ: بیل۔ آسمان کے ایک برج کا نام ج

ثیران۔ وَأَثْوَارٌ وَثِيْرٌ وَثِيْرَةٌ وَثَوْرَةٌ.
الثَّوْرُ: پتھر کا بڑا ٹکڑا۔ جِثْوَارٌ وَثَوْرَةٌ.

الثَّوْرُ: ناخن کی جڑ کی سفیدی۔
الثَّوْرَةُ: گائے۔ کثرت۔ کہا جاتا ہے "ثَوْرَةٌ

رَجَالٌ أَوْ رَمَالٌ:" لوگوں کی یاریت کی
کثرت۔ جوش و ہيجان۔ بغاوت۔

الثَّائِرُ: فَاءُ. کہا جاتا ہے "فَارَ ثَائِرَةٌ فَارَ
ثَائِرَةٌ" یعنی وہ غضبناک ہوا۔ "وَرَأَيْتَهُ ثَائِرٌ

الرَّاسِ" میں نے اس کو براگندہ بال دیکھا۔
الثَّائِرَةُ: شور۔ جِجْ-رُثْوَانِ.

المَثْوَرَةُ: بہت بیلوں والی زمین۔
فَاعٌ (ن) مَثْوَعًا. المَاءُ: بہنا۔

ثَوَلْتُ (س) مَثْوَلًا وَفَالْتُ (ن) مَثْوَلًا.
الشَّاةُ خَاصَّةً: دیوانی ہولناکی۔ بیوقوف

ہونا۔ مَفْعَلٌ أَثْوَلٌ. مَوْثُوْلًا. مَثْوَلٌ جِجْ
أَثْوَلَةٌ.

تَثَوَّلَ. النَخْلُ: انکھا ہوجلیہ القوم: بُرَا
بھلا کہنے اور مارنے بیٹھے لگنا۔

إِنْتَالٌ إِنْيَالًا. عَلَيْهِ الثَّرَابُ: گرنا۔ کہا جاتا
ہے "إِنْتَالٌ عَلَيْهِ النَّاسُ مِنْ كُلِّ وَجْهِ"

لوگ اس پر ہر طرح سے ٹوٹ پڑے عَلَيْهِ
القَوْلُ: زبان پر خود بخود آ جانا۔

الثَّوَلُ: شہد کی کھپوں کا جھنڈ۔
الثَّوِيلَةُ: قبیلہ کے جمع ہونے کی جگہ۔ متفرق


گھروں کے لوگوں کا جھنڈ۔ کہا جاتا ہے "اتسى
ثَوِيلَةً مِنَ النَّاسِ" لوگوں کی جماعت آئی۔

الثَّوْمُ: لہسن۔
الثَّوْمَةُ: ایک لہسن۔ تلوار کے دستے کے

کنارے کی آرائش۔ تم کہتے ہو "سَيْفِي ثَوْمَةٌ
مِنْ فِصَّةٍ" میری تلوار کے دستے کا کنارہ

چاندی کا ہے۔
تَثَاوَنَ: کمزور فریب کرنا۔

الثَّوَيْبِيُّ: آئے میں لگانے کی خشکی۔ بلیغصن۔
ثَوَى (ض) ثَوَاءً وَثَوِيًّا. الْمَكَانِ وَفِيهِ وَ



جَابِثٌ (جَابِثٌ) جَابًا قَالُ كَمَا - گیر و مٹی بیچنا۔
 الحیثیہ تباری حروف میں پانچواں حرف ہے۔
 یہ مجبورہ حروف میں سے ہے۔ جمل کے حساب
 میں اس کا نمبر ۳ ہے۔
 الجَابِثُ: گیر و مٹی۔ سخت اور اچھڑ آدی۔
 شیر۔ ج. جُوْثٌ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ جَابٌ
 الصِّرَافُ" فلاں امور میں بڑا صابر ہے۔
 الجَابِثُ: مونا گور خر۔
 جَابَةُ البَطْنِ: ناف۔
 جَبِثٌ (س) جَانًا. الرجلُ مُثْمِنٌ يابِثٌ
 اٹھانے میں سست ہونا۔
 جُبِثٌ جَانًا وَجُوْثًا: گھبرانا۔ صفت
 (مجنووث)
 آجَانَةٌ. الحملُ مَرَانِبَارٌ كَرَانًا.
 الجَاثَاتُ: بدخو۔ سست رفتار۔
 جَاخِيفٌ جَاخًا: بزدلی سے کھڑا ہونا۔
 جَاخًا جَاخًا: بالابل بھی جی کہہ کر پانی
 پلانے کے لیے بلانا۔
 تَجَاخَا: ہن کذا: رکنا۔ باز رہنا۔
 الجُوْثُ جُوْ. من الطائرِ نِرْدَا سِينَدَا من
 السفینةِ تَهَارَا كَا كَلْهَصَدَا ج. جَا حِجِي.
 جَارٌ (ف) جَارًا. وَجُوْرًا اِلَى اللّٰهِ ذِنَا
 کرنے میں آواز بلند کرنا۔ گزرگنا الثُوْرُ:
 ذُكَارَا النَّبَاثُ: بلند ہونا۔ الارضُ: لمبی
 گھاس والی ہونا۔
 الجَازِيْرُ من النَّبَاتِ: لمبی اور تروتازہ
 نباتات (والجَبِيْرُ والجَارُ) ہونا مرد۔ من
 الغَيْثِ بہت بارش۔

جَاشٌ (ف) جَاشًا. قَلْبُهُ: غَمٌ يَگْهَرُ اِهْتِ
 سے مضطرب ہونا الیہ متوجہ ہونا۔
 الجَاشُ: قلب۔ سینہ۔ کہا جاتا ہے "رَابِطُ
 الجَاشِ بَيْنِي وَبِهَادِرِجِ جُوْشِ.
 الجَانِشَةُ: نفس۔
 جَافِقٌ (ف) جَافًا وَجَافَةً تَجْفِيْفًا:
 پچھڑانا۔ گھبرانا میں ڈالنا۔ جَافٌ
 الشَّجَرَةُ: بوسے اکھیرنا۔
 اِنْجَافَتٌ. الشَّجَرَةُ: بوسے اکھیرنا۔
 جَبَلٌ (س) جَالًا لَبْكُرًا: ہونا۔
 جَالٌ (ف) جَالًا. الصَّوْفُ اَكْتَا كَرَانًا.
 الصَّوْفُ اَكْتَا: ہونا۔
 جَبَالٌ وَجَبَالَةٌ: بوسے (یہ دونوں علم اور غیر
 منصرف ہیں)۔
 الجَاوِرُ: باجرہ۔
 جَاخِيفٌ (ف) جُوْةٌ وَجُوْةٌ. الفَرَسُ:
 سرخ سیاہی مائل ہونا۔ صفت (أَجْوَاهُوثُ
 جَاوَاءُ)
 جَاخِيفٌ (ف) جَايًا. الشَّيْءُ نَزَا كَرَانًا: چھپانا
 الطَّوْبُ نَبِيْعًا: لمبی۔ دانٹوں سے کاٹنا۔
 جَبَلَانٌ جَبَابًا: غالب ہونا (جَبَابًا)
 النَّخْلَةُ: گامہارنا۔
 جَبَبٌ. الفَرَسُ ذَاوَادِرِيزِي تَك سَفِيْدِي كَا
 پھینچنا۔ صفت (مُجَبَّبٌ تَهْرُ پَلَانًا)
 جَابِيَةٌ مُجَابِيَةٌ وَجَبَابًا: غَابُ آنا۔ فخر میں
 مقابلہ کرنا۔
 تَجَابٌ. الرَّجُلَانُ: يَك دوسرے کی بہن
 سے شادی کرنا۔

اِحْتَبَّ جَبِيْ پَهِنَا الشَّيْءَ كَانًا۔
 الجُبُّ: گھبرا کتاواں۔ کچا کتاواں۔ گڑھا۔ ج.
 اَحْبَابٌ وَجَبَابٌ وَجَبِيَّةٌ.
 الجَبِيَّةُ: تہ۔ زرہ من السِّنَانِ جَهْرًا كَابَالِي
 حصہ جس میں تیزہ پیوست ہو۔ آٹکھ کے گرد کی
 ہڈی۔ ہڈی کی ہڈی کا زیریں حصہ جو سم سے
 متصل ہو۔ ج. جَبِبٌ وَجَبَابٌ.
 الجَبَابُ وَالجَبَابُ: قَطْرُ۔
 بَعِيْرٌ (أَجَبٌ): کوبان کتا ہوا اونٹ۔
 جَبَلٌ (جَبَابٌ) جَبَابًا وَجَبُوْرًا وَجَبُوْرًا.
 البَصْرُ: گاہ کا کزور ہونا السِّنْفُ اُحْتِ جَانَا
 الرَّجُلِ: خوف کی وجہ سے باز رہنا اور واپس
 آنا۔ صفت (جَبَابٌ) جَبَابًا: بزدلی سے بزدل جَبَابٌ
 عَلَيْهِ: الحَيَّةُ: ذورخ سے نکل کر گھبرا دینا۔
 جَبَابًا عَلَى القَوْمِ: ہانک نمودار ہونا۔
 جَبِيْبٌ (س) جَبَابًا: چھپنا عنہ باز رہنا اور
 ڈرنا۔
 أَجْبَابٌ الشَّيْءُ: پھینچنا۔ أَجْبَابُ الارضِ:
 سرخ سانپ کی چھتری والی ہونا۔ أَجْبَابٌ عَلَى
 الطَّوْمِ: بلند جگہ سے اچانک نمودار ہونا۔
 الجَبَبُ: سرخ رنگ کی سانپ کی چھتری ج.
 أَجْبُوْ وَجَبَابَةٌ: گیر و پھاڑ کا گڑھا جس میں
 بارش کا پانی جمع ہو۔ نیلہ۔
 اَرْضٌ (مُجَبَّبَةٌ): کثرت سرخ رنگ کی
 سانپ کی چھتری والی زمین۔
 جَبَبٌ. الرَّجُلُ: بفر کرنا۔ مونا ہونا۔
 الجَبَبِيَّةُ: چمڑے کا تھیلا۔ ڈھول۔ موٹی
 اوٹھی۔ ج. جَبَابٌ۔

ماء (جَبَاب و جَبَاب): بہت پانی۔
الجَبَاب: بُت۔ جادو۔ جادو گر بے برکت۔
جَبَخ (ف) جَبَخَا: تکبر کرنا۔ جَبَخ
الْقَدَاح وَالْكَعَاب فِي الْقَمَار: پانسہ
پھینکانا۔

الجَبْحَانَة: میگزین (جدید) اس کے
لیے عربی لفظ منسلحہ ہے۔ بارود کار توں۔
جَبْدَة (ض) جَبْدًا و اجْتَبَدَة: کھینچنا۔
جَبَد العَب: چھوٹا اور خشک ہونا۔

جَبَاذ: مبنی علی الکسر: موت۔
جَبْر (ن) جَبْرًا و جَبْرًا و جَبَارَة
و جَبْر: العظم: ٹوٹی ہوئی ہڈی درست کرنا۔
جَبْرُوت جَبْرٍ أَوْ جَبْرًا و جَبَارَة: نقصان
شدہ واپس کرنا یا اس کا عوض دینا۔

جَبْر (ن) جَبْرًا و جَبْرًا و اجْتَبَر و جَبْر
و اجْتَبَر: ٹوٹی ہوئی ہڈی درست ہونا لفظ فقیر:
عنی بنانا۔ جَبْرہ علی الامر: مجبور کرنا۔
اجْبَرَة: علی الامر: مجبور کرنا۔ مذہب
جبریہ کی طرف منسوب کرنا۔

اجْتَبَر و اسْتَجَبَر: فقر کے بعد مستغنی ہونا۔
تَجَبَر: تکبر کرنا۔ سرکش ہونا۔ صفت
(جَبْر) حالت گذشتہ کا واپس آنا۔ النبت:
چرے جانے کے بعد پھر آگنا۔ تَجَبَر
المريض: درست حالت والا ہونا۔

الجَبْر: س۔ ٹوٹے ہوئے کی درستی۔ غرور۔
مجبوری۔ قضاء الہی کے وقوع کا کلی طور پر
مجبورانہ اعتقاد کرنا۔ الجبراء: بہادر مرد۔

الْجَبَارَة: صنوبر کی اقسام میں سے بہت بڑا
درخت جس کی لمبائی میٹر تک پہنچ جاتی ہے وہ
بڑی تیزی سے پھیلتا ہے اور خوبصورت متضروالا
ہے۔

الجَبَارَة: ٹوٹی ہوئی ہڈی درست کرنے کا
پیشہ (والجَبْرَة) ٹوٹی ہوئی ہڈی کے باندھنے
کی کلڑی یا پٹی۔ تَجَبَانِر. الجَبَانِر: لنگن و
بازو بند۔

الجَبْرُوت و الجَبْرُوت و الجَبْرُوت:
قدرت۔ طاقت۔ عظمت۔

الجَبْر: علوم ریاضیہ میں سے ایک علم جو کہ
علامات اور حروف کی مدد سے حساب کا علوم
شناخت کرتا ہے۔

جَابِر. فَا. ابو جَابِر: روٹی۔ اُم جَابِر:
ہریرہ۔

الجَبَار: بیکار بے قیمت۔ کہا جاتا ہے ”ذہب
ذمہ جَبَارًا“ اس کا خون ریاگیاں گیا۔ یعنی
اس کے خون کا بدلہ نہیں لیا گیا۔ ”وانامنہ
خلَاوة و جَبَار“ میں اس سے پاک و بری
ہوں۔

جَبَار: منگل کا دن۔
الجَبَار: اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے
ہے۔ قابض: تسلط والا۔ قاہر۔ مغرور
سرکش۔

بروج جزاء کہا جاتا ہے۔ ”طَلَع الجَبَار“
برج جزاء طلوع ہوا۔ نَخْلَة جَبَارَة: لبا مجبور
کا درخت جس پر ہاتھ نہ پہنچ سکے۔

الجَبْرِيَّة و الْمُجَبْرَة: فرق اسلامیہ میں
سے ایک فرقہ جس کے ماننے والے انسان کے
مجبور ٹھہرنے کے قائل تھے۔

جَبْرَة (ن) جَبْرًا کاٹنا۔
جَبْر (ن) جَبْرًا: الخبز: خشک ہونا۔
صفت (جَبْر)
الجَبْر: جیل۔

الجَبْرَة: کلواں کہا جاتا ہے ”جَبْر لہ من
مالہ جَبْرَة“ یعنی اس نے اس کو اپنے مال کا
ایک حصہ دیا۔

الجَبْرِي: خشک روٹی۔
تَجَبَس. فی مشیتہ: ناز و تکبر سے چلنا۔
الجَبَس: بزدلی۔ کمینہ۔ کند خاطر۔ فاسق۔
ع۔ ریچھ کا بچہ۔ تَجْبِاس.

الجَبَس: ریچھ کا بچہ۔ (والجَبُوس
والأَجْبَس): کمینہ۔ ناکارہ۔
الأَجْبَس: کزور۔ بزدل۔

جَبَلَة (س۔ ن) جَبَلًا. اللہ: پیدا کرنا۔ کہا
جاتا ہے ”جَبَلَهُ اللہ علی الکرم“ اللہ نے
شرافت و کرم اس کی فطرت میں رکھ دی۔

جَبَل التراب: پانی ڈال کر گارہ بنانا۔

جَبَلَة: مختلف کلورے کرنا۔

أَجْبَلَة: جیل بنانا۔

أَجْبَل و تَجْبَل و جَابَل. المسافر: پہاڑ
کی طرف جانا۔ پہاڑ میں داخل ہونا۔ پہاڑ میں
رہنا۔ کہا جاتا ہے ”طَلَب حَاجَة فَأَجْبَل“
اس نے اپنے مقصد میں کوشش کی اور محروم
رہا۔

و تَجَبَل مَاعِنْدَهُ: اس نے اس کا سب کچھ
لے لیا۔

الجَبَلَة و النَجَبَة و الجَبَلَة و النَجَبَة:
چہرہ۔ جسم کا سامنے کا حصہ۔ فطرت۔ طبیعت۔
اصل۔ قوت۔ زمین کی تختی۔ کہا جاتا ہے
”فَلَانٌ ذُو حَيْلَة“ فلاں سخت طبیعت
ہے۔ ”و جَبَلْنَهُ علی الخیر“ اس کی طبیعت
میں نیکی ہے۔

الجَبَل و النَجَبَة: لوگوں کی جماعت۔
الجَبَلَة: کوہان۔

الجَبَل: مکان کا صحن۔ بہت بڑا کہا جاتا
ہے۔ ”حی جَبَل“ بڑا قبیلہ۔

الجَبَل: پہاڑ۔ جَبَال و أَجْبَال و أَجْبَل.
اور کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ جَبَل“ یعنی نیل
مردن۔ ”وَهُوَ جَبَلُ الوَجْه“ وہ بھدے چہرہ
والا ہے۔ ”وَفَلَانٌ جَبَلٌ قَوْمِيہ“ فلاں اپنی
قوم کا سردار و عالم ہے۔ اِنَّةُ الجَبَل:
سانپ۔ مصیبت۔ آواز بارگشت۔

الجَبَلِي: طبعی۔
الجَبَال: بدن۔ کہا جاتا ہے فَلَانٌ حَظِيْرُ
الجَبَال ”فلاں تو منند ہے۔“

الجَبِيْل و المَجْبَال: بد صورت۔ کہا جاتا
ہے ”رَجُلٌ جَبِيْلُ الوَجْه“ بد صورت
مردن۔ ”و امْرَأَةٌ مَجْبَالٌ“ بد صورت
عورت۔ سَيْفٌ مَجْبَالٌ: موٹی دھار کی
تلووار۔

الجَبِيْلَة: خشک سال۔ ہر چیز کی کثرت۔
اصل۔ المَجْبُول: بڑے ڈیل ڈول والا۔
جَبِيْن (ن) جَبِيْنًا و جَبِيْنًا و جَبَانَة: بزدل

الجَنَابِيُّ وَالْجَبَالِيُّ: لاث پادری۔ ج
جَنَابُ (جدید)
جَنَم (ن ض) جَنَمًا وَجُنُومًا. اللیل:
آدمی رات ہونا الرجل او الطائر
والحيوان: سینہ کو زمین سے لگانا۔ صفت
(جائیم) ج جَنَم.
الجائونم والجَنَام: کابوس۔
رجل (جَنَمَة وَجَنَامَة وَجَنَم وَجَنُوم:
بہت پیٹنے والا یا بہت سونے والا۔
الجَنَمَة: ٹیلہ۔ پشتہ۔
الجَنَمَة: راگہ وغیرہ کا تودہ۔
الجَنَمَان: بدن۔ شخص۔
المَجَنَم: پیٹنے کی جگہ۔ ج مَجَنَم.
المَجَنَمَة: وہ پرندہ یا خرگوش جس کو باندھ
کر تیر وغیرہ مارا جائے یہاں تک کہ مر جائے۔
جَنَا (ن) جُنُوعًا وَجَنِي (ض) جَنِيًّا
وَجَنِيًّا: زانو پر بیٹھنا یا انگلیوں کے بل کھڑا
ہونا۔ صفت (جائٹ) ج جُنِي وَجَنِي
مؤنث جائیتہ۔
جَنَانِي: ہ: گھٹنے سے گھٹانلا کر بیٹھنا۔
أَجْنِي: ہ: زانو کے بل بٹھانا۔
جَنَانِي: باہم زانو پر بیٹھنا۔
الجَنُوعَة وَالْجَنُوعَة وَالْجَنُوعَة: پتھروں کا
ڈھیر۔ مٹی کا ڈھیر۔ قبر۔ ج جُنِي وَجَنِي:
شعلہ
جُنُوعَة. الرجل: بدن۔
جَجْحَجَح. الشئ: پورا جائز لے کر اقدام
کرنا۔
عن الامر: ہٹ جانا۔ رُک جانا۔
الجَجْحَجَح وَالْجَجْحَجَح: فیاضی کی طرف
سبقت کرنے والا سردار۔ ج جَجْحَجَح
وَجَجْحَجَح وَجَجْحَجَح.
جَحَدَه (ف) جَحَدًا وَجُحُودًا: کفر
کرنا۔ جَحَدًا ه حَقُّه وَجَحَدَ بِحَقِّه: باوجود
علم کے انکار کرنا۔ صفت (جاحد)
جَحَد (س) جَحَدًا. الشئ: کم ہونا
النبت: چھوٹا رہ جانا الارض: خشک ہونا

الجبهة صدقة“ یعنی گھوڑوں میں زکوٰۃ
نہیں۔
الأجبه: خوبصورت پیشانی والا۔ شیر۔ مؤنث
جَبَهَاء.
جَبَا (ن) جَبَا وَجَبَا وَجَبِيًّا وَجَبُوعًا
وَجَبَاوَةً وَجَبِي (ض) جَبَانِيَّة. الخراج:
جمع کرنا الماء فی الحوض: جمع کرنا۔
جَبِيًّا تَجَبِيَّة: عجمہ کے وقت ہاتھوں کو گھٹنیا
زمین پر رکھنا۔
أَجْبِي: زرعه: کپنے سے پہلے بیچنا اور اسی
سے ہے “من أجبي فقد أربي“ جس نے
کپنے سے پہلے (کھیتی کو) بیچا اس نے ربو کا معاملہ
کیا۔
أَجْبِي: ہ: پسند کرنا۔ جن لینا۔
الجَبَاء ج أَجْبَاء (وَالْجَابِيَّة). ج
جَوَاب: اونٹوں کے پانی پینے کا حوض۔
الجَبَا: کونوں کی من۔
المَجْبِي: خراج۔ ٹیکس۔
جَبْتَه (ن) جَبْتًا وَاجْتَبْتَه: جز سے اٹھیرنا۔
الجَبْت وَالْجَبْت: مردہ مٹی۔ یا شہد کی مردہ
کھلی۔ گھجور کا غلاف۔ شہد میں ملا ہوا شہد کی
کھلیوں کا پروغیرہ۔ الجَبْت: موم۔
الجَبْتَة: جسم انسانی لاش۔ ج جَبْت.
الجَبِيث. من النخل: گھجور کا پودہ۔ واحد
(جیشہ)
المَجْبَثَة وَالْمَجْبَثَات: کھری۔ گھاس
کھودنے کا اوزار
أَجْبَال. الطير: پر جھاڑنا۔ النبت: لبا اور
پچھیدہ ہونا۔
جَبَلْتَه (ض) جَبَلًا. الريح: اڑالے جانا۔
کھیر دینا۔
جَبَل (س) وَجَبَل (ك) جَبَالَةً وَجَبُولَةً.
الشجر والشعر: گنجان دکالا ہونا۔ صفت
(جبل و جبیل)
الجَبَلَة: چوٹی۔ ج جَبَل.
الجَبَال: چنڈول۔
الجَبَالَة: کھمرے ہوئے پتے۔

ہونا۔ صفت (جبان) ج جَبَان مؤنث جَبَانَة
وَجَبَان. ج جَبَانَات.
جَبَن. اللين: پیر بنا نا الرجل: بزدلی پر
آکسلا۔ (وَأَجْبَن وَاجْتَبَن) الرجل: بزدلی
کی طرف منسوب کرنا۔ بزدل پانا۔ اور اسی سے
ہے “فَاتَلْنَاكُمْ فَمَا أَجْبَنَّاكُمْ“ ہم نے تم
سے جنگ کی تو تم کو بزدل نہیں پایا۔
تَجَبَن. اللين: پیر بنانا پیر کی طرح جم جانا
الرجل: موٹا ہونا۔
الجَبِن وَالْجَبِن وَالْجَبِن: پیر۔
الجَبْنَة: پیر کا کلا۔
الجَبِين: پیشانی۔ پیشانی کا کنارہ۔ ج أَجْبِن
وَجَبِن وَأَجْبِنَة. الجَبِين: بزدل (مذکر و
مؤنث)
الجَبَان: پیر بیچنے والا۔ یا پیر والا۔ بہت
بزدل۔ مؤنث جَبَانَة (وَالْجَبَانَة): ہموار
زمین۔ قبرستان۔ صحرا ج جَبَانِين
المَجْبِنَة: باعث بزدلی۔ پیر بنانے کی جگہ یا
وہ جگہ جہاں پیر بہت ہو۔ عوام کی زبان میں
کبری کے بچے کی اوچھ کو کہتے ہیں جو دودھ کو پیر
بنا دیتا ہے۔
جَبَة (ف) جَبَهَاء. الرجل: پیشانی پر مارنا۔
اپناک آنا۔ حاجت سے باز رکھنا۔ جہہ
بالمکروہ: برائی سے پیش آنا الشتاء
القوم: اسباب سرماتار کرنے سے پہلے سرباکا
آنا۔ الرجل: بغیر رستی ڈول وغیرہ کے پانی پر
آنا۔
جَبَهَة: سرگول کر دینا۔
أَجْبَة. الماء: وغیرہ: پانی وغیرہ کو ناگوار
کھانا۔
الجَبَة: پیشانی کی چوڑائی اور خوبصورتی۔
أَجْبَة. پیشانی۔ ج جَبَاه وَجَبَاهَات.
جَبَهَة القوم: سردار قوم۔ جَبَهَة من
الناس: لوگوں کی جماعت۔ ذلت۔ تم کہتے ہو
”لَقِيْتُ مِنْهُ جَبَهَة“ مجھے اس سے ذلت
حاصل ہوئی۔ الجَبَهَة: گھوڑے۔ اس کے
لے واحد نہیں۔ اور اسی سے ہے “ليس في

<p>بہضہ کے اسہال۔ المَحْوُوف: بٹلائے بہضہ۔ الجَحَاف: جنگ۔ لڑائی۔ المَحْفَہ: مصیبت۔ جَحْفَلُہ جَحْفَلُہ: پھاڑنا۔ پھینکانا۔ سرزنش کرنا۔ تَجَحْفَلُوا: جمع ہونا۔ الجَحْفَلُ: بڑا لشکر۔ جَحَافِلُ: رجل جَحْفَلُ: بڑے مرتبہ کا مرد۔ الجَحْفَلُہ: کھر دار جانور کا ہونٹ۔ جَحْلُ (ف) جَحْلُہ: پھاڑنا۔ الجَحْلُ: جَحْوُولُ و جَحْلَانُ: گرت۔ گوہ کا بچہ۔ گمر یا۔ شہد کی مکھیوں کی ملکہ جَحَالُ: بڑی مشک۔ اور کہا جاتا ہے ”رحل جَحْلُ“ موٹا کشادہ پیشانی والا مرد۔ الجَحَالُ: جہر۔ الجَحِيلُ: بڑی چٹان۔ پہاڑ۔ ہر بڑی چیز۔ جَحْمُ (ف) جَحْمُہ: النار: بھڑکانا العین: کھولنا۔ عن الامر: بدکردار۔ جَحْمَتُ (س) جَحْمَا و جَحْمَا و جَحْمَتَاک (ک) جَحْمُفَا: النار: بھڑکانا۔ جَحْمَہ: بعینہ بھورنا۔ تیز نظر سے دیکھنا۔ اَجْحَمُ: عن الامر: رکنا۔ باز رہنا۔ اَجْحَمَتُ النار: تیز بھڑکانا۔ تَجْحَمُ: تنگ ہونا۔ جلنا۔ الجَاحِمُ: فاجر بھڑکتی ہوئی چنگاری۔ من الحرب: سخت اور گھسان کی جنگ۔ اور کہا جاتا ہے ”نار جَاحِمَہ“ تیز آگ۔ ”عین جَاحِمَہ“ آگ کی اُٹھی رہ جانے والی آگ۔ الجَحِيمُ: دوزخ۔ گڑھے میں سخت بھڑکتی ہوئی آگ۔ سخت گرم جگہ۔ جَحْمَہ النار: آگ کی بھڑک۔ جَحْمُہ الجَحَامُ: آنکھوں کی سوجن۔ الاَجْحَمُ: بہت سرخ آنکھوں والا۔ سوچی ہوئی آنکھوں والا۔ مؤنث جَحْمَاءُ: جَحْمُہ و جَحْمُہ و جَحْمُہ و جَحْمُہ: جَحْمُہ و جَحْمُہ و جَحْمُہ و جَحْمُہ:</p>	<p>جَحْشًا: الجلد: چھینا۔ کھرچنا۔ جَاحِسٌ و جَاحِشٌ: عن نفسه وعن غيره: مدافعت کرنا: مزاحم ہونا۔ مقابلہ کرنا۔ الجَحِشُ: گدھے کا بچہ۔ نَشْبُہَا گھوڑے کے بچے کو بھی کہتے ہیں۔ جَحِشٌ جَحِشٌ و جَحِشَانٌ و جَحِشَةٌ۔ الجَحِشَةُ: گدھے کا مادہ بچہ۔ اون جو ہاتھ پر لپیٹ کر کاتی جائے۔ الجَحْوُشُ: چھوٹا بچہ۔ المَحْوُشُ: وہ شخص جس کا آدھا بدن ماؤف ہو گیا ہو۔ جَحِظْتُ (س) جَحُوْظًا: عنہ: ابھرے ڈھیلے والی ہونا۔ کہا جاتا ہے۔ رجل (جَاحِظٌ) العینین: بھری ہوئی آنکھ والا مرد۔ جَحِظُ: الیہ بھورنا۔ تیز نظر سے دیکھنا۔ الجَاحِظَانُ: دونوں آنکھوں کے ڈھیلے۔ جَحْفَلُ (ف) جَحْفَلُہ: پھینکانا۔ بہالے جانا۔ برباد کر دینا۔ ہر جہلہ: لات مارنا۔ جَحْفُ معہ: ولہ علی غَیْرہ: ناکل ہونا لہ الطَعَامُ: کھانا ناکالنا۔ جَحْفُ: الرجل: بٹلائے بہضہ ہونا۔ اَجْحَفُ: السَّيْلُ: بہالے جانا۔ اللدھو بالناس: ہلاک کرنا۔ جڑ سے مٹانا۔ فلائق بعقبہ: طاعت سے زیادہ کام کی تکلیف دینا۔ اَجْحَافُ: استعمال بطور استعارہ کے نقص فاحش میں بھی ہوتا ہے۔ جَاحِفٌ: مزاحمت کرنا۔ جَاحِفٌ عنہ: مدافعت کرنا۔ تَجَاحَفُوا: الماٹھی اور تلواروں سے لڑنا۔ بالکرة: نبلے سے باہم دو گریںد چھیننا۔ اَجْتَحَفُہ: چھیننا۔ جڑ سے اکھیرنا۔ ہلاک کرنا۔ ماء البئر: تمام پانی نکال دینا السَّيْلُ الوادی: بھود کر بہالے جانا۔ الجَحْفَةُ و الجَحْفَةُ: حوض کے اطراف میں پانی کا بقیہ۔ السَّيْلُ و المَوْتُ (الجَحَافُ): ہمہ گیر تباہ کن۔ الجَحَافُ:</p>	<p>الرجل: بے خبر ہونا۔ مفت (جَحْدٌ و جَحْدٌ و اَجْحَدُ کہا جاتا ہے ”عام جَحْدٌ“ کم بارش والا سال۔ ”ارض جَحْدُہ“ خشک زمین۔ (لام الجحود) عند النحاة: لام جو مانا ہے اور کان کے بعد تاکید لٹی کے لیے آئے جیسے ”وما كَانَ رَبَّكَ لِیُهِلِكَ القری“ خدا کا یہ کام نہیں ہے کہ بستیوں کو ہلاک کرے۔ جَحْدَرٌ: پھاڑنا۔ لڑھکانا۔ تَجَحْدَرُ: الطائر: پر تول کر اڑنا۔ الجَحْدَرُ: شیت قد۔ جَحْدَلُہ: پھاڑنا۔ جَحْرُ (ف) جَحْرًا و تَجَحَّرُ و اَنْجَحَرُ: الضَّبُّ او السبعُ: سوراخ میں داخل ہونا۔ حَجْرَتُ لعین اندر کو دھنس جانا۔ تم کہتے ہو۔ ”جَحْرُ الخَیْرِ عَنَّا“ خیر ہم تک نہ پہنچی۔ اَجْحَرُ و جَحْرُ: السبعُ: سوراخ میں داخل ہونے پر مجبور کرنا۔ و اَجْحَرَتُ السماءُ: بارش نہ ہونا۔ اَجْحَرُ القومُ: بَطُّ و سختی میں پڑنا: تنگی ڈالنا۔ ”الی کذا: مجبور کرنا۔ اَجْتَحَرُ: سوراخ بنانا۔ تَجَحَّرَتُ: العین: اندر کو دھنسا۔ اور اسی سے ہے عین (جَحْرَاءُ) گڑھے میں دھنسی ہوئی آنکھ۔ الجَحْرُ: بھرا گڑھا۔ الجَحْرَةُ و الجَحْرَةُ: تنگ سال۔ الجَحْرُ: سوراخ۔ تل۔ جَحْرُ: اَجْحَارُ و جَحْرَةُ و اَجْحِرَةُ۔ الجَاحِرُ: پیچھے رہ جانے والا جو قافلہ کو نہ پاسکے۔ الجَوَاحِرُ: وہ جانور جو اپنے ریوڑ سے پیچھے رہ جائیں۔ المَجْحَرُ: چھپنے کی جگہ، جائے پناہ۔ جَحْرُ: مَجَاحِرُ۔ جَحِشٌ و جَحِشٌ (ف) جَحِشًا و</p>
---	---	---

الْبَحَامُ: بخل۔

الْبَحْمُوشُ: بہت بوڑھی عورت۔
بد صورت موٹا خرگوش۔ ج بَحْمَاوُ: تصغیر
جَحْمِير

الْبَحْمَشُ وَالْبَحْمُوشُ: بہت بوڑھی
عورت۔

جَحْمُوشٌ: دودھ والی خرگوش
بَحِينٌ (س) جَحِينًا. الصَّبِيُّ: خوراک کی
خرابی سے کمزور ہونا۔ صفت (بَحِينٌ)
بَحْنٌ (ف) بَحْنًا وَأَبْحَنَ وَبَحْنٌ:
نقرا بخل کی وجہ سے اہل و عیال پر تنگی ڈالنا۔
أَبْحَنَهُ: بری خوراک دینا۔

الْبَحِينُ: دیر میں جوان ہونے والا من
النبات: کمزور اور چھوٹا پودہ۔

بَحَا (ن) بَحْوًا: چلنا بالمكان:
اقامت کرنا۔

إِبْحَاهَا: جڑے اگیٹرنا۔

الْبَحْوَةُ: ایک قدم۔

بَحَّحَ (ض) بَحْحًا: ہاتھ پیر چھوڑ کر لیٹنا۔
ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا پر جملہ:
خاک اڑانا۔

بَحَّوْ (ف) بَحْوًا. البئر: کشار۔ کرنا۔
بَحَّوْ (س) بَحْوًا. جوف البئر: کشارہ

ہونا۔

أَبْحَزَ وَبَحَّزَ. البئر: کشارہ کرنا۔

تَبَحَّزَ. الحوض: پانی کے خشک ہو جانے
کے بعد مٹی کا پھٹ جانا۔

الْبَحِيزُ: بہت کھانے والا۔ بزدل۔

بَحِيفٌ (ن ض) بَوْجِيفٌ (س) بَحِيفًا
وَبَحِيفًا: اپنی حد سے زیادہ فخر کرنا۔ صفت
(بَحِيفٌ)

الْبَحِيفِيُّ: س: بھاری لکڑی۔ بہت مفرد
انسان کے پیٹ کی آواز۔ نفس و روح۔ تم کہتے

ہو "وَقَعَ ذَلِكَ فِي جَحِيفِي" میرے دل
میں یہ واقع ہوا۔

بَحَا (ن) بَحْوًا. الكوز: سرنگوں کرنا۔
اوندھا کرنا۔

جُحَيْحِي وَتَجَحَيْحِي. الكوز: سرنگوں ہونا۔

اوندھا ہونا الشیخ: خریدہ کر ہونا۔ جُحَيْحِي
اللیل: گذر جانا۔

جَدَّ (ض) جَدًّا. فی اعین القوم: عالی
مرتبہ ہونا۔

جَدَّ (ض) جَدَّةً. الثوب: نیا ہونا۔ (جَدًّا)
الشیء: کاٹنا (ض) جَدًّا کو شش کرنا فی
الامر: تحقیق کرنا۔ اہتمام کرنا۔ جلدی کرنا یہ
الامر: سخت ہونا۔

جَدَّ (س) جَدًّا. اللدئی او الضرع:
خشک ہونا۔ صفت (أَجَدَّ) اور ناتہ کی صفت
(جَدَّاء) ہے۔ اور کہا جاتا ہے "سَنَّةٌ جَدَّاءٌ"
قُطَّ كاسال۔

جَدَّ (س) جَدًّا وَجَدًّا: نصیب والا ہونا۔
صفت (مَجْدُودٌ) کہا جاتا ہے "جَدَّدْتُ يَا
فلان" تم خوش قسمت ہو۔

جَدَّدَ وَأَجَدَّ. الشئ: نیا کرنا۔ أَجَدَّ ثَوْبًا:
نیا پہننا۔ أَجَدَّ الامر: اچھی طرح تحقیق کرنا
فی الامر: سنجیدگی اختیار کرنا۔ کو شش کرنا۔
أَجَدَّ الطريق: سخت و ہموار ہونا الرجل:
سخت و ہموار زمین پر چلنا۔

جَادَّةٌ مُجَادَّةٌ. فی الامر: کسی سے تحقیق
کرنا۔

إِسْتَجَدَّ. الشئ: نیا ہونا الشئ: نیا کرنا یا نیا
پانا الثوب: نیا پہننا۔

تَجَدَّدَ: نیا ہونا۔

الجَدُّ: س: داوا۔ نانا۔ ج أجداد وجدود
وَجْدُودَةٌ. مؤنث جَدَّةٌ. ج جَدَّات.

الجَدُّ: نصیبہ۔ بزرگی۔ عظمت۔ روزی۔
نہر کا کنارہ۔ کہا جاتا ہے "عَفْرٌ جَدَّةٌ أَوْ تَعَسَ
جَدَّةً" وہ نقصان میں رہا یہ ہلاک ہوا سہ

الجَدُّ: س: کوشش۔ سنجیدگی۔ جلدی۔ اچھی
طرح ثابت شدہ۔ و"فَلانٌ عَالِمٌ جَدُّ
عَالِمٌ" فلاں انتہائی درجہ کا عالم
ہے۔ و"عَظِيمٌ جَدُّ:" بہت ہی بڑا۔ جَدًّا:
کا نصب مصدریت کی وجہ سے ہے۔

الجَدُّ: ص۔ کہا جاتا ہے "فَلانٌ دُوْجِدُ فِی

كَذَا" فلاں اس بارے میں خوش نصیب ہے۔
بہت پانی والا کتواں۔ کم پانی والا کتواں۔ پھیل
میدان کے اطراف میں تھوڑا پانی۔ سمندر کا
کنارہ۔ ہر چیز کا کنارہ (والجَدُّ) بڑے حصہ
والا۔ بہت نصیبہ والا۔

الجَدُّ: ہموار سخت زمین۔ اسی سے مثل
ہے "مَنْ سَلَكَ الْجَدَّ أَمِنَ الْعَثَارَ" جو
ہموار سخت زمین پر چلتا ہے وہ لغزش سے محفوظ
رہتا ہے۔ باریک ریت۔ ج أجداد۔

الجَدَّةُ: دریا کا کنارہ۔ کتے کے گلے کا پنگا۔
کپڑے کا کٹلا۔ وَجَدَّةُ الثَّوْبِ: کپڑے کا نیا
ہونا۔

الجَدَّةُ: علامت۔ طریقہ۔ کہا جاتا ہے
"رُكِبَ جَدَّةُ الْأَمْرِ أَوْ جَدَّةُ مِنَ الْأَمْرِ"
اس نے رائے قائم کی۔ ج جَدَّد.

ناقة (جَدَّاء) خشک تھن والی اونٹنی۔ سنہ
جَدَّاء: قُطَّ كاسال۔

الجَادَّةُ: کوشش کرنے والا۔ سرگرمی سے کام
کرنے والا۔ سنجیدگی سے کام کرنے والا۔

الجَادَّةُ. الجَادُّ کا مؤنث۔ سڑک کا
درمیان۔ ج جَوَادُّ.

الجَدَّادُ وَالْجَدَّادُ: کھجور توڑنا۔

جَدَّادَةٌ. النخل وغیرہ: کھجور وغیرہ کا کٹنا ہوا
درخت۔

الجَدَّادُ: اُلجھا ہوا دھاگیا آپس میں تھپی ہوئی
شہنی۔

الجَدِيدُ: نیا۔ ایک قسم کا پراتا سکہ۔ ج جَدَّد.
الجَدِيدُ وَالْمَجْدُودُ: نصیبہ ور۔ کٹا ہوا۔

الجَدِيدَانُ وَالْأَجْدَانُ: دن رات تھپی ہی
مستعمل ہے۔ صرف دن یارات کو جدید یا جَدُّ
نہیں کہتے۔

المَجْدُدُ. مَفْعٌ مِنَ الْأَكْمِيَّةِ: مختلف
دھاریوں والا۔

جَدَّبَ (ن ض) جَدَّبًا وَجَدَّبَ (ك)
جُدُوبَةٌ وَتَجَدَّبَ. المكان: بارش نہ
ہونے کی وجہ سے خشک ہونا۔ صفت (جَدَّبَ)
وَأَجَدَّبَ وَجَدَّبَ وَجَدَّبَ

ومجذوب

جذب فلانا: عیب لگانا۔

أجذب. المكان: بارش نہ ہونے سے

شک ہونا القوم: قلمزدہ ہونا الارض: شک

پہلانا: مہمان داری نہ پنانا۔

جذبہ: کمزور کرنا۔

تجذب: عیب دار ہونا۔

الجذب. س: شک سالی۔ عیب۔ کہا جاتا

ہے "مکان جذب" قلم زدہ مقام۔

مؤنث جذبہ ج جذب. کہا جاتا

ہے "أرضون جذبوت وأرضون

جذبوت" قلم زدہ زمینیں۔

الجذب والجذب: قلم زدہ أرض

(جذباء) قلم زدہ زمین۔

المجذاب. من الآرضی: عجز زمین۔ ج

مجادب۔

الأجادب: وہ زمینیں جس میں پیداوار نہ ہو۔

مکان (مجذوب) قلم زدہ۔

الجذب: قبر۔ ج جذبات وأجذب.

الجذب: سخت ہموار زمین۔ جھینگڑی ٹٹی

کی مانند ایک سیاہ رنگ کا کثیر اجرات میں آواز

کرتا ہے۔ ج خدا جلد۔

جذب (ف) جذحا و جذح و اجذب.

السویق: گولہ۔ جذح السویق فی

اللبن: ملانا۔ کہتے ہیں "جذب جوبین من

سویق غیرہ دوسرے کے ستوکوبوین نے

گولہ حلوانی کی دوکان اور دوا کی فاتحہ کے

طور پر ضرب المثل ہے۔

جذبہ: ملانا۔

المجذب: ستو وغیرہ گھولنے کا سامان۔ ایک

ستارہ کا نام۔

المجذاب: سمندر کا کنارہ۔ ج جذاح.

مجادب. السماء: پنختر۔ واحد۔

مجدح: کہا جاتا ہے "أرسلت السماء

مجادب الغیب" آسمان نے بارش کے لیے

پنختر کو آزاد چھوڑ دیا۔

جذر (ن) جذرا و جذر و جذر: جھپک

لگانا۔ مفت (مجدور و مجذر)

جذره (ن) جذرا: لائق و مناسب بنانا

الجذار: دیواروں سے گھیرنا الرجل: دیوار

کی اونٹ میں ہوجانا۔

جذر و جذر (ک) جذارة و أجذر.

النبت: کوٹیل لگانا۔

جذر (ک) جذارة. بکذا: لائق ہونا۔

مفت (جدیر) کہا جاتا ہے "هو جدیر

بکذا ولکذا" ج جدیرون و جذراء.

مؤنث جدیرة. ج۔ جدیرات و جذائر.

جذر و اجندر. الحائط: دیوار بنانا اور

پلا سٹر کرنا۔

الجذر والجذر: پھنسیاں۔ مار کا نشان۔ زخم

کا نشان۔

الجذر. بالشیء وله: لائق۔ مناسب ج

جذرون۔

الجذر. ج جذران و (الجذر) ج جذر

و جذر: دیوار۔

الجذر والجذر: ایک قسم کی ریگستانی

نباتات ج جذور. واحد (جذرة

وجذرة)

الجذری والجذری: بیچک۔

المجذار: دھوکا (یعنی وہ چیز جو جانوروں اور

چڑیوں کو بھگانے کے لیے کھیت میں کھڑی کی

جاتی ہے۔

المجذرة: لائق۔ کہا جاتا ہے "انه مجذرة

لان يفعل کذا" وہ ایسا کرنے کے لائق

ہے۔ (مذکر مؤنث جمع سب کے لیے یکساں

ہے) ارض مجذرة: بہت بیچک والی

سرزمین۔

المجذور: بیچک زدہ۔ کم گوشت والا۔ اور

کہا جاتا ہے "انه مجذور ان يفعل کذا" وہ

ایسا کرنے کے لائق ہے۔

جذب (ف) جذعا. الانف

وما شاکله: کاٹنا۔ کہا جاتا ہے "لأمر

مأجدع قصیر أنفه" کسی خاص مصلحت

سے قصیر نے اپنی ناک کاٹی۔ جذع فلانا:

قید کرنا۔ باز کرنا۔

الرجل عیالہ: نان نقد روک لینا۔

(و جذع و أجذع) الولد: بری خوراک

دینا۔

جذب (س) جذعا: بری خوراک والا ہونا۔

مفت (جذب). الرجل: کان ناک کا کٹ

جانا۔ مفت (أجذع) مؤنث جذعا ج

جذب.

جذبہ: کسی سے "جدعک" کہا یعنی اللہ

تجھ کو عیب دار کر دے اور تجھ سے خیر کو منقطع

کر دے۔

جذاعه مجذاعة و جذاعا: گالی دینا۔

جھگڑا کرنا۔

تجذاعا: باہم جھگڑنا۔ باہم گالی گلوچ کرنا۔

اسی سے عرب کا قول ہے "تترکت البلاد

تتجذع أفاعیها" میں نے ملک کو اس حال

میں چھوڑا کہ وہاں کے اثرات ایک دوسرے کو

کھائے جا رہے تھے۔

الجذعة: کاٹنے کے بعد عضو کا بقیہ حصہ۔

کاٹنے کی جگہ۔

جذاع برذل قطام: سخت سال۔ کہا جاتا

ہے "وأجحفث بهم جذاع" ان کو قلم

کے سال نے برباد کر دیا۔

المجذع: عضو کاٹنے کا اوزار۔

الجذاع: موت۔

جذب (ض) جذوا. الطیر: کلمے ہوئے

پروں سے "أذلطی: چھوٹے قدم سے چلنا

الرجل: تیز چلنے میں ہاتھوں کو ملانا۔

جذب (ض) جذفا. الشیء: کاٹنا۔

الملاح السفینة: چپو سے چلانا۔ السماء

بالثلج: برف گرنا۔

جذب: نعمت کی ناشکری کرنا۔ کہا جاتا

ہے "لا تجذبوا بیعیم اللہ" اللہ کی نعمتوں

کی ناشکری مت کرو الملاح: چپو سے ڈوگی

چلانا علی اللہ: کفر اور اہانت آمیز باتیں

کرنا۔

جذب. علیہ: تنگی میں مبتلا کیا جانا۔ اور اسی

الجدلی: حلی۔ الجدوة: گدہ۔ ریوڑ۔ جدی (ض) بجدیا: عطیہ طلب کرنا۔ أجدی إجداء: الجرح: بہنا۔ الجدی: پہلے سال کا بکری کا بچہ۔ ججد جداء وجدیان: قطب کے پہلو کے ایک ستارے کا نام جس کو جدی الفرقد بھی کہتے ہیں آسمان کے ایک برج کا نام۔ الجدیة: زین یا پالان کے بچے کی گدی ج جدی وجدیات۔ الجدایاء: زعفران۔ جدہ (ن) جدأ: کائنا۔ توڑنا۔ جدأ فی سیرہ: تیز چلنا۔ جدأ: قوم سے اپنی بیرونی چاہتا اور اس کا نہ ماننا۔ إنجد: کٹنا۔ ٹوٹنا۔ تجدأ: کٹنے کٹنے ہونا۔ الجداد والجداد والجداد: توڑ ہوا۔ گلوں سونے کے ٹے۔ الجدادة: ہر چیز کی زیادتی۔ کہا جاتا ہے ”جدادته علیہ کذا“ وہ اس سے اتنا زیادہ۔ الجدادات: ریزہ۔ براہ۔ کہا جاتا ہے عندی جذاذات من الفضة“ میرے پاس چاندی کے ریزے ہیں۔ الجد: کئی ہوئی چیز کا چھوٹا گلوں تم کہتے ہوئوٹ إلى الصنم فكسرتہ أجداداً“ میں بت پر ٹوٹ پڑا اور اس کے کٹنے کٹنے کردیے۔ الجدة: گلوں۔ الأجد: ٹوٹا ہوا۔ ججداء۔ جدبة (ض) جدبنا: وخذنہ۔ الیہ: کھینچنا۔ جذب الشہر: اظرف حصہ گذر جانا۔ جدبت الناقة: کم دودھ والی ہو القہر عن امہ: دودھ چھڑانا۔ جدبہ: الشیء: کسا چیز کے بارے میں سکھش کرنا۔ تجدابنا الشیء: کسی چیز کے بارے میں	پڑی۔ الجدیلة: طریقہ۔ کہا جاتا ہے ”عملی علی جدیلہ“ اس نے اپنے طریقہ پر کام کیا۔ قبیلہ۔ گوشہ۔ کنارہ رائے کی پختگی۔ کبوتر وغیرہ کا کابک۔ الأجدلی والأجدل شکر۔ ججدل دزخ جدلاء: مضبوط زرہ۔ ججدل الجدال والجدل والمجدل والمجدال: بہت جگڑالو۔ الجدال: کابک بیچنے والا۔ المجدل: محل۔ ججدال المجدل: لوگوں کی جماعت۔ المجدول: بنا ہوا یا مضبوط بنا ہوا۔ الجدول: فہرست ’سک‘ اور کہا جاتا ہے۔ استقام جدول القوم جب ان کا نظام مضبوط ہو۔ الجدول والجدول: نالہ۔ جدمة (ن) جدما: کائنا۔ خدمت النخلة: پھلدار ہو کر خشک ہونا۔ صفت (جادم) إنجدم: کٹ جانا۔ الجدمة: پست قدم۔ والجدامة: وہ بالیاں جو پہلی مرتبہ گائے میں نہ ٹوٹیں۔ الجدم: پست طبق کے لوگ۔ جدأ (ن) بجدوا: علیہ: عطیہ دینا۔ واخذنی استجدی۔ فلانا: حاجت کا سوال کرنا۔ عطیہ مانگنا۔ أجدی إجداء: عطیہ پانا۔ فلانا: عطیہ دینا الامر: نفع دینا۔ کہتے ہیں ناما جدی عنک هذا“ تم کو یہ فائدہ نہیں دے گا۔ إجداه: عطیہ دینا۔ الجداء: عام ہار شرو الجداء) نفع عطیہ۔ الجدای: مانگنے والا۔ عطیہ دینے والا۔ الجدای: زعفران۔ الجدوی: عطیہ۔ الأجدی: زیادہ مانع۔	سے ہے ”وانہ لمجدف علیہ العیش“ وہ تک دست ہے۔ أجدف القوم: چلانا۔ شور مچانا۔ الجدفة: شور و شغب۔ رجل (مجدوف) الید: چھوٹے ہاتھ الا۔ کئے ہوئے ہاتھ والا ”مجدوف الإزار والقميص“ چھوٹا تہبند اور چھوٹی قمیص پہننے والا۔ المجداف: چھوٹا جہاز الطیر: پرندہ کے دونوں بازو۔ ججدایف التجدیف: کلمہ کفر۔ ججدایف الجدافی والجدافاء: غنیمت۔ الجدف: قبر۔ ججداف جدل (ن) جدلا: الجدل بنا۔ جدل (س) بجدلا: الرجل: سخت جگڑالو ہونا۔ وجدل (ن) جدلا: الحب: خوشہ میں سخت ہونا۔ اولد: مضبوط اور سخت ہڈیوں والا ہونا۔ جدله (ض) جدلا وجدلة: زمین پر پک دینا۔ جدل الشعر: گوند ہٹانا۔ چوٹی ہٹانا۔ جداله وجداله وجدالا: جگڑا کرنا۔ تجدالا: ایک دوسرے سے جگڑنا۔ تجدل إنجدل: زمین پر ٹپکا جانا۔ الجدل: سن۔ سخت۔ ٹھوس۔ عضو ج جدول: قبر۔ جدلاء جدل: محکم الجدل عند المنطقیین: وہ قیاس جس میں مقدمات مشہور ہوں بیان کو تسلیم کر لیا گیا ہو۔ مثلاً فلاں رات کو کھوتا ہے لہذا چور ہے۔ الجدل: جگڑا۔ جگڑنے کی مہارت۔ الجدلة: ہلان کا رستہ۔ الجدالة: زمین جدالة الخلق: گھٹے ہوئے بدن والا۔ الجدیل: عٹی ہوئی رتنی۔ وجدل جدل الانسان: انسان کے ہاتھ بیرونی کی جو فدا
--	---	--

باہم نکھش کرنا۔

تَجَذَّبَ. اللین نیٹا۔

انجذب: کھنچ جانا۔ انجذب فی السیر:

تیز چلنا یا دور تک جانا اور کہا جاتا ہے "انجذب

بہم السنیر" وہ لوگ دور تک چلے۔

الجاذب. فاکم دودھ والی اونٹنی۔ ج

جواذب و جذاب.

الجذبة نور کی مسافت۔ کہا جاتا ہے "بینہ

وبین المنزل جذبة" اس کے اور منزل

کے درمیان مسافت بعید ہے۔

جذاب: موت کے لیے علم۔

الجاذبہ: کھینچنے کی قوت۔

الجذابة: چھوٹی چڑیوں کے ڈکار کرنے کا

کہا۔

جذرا (ن) جذرا کاٹنا۔ جڑ سے اکھیرنا۔

جذرا. العذرة ضد کا جذر حاصل کرنا۔

جذرة و جذرة: جڑ سے اکھیرنا۔

الجذرة: جڑ سے اکھیرنا۔

الجذرة و الجذرة: جڑ۔ جذر النبات:

نبات کی جڑیں جو زمین میں پھیلی ہوئی ہوں۔

ج جذور: مریخ کا جذر۔ جذر البقرة:

گائے کے سینک۔

الجذرية: وہ اونٹ جو باعید کے بعد ہو۔

المجذور: ضد کا مریخ۔

المجذور: ضد اپنے آپ میں ضرب دینا مثلاً

10X10=100 حاصل ہوتے ہیں۔ 100

(سو) کا مجذور ہے۔

الجودر و الجودر و الجودر: نیل گائے

کا بچہ۔ ج جواذر و جواذر.

المجذور: بہت پست قدم۔

جذع (ن) جذعاً: الدابة: بغیر چاروں کے

روک رکھنا بین البعیرین: ایک رشتی میں

باندھنا۔

الجذع من البہائم: چھوٹا بچہ۔ ج

جذع و جذعان: نور اسی سے ہے "جذعان

الجبال" چھوٹے پہاڑ۔ نورجان۔ اور کہا جاتا

ہے "فلان فی هذا الامر جذع" فلاں

اس معاملہ میں نو آموز ہے۔

"واعذت الامر جذعاً" میں نے اس کام کو

اگر سو کر کیا۔ کہا جاتا ہے۔ "ذہوا (جذع

مذع) یعنی برفٹھ: یعنی متفرق گئے۔

الجذع: درخت کا تنہ۔ ج جذوع

و اجذاع. جذع الإنسان: سر اور

ہاتھوں اور ٹانگوں کے علاوہ انسان کا باقی جسم۔

المجذع و المجذع: بے اصل وہ بے

ثبات۔

جذف (ض) جذفاً و اجذف. الطائر:

تیز اڑنا۔ "جذفت و اجذفت المرأة:

چھوٹے چھوٹے قدم رکھنا۔

جذف و جذف. القارب: بیچرے چلانا۔

الشيء كأنه:

تجذف. فی مشبہ تیز چلنا۔

المجذاف: بستی چلانے کا چیز۔

المجذوف: بستی ہوئی ٹانگ والا۔

جذال (س) جذلاً و اجذال: خوش ہونا۔

صفت (جذال و جذلان) ج جذلان

مؤنث جذلة و جذلی.

جذال (ن) جذولاً و استجذال: سیدھا

کھڑا ہونا۔

اجذله: خوش کرنا۔

تجاذل. القوم: باہم کینہ رکھنا۔ باہم دشمنی

کرنا۔

الجذال. من الشجرة: بغیر شاخوں کے

درخت کا تنہ۔ ٹھنڈھ کہا جاتا ہے "غاذ الشيء

إلى جذله" چیز اپنی اصل پر لوٹ آئی۔ لکڑی

کا کندہ جو غارش والے اونٹ کے بدن رگڑنے

کے لیے کھڑا کیا جائے۔ جذال اس کی تغیر

ہے اور اسی سے ہے "انا جذليلها

المحکک" میں تجربہ کار و واقف کار ہوں۔

اور کہا جاتا ہے "هو جذل مال" وہ مال کا بہتر

معظم ہے۔ ج جذال و اجذال و جذول

و جذولة.

الجاذل. فاشادان۔ ستون کی مانند ایک

جگہ پر کھڑا رہنے والا۔ "سقاء جاذل: دودھ

کو بدمرہ کر دینے والی مٹک۔

جذم (ض) جذماً و جذمة: جلدی سے

کاٹنا۔

جذم جذماً: کٹے ہوئے ہاتھ یا کٹی ہوئی

انگلیوں والا ہونا۔

جذم: کوڑھی ہونا۔ صفت (اجذم

و مجذوم و مجذوم).

اجذم عن الشيء: ہزار ہزار علیہ: پختہ ارادہ

کرنائی سیرہ: تیز چلنا یہ: کاٹنا۔

انجذم و تجذم: بک جانا۔

الجذم و الجذم: اصل۔ ج۔ ج جذوم

و اجذام.

الجذمة و الجذمة: ہاتھ میں کٹنے کی جگہ۔

الجذمة: بکلا۔ چاک۔ کوڑا۔

الجذمة: بکلا۔

الاجذم: جھٹکا۔ یا کٹی ہوئی انیسوں والا۔

مؤنث جذمی و جذماً اور کہا جاتا ہے "هو

اجذم الحجة" وہ شخص ایسا ہے جس کے

پاس نہ دلیل ہے نہ زور بیان۔

الجذامة: بستی ہوئی کھیتی کا باقی ماندہ۔

المجذام و المجذامة: امور میں جلدی

فیصلہ کرنے والا۔ جلدی سے دوستی کو ختم کر

دینے والا۔

جذال (ن) جذواً و جذواً و اجذی. علی

الشيء: اچھی طرح کھڑا ہونا۔

تجاذى. الحجر: ٹھٹھانا۔

الجذاة: بڑے درختوں کی جڑیں۔ ج جذاء

الجذرة و الجذوة و الجذوة: جھڑکتا ہوا

انگارہ۔ ج جذی و جذی و جذاء کہا جاتا

ہے "فلان جذوة شو" فلاں شرکا بانی اور

اسے ہوا دینے والا ہے۔

جذی (ض) جذياً و اجذی. فلان عنه:

مذع کرنا۔

تجاذى: تجاذياً: ٹھسک جانا۔

الجذی و الجذبة: من الشجرة: جڑ۔

جزة (ن) جزاً و جزية: کھینچنا۔ جز

الابل: آہستہ آہستہ ہاتھ لگانا علیہ: نلفہ

جَوْرِيَّةٌ: گناہ کا ارتکاب کرنا۔

جَوْرَةٌ وَجَوْرِيَّةٌ: سختی سے کھینچنا۔

جَاوَرَةٌ رَسَنَةٌ: بالکل آزاد چھوڑ دینا۔ نال منول کرنا۔ کہا جاتا ہے ”جَاوَرَةُ الدِّينِ“ اس نے قرض ادا کرنے میں نال منول کی۔

أَجْرٌ: کھینچنا۔

جَرَوُا اجْتَرَ العَبِيرُ: جگالی کرنا۔

أَجْرٌ العَبِيرُ: جگالی کرنا الفَصِيلُ: دودھ پینے سے روکنے کے لیے زبان چیر دینا۔ لسانہ: گفتگو کرنے سے منع کرنا۔ أَجْرَةٌ رَسَنَةٌ: بالکل آزاد چھوڑ دینا۔ اجْرَهُ الرَّمْعُ: نیزہ کھسا کر چھوڑ دینا۔ أَجْرَةُ الدِّينِ: مہلت دینا۔

اجْتَرَ واجْتَدَرَ الشَّيْءُ: کھینچنا۔

اسْتَجْرَ الشَّيْءُ: کھینچنا المالُ: تھوڑا تھوڑا لینا لِفُلَانٍ: مطیع و فرما بھر دار ہونا۔

الجَرُّ: سُر اور اسی سے ہے ”كان ذلك عام كذا وهلمَّ جرَّاً الى اليوم“ یہ واقعہ فلاں سال میں ہوا اور آج تک ایسا ہی ہے۔ جَرُّ الجَبَلِ: دامن کوہ۔ بجز وغیرہ کا سوراخ۔ اعراب کی ایک قسم خواہ حرکت سے ہو یا حرف سے۔

الجِرَّةُ: کھینچنے کی ہیئت۔ خاند بدوش لوگ۔

(والجَرُّ) جگالی۔

الجِرَّةُ: جَرُّ کا اسم مرفوعہ۔ گھڑا۔ ج جَرُّ

و جوار۔

الجِرَّةُ: بھو بھول کی پکی ہوئی روٹی۔

الجِرَّةُ: گدہ بونے کے لیے سوراخ دار برتن۔

ہرن کے شکار کے لیے لکڑی کا پھندا ج جَرُّ۔

کہا جاتا ہے۔ فعلت۔ ذلك من (جَرَّاك)

و جَرَّاك و جَرَّاك و جَرَّاك) میں نے یہ تمہاری وجہ سے کیا۔

الجِرِّيُّ: ایک قسم کی مچھلی جس کو بام کہتے ہیں۔

الجِرِّيَّةُ وَالجِرِّيَّةُ: پرندے کا پونجا۔

الجَارُورُ: پانی بہنے کی جگہ۔ سیلاب کا بنایا ہوا

نالہ فی اصطلاح المولدین: صندوقی جو

کھینچنے سے کھلے۔

بَنُو (جَوْرُوز): گہرا کتواں فرس جَوْرُوزُ:

قاپو میں نہ آنے والا گھوڑا، امرأة جَوْرُوز:

لحی عورت۔

الجَوْرِيَّةُ: گناہ۔ کہا جاتا ہے ”فعلت ذلك

من جَوْرِيَّتِكَ“ میں نے اس کو تمہاری وجہ سے کیا۔

الجَوْرُ: بہت کھینچنے والا۔ گھڑا بنانے والا۔

گھڑا بیچنے والا۔ جیش جوار: بہت بڑا لشکر

عوام چھوٹی صندوقی کے لیے لفظ جَوْرُاز کو

استعمال کرتے ہیں جو کھینچنے سے کھلتی ہو۔

الجَوْرَاةُ: زرد رنگ کا پھو جو دم کو گھسیٹتا چلتا

ہے۔

المَجْرُ: پانی بہنے کی جگہ۔ شہتیر۔

المَجْرَةُ: کہکشاں۔ عوام اس کو ”درب

النبانہ“ کہتے ہیں۔

جَوْرَةٌ (ك) جَرَانَةٌ وَجَوْرَةٌ وَجَوْرَةٌ

وَجَوْرَانِيَّةٌ: علیہ: دلیری کرنا۔ صفت

(جَوْرِي) ج جَوْرَاءُ وَجَوْرِيَاءُ۔

جَوْرَةٌ تَجْرِيْنَا: جرأت دلانا۔ دلیر بنانا۔

إِجْتَرَا: دلیر ہو جانا۔

اسْتَجْرَا: تکلف جرأت دکھلانا۔

الجَوْرِيَّةُ: درندوں کے شکار کرنے کا مکان۔

ج الجَوْرَانِي

الجَوْرِيَّةُ: پونجا۔ حلق۔

جَوْرِبُ (س) جَوْرِيَا: خارش والا ہونا۔ صفت

(جَوْرِبُ وَجَوْرِيَانُ وَجَوْرِبُ) ج جَوْرَابُ

وَجَوْرِيِي وَجَوْرِبُ وَجَوْرِبُ جَوْرِبُ

السَّيْفُ: زنگ آلود ہونا۔

جَوْرِيَّةٌ تَجْرِيْنَا وَتَجْرِيَّةٌ: آزمانا۔

أَجْرِبُ القَوْمُ: قوم کے اونٹوں میں خارش

پھیلنا۔ مچھلی میں جتلا کرنا۔

الجَوْرِبُ: عیب۔ برائی۔ تلوار کا زنگ۔

الجَوْرِيَاءُ: اجرب کا منوٹ۔ قطار زدہ زمین۔

ستاروں بھرا آسمان۔

الجَوْرَابُ: تلوار کا میان۔ چڑے کا برتن۔

کتوں کا جوف۔ خصیتیں کی تھیلی۔ ج جَوْرِيَّةٌ

و جَوْرِبُ وَجَوْرِبُ

الجَوْرَابُ: خالی کشتی۔

الجَوْرِيَّةُ: سخت وقوی افراد (انسان ہو یا

حیوان) کھاؤ اور نیکے اہل و عیال۔

الجَوْرِيَاءُ: شمالی ہوائیاں کی ٹھنڈک

الجَوْرِيَانُ وَالجَوْرِيَانُ: من السيف:

میان پر تلہ۔ دھار من القميص:

گریبان۔

المُجْرَبُ: آزمودہ۔ دراہم مجرَبِيَّةُ:

کھرے دراہم۔

أَلْجَوْرَةُ: ایک جگہ سے دوسری جگہ کوچ کرنے

والی قوم۔

جَرَبَاةٌ: پھولوں کی ایک قسم۔

جَرَبِيَّةٌ: پھولوں کی ایک قسم۔

الجَوْرِبُ: پانابہ (فارسیہ) ج جَوْرَابُ

و جَوْرَابِيَّةُ۔

جَوْرَبِيَّةٌ: پانابہ پہننا۔

تَجَوْرِبُ: پانابہ پہننا۔

الجَوْرِيَّةُ: ایک قسم کی مچھلی۔ مارنا ہی۔

تَجَوْرَمُ وَاجْرَنْفَمُ: اوپر سے نیچے گرنا اور

سکر کر زمین پر آ رہنا۔ إِجْرَنْفَمُ: چٹ کے رہ

جانا۔

الجَوْرُومُ وَالجَوْرُومَةُ: من الشَّيْءِ:

جر۔ یاد رخت کی جڑ میں جمع شدہ مٹی۔ ج

جَوْرَانِيْمُ

جَوْرُومَةُ النَّمْلِ: چیونٹوں کی بستی۔ اور

عصری زبان میں ”جرانیم“ (Grms) کے

لیے استعمال ہوتا ہے۔

جَوْرَجُ (س) جَوْرَجَا: الخاتم فی اصبعه:

ڈھکی ہونے سے حرکت کرنا۔ صفت

(جَوْرَجُ) الرَّجُلُ: سخت زمین میں چلنا۔

الجَوْرَجُ: سخت زمین۔

الجَوْرَجِيَّةُ: توشہ رکھنے کا تھیلا۔ خرمی۔ ج

جَوْرَجُ

جَوْرَجُ الرَّجُلِ: بلبلانا۔ الماء فی

حلقہ: گڑگڑ کرنا۔ (وَجَوْرَجُ) الماء:

غٹ غٹ پینا۔

الجَزَجْرَةُ عِلَّةٌ كِي دَائِمِينَ كَرْنِي كَا آهِي آلِهـ
حَلَقِي جِرَاجِرِـ

الجَزَجْرُ وَالْبَجْرُ جَزْمُ يَوْمِيَا جِتَاـ
الجَزَجْرَةُ جِبْلِيـ

الجَزَجْرِي: اِيك قِسْم كِي تَزْكَارِي جِي پَانِي مِيں
پيدا هوتي هے۔

جَزَحْلَافٌ جَزَحْاضَمِي كَرْتَا ه بِلْسَانِهـ
عَيْب لِكَا نَاـ مَرْتَبَه گُهْتَا نَا كِهَاجَا تَا هے ”جِرْح
الشَّهَادَةُ“ اِس نِي گَوَاهِي كُو بَاطِل كَر دِيَا
الرَّجُلُ بِمَكَانَا مَفْتٌ (جَارِح) اُور اِي سِي
هے ”مَآلُهُ جَارِحَةٌ“ اِس كِي لِي كُو تِي كَمَا نِي
وَالَا نَمِيں۔

جِرْحٌ (س) جِرْحَاضَمِي هُونَاـ
جِرْحَةٌ: بَهْت زَعْمِي كَرْتَا جِرْحُ الشَّهَادَةُ:
رُد كَرْتَاـ

اِجْتَرَحَ الشَّيْءُ كَمَا نَا اِلْتِمَامُ اِرْتِكَابِ
كَرْتَاـ

اِسْتَجْرَحَ الشَّيْءُ قَاسِدًا هُونَاـ
الجُرْحُ: زَخْمٌ جِ جُرُوحٌ وَاَجْرَاحٌ
الجُرْحَةُ: جِسْمِ نِي سِي مَخَالِفِ كِي گَوَاهِي يَا
دَلِيلِ مَجْرُوحِ كِي جَا نِي۔

الجِرَاحَةُ تَزْعُمُ جِ جِرَاحٌ وَاَجْرَاحَاتٌ:
جِرَاحٌ كَا پِيش گِ مَنَا هـ

الجِرَاحُ وَالْجِرَاحِيُّ: زَعْمُونِ كَا عِلَاجُ
كَرْنِي وَا لـ سِرْجِنـ

الجَارِحَةُ جَارِحٌ كَا مَوْنُفٌ جَمْرِي شَكَارِي
وَرِنْدَه يَا پَرِنْدَه يَا كَلْبَهـ عَضْوَانِي نِي خُصُوصَا تَا هَجِ
جَوَارِحُ جَوَارِحُ النَّهَارِ: كِتَابِي هے

مَصَابِي هے۔ اُور اِي سِي هے ”نَعُوذٌ بِاللَّهِ
مِنَ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَجَوَارِحِ النَّهَارِ“ هَم

دِنِ اُور رَاتِ كِي مَصَابِي سِي اللّٰهِ كِي پَنَاهِ لِي تِي
هِيں۔ ”الْجَوَارِحُ مِنَ الطَّيْرِ“ شَكَارِي

پَرِنْدَهـ

الْمَجْرُوحُ جِ مَجَارِيحٌ وَا
(الجِرْيَحُ جِ جِرْحِي نَمِي نَمِيـ

جِرْدَانٌ) جِرْدَا وَا جِرْدَا اَلْعَوْدَةُ جَمِيلَانَا
الْجِلْدُ: پَالِ اُتَرَا السَّيْفُ: نَمِي كَرْتَا

الْفَحْطُ الْاَرْضُ: چَاطِلِ كَر دِي تَا جِرْدَه
مِنَ ثَوْبِه وَا جِرْدَه ثَوْبِيَه: بِنَجِ كَر تَا جِرْدَا
الْكِتَابُ: عَرَابِ نَه لِكَا نَا جِرْدَا الْجِرْدِيَّةُ:

پِيك دِي تَاـ
جِرْدَا (س) جِرْدَا: چَاطِلِ هُونَا نَمِي گُهْتَا
الْمَكَانُ: نَمِي زِدَه هُونَا الْفَرَسُ: چَاطِلِي
پَالِ وَا لـ هُونَاـ

جِرْدَاتُ الْاَرْضِ نَمِي زِيوِيں كِي كِهَانِي سِي
صَافِ هُونَا نَاـ

تَجْرَدٌ: نَمِي گُهْتَا هُونَا اَلْاَمْرُ: تَمَامِ كَامُونِ سِي
فَارِغٌ هُو كَر مَشْغُولٌ هُونَا اُور كُو شَشِ كَرْتَا
الْفَرَسُ نَمِي زِيوِيں مِيں آگِي بَرَه جَا تَاـ

اِنْجِرْدَا: نَمِي گُهْتَا هُونَا بِنَا السَّيْرِ: بَغِيْرِ دُوسَرِي
طَرَفِ التَّمَاتِ كِي هُو نِي پَلْتِي رَهْنَا الثَّوْبُ:
گُهْتَا اُور بُو سِي دِه هُونَاـ

اِجْتَرَدَ الْقَطْنَ وَهَضَا
الجِرْدُ: مَر مَكَانِ جِرْدٌ بَغِيْرِ نَبَاتَاتِ وَا لِي
جَكِي الثَّوْبُ الْجِرْدُ: پُرَا نَا بُو سِي دِه كِزَرَا

ذُهَالٌ پَالِ كَا بَقِيَّةُ جِرْدُ
الجِرْدُ وَالْجِرْدُ: بَغِيْرِ نَبَاتَاتِ وَا لِي جَكِيـ
الجِرْدُ نَبَالِ كَا چَاطِلِي هُونَاـ

الجِرْدَةُ نَبْرِي هِي كِيـ
الجِرْدَةُ نَبْرَانَا بُو سِي دِه كِزَرَا
الجِرْدَا نَمِي وَاحِدٌ جِرْدَاةُ
الجِرْدَاةُ نَمِي كِي كَا چَهْلَاكِيـ

الجِرْدِيَّةُ: كَمُجُورِ كِي نَمِي جُو پِيوِيں سِي صَافِ كَر
كِي گِي هُو وَاحِدٌ جِرْدِيَّةُ

الجِرْدِيَّةُ نَمُوَارُوں كَا رَسَالَه جِس مِيں پِيَا دِي
نَه هُوں پَالِ كَا بَقِيَّةُ رَجْسُرَا اِخْبَارِ جِ جِرْدَانِي دِ
الْاَجْرَدُ بَغِيْرِ نَبَاتَاتِ وَا لِي زَمِيْنِ هے پَالِـ

چَاطِلِي پَالُوں وَا لـ مَوْنُفٌ جِرْدَاةُ جِ
جِرْدَا اَلْاَجْرَدُ مَنِ النَّخِيلِ: كَمُجُورُوں مِيں
آگِي رَهْنِي وَا لـ گُهْتَا لِي اَجْرَدُ: هے

جَهَاگِ كَا دُورِ هُو صَخْرَةٌ جِرْدَاةُ: صَافِ
كَمِي چِطَانِ خَمْرَةٌ جِرْدَاةُ خُرَابِ صَافِيـ

وَالْجِرْدُ نَمُوَارُوں كَا رَسَالَه جِس مِيں پِيَا دِي
نَه هُوں اُور كِهَاجَا تَا هے ”مَا رَأَيْتَهُ مِنْدَا جِرْدُ

ذِيْنِ مِيں نِي اِس كُو پُو رِي دُو دِنِ يَا دُو مِيْنِي يَا دُو
سَالِ سِي نَمِيں دِي كِهَا وَا ”شَهْرُ اَجْرَدُ“ پُو رَا
مِهِيْنِيـ

سَنَةُ جَارُوْدٌ وَا جَارُوْدَةٌ: سَخْتِ قَلْبِ وَا لـ
سَالِـ

التَّجْرِيْدُ نَمِي زِيوِيں كِي نَزْدِيكِ كَلِمَاتِ كُو لَفْظِي
عَامِلِ سِي خَالِي كَر نَا جِي سِي زِيْدِ قَامِ اُور صَرْفِيُوں كِي
نَزْدِيكِ زَائِدِ حُرُوفِ سِي خَالِي كَر نَا جِي سِي قَامِ زِيْدِـ

التَّجْرِيْدَةُ نَمِي جِ كَا دُورِـ
الْمَجْرُدُ نَمِي نَمُوَارُوں كِي صَافِ كَرْنِي كَا بَرَشِـ
زُوْنِي دِ هَضْنِي كَا آلِهـ

الجِرْدَانُ نَمِي نَمِي بَغِيْرِه كِي بَرْتُوں كِي كَهْتَا نِي
كَرْنِي وَا لـ قَلْعِي گَرِـ

الْمَنْجِرْدُ: چَاطِلِي پَالُوں وَا لـ
الجِرْدُ قِ وَالْجِرْدَةُ قِ زُوْنِي جِ جِرَادِ قِ
الجِرْدُ نَمِي نَمُوَارُوں كِي سِيَا نَمِي زِيوِيں مِيں بَهْت بُو لِي

وَا لـ
جِرْدَانٌ) جِرْدَا اَلْجِرْحُ نَبْرَانِ زَخْمِ كَا
بَسْتِ هُو كَر سُو جِتَا نَاـ

جِرْدَا الشَّجَرَةُ نَمِي نَمِي اُتَرَا نَا
اَجْرَدَةٌ: كِهَاجَا نَا عَلِيْهَدِه كَر نَا ه بِيَه: مَجْمُورِ
كَر نَاـ

الجِرْدُ نَمِي نَمُوَارُوں كِي كُوچِ كَا دُورِـ
الجِرْدَا نَمِي نَمِي قِسْمِ كَا چَاطِلِي جِ جِرْدَانِ كِهَاجَا
جَا تَا هے ”تَفَرَّقَتْ جِرْدَانُ بَيْنَهُمْ كِي گُهْرِ
مِيں چُو هِي قَلْبَا بَزِي كِهَا هِي هِيں۔

اَرْضُ (جِرْدَةٌ): بَهْت چُو هُوں وَا لِي زَمِيْنِـ
الْمَجْرُدُ: تَزْعُمُو دِه كَا رِـ

الْاَجْرَدُ نَمِي نَمِي شَخْصِ جُو چَلْتِي مِيں قَدَمِ كَا اَكْلا حَصَهـ
قَرِيْبِ قَرِيْبِ كِي اُور اِي زِيوِيں زُوْرُوْرِـ

جِرْدَانٌ) جِرْدَا نَمِي نَمِي جِ سِي اَكْهِيْرَا
الزَّمَانُ نَمِي نَمِي كَر نَا ه بَالِشْمِ مَهَلِي دِي تَا كِهَاجَا
جَا تَا هے ”جِرْدَا مَاعَلِي الْمَائِدَةِ وَنَمِي
خُوَانِ كَا سَبْ كِي صَافِ كَر گِيَاـ

جِرْدَاكِي) جِرْدَاةُ نَمِي نَمِي هُونَا
جِرْدَا (س) جِرْدَا اَلْاَرْضُ نَمِي نَمِي جِرْدَانِ
مَفْتٌ (جَارِزَةٌ) جِ جَوَارِزُ

جِرْدَانِ

جِرْدَانِ

جِرْدَانِ

جِرْدَانِ

جِرْدَانِ

جَارَزَةٌ جَرَاَزًا وَمَجَارَزَةٌ: گالی کے مشابہ خوش طبعی کرنا۔
 أَجْرَزٌ. الجَيْرُ: لاغر ہونا مکان: قطر زدہ ہونا۔ صفت (ميجراز)
 تَجَارَزَ. القوم: باہم گالی گونج کرنا۔
 الارض (الجوز والجوز والجوز: بخر زمین۔ زمین جس کی گھاس چلی گئی ہو۔ ج آجراز کہا جاتا ہے "أرض جرز وأرض آجراز وأرضون آجراز"
 الجوز: عورتوں کا ایک لباس۔
 الجوز: لوسہ یا چاندی کا ستون۔ ج آجراز وجرزہ۔ کہا جاتا ہے "طَوَّتِ الحَيَّةُ أَجْرَاها" سانپ کنڈلی ماد کے بیٹھ گیا۔ "طَوَّيْ فَلَانَ أَجْرَاةُ" فلاں نے سستی کی۔
 الجوز: خشک سال۔ جسم۔ انسان کا سینہ۔
 أَوْنَتْ كِي بِيْه كَا كَوْنَتْ۔
 الجوزہ: ہلاکت۔ کہا جاتا ہے "رَمَاهُ اللّٰهُ بِجِرْزَةٍ" اللہ اس کو ہلاک کرے۔
 الجوزة: کھلم۔ بڈل۔ ج جرز۔
 الجوز: شمشیر برائ۔
 الجوز: بہت کھانے والا جو دسترخوان کو صاف کرے۔
 المَجْرُوزُ. من الامكنة: نبات بريہ جگہ۔
 جَرَسٌ (ض) جَرَسًا: بولنا۔ آواز سنانا۔
 الكلام: ترم سے پڑھنا الشیء: زبان سے چائنا۔
 أجرس: الطائر: اُڑنے میں سرسراہٹ کی آواز سنانا دینا الحدادی: حدی گانا الجرس: بھانا (والجرس) الحلی: جھنگلا ہونا۔ بھنا۔
 جرسہ: الدھر: تجربہ کار بنانا۔ جرس بہم: بدنام کرنا۔
 تجرس: بولنا۔ گفتگو کرنا۔ نغمہ سرائی کرنا۔
 اجترس: المال: کمانا۔
 الجرس والجرس: آواز۔ آہستہ آواز۔
 الجرس: اصل۔ کہا جاتا ہے "هُوَ مِنْ خَيْرِ

جرس" وہ شریف خاندان سے ہے۔ ج آجراس۔
 الجرس: گھنڈہ۔ گھڑیاں۔ ج آجراس۔
 ذات الاجراس: ایک قسم کا سانپ جس کی آواز گھنڈہ کی مانند ہوتی ہے۔
 الجارسة: گھاس کھانے والا کیزر۔ ج جوارس
 الجوارس: شہد کی کھیاں۔
 الجرسة: آزمودہ کاری۔
 المجرس: تجربہ کار۔ کہا جاتا ہے "ناقة مجرسة" سدھائی ہوئی اونٹنی۔
 جواريس: سفید یا سفیدی پھولوں والا پودا زیادہ تر زیب و زینت کے لئے بویا جاتا ہے۔
 جرش (ن) جرشا: الحب والقمح: دانا۔ (وجرش) الراس: کھجلا کر بھوسی نکالنا۔
 اجرش: لعیالہ: کمانی کرنا الشیء: اُچک لینا۔
 الجاروش والجاروشة: غلہ دلے کی چکی۔ ج جواریش۔
 الجرش: سن۔ سانپ کے کینچلی سے نکلنے کی آواز۔
 والجرش والجرش والجرش: من اللیل: رات کا ایک حصہ۔ کہا جاتا ہے۔
 "مضی جرش من اللیل" رات کا ایک حصہ گذر گیا۔ ج آجراش وجروش۔
 جراسة: الحب: دلا ہوا غلہ۔ سر کی بھوسی۔
 الجوارش: جوارش۔ (دوا)
 الجرش والمجروش: دلا ہوا۔
 جروض (س) جرضًا: بریقہ: گھریا غم کی وجہ سے مشکل سے تھوک لگانا ریقہ: یکبارگی نکل لینا۔ کہا جاتا ہے "فلاں یجروض عليك ريقه غيظًا" یعنی فلاں تمہارے اوپر دانت چیں رہا ہے۔
 جرضہ (ن) جرضًا: گلا گھونٹنا۔ کہا جاتا ہے "هو يجروض نفسه" وہ مرنے والا

ہے۔
 أَجْرَضٌ. بریقہ: اچھو لگوانا۔
 الجروض والجروض: تھوک جس سے پھندا لگ جائے۔ اور اسی سے شل ہے "حَالُ الجريض ذون الفريض" شعر کہنے سے شدید غم نے روک دیا۔
 الجروض: غمگین۔ ج جرضی: اور کہا جاتا ہے "فلت فلاں جرضًا" فلاں مرنے ہی والا ہے۔
 الجراض والجراض: الجراض: بہت غمگین۔
 الجرضم والجراضم: بہت کھانے والا۔ ناقة (جرضم) وجرضم) موٹی تازی اونٹنی۔
 جرع (ف) جرعًا وجرع (س) جرعًا واجترع واجترعا. الماء: یکبارگی پی لینا۔
 جرعہ: الماء: ایک ایک گھونٹ کر کے پلانا۔
 تجرع: الماء: تھوڑا تھوڑا پینا الغیظ: غصہ پی جانا۔
 أجرع: الناقة: کم دودھ والی ہونا۔ صفت (مجرع) ج مجارع ومجارع)
 الجرعة والجرعة والجرعة: گھونٹ۔
 الجرعة ج جرع وجرعان و (الجرعاء) ج جرعوات و (الاجرع) ج اجارع: ہموار ریتلا میدان جس میں کچھ نہ اُگے۔
 جرف (ن) جرفًا وجرف وتجرف واجترف. الشیء: قل یا لکھنے کو لے جانا الطین: کھرچ لے جانا۔
 أجرف: الراعی ابلہ: اونٹ چرانا۔ الجرف: چارہ
 أجرف: المكان: سیلاب زدہ ہونا۔
 الجرف: سر۔ بہت مال (موسی چاندی سونا وغیرہ۔ سر سبزی۔ وہ داغ جو اونٹ کی ران یا بدن پر لگایا جاتا ہے۔
 الجرف: ج جرفة و (الجرف) ج

اجْرُوف: دریا کے کنارے کا وہ حصہ جس کو پانی نے کھوکھلا کر دیا ہو۔ اور اسی سے ہے ”فلان یبنی علی جُرُوفِ ہارِ لَیْدِرْدی مَالِیْلَ مِنْ نَہَارِ“ فلاں دریا کے گرتے ہوئے کنارے پر گھر بناتا ہے اور اسے لیل و نہار کی تیز نہیں۔
الْجُرُوفُ: من السیل: تمام چیزوں کو بہا لے جانے والا سیلاب۔ اور کہا جاتا ہے ”رجلٌ یجْرُوفُ“ تمام کھانا کھانے والا مرد۔
(والجرباب) ایک قسم کا پیمانہ۔
الْجَارِيفُ: فَا. طاعون. عام تباہ کن موت (چاہے انسان کی ہو یا مویشی کی)
الْجَارِوْفُ: بہت کھانے والا۔ تیز بہا لے جانے والا۔ منحوس۔ مؤنت جَارُوْفَةٌ.
الْجَرَافُ: بہت تیز بہا لے جانے والا۔
الْمُجْرُوفُ وَالْمُجْرُوفُ: وہ شخص جس کا تمام مال برباد ہو گیا ہو۔
الْمُجْرُوفُ وَالْمُجْرُوفَةُ: بیلچہ۔ پھاڑوڑہ۔
جَرْفَسَةٌ: پھاڑنا اشیاء: بہت حرص سے کھانا۔

جَرْمٌ (س) جَرُولًا. المکان: سخت اور پتھر جلی ہونا۔
الْجَرُولُ: سخت اور پتھر جلی زمین جِ اَجْرَالِ.
الْجَرُولُ: پتھر جلی زمین۔ جِ اَجْرَالِ.
الْجَرِيَالُ وَالْجَرِيَالَةُ: شراب یا اس کا رنگ۔
جَرْمٌ (ض) جَرْمًا. الشیء: کاٹنا۔ پورا کرنا
النّاقۃ: اُون کزنا (جَرْمًا وَجَرَامًا وَجَرَامًا النخل: کھجوریں کاٹنا۔
جَرْمٌ (ن) جَرْمًا وَاجْتَرْمٌ. لاهلہ: کھانا۔
جَرْمٌ (ض) جَرِيْمَةٌ وَاجْرَمٌ وَاجْتَرْمٌ.
الیہ وعلیہ: گناہ کرنا۔
جَرْمٌ (س) جَرْمًا: گرمی ہوئی کھجوریں کھانا۔
لُونُهُ: صاف ہونا۔

جَرْمٌ (ک) جَرِيْمَةٌ: عظیم الجرم ہونا۔ بڑا گناہ کرنا۔
جَرْمَةٌ: کاڈا۔

جَرْمَةٌ وَجَرْمٌ. علیہ: گناہ کی تہمت لگانا۔
تَجْرَمُ الزَّمَانُ او الشَّيْءُ: ختم ہو جانا۔ کہا جاتا ہے ”عامٌ مُجْرَمٌ“ پورا سال۔

الْجَرْمُ: س. (والجزم) گناہ۔ جِ جُرُومٍ وَأَجْرَامٍ. اور کہا جاتا ہے ”لاجرم ولا جرم“ یعنی ضروری یقیناً۔ اور کبھی قسم کے معنی میں آتا ہے۔ ”لاجرم لا فعلنٌ کذا“ میں بخدا ایسا کروں گا۔

الْجَرْمُ: س. ڈوگی۔ گرم نلک۔ جِ جُرُومٍ. الْجَرُومُ: گرم ممالک۔ اس کے مقابلہ میں ”الضُرود“ ہے یعنی سرد ممالک۔

الْجَرْمُ: جسم۔ رنگ۔ باصطلاح فلسفہ ستارہ و آسمان۔ جِ اجرامٌ وَجُرُومٌ وَجُرُومٌ. الْجَرَامُ وَالْجُرَامُ وَالْجَرِيْمُ: خشک کھجور۔ چھو بارہ۔

الْجَرِيْمُ: بڑے جسم والا۔ گنہگار۔
مؤنت جَرِيْمَتِجِ جَرَامٍ.
الْجَرِيْمَةُ: جرم۔ گناہ۔ گھٹلی۔ شجر جَرِيْمَةٌ: کھنا ہو اور سخت۔ الْجَرِيْمَةُ: آخری بچہ۔ کہا جاتا ہے۔ ”هُوَ جَرِيْمَةٌ اِهْلُهُ“ وہ اپنے اہل کے لیے کمانے والا ہے ”والعقاب جَرِيْمَةٌ فَرَجَها“ عقاب اپنے بچوں کی خوراک لانے والا ہے۔

جَرْمَزٌ وَاجْرَمَزٌ. الرَّجُلُ: سٹنٹا۔ لوٹنا۔
بھاگنا۔ جواب میں غلطی کرنا۔
الْجَرَامِيزُ مِنَ الْحَيَوَانِ: جانور کی ٹانگیں۔
کہا جاتا ہے۔ ”ضَمَّ النَّوْرُ جَرَامِيْزَهُ“ تیل نے اپنی ٹانگیں سیٹ لیں۔ ”وَآخَذَهُ بِجَرَامِيْزِهِ“ اس نے سب لے لیا۔
الْجَرْمُوفُ: موزہ۔ وہ چیز جو موزہ کے اوپر اس کی حفاظت کے لیے پہنی جاتی ہے۔ عوام اس کو ”کالوش“ کہتے ہیں۔

جَرُونٌ (ن) جَرُونًا. الثوب: بوسیدہ و نرم ہونا علی الامر: خوگر ہونا۔ عادی ہونا۔ کہا جاتا ہے ”جَرَنْتَ يَدَهُ عَلَي الْعَمَلِ“ اس کا ہاتھ کام میں مشاق ہو گیا۔
جَرْنَا. الْعَمَبُ: پینا۔

جَرُونٌ (ن) جَرُونًا. الثوب: بوسیدہ و نرم ہونا علی الامر: خوگر ہونا۔ عادی ہونا۔ کہا جاتا ہے ”جَرَنْتَ يَدَهُ عَلَي الْعَمَلِ“ اس کا ہاتھ کام میں مشاق ہو گیا۔
جَرْنَا. الْعَمَبُ: پینا۔

أَجْرُونٌ. الْحَبُّ: کھلیان میں جمع کرنا۔
اِجْتَرَنُ: کھلیان بنانا۔

الْجَارِنُ: سانپ کا بچہ۔ مٹے ہوئے نشان والا راستہ من المتاع: استعمال شدہ بوسیدہ سامان۔ سَقَاءٌ جَارِنٌ: سخت چڑے والی مکک۔ دِرْعٌ جَارِنَةٌ: نرم زرد۔ جِ جَوَارِنٌ وَجَارِنَاتٌ.

الْجُرْنُ: پانی وغیرہ کے لیے کھدا ہوا پتھر۔ جِ اَجْرَانٌ وَجَرَانٌ. (والجورین) جِ جُرْنٌ: کھلیان کھجور وغیرہ خشک کرنے کی جگہ۔

الْجَرَانُ: من البعير: اُونٹ کی گردن کا اگلا حصہ۔ جِ جُرْنٌ وَأَجْرَنَةٌ اور کہا جاتا ہے ”الْقَلْبُ الْبَعِيْرُ جَرَانَةٌ“ یعنی اُونٹ بیٹھ گیا۔
”وَالْقَلْبُ فَلَانٌ عَلَي هَذَا الْأَمْرِ جَرَانَةٌ“ یعنی فلاں نے اس مقصد پر اپنی نظر جمادی۔ ”وَضَرَبَ الْإِسْلَامُ بِجَرَانِهِ“ اسلام نے بڑ

پکڑی۔ ”وَضَرَبَ اللَّيْلُ بِجَرَانِهِ“ رات آگئی ”وَالْقَلْبُ عَلَيْهِ جَرَانَةٌ“ اس نے اپنا بوجھ اس پر ڈال دیا۔

الْمُجْرُونُ: کھلیان۔ رجلٌ مُجْرُونٌ: بہت کھانے والا مرد۔
الْمُجْرُونُ: من السیاط: نرم اور چکنا کوڑا۔
جَرَةٌ تَجْرِيْفُهَا. الامر: ظاہر و آشکارا کرنا۔
تَجْرَةٌ الامر: ظاہر و آشکارا ہونا۔
الْجَرَاهِيَّةُ: ظاہر و آشکارا۔ کہا جاتا ہے ”سَمِعْتُ جَرَاهِيَّةَ الْقَوْمِ“ میں نے قوم کی چیخ پکاری۔

جَرَهْدٌ وَاجْرَهْدٌ. فِي السَّيْرِ: تیز چلنا۔
الْجَرَهْدُ وَالْجَرَهْدُ: پھر تیرا چلنے والا۔
أَجْرَتْ اِجْرَاءً. الْكَلْبَةُ: بیلوں والی ہونا۔
الْجُرُو. بِنْتْلِيْثِ الْجِيْمِ: ہر چھوٹی چیز یہاں تک کہ اتار اور خریدہ بھی۔ اور عموماً کتے اور شیر کے بچے کے لیے مستعمل ہے۔ جِ جَرَاءٌ وَأَجْرٌ وَجِجِ اِجْرِيَّةٌ.

الْجُرُوَّةُ: بِنْتْلِيْثِ الْجِيْمِ: جرد کا مؤنت۔
کہا جاتا ہے ”ضَرَبَ عَلَي الْأَمْرِ جَرُوْتَهُ“ اس نے اس کام میں صبر و استقامت سے کام لیا۔

الْجُرُوَّةُ: بِنْتْلِيْثِ الْجِيْمِ: جرد کا مؤنت۔
کہا جاتا ہے ”ضَرَبَ عَلَي الْأَمْرِ جَرُوْتَهُ“ اس نے اس کام میں صبر و استقامت سے کام لیا۔

”وضرب جروته عنده“ اس نے مبر کر لیا۔

کلمة (مَجْرِيَةٌ وَمُجْرِيَةٌ) پلوس والی کتیا۔

جَرَى (ض) جَرِيًا وَجَرِيَانًا وَجَرِيَةً.

الماء: جاری ہونا۔ بہنا۔ کہا جاتا ہے ”نَهَرَ سَرِيعَ الْجَرِيَةِ“ تیز بہنے والی ندی الفرس: دوڑنا الامر: واقع ہونا الی الشئ: قصد و ارادہ کرنا۔

أَجْرَى الْكَلِمَةَ: کلمہ کو منصرف بنانا۔

جَرَى وَأَجْرَى: الماء: جاری کرنا۔ بہانا۔

أَجْرَى لَهُ الْحِسَابَ: کسی کا حساب درج رجسٹر کرنا علیہ الحساب: کسی کے ذمہ بقایا نکالنا۔

جَرَى فَلَانًا: وکیل بنا کر بھیجنا۔ آجری الامر: نافذ کرنا۔ جاری کرنا۔ آجری الامر الی فلان: سپرد کرنا یا نسبت کرنا۔ آجری الی الشئ: قصد و ارادہ کرنا۔ آجری علیہ الرزق: جاری کرنا۔ معین کرنا۔

آجری القصاص: قصاص لینا۔ آجری الکلمة: منصرف کر دینا۔

جَارَاهُ: کسی کے ساتھ چلنا (تَجَارِيًا) ساتھ ساتھ دوڑنا۔ چلانا۔ کہا جاتا ہے ”الدين والرهن يتجاريان“ قرض اور رہن ایک ہی طرح کے ہیں۔ جاری فی الامر: موافقت کرنا۔

استَجَرَى: فلانًا: کسی سے دوڑنے یا چلنے کے لئے کہا۔ وکیل بنانا۔

الجری: وکیل۔ پیغامبر۔ مزدور۔ ضامن۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ جَرِيٌّ لَّهُ“ وہ اس کا ضامن ہے تَجْرِيًا۔ کہا جاتا ہے ”من جَرَاكَ“ او من جَرَاكَ“ یعنی تمہاری وجہ سے۔

الجَرِيَّةُ: وظیفہ۔ فوجی کاررویشو الجراء والجرء: جوانی۔ کہا جاتا ہے ”جَارِيَةٌ بَيْنَهُ الْجَرِيَّةُ“ اچھی جوان لڑکی۔

الجَرِيَّةُ وَالْجَرِيَّةُ: وکالت۔

الْأَجْرِيَّةُ وَالْأَجْرِيَّةُ: کام کا طریقہ۔ خلق۔

طبیعت۔ کہا جاتا ہے ”جَرَى عَلَيَّ أَجْرِيَّاهُ“

وَأَجْرِيَانَهُ: وہ اپنی فطرت پر چلا۔

الْجَرِيَّةُ وَالْجَرِيَّةُ: ایک قسم کی مچھلی۔ مادہ نامی۔ بام۔

الْجَرِيَّةُ: پوٹا۔

الْجَارِي: ترکیب الخَطِّ ایک قسم جو کہ خط کئی دیواری اور تعلیق سے لیا گیا۔

الْجَارِي: فا ”نهر جار“ وہ دریا جو خشک نہ ہو۔

الْجَارِيَّةُ الْجَارِي: کامنٹ۔ پٹی۔ باندی۔

أَقَابَ: کسی۔ سانپ۔ ج جَارِيَاتٍ وَ جَوَارٍ.

الْمَجْرِي: پانی بہنے کی جگہ۔ گذر گاہ۔ ج مَجَارٍ.

الْمَاجِرِيَات: واقعات و حوادث۔ جَرَى مَا جَرَى سَے ماخوذ ہے۔ کہا جاتا ہے۔ کانت بَيْنَهُمْ مُنَاطِرَاتٍ وَمَاجِرِيَاتٍ يَطْوِلُ شَرْحَهَا“

جَزَّ (ن) جَزًّا وَجَزَّزَ وَاجْتَزَّ: الصوف او العشب او النخل: کاٹنا۔

جَزَّ وَاجْتَزَّ وَاسْتَجَزَّ: الغنم او البُرَّاز النخلة: کترنے یا کاٹنے کا وقت قریب آنا۔

أَجَزَّ التمر: خشک ہونا۔ جَزَّ القوم: کتری ہونی۔ بھیڑوں والی یا کٹی ہوئی کھٹی والی ہونا۔

الْجِزَّةُ: کتری ہوئی اُون۔ ج جَزَزُ وَ جَزَانُ.

الْجِزَّةُ: غیر مستعمل اُون۔

الْجِزَّازُ وَالْجِزَّازَةُ: اُون کا وہ حصہ جو کاٹتے وقت زمین پر گرے۔ جِزَّازٌ مِنَ اللَّيْلِ: رات کا ایک حصہ۔

الْجِزَّازُ وَالْجِزَّازُ: کھیت کی کٹائی۔ کترنے یا کاٹنے کا وقت۔

الْجِزْرُوزَةُ مِنَ الْغَنَمِ: بھیڑ جو کتری جائے جِزْرًا.

الْجِزْرِيَّةُ: کترا ہوا۔ کاٹا ہوا۔

الْجِزْرِيَّةُ: اُون کا گچھا۔

الْجِزَّازُ: کترنے یا کاٹنے والا۔

الْمِجْرُ: کتری۔ پٹی۔

جَزَّ (ف) جَزًّا: الشئ: اجزاء میں تقسیم کرنا۔ ایک جزء لینا۔ (وَتَجَزَّ وَاجْتَزَّ) بالشئ: اکتفاء کرنا۔

جَزَّ تَجَزَّزَتْ وَتَجَزَّنَا: الشئ: تقسیم کرنا۔ (جَزَّاهُ وَاجْتَزَّاهُ) بالشئ: قانع بنانا۔ کہا جاتا ہے ”جَزَّاهُ الْمَاشِيَةَ بِالرَّطْبِ عَنِ الْمَاءِ“ جانور کو تر گھاس کھلائی اور پانی پلانے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ اَجْزَّاهُ: مشتغی ہونا۔

تَجَزَّاهُ: تقسیم ہونا۔

الجزء: بعض۔ کفایت۔ کہا جاتا ہے لک فی هذا غناء وجزء تمہارے لیے اتنا ہے۔

الجزء: چیز کا ایک حصہ۔ ج أجزاء اور اسی معنی میں جزء و جزاء بھی ہے۔

الجزئي: جزی جاب منسوب۔ کلی کی ضد۔

الجزئية: ضد کسیت۔ ج جزئیات۔

الجزءة: چھری۔ ستالی وغیرہ کا دستہ۔

الْمَجْزَأُ وَالْمَجْزَأَةُ: المَجْزَأُ والشئ: کسی چیز کا اتنا حصہ جو کافی ہو۔ کہا جاتا ہے ”أَجْزَأُ مَجْزَأُ فَلَانٍ وَمَجْزَأُهُ وَمَجْزَأَتُهُ وَمَجْزَأَتُهُ“ وہ فلاں کا قائم مقام ہوا۔

الْجِزْيُ وَالْمَجْزِيَّةُ: من الطعام: آسودہ کرنے والا۔

الْجِزْوَانِي: تیل گائے جو صرف گھاس چرتی ہے اور زیادہ پانی کی ضرورت محسوس نہیں کرتی۔

جَزَّحَ (ف) جَزَّحًا: لَهُ مِنَ الْمَالِ: حصہ دینا الرَّجُلُ: اپنے کام کے لیے جانالطباء: اپنی جھالی میں داخل ہونا۔

الْجِزْحُ: سمعطیہ۔

الْمَجْزَدَانُ: جزو دان۔ بستہ۔ تھیلی۔

جَزَّزَ (ن) جَزَّزًا وَجَزَّزًا وَجَزَّزًا وَاجْتَزَّزَ: الشاة: ذبح کرنا۔ جَزَّزَ النخلة: جزا: کاٹنا۔

جَزَّزَ (ن) جَزَّزًا: البحر: سمندر کا پیچھے ہٹنا الماء: خشک یا مہو جانا۔

أَجَزَرَ: النَّخْلُ: كَانَتْ كَاقْتِ وَأَنَا: الشَّيْخُ: مَرِنَ كَاقْتِ وَأَنَا: زِنَ كَرِنَ كَ لِي بَكْرِي دِيَا.
تَجَازَرَا: بِأَهْمِ كَالِي كَلُوجِ كَرِنَا.
تَجَزَّرُوهُمْ وَاجْتَزَّرُوهُمْ: فِي الْقِتَالِ: مِيدَانِ بِنَكِ مِي دَشْمِنَ كُودَرِنَدِيُونِ كِي خُورَاكِ بِنَا دِيَا.
الْجَزْرُ: مَرِنَ: زِنَ كَرِنَا: بِهَانَا: سَمْدَرِ كَ پَانِي كَا أُنَارُ.
الْجَزْرُ: بِرُوهُ جَانُورِ جِس كَا ذِنَ كَرِنَا جَانُورِ هُو.
وَاحِدُ جَزْرَةٍ: ذَبِيحُهُ. جَزْرُ السَّبَاعِ: وَهُوَ كُوشَتُ جِس كُودَرِنَدَرِ كَهَا مِيں كِهَا جَاتَا هِي.
”تَر كُوهْمِ جَزْرًا“ لِيْعْنِي أَنهِيُونِ نِي أَن كُو صَحْرَا مِيں قَتْلُ كَرِيَا لِي جَزْرًا: وَهُوَ مِيں جِهَانِ سِي مَد (جُورَا) لُونِي مَد (الْجَزْرُ) كَا جُر.
الْجَزَارُ وَالْجَزِيرُ: زِنَ كَرِنَ وَالَا.
الْجَزُورُ: زِنَ كَ لِي أَوْ نِيَا مِي بَكْرِي. جَزْرُ وَجَزُورَاتُ وَجَزَائِرُ.
الْجَزَاوَةُ: زِنَ كِي هُو بِي جَانُورِ كِي اَطْرَافِ (لِيْعْنِي سَرِي پَانِي) اِس لِي كِي زِنَ كَرِنَ وَالَا اِن كُو ذِنَ كَرِنَ كِي اَجْرَتِ مِيں لِي تَا هِي. وَهُوَ جَزِيرُ اَلْجَزَاوَةِ: زِنَ كَرِنَ كَا پِي شَر.
الْجَزِيرَةُ: جَزْرُ وَجَزْرُ وَجَزْرُ: زَمِيْنُ كَا وَهَصَةُ جِس كِي چَارُونِ اَطْرَفِ پَانِي هُو، دُو آبِ كِي مَمَالِكِ جَزِيرَةُ الْعَرَبِ: مَلِكُ عَرَبِ. (اُورِ يِي نِي اَلْحَقِيْقَتِ جَزِيرَةُ نَمَا هِي.
الْجَزَائِرُ: شَمَالِي اَفْرِيْقَةِ مِيں اِيكُ مَلِكُ كَانَا م. اَلْجَزَائِرُ: اَلْحَالِدَاتُ: بَحْرُ مِيْمِي (اِنْمَا اَلْمَلِكُ) كِي مَغْرِبِي هَصَةِ مِيں چَر جَزِيرَةُ.
الْمَجْزُورُ: مَذْبَحُ. بُوچَر خَانِد. عَوَامِ اِس كُو مَسْلُخُ: كِيْتِي هِيں.
جَزَعٌ (ف) جَزَعًا: الْوَادِي: پَار كَر لَهْ مِيْن مَالِهِ جَزَعَةٌ: اِيكُ هَصَةُ دِيَا.
جَزَعٌ (س) جَزَعًا وَجَزُوعًا: مَنَهُ: بِهِي مَبْرِي كَرِنَا: صِفَتُ (جَزَعٌ) وَجَزَاعٌ وَجَزَعٌ وَجَزَاعٌ وَجَزُوعٌ

جَزَعُهُ: قَتْلُ دِيَا. بِهِي مَبْرِي زَاكِلُ كَرِنَا.
جَزَعُ الشَّيْءِ: مَكْلُوعُ مَكْلُوعُ كَرِنَا.
الْحَوْضُ: تَمُوؤُ بَانِي وَالَا هُوَا.
أَجَزَعُهُ: كِيْمَرَا دِيَا اَجَزَعُ مَنَهُ جَزَعَةٌ: اِيكُ هَصَةُ بَانِي چَمُوؤُ دِيَا.
اِنَجَزَعُ وَتَجَزَعُ: مَكْلُوعُ مَكْلُوعُ هُوَا. ثُوْتَا.
اِنَجْتَزَعَهُ: كَانَا. ثُوْتَا.
الْبَجَاذِعُ: فَا. بِرُوهُ كَلْبِي جِس كُو دُو چِيْرُونِ كِي دَرْمِيَانِ اِعْرَاضِ مِيں نَصَبُ كَرِنَ اِس پَر كُوِي چِيْرُ رَهْمِيں. مَوْتُ حَاوِرَةٌ.
الْجَزْعُ: م. بِرُوهُ جِس مِيں سَفِيْدِي دِيَا مِيَا مِي هُوِي هِي. وَاحِدُ جَزْعَةٍ.
الْجَزْعُ: لُوكُونِ كِي رَهْنِي كِي كِيْمَد. شَهِيْدِي كِيْمِيُونِ كَا كِيْمَد. جَزْعُ الْوَادِي: وَادِي كَا مَوْرُ جَزْعُ.
الْجَزْعُ وَالْجَزْعُ: رَهْتُ كَا ذَهْرَا.
الْجَزْعَةُ وَالْجَزْعَةُ: تَهُوؤِي چِيْرُ. بَقِيْد. جَزْعُ جَزْعُ: اَلْجَزْعَةُ: چَمْرِي كَا دَسْتُ.
الْجَزْعِيَّةُ: بِهِيْمَرُونِ كِي رِيُوژ كَا اِيكُ هَصَةُ جَزَائِعِ.
الْمَجْزَاعُ: بِهِيْتُ بِهِي مَبْرُ. جَزَائِعِ.
الْمَجْزَعُ وَالْمَجْزَعُ: مَنِ الرُّطْبِ: نِيْمُ پِچْتِي كِيْمُور. وَهُوَ چِيْرُ جِس مِيں سَفِيْدِي دِيَا مِيَا هُو.
حَوْضُ مَجْزَعُ: تَهُوؤُ بَانِي اَلْاَحْوِضِ.
جَزْفٌ (ن) جَزْفًا وَاجْتَزَفَ: الشَّيْءُ: اَنكَلُ سِي پِچْنَا يَا خَرِيْدَا مَد (الْمَجْزَافِ) بِتَشْلِيْثِ الْجَمِيْمِ وَ (الْجَزَيْفِ) اَنكَلُ كِي نِيْعُ.
كِهَا جَاتَا هِي ”بِيْعُ جَزَيْفُ وَبِيْعُ جَزَافُ“ جَا زَهْهُ مَجَا زَفَةٌ: اَنكَلُ سِي خَرِيْدُ وَفَرُو خَشْتُ كَرِنَا. اُورِ اِسِي هِي ”جَا زَفُ فِي كَلَامِهِ“ اِس نِي بِي كِي بَا تَر كِيں. جَا زَفُ بِنَفْسِيَّةِ: اِنِ بِي اَبُ كُو خُظْرُهُ مِيں ذَالُ دِيَا.
الْجَزْفَةُ: چِيْرَا پِيُونِ كَا كَلْمُ.
الْجَزَافُ: شُكَارِي.
الْمَجْزُوفُ: مَنِ اَلْحَوَامِلِ: اَحَدُ وِلَادَتِ سِي كَرِنَ اِس وَالِي.

الْمَجْزَعَةُ: مَجْجَلِي كَا جَالُ.
جَزُولُ (ك) جَزَالَةٌ: الشَّيْءُ: بَرَا هُوَا.
مُوَا بُوؤُ لِمَنْطَقُ: نَصْبُ هُوَا. صِفَتُ (جَزُولُ) جَزَالُ وَ (جَزُولُ) جَزَاوَالُ وَ جَزَالُ الرَّجُلُ: صَابِغُ الرَّائِي هُوَا.

جَزَوْلُ (ض) جَزَوْلًا: الشَّيْءُ: دُو مَكْلُوعُ كَرِنَا الْقَبْتُ غَارِبُ الْبَعِيْرِ: كَانَا دِيَا. زَمْحِي كَر دِيَا.

أَجَزَلُ: الْعَطَاءُ وَفِي الْعَطَاءِ وَمِنِ الْعَطَاءِ لِفُلَانٍ وَعَلِيهِ: بِهِيْتُ دِيَا.
اِسْتَجَزَلَهُ: كِي چِيْرُ كُو بَرَا يَا مُوَا يَا كِي كَلَامُ كُو نَصْبُ پَانَا. اِسْتَجَزَلُ رَا يِيَه: كِي كُو صَابِغُ الرَّائِي پَانَا.

الْجَزَلُ: اِس. مُوَا. بَرَا. بِهِيْتُ. نِيَاضُ. بِهِيْتُ دِيَا. وَالَا. عَمْدَةُ الرَّائِي وَالَا. عَمْدَةُ الْفَطَاظِ.
الْجَزَلُ: خَشْكُ كَلْبِي.

الْجَزَالُ وَالْجَزَالُ: كِيْمُورُ كِي مَحَلِ اَتَارِنِي كَا وَقْتُ. كِهَا جَاتَا هِي ”هَذَا زَمَنُ الْجَزَالِ“ يِي كِيْمُورُ كِي مَحَلِ اَتَارِنِي كَا زَمَانُ هِي.

الْجَزَانُ وَالْجَزَانِلُ: بِهِيْتُ بَرِي.
الْجَزَالُ: كِيُو تَر كَا چِيْرُ. جَزَاوَالُ.
جَزَمَهُ (ض) جَزْمًا: كَانَا. جَزَمَ اَلْحَرْفُ: سَاكِنُ كَرِنَا لِفِعْلُ. جَزَمَ دِيَا يَا

حَرْفُ عِلْتِ يَا خَشْتِيَه وَجَعُ سِي نُونُ كَرِنَا دِيَا اَلْيَمِيْنِ: پُورِي كَرِنَا. تَمُ كِيْتِي هُو ”حَلْفُ يَمِيْنَا جَزْمًا اَلْاَمْرُ: كِي اَمْرُ كَا قَطْعِي فِصْلُهُ كَرِنَا. تَمُ كِيْتِي هُو ”اَمْرَتُهُ اَمْرًا جَزْمًا“ مِيں نِي اِس كُو لَازِمِي حَكْمُ دِيَا وَهَذَا حَكْمُ جَزْمُ“ يِي لَازِمِي قَطْعِي حَكْمُ هِي. جَزَمَ اِلَى اَلْاَمْرِ: پِچْتِي اِرَادُهُ كَرِنَا جَزَمَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ: وَاجِبِي كَرِنَا. لُوجُلُ: دِنِ رَا تِ مِيں اِيكُ هِي مَرْتَبَةُ كِهَانَا. (اِنَجْتَزَمَ) التَّخْلَةُ: پِيچُونِ كَا اَمْدَا زَه كَرِنَا. (جَزْمُ) عَنَهُ: بَرُوْلُ هُوَا. عَا جَزْمُ هُوَا.

عَلِيهِ: خَامُوشُ هُوَا. اَلْقَرِيْبَةُ: بِهِيْرَا.
تَجَزَمَ الْعُودُ: پِچْنَا.
اِنَجَزَمَ الْعِظْمُ: ثُوْتَا. اَلْحَرْفُ: سَاكِنُ

ہوتا۔

الْجَزْمُ: س. کہا جاتا ہے "قلم جزم" برابر قلم والا۔ "امر جزم" وقت سے پہلے آنے والا معاملہ۔

الْجَزْمُ: حصہ۔

الْجَزْمُ: ف. جزم کا عمل کرنے والا۔ جیسے لَمْ يَسْقَاءَ جَزْمًا: بھری ہوئی مکہ۔ بعیر جازم: سیراب اونٹ۔ جُوزَمُ:

الْجَزْمَةُ: دن رات میں ایک مرتبہ کھانا۔ الْجَزْمَةُ: بھیروں کے رپوڑ کا ایک حصہ۔ سِقَاءٌ أَوْ إِنَاءٌ (مِعْزَمٌ) بھری ہوئی مکہ یا برتن۔

جَزَى (ض) جَزَاءً: الرجل بكذا وعلى كذا: بدلہ دینا۔ جَزَى فَلَانًا حَقَهُ: ادا کرنا۔ جَزَاهُ الشَّيْءُ: کافی ہوؤ اور جَزَى الْأَمْرَ مِنْهُ أَوْ عَنْهُ: قائم مقام ہونا۔ تم کہتے ہو "يُجْزَى هَذَا مِنْ أَوْ عَنْ ذَاكَ" یہ اس کے قائم مقام ہے۔

جَزَاهُ مُجَازَاةً وَجَزَاءً: بدلہ دینا۔ تَجَزَّى تَجَازِيًا: دینہ و بدینہ علی فلان: طلب کرنا۔ قاضا کرنا۔

إِجْتَزَاهُ: بدلہ مانگنا۔ الْجَزَاءُ وَالْجَزَاءُ وَالْجَازِيَةُ وَالْمُجَازَاةُ: کسی چیز کا بدلہ۔ الْجَازِيَةُ: کی جملہ جوازی کہا جاتا ہے "جزتک الجوازی" یعنی تم نے اپنے فعل کا بدلہ لیا۔

الْجَزِيَّةُ: زمین کا محصول۔ ٹیکس جوڑی سے لیا جائے۔ جَزَى وَجَزَى وَجَزَاءً: الْأَجْزَى: بہت کافی۔ تم کہتے ہو "اللحم السمين أجزى من المهزول" موٹا گوشت دلے سے زیادہ بہتر ہے۔

جَسَهُ (ن) جَسًا وَاجْتَسَهُ: معلوم کرنے کے لیے ہاتھ سے چھونا۔ لَارِضٌ: رونما۔ ہ بعینہ: گھورتا۔ تیز نظر ڈالنا۔

جَسَّ وَتَجَسَّسَ وَاجْتَسَسَ: الاخبار او الامور: تفتیش کرنا۔

الْجَسِيسُ: نَجَسَةٌ وَ(الْجَسَاسُ) (ج جواسیس والْجَسَّاسُ): جانوس۔

ج جواسیس والْجَسَّاسُ): جانوس۔

بُرَائِي كِي نَيْتِ سَ خَبْرُوں كِي تَفْتِيْشِ كَرْنِے وَاَلَا۔ جَوَاسُ. الْاِنْسَانُ: اِنْسَانِ كِے حَوَاسِ خَسِرَ وَاحِدًا جَسَاسَةً) الْجَسَاسُ سَيْبَةٌ: سى۔ آئى۔ ذى

اِسْتَمَلِكِ كِے مَفَادِ مِیں دُشْمَنِ كِي خَفِيہِ خَبْرِیں اور پُرُوگرامِ معلوم كَرْنِے كا ادارہ۔

الْمَجَسُّ وَالْمَجَسَّةُ: چھونے كِي جگہ۔ سِيْدُ۔ كِہا جاتا ہے "فَلَانٌ ضَيْقُ الْمَجَسِّ أَوْ الْمَجَسَّةُ" فلاں تِك دِل ہے۔ الْمَجَسَّةُ: نَبِيضُ. كِہا جاتا ہے "مَجَسَّتْ حَارَةً" اس كِي نَبِيضِ كَرْمِ ہے۔ جَسَّاسٌ الْمَجَسَّةُ: چھونے كا آلہ۔ نَجَسَاسٌ وَ

مِجَسَّاتٌ. جَسَّاتٌ (ف) جَسَنًا وَجُسُوًا أَوْ جَسَاةً. الْيَدُ مِنَ الْعَمَلِ: كَامِ كَرْنِے كِي وَجْهَ سَ تَحْتِ هَوَنا۔ صَفْحَةُ جَسَابَةٍ وَجَسَنَاءُ) الْجَسُّ: سَخْتِ كِہال۔ جَمَاهُ الْبَانِي۔

الْجَسَابِيَّةُ: مِنَ النَّبَاتِ وَنَحْوِہِ: خَشْكُ جَسِدٌ (س) جَسَدًا. الدَّمُ بِہِ: چِپْكَا۔ (جَسِدٌ وَجَسَادٌ) جَسَدَةٌ: زَعْفَرَانِ سَ رَنْگِنا۔ تَجَسَّدُ: تَنْ أَوْ رَوَنا۔

الْجَسَدُ: بَدَنِ اِنْسَانِي۔ زَعْفَرَانِ۔ خَشْكُ خُونِ نَجَسَادِ نَبْتِ كِے لِيے (جَسَدِي وَجَسَدَانِي) تَجَسَّدُ: جَسْمِ وَاَلَا هَوَنا۔

الْجَسَادُ: زَعْفَرَانِ۔ الْجَسَادُ: پِيْثِ كا دَرْد۔ الْجَسِيْدُ: خَشْكِ خُونِ۔ الْمَجْسَدُ: كَرْتِ جُو بَدَنِ سَ مُتَّصِلِ هُو۔ بَيَانُ

جَسَرٌ (ن) جَسَارَةٌ وَجُسُورًا. عَلِيٌّ الْاَمْرُ: اِقْدَامِ كَرْنِے وَتَجَاسَرٌ فَخْرُ كَرْنَا۔ جَرِي هَوَنا۔ جَسَرٌ (ن) جَسْرًا: پُلِ بَنَانِ اِجْتَسَرَ الْمَفَازَةَ: عُبُورُ كَرْنَا۔

جَسْرًا: اِقْدَامِ كَرْنِے وَتَجَاسَرٌ فَخْرُ كَرْنَا۔ جَسْرًا: پُلِ بَنَانِ اِجْتَسَرَ الْمَفَازَةَ: عُبُورُ كَرْنَا۔

جَسْرًا: پُلِ بَنَانِ اِجْتَسَرَ الْمَفَازَةَ: عُبُورُ كَرْنَا۔

جَسْرَةٌ: بَہادرِ بَنانا۔

الْجَسْرُ وَالْجَسْرُ: پُل۔ نَجَسُورٌ وَاجْسُرُ. الْجَسْرُ مِنَ الْاِبْلِ: بَرَا اَوْ نَشِيْنُ الرِّجَالِ: بُرْءُ ذَيْلِ ذُوْلِ كَامِرِدِ مُؤَنَّثِ جَسْرَةٍ.

الْجَابِسُ نَجَسَارٌ وَجَابِسُونَ وَ(الْجَسُورُ) نَجَسْرٌ وَجَسْرٌ: دَلِيْر۔ پُشُّ قَدَمِي كَرْنِے وَاَلَا۔ مُؤَنَّثِ جَابِسَةٍ وَجَسُورٌ. نَجَسَابِسِرٌ.

الْمَجْسَرَةُ: دَلِيْرِي۔ بَہادَرِي۔ الْجَسَّارُ: بَہْتِ دَلِيْرِي كَرْنِے وَاَلَا۔

جَسَبٌ (ف) جَسُوعًا. عَنِ الْعَطَاءِ: بَازِ رَہنَا۔ رُكُ جَانَا۔

الْجَابِيعُ مِنَ التَّسْفَرِ: لِبَاسُفِرٌ۔

جَسَمٌ (ك) جَسَامَةٌ: تَاوَرُ هَوَنا۔ صَفْتِ (جَسَامٌ وَجَسِيمٌ) نَجَسَامٌ مُؤَنَّثِ (جَسِيمَةٌ وَجَسَامَةٌ) جَسَمَةٌ: تَنْ أَوْ رَوَنا كَرْنَا۔

تَجَسَّمُ: تَاوَرُ رَوَنا هَوَنا۔ تَجَسَّمُ فِي عَيْنِي كَذَا: خِيَالِ مِیں آنا

الْاَمْرُ: كِسی بُرْءِ كَامِ كِي طَرَفِ اِقْدَامِ كَرْنَا الرَّمْلُ: رِيگِستانِ كِے بُرْءِ صَحْے كُو طِے كَر لِيْنَا

فَلَانًا مِنَ بَيْنِ الْقَوْمِ: اِنْتِخابِ كَرْنَا الْاَرْضُ: اِرَادِہِ كَرْنَا۔ كِہا جاتا ہے تَجَسَّمُ فَلَانٌ مِنَ الْكِرْمِ "فلاں بَرَا فَيَاضِ ہے، گویا كِہ وہ كَرْمِ كا جَمْعُ ہے۔

الْجَسْمُ: بَدَنِ۔ وَہِ جِزْجِزِ مِیں طَوْلِ عَرَضِ، عَمَقِ هُو۔ نَجَسَامٌ وَاجْسَمٌ وَجَسُومٌ. نَبْتِ كِے لِيے (جَسَمِي وَجَسْمَانِي)

الْجَسْمَانُ: بَدَنِ۔

الْجَسْمُ: بُرْءِ بُرْءِ اَمُورِ۔ الْاَجْسَمُ: تَاوَرِ اور بَرَا۔

الْمَجْسَمُ: وَہِ عَدَدِ جُو كِسی جَسْمِ كِي لِبَانِي كُو عَرَضِ وَعَمَقِ مِیں ضَرْبِ دِيْنِے سَے حَاصِلِ هُو۔ ہر وہ جِزْجِزِ مِیں طَوْلِ، عَرَضِ، عَمَقِ هُو۔

جَسَا (ن) كَحَسُوا وَجَسُؤًا: بِمَعْنَى كَحَسُوا جَسَاہُ مَجَسَّاسَةً: دُشْمَنِ كَرْنَا۔

بندھ جانے کی وجہ سے کراہتا۔
 حَصَصُ البناء: حج کرنا الحجرو: آنکھیں
 کھولنا العقرؤ: پھونکا علی العدو حملہ کرنا۔
 اجتنص وتخاص القوم: قریب قریب
 اکٹھا ہونا۔

الحص والحصن: حج۔ چونہ۔
 الحصاص: حج والا باج نیچے والا۔
 الحصاصا: حج بنانے کا کارخانہ۔
 الحصین: فریاد والا۔
 الحصينة: پاس پاس رہنے والا گروہ۔
 حصص (ن) حصا: علیہ بالسيف: حملہ
 کرنا۔

جعہ (ف ض) جعنا و جعہ تجعینا و
 جعنا جعنا و جعنا: ائت دینا۔ پھاڑ
 دینا۔ جعب (الجعفة) ترش بنانا۔
 تجعب و انجعب و تجعینا: پچھڑ جانا۔
 تجعینا الجیش: کثرت کے ساتھ جمع
 ہونا۔

الجعفة: ترش۔ نجعاب
 الاجعب: بڑے پیٹ والا جو کام کرنے میں
 مست ہو۔ مؤنث جعفاء۔ ج جعب۔
 الجعفاء: ڈبر۔
 الجعفاء: ترش بنانے والا۔
 الجعفاء: ترش بنانے کا پیشہ۔
 الجعفوب: پست قد بد شکل۔ ج

جعايب
 الجعيب والجعابة: حلقہ ڈبر۔
 الجعيب: ہر ایک کو پھاڑ دینے والا۔
 جمع العير: بٹھانے یا اٹھانے کے لیے
 حرکت دینا۔ عاتل العير: بیٹھنا یا الغریب:
 سخت سے مطالبہ کرنالی مکان: غیر مطمئن
 حالت میں بیٹھنا۔

جمع جمع: دردی وجہ سے زمین پر گر پڑنا۔
 الجمع: جمع ہونے والے اونٹوں کی
 آواز۔ جلی کی آواز۔ اور اسی سے مثل ہے
 "جمع جمع ولا اری طرخنا" چکی کی
 آواز۔ عتا ہوں اور اٹا دکھالی نہیں دیتا۔ اس

جش (س) جشرا و جشیر: کھانا۔
 آواز بیٹھنا۔ صفت (اجشیر) مؤنث جشیراء۔
 جشیر:
 الجشیر والجشیر: موشی جو چراگاہ سے
 لوٹ کر شام کو گھر نہ آئیں۔ وہ لوگ جو چراگاہ
 ہی میں رات گزاریں اور گھر واپس نہ آئیں۔
 الجشیر: چرواہا۔

الجشیر: حوض۔ جشیر:
 الجشیر: چمڑے کا تیردان۔
 الجشیر: کھانسی۔
 الجشیر: سینہ کی سختی۔ شک کھانسی۔

جشع (س) جشعا و تجشع: بدترین
 قسم کا لاپٹی ہونا۔ صفت (جشع) ج
 جشعون و جشاعی و جشعاء
 و جشاع:
 جشاعا الماء: باہم تنگی کرنا اور پیانا
 رہنا۔

جشم (س) جشما و جشامة و تجشم
 الامر: مشقت سے کام کرنا۔ کہا جاتا ہے
 "جشمت اليك عرق القربة" تمہاری
 وجہ سے بڑی مصیبت جشمت۔ و تجشم
 الرمل: ریگستان کے بڑے حصے کو طے کیا۔
 "و تجشم فلانا من بين القوم: اس نے
 قوم سے فلاں کا انتخاب کیا اور اسی کی روش پر
 چلا۔

جشمه و أجشمه الامر: کوئی کام کرنے
 کی تکلیف دینا۔ مہما تجشمی فانی
 جاشم" جس کا ترجمہ کو حکم دے گا میں کروں
 گا۔
 الجشم والجشم: بوجھ۔ ہماری کاہنہ کہا
 جاتا ہے "القی علی جشمہ" اس نے
 میرے اوپر اپنا بوجھ ڈال دیا۔ الجشم:
 سیدھ۔

الجشم والجشم: مونا۔ ہماری۔
 الجشون: سیدھ۔ زرد۔ جوش الملل
 آدھکرات۔
 جش (ض) جشا و جشما:

جشہ (ن) جشا: کوٹا۔ توڑنا۔ جش
 المكان: جھاڑو دینا۔ صاف کرنا۔ ہ
 بالعصاء: لاشی سے مارنا دفعہ: بھانا
 القوم: کوچ کرنا۔ اکٹھا ہونا۔
 آجش الشی: کوٹا۔ توڑنا البز: مونا
 پینا۔ صفت مفعولی (جشیش و
 مَجشوش)

آجش واجتش. المكان: گھجان گھاس
 والی ہونا۔
 الجش. س۔ موضع جش: سخت پھریلی
 جگہ۔

الجش: پہاڑ۔ جشاش:
 الجشہ والجشہ: لوگوں کا ایک ساتھ
 آنے والا گروہ۔ بھدی آواز۔
 الآجش: بھدی آواز والا آدمی۔ مؤنث
 جشاء۔

المجش والمجشة: چکی۔
 جشا نفسه (ف) جشوا و جشا و
 جشا: تم یا گھر بہت کی وجہ سے جی ملانا
 المكان: خوب پیداوار ہونامن المكان:
 لکھا لجر: جوش میں آنا۔
 جشا تجشفا و تجشا تجشوا: ڈکار
 لینا۔
 اجشأ البلاد واجشأته البلاد:
 ناموافق ہونا۔

الجشأ: ڈکار۔ و اجشأ و جشأ:
 جشب (ف) و جشب (س) جشبا و
 جشب (ک) جشابة الطعام: مونا و
 بد مزہ ہونا۔ صفت (جشب و جشب و
 جشيب و مجشاب و مجشوب) و
 جشب الرجل: بد غذا ہونا۔
 المجشيب: موٹے جسم والا بہادر۔

جش (ن) جشرا و جشیر المواشی:
 چرانے کے لیے لے جانا۔ جشیر الاناء:
 خالی کرنا۔
 جشیر (ن) جشورا المصبع: پوچھنا
 الرجل: سڑ کرنا۔

فحص کے حق میں بولتے ہیں جو دیکھنے تو رہے اور کچھ کر کے نہ دکھائے یا اس بخیل کے حق میں جو وعدہ تو کرے اور پورا نہ کرے۔
الجحفاج: تنگ اور سخت جگہ۔ مگر کہ جنگ۔ قطزہ زمین۔
جَعَلُكَ (جَعَادَةٌ وَجُعُودَةٌ الشَّعْرُ: کھنکھریالے ہونا۔
جَعَدَ الشَّعْرُ: کھنکھریالے بنانا۔
تَجَعَّدَ الشَّعْرُ: کھنکھریالے ہونا۔ وَنَجَعَدَ الشَّيْءُ: سبکڑا۔
الجَعْدُ: من الشَّعْرِ: کھنکھریالا۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ جَعْدٌ الْيَدُ“ وہ بخیل ہے۔ وَجَعْدُ الْفَقْفَا“ جس کے حسب میں کھوٹ ہو۔ جَعَادٌ: تراب جَعْدٌ: نناک مٹی۔ وَجَهٌ جَعْدٌ: کم ملاحظت والا گول چہرہ۔ زُبْدٌ جَعْدٌ: تہہ برتہہ مکھن۔ (ابو جَعْدَةٌ وَابُو جَعَادَةٌ ابُو جَعَادَةٌ): بھڑیے کی کنیت۔
الْجَعْدَةُ: موسم بہار کی خوشبودار انگوری جو کہ جلدی خشک ہو جاتی ہے۔
جَعْرٌ (ف) جَعْرًا وَانْجَعَرَ السَّبْعُ: پاخانہ کرنا۔
تَجَعَّرٌ: کونوں میں گرنے کے خوف سے کر میں رستی باندھنا۔
الجَعْفَرُ: سردندے کا پاخانہ۔ جَعْفُورٌ الجَعْفَرُ: رستی جس کو کونوں میں اترنے کے وقت کمر سے باندھ لیں اور اس کا دوسرا کنارہ کسی کھونٹے سے تاکہ گرنے سے محفوظ رہیں۔
جانور کی رانوں کے درم۔
جَعَارٌ: بروزن قطام (ابو جَعَارٌ وَامُ جَعَارٍ): بچو۔
أَبُو جَعْفَرَانَ: گہریلا۔
أُمُّ جَعْفَرَانَ: بڑا گلدہ۔
الجَاعِرَاتَانِ: دونوں ران کے وہ حصے جہاں پر ذمہ ہلانے میں پہنچتی ہے۔
الجَعْفَرَاءُ وَالمَجْعَرُ: در۔
جَعَسَ (ف) جَعْسًا: الرَّجُلُ: پاخانہ کرنا۔

تَجَعَّسَ: گھن کھانا۔ فُحْشٌ بَنَانٌ جَعِظٌ (س) جَعِظًا: غضبناک و بد خلق ہونا۔ صفت جَعِظٌ وَجَعِظٌ جَعِظَلَاتٌ (ف) جَعِظًا وَاجْعِظْهُ: دُفْعٌ كَرَانًا: ہٹانا۔
جَعْفَلَانٌ (جَعْفًا وَاجْعَفْهُ: بچھاڑنا۔
جَعَفٌ وَاجْتَعَفَ الشَّجَرَةُ: جڑ سے اُکھڑنا۔
إِنْجَعَفَتِ الشَّجَرَةُ: جڑ سے اُکھڑ جانا۔
سَبَلٌ (جَاعَعٌ وَجَعَاعٌ) تمام چیزوں کو بہا لے جانے والا سیلاب۔
الجَعْفُفُ: سب۔ تھوڑی روزی جس سے کچھ نہ بچ سکے۔
الجَعْفَرُ: نالہ۔ ندی۔ بہت دودھ والی اُونٹنی۔
جَعْفَلٌ جَعْفَلَةٌ: زین سے زمین پر گرا دینا۔
جَعَلٌ (ف) جَعَلًا: بنانا۔ پیدا کرنا۔ جیسے ”جَعَلَ اللَّهُ الظُّلُمَاتِ كَرَنًا“ تبدیل کرنا۔ جیسے ”جَعَلَ الحَسَنَ قَبِيحًا“ گمان کرنا جیسے ”جَعَلَ الحَقُّ باطلاً“ اس نے حق کو باطل گمان کیا۔ مقرر کرنا جیسے ”جَعَلَهُ حَاكِمًا“ اس نے اسے حاکم مقرر کیا۔ لہ گھڈا علمی گھڈا: شرط باندھنا۔ شروع کرنا۔ جیسے ”جَعَلَ يَكْتُبُ“ وہ لکھنے لگا۔ اور دینے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ جیسے ”اجْعَلْ لِي لِيْمَانًا صِدْقًا“ مجھ کو نیک نامی دے۔
جَعَلٌ (س) جَعَلًا: المَاءُ: پانی میں کیڑوں کی کثرت ہو جانا الغلامُ: موٹائی کے ساتھ پست تہ ہونا۔ الرَّجُلُ: بھگڑا ہونا۔
جَاعَلُهُ مُجَاعَلَةً: رشوت دینا۔
أَجْعَلُ: لہ: مزدوری مقرر کرنا۔ المَاءُ: پانی میں کیڑوں کی کثرت ہونا أَجْعَلُهُ جُعْفَلًا: مزدوری دینا۔
تَجَاعَلُوا: الشَّيْءُ: آپس میں کر لینا۔
إِنْجَعَلُهُ: گھڑنا۔ الشَّيْءُ: بنانا۔ لیمان کہتے ہو ”جَعَلَهُ الشَّيْءُ فَاجْتَعَلَهُ“ اس نے اس کو ایک چیز دی اور اس نے لے لیا۔

الجُعَلُ: گہریلا کی ایک قسم۔ ج جَعْفَلَانَ الجُعَلُ: سیاہ قام بد صورت مرد۔ یا بھگڑا ہوا۔ تمہاں۔ ماءٌ (جَعَلٌ وَجَعِلٌ) وہ پانی جس میں کیڑے بہت ہوں۔
الجَعَالُ: ج جُعَلٌ وَ (الجُعَلُ) ج أَجْعَالٌ وَ (الجَعَالَةُ) بتثلیث الجیم وَ (الجَعِيلَةُ) ج جَعَائِلُ: اُجْرَتٌ۔ مزدوری۔ جنگ کرنے والے کا وظیفہ۔
الجَعَالُ: چولہے سے دیگ اُتارنے کا چیتڑا۔ صانی۔
جَعَمَهُ (ف) جَعَمًا: جانور کے منہ پر تھو تھنی چڑھانا۔
جَعَمٌ وَ جَعِمٌ (س ف) جَعَمًا: کھانے کی خواہش نہ ہونا۔ کھانے کی خواہش کرنا۔ کہا جاتا ہے ”جَعِمَ إِلَى اللّٰحْمِ“ وہ گوشت کھانے کا بہت خواہش مند ہے۔ جَعِمٌ وَ تَجَعَمٌ: فی الشَّيْءِ: طبع کرنا۔ صفت (جَعَمٌ وَ جَعِمٌ) أَجْعَمٌ: الشَّجَرُ: درخت کے سارے پتے چر لینا۔ الشَّيْءُ: جڑ سے اُکھڑنا۔
الجَعْمُ: بھوک۔
الجَعِيمُ: بھوکا جو ہر چیز کو دیکھ کر کھانے کی خواہش کرے۔
المَجْعَمُ: جائے پناہ۔
الجَعْمُونُ: گوبر۔
جَعْلَانٌ (جَعْفًا) جَعْفًا: البَعْرُ وَخَوْهٌ: ڈھیر لگانا۔
الجَعَّةُ: جو کی شراب۔
الجَعْفُو: من: ہاتھوں سے جمع کیا ہوا ڈھیر۔ کچڑ۔ چوڑ۔
الجَعْفَرِيَّةُ: جغرافیہ۔
جَعْفٌ (ض) جَعْفًا وَ جَعْفُوفًا: خشک ہونا صفت (جَعْفٌ وَ جَعْفِيْفٌ) کہا جاتا ہے۔ ”جَعْفٌ لَبَدَةٌ“ یعنی اس نے اقامت اختیار کر لی اور سفر کرنا چھوڑ دیا۔
جَعْفٌ (ن) جَعْفًا: المالُ: جمع کر کے لے کے چل دینا۔
جَعْفُهُ: تَجْعِفِيْنَا وَتَجْعَفَا: خشک کرنا۔ جَعْفُ الفَرَسِ: پاکر پھاننا۔

تَجَفَّفَ: خشک ہونا۔

إِحْتَفَ: مافی الاناء: برتن کا سب کچھ کھا جانا۔

الْحَفَّ وَالْحَقَّةُ وَالْحُفُّ وَالْحُقَّةُ: لوگوں کی جماعت۔ بڑی تعداد۔ کہا جاتا ہے "جاء القوم جُفَّةً" ساری قوم آئی۔ الْحُفُّ: کھوٹلی تالی والی چیز۔ بوڑھا۔ کہا جاتا ہے "هو جُفَّ مالٍ" وہ مال کا تنظیم ہے۔ الْحُقَّةُ: بڑا ڈول۔

الجحف: سخت و خشک زمین۔

الجحفیف: خشک گھاس۔

الجُفَّاف: سوکھی ہوئی چیز۔

التجفاف والتجفاف: برکسوں۔ پاکر۔ ج تحافیف۔

جَفًّا (ف) جَفًّا: النَّهْرُ: جھاگ پھینکنا

القدر: أبلنا القدر: اُنڈیل دینا۔ جَفًّا

الرجل جَفًّا به الارض: پک دینا۔

أَجَفًّا به: پک دینا۔ پچھاڑ دینا الناقة: چلا

کرتھا دینا الباب: بند کر دینا۔

أَجَفَّافٌ وَتَجَفَّفَاتٌ. البلاد: بے برکت

ہونا۔

جفت (ترکی لفظ) جوڑا یاد دہی دونا یا بندو

کانام۔

اجتفأ: الشئ: اکٹیر کر پھینکنا۔

جفتلک (ترکی لفظ) جس کا معنی زرعی زمین یا

مزارعین کا سامان۔

الجففاء: سیلاب کی خس و خاشاک۔ بیکار۔

بے فائدہ۔ کہا جاتا ہے "ذهب جففاء"

رایگاں گیا۔

جحفجف: الابل: تیزی سے ہانکنا کہ ایک

دوسرے کے اوپر چڑھنے لگیں۔

تجحفجف: الطائر: اٹھنے سینا۔

الثوب: خشک ہونا اور کچھ نمی باقی رہ جانا۔

التجحفجف: بلند زمین۔ پست زمین۔ بہت

بیوردہ کئے والا۔

الجحفجفة: نئے پڑے کی آواز۔ جحفجفة

الموكب: سواروں یا پیادوں کے چلنے کی

آواز۔

الجحفاف: بیت و لباس۔

جحف (ف ض) جحفأ: تکبر کرنا۔ فخر

کرنا۔ مفت (جحفأ)

جحفأ: فخر کرنے میں مقابلہ کرنا۔

جحف (ن) جحفأ و تجحفأ و استجحفأ:

ولد الشاة: بڑا ہونا اور بڑے پیٹ والا ہونا۔

الشيء: کشادہ ہونا۔ جحف من المرض:

سخت یاب ہونا۔ جحف ماکان فیہ: چھوڑنا۔

جحف صاحبه: قطع تعلق کرنا۔

الجحف: من: کشادہ کنواں۔ ج جفاء: کہا جاتا

ہے "فلان منهذم الجحف" فلاں بے عقل

ہے "وقعلت ذلك من جحف او جحف

كذا" میں نے اس کو اس کی وجہ سے کیا۔ علم

الجحف: علم جحف ایک علم ہے جس میں

اسرار حروف سے بحث کی جاتی ہے۔

الجحفرة: من الشئ: وسط۔ درمیان۔ من

الارض: گول کشادہ زمین۔

الجحفیر: گلڑی کا ترکش جس میں چڑانہ ہو یا

چڑے کا جس میں لکڑی نہ ہو۔

الجحفری: شگوفہ خرما کا غلاف۔

المجحفرة: بے تعلق کا سبب۔

جفس (س) جفسا و جفساة: بد ہضمی

ہونا۔

الجفس والجفس والجفیس: کمزور۔

لیم۔ کمینہ۔

جفظ (ن) جفظا: الاناء: بھرا۔

اجفظا و اجفظا: اجفظا: المقتول:

پھول جانا۔ صفت (جحفط)

جحفه (ف) جحفأ: پچھاڑنا۔

جحف (ن) جحفأ: الطائر: خشکانا۔ کہا جاتا

ہے۔ جحف القناص الوحش عن

مراعیہا، شکاری نے وحشی جانوروں کو ان کی

چراگا ہوں سے خشکا دیا البحر السمک:

کنارہ پر ڈال دینا الريح السحاب: اڑالے

جانا ہ: پچھاڑ دینا الطین: پیلے سے کھرچ لینا

المتاع: بعض کو بعض پر رکھنا الفیل: لید

کرنا۔

جفل (ن ض) جفولا و جفلا و اجفل

العیر بدکنا، بھانکنا، صفت جفایل و جفأل

العامة بھاگنا الريح: تیز چلنا۔ (وانجفل و

تجفل) القوم: تیز بھانکنا۔

جفلة: بدکانا۔ بھگانا۔

تجفل الديك: کفنی کو پھڑکانا۔

الجفیل: من: بادل جو پانی برس کر کھل جائے۔

شتر مرغ جو ہر چیز سے بدکے۔ ہاتھی کی لید۔

کشتی ج۔ حفول۔

الجفلة: من الشجر: بہت پتوں والا

درخت۔

الجفلة: اُون کا کڑا۔

الجفان: دودھ کی جھاگ۔ بہت اُون۔

سیلاب کا خس و خاشاک۔

الجفان: من القدر: ہانڈی کی جھاگ۔

ريح الجفول: ج جفل و (مُجفل و

مُجفأل و مُجفألة: تیز ہوا جو بادل کو اڑا

لے جائے۔

الجفلی: دعوت عامہ۔ کہا جاتا ہے "دعی

فلان فی التقوی لافی الجفلی:" وہ

دعوت خصوصی میں بلایا گیا نہ دعوت عمومی

میں۔

الجفیل: بہت۔ زراعت کا اتنا بڑھا ہوا حصہ

جو کاٹ دیا جائے۔

الاجفیل: بڑول۔

الجفول: بہت موٹی بڑھی۔

جفن (ن) جفنا: الناقة: ذبح کر کے

بڑے پیالوں میں کھانا۔ نفسہ: برائیوں سے

روکنا (وتجفن) الکرم: جڑ پکڑنا۔

الجحف: من: اوپر نیچے کا پوڑ۔ نیام۔ ج

أجفان و جفون و أجفن. الجحفن: انور

کی بڑیا ٹہنیاں۔ واحد جحفنة۔

الجفنا: بڑا پیالہ۔ وہ برتن جس میں شراب

بنایا جائے۔ چھوٹا کنواں جفن و جفان و

جففات۔

جفأ یحفو جفأ و جفأنة: ایک جگہ پر نہ

عظمتنا علیہ کذا: اگر اس ہونا القوب: موٹا ہونا۔ جنبہ عن الفرواش: قرار نہ پانا۔

جَفَا (ن) جَفَوُا وَجَفَاءَ وَجَفَاً صَاحِبِهِ: اعراض کرنا۔ بدسلوکی سے پیش آنا۔

تَجَافَى: عن مکانہ: قرار نہ پانا۔ جَفَاةٌ بِدَاخِلَاتِ بَدَانِيَا:

جافی: الرجل یدسلوکی سے پیش آنا۔ دور رکھنا۔

أَجْفَى: الخیل: سخت محنت لینا اور کھانے نہ دینا۔ فَلَانَا بِنَدْوَرٍ كَرْنَا:

تَجَافَى: عَلِيْمُهُ هُوْنَا۔ الْكُ هُوْنَا۔ كَمَا جَاتَا هِي "تجافی السرج عن ظهر الفرس: زین گھوڑے کی پیٹھ سے ہٹ گئی۔" تجافی جنبہ عن الفرواش: اس کا پہلو پھونکنے سے دور رہا۔

اجتفَى: الشئ: جگہ سے ہٹانا۔ دور کرنا۔ استنجفَى استنجفَاءً: الشئ: بدسلوکی سمجھنا۔ دوری چاہنا۔

الجفوة والحفوة: باحدین۔ بدسلوکی۔ الجافی: موٹا۔ جافی الحق: اُجْدُ بِدَاخِلَاتِ ج حفاة: مؤنث جافية ج

جافیات و جواف جفی (ض) جَفِيًا: الرَّجُلُ: پچھاڑ دینا۔ (واجتفی) النبات: بڑے اکھیرنا۔ جَقَّ (ن) جَقًّا: الطائر: بیٹ کرنا۔

الحقفة: بڑھیا اونٹنی۔ جَكَو (س) جَكَوًا وَاجْتَكَرَ: بیچنے میں اصرار کرنا۔

الجكورة: حاجت۔ الجكورة: لوبو سے پر لوہا کرنے کی جھکاو۔

جَلَّ (ض) جَلَّالًا وَجَلَّالَةً: بڑے مرتبہ والا ہونا۔ تم کہتے ہو "جَلَّ فلان لیس عیبی"

فلاں میری نظر میں عظیم المرتبہ ہو گیا۔ تم میں بڑا ہونا۔ غم میں بڑا ہونا۔ صفت (جلیل) ج

أَجَلَاءُ وَاجْلَةٌ وَجَلَّةٌ وَ (نَلَّ وَجَلَّ وَجَلَّالًا وَجَلَّالَةً)

جَلَّ وَتَجَلَّ: عن كَذَا يَجِيءُ كَوَالَا وَبَرَّزَ كَمَهْمَا۔ تَجَلَّ عَلَيَّ: بڑا ہنا۔ (جَلَّ جَلَّالًا وَجَلَّالَةً):

الفرس: جمول ڈالنا۔ جَلَّ (ن ض) جَلَّوُلًا وَجَلَّالًا: اپنے وطن سے دوسرے شہر کو چلا جانا۔ صفت (جَلَّ جَجَّالَةً):

جَلَّ (ن ض) جَلَّالًا وَجَلَّةٌ وَوَجَلَّالَةً: البعور: یعنی پھنا الشئ: بڑے حصہ کو لینا۔

جَلَّلَ: الشئ: عام ہونا الشئ: ڈھانپ لینا۔ اور اسی سے ہے "جَلَّلَ المَطَرُ الارض": بارش نے زمین کو ڈھانپ لیا۔

الرجل: تعظیم کرنا۔ أَجَلَّلَهُ إِجْلَالًا: تعظیم کرنا۔ عن العيب: پاک کرنا الرجل: قوی ہونا۔ کمزور ہونا۔

عَمَّرَ وَ زَيْدًا: بہت دینا۔ کہا جاتا ہے "أَتَيْتَ فَلَانًا فَمَا أَجَلَّنِي وَمَا أَدْفَنِي" میں فلاں کے پاس آیا تو اس نے مجھے زیادہ دیا نہ تمھوڑو

تَجَلَّلَ: بڑا ہونا بالنوب: اوڑھنا۔ تجلَّلَه: غالب ہونا۔

الجَلَّ: س: چینی۔ سفید۔ سرخ۔ زرد۔ گلاب کا پھول۔ واحد جَلَّةٌ بَادِيَانِ۔ ج۔ جُلُولُ:

الجَلَّ والجَلَّ: جمول۔ ج جلال و أَجْلالُ: جَلَّ الشئ: چیز کا بڑا حصہ۔ جَلَّ اللَّيْبُ: وہ جگہ جہاں خیمہ نصب کیا جائے۔

والجَلَّ: موٹا۔ بھاری۔ کہا جاتا ہے "فعله من جَلَّك" اس نے اس کو تیری وجہ سے کیا۔

الجَلَّ: بہت۔ کہا جاتا ہے "مأله دِقُّ وَلَا جَلَّ" اس کے پاس نہ کم ہے نہ بہت من

المتاع: فرش پچھونا۔ چادر وغیرہ۔ رجل جَلَّ: مرد بزرگ۔

أَمَرَ (جَلَّلَ): بڑا معاملہ۔ آسان معاملہ۔ کہا جاتا ہے "فعلته من جَلَّلِكَ و من أَجْلالِكَ و من تَجَلَّلِكَ" میں نے تمھاری وجہ یا تمھاری تعظیم کی وجہ سے یہ کیا۔

الجَلَّةُ: بتثلیث الحمیم: یعنی۔ اور کہا جاتا ہے "قوم جَلَّةٌ" بڑے لوگ۔ یہ جلیل کی جمع ہے۔

الجَلَّةُ بَدْوًا كَرْنَا: ج جلال و جُلَّالُ: الحَالةُ بَدْوًا لَوِ كَ جَوَانِے وَطَنَ سے چلے گئے ہوں۔

الجَلِّي: الاجل کا مؤنث۔ بڑا معاملہ۔ امر عظیم الشان ج جُلَّالُ: التَّجَلَّةُ: عظمت و بزرگی۔

المَجَلَّةُ بَرَسالَہ: کاپی۔ المَجَلَّلُ: فا۔ سحاب مُجَلَّلٌ عام بارش والا بادل۔ امر مُجَلَّلٌ عام معاملہ۔

جَلَّاهُ (ف) جَلَّالًا وَجَلَّالَةً: پچھاڑ دینا۔ پگ دینا۔ جَلَّاهُ بالنوب: پچھنا۔

جَلَّيَهُ (ن ض) جَلَّيَا وَجَلَّيَا يَأْكُ كَرَلانَا۔ الرَّجُلُ: جانا۔ الجرح: لہتا ہونا۔ (وَأَجَلَّبَ) القوم: جمع کرنا۔ جَلَّيَهُ وَأَجَلَّيَهُ: دھکانا۔ جَلَّبَ وَأَجَلَّبَ لاهله:

کمانا۔ جَلَّبَ وَأَجَلَّبَ على الفرس: چلا کر آگے بڑھنے پر آسانا۔ جَلَّبَ وَأَجَلَّبَ الدم: خشک ہونا۔ جَلَّبَ وَأَجَلَّبَ القوم: شور و غوغا کرنا۔

جَلَّبَ (س) جَلَّبًا: کٹھا ہونا۔ جَلَّبَ (ن) جَلَّبًا: عَلَيَّ: گناہ کرنا۔

جَلَّبَ القوم: چیتنا چلانا۔ علی الفرس: ڈانٹنا (وَأَجَلَّبَ) القوم: ہر طرف سے جنگ کے لیے اکٹھا ہونا۔

إِنْجَلَّبَ: جانا۔ اِجْتَلَّبَ: لانا۔

الْجَلَّةُ: کسی انگری کا تاجو کہ دست آور (جلاب) کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

إِسْتَجَلَّبَهُ: کسی چیز کو حاصل کرنا۔ یاسب بن جانا۔

الجَلَّبُ: بس۔ گناہ۔ جرم۔ الجَلَّبُ: بس۔ مال جو ایک شہر سے دوسرے شہر میں لے جائیں۔ ج أجلاب (والجَلَّبِيَةُ) شور و غوغا۔

النجلب: بے پانی کا بادل۔ بادل جو پہاڑ کی طرح دکھائی دے۔ رات کی تاریکی۔ جلبُ الرّحل و جلبیة: کبادہ کی کڑیاں۔
الجبلیة: کھرنڈ۔ پھر جو تہ ہوں جس میں جانوروں کے لیے راستہ باقی نہ رہے۔ گھاس کے متفرق قطعے۔ سبز کانٹے دار درخت۔ بادل کا ٹکڑا۔ چڑا جو پلان پر لگایا جائے۔ جبلیۃ الشتاء: سردی کی شدت۔ جلبُ الجلبیب: لایا ہوا۔ کھینچا ہوا۔ کہا جاتا ہے۔ "عَدَّ جَلْبِی" زر خرید غلام۔ جلبُی و جلبیاء و امرأة جلبیب و جلبیۃ: کبیلے سے لائی ہوئی عورت۔ جلبُی و جلباتب۔ الجلبونیۃ: اونٹ جس پر سامان کو لاداجائے۔ الجلباب: غلاموں کو تجارت کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانے والا۔ الجلاب و الجلاب: گلاب اور شکر یا شہد کا بنا ہوا شربت۔ گلاب کا عرق۔ الجلبان: مٹر۔ چڑے کا تھیلا۔ اور کہا جاتا ہے "رجل جلبان و جلبان" شور مچانے والا مرد۔ الجلاب و المنجلب: بد خلق بیہودہ کو۔ شور مچانے والا۔ الجلبان: گھاس کی طرح انگری اس کی کئی اقسام دانے اور چارہ کے لئے ہوتی ہیں اور کچھ پھولوں کے لئے ہوتی ہیں۔ المنجلیۃ: کسی چیز کے حاصل کرنے کا سبب۔ باعث۔ جبلیۃ: چادریا قمیص پہنانا۔ جلبیب: چادریا قمیص پہنانا۔ الجلباب و الجلباب: چادریا قمیص۔ جلبیب۔ جلتہ (ش) جلتنا و اجلتنا: مارنا۔ جلجل: الرّجل: زور سے بولنا السحاب: گر جتا۔ جلجلۃ: حرکت دینا۔ جلجل الوتر: مضبوط ہونا۔ البعیر: چمانجھ لڑکانا۔ تجلجلت: قواعد البیت: مل جانا۔

تجلجل فی الارض: گھسنا الامرُ فی نفسه: دل میں کسی خیال کا آنا۔ الجلاب: گھوٹکھرو۔ واحد (جلجل) جلجل النفس: وہ خیالات جو دل میں آئیں۔ تم کہتے ہو "بشئتہ جلجل نفسی" میں نے اس سے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ الجلجل و الجلاب: پھر تیا۔ چابک دست۔ الجلبلة: سر۔ بادل کی گرج۔ گھنٹی کی آواز۔ الجلبلان: دھینے کے دانے۔ تل کا دانہ۔ جلبلان الشی: بڑی چیز۔ جلبلان القلب: سویا دل۔ کہتے ہیں۔ "خرج من جلبلان القلب الی قمع الاذن" یعنی دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ المنجلجل: بڑا سرداریادہ شخص جس کی آواز دور تک جائے۔ گرجنے والا بادل۔ بے عیب ظریف۔ وعدۃ منجلجل: بڑی تعداد۔ جلجت (ف) جلبا. الماشیۃ الشجر: اوپر کے حصے کو چر جانا۔ جلب (س) جلبا: سر کے دونوں جانب سے کرے ہوئے بالوں والا ہونا۔ صفت (اجلج) ج جلب و اجلح و جلحان مؤنث جلباء النور: بے سینگ والا ہونا الارض: زمین کی گھاس کا چر لیا جانا۔ القری: حافقی قلعوں کا بانی نہ رہنا۔ جلجت الشجرۃ: اوپر سے کھایا جانا الارض: گھاس کا چر جانا۔ جلب علی الشی: سخت پیش قدمی کرنا فی الامر: پختہ ارادہ کرنا۔ السبع علی القوم: حملہ کرنا۔ جلجت الماشیۃ الشجر: اوپر سے چرنا۔ جالحۃ: کھلم کھلا دشمنی کرنا۔ جالح بالشیء: کھلم کھلا کرنا۔ الجلحۃ: سر کے دونوں جانب بال گرنے کی جگہ۔ الجلاح: سخت سیلاب۔ أرض (جلحاء) بغیر درخت والی زمین۔

بقرة جحاء: بے سینگ والی گائے۔ قریۃ جحاء: بے قلعہ والی آبادی۔ سطوح جحاء: بغیر پردہ کی دیوار والی چھتیں۔ سنۃ (حالیۃ) خشک سال۔ ج جوالح. الجوالح: وہ چیز جو بائس کے اندر سے روٹی کی مانند نکل کر اڑتی ہے۔ برف کے ٹکڑے جو ایک دوسرے پر گریں۔ المجاح. فا. شیرہ و المباح والمجدحة) جائے میں دودھ دینے والی اونٹنی۔ ج المباحیح: قحط جس میں مویشی وغیرہ برباد ہو جائیں۔ المنجلیۃ: بیٹ کھانے والا۔ جلبخ (ف) جلبا. السیل الوادی: پھر دینا۔ دونوں طرف کے کناروں کو کاٹ دینا الشی: کھینچنا۔ دراز کرنا بہ: پچھاڑنا جلبخہ بالسیف: گوشت میں سے کچھ کاٹ لینا (و جلبخ) الموسی: تیز کرنا۔ صقل کرنا۔ (مولد). اجلخ. الشیخ: کمزور ہونا اور اعضاء کا ذھیلا پڑ جانا۔ منجلیخ: چھری کو تیز اور پیتل کو صقل کرنے کا آلہ۔ الجلاح: بڑا سیلاب۔ گہری وادی۔ جلدہ (ش) جلدًا بالسیاط: کوڑے مارنا ہ علی الامر: مجبور کرنا الارض: پچھاڑنا۔ جلدت الحیۃ: ڈسنا۔ جلد (ک) جلدًا و جلاذۃ و جلودۃ و منجلودًا: صبر و استقامت و قوت دکھانا۔ جلد (س) جلدًا و جلد و اجلد. المكان: پالا پڑنا۔ صفت منفعلی (منجلود) جلد. الکتاب: جلد باندھنا الحزور: کھال اُتارنا۔ جلدۃ بالسیف: تلوار سے مارنا۔ اجلدۃ: ایہ: محتاج بنانا۔ مجبور کرنا۔ تجلد: صبر و استقامت ظاہر کرنا۔ تجالدوا و اجتلدوا. بالسیوف: تلوار سے مارنا۔ اجتلد الاناء: سارانی جانا۔

الجلد: کھال اُتارنا۔ بسلحہ: بیٹ کرنا۔
 اِنجَلَطَ البعيرُ: تیز چلنا الشیءُ: پرانا ہونا۔
 کھس ہونا۔
 جالطه: ہانم مکر کرنا۔
 اِنجَلَطَه: اُچک لیٹنا فی الاناء: سب پی
 جانا۔
 الجِلطَة: خون رست یا دی کی تھوڑی مقدار۔
 امرأة جَلُوط (بے حیا عورت)۔
 جَلَع (س) جَلَعًا: لبوں کے نہ لٹنے کی وجہ
 سے گلے ہوئے دانتوں والا ہونا۔ صفت (جَلَع) جَلَع
 و اَجَلَع) مؤنث جَلَعَة جَلَعَاء۔
 جَلَعَت (ف) جُلُوعًا المرأة: بے حیا
 ہونا۔ صفت (جالع و جالعة)
 جَالَع القومُ: بھڑا کرنا۔ فحش باتیں کرنا۔
 اِنجَلَع النسیءُ: کھانا۔
 الجالِع: گلے ہوئے چہرے والی عورت بے
 حیا۔
 الجَلَعَة: ہنسنے کے وقت دانت کھلنے کی جگہ۔
 کہا جاتا ہے: فَلَانٌ لَطِيفُ الجَلَعَة
 الجَلَعَم: بے حیا۔
 اِجْلَعَب و اِجْلَعَد: بستر پر دراز ہونا۔
 الجَلَعَد: سخت و مضبوط۔
 الجَلَاعِد: مِنَ الابل: مضبوط اونٹ۔ ج
 جَلَاعِد۔
 جَلَفَه (ف) جَلَفًا: بالسيف: کلزے کر
 دینا۔
 جالغ: تلوار سے مقابلہ کرنا۔
 جَلَفَه (ن) جَلَفًا: کھرچنا۔ کہا جاتا ہے
 ”جَلَفَ الطین عن الحجر“ اس نے مٹی
 کو پتھر سے کھرچ دیا۔ الظفر: جڑے اُکھیرنا
 ہ بالسيف: گوشت میں سے کلزاکاٹ لینا
 الدهرُ: تباہ کر دینا۔
 جَلَف (س) جَلَفًا و جَلَفَةً: اُجڈ ہونا۔
 جَلَف الویل اموالہُم: تباہ کرنا۔
 تَجَلَف: لاغر و کمزور ہونا۔
 اِجْتَلَفَه: جڑے اُکھیرنا الدهرُ: ہر تباہ کرنا۔
 الجَلَف: اُکھڑا اور اُجڈ۔ یوقوف۔ خالی مٹکا۔

تیز جانا۔
 تَجَلَزَ الامرُ: آمادہ ہونا۔ مستعد ہونا۔
 جَلُوزٌ: بینیدی الامیر: امیر کے
 سامنے آنے جا۔ نہیں چستی دکھانا۔
 جَلَزُ السنان: بھالے کے نیچے کا گول
 حلقہ۔
 الجَلَز: کوزے کے کنارے پر بندھا ہوا
 تسمہ۔ ج جَلَزین۔
 الجَلُوزَة: آمدورفت میں چستی۔
 الجَلُوز: سپاہی۔ بادشاہ کے سامنے تیز تیز
 چلنے والا۔ ج جَلُوزَة۔
 الجَلُوز: بڑے جسم والا بہادر۔ چلغوز۔
 المَجَلُوز: مضبوط۔ کہا جاتا ہے ”فلان
 مَجَلُوز العمل“ فلاں کام میں مشاق ہے۔
 جَلَس (ض) جُلُوسًا و مَجَلَسًا: بیٹھنا۔
 صفت جالس ج جُلُوس و جُلَاس۔
 جالِسَة مَجالِسَة: ساتھ بیٹھنا۔
 جَلَسَة و اَجَلَسَة: بیٹھنا۔
 تَجالَسُوا: فی المحاکم: عدالتوں میں
 بیٹھنا اور بحث کرنا۔
 اِستَجَلَسه: بیٹھنے کو کہنا۔
 الجَلَسَة: اِجلاس کا اسمہ۔ ایک بیٹھک۔
 الجَلَسَة: بیٹھنے والے کی بیٹ۔
 الجَلَس: بڑی اور سخت چٹان۔ بلند زمین
 جَمَلٌ جَلَس: مضبوط اونٹ۔ ناقہ جَلَس:
 مضبوط اونٹنی۔ شہد جَلَس: گاڑا شہد۔
 الجَلِيس: ج جلساء و جُلَاس۔
 (الجلس و الجلیس) ہم نشین۔
 الجَلَسَة: بیٹ بیٹھنے والا۔
 المَجَلِس: بیٹھنے کی جگہ۔ بیٹھنے والے لوگ
 کچھری۔
 مَجَلِيس التَّوَاب: پارلیمنٹ۔ مجلس الشوری:
 مشورہ کمیٹی۔ مجلس الشیوخ: ایوان بالا۔
 المَجَلِيس البَلدی: کارپوریشن کمیٹی
 المَجَلِيسَة: بیٹھنے کی جگہ۔
 جَلَط (ض) جَلَطًا: قسم کھانا اور جھوٹ
 بولنا الراس: مونڈنا السیف: سونٹا

الجَلَد: سر۔ مضبوط۔ قوی۔ ج اجلاد۔
 مؤنث جَلَدَة و اَجَلادُ الانسان و
 (تجالیده) جسم و اعضاء تم کہتے ہو ”ما اشبه
 اجلادُ فلان یا اجلاد ابیه“ فلاں کے
 اعضاء اس کے باپ کے اعضاء سے کس قدر
 مشابہ ہیں۔
 الجَلَد: سر۔ آسان یا ٹیلا گنبد۔ کھال
 (والجَلَدَة) سخت زمین۔
 الجَلَد کھال۔ ج اجلاد و جُلُود و
 (الجَلَدَة) کھال کا ٹکڑا یا کھال کی قسم۔ ج
 جَلَدٌ کہا جاتا ہے ”ہم من جَلَدِنا“ وہ
 لوگ اپنے ہی مشابہ ہیں۔
 الجَلِيد: قوت والا۔ صابر۔ چالاک۔ ج
 جُلْدَاء و جُلْد و جَلْد. الجَلِيد: پالا۔
 الجَلاد: بڑے بڑے سخت کھجور کے
 درخت۔ بیٹ دودھ والی اونٹیاں۔
 الجَلاد: کوزے سے مارنے والا۔ تلوار سے
 مارنے والا۔ مزادینے والا۔ کھال بیچنے والا۔
 المَجَلد و المَجَلاد: چمڑے کا ٹکڑا جس کو
 نوہ کرنے والی عورت اپنے منہ پر مارا کرتی
 ہے۔ کوزا۔ ج جالِد و مَجالِيد۔
 المَجَلَدَة: کوزا۔
 اعظَم (مَجَلَد) صرف کھال گلی ہڈی۔
 فرس مَجَلَد: کوزا مارنے سے نہ چوکنے والا
 گھوڑا۔
 اِجْلُودٌ اِجْلُودًا: تیز جانا لیل: لمبی ہونا یا
 ختم ہونے کا سبب: تیزی کے ساتھ چلنا
 المَطَر: زمانہ بارش کے اختتام کے بعد تک
 برسات رہنا۔
 الجَلْد: چھچھوند۔ ج جالِد. من غیر
 لفظہا۔
 الجَلْدِی و الجَلْدِی: گرجا کا خادم۔
 راہب۔ کارگیر۔ ج جَلْدِی. الجَلْدِی و
 الجَلُود: قوی موٹا اونٹ۔
 جَلَز (ض) جَلَزًا الراس: پٹی باندھنا
 الشیء الی الشیء: ملانا (و جَلَز)۔
 السکین: دستہ باندھنا و جَلَز الرَجُل:

جِلْدَان (ن) وَجَلَى الزَّوْجَ عَرُوسَةَ
ہدیہ: شب زفاف میں ہدیہ دینا۔

جِلْدَان (س) جِلْدَانِ: سر کے اگلے حصے کے
بالوں کا اڑ جانا۔ صفت (اجلی) مؤنث

جِلْدَانِ: چہرہ، جِلْدَانِ: کیشادہ پیشانی۔

جِلْدَانِ: فلاناً وعن فلان الامر: کسی کی
معصیت کو دُور کر دینا۔ جلی بنظرہ: نظر

ڈالنا۔ کہا جاتا ہے۔ ”جلی الیازی، یازنے
سر اٹھا کر شکار کو دیکھا عن ضمیرہ: مانی

الضمیر ظاہر کرنا۔
جلی فلاناً بامر: دوسرے کے سامنے
ظاہر کرنا۔ حکم کھلا کرنا۔

أَجْلَاهُ: نکلنا۔ آجلاہ عن بلدہ:
نکلنا الرجُل منزلاً: خوف کی وجہ سے چھوڑ

دینا۔ تم کہتے ہو ”آجلاہ عن القیتل“ مقتول
کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔

تَجَلَّى تَجَلَّى الشَّيْءُ: اچھی طرح ظاہر
ہونا مکان: چڑھنا الشَّيْءُ: گردن بلند کر

کے دیکھنا۔
تَجَلَّى القوم: ہر ایک کا حال دوسرے پر
ظاہر ہونا۔

انجلی: ظاہر ہونا۔ تم کہتے ہو انجلی الہم
عن غلی، غم میرے دل سے دُور ہو گیا۔

اجلی الشَّيْءُ: دیکھنا العمامۃ: عمامہ کو
پیشانی سے بلند کرنا النحل: شہد نکلنے کے

لیے دعوای کرنا۔

استجلی الشَّيْءُ: ظاہر کرنے کو کہنا
العروس: آراستہ ہو کر خاند کے سامنے

ظاہر ہونا۔

اجنولہ اجنولاء: الرجل: ایک شہر سے
دوسرے شہر کو جانا۔

الجلال: سر کے بالوں کے گرنے کی ابتداء۔
ایک قسم کا سرمد۔ ظہور و صبح۔

ابز جلا: کھلی ہوئی چیز۔ صبح۔ چاند۔
الجلال: سر۔ کھلا ہوا معاملہ۔ کہا جاتا ہے۔

”اقست جلاہ یومی“ میں نے پورے دن
اقامت کی۔

الجلم: بکرا۔ بکری کا بچہ۔ ج جلام
الجلم: ایک قسم کا شکاری پرندہ۔

الجلمۃ والجلمۃ: سب
ز پوری چیز۔ تم کہتے ہو ”احذت الشیء

بجلمتہ میں نے پوری چیز لے لی۔“ وھذہ
جلمۃ الجزور: یہ ذبح کیے ہوئے جانور کا

سار گوشت ہے۔
الجلامۃ: بکری ہوئی اون۔

الجلم جود عویس رات کا چاند۔
الجلمد والجلمود: اونٹوں کا بواگھ۔

جلمق: القوس، کمان پر تانت چرمانا۔
الجلماق: پتھار جس سے تانت بنائی جاتی

ہے۔
الجلمق بقیان جلامق۔
الجلمار: گل اٹار۔

الجلمجین: گل قند۔
جلہ (ف) جلہا الشَّيْءُ: ظاہر کرنا۔ دُور

کرنا المرء: باز رکھنا العمامۃ: پیشانی سے
بلند کرنا۔

جلہ (س) جلہا: سر کے اگلے حصے کے
بال کا اڑ جانا۔ صفت (اجلہ)

الجلہۃ: من الوادی: وادی کا کنارہ۔
وادی کے سامنے والی جہت۔ ج جلاہ۔

بیت (مخلوہ) بغیر دروازہ اور پردہ کے
مکان۔

الجلاہق: غلہ گولی۔ اور بقول بعض
غلیل (فارسیہ)

جلاہن (ن) جلاہ: ظاہر ہونا۔ واضح ہونا عن
بلدہ ومنہ: نکلنا الشَّيْءُ: بلند ہونا۔

جلاہن (ن) جلاہ و جلاہ: الامر: واضح
کرنا۔ ظاہر کرنا۔ الرجل عن بلدہ: جلاوطن

کرنا النحل: شہد نکلنے کے لیے دعوای کرنا
عنه الہم: راکل کرنا۔ دُور کرنا السیف:

میشل کرنا البصر بالکحل: روشن کرنا۔
(جلوۃ بتثلیت الجیم و جلاہ و اجنلی)

العروس علی زوجھا: بناؤ سنگار کر کے
پیش کرنا۔

برتن۔ بغیر سر کے دھڑ۔ روٹی کا کنارہ۔ ج
آجلاف و جُلوف۔

الجلیف: بھرا ہوا۔ اکثر اور اجڈ۔ ظالم۔
مؤنث جلیفۃ کہا جاتا ہے ”اصابتہم جلیفۃ

عظمیۃ لمن کو سخت قلم سالی لاحق ہوئی جس
نے اُن کے مال کو تباہ کر دیا۔ ج جلائی و

جُلَف و جُلَف: الجلائی: بظنیایاں۔
الجلیفۃ بظنہ: دغیرہ کا تراش۔

الجلیفۃ: جنگ روٹی کا گلو۔ ج جلف
الجلیفۃ والجلیفۃ: من القلم: بایانا قلم۔

الجلائی: بظنیایاں۔
المجلف: وہ شخص جس کا مال قلم سالی میں

تباہ ہوا ہو۔ وہ چیز جس کا کچھ حصہ باقی ہو۔
جلفط و جلفط: السفینۃ: شئی کے درز

بند کرنا۔ عوام قلفط: استعمال کرتے ہیں۔
الجلفاط والجلفاط: شئی کے درز بند

کرنے والا۔
جلق (ض) جلقا: الراس: موٹھا القوم

بالمجنیق: آدھ سنگ انداز سے دشمن پر
حملہ کرنا۔

تجلق: بننے میں دانت نکالنا۔
الجلاقۃ: گوشت کا گلو۔ کہا جاتا ہے ”رجل

جلاقۃ و بلا مرد۔
الجوالق والجوالق: اُون یا بالوں کی

گون۔ ج جوالیق (معرب)
جلق و جلق: دمشق یا اس کے حوالی کے

مرفزار۔
الجلکی والجلکی: ایک قسم کی مچھلی مار

مانی کے مشابہ۔
جلہمۃ (ض) جلہمۃ و اجنلمۃ: کائنا۔

الصفوف: کترنا الجزور: بڑیوں پر سے
گوشت اُتارنا۔

الجلم والجلمان: اُون کترنے کی قبضی
جلمان پر شنیہ اور مفردوں کا اعراب آتا

ہے۔ جیے شریث الجلمین و شریث
الجلمان۔

الجلاء: سرم۔

الجَلْوَة: شب زفاف کا ہدیہ جو شوہر دے۔
الجَلْبَانِيَّة: الجالی کا نمونہ۔ مسافر لوگ جنھوں نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا ہو۔ ڈی۔ جزیہ جو ذمہوں سے وصول کیا جائے۔ پھر اس کا استعمال ہر قسم کے خران پر ہونے لگا۔ ج جوال، مفرد جال۔

الجَلْبِي: واضح۔ روشن۔ صیقل کیا ہوا نمونہ جَلْبِيَّة. عين جَلْبِيَّة: دیدہ بیٹا۔ جَلْبِيَّة. الامر: کھلا ہوا معاملہ۔ یعنی خبر۔

الاجلبی: روشن۔ واضح۔ نمایاں۔ خوبصورت چہرہ والا۔ وہ شخص جس کے سر کے اگلے بال اڑ گئے ہوں۔ نمونہ جَلْوَا. جنبه جَلْوَاء: کشادہ پیشانی و سَمَاء جَلْوَاء: آسمان بے ابر۔ تم کہتے ہو۔ ”فلعانہ من اجلاک“ میں نے اس کو تمہاری وجہ سے کیا۔

ابن اُجلبی: صبح۔
المَجْلَبِي: سر کا اخاصہ جس سے بال گر گئے ہوں۔ ج مجال

المَجْلَبُو: جس کی طرف دیکھا جائے۔
جلبی (س) جَلْبَا. السيف: صیقل کرنا۔
جلبی. الامر: ظاہر کرنا الفرس: میدان میں آگے بڑھنا۔

الجلبی: چھت کاروشن دان۔
المَجْلَبِي: میدان میں آگے رہنے والا۔
الجلابيز: ایک قسم کا کھانا جو کہ چھڑے کے گوشت مع پوست کے تیار کیا جاتا ہے۔

الجلبان خراب یوٹا کاسفر۔
الجلبان: کشف و اظہار۔
جم (ن ض) جُمُومًا. الماء: کثرت سے جمع ہونا العظم: زیادہ گوشت والی ہونا۔ البئر: زیادہ پانی والا ہونا۔ صفت (جُمُوم)

الفراق: قریب ہونا القوم: آرام پانا اور زیادہ ہونا۔ جَمًا و جَمَامًا و جَمَامًا و جَمَامًا. الکبيل: لہاب بھر کر تاپنا الماء: جمع ہونے دینا المِمْكِيَال: چوٹی تک بھرنا۔ (واجم و اجم) الفرس: کوتل چھوڑ دینا۔

جَمَمَ. المِمْكِيَال: چوٹی تک بھرنا (وَتَجَمَم) البئ: گنجان ہونا۔ بکثرت بڑھنا۔ صفت (يَجْمِم) ج اجماء۔

اجم. الامر: قریب ہونا الفراق: وقت آنا الماء: جمع ہونے دینا۔ الفرس: کوتل چھوڑ دینا۔ اور اسی سے ہے۔ ”اجمم نفسك يوماً او يومين“ اپنے آپ کو دو ایک روز آرام پہنچاؤ اور کام نہ کرو۔

استجم. الماء: کثرت جمع ہونا الارض: آگنا البئر: بھر جانے کے لیے چھوڑ دینا۔ اور کہا جاتا ہے ”انني لاستجم قلبي بشئ من اللهو“ میں اپنے دل کو کھیل کود سے بہلاؤں گا۔

الجم. س۔ بڑی تعداد۔ کہا جاتا ہے ”جاؤوا جمًا غفيرا و جم غفيرا و جم الغفيرة. والجم الغفيرة“ یعنی پوری جماعت۔ شریف در ذیل بھی بکثرت آئے۔ الجم من الماء: پانی کا بڑا حصہ۔ ج جمام و جُموم۔

الجمام. بتثلیث الجیم و (الجمم) وہ حصہ جو پیمانے کے بھرنے کے بعد سرے پر ہو۔ کہا جاتا ہے ”جمام القذح ماء“ یعنی پانی سے بھر اہو پیا۔ الجم: بڑی تعداد۔ الجمام: تھکن کے بعد ٹھوڑے کا آرام لینا۔

الجمّة: بہت پانی والا کنواں۔ پانی جمع ہونے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے ”استقم من جمّة البئر“ زیادہ پانی والے کنوئیں سے پانی نکال۔ ج جمام الجمّة و الجمّة: اکثر حصہ۔ کہا جاتا ہے ”جاؤوا فی جمّة كثيرة“ وہ لوگ بڑی تعداد میں آئے۔ والجمّة: سر کے بالوں کی کثرت۔ لوسے نیچے تک کے بال۔ ج جُمم۔

الجمّام و الجمّان: لہاب بھر اہو پیا۔
الاجمّ: بے بیگ والا مینڈھا۔ نمونہ جمّاء ج جمّ

بغیر نیزہ کے لڑنے والا۔ الحصن الاجمّ: بغیر کنگرہ والا قلعہ۔ بنیان الاجمّ: بغیر کنگرہ والی عمارت۔

الجمّاء: بھرا ہوا۔ کہا جاتا ہے۔ ”امرأة جمّاء العظام“ بہت فربہ عورت۔ أرض جمّاء: ہموار زمین۔ کہتے ہیں خاء و اجماء الغفیر و جمّاء الغفيرة و الجمّاء الغفيرة و جمّاء غفيرة و بجمّاء الغفیر الجمہ“ یعنی سب لوگ آئے۔

الجمّم و الجمّم: سینہ۔ کہا جاتا ہے ”هو رخب الجمّم“ وہ فرس دل ہے۔
الجمّانی و المضمّم: وہ شخص جس کے سر میں بال بہت ہوں۔

جمی (س) جمّا. عليه: غضبناک ہونا۔
تجمّا. فی ثیابہ: لپٹنا القوم: اکٹھا ہونا۔
الجمّا و الجمّاء: شخص۔

جمع جمجمة و تجمّم. الكلام: غیر واضح گفتگو کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ تجمّم عن الامر: یعنی پیچھے ہٹ گیا۔ ”و جمّم حشيتا فی صدره“ اس نے اپنے سینہ میں پوشیدہ رکھا۔

الجمجمة: ٹھوڑی۔ لکڑی کا پیالہ۔ کنواں جو زمین شور میں کھودا جائے۔ ج جمّاجم۔
الجمّاجم: سر دار لوگ۔

اجمّ (ف) جمّمًا و جمّمًا و جمّمًا و جمّمًا. الفرس: سر کشی کرنا۔ سوار کے قابو میں نہ آنا۔ صفت مذکر و مؤنث (جامع)

ج جوامع اور اسی سے ہے ”جمّحت المرأة زوجها“ جبکہ شوہر کو چھوڑ دے اور اپنے میکہ چلی جائے۔ و جمّح الرجل: خود سر ہونا۔ خود رائے ہونا۔ کہا جاتا ہے۔

”جمّحت المفازة بالقوم“ بیابان نے قوم کو ہلاک کر دیا ”جمّح بفلان مرادہ“ یعنی اس نے اپنی مراد کو نہیں پایا۔

الجمّاح: جنگ کے شکست خوردہ لوگ۔ بے محل کا تیر۔ ج جمّامح و جمّامیح۔
فرس (جمّوخ) سرکش ٹھوڑا۔ رجل جمّوخ: خود سر مرد۔

جمّح (ن) جمّمًا: تکبر کرنا۔ صفت (جامع) ج جمّم و جمّم و جمّمیح

جامحہ: فجر کرنے میں مقابلہ کرنا۔

جمد (ن) جمدا و جمودا. الماء: جم جاتا الدم: خشک ہونا جمدت يده: بخیل ہوتا۔ عينه: آنسو کا بند ہو جانا۔ صفت (جماد و جمود و جميد) العين مؤنث (جمود)

أجمد: بخیل ہونا۔ بے فیض ہونا۔ ماہ جمادی میں داخل ہونا۔ کہا جاتا ہے "أجمد حقه عليه" اس نے اپنا حق اس پر ثابت کیا۔ أجمده وجمده: برتا۔

جامده مجامدة: پڑوسی ہونا۔ کہا جاتا ہے "هو مجامدى" اس کے گھر کی دیوار میرے گھر سے متصل ہے۔

الجمد والجمد: جما ہوا پانی۔ برف (والجمد والجمد) سخت اور بلند زمین۔

الجمادى ج جمد: زمین سنۃ جماد: بے بارش کا سال۔ أرض جماد: زمین جس پر بارش نہ ہوئی ہو۔ ناقة جماد: سست رفتار اونٹنی۔ کہا جاتا ہے "فلان جماد الكف" فلاں بخیل ہے "والجمادى ج جمادات و (الجماد) ج حواميد: وہ چیز جس میں زندگی نہ ہو جیسے پتھر وغیرہ والفعل الجماد: وہ فعل جس کی گردان نہ آتی ہو۔

پیسے لیس و عسی و "جمادله" مبنی بر کسرہ بخیل کے لیے بدعا ہے یعنی ہمیشہ اسی حال پر رہے۔

جمادى الاولى والاخرة: ہجری سال کا پانچواں و چھٹا مہینہ۔ ج جمادات عین جمادى: وہ آنکھ جس سے آنسو نکلے ہی نہ ہوں۔

الجماد: برف بیچنے والا۔ سيف جماد: شمشیر برائ۔

المجهد: ہیئت بخیل جوئے کا مین۔ قوم کا امین۔

جم (ض) جمرا و جمرا و أجمر واستجمر القوم على امر: اکٹھا ہونا۔

جمرة: پنگاری دینا۔ جم القوم على

امر: جمع کرنا۔ جم النخلة: درخت خرما کا جمار کاٹنا (ويكوجمار اللحم: انکارے پر رکھنا الامر القوم: اکٹھے ہونے پر مجبور کرنا المرأة شعرها: چوٹی گوندھ کر پیچھے ڈالنا۔

أجمر: تیز چلنا۔ اور اسی سے ہے "أجمر بين يديه" وہ اس کے سامنے تیز چلا الثوب: دھونی وینا لئاز: تیار کرنا۔ الامر القوم: کسی امر کا عام ہونا۔ المرأة: چوٹی گوندھ کر پیچھے ڈالنا۔

تجمر العيش: دشمن کے ملک میں گھر جانا اور نہ لوٹنا۔ بالمجمرة: دھونی دینا۔

القبائل: اکٹھا ہونا۔ إجمر واستجمر بالمجمرة: دھونی دینا۔

جمرة الجمرات: اکٹھا ہونا۔ الجمرة: الجمر کا واحد۔ انکارہ۔ نگرہ۔ تمام وہ لوگ جو آپس میں بالکل متحد ہو گئے ہوں۔ کہا جاتا ہے "بنو فلان جمرة" فلان کی اولاد متحد ہے۔

الجمار: جماعت۔ متفق لوگ۔ جمارى وجمارى بالتونين وبدونه: بمعنی کل۔ کہا جاتا ہے "جاء القوم جمارى" سب لوگ آئے۔ جاء القوم (جمارا) سب لوگ آئے۔

الجمار والجمار: درخت خرما کا گوند جو چربی کی طرح سفید ہوتا ہے۔

الجميز: قوم کے جمع ہونے کی جگہ۔ ابن جميز: تاریک رات۔ جميز الشجر: پالوں کی گندمی ہوئی چوٹی۔

الجميز: جوم کی گندمی ہوئی چوٹی۔ الميمرة والميمر: اگلیٹھی۔ عود سوز۔ ج جمامر۔

حافر. (مجمير و مجمر) سخت کمر۔ جم (ض) جمرا: تیز دوڑنا۔ صفت (جمار) جمرة: ٹھٹھا کرنا۔

الجمزى: تیز رفتاری۔ کہا جاتا ہے "يقعدو الجمزى" وہ تیز دوڑتا ہے۔ "جمار جمزى" تیز رفتار گدھا۔

جمرة: پنگاری دینا۔ جم القوم على

الجمرة: کھلی جس میں دانہ ہوتا ہے۔

الجميز والجميزى: گولر کا درخت۔

جمس وجمس (ک ن) جموسا۔ السنن: جم جانا۔

الجماس. فا. نبات جاميس: پڑمردہ گھاس۔ دم (جميس) خشک خون۔

الجمست: ایک قسم کا قیمتی پتھر۔ الجمامون: بھینس۔ ج حواميس۔

جمش (ن ض) جمشا. الراس: موڈنا اور اسی سے ہے مکان (جميش) نباتات سے خالی جگہ۔ جمش الناقة: انگلیوں سے دو ہوتا۔

جمشة نجبت سے چنگی لینا۔ پیار و محبت کا کھیل کھیلنا۔

الجمش. س. آہستہ آواز۔ الجمون والجميش: بال صاف کرنے کی مرکب دو۔

جمع (ن) جمعا. المتفرق: اکٹھا کرنا۔ جمع کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ "جمعت الجمعة" جمعہ کی نماز قائم کی گئی۔

جمع: جمع کرنا (تشدید مبالغہ کے لیے ہے) المسلم جمعہ کی نماز میں حاضر ہونا۔

جامعة. جامعة وجماعا. على كذا: اتفاق کرنا۔ موافقت کرنا۔ جامعها: ہم بستری کرنا۔

أجمع. لقوم على كذا: اتفاق کرنا۔ اتفاق کرنا۔ امر: متفرقا: اکٹھا کرنا۔ الامر و على الامر: پختہ ارادہ کرنا لابل: اکٹھے ہانکنا۔

اجتمع الغلام: جوان و قوی ہونا۔ (اس کا استعمال عورتوں کے لیے نہیں ہے (وتجمع) القوم: اکٹھا ہونا الشئ المتفرق: متفرق چیز کا اکٹھا ہونا۔

انجمع الشئ: اکٹھا ہونا۔ استجمع. له الامر: منشا کے مطابق ہونا۔

القوم: سب کا چلا جانا۔ البقل: خشک ہونا الفرس۔ بزنا: پوری طاقت سے دوڑنا۔

الجمع. س. لوگوں کی جماعت۔ ج

جم (ض) جمرا و جمرا و أجمر واستجمر القوم على امر: اکٹھا ہونا۔

جمرة: پنگاری دینا۔ جم القوم على

جمرة: پنگاری دینا۔ جم القوم على

جاتا ہے "اجمل الحساب والکلام" فِصْلُهُ وَبَيْنَهُ تَنْصِلُ اس نے حساب اور کلام کو جمل کہا پھر اس کی تفصیل کی لفظی ہے خوبصورت بنانا۔ زیادہ کرنا الشَّحْمُ: پھلانا۔ فی العول: عمدگی سے کام کرنا۔ فی الطلب: تلاش میں اعتدال اختیار کرنا القوم: لوگوں کے پاس اونٹوں کی کثرت ہونا۔

قَحْلٌ: آراستہ ہونا۔ خوبصورت ہونا۔ مصائب زمانہ پر صبر کرنا اور ذلت ظاہر نہ ہونے دینا۔ حیاء کی وجہ سے بصیبت میں چھلی ہوئی چربی کھانا۔ فی الکلام: لطف دہرانی سے باتیں کرنا۔

اَسْتَجْمَلُ البعير: اُونٹ کا جوان ہونا الشئ: خوبصورت بھنا۔

الجمل: اُونٹ۔ جَمال و اَجْمال و جَمَل و جمالة۔ بتثلیث الجیم و حج جمالات بتثلیث الجیم و جمائل اور جمل کا اطلاق اُونٹ پر شاذ ہے۔ کہا جاتا ہے۔

"شربت لب جملی" میں نے اپنی اُونٹنی کا دودھ پیا۔ جمل البھودی: گرگٹھ جملی الماء: ایک آبی پرندہ جس کی چونچ لہی ہوئی ہے۔ جمل البحر: ویل چھلی۔ کہا جاتا ہے "اتخذ اللیل جملاً" وہ ساری رات چلا۔

الجَمَلُ والجَمَلُ والجَمَلُ والجَمَلُ والجَمَلُ والجَمَلُ: مولیٰ رہی۔ حساب الجَمَلُ: حروف ابجد کا حساب جو تاریخ ولادت یا وفات وغیرہ نکلانے میں کام آتا ہے اور اس کو حساب الابجد یہ بھی کہتے ہیں۔

الجامل (ف): اونٹوں کا ریوڑ جمع چرواہوں کے۔ اونٹوں کا مالک۔

الجَمَالُ: اونٹوں کا مالک یا ساربان ج جَمَالَةٌ: خوبصورت۔ یا زیادہ خوبصورت۔

الجَمَالُ (س): خوبصورتی۔ کہتے ہیں "جمالك ان لاتفعل کذا" تمہارے لیے مناسب ہے تم ایسا نہ کرو۔

الجُمَّلة مجموعة: جو ہند اور ہند الیہ

اجمهم و باجمعهم" سب لوگ آئے۔ مؤنث جمعاء شاجعون المجتمع: کہا جاتا ہے "رجل مجتم" جوان و مشی مجتمعاً" ہاتھ پیر ہلانے ہوئے وہ تیز تیز چلا۔

المجتمع: جمع کرنے یا جمع ہونے کی جگہ۔ اکیڈمی۔ کہا جاتا ہے۔ "ناخذت محبته بمجامع قلبی" اس کی محبت میرے دل پر چھائی۔

الرضد (مجمعة و مضمعة و مضمعة) وہ زمین جس میں قافلہ اٹھا ہو جائے اور بھٹکنے کے خوف سے علیحدہ نہ ہو۔

المجتمع: وہ تالیف جس کو علمائے حدیث نے دینی امور کے لئے منظور کیا۔

المجتمع العلمي: علمی ادبی اور فنی جماعت جس کو اکیڈمی کے نام سے موسوم کر لیتے ہیں۔ امر (مجمع) قطعی معاملہ۔

المجتمع: شہر کتاب جس میں مختلف چیزیں جمع کی گئی ہوں۔ جیسے اشعار قصص وغیرہ۔ مجتمع جمع اور نحووں کے نزدیک جمع پر اطلاق کیا جاتا ہے۔

الجماعة: اجتماع نظریہ جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ قومی مشکلات کا حل یہ ہے کہ آدن کے تمام وسائل قوم کے درمیان مشترک ہوں۔ (فارسی)

الجماعیة: جامع کتب و (الجماعیة) شہاں نوکروفوجیوں کی تحوہ۔

جمل (ن) جملاً: الشئ: جمع کرنا (واجمل) الشحم: پھلانا۔

جملاً: (س) جملاً: خوبصورت ہونا۔ خوش طبع ہونا۔ صفت (جمیل)

(جمیلة) خوبصورت بنانا۔ جمل الشحم: پھلانا الشحم: دیر تک روکے رکھنا۔

جامله: لہذا معاملہ کرنا۔ تواضع سمر قدیری کرنا۔

الجمل الشئ: جمع کرنا یا جملاً ذکر کرنا۔ کہا

جُموع. یوم الجمع: قیامت کا دن۔ جمع. الحسب. فی کہا جاتا ہے۔ ضربتہ بجمع کفی" میں نے اس کو گھولنے سے نالہ کی بھر جیتے۔ جمع

الجمعة: ہفتہ۔ کہے ہیں "اسراجو الاخیر مجامعة" اس نے مزدور کو ہفتہ وار کئی پر رکھا۔ اجتماع: دوستی۔ جمعاً من قس: ٹھکی بھر کھجور۔ (والجمعة) ہفتہ کا ساتواں دن جمع و جمعات

الجماعة: آدمیوں کا گروہ۔ جماعات الجماعات والجماعات: چلی وغیرہ کا رجسٹر۔

الجماع: جمع جماع الشئ: کسی چیز کی جمع۔ کہا جاتا ہے "جماع الخباء الاخیة" خباہ کی جمع خبیة ہے۔ "والخمر جماع الاثم" شراب ہر قسم کے گناہوں کا جامع ہے۔ قدر جماع: بڑی ہانڈی، بڑی دیگ۔

الجامع: فا. جامع مسجد. جماع (الکلام الجامع) کلام جس کے الفاظ نام اور معنی ہیئت ہوں۔ جماع لیوم روز جمعہ۔ قدر جامع: دیگ۔ ابو جامع: دست خوان کی نیت۔ الجامع الجامع کا مؤنث تعلق۔ طوق۔

قدر جامعة: بڑی دیگ۔ الجامعة: یونیورسٹی جو کہ اپنے ماتحت کئی ذیلی ادارے رکھتی ہے جن میں علوم و فنون پڑھائے جاتے ہیں۔

الجمعین: لوگوں کی جماعت۔ جمع شدہ۔ الفکر: اور تاکید کے موقع پر بولا جاتا ہے

"جاؤوا جمیعہم" سب لوگ آئے۔ اور کہا جاتا ہے "راہی جمع" ٹھیک راستے۔

الجمیعة: اجتماع جماع الجماعیة: کتاب مقدس کے اسفار میں سے ایک۔

الجمع: الفاظ تاکید میں سے ہے۔ اس لفظ سے ہر اس چیز کی تاکید لاتے ہیں جس کا انشراق حسی یا عقلی طور پر جائز ہو۔ کہا جاتا ہے "جاؤوا

پوشیدہ معاملہ من کل شیء: ہر چیز کا جو ف: ج اَجْنَانُ
 الْجُنُونُ وَالْجُنُنُ وَالْجَنَّةُ: دیوانگی۔
 الْجَنِينُ: ہر پوشیدہ چیز۔ قبر، مدفون، بچہ
 جو ابھی رحم مادر میں ہو۔ ج اَجْنَةٌ وَاجْنُنٌ
 الْمَجْنُونُ: جنوں والی زمین۔ دیوانگی۔ کہا جاتا
 ہے ”بہ مَجْنُونَةٌ“ وہ دیوانہ ہے۔ چھپنے کی جگہ۔
 جَنِي (س) جَنًا: کبڑا ہونا۔ صفت (اَجْنًا)
 مَوْتٌ جَنَاءُ
 جَنًا (ف) جُنُوءًا وَاجْنًا اِجْنَاءُ وَجَانًا
 مُجَانَاةً وَاجْتَنًا وَتَجَانًا تَجَانُوا عَلَيْهِ:
 کسی کو مارے بچانے کے لیے اس پر چھایا جانا۔
 جَنِبَةٌ (ن) جَنِبًا: دُج کرنا۔ علمدہ کرنا۔ دُور
 کرنا۔ پہلو پر مارنا۔ تم کہتے ہو ”ضربہ فَجَنِبَةً“
 اس نے اسے مار اور پہلو پر مارا وَجَنِبَهُ الشَّيْءُ:
 کسی سے کوئی چیز دُور کرنا (جَنِبًا وَمَجْنِبًا)
 الْعَبِيرُ: کوئل ہانکنا۔ صفت مفعول (جَنِبْتُ)
 وَمَجْنَبٌ وَمَجْنُوبٌ مَوْتٌ جَنِيَّةٌ۔ کہا
 جاتا ہے ”فارس جَنِيْبٌ وَخَيْلٌ جَنَابٌ
 (جُنُوبًا) الرَّيْحُ: جنوبی ہوا چلنا۔
 جَنِبٌ (ن) جَنِبًا وَجَنِيْبٌ (س) جَنَبًا
 الْيَهُ: مائل ہونا۔ مشتاق مغزب ہونا۔
 جَنِيْبٌ (ن س ض) جَنَابَةٌ الرَّجُلُ:
 ناپاک ہونا۔
 جَنِيْبٌ: پہلو میں درد والا ہونا۔ نمونیا لاحق ہونا
 صفت (مَجْنُوبٌ)۔ وَاجْتَنِبْ وَاجْتَنِبْ
 الْقَوْمُ: جنوبی ہوا لگانا۔
 جَنِيْبٌ وَتَجَنَّبَهُ وَتَجَانَبَهُ وَاجْتَنَبَهُ: دُور
 ہونا۔ جَنِبَهُ الشَّيْءُ: کسی سے کوئی چیز دُور
 کرنا۔
 جَانَةٌ: پہلو میں چلنا۔ اَجْنِيْبَةٌ: دُور کرنا۔
 اَجْنَبٌ الرَّجُلُ: دُور ہونا۔
 اِسْتَجَنَبَ: ناپاک ہونا۔
 الْجَنَبُ: جن جناب و جنوب: پہلو۔
 جَنَبٌ: جناب۔ جناب۔ تم کہتے ہو ”فَقَدَّتْ الْيَ
 جَنِبُ فُلَانٌ وَالْيَ جَانِبَهُ وَجَنَابَهُ“ میں
 فُلَانٌ کے پہلو میں یا اس کی جانب میں بیٹھا۔

جَمِي (ض) جَمِيًّا الْمَاءُ: بہت ہونا۔
 تَجَمَّى الْقَوْمُ: اکٹھا ہونا۔
 جَمَاءٌ وَجَمَاءٌ وَجَمَاءَةٌ الشَّيْءُ: چتر
 کی دہازت۔
 جَعَنَ (ن) جَعْنَا وَجُنُونًا: دیوانہ ہونا۔ پاگل
 ہونا۔ صفت (مَجْنُونٌ) ج مَجَانِيْنٌ عَنْهُ:
 چھپنا الارض: پھول اگانا۔ النَّبْتُ: لہبا ہونا
 اور گتہ جانا: الدُّبَابُ: بَیْتٌ مَجْمَعًا۔ کہا جاتا
 ہے ”جُنُ الدُّبَابِ بِالرَّوْضِ“ ہریالی کو دیکھ
 کر کھیاں مجھنٹا رہی ہیں۔
 اَجَنَّ عَنْهُ: چھپنا۔ اَجْنَهُ الدَّلِيلُ: چھپانا۔
 ڈھانپ لینا۔ اَجَنَ الْمَيْتَ: کفن دینا، دُفن
 کرنا۔ (اَجَنَّهُ وَجَنَّهُ) دیوانہ بنا دینا۔
 تَجَجَنَ وَاسْتَجَجَنَ: دیوانہ ہونا۔
 تَجَانَّ وَتَجَانَنَ: بتکلف دیوانہ بننا۔
 اِجْتَنَّ الشَّيْءُ: چھپانا (وَاسْتَجَنَّ) چھپنا۔
 وَاسْتَجَنَّ فُلَانًا: کسی کو طرب کی طرف
 بلانا۔ (مَا اَجَنَّهُ) وہ کتنا مجھوں ہے فعل تعجب
 ہے اور شاذ ہے اس لیے کہ یہ مفعول کے معنی
 میں ہے اور فعل تعجب فاعلی معنی میں ہوتا ہے۔
 الْجَنَّةُ وَالْجَنُّ مِنَ الشَّيْبَانِ: آغاز جوانی
 مِنَ النَّبْتِ: گل۔ پھول۔ جَنُّ اللَّيْلِ: رات
 کی تاریکی۔ جَنُّ النَّاسِ: لوگوں کی بڑی
 جماعت۔ کہا جاتا ہے ”لَا جَنُّ هَذَا الْاَمْرِ“
 یعنی اس معاملہ میں کوئی پوشیدگی نہیں۔
 الْجَانُّ (ف) جَنُّ كَاِسْمِ جَجَّ ج جَنَانٌ
 الْجَانُّ: ایک قسم کا سفید سانپ۔
 الْجَنَّةُ: باغ بہشت۔ ج جَنَانٌ وَجَنَاتٌ
 الْجَنَّةُ: پردہ ج جَنُّ (وَالْمَجْنَنُ
 وَالْمَجْنَنَةُ) ہتھیاروں سے بچاؤ کی چیز۔
 دُحَالٌ ج مَجَانٌ اور کہتے ہیں ”قَلْبٌ
 مَجْنَنٌ“ یعنی وہ بے حیا و خود رائے ہو گیا۔
 ”وَقَلْبٌ لَهُ ظَهْرُ الْمَجْنَنُ“ یعنی وہ اس کی
 دوستی سے دشمنی کی طرف پلٹ گیا۔
 الْجَنِيْنُ: قبر میت۔ کفن۔ ج اَجْنَانٌ
 الْجُنَانُ وَالْجُنَانَةُ: دُحَالٌ۔
 الْجَنَانُ: دل۔ رات یا اس کی شدت تاریکی۔

سے مرکب ہو۔ ج جَمَلٌ
 الْجَمَلُ: لوگوں کی جماعت۔
 الْجَمِيْلُ: احسان۔ نیکی۔ کھلی ہوئی چربی۔
 الْجَمَلَاءُ: جڑ بھورت۔ عورت (اس لفظ کے
 لیے اَفْعَلُ کا صیغہ نہیں) جیسے دِيْمَةٌ هَظْلَاءُ
 میں اَهْطَلُ کا صیغہ نہیں)
 الْجَمَانُ: موتی۔ واحد جَمَانَةٌ
 الْجَمَانَاثِيْنُ: ہر قسم کی جسمانی ورزش جو کہ
 جسم کو طاقت و رہا دے۔
 ذَوَاتُ الْجَنَابِيْنِ: کپڑوں کی اقسام۔
 ان میں سے ایک پروں کی سیدھی بناوٹ والے
 اور دوسرے ٹیز می بناوٹ والے۔ سیدھے
 پروں والے ان کے پر آرام کے وقت قریب
 قریب ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ کے پاؤں
 ہوتے ہیں جن کے ذریعے دوڑ سکتے ہیں۔ جیسے
 کڑکی۔
 کچھ ان میں سے جیسے ہوئے پروں والے
 ہوتے ہیں رات کے بعد صبح کو اڑنے کی طاقت
 نہیں رکھتے۔ کچھ حشرات چار پروں والے
 ہوتے ہیں۔
 جَمَهْرٌ جَمَهْرَةٌ الشَّيْءُ: جمع کرنا۔ اکثر
 حصہ لینا عَلَيْهِ الْخَبْرُ: ٹھوڑی سے خبر دینا اور
 مُرَادٌ كُوْجَمًا لِيْنَا (وَتَجَمَهْرُ) الْقَوْمُ: اکٹھا
 ہونا۔ کہا جاتا ہے ”تَجَمَهْرُ عَلَيْنَا“ اس نے
 ہمارے اوپر دست درازگی کی اور حقارت کی۔
 الْجَمَهْوَرِيَّةُ: ریت کا تودہ۔ قوم کے بڑے اور
 اشراف لوگ۔ قوم کی جماعت۔ ہر چیز کا بڑا
 حصہ۔ ج جَمَاهِيْرٌ
 الْجَمَهْوَرِيَّةُ: جمہور کی جانب منسوب نشہ
 آور شراب۔
 الْجَمَهْوَرِيَّةُ: ریپبلک۔ وہ سلطنت یا قوم جو
 اپنا صدر ایک معین مدت کے لیے بناتی ہے۔
 الْمُجَمَهَّرَاتُ: زمانہ جاہلیت کے طبقہ ثانیہ
 کے سات قسیدے جن کا مرتبہ سبع معالقات
 کے بعد ہے۔
 الْحَمَا وَالْحُمَا: ابھرا ہوا چتر۔ جسم کا ابھرا
 ہوا حصہ جیسے پستان۔

الجَوَانِح: پھلیاں۔ (واحد الجانحة)
 جَنْدٌ - الجنود: فوج جمع کرنا۔ کہا جاتا ہے
 "جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ" جمع شدہ لشکر
 تَجَنَّدَ: فوجی سپاہی بننا۔ فوج تیار کر لانا۔
 فارغ ہونا۔
 الجُنْد: لشکر۔ جن جناد و جنود واحد
 (جندی) الجُنْد: شہر۔ جن جناد. السَّام:
 دمشق، حمص، قسریں، اردن اور فلسطین۔
 الجُنْد: سخت زمین۔ پتھر جو مٹی کے
 مشابہ ہو۔
 الجندار: باڈی گارڈ۔ محافظ فوج۔ ج
 جنادرة (جدید)
 جَنْدَرٌ - الكتاب: نئے ہوئے پر قلم پھیر
 کر روشن کرنا۔
 الجُنْدَبُ والجُنْدَبُ: ایک قسم کی بڑی۔
 عوام اسطوط کہتے ہیں۔ جننادب۔
 جَنْدَلَةٌ: بچھاڑنا۔
 الجَنْدَلُ: بڑی چٹان۔ واحد جَنْدَلَةٌ ج
 جنادل۔
 جَنْزَةٌ (ض) بجنزاً: چھپانا۔ جمع کرنا۔
 جَنْزٌ: مرنا اور تابوت میں رکھا جانا۔
 جَنْزٌ - الميت: تابوت میں رکھنا۔
 الجَنْزُ: مٹی کا چھوٹا سا گھر۔
 الجنازة والجنازة: میت۔ میت کا
 تابوت۔ میت کے دفن میں جانے والے۔
 مجلس ماتم۔ شراب کی منگ۔ جننائز۔
 الجنائزی: مردوں کے آگے آگے پڑھنے
 والا۔
 الجنزار والجنزیر: تانبے کا زنگار۔
 (جدید)
 الجنزیر: ٹھیر۔
 جنس (ن) جنسا۔ التمر: بالکل پک
 جانا۔
 جنس (س) جنسا۔ الماء ونحوہ: جم
 جانا۔
 جنسة۔ بہ: مشابہ ہونا۔
 جناسة جناساً ومجانسة: مشابہ ہونا۔

المُجَنَّبُ: بہت خیر ہو یا شر۔ کہا جاتا ہے
 "إِنْ عَنَدْنَا خَيْرًا مُجَنَّبًا وَشَرًّا مُجَنَّبًا"
 ہمارے نزدیک بہت خیر اور بہتر شر ہے۔
 المَجْنَبُ: پردہ۔ ڈھال۔
 الْمُجَنَّبَةُ: فوج کا ہراول۔
 الْمُجَنَّبَاتُ مِنَ الْجَيْشِ: فوج کا سینہ
 و میسرہ۔
 تَجَنَّبَ الرَّجُلُ: غیر قوم میں سے ہونے کا
 دعویٰ کرنا علیہ: تجتبت کرنا۔ مہربانی کرنا
 الطائر: پر پھیلا کر بیٹھنا۔
 الجُنْبِيُّ: عمدہ لوہا۔ تلوار۔ جننبیة: زرہ
 ساز۔
 جَنْحٌ (ف ن ض) جَنْحًا. الیہ: مائل
 ہو لطفینة: کمپانی میں بیچ کر زمین سے لگ
 جاللیل: آنا (ض) بجنحاً الطائر: بازو پر
 مارنا۔
 جَنْحَةٌ: بازو۔ تلر جل: گناہ کی نسبت کرنا۔
 أَجْنَحٌ وَأَجْنَحٌ وَأَسْتَجْنَحُ - الیہ: مائل
 ہونا۔ جھلنا۔
 أَجْنَحَةٌ وَأَسْتَجْنَحُهُ: جھکانا۔
 تَجَنَّبَ وَأَجْتَنَّبَ: ایک پہلو پر جھلنا۔
 الجنج: جانب۔ پناہ۔ کنارہ۔
 الجنج والجنج - من اللیل: رات کا
 ایک حصہ۔ جنج الطريق: راستہ کا کنارہ۔
 الجناح: پرندے کا بازو۔ انسان:
 ہاتھ اور بٹل اور بازو اور پہلو۔ پناہ۔ اور اسی سے
 ہے انافی جناح فلان" میں فلاں کی پناہ
 میں ہوں۔ کنارہ۔ ہر چیز کا ایک حصہ۔ جنج
 وأجنحة کہتے ہیں "رکبوا جناحی
 الطائر" لوگ اپنے وطن سے جدا ہو گئے و
 ركب جناحی النعام" اس نے معاملہ
 میں کوشش کی اور جلدی کی "و هو
 مقفوض الجناح" وہ عاجز ہے۔
 الجناح: گناہ۔ اور اسی سے ہے لا جناح
 علیک" تمہارا کوئی گناہ نہیں۔ چیز کا ایک
 حصہ۔
 الجناح: فا. جانب - جنجوانب

جارُ الجنب: ہمسایہ جو پہلو ہی میں ہو۔
 ذات الجنب: نمونہ۔
 الجنب: س۔ کچھ لگتا ہے۔
 الجنب: غیر فرماں بردار۔ اجنبی۔ مسافر،
 دور، تپاک (راشد شہینہ جن مذکر نمونہ سب
 کے لیے مستعمل ہے) الجار الجنب:
 ہمسایہ جو غیر قوم کا ہو)
 الجنب: گوشہ نشین۔ اجنبی۔ مسافر۔ بیٹھریا
 رجل جنب: مہمانوں کے ڈر سے راستہ میں
 کتر کر چلنے والا۔
 الجنبة: گوشہ نشین۔ جانب۔ الجنبة من
 النبات: ہر وہ جو درخت سے چھوٹا اور بیل
 سے بڑا ہو جنب۔ جنبتا الانف و جنبتاہ
 وجنابتاہ: ناک کے دونوں طرف۔
 الجنبة: وہ چیز جس سے پرہیز کیا جائے۔
 الجناب: فا. غیر فرماں بردار۔ مسافر۔
 گھوڑا۔ جس کے دونوں قدم کا فاصلہ دور ہو ج
 جناب. انسان کا پہلو۔ گوشہ۔ جانب۔ ج
 جوانب. کہا جاتا ہے "هو لکن الجناب"
 وہ میثقت کے لحاظ سے نرم ہے۔ "هو رفیق
 الجناب" وہ لطیف ہے۔
 الجناب: محن۔ گوشہ۔ قوم کے حملہ سے جو
 قریب ہو۔ کہا جاتا ہے "أخصب جناب
 القوم" قوم کا مقام سرسبز و شاداب ہے۔ و
 فلان خصیب الجناب أو جدیہ فلان
 سرسبز ہے یا قط زدہ ہے۔ جنجنبة۔
 الجناب: جانب کا مصدر۔ کہا جاتا ہے
 "فوس طول الجناب" آسانی سے تابع
 ہونے والا گھوڑا۔
 الجناب: نمونہ کی بیماری۔
 الجنوب: دکھن۔ دکھنی ہول۔ جنجاب۔
 الجنیب: نمونہ کی بیماری میں مبتلا۔
 فرما بردار۔ ایک قسم کی عمدہ گھوڑ۔
 الجنیبة: کوتل گھوڑا۔
 الجناب: پہلو میں چلنے والا ساتھی۔
 الاجنب: جنجانب: غیر فرماں بردار۔
 (الاجنب والاجنبی) مسافر۔

جہد: پوری کوشش کرنا۔ ممکن ہونا۔ لاغر ہونا۔
 جہد (س) جہدا - عیشہ: زندگی کا مکر ہونا۔
 جَاهِدْ مُجَاهِدَةً وَجَهَادًا: پوری طاقت صرف کرنا۔ کہا جاتا ہے "جَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ" اللہ کے راستے میں پوری طرح کوشش کرو جیسا کہ کوشش کا حق ہے العُدُو: جنگ کرنا۔
 تَجَاهَدُوا وَاجْتَهَدُوا فِي الْأَمْرِ: کوشش کرنا اور پوری طاقت صرف کرنا۔
 اسْتَجْهِدُوا فِي الْأَمْرِ: غور کرنا۔
 الْجُهْدُ وَالْجَهْدُ وَالْمُجْتَهِدُ: طاقت۔ استطاعت۔ کہا جاتا ہے "بَدَّلْ جُهْدَهُ وَمُجْتَهِدَهُ" اس نے اپنی طاقت صرف کی۔
 مَشَقَّتْ قُرْآنَ مِثْلِهِ: "أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ" انہوں نے بہت زور لگا کر قسم کھائی۔
 الْجَاهِدُ: فاعل خرابی والا۔ کہا جاتا ہے "جَهْدٌ جَاهِدٌ" جیسے "الْبَيْتُ لِأَيْمَانٍ" و "شِعْرٌ شَاعٌ"
 الْجِهَادُ: سخت زمین جس میں پیداوار نہ ہو۔
 الْجِهَادُ: مس دین کی حفاظت اور اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے جنگ۔
 الْجِهَادَانُ: وہ شخص جس کو مشقت لاحق ہو۔
 الْجِهَادُ: جانوروں کی پسندیدہ چراگاہ۔ کہا جاتا ہے "مَرَعَى جِهَادٍ"
 الْجِهَادِيُّ: انتہائی۔ کہا جاتا ہے "جِهَادِيكَ" ان فاعل كذا: "تمہاری انتہائی کوشش ہے کہ تم ایسا کرو۔"
 الْجُهْدِيُّ: کوشش۔ پوری کوشش۔ کہا جاتا ہے "لَا يَلْعَنُ جُهْدِي فِي الْأَمْرِ" میں معاملہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا۔
 جَهْرٌ (ف) جَهْرًا وَجَهَارًا وَجَهْرَةً: الامر وبالامر: اعلان کرنا بالقول: آواز

جَنِي (ض) جَنِيًا وَجَنِيًا: الثمر: درخت سے پھل توڑنا۔ کہا جاتا ہے "جَنِي الثَّمَرَةُ لَهُ وَجَنَاءُ أَيَّاهَا" (جَنِيًا) الذهب: کان سے نکالنا۔ (جَنِيًا) گناہ کرنا۔ صفت (جان) ج جَنَاءُ وَجَنَاءُ وَجَنَاءُ: مؤنث جَانِيَةٌ ج جَوَانٍ وَجَانِيَاتٍ
 أَجْنِي: الشجر: پکنا۔ أَجْنَتِ الْأَرْضُ: زیادہ پھل یا زیادہ پیداوار والی ہونا۔
 جَانِيٌ مُجَانَاةٌ وَتَجَنِي: عليه: ناکردہ گناہ کی نسبت کرنا۔ (تَجَنِي وَاجْتَنِي) الثمر: چننا۔ توڑنا۔ "اجتنی ماء المطر" گھٹ پڑ آکر پانی پینا۔
 الجتنی: چنا ہوا (پھل ہو یا سونا یا شہد وغیرہ) ج أَجْنَاءُ وَأَجْنِي: نمر (جَنِيًا) تازہ چنا ہوا پھل۔
 الجنأة: ہر وہ چیز جو چن جائے۔
 الجنبة: گناہ۔ رشیم کا کینڑا۔
 المجنبي: مصدر رمبی بمعنی چننا۔ چنے کی جگہ جس سے پھل وغیرہ چنا جائے جیسے درخت ج مَجَانٍ
 الجھد: پرکھنے والا۔ دانہ۔ ج جَهَابَةٌ الجھر: شیرنی۔
 جَهَجَهَ: بالسبع: روکنے کے لیے چیخا چلانا۔
 تَجَهَّجَهَ: عنه: باز رہنا۔
 الْمُجْهَجَهَ: شير۔
 جَهْدٌ (ف) جَهْدًا: فِي الْأَمْرِ: بَيْتٌ كُوشِشٌ كَرْنَا بِالرَّجُلِ: اِتِّحَانٌ كَرْنَا: جَهْدُهُ الْمَرَضُ: لِأَعْرَابِ كَرْنَا: جَهْدُ اللَّيْنِ: سَارَا مَكْحَنٌ نَكَالُ لِيْنَا: (وَاجْهَدِ) الطَّعَامَ: خَوَاشِ كَرْنَا: جَهْدٌ وَاجْهَدِ الدِّيَةَ: طَاقَتُ سَ زِيَادَةً لِأَنَّ: أَجْهَدُ الْمَالَ: بِمُحِيرًا: فَا كَرْنَا: أَجْهَدُ الْحَقُّ: ظَاهِرٌ هُوَا: أَجْهَدُ فِيهِ الشَّيْبُ: اِجْبِي طَرَحٌ بُوْهَلَا ظَاهِرٌ هُوَا: أَجْهَدُ فِي الْأَمْرِ: اِصْطِاطٌ كَرْنَا: أَجْهَدُ عَلَيْنَا الْعُدُو: دَخْنِي مِثْلُ كُوشِشٍ كَرْنَا: أَجْهَدُ الْأَمْرُ لَزِيدٌ: مُمْكِنٌ هُوَا۔

ہم جنس ہوتا۔ اور اسی سے ہے "فلان يُجَانِسُ الْبَهَائِمَ" فلاں چوپاؤں کے مشابہ ہے۔ یعنی اسے عقل و تمیز نہیں۔
 تَجَانَسًا: ہم جنس ہونا اور اسی سے ہے "وَمَعَ التَّجَانُسِ التَّنَاسُ" ہم جنس کے ساتھ اُنسیت ہے۔
 الجنس: ماہیت جو انواع متعددہ کو شامل ہو جیسے انسان اور گھوڑے کے لیے حیوانیت۔ قسم۔ ج أَجْنَسُ: جما ہوا لینی۔
 الجنس: اپنے جنس کے اندر اصل۔
 الجنسية: جنس کی حالت یا ماہیت۔
 الجنس: فی البدیعی: علم بدیع کی اصطلاح میں دو کلموں کا کلا یا بعضا مشابہ ہونا۔
 جَنَشٌ (ن) جَنَشًا: اليه: کودنا۔ متوجہ ہونا منہ: گھبرانا۔
 جَنَصٌ: خوف سے بھاگنا۔ بَصْرَةٌ: گھورنا۔
 جَنَصٌ لِنَا: جَنَصٌ الطَّرِيقُ بِالنَّاسِ: تنگ ہونا۔ جَنَصٌ: مرنا۔
 جَنَفٌ (ض) جُنُوفًا وَجِنْفٌ (س) جَنَفًا: عَنِ الطَّرِيقِ: رَاسْتَهُ سَ عَلِمْدَهُ هُوَا (وَاجْنَفْ) فِي وَصِيَّتِهِ: ظَلَمَ كَرْنَا: صَفَتْ (جِنْفٌ وَاجْنَفٌ)
 جَانَفٌ جِنَافًا: أَهْلَهُ: عُصَمَةُ كِي وَجَرَسَ عَلِمْدَهُ هُوَا۔
 تَجَانَفٌ: لِلزَّيْمِ: مَأَلٌ هُوَا عَنِ الطَّرِيقِ: الْكَبُّ هُوَا۔
 الْجِنْفُ: ظَلَمٌ حَقٌّ وَانصَافٌ سَ تَجَاوَزُ۔
 الْأَجْنَفُ: خَمِيدَةٌ پَشْتُ۔ مَوْنَثٌ جِنْفَاءُ ج جِنْفٌ
 الْمُجْنَفُ: طَبِاقٌ سَ اِعْرَاضُ كَرْنَا وَالَا۔
 حَقٌّ (ض) جِنْفًا وَحَقٌّ: الْحَجَرُ: كُوشِشٌ سَ پُھِنَا۔
 الْمُنْجِنِيُّ: كُوشِشٌ فَلَاحُنٌ: لِزَائِي كَا اِيكْ آلِهِ جَسَ سَ پُھِنَا كَرْنَا تَقْتَسِمُ جَ مَجَانِقٌ وَمَجَانِيقٌ وَمُنْجِنِيَاتٌ۔
 الْجِنْكُ: اِيكٌ قِسْمٌ كَا بَابَا جَ جُنُوكُ۔

بلند کرنا الصوت: بلند کرنا الرجل: بے پردہ دیکھنا۔ دیکھنا اور آنکھوں میں بڑا معلوم ہونا۔ تعظیم کرنا القوم: دیکھ کر زیادہ سمجھنا الشئ: کسی چیز کو کھول کر اندازہ کرنا الارض: بغیر جانے بوجھے چلنا الشئ فلانا: بیت و جمال سے حیرت میں ڈال دینا الامر: ظاہر و آشکارا ہونا السقاء: منگیزہ میں پلو گر مکھن نکالنا۔

جہرت (س) جہرا. العین: سورج سے چند ہیاجانا۔

جہر (ک) جہارة. الصوت: بلند ہونا۔ صفت (جہیر و جہر) الرجل: دیکھنے والے کی آنکھ میں بڑا معلوم ہونا۔

جَاهِرَةٌ مُجَاهِرَةٌ وَجَاهَرًا بِالشَّيْءِ: کھلم کھلا ظاہر کرنا بالقراءة: بلند آواز سے پڑھنا القوم بالامر: غلبہ کی کوشش کرنا۔

أَجْهَرَ. الامر وبه: اعلان کرنا بالقراءة: بلند آواز سے پڑھنا الرجل: بھیجنے سچے یا صاحب جمال بچوں کا پاپ ہونا۔

تَجَاهَرَ. بالامر: ظاہر کرنا۔

اجْتَهَرَ. القوم: تعداد میں بیت سمجھنا۔ الرجل: کھلم کھلا دیکھنا اور بڑا سمجھنا البئر: صاف کرنا الشئ فلانا: بیت و جمال سے حیرت میں ڈال دینا۔

الجهر. س: چوڑا ٹیلہ۔ زمانہ کا ایک حصہ۔ تم کہتے ہو "کلمتہ جہرا وبالجمہر" میں نے اس سے کھلم کھلا گفتگو کی۔ "و لقیته جہرا" میں نے اس سے رودر روملاقات کی۔

الجهر: بیت۔ حسن منظر۔ الجہار. س: تم کہتے ہو "لقیته جہرا" میں نے اس سے رودر روملاقات کی۔

الاجہر: سورج کی روشنی سے چند ہیانے والا۔ خوبصورت بیت والا۔ مؤنث (جہراء)

ج جہر. جہور. الصوت: بلند و قوی آواز والا۔ ج جہر. خوبصورت۔ بھلائی اور نیکی کے

لائق۔ من اللین: بے پائی کا دودھ۔ کلام جہیز: بلند گفتگو۔ امراة جہیزہ: بلند آواز والی عورت۔ کہا جاتا ہے ہو عقیف السیرة والجہیزة، وہ ظاہر و باطن کے لحاظ سے پاک دامن ہے۔

الجہوری: بلند آواز کی صفت میں واقع ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے "صوت جہوری" بلند آواز۔ اور بلند آواز والے کو کہتے ہیں۔ "رجل جہوری"

المجهر والمجہار: وہ شخص جس کی عادت بلند آواز سے گفتگو کرنے کی ہو۔

المجهر: (خوروین) Microscope جہز (ف) جہزا وأجہز. علی الجریح: مار ڈالنا۔

جہزة: تیار کرنا۔ مہیا کرنا المیت: کفن دفن کا سامان کرنا العروس: جہیزہ کا سامان تیار کرنا۔

تَجَهَّز. للسفر: سامان مہیا کرنا۔ (واجہاز) للامر: آمادہ ہونا۔

الجهاز والجہاز. للبيت او للمسافر او للعروس: ضروری سامان من جسم الانسان: اعضاء انسانی جن کی کوئی خاص غرض ہو۔ جیسے اعضاء تنفس۔ یا آلات ہضم۔ جہزہ وأجہزات الجہزاء: بلند زمین۔

الجہیز. من الخيل: ہلکا پھلکا۔ موت (جہیز و مجہز): ناہانی موت۔ جہیزہ: ایک عورت کا نام ہے۔ ایک مثل

ہے "قطعت جہیزة قول كل خطیب" اس کا واقعہ یوں ہے کہ کچھ لوگ دو قبیلوں کے درمیان ایک خون کے معاملہ میں صلح کرانے کے لیے تقریر کر رہے تھے تاکہ اولیاء مقتول کو دیت لینے پر راضی کر دیں کہ اتنے میں جہیزہ نے کہا کہ مقتول کے ولی نے قاتل کو پکڑ لیا اور قتل کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ قطعتم جہیزہ قول كل خطیب "یعنی اب دیت اور مقدار دیت کے بارے میں گفتگو کی ضرورت نہیں کہ

قاتل کے قتل کے بعد دیت نہیں۔

جہش و جہش (س) جہشًا و جہوشًا و جہشًا. الیہ: روتے ہوئے یاروانسا ہو کر کسی سے فریاد کرنا۔

جہش (س) جہشًا - منہ: ڈرنا اور بھانکنا۔

أَجْهَش. الیہ: روتے ہوئے یاروانسا ہو کر فریاد کرنا۔ "أَجْهَشَتِ النِّفْسُ" اٹھنا۔ أَجْهَشَةٌ: جلدی کرنا۔

الجَهْشَةُ: آنسو (والجَاهِشَةُ) لوگوں کی جماعت۔

الجَهْشُ: تیز رفتار۔ جَهْشَةٌ (ف) جَهْشًا: غالب ہونا۔ عن كذا: دور کرنا۔ منع کرنا۔

أَجْهَضَ. عن الامر: دور کرنا۔ علیحدہ کرنا ہ عن مكانه: اٹھانا فلانا: پھسلانا۔ أَجْهَضَتِ المرأة: حمل گرا دینا۔ جَاهَضَ: باز رکھنا۔ جلدی کرنا۔

الجاهض: تیز طبیعت۔ مؤنث (جَاهِضَةٌ) جَوَاهِضُ.

الجَاهِضَةُ: گدھے کا ایک سلسلہ مادہ بچہ۔ الجُهْوَضَةُ والجَهْاضَةُ: تیزی طبیعت الجھض والجھض والجھینض: ساقط شدہ بچہ۔

الجَهْاضَةُ: عمر رسیدہ مادہ حیوانات۔ المَجْهَاضُ. من الاناث: اسقاط کی عادت والی عورت۔ من مجاہض.

جہل (س) جہلاً و جہالاً: نہ جاننا۔ اُن پڑھ ہونا علیہ: بیوقوف بننا۔ بیوقوف ہونا۔ اجد پان کرنا۔ صفت (جاہل) ج جہل و جہال و جہلاء و جہل و جہل و جہل و جہل: جہل الحق: ضائع کرنا۔ جہلت القدر: بیت ابلنا۔ جہل: جہل کی نسبت کرنا۔

جَاهَلَةٌ: نادانی میں مقابلہ کرنا۔ بد سلوکی کرنا۔ اور اسی سے ہے "رایث منها مجاہلۃ ثم انقلبت مجاہلۃ" میں نے ان دونوں سے

خوش معاملگی دیکھی پھر وہ بد معاملگی ہو گئی۔

تَجَاهَلٌ: تکلف نادانی ظاہر کرنا۔

اِسْتَجْهَلْتُ: جاہل سمجھنا۔ حقیر سمجھنا۔

”اِسْتَجْهَلْتُ الرِّيحَ العَصْنَ: ہلانا۔

الجَهْلَةُ: نادانی۔

الْجَاهِلِيَّةُ: نادانی کی حالت۔ ملک عرب میں

اسلام سے پہلے کی بہت پرستی۔ جاہلیت کا اطلاق

عرب کے اُن احوال پر ہے جو اسلام سے پہلے

تھے۔

الْجَهْلُولُ: نا تجربہ کار جاہل۔ ج جہلاء۔

المَجْهَلُ والمَجْهَلَةُ: انگاری ہلانے کی

کلڑی۔ کر لینے۔

المَجْهَلَةُ: سبب نادانی۔

المَجْهَلُ: بغیر نشان کا جنگل۔ ج مجاہل۔

المَجَاهِلُ: نادانیاں۔ واحد جہل۔ اور اسی

سے ہے ”اِنَّا لَنَضْفَحُ عَنِ مَجَاهِلِ قَوْمِنَا“

ہم اپنی قوم کی نادانیوں سے درگزر کرتے ہیں

(الفعل المَجْهُولُ): فعل جس کا فاعل

معلوم نہ ہو۔ ناقہ (مَجْهُولَةٌ) بے داغ والی

اونٹنی۔

جَهْمٌ (ك) جَهْمَةٌ وَجَهْمُومَةٌ: ترشو

ہونا۔ توری چڑھانا۔ صفت (جہم)

جَهْمٌ وَجَهْمَةٌ وَجَهْمَةٌ (ف س) جَهْمَا

وَتَجَهَّمُ وَتَجَهَّمُ لَهُ: ترشروی سے پیش

آنا۔ کہا جاتا ہے ”تَجَهَّمَةُ اُمَّلَةٌ“ جبکہ اپنی

آرزو میں کامیاب نہ ہو۔

اَجْهَمٌ: الجَوْ: بے بارش کے بادل والا

ہوتا۔

اِجْتَهَمَ: رات کی آخری چوتھائی کی ابتدا میں

داخل ہونا چلنا۔

الجَهْمَةُ والجَهْمَةُ: رات کے آخری

حصوں کی ابتداء۔ الجَهْمَةُ: بڑی دیگ۔

الجَهْمُ والجَهْمُومُ: عاجز و ضعیف۔

الجَهْمُ: شیر۔

الجَهْمَامُ: بے بارش کا بادل۔

الجَهْمَانُ: زعفران۔

جَهْنُ (ن) جَهْنُونًا: قریب ہونا۔

الجَهْنُ: ترش روئی۔

جَارِيَةٌ (جَهَانَةٌ) نوجوان لڑکی۔

جَهْنَمٌ: دوزخ (غیر منصرف)

جَهْمِي (س) جَهْمًا: البَيْتُ: اُجَارٌ ہونا۔

ویران ہونا۔ صفت (جہا)

جَهْمِي: الجَوْحُ: کشادہ کرنا۔

جَاهِي مَجَاهَاةً: فلانًا: فخر میں مقابلہ

کرنا۔

اَجْهِي اِجْهَاءً: الطريق: واضح ہونا

السماء: بادل کھل جانا علیہ: بجل کرنا

الطريق: واضح کرنا۔ البَيْتُ: بے پردہ بنانا۔

المرأة علی زوجها: حاملہ نہ ہونا۔

الاجْهِي: مَجْجَا (والمَجْهِي) من البيوت:

بغیر چھت والا مکان۔ مَوْنُثُ جَهْوَاءُ: خبَاء

مُجْجِهٌ: بغیر پردے کا خیمہ۔ سَمَاءُ جَهْوَاءُ:

کھلا ہوا آسمان۔

جَاب (ن) جَوْنَا وَتَجَوْنَا: البلاد:

طے کرنا۔ جَابَ الثَّوْبُ جَوْنَا: کاٹنا۔

الصخرة: چٹان کو تراشنا۔

جَابَ (ن) جَوْنَا وَجَوَّبَ: الثَّوْبُ:

گریبان بنانا۔ جَوَّبَ الشَّيْءُ: سچے سے کاٹنا۔

جَاوَبَهُ مَجَاوَبَةً: گفتگو کرنا جواب دینا۔

اِجَابَةٌ اِجَابَةٌ وَاِجَابًا وَاِجَابٌ سؤَالِهِ

وَعَنْ سؤَالِهِ وَالِی سؤَالِهِ: جواب دینا۔ کہا

جاتا ہے ”اِجَابَةُ الِی حَاجَتِهِ“ اس کی حاجت

پوری کرنے کے لیے خوشی سے آگے بڑھا۔

وَاِجَابَتِ الْاَرْضُ: آگانا۔

تَجَاوَبُوا: ایک دوسرے کو جواب دینا۔ باہم

گفتگو کرنا۔

اِنْجَابٌ: الثَّوْبُ: بَطْنًا السَّحَابَةِ: کھل

جانا۔

اِجْتَابَ: البلاد: طے کرنا الصخرة:

چٹان کو تراشنا البئر: کھودنا القميص: پہننا۔

اِسْتَجَابَهُ وَاِسْتَجَابَ لَهُ اِسْتِجَابَةً

وَاِسْتَجَوَبَهُ وَاِسْتَجَوَّبَ لَهُ اِسْتِجَوَابًا

جواب دینا لله فلانًا ولفلان ومن فلان:

دعا قبول کرنا۔

الجَوْبُ: س: عورت کی قمیص۔ بڑا ڈول۔

اَجْبُوْشِي: ج اَجْوَابُ (والمَجْوُوبُ) ڈھال۔

الجَوْبَةُ: گڑھا۔ گھروں کے درمیان خالی

جگہ۔ ج جَوْبُ۔

الجَوْبُ: جواب۔ ج اَجْوَبَةٌ وَجَوَابَاتُ:

الجَابَةُ: قبولیت۔ کہا جاتا ہے ”اَسَاءَ سَمْعًا

فَاَسَاءَ جَابَةً“ اس نے بے طریقے سے سنا

اور بے طریقے سے قبول کیا۔

الجَوَابُ: بَيْتٌ طے کرنے والا۔ حریری کا

قول ہے ”جَوَابُ اَفَاقٍ تَرَامَتْ سَفَرُوتُهُ“

اَفَاقٍ کو طے کرنے والا ہے اس کا سفر اس کو

پھینکتا رہتا ہے۔

الجَيْبَةُ: جواب کی کیفیت۔

الجَانِبُ فَا: جَانِبُ العَيْنِ: شیر۔

الجَانِبَةُ: پھیننے والی خبر۔ کہا جاتا ہے۔ ”هَلْ

عِنْدَكَ مِنْ جَانِبَةِ خَيْرٍ“ کیا تمہارے نزدیک

کوئی ایسی خبر ہے جو ایک شہر سے دوسرے شہر

میں منتقل ہوتے ہوئے تمہارے پاس پہنچی ہو۔

المَجْوَبَةُ: جواب۔

جَوْتُ اَوْ قُتِبْتُ كَلْمًا كَرَامًا اَوْ قُتِبْتُ هِنْدِي:

ہندوستان کی پٹ سن جس سے یورپ اور

ریاں بنائی جاتی ہیں۔

المَجْوُوبُ: ڈھال۔

المَجْوُوبُ: پھاڑنے والا آلہ۔

جَوْتُ (س) جَوْتُوْنَا: اوپر سے بڑے اور نیچے

سے لٹکے ہوئے پیٹ والا ہونا۔ صفت

(اَجْوُتٌ) مَوْنُثُ جَوْتُوْنَا ج جَوْتُ:

الجَوْتُ والمَجْوُوتَاءُ: بکری کا اونچ۔

جَا حَ (ن) جَوْحًا: راہ راست سے ہٹ جانا

جَا حَ جَوْحًا وَجِيَا حَ وَاجَا حَ

وَاجْتَا حَ: جڑ سے اُکھیرنا۔ ہلاک کرنا۔

الجَانِبَةُ: بلا۔ ہلاکت۔ بڑی مصیبت۔ سنا

جانحة: خشک سال۔ ج جَانِحَاتُ وَ

جَوَانِحُ

الاجْوَحُ: کشادہ۔ مَوْنُثُ جَوْحَاءُ: ج

جَوْحُ

الجَوْحُ: تریبوز۔

الجَوْحَةُ: حنّی و مصیبت۔

جَاخ (ن) جَوْحًا و جَوْخًا. السبیل الوادی: کناروں کو بہا لے جانا۔ جَوْحَه:

پھاڑنا۔ اُکھیرنا۔

تَجَوَّخَ: پھاڑا جانا۔ اُکھیرنا۔ تَجَوَّحَتِ البئر: گر جانا القرحة: زخم کا پھشنا اور بہہ

پڑنا۔

الجَوْحُ: اُون کا بنا ہوا کپڑا۔ جَاوَحًا:

الجَوْحَةُ: اُونی کپڑے کا کٹرا۔ گڑھا۔

جَادَ (ن) جَوْدَةٌ و جَوْدَةٌ: عمدہ ہونا۔ لہتا بنانا۔ (و جَوْدٌ و آجودٌ) الفرس: تیز رفتار

ہونا۔

جَادَةٌ (ن) جَوْدًا: بخشش میں غالب ہونا الھوی: غالب ہونا۔ (جَوْدًا) علیہ:

بخشش کرنا۔ صفت جَوَادٌ بالمال: خرچ کرنا بنفسہ: جان دینا۔ کہا جاتا ہے ”اِنِّی لَأَجَادُ

الی لِقَائِكَ“ میں تمہاری ملاقات کا مشتاق ہوں (جَوْدًا و جَوْدًا) العین: بیہت

آنسوؤں والی ہونا المطر: بیہت بارش ہونا۔

ت (جَانَدٌ) ج جَوْدٌ:

جِنْدَتِ الارض: زمیں پر کثیر بارش ہونا۔ جَیْدُ الرَّجُلِ: ہلاکت کے قریب ہونا۔ پیاسا

ہونا۔

جَوْدٌ الشیء: خوبصورت بنانا۔ عمدہ بنانا فی عدوہ: تیز دوڑنا القاری: فن تجوید کے

لحاظ سے پڑھنا۔

جَاوَدَ مُجَاوِدَةً: بخشش کرنے پر فخر کرنے میں مقابلہ کرنا۔

أَجَادَ: لہتا بنانا بالولد: فیاض سچے کا باپ ہونا۔ أَجَادَهُ النَّدَى: کھرے کے دینا۔

(وَأَجُودٌ) الشیء: عمدہ بنانا۔ أَجَادَ الرَّجُلُ: قتل کرنا۔ أَجِنْدَتِ الارض: زمین پر کثیر بارش ہونا۔

تَجَوَّدَ: عمدہ چیز کا انتخاب کرنی صنعتہ: صنعت میں عمدگی سے کام کرنا۔

تَجَاوَدَ القوم: یہ دیکھنا کہ حجت کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔ کہا جاتا ہے ”ہم

تَجَاوَدُونَ الحَدِيثَ“ وہ دیکھتے ہیں کہ حدیث کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔

اِسْتَجَادَهُ: عمدہ سمجھنا۔ اِسْتَجَادَ الامیر: بخشش طلب کرنا۔

الجَاد: باطل۔ کہا جاتا ہے ”وَقَعُوا فِی اِی جَاد“ وہ لوگ باطل میں مبتلا ہو گئے۔

الجَوْدُ: بھوک۔

الجَوْدُ: س۔ الجَوْدُ والمطر الجَوْدُ: بیہت بارش۔

الجَوْدَةُ الجَوَادَةُ: پیاس۔

الجَوَادُ: پیاس کا انتہائی مرتبہ جو باعث ہلاکت ہو۔

الجَیْدُ: عمدہ۔ ج جَیَادٌ و ج جَیَادَاتٌ و جَیَائِدٌ۔ (جَیَائِدٌ اصل میں جَیَائِدٌ ہے۔ واؤ کو ہمزہ سے بدل لیا گیا ہے اور یہ سٹا ہے)

الجَوَادُ: حنی (نر و مؤنث) کہا جاتا ہے رجلٌ جَوَادٌ و امرأَةٌ جَوَادَةٌ۔ ج آجواد و آجوادٌ و آجاوید و جُود و جُودَةٌ و جُودَةٌ و جُودَاءٌ۔ فرس جَوَادٌ: تیز رفتار گھوڑا۔ ج

جَیَادٌ و آجَیَادٌ و آجاوید کہا جاتا ہے ”سَیْرَتْ اِلَیْہِ جَوَادًا“ میں اس کی طرف دوڑتا ہوا چلا۔ ”و سَیْرْنَا عَقبَةَ جَوَادًا و عَقبَتَیْنِ جَوَادَیْنِ و عَقبَابًا جَیَادًا“ ہم دوڑ

کی گھائی یاد گھائی یا گھائیوں پر چلے۔

الجَوَادُ: بڑا فیاض۔

الْأَجُودُ: اسم تَفْصِیل - مؤنث جَوْدَاءُ (خلاف فِیاس) ج جَوْدَةٌ و آجَیَوید۔

الجَیَادِی: زعفران۔

التَجَوُّیْدُ: فی القراءۃ: قواعد فن قرأت کے مطابق پڑھنا۔

التَجَاوُّیْدُ: مفید بارشیں (جمع ہے اس کا واحد نہیں)

رجلٌ او شاعر (مُجید و مُجَوَاد) عمدہ کام کرنے والا مرد۔ جید اشعار کہنے والا شاعر۔

المَجُودُ: پیاسا۔ قریب ہلاکت۔

جَارٌ (ن) جَوْرًا: عن الشیء: ہٹ جانا۔ کہا جاتا ہے ”جَارٌ عن الطریق“ وہ

راستہ سے ہٹ گیا علیہ: ظلم کرنا۔ صفت (جَانِبٌ) ج جَوْرَةٌ و جَوْرَةٌ و جَوْرَةٌ و جَوْرَةٌ: ظلم کی طرف منسوب کرنا۔ پھاڑنا۔

جَوْرُ البِنَاءِ: گرا دینا۔

جَاوَزَ مُجَاوِرَةً و جَوَارًا و جَوَارًا: پڑوس میں رہنا۔ المَسْجِدُ: اعتکاف کرنا۔

أَجَارَهُ إِجَارَةً من العذاب: بچانا۔ چھڑانا۔ پناہ دینا۔ فَلَانًا: فریاد سی کرنا۔ ہ عن کذا: ہنا دینا۔ المتناع: حفاظت کے لیے برتن میں رکھنا۔

تَجَوَّرَ الرَّجُلُ: پھاڑا جانا علی الفرائش: پہلو پر لیٹنا۔ البِنَاءُ: گرا جانا۔ کہا جاتا ہے ”تَجَوَّرَ خِباءُ اللیل“ یعنی تاریکی چھٹ گئی۔

تَجَاوَزَ و اِجْتَوَزَ القوم: ایک دوسرے کے پڑوس میں رہنا۔ اِسْتَجَارَ فَلَانًا و بید: فریاد سی چاہنا۔ پناہ لینا۔ اِسْتَجَارَهُ من فَلَانٍ: پناہ چاہنا۔ اِسْتَجَوْرَةَ: ظالم پناہ۔ الجَوَارُ: بیہت گہرا پانی۔ الجَوَارُ: کسان۔ الجَوَارُ: پڑوس۔ کہا جاتا ہے ”اَقَامَ فِی جَوَارِهِ“ اس نے اس کے پڑوس میں اقامت کی۔ امان و ذمہ داری۔ کہا جاتا ہے ”ہو فی جَوَارِی“ وہ میرے امن اور ذمہ داری میں ہے۔

الجَارُ: پڑوسی۔ پناہ دینے والا۔ پناہ لینے والا۔ جَبْرَانٌ و جَبْرَانٌ و جَوَارٌ و اِجْوَارٌ و (جَارُ النہر) نیلوفر کے مشابہ ایک قسم کی نباتات۔

الجَازَةُ: پڑوس۔ بیوی۔ سوکن۔ ج جَارَاتٌ

الجَازِی: ظالم۔ بڑا ڈول۔ الجَوْرَمُ: س۔ ظلم۔ الجَوْرُ: من الغیث: بیہت کڑک والی بارش۔ مال جَوْرٌ: بیہت مال۔ بَارِلٌ جَوْرٌ: زور سے بلبلانے والا اونٹ۔

المُجَوَّرُ: گہرا۔
جَارُ النَّهْرِ: پانی میں پیدا ہوئی ہوئی۔
جَوْرِيَّةٌ: پائتاپہ پہنانا۔
تَجَوَّرَبَ: پائتاپہ پہننا۔

الجَوْرَبُ: پائتاپہ۔ ج جَوَارِبُ
وَجَوَارِيَةٌ: عوام الککسة اور القلشينة
کہتے ہیں۔

الجَاوِزُ: باجرہ۔

جَاوَزَ (ن) جَوَزًا وَجُوْزًا وَجَوَاوِزًا وَ
مَجَاوِزًا. المَكَانَ وَبِالمَكَانِ: چلنا
المَكَانَ: گزر جانا البیع: بیچ کا پورا ہونا۔
(جَوَاوِزًا) الامْرُ: جَاوَزَ ہونا۔ کہا جاتا ہے
”جَاوِزًا لَهٗ اِنْ یَفْعَلُ كَذَا“ اس کے لیے ایسا
کرنا ممکن ہے الدرہم: راجع ہونا السہم
الی الصید: شکار سے ہٹ کر نکل جانا عن
الصید: شکار کو چھید کر نکل جانا۔

جَوَّزَ. الامْرُ: جَاوَزَ شَمْرًا۔ الحِکْمَ: جَاوَزَ
بِحِکْمَتِهِ۔ رَايَةً: جَارِي کرنا الایلی: آگے سے
ہاتھ پھیرنا یہاں تک کہ سب گزر جائیں۔

الدرہم: راجع کرنا۔

جَاوَزَ. المَكَانَ: آگے بڑھ جانا عن
الذنب: درگزر کرنا الرجل: اجازت دینا۔

أَجَاوَزَ إِجَاوَزَةً. الشَّيْءُ: جَاوَزَ کرنا الراي:
نافذ کرنا الرجل: اجازت دینا۔ أَجَاوَزَهُ
بِالفِ دَرَهْمٍ: العام بِنِجْمَانِ اسْمِهِ: نام کا
ٹھکانا۔ الموضع: آگے بڑھ جانا۔

القاضي البیع: نافذ کرنا۔ أَجَاوَزَهُ العقبه
مُحَالً سے زائد دینا۔

تَجَوَّرَبَ. فی الامْرُ: برداشت کرنا۔ چشم
پوشی کرنا۔ فی الصلاه: اختصار کرنا۔ فی
تھوڑی چیز پر اکتفاء کرنا۔ عنہ: چشم
کھانا۔ پوشی کرنا۔ معاف کرنا۔ فی الکلام: مجاز بولنا

الدرہم: کھونے قبول کر لینا۔
تَجَاوَزَ. عنہ: چشم پوشی کرنا اور معاف
کرنا۔ فی الشیء: افراط کرنا۔

إِجْتَاوَزَ: چلنا۔ بِالْمَكَانِ: گزرنا۔ من
مکان الی آخر: عبور کرنا۔

إِسْتَجَازَ إِسْتَجَازَةً: اجازت طلب کرنا
الامرُ: جَاوَزَ بھننا۔

الجَاوِزُ: فَا نَا فِذ۔ رواج مباح۔ دود پورا دون
کے اوپر رکھی ہوئی لکڑی۔ ج جَوَانِزُ
وَجُوْزَانُ وَجِيْزَانُ وَأَجُوْزُ وَأَجُوْزَةٌ.

الجَاوِزَةُ: الجَاوِزُ کا مؤنث۔ عطیہ۔ العام۔
پالی کا ایک ٹھونٹ۔ ج جَوَانِزُ جَوَانِزُ
الاشعار والامثال: وہ اشعار یا کہات جو
ایک شہر سے دوسرے شہر تک پھیل جائیں۔

الجَوِزُ: س: اخروٹ کا درخت۔ اخروٹ۔
واحد جَوِزَةٌ. الجَوِزَةُ: پالی کی ایک مرتبہ
پینے کی مقدار۔

جوز ہندی: ناریل۔

جَوِزُ. الشیء: چیز کا دسط اور اکثر حصہ۔ کہا
جاتا ہے ”قَطَعُوا جَوِزَ الفَلَاةِ“ انہوں نے
جنگل کا بڑا حصہ طے کر لیا۔ ”مَضَى جَوِزُ
اللیل“ رات کا بڑا حصہ گزر گیا۔ نَا جَوَاوِزَ
الجَوَاوِزِ: آسمان کے ایک برج کا نام کالی
کبریٰ جس کے وسط میں سفیدی ہو۔

الجَوَاوِزُ: س: پروانہ راہداری۔ عوام اس کو
تذکرہ السفر یا الیسا بوسط کہتے ہیں۔
ج جَوَاوِزَةُ: پالی کی اتنی مقدار جس کو مسافر
اپنے ساتھ لے اور دو چشموں کے درمیان کافی
ہو۔

الجَوَاوِزُ: بیاس۔

الجَوِزَةُ: کنارہ۔ گوشہ۔ وادی کا کنارہ۔ پالی کی
ایک مرتبہ پینے کی مقدار۔ ج جَوِزُ وَجِزُ.

الإِجَاوِزَةُ: اذن۔ اجازت عند المحدثین:
روایت کی اجازت لفظاً یا کتابتاً۔

الإِجَاوِزَةُ: اَللِّیْسَانُ. سندی بے کی ڈگری
محمدین کے نزدیک حدیث کو زبانی یا تحریری
روایت کرنے کی اجازت۔

المُجَاوِزُ: یعنی جس کو کسی کام کرنے کی اجازت
دی گئی ہو۔

جیسے مُجَاوِزٌ فِی الحُقُوقِ وَ مُجَاوِزٌ فِی
الأَدَبِ یعنی حقوق و آداب کا اجازت نامہ
حاصل کرنے والا۔ اسی کو فرانسسی میں

”الیاس“ بولتے ہیں۔

المُجَاوِزُ: لفظ جو اپنے موضوع لہ کے علاوہ
کسی دوسرے معنی میں کسی مناسبت سے استعمال
کیا جائے۔ (والمُجَاوِزَةُ) راستہ۔ مُجَاوِزَةُ
النہر: پل۔ المُجَاوِزَةُ: ہیئت اخروٹ والی
زمین۔ کہا جاتا ہے ”ارض مجازة“

جَوِزُ القُوْعَلِ: مندی بھور کی ایک قسم۔
جَوِزَةُ العُنُقِ: گردن کے شروع ایک زخم ابھرا
ہوا۔

المُجِيزُ: فَا. ولی. امور یتیم کا منتظم۔ غلام
جس کو تجارت کی اجازت دی گئی ہو۔

مِجَوِزُ: دوکانوں والا آلہ موسیقی

جاس (ن) جَوَسًا وَاجْتَسَا اجْتِسَا.
الشَّيْءُ: ہیئت اشہاک سے تلاش کرنا۔

(جَوَسًا وَجَوَسَاتًا) القوم بین البيوت
والدور: گھروں کے درمیان فساد پھیلانا اور
ان کے اندر مال متاع کو ڈھونڈنا۔

جاسا: دشمنی کرنا۔

الجَوَّاسُ: قوم کے درمیان فساد پھانے والا
شیر۔

جَوَسَةُ الناظرِ فی الخ: نمٹکی۔

الجَوَّاسِقُ: ج جَوَّاسِقُ وَ
جَوَّاسِقُ.

جاش (ن) جَوَّشًا: پوری رات چلنا۔

تَجَوَّشَ. اللیل: کچھ حصہ گزر جانا فی
الارض: داخل ہونا۔

الجوش: س۔ سینہ۔ کہا جاتا ہے ”مضی
جوش من اللیل“ رات کا اگلا حصہ یا کچھ حصہ
گزر گیا۔

الجوشن: سینہ۔ زرہ من اللیل: رات کا
وسط یا بتالی حصہ۔ ج جَوَّاشِنُ.

جناط (ن) جَوَّطًا وَجَوَّطَانًا: تکبر سے
چلنا۔

جَوَّطٌ: زنج ہونا بے صبر ہونا۔ (وَجَوَّطٌ):
کو کھٹش کرنا۔

الجَوَّاطُ: تک دلی۔ بے صبری۔

الجَوَّاطُ: تکبر سے چلنے والا۔ اجڈ۔ ہیئت

پھیر دینا مِنْهُمْ جَوْلًا: پسند کرنا اَمَوَالَهُمْ: لے جاتا۔

اِنْبَاجًا: الغبار: بلند ہونا اور پھیلانا۔
اِسْتِجَالًا اِسْتِحَالَةً: اَمَوَالَهُمْ: لے جاتا۔
اَلْجَوْلُ: جس: گھوڑوں یا چوہوں کا گلہ۔ رستی۔
ج اَجْوَالُ (وَالْجَوْلُ) مٹی جس کو ہوا سطح زمین پر ادھر ادھر کرے۔

اَلْجَالُ وَالْجَوْلُ: قبر یا کنوئیں کی دیوار پہاڑ کا پہلو۔ جَوْلُ القبر: قبر کا ارد گرد۔ کہا جاتا ہے "مالہ جَالٌ او جَوْلٌ" اس کا پختہ ارادہ نہیں ج جَوَالٌ و جَوَالٌ و جَوَالَةٌ و جَوَالَةٌ و اَجْوَالٌ۔

اَلْجَوَالَةُ: من الشئ: چیز کا بہتر حصہ۔
اَلْجَوْلَانُ وَالْجَوْلَانُ: مٹی جس کو ہوا ادھر ادھر کرے۔

اَلْجَوْلَانُ: س۔ مال کا چھوٹا اور ردی حصہ۔
جَوْلَانُ اَلْهَمُومِ: غم کی ابتدا۔
اَلْجَوَالُ وَالْجَوَالَةُ: بیٹ پکر لگانے والا۔
کہا جاتا ہے "ہو جَوَالَةٌ جَوَابَةٌ" وہ بیٹ زیادہ پکر لگانے والا ہے۔ اور مقامات کو طے کرنے والا ہے۔

اَلْاَجْوَالُ: اسم تفضیل۔ یوم اَجْوَالُ: بیٹ غبار کا دن۔

اَلْاَجْوَالِيُّ: بیٹ پکر لگانے والا گھوڑا۔
اَلْمَجَالُ: پکر لگانے کی جگہ۔
اَلْمَجْوُولُ: ڈھال۔ بازیب۔ تعویذ۔ ہار میں چاندی کا ہلال۔ کرتی۔ گور خر۔ چاندی۔ کڑی کا بڑا پیالہ۔ تالاب۔

اَلْمُسْتَجِيلُ: بیوقوف۔
جَامُ (ن) جَوْمًا: اچھی یا بری چیز کا طلب کرنا۔

اَلْحَامُ: پیالہ۔ ج حَامَاتُ و اَجْوَامُ و اَجْوَمُ و جَوْمُ۔
اَلْجَوْنِمَةُ: جام کی تغیر۔
جَانُ (ن) جَوْنًا: کالا ہونا۔

تَجْوَنُ: باب العروس: دلہن کے دروازہ پر سفیدی پھیرنا۔ باب المیت: سیاہ کرنا۔

مَوْنٌ جَانِفُهُ: اَلْجَانِفَةُ: نیزہ کی مار جو جوف تک پہنچے۔ ج جَوَانِفُ۔

اَلْاَجْوَفُ: کھوکھلا۔ کشادہ جوف والا۔ مَوْنٌ جَوْفَاعٌ جَوْفُ: "اَلْجَوْفَاءُ مِنَ الدَّلَاءِ" کشادہ ڈول من القضاء او المشجر: اندر سے کھوکھلا۔ اَلْفَعْلُ اَلْاَجْوَفُ: وہ فعل جس کا عین کلمہ حرف علت ہو۔ جیسے قال، باع، خاف اَجْوَفُ: بڑا اثر۔

اَلْمَجْوُوفُ: بڑے جوف والا۔
اَلْمَجْوُوفُ: کھوکھلا۔ رجل (مَجْوُوفٌ و اَجْوُوفٌ و مَجْوُوفٌ): بزدل۔
اَلْمُسْتَجَوِّفُ: کشادہ جوف والا۔
اَلْجَوَّافُ: ایک قسم کی مچھلی۔

جَوْفُ اِلْتِخَافٍ اِلْتِخَافًا: کو بذر یہ طیارہ منتقل کرنا۔
جَوْقُ (س) جَوْقًا: الوجہ: نیزھے منہ والا ہونا۔ صفت (اَجْوَقُ و جَوْقُ) مَوْنٌ جَوْقًا ج جَوْقُ: جمع کرنا علیہ: شور مچانا۔

تَجَوَّقُوا: اکٹھا ہونا۔
اَلْجَوَّقُ: ج اَجْوَاقُ و (اَلْجَوَّقَةُ) لوگوں کی جماعت۔

اَلْاَجْوَقُ: موٹی گردن والا۔ اَجْوَقُ اَلْفُلُّ: جگھے ہوئے جڑے والا۔

اَلْمَجْوَقُ: نیزھے جڑوں والا۔
جَالُ (ن) جَوْلًا و جَوْلًا و جَوْلًا و جَوْلَانًا و جَبَلَانًا و جَوْلًا تَجْوَالًا: فی اَلْمَكَانِ: پکر لگانا۔ گھومنا۔ جَالُ الشَّيْءِ: پسند کرنا۔ جَالُ القَوْمِ جَوْلَةٌ: نکلت کھانے کے بعد حملہ کرنا۔ جَوْلُ اَلْاَرْضِ: زمین میں بہت پکر لگانا۔

جَوَالَةٌ مَجْوَالَةٌ: ایک دوسرے کو دھتکارنا۔ ایک دوسرے کو ہٹانا۔
اَجَالُ: الشَّيْءُ و بِالشَّيْءِ: گھمانا۔
اَلسَّيْفُ: تلوار سے کھیلنا اور ادھر ادھر گھمانا۔
تَجَاوَلُ: القَوْمُ فِي الحَرْبِ: ایک دوسرے کے مقابلہ میں پکر لگانا۔

اِجْتَبَالَ اِجْتَبَالًا: گھومنا القَوْمِ: ارادہ سے کھانے والا۔
اَلْجَوَّاطَةُ: بمعنی جَوَّاطٌ۔ تا مبالغہ کے لئے ہے۔
جَاعُ (ن) جَوَّاعًا و مَجَاعَةً: بھوکا ہونا۔
صفت (جَوَّاعٌ و جَوَّاعَانٌ) مَوْنٌ جَوَّاعَةٌ و جَوَّاعِيٌّ ج جَوَّاعٌ و جَوَّاعٌ: مشتاق ہونا۔
جَوَّاعٌ تَجْوِيعًا و اَجَاعَةً اِجَاعَةً: بھوکا رکھنا۔ خوراک روکنا۔ کہا جاتا ہے "اِجَاعٌ قَدْرَةٌ" اس نے اس کی ہانڈی کو نہیں بھرا۔
تَجْوَعُ: تکلف بھوکا ہونا۔
اِسْتِجَاعٌ اِسْتِجَاعَةً: ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا۔ کسی چیز کو کھانا اور سیر نہ ہونا۔
اَلْجَوَّاعُ و اَلْمَجَاعَةُ: بھوک۔ اَلْجَوَّاعُ اَلْکَلْبِيُّ او اَلْجَوَّاعُ اَلْبَقْرِيُّ: معدہ کی ایک بیماری کا نام جس میں آدمی شکم سیر نہیں ہوتا اور گر ہو جاتا ہے تو جلدی بھوک لگ جاتی ہے۔ اور کہا جاتا ہے "عَامٌ مَجَاعَةٌ او مَجْوَعَةٌ" بھوک کا سال۔ ج مَجَاوِعُ۔
اَلْجَوَّاعَةُ: اسم مرقہ۔ قبیلہ کا خالی ہونا۔
جَوْفُ جَوْفًا: کھوکھلا ہونا۔
جَوَّافَةٌ (ن) جَوْفًا: گہرا کرنا ہ بالطنعہ: جوف میں نیزہ مارنا۔
اَجَافَةٌ: الطَّعْنَةُ و بِاَلطَّعْنَةِ: جوف میں نیزہ مارنا اَلْبَابُ: بھیڑ دینا۔
جَوْفُهُ: کھوکھلا کرنا۔ گہرا کرنا۔ جوف میں سے سب کچھ نکال لینا۔
تَجْوُوفٌ: کھوکھلا ہونا۔ (تَجْوُوفُهُ و اِجْتَوَّافُهُ) جوف میں داخل ہونا۔ کہا جاتا ہے "اِجْتَوَّافُ الوَحْشِيِّ كُنَاسَهُ و تَجْوُوفُهُ" وحشی جانور اپنے بھٹ میں داخل ہو گیا۔
اِسْتِجَافٌ و اِسْتِجْوُوفٌ اِسْتِجَافَةً: الشَّيْءُ: کشادہ ہونا۔ الشَّيْءُ: کھوکھلا پانا۔
اَلْجَوَّافُ: جس۔ پیٹ من البیت: اندرونی حصہ۔ ج اَجْوَافُ۔
اَلْجَوَّافُ: س۔ کشادگی۔
اَلْجَوَّافُ: فا۔ جوف تک پہنچنے والی چیز۔

و صادق جَبَبُ الارض: زمین میں داخل ہونے کی جگہ۔ ج جُبُوب۔

الجَبَبُ والْحَبَبَةُ عند العوام: تھلی۔ پاکٹ۔ ج جِبَاب۔

جَا حَ يَعْبُجُ جَبِيحًا: السبيل الوادي: کناروں کو بہا لے جاتا۔

جَادَ وَجَيْدًا يَجَادُ جَيْدًا: خوبصورت اور لمبی گردن والا ہونا۔ صفت (أَجِيدٌ) مؤنث

جَيْدَاءُ وَجَيْدَانَةٌ: ج جُبُود: اور بھی جید گردن کی صفت میں بھی واقع ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے

”عنق أجيد“

الجيد: گردن۔ ج آخِيَادُ وَجُيُود.

جَبْر: الحوض: جج کرنا۔

جَبْر: حرف ايجاب بمعنى نعم۔ یعنی ہاں۔

الجينون: جج۔

الجِيَار: بے بجا چونہ۔ (والجائز) غصّہ یا

بھوک کی وجہ سے سینہ کی سوزش۔ حوض

(مَجْبَرٌ) جج کیا ہوا حوض۔ گہرا حوض۔

جَاشَتْ (ض) جَبِيحًا وَ جَبِيحَانًا وَ

جَبِيحًا: القُدْرُ: أُلْبَطُ البحر: جوش مارنا

الصدر: غصّہ سے جوش میں آنا۔ الحرب

بَيْنَهُمْ: كَمْسَانِ کی جگ شروع ہونا۔ العين:

آنسو بہانا۔ الوادي: موج مارنا۔ الميزاب:

پرنا۔ کا خوب اچھی طرح بہہ پڑنا۔ النفس:

جی متلانا۔ نفس الجبان: بھاگنے کا ارادہ

کرنا۔

جَبِيحٌ: الجُبُوش: فوجوں کو جمع کرنا۔

تَجَبَّشٌ: القوم: اٹھا ہونا۔ تَجَبَّشَتْ

نفسه: جی متلانا۔

اِسْتَجَاشَ: الجَبِيحُ: جمع کرنا۔ الامير:

امیر سے مدد اور لشکر طلب کرنا۔ القوم: مدد

دینے پر راہنمائی کرنا۔

الجائشة: نفس۔

الجَبِيحَةُ: جاش کا اسم مرۃ۔ ج جَبِيحَات.

الجَبِيحُ: سر لشکر۔ ج جَبِيحُوش.

الجَبِيحُ: ایک قسم کی لمبی بانٹات کا نام ہے۔

الجَبِيحُ: متحرک و مضطرب۔

الجَوْهَةُ: منگ کا پیوند۔ زمین کا سخت کھلا۔ پہاڑ وغیرہ کا گڑھا۔ لوہے کا رنگ۔ گندم گوں رنگ۔

جَوِيٌّ (س) جَوِيٌّ: عشق یا غم کی وجہ سے جلن لاحق ہونا الماء: بدبودار ہونا۔ الشَّيْءُ: ناپسند کرنا۔ جَوِيثٌ نفسه من البلد وعن البلد: ناموافق ہونا۔

جَاوِيٌّ مَجَاوَاةٌ: بالابل: پانی پر بلانا۔

اجْتَوَى: البلد: اقامت ناپسند کرنا۔

(واِسْتَجَوَى) الطعام: ناپسند کرنا۔

الجَوِيٌّ: غم یا عشق کی وجہ سے سوزش

سینہ کا ایک مرض۔ مرض کی طوالت۔ بتلائے

سوزش عشق۔

الجَوَاءُ: كشاده وادی۔ زمین کا اندرونی حصہ۔

چرواہے کا تھیلا۔ وہ چیز جس پر ہانڈی رکھی

جائے۔

الجَوِيٌّ: بدبودار۔ عاشق۔ بتلائے سوزش

عشق۔

الجَوِيٌّ: تنگ دل مؤنث جَوِيَّة.

الجَبِيَّةُ: پانی وغیرہ جبکہ بدبودار ہو جائے۔ پانی

جمع ہونے کی جگہ۔ ج جَبِيٌّ.

جَاءَ يَجِيءُ وَيَجُوءُ مَجِيئًا وَمَجِيئَةً

وَجِيئًا وَجِيئَةً: آنا۔ بہ۔ لانا۔ جَاءَ هُ وَجَاءَ

اليه: آنا۔ الشَّيْءُ: کرنا۔ صفت (جاءِ)

مؤنث جَانِيَّة

جَاأَنِي وَجَايَأَنِي فَجَنَّتْ: کثرت آمد میں

مقابلہ کرنا۔

أَجَاءَ هُ: لانا۔ آنے کو لازم و ضروری

ظہرانا۔

أَلَجِيَّةُ: سر ایک مرتبہ کی آمد۔ پیپ و خون۔

کھرا جس سے جوتہ پوند لگایا جائے۔

الجَبِيَّةُ: آنا۔ ج جَبِيَّات.

جَبَابُ (ض) جَبِيئًا: البلاد: طے کرنا۔

القَمِيصُ: گریبان بنانا۔

جَبَبُ: القَمِيصُ: گریبان بنانا۔

الجَبَبُ: من القَمِيصُ: گریبان۔ دل

وسید۔ کہا جاتا ہے ”ناصح الجَبَبُ“ امین

الجَوْنُ: سر۔ سفید۔ سیاہ۔ سرخ خالص سبزی جس کی سبزی سیاہی مائل ہو۔ دن من الخيل والابل: بیٹھ کالا۔ ج جَوْن.

الجَوْنَةُ: غروب کے وقت کا آفتاب۔ تار

کول ملا ہوا منگ۔ کولم۔

الجَوْنَةُ: چمڑے سے منڈھی ہوئی ٹوکری۔

ج جَوْن.

الجَوْنَاءُ: آفتاب۔ ہانڈی۔ سیاہ اونٹنی۔

الجَوْنِيُّ: قظا پرندہ کی ایک قسم جس کا سینہ

اور بازو کالا ہوتا ہے۔

جَاهُ (ن) جَوْهًا: الرجل بالمكروه:

ناپسند طریقہ سے پیش آنا۔

جَوْهَةٌ تَجْوِيئُهَا وَأَجَاهَةٌ إِجَاهَةٌ: صاحب

مرتبہ بنانا۔

تَجْوَةٌ: بڑا ہونا۔ تکلف بڑانانا۔

الجَاهُ وَالْجَاهَةُ: قدر۔ شرف۔ بلندی۔

مرتبہ۔

الجَوْهَرُ: وہ چیز جو قائم بالذات ہو اور محل کا

مخالف نہ ہو۔ اس معنی میں یہ عرض کا مقابل

ہے۔ ہر وہ پتھر جس سے مفید چیز نکالی جائے۔

واحد (جَوْهَرَةٌ) ج جَوَاهِر. جوہر

الشمس: چیز کی اصلیت۔ جوہر السيف:

تلوار کا جوہر۔ الجوہر الفرد: وہ چیز جو

قابل انقسام نہ ہو۔ الجوہر العلویة:

افلاک۔ ستارے۔ ارواح۔

الجَوْهَرِيُّ: جوہر کی جانب منسوب۔ لازم و

ضروری۔ اس معنی کے لحاظ سے اس کا مقابل

عرضی ہے۔ جوہر کا بنانے والا اور پیچھے والا۔

جَوِيٌّ تَجْوِيَّةٌ: السِّقَاءُ: منگ میں پیوند

لگانا۔

الجَوُّ: آسمان وزمین کا درمیانی حصہ۔ کشادہ

ولای۔ کشادہ میدان۔ جَوُّ البَيْتِ: گھر کا

اندرونی حصہ جَوُّ الماء: زمین کا وہ حصہ جو پانی

کے لیے کھودا جائے۔ جَوُّ كَلِّ شَيْءٍ:

اندرونی حصہ۔ ج جَوَّاءُ وَأَجْوَاءُ.

الجَوَّائِيُّ: جَوُّ کی جانب منسوب۔ اس کا

نقیض بُرَائِيُّ ہے۔ دیکھئے لفظ بُرَائِيُّ۔

جَاضٌ (ض) جَيْضًا وَجَيْضٌ تَجِيضًا.

عنه: مخرف ہونا۔ ہٹ جانا۔

جَائِضَةٌ: فخر کرنے میں مقابلہ کرنا۔

الجَيْضَةُ: دائیں بائیں جھکاؤ۔

الجَيْضُ وَالْجَيْضِيُّ: تکبر و غرور کی چال۔

جَاظٌ (ض) جَيْظَانًا: چلنے میں تکبر کرنا۔

مفت (جِيَاظ) بحملہ: بوجھل چلنا۔

الجَيْعَرُ: بچو۔

الجَيْعَمُ: بھوکا۔

جَاظٌ (ض) جَيْفًا وَجَيْفَتٌ وَتَجَيَّفَتُ

وَاجْتَاظَتْ وَأَنْجَاظَتْ. الْجَيْثَةُ: بدودار

ہونا۔

الجَيْفَةُ: میت کا بدودار جشہ۔ ج جَيْفٌ

وَأَجْيَافٌ.

الجَيْفَرُ: قوی شیر۔

جَيْفَلٌ: نام ماہذی القعدہ۔

الجَيْبِلُ: لوگوں کا ایک گروہ۔ صدی۔ ایک

زمانہ کے لوگ۔ ج آجِبَالٌ وَجَيْلَانٌ.

الجَيْلَمُ: چاند۔

الجَيْهَرُ: ایک قسم کی مٹی۔

الجَيْهَلُ وَالْجَيْهَلَةُ: انکارہ ہلانے کی

کڑی۔ کر پٹی۔ صَفَاةٌ جَيْهَلٌ: برا پتھر۔


الْجَوْدِيَّةُ (یونانی لفظ) زمین کی پیمائش کا علم

الْجَيُولُوجِيَا: زمین کے طبقات اس کی طبی

مابیت کے اسباب کا علم۔

الجَيْمُ: حروف ہجاء کا پانچواں حرف۔ (نذ کرو

•: نث) ایک قسم کا ریشمی کپڑا۔



المُحِبِّ : فَاكْهَاجَاتَاہے "امراة محبة لزوجها و محبة لہ"
حَبَّجَه (ش) حَبَّجَا. بالعصاء: لا تضحى
سے مارنا۔ (واَحْبَج) الامر: اچانک ظاہر
ہونا۔ قریب ہونا۔ ظاہر ہونا۔

حَبَّج (س) حَبَّجَا و حَبَّج (ف)
حَبَّجَا: سو بے ہوئے پیٹ والا ہونا۔ صفت
(حَبَّج)

الحَبَّج. س۔ بیگنیاں جو سدہ کی شکل میں ہو
جائیں۔ اونٹ کی کمر کا داغ۔

حَبَّج حَبَّجَة. الماء: پانی کا آہستہ
بہنا۔ النار: آگ جھڑکنا۔

الحَبَّجَاب: پست قد۔ بدنما۔ بد شکل۔
حَبَّجَاب.

الحَبَّجَاب و اُمُّ حَبَّجَاب: جگنو۔ وہ چیز جو
جگنو کی دم میں آگ کی مانند دکھلائی دے۔ اور
اسی سے نازُ الحَبَّجَاب ہے جس کو ضعف و
کمزوری میں بطور مثل کے استعمال کرتے ہیں۔
نازُ الحَبَّجَاب: چنگاری جو گھوڑے کے سم
سے پتھر وغیرہ پر ٹھوکر گرنے سے نکلے۔

المُحَبَّب: بد غذا۔
الحَبَّجَابَة: تربوز۔ حَبَّجَاب.

حَبَّجَا. حَبَّ اور ذَا، اسم اشارہ سے مرکب
کلمہ ہے جو بدح کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور
ہر صورت میں یہی صیغہ بولا جاتا ہے۔

(حَبَّجَة) کسی سے "حَبَّجَا" کہنا۔
حَبَّج: بیچ بطور دوائی پینے کے برابر گولی بنانا اس

(۲) بھ کے برابر ایک وزن کا نام۔ دینار کا
سولہواں حصہ۔ الحَبَّجَة الخَضْرَاء: تن (ایک
دوا کا نام) الحَبَّجَة السَّوْدَاء: کھوٹھی۔
المَحَبَّة: مرغوب چیز کی طرف طبیعت کا
میلان۔

الحَبُّ. س: دوست۔ عاشق۔ محبوب۔ ح
أَحْبَاب و حَبَّان و حَبَّيَّة و حُبُّ و حُبُوبٌ.
الحَبُّ. س: بڑا گھڑا یا منگلا۔ ح حَبَاب و
حَبَّيَّة و أَحْبَاب.

الحَبَّة: انگور کا بیج۔ معشوق۔ معشوقہ۔ ح
حُبِّ. کہا جاتا ہے "هَذَا حُبُّكَ" یہ وہ چیز
ہے جس کا دل جانا تمہیں محبوب ہے۔ "و نَعْم
و حُبَّة و كَرَامَةٌ" جیسا کہ کہا جاتا ہے "حَبَّأ
و كَرَامَةٌ"

الحَبَّب: دانٹوں کی ہمواری۔ (و الحَبَّاب)
بیلہ۔ حَبَّيْب الماء او الرمل و حَبَّيْبَة: پانی
پاریت کا بڑا حصہ۔

الحَبَّاب: انتہا۔ کہا جاتا ہے۔ "حَبَّابِكَ ان
تفعل كذا" تمہاری انتہائی کوشش یہ ہے کہ
تم ایسا کرو۔

الحَبَّاب: دوستی۔ محبت۔ محبوب۔ سانپ۔
أُمُّ حَبَاب: دنیا۔

الحَبَّابَة: ایک قسم کا سیاہ آبی کیرا۔ ح حَبَّاب
الحَبَّيْب: عاشق۔ معشوق۔ ح آجَبَة
و آجَبَاء و أَحْبَاب.

الحَبَّاب. حَبَّ: کا اسم مبالغہ: گھڑوں اور
منگولوں کا تباہ کرنے والا۔ یا بیچنے والا۔

ح: الحاء بنیادی حروف میں سے چھٹا حرف
ہے۔ یہ حروف غلق سے ہے۔ حساب جمل میں
اس کا نمبر (۸) ہے۔
حَبَّة (ض) حَبَّأ و حَبَّأ. الشَّيْ: رغبت
کرنا۔

حَبَّ (س) حَبَّب (ك) الیہ: محبوب
ہونا۔

حَبَّيَّة. الی: محبوب بنانا۔ اور کہا جاتا ہے
"حَبَّيْبِي أَبَاه" اس نے مجھ کو اس کا محبوب
بنایا۔ حَبَّب القَرْيَةَ: بھرنا (حَبَّب و أَحَبَّ)
الزَّرْع: دانے دار ہونا۔

حَابَة مُحَابَة و حَبَّابًا: باہم محبت کرنا۔ محبت
ظاہر کرنا۔

أَحَبَّ: محبت کرنا۔ یہ حب سے زیادہ مستعمل
ہے۔ صفت فاعلی۔ (مُحَبَّب) اور صفت
مفعولی (مُحَبَّب و مُحَبَّب)

تَحَبَّب. الیہ: محبت و دوستی ظاہر کرنا۔
تَحَبَّب من الشَّرَاب: بھرنے سے منگی کی
مانند پھول جانا۔

تَحَاب. القَوْم: ایک دوسرے سے محبت
کرنا۔

اسْتَحَبَّ: محبت کرنا۔ لہذا سمجھنا۔ کہا جاتا ہے
"اسْتَحَبَّ الكُفْرَ علی الایمان" اس نے
کفر کو ایمان پر فضیلت دی۔

الحَبَّ ج حُبُوب و حَبَّان: دانہ۔ واحد
(حَبَّة) ج حَبَّات. حَبَّ الغَمَام: اولہ.
حبة القلب: دل کا دانہ یا روح۔ الحَبَّة: دو

لیے وقت شدہ ہوگا۔ حیض دینا سے بے تعلق آدمی۔ حیض خیساء
 المَحْبُوسَةُ: قید خانہ۔ عابدوں زاہدوں کے رہنے کی جگہ۔ حیض مَحَابِسُ
 حَيْضٌ حَيْشًا وَحَيْشًا حَيْشٌ
 وَاحْتِشٌ. الشَّيْءُ: جمع کرنا۔
 أَحْيَسْتُ. المرأةُ: حیض سچے جناب۔
 تَحْيَسُ. القومُ: اکٹھا ہونا۔
 الْحَيْشَةُ حَيْشَاتٌ وَ (الْأَحْيُوسُ)
 وَالْأَحْيُوسَةُ حَيْشَاتٌ: مختلف قبیلوں کے لوگ۔
 الْحَيْشُ وَالْحَيْشَةُ: ملک حیض کا باشندہ
 واحد (حَيْشِي) حَيْشَانُ الْحَيْشَةُ:
 ملک حیض جس کو آج کل ابلی سینا کہتے ہیں۔
 الْحَيْشِيَّةُ: سخت کالا اونٹ۔ سیاہ رنگ کی بڑی
 چوٹی۔
 الْحَيْشِيَّةُ: عقاب۔
 الْأَحْيَسُ: حیضی۔ حیضی۔
 الْحَيْشَانُ: ٹڈی کی ایک قسم۔
 حَيْضٌ (ض) حَيْضًا وَ حَيْضٌ (س)
 حَيْضًا. الْقَلْبُ: دل کا سخت دھڑکنے کے
 بعد ساکن ہونا الرَّجُلُ: مرنا السَّهْمُ: تیر۔
 تیر کا پھینکنے والے کے سامنے ہی گرنا اور سیدھا نہ
 جانا۔ "فلاق بالوتر" آواز نکلنے کے لیے
 حرکت دینا۔
 حَيْضٌ (ن) (ض) حَيْضًا. ماء البئر: کم
 ہونا حَقْفُهُ: باطل ہونا السَّهْمُ: تیر کا پھینکنے
 والے کے سامنے ہی گرنا اور سیدھا نہ جانا
 الغلامُ: لوگوں کے نیک گمان کے خلاف
 ہونا۔
 أَحْيَسُ: حَقْفُهُ: باطل کرنا البئر: پانی ختم
 کرنا۔
 الْحَيْضُ: س۔ رگ کی تیز حرکت۔ کہا جاتا
 ہے "ماہ حیض ولا نبض" یعنی اس کے
 اندر حرکت نہیں۔
 الْمَحْيَضُ: دھنیا کی کمان۔ شہد نکالنے کی
 لکڑی مَحَابِضُ وَ مَحَابِضُ

کے ہاتھ میں کام کرنے کا اثر ہے۔
 الْمَحْبُورَةُ وَالْمَحْبُورَةُ وَالْمَحْبُورَةُ:
 دوات۔ مَحَابِرُ۔
 الْحَبُورَةُ: امامت۔
 الْحَابُورُ: بدکاروں کی مجلس۔
 الْحَبَارِيُّ: سرخاب۔ حَبَارَاتُ
 الْحَبُورِ وَالْحَبُورُ وَالْحَبِيرُ: سرخاب کا
 سچے۔ مَحَابِرُ. كَذِب (حَبِيرِ) خالص
 جھوٹ۔
 حَيْسَهُ (ض) حَيْسًا وَ مَحْيَسًا: قید کرنا
 عَنْ الشَّيْءِ: روکنا۔ الشَّيْءُ: پورے طریقے
 سے حفاظت کرنا الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ: ڈھانپنا یا
 احاطہ کرنا المالِ عَلَى كَذًا: وقف کرنا۔
 أَحْيَسَ وَ حَيْسَ. الْمَالُ: اللہ کے راستہ
 میں وقف کرنا۔
 حَيْسَهُ مَحَابِسَةً: روک رکھنا۔
 تَحْيَسُ وَاحْتِشَسُ. فِي الْكَلَامِ: رک جانا
 عَلَى كَذًا: مدد رکھنا۔ وَاحْتِيسَةً: روک
 رکھنا (لازم و متعدی) احْتِيسَ الرَّجُلُ:
 قیدی بنانا۔
 الْحَيْسُ: حَيْسُوسُ وَ (الْمَحْيَسُ) حَيْسُ
 مَحَابِسُ: قید خانہ۔
 الْحَيْسُ: پٹنگ پوش۔ وہ لکڑی یا پتھر جو پانی
 کے بہاؤ کے روکنے کے لیے رکھا جائے حَيْسُ
 أَحْبَاسُ۔
 الْحَيْسُ: واحد حَابِسُ وَ (الْحَيْسُ)
 واحد حَيْسُوسُ: یا حَيْبِسُ: پیادے۔ وقف
 شدہ چیز۔
 الْحَيْسَةُ: گفتگو کرنے میں دشواری۔
 الْحَابِسَةُ. الْحَابِسُ كَامُؤْتَف - اُونٹ جو
 شریف النسل ہونے کی وجہ سے گھر ہی میں
 باندھ کر رکھے جائیں۔
 الْحَابِسُ: اُونٹ جو شریف النسل ہونے کی
 وجہ سے گھر ہی میں باندھ کر رکھے جائیں۔
 أُمُورٌ خَيْرٌ مِّنْ وَقْفٍ شَدِيدٍ (حَيْسَةُ) کی صحیح
 ہے۔
 الْحَيْبِسُ: قیدی من الخيل: جہاد کے

سے چھوٹی یا بڑی بھی ہو سکتی ہے۔ حب
 الضمام: اولاً الحبة السوداء شونیز یعنی
 کلونجی۔ الحبة الخضراء: بن کا پھل
 حَبْرٌ (ن) حَبْرًا. الشَّيْءُ: مزین کرنا۔
 منقش کرنا۔
 حَبْرَةٌ (ن) حَبْرًا وَ حَبْرَةً وَ أَحْبْرَةً: خوش
 کرنا۔ أَحْبَرَتِ الْأَرْضُ: پیداوار کا زیادہ ہونا۔
 حَبْرٌ (س) حَبْرًا وَ حَبْرًا: خوش ہونا۔
 (حَبْرًا) الْحَرْحُ: زخم کا لہٹھا ہونا اور کچھ اثر
 باقی رہنا الانسان: زرد ہونا الارض:
 پیداوار کا زیادہ ہونا۔
 حَبْرٌ. الدَّوَاءُ: روشنائی ڈالنا الْكَلَامِ او
 الْخَطِّ او الشَّعْرِ: عمدہ بنانا۔
 حَبْرٌ: پھوؤں کے کانٹے کا نشان والا ہونا۔
 تَحْبِرٌ: مزین ہونا۔ عمدہ ہونا۔ السحابُ:
 ظاہر ہونا اور پھیلنا۔
 الْحَبْرُ وَالْحَبْرُ: نیک عالم۔ خوشی و نعمت
 الْحَبْرُ الْاَعْظَمُ: پوپ۔ یہودیوں کے
 نزدیک کاہنوں کا سردار۔ حَبْرًا وَ حَبْرًا:
 الْحَبْرُ: روشنائی، خوبصورتی۔ نقش و نگار۔
 دانتوں کی زردی حَبْرُورٌ. کہا جاتا ہے فلان
 حسن الْحَبْرِ وَالسَّبْرِ" یعنی فلاں
 خوبصورت اچھی ہیئت والا ہے۔ "و فلان
 لیس له حَبْرٌ" یعنی فلاں کا کوئی مثیل و نظیر
 نہیں "و ذهب حَبْرُهُ وَ سَبْرُهُ" یعنی اس کی
 رونق و ہیئت جاتی رہی۔
 الْحَبْرُ. س۔ اثر۔
 الْحَبْرَةُ. مثلثة الحاء: دانتوں کی زردی۔
 الْحَبْرَةُ وَالْحَبْرَةُ: ایک قسم کی مینی چادر۔
 حَبْرَاتُ وَ حَبْرَاتُ وَ حَبْرٌ.
 الْحَبْرَةُ: خوشی۔ نعمت۔ ہر عمدہ راگ۔
 الْحَبْرُ وَالْحَبْرُ. من الثياب: نیا و نرم
 منقش چادر۔ حَبْرُورٌ کی جمع حَبْرٌ ہے۔
 الْحَبَارُ: حَبَارَاتُ وَ (الْحَبْرُ) حَيْسُ
 حَبْرُورٌ: داغ۔ نشان۔ اثر کہا جاتا ہے
 "بجلده حَبْرٌ الضَّرْبِ" اس کی کھال میں
 مارا کڑا ہے "و فی يده حَبْرٌ الْعَمَلِ" اس

رَجُلٌ (حَابِضٌ وَ حَبَّاضٌ) كَبُوسٌ
بَحِيلٌ۔

حَبِطٌ (س) حَبِطًا وَ حَبُوطًا. عملہ:
پیکار ہونا۔ خراب ہونا۔ برباد ہونا (وَ اَحْبَطُ)
ماءُ البئر: ہمیشہ کے لیے کم ہو جانا۔

حَبِطٌ. دَمُ القَتِيلِ: پیکار جانا۔ حَبِطَ البَعِيرُ
حَبِطًا: خندقوق نامی ایک قسم کی نباتات کے
کھانے سے پیٹ پھولنا۔ مَفَتٌ (حَبِطٌ) ج
حَبَاطِيٌّ اور اس بیماری کا نام حَبَاطٌ ہے۔

اَحْبَطُ. عملہ: بے کار و باطل کرنا۔ اَحْبَطَ

الضَّرْبُ زَيْدًا: نشان چھوڑنا۔ اَحْبَطَ عنده:
روگردانی کرنا۔ کہا جاتا ہے ”تعلق بہ ثم
اَحْبَطَ عنده“ اس کا تعلق اس سے ہوا پھر اس
نے روگردانی کی۔

الْحَبِطُ. س. زخم کا نشان۔ مار کی وجہ سے
پدھی۔ مار کی وجہ سے آساں۔

الْحَبِطِيُّ: موٹا پست قدر غصے میں بھرا
ہوا۔

حَبِيقَةٌ (ض) حَبِيقًا: مارنا۔

حَبِيقٌ (ض) حَبِيقًا وَ حَبِيقًا وَ حَبِيقًا.
العَنْزُ: گوز کرنا۔ (اس کا اکثر استعمال بکری اور
اُونٹ کے لیے ہے)۔

حَبِيقٌ. المتاع: جمع کرنا۔

اَحْبَقٌ: تابعدار ہونا۔

حَبِقُوا وَ تَحَابَقُوا. عَلَيْهِ: جہالت سے کام
لینا۔

الحَبِيقُ: پودینہ۔ واحد حَبِيقَةٌ. حَبِيقٌ

الماءُ: مھری نفع۔ حَبِيقُ البقر: بالوند۔

حَبِيقُ الفَتَى او الفيل: دو نام واد۔

الحَبِيقُ والحَبِيقَةُ: کم عقل۔ کہا جاتا ہے

”رَجُلٌ حَبِيقَةٌ“ جاہل مرد۔

الحَبِيقُ: بے کار و بے فائدہ مرد۔

الحَبِيقُ: اول۔

حَبِيقَةٌ (ن ض) حَبِيقًا: باندھنا۔ مضبوط

کرنا الحائِكُ الثوبُ: عمدہ بننا۔

حَبِيقَةٌ: مضبوط کرنا۔

اَحْبَكَ: مضبوط کرنا۔ عمدہ طریقہ سے کرنا۔

تَحَبَّكَ: کمر باندھنا۔ کپڑے میں لپٹنا۔

اِحْتَبَكَ. الثوبُ: عمدہ بننا بالازار: ازار

باندھنا۔

الحَبِيقَةُ والحَبِيكُ: ازار باندھنے کی جگہ یا

کمر بند۔ الحَبِيكُ: ریت کے ٹیلہ کا راستہ۔ ج

حَبِيكٌ.

الحَبِيكُ والحَبِيقَةُ: انگور کی جڑ۔

الحَبِيكُ: کمینہ۔

الحَبِيكُ: سخت۔

الحَبِيكُ: مضبوط کیا ہوا۔

الحَبِيقَةُ. الحَبِيقُ کا مؤنث۔ ریت کے

ٹیلے کا راستہ۔ ستاروں کے درمیان کا راستہ۔

بالوں کے چھے کی ایک لٹ۔ لوہے کی زرہ ج

حَبَانِكُ وَ حَبِيكٌ وَ حَبِيكٌ. قرآن مجید میں

ہے ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحَبِيكِ﴾ قسم ہے

آسمان راستوں والے کی۔

المَحْبِيكُ: ازار باندھنے کی جگہ۔

حَبِيكٌ. السَّيِّ: جمع کرنا۔

تَحَبَّكَ. فی طریقہ: تمہیر ہونا۔

حَبَلَةٌ (ن) حَبَلًا: رسی سے باندھنا

الصَّيدُ: پھندے سے پکڑنا۔ مَفَتٌ (حَابِلٌ)

حَبَلَتْ (س) حَبَلًا. المرأةُ: حاملہ ہونا۔

مَفَتٌ (حَابِلَةٌ) ج حَبَلَةٌ وَ (حَبِلِيٌّ) ج

حَبَالِيٌّ وَ حَبَلِيَّاتٌ وَ (حَبَلَانَةٌ) من

الماءِ: بھر جانا۔ مَفَتٌ (حَبَلَانٌ)

حَبَلَهَا وَ اَحْبَلَهَا: حاملہ کرنا۔ اَحْبَلٌ

النَّحْلُ: گا بھاریا۔

اِحْتَبَلٌ. الصَّيدُ: پھندے سے پکڑنا۔ کہا

جاتا ہے ”اِحْتَبَلَهُ المَوْتُ بِحَبَالِهِ“ موت

نے اسے اپنے پھندے میں پھاس لیا۔

(وَ تَحَبَّلٌ) الصَّيدُ: پھندے میں پھنسا

الدَّابَّةُ: جانور کی ٹانگوں کا رسی میں پھنسا

جانا۔

الحَبَلُ: رسی۔ باندھنے کی چیز۔ ج حَبَالٌ

وَ اَحْبَلٌ وَ حَبُولٌ وَ اَحْبَالٌ. ملاپ۔ عمدہ

وَدَمْدَمٌ ریت کا لہا لکڑا۔ بدن کی رگ جیسے

حَبَلُ الدَّرَاعِ وَ حَبَلُ الوَرِيدِ“ کہا جاتا ہے

”هو على حبل ذراعك“ وہ تم سے قریب

ہے۔ ”وَصَلَ زَيْدٌ حَبْلَ عمرو“ زید نے

اپنی لڑکی کی شادی عمرو سے کر دی ”و هو

يَحْبُطُ فِي حَبْلِ فلان“ یعنی وہ اس کی

اعانت اور مدد کرتا ہے۔ ”وَ حَرَمٌ حَبَالَهُ“

یعنی اس نے تعلقات منقطع کر لیے۔

الحَبَلُ. س۔ انگور کی تیل یا اس کی شاخیں واحد

حَبَلَةٌ ج اَحْبَالٌ. بھر جانا۔ غم و غصہ۔ حمل۔

الحَبَلُ: دانشمند وزیرک۔ چالاک۔ ج

حَبُولٌ

الحَابِلُ: پھندے سے شکار کرنے والا

جادوگر۔ کپڑے کا تانا۔ ”اِخْتَلَطَ الحَابِلُ

بِالنَّابِلِ“ بطور ضرب المثل کے اس وقت

بولتے ہیں جب یہ کہنا ہوتا ہے کہ فلاں معاملہ

آپس میں گٹھ گیا۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس

مثال میں حابِل سے تانا اور نابل سے بانا مراد

ہے۔ اور بعضوں کے نزدیک حابِل سے مراد

پھندے سے شکار کرنے والا اور نابل سے مراد

تیر سے شکار کرنے والا ہے۔ نیز کہتے ہیں ”دار

حَابِلَهُ عَلِيٌّ نَابِلُهُ“ یعنی اس کا اول آخر پر

گھوم گیا۔ ”وَ نَارٌ حَابِلُهُمْ عَلِيٌّ نَابِلُهُمْ“

یعنی انہوں نے آپس میں شر و فساد برپا کر لیا۔

”وَ حَوْلَ حَابِلِهِ عَلِيٌّ نَابِلُهُ“ یعنی اس نے

اوپر کا نیچے کر دیا۔

الحَابِيزُ: درخت خرما وغیرہ پر چڑھنے کے

لئے جھال کی رسی۔ پاسی۔

الحَبَالُ: بھر جانا۔ کہا جاتا ہے ”بِه حَبَالٍ

من الشَّرَابِ“

الحَبَالَةُ: پھندہ۔ ج حَبَالٌ.

الأَحْبُولُ وَ الأَحْبُولَةُ: پھندہ۔

الحَبَالَةُ: کسی چیز کا مناسب وقت۔ بوجھ۔

الحَبَالُ: رسی بنانے والا یا بیچنے والا۔

الحَبَالَانُ: غصہ اور کینہ سے بھرا ہوا۔ مؤنث

حَبَلَانَةٌ.

المَحْبَلُ: حمل کی مدت۔

المُحْبَلُ: رسی۔ شعر محبَلُ: بٹے

ہوئے بال۔

مُحْتَبِلٌ. الفرس: گھوڑے کی ٹانگ اور کھر کا جوڑ۔

حَبْنٌ (س) حَبْنًا وَحَبْنٌ حَبْنًا: سوچے ہوئے پیٹ والا ہونا۔ صفت (حَابِنٌ وَمَحْبُونٌ وَحَبْنٌ عَلَيْهِ: غصے سے بھرتا۔ آخِنَةُ الداءُ: سوچے ہوئے پیٹ والا کھر دینا۔

الْحَبْنُ وَالْحَبِينُ: کبیر کا درخت۔
أَمُّ حَبْنٍ وَالْحَبِينَةُ: گرگٹ کے مشابہ ایک جانور۔

الْحَبْنُ: بندر۔ پیپ سے بھرا ہوا پھوڑا۔ رَجْحُونٌ

حَبْنًا (ن) حَبْنًا: قریب ہونا۔ کہا جاتا ہے ”حَبْنُ إِلَى الْخَمْسِينَ“ میں پچاس سال کے قریب ہو گیا الولد: چوتڑوں کے بل گھٹنا السفینة: جاری ہونا۔ حَبْنًا مَا حَوْلَهُ: حفاظت کرنا اور منع کرنا الشئ لہ: پیش آنا۔ السهم: نشانہ خطا کرنا ہ گڈا و بگڈا: بغیر کسی بدلہ کے دینا ہ عن گڈا: منع کرنا۔

حَبْنًا: حفاظت کرنا اور منع کرنا۔
حَابِيٌّ مُحَابَاةٌ وَحَبَاءٌ. الرجل: مدد کرنا۔ دوسروں کے علاوہ مخصوص کرنا ہ فی البيع: سہولت برتاؤ القاضی زیدًا فی الحكم: انصاف سے ہٹ کر مائل ہونا۔

أَحْبِيٌّ. الرامي: نشانہ سے خطا کرنا۔ کہا جاتا ہے ”رَمَى فَاَحْبِيٌّ“ اس نے تیر پھینکا اور نشانہ سے خطا کی۔

أَحْبِيٌّ إِحْتِبَاءٌ. بالثوب: کسی کپڑے میں لپٹ جانا۔ پیٹھ اور پنڈلیوں کو کسی کپڑے سے باندھ لینا۔

الْحَبَاءُ وَالْحَبْوَةُ وَالْحَبْوَةُ: عطيہ. الحَبَاءُ: عورت کا مہر۔

الْحَبْوَةُ وَالْحَبْوَةُ: وہ کپڑا جس سے پیٹھ اور پنڈلیوں کو ملا کر باندھ لیا جائے۔ حَبِيٌّ وَحَبِيٌّ: حَبِيٌّ

الْحَبِيُّ وَالْحَبِيَا: گہرا بادل جو زمین سے

قریب ہو۔

الْحَابِيُّ. فَا: گردن تک بلند کندھوں والا۔

حَتٌّ (ن) حَتًّا. الشجر: سٹے جھاڑنا۔ چھال اُتارنا الشئ عن الثوب: ارگڑ کر دور کرنا عن الشئ: ہٹا دینا الورق او القشر عن الشجر: سٹے جھڑنا یا چھال کرنا۔

تَحَاتَّ تَحَاتًّا وَانْحَتَّ وَانْحَتًّا. الورق من الشجر: جھڑ جانا شَعْرُهُ عَنْ راسه: گرنا الأَسْنَانُ: کھوکھلا ہو کر گرنا۔

الْحَتُّ. س. مُرَدَةٌ: الفرس الحت: تیز رفتار گھوڑا رَجِ احْتَات. کہا جاتا ہے ”تَوَكَّؤُهُمْ حَتًّا بَنًا أَوْ حَتًّا قَتًّا“ یعنی انہوں نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ”وَمَا فِي يَدَيَّ مِنْهُ حَتٌّ أَوْ حَتَاتَةٌ“ یعنی اس میں سے میرے ہاتھ میں کچھ نہیں۔

الْحَتَّت: درختوں کی خرابی جس سے سٹے جھڑ جاتے ہیں۔
الْحَتَات: بکھری ہوئی چیز۔ چورہ۔ ریوہ۔
الْحَتَات: شور و غوغا۔

الْحَتُّوتُ وَالْمَحْتَاتُ. من النخل: کھجور کا درخت جس سے بچی ہی کھجوریں گر جائیں۔

حَتِّيٌّ: حرف جار ہے۔ انتہا پر دلالت کرتا ہے جیسے ”أَكَلْتُ السَّمَكَةَ حَتِّي رَاسِهَا“ یعنی میں نے پھلی کو اس کے سر تک کھا لیا۔ اور ”ان“ مصدریہ کی تقدیر سے فعل مضارع پر داخل ہوتا اور غایت کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے ”سَرَتْ حَتِّي أَدْخَلَ الْمَدِينَةَ“ یعنی میں چلا یہاں تک کہ شہر میں داخل ہو گیا۔ اور یا بیان علت کا فائدہ حاصل ہوتا ہے جیسے ”تَوَهَّبْتُ حَتِّي اتوب“ یعنی میں نے توبہ کرنے کے لیے دُنيا سے بے رغبتی اختیار کی۔ اور کبھی حرف عطف بمعنی واو ہوتا ہے جیسے ”أَكَلْتُ السَّمَكَةَ حَتِّي رَاسِهَا“ میں نے پھلی کو اور اس کے سر کو کھا لیا۔ اور کبھی حرف ابتداء ہوتا ہے۔ جیسے فواعل جبا حتی كُتِبَتْ تَسْبِيئِي“ بڑا تعجب ہے کہ کلب مجھے گالی دینے

گلیں۔

حَتَامٌ: کب تک، اس کی اصل حتی ما ہے۔ ”مَا“ استفہامیہ کا الف حذف کر دیا گیا ہے۔

حَتًّا (ف) حَتًّا وَأَحْتًا. العقدة: گره باندھنا الثوب: کپڑا سینا الحداز: دیوار مضبوط کرنا الشئ: لگا کر دیکھنا الحِمْلُ عن الدابة: بوجھ اُتارنا المرأة: جماع کرنا الرجل: مارنا۔

حَنْتَحَت: جلدی کرنا۔
تَحَنْتَحَت. الورق: جھڑنا۔
حَبْنَد (س) حَنْدًا: خالص الاصل ہونا۔

صفت (حَبْنَد) حَنْدًا (ض) حُنُودًا. بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔

حَنْدًا. الشئ: خالص اور نقیض ہونے کی وجہ سے چننا۔

الْحُنْدُ وَالْحَنْدُ. من الشئ: اصل وجوہر کہا جاتا ہے عین حُنْدًا، پالی ختم نہ ہونے والا چشمہ۔

الْمَحْنَدُ: اصل۔ کہا جاتا ہے افلان کریم المَحْنَدُ، فلاں کریم الاصل ہے۔

حَنْوَرَهُ (ن ض) حَنْوَرًا وَحَنْوَرًا: باندھنا۔ مضبوط کرنا۔ تیز نگاہ سے دیکھنا۔ تھوڑا دینا۔ تھوڑی خوراک دینا۔ حنورہ شینا: تھوڑا دینا

اهله: نان و نفقہ میں تنگی کرنا۔ کہا جاتا ہے ما حَنْوَرْتُ الْيَوْمَ شِينًا، میں نے آج کچھ نہیں کھایا۔ یا مجھے آج کچھ حاصل نہیں ہوا۔

أَحْنَرُ. الشئ: مضبوط کرنا الرجل: تھوڑی بھلائی یا تھوڑی بخشش والا ہونا عَلَيْنَا الرزق: کم کرنا یاد رکھ لینا۔

حَنْمٌ: نان و نفقہ میں کمی کرنا الْبَيْتُ: گھر کے گرد گھیرا بنانا۔

الْحَنْوَرُ وَالْحَنْوَرُ وَالْحَنْوَرَةُ: تھوڑی چیز یا تھوڑی بخشش۔

حَنْوَارٌ. الشئ: کنارہ۔ گھیرا۔ جیسے حَنْوَارُ الْأُدْنِ، کان کا کنارہ۔ حَنْوَارُ الظفر، ناخن کے ارد گرد کا گوشت۔ ”حَنْوَارُ الْمَنْخَلِ

حَشَّ تَحْشِيْنَا: سونا۔
 الحُشُّ: بھوسے کے ریزے۔ خشک روٹی۔
 چچھاتا ہوا ریت۔
 الحَيْثُ وَالْحَشْوُثُ: تیز۔ کہا جاتا ہے
 ”وَلِي حَيْثِيْنَا“ وہ تیز بھاگا۔
 الحَفَاثُ وَالْحِثَاثُ: جلدی۔ توڑی نیند۔
 کہا جاتا ہے مَا كُنْتُحَلُ فَلَان حَشَاثًا“ یعنی وہ
 ذرا بھی نہیں سویا۔
 حَشْحَشُ: البروق: بادل میں کوندنا۔
 فَلَانًا: کسی چیز پر براہمجت کرنا المیل فی
 العین: سرمہ کی سلائی کو آنکھ میں حرکت
 دینا۔
 تَحْشَحْتُ: القوم: آمادہ ہونا۔
 الحَفْحَاثُ وَالْحَشْوُثُ: تیز جس میں
 کسی قسم کی سستی نہ ہو۔
 حَشْرٌ (س) حَشْرًا: الجلد: پھینسی والا ہونا
 العین: آشوب چشم کی وجہ سے موٹے پونے
 والی ہونا العسل: خراب ہونے کی وجہ سے
 دانہ دار ہونا۔ صفت (حائِر و حشر) الشیء:
 کشادہ ہونا۔ صفت (حشر و حشر)
 حَشْرٌ: الدواء: گولی ہونا۔
 أَحْشَرُ وَتَحْشَرُ: النخل: دانہ ظاہر ہونا۔
 الحشر: س تھمت۔
 الحشر: پھینسی والا۔ طعام حشر: بکھرا ہوا
 کھانا۔ جس میں کوئی برکت نہ ہو۔ فَوَادِ حَشْرٌ:
 دل جو کچھ محفوظ نہ رکھ سکے۔ لَسَانُ حَشْرٌ:
 زبان جس کو کچھ مزہ معلوم نہ ہو۔
 حَشْرَبُ: الماء: گدلا ہونا البئر: گدے
 پانی والا ہونا۔
 الحفور: گدلا پانی۔ نرم زمین میں اُگنے والی
 ایک قسم کی گھاس۔ ہانڈی کی تلی کی پچھائی۔
 حَشْلٌ (س) حَشْلًا: بڑے پیٹ والا ہونا۔
 أَحْشَلْتُ: الأم و لدها: خراب غذا دینا۔
 صفت مقبول (حشیل) الدھر فلانا: بُرا
 حال کر دینا۔ تباہ حال کر دینا۔
 الحشل: بُرے طریقہ سے دودھ پلانا۔ تباہ
 حال۔

الحَاثِمُ: فَا حَاكِمٌ۔ کہا جاتا ہے حتم
 الحاتم بکذا“ حاکم نے فلاں چیز کا فیصلہ کیا۔
 کالاکول۔
 الحتم: س: خالص۔ کہا جاتا ہے ”هو الاخ
 الحتم“ وہ حقیقی بھائی ہے۔ ”وهذا ولد
 حتم“ یہ حقیقی لڑکا ہے جس کے نسب میں کوئی
 شبہ نہیں۔ فیصلہ۔ ح حَتْمٌ۔
 الحَتْمَةُ: تڑھی۔
 الحَتْمَةُ: سیاہی۔
 الإحتم: سیاہ۔
 الحَتَامَةُ: دسترخوان کا چورہ۔
 حَتِينٌ (س) حَتْنًا: الحَرُّ: تیز ہونا۔
 أَحْتَنُ: الرجلُ: سارے تیر ایک ہی جگہ
 پڑنا۔
 تَحَاتَنُ: القومُ فی الامر: برابر ہونا۔ کہا
 جاتا ہے ”تَحَاتَنُ الذَّمْعُ“ دودھ قطرے آنسو
 کے گریے۔ ”و تَحَاتَنَتِ الرِّیَاحُ“ ہوائیں
 پے در پے چلیں۔
 إِحْتَنَ: بالکل برابر ہونا۔
 الحتن والحتن: برابر۔ ہمسر۔ کہا جاتا ہے
 ”هُمَا حَتْنَانُ“ وہ دونوں برابر ہیں۔
 الحتن: باطل۔ یومٌ حَتْنٌ: گرمی میں اول
 آخر برابر دن۔
 الحتن: پہاڑ کے کنارے۔
 حَتَا یَحْتَوُ حَتْوًا: تیز دوڑنا۔
 حَتَاةٌ (ض) حَتِيًا وَأَحْتَاةٌ: مینا۔ مضبوط
 کرنا الحبل: بنا۔
 فرس (مُحْتَاةٌ) الخلق: مضبوط بدن کا
 گھوڑا۔
 حَتْ (ن) حَتًْا وَحَشَّتْ تَحْشِيْنَا وَأَحَتْ
 إِحْتَانًا وَاحْتَتْ إِحْتِنَانًا وَاسْتَحَتْ
 اسْتِحْتَانًا: الرجلُ علی الامر: براہمجت
 کرنا۔ آسمان۔
 حَاتَهٌ: براہمجت کرنا۔ آسمان۔
 تَحَاتٌ: القومُ: ایک دوسرے کو براہمجت
 کرنا۔
 إِحْتَتْ: براہمجت ہونا (لازم و متعدی)

والغزبان“ چھلنی کا گھیرا۔ حشر۔
 الحشر: ایک بار پتھ کا دودھ چوسنا۔
 الحشيرة: عند البعض الحشيرة: کھانا جو
 عمارت کی تیاری پر کھلایا جائے۔
 المَحْشِرُ: الی و عیال پر نان نفقہ میں تنگی
 کرنے والا۔
 حَشْرَشٌ حَشْرَشَةٌ: الجراد: کھانے میں
 آواز نکالنا۔
 تَحْشَرُشُ: القومُ: اکٹھا ہونا۔
 الحشروش: پکا پھلکا چست لڑکا۔
 الحشارش: سچے کی حرکتیں۔ کہا جاتا ہے
 ”ما احسن حشارش هَذَا الصبی“ اس سچے
 کی حرکتیں کس قدر اچھی ہیں۔
 تَحْشَرَفُ: الشیءُ: بکھر جانا۔ کہا جاتا ہے
 ”تَحْشَرَفُ الشیءُ من یدی“ چیز میرے
 ہاتھ سے بکھر گئی۔
 الحشرفة: آنکھ کی سرخی۔ سختی۔
 حَشَشٌ (ن) حَشَشًا: آمادگی کے ساتھ جمع
 ہونا۔
 الحشَفُ: موت۔ کہا جاتا ہے ”مات حَشَفٌ
 أَنفَهْ أَوْ حَشَفٌ فِيه“ وہ اپنی موت سے مراد
 حشوف۔
 حَشَكٌ (ض) حَشَكًا وَحَشَكَانًا وَتَحَشَكٌ:
 چوٹے قدموں سے تیز چلنا۔
 الحشک والحواتیک: شتر مرغ کے بچے۔
 حَشَلَةٌ (ن) حَشَلًا: دینا۔
 الحشل والحشال: مثل و مشابہ۔ الحشل:
 عطیہ۔ گھیا چیز۔
 حَتَمٌ (ض) حَتْمًا: الشیءُ: مضبوط کرنا۔
 الشیءُ عَلَیْهِ: واجب کرنا بالشیءُ: کسی چیز کا
 حکم لگانا۔
 تَحْتَمٌ: خوش ہونا۔ اظہار شامانی کرنا۔ دستر
 خوان کے بقیہ کو کھانا الرِّجَاحُ بَعْضُهُ عَلَی
 بَعْضٍ: شیشہ کا بعض بعض پر گر کر ٹوٹنا۔
 (وَأَنْحَتِم) الامر: واجب ہونا۔ تَحْتَمٌ
 الشیءُ عَلَی نَفْسِهِ: لازم کر لینا۔ واجب کر
 لینا۔

چھپانا۔ اندر آنے سے روکنا۔ حَجَبَ
بَيْنَهُمَا: حائل ہونا۔ حَجَبَ صدره: تنگ
ہونا۔ کہا جاتا ہے۔ فلان يَحْجُبُ للامير
فلاں امير کا دربان ہے۔

تَحَجَّبَ وَاحْتَجَبَ: چھپنا۔

اِسْتَحْجَبَهُ: حاجب بنانا۔ دربان بنانا۔

اَلْحِجَابُ: سرج حُجُب: پردہ۔ ہر وہ چیز
جو دو چیزوں کے درمیان حائل ہو۔ تعویذ۔
حجاب الشمس: آفتاب کی روک ٹھنی۔
حجاب القلب: پردہ جو دل اور پیٹ کے
درمیان حائل ہے۔

اَلْحَاجِبُ حِجْوَابٌ وَ حَوَاجِبٌ وَ حَوَاجِبُ:
ابرو حَوَاجِبُ الشمس: آفتاب کی
شعاعیں اَلشَّيْءُ: چیز کا کنارہ۔ حاجبُ
الشمس: آفتاب کا کنارہ جو طلوع ہونے کے
وقت ابتداً ظاہر ہو۔ اَلْحَاجِبُ حِجْوَابٌ
وَ حَجِيْبَةٌ: دربان۔

اَلْحِجَابِيَّةُ: دربانی۔

حَبْدًا: اس کا اعراب یعنی ترکیب

فعل ماضی ذَا اسم اشارہ اس کا قائل فعل
قائل مل کر خبر مقدم ضمیر یا بعد والا اسم اس کا
مبتداً مؤخر۔ مبتداً خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریں۔
اَلْحَاجِبِيَّةُ: معتدل علاقوں کی ایک چھوٹی دار
انگوری۔

اَلْمَحْجُوبُ: اندھا۔

حَجَجَ: ننگھو سے رکتا بالمکان:

اقامت کرنا اَلرَّجُلُ: بچھلے پاؤں واپس ہونا۔

حَجْرَةٌ (ن) حَجْرًا وَ حَجْرَانًا: بتخلیث

الحاء فی المصدرین: منہ کرنا۔ حَجَرٌ

عَلَيْهِ الْقَاضِي: مالی معاملات کے کرنے سے

روکنا۔ (حَجْرًا وَ مَحْجَرًا) عَلَيْهِ الامر:

محروم کرنا۔

حَجَرُ الْقَمَرِ: ہالہ والا ہونا اَلطِينُ: پتھر کی

مانند سخت ہونا۔

اَحْجَرَةٌ: ڈھانپنا۔ چھپانا۔

تَحَجَّرَ وَ اسْتَحَجَّرَ: پتھر کی مانند ہونا۔

الرَّجُلُ: حجرہ بنانا۔ تَحَجَّرَ عَلَيَّ فلان:

اِحْتَجَجَ: دعویٰ کرنا اور دلیل پیش کرنا
بِالشَّيْءِ: دلیل یا عذر بنانا اَلْبَيْتُ: زیارت
کرنا۔

اِسْتَحْجَجَ: حجت طلب کرنا۔

اَلْحَاجُّ فَ: مقلدات مقدسہ کی زیارت کرنے
والا۔ اسم جمع بمعنی حُجَّاج۔ کہتے ہیں "قَدِمَ
اَلْحَاجُّ حَتَّى الْمَشَاةُ" حاجی صاحبان آگئے
یہاں تک کہ پیدل چل کر آنے والے بھی۔

اَلْحِجَّةُ: حج کا اسم۔ سال۔

ذُو اَلْحِجَّةِ: قمری سال کا بارہواں مہینہ حج
ذَوَاتِ اَلْحِجَّةِ: اَلْحِجَّةُ: کان کی بو۔

اَلْحِجَّةُ: بالی۔ کان کی بو۔

اَلْحِجَّةُ: دلیل۔ برہان۔ حج حَجَجَ وَ
حِجَّاجُ:

اَلْحِجَّاجُ: ابرو کی ہڈی۔ تَحْجِجُ وَ اِحْجِجَةُ
وَ حِجَّاجُ حَجَّاجُ الشمس: آفتاب کا
کنارہ۔

اَلْحِجْجِجُ: دلیل میں غالب آنے والا۔ وہ
فحص جس کے زخم کو سلائی ڈال کر معلوم کیا
جائے۔

اَلْمَحْجَجُ: حج کرنے کی جگہ۔

اَلْمَحْجَّةُ: راستہ کا درمیان۔ تَحْجِجًا
اَلْمَحْجِجَاجُ: بڑا جھگڑا۔ زخم معلوم کرنے
کی سلائی۔

اَلْمَحْجُوجُ: دلیل میں مغلوب۔ مطلوب
و مقصود۔ حج کرنے کی جگہ۔

حَجًّا (ف) حَجًّا بِالشَّيْءِ: خوش ہونا۔
عنه الشَّيْءُ: روکنا۔

حَجِيًّا (س) حَجًّا وَ حَجًّا وَ تَحَجًّا:
بِالشَّيْءِ: بھل کرنا۔ فریفت ہونا۔

اَلْحِجِييُّ: سزاوار۔ لائق۔ تم کہتے ہو
"حَجِييٌّ بِكَذَا" وہ فلاں چیز کے لائق ہے۔

پناہ لینے والا۔ تم کہتے ہو۔ "هو حَجِييٌّ
اليهم" وہ ان لوگوں کے پاس پناہ لینے والا
ہے۔

اَلْمَحْجِجُ: پناہ لینے کی جگہ۔

حَجِيَّةُ (ن) حَجًّا وَ حِجَابًا وَ حَجِيَّةُ:

اَلْحِجْلُ: لاغر۔ کمزور۔

اَلْحِجْلَةُ: حوض کا تھیر پانی۔

اَلْحِجَالُ وَ اَلْحِجَالَةُ: جاول جو وغیرہ کا چھلکا۔
حُفَالَةُ اَلدَّهْنِ: تیل کا پھٹتے الناس: ادنیٰ
درجہ کے لوگ۔

حَتَمَ (ن) حَتْمًا: لہ: دینا اَلشَّيْءُ: ملنا۔
رگڑنا۔

اَلْحِثْمَةُ وَ اَلْحِثْمَةُ: چھوٹا نیلہ۔
وَ اَلْحِثْمَةُ: ناک کا بانسہ۔ حِجَامُ
اَلْحِثْمَةُ: بند کے نزدیک پانی کے گرنے کی
جگہ۔

حَتًّا (ن) حَتًّا وَ حَتِّيًّا (ض) حَتِّيًّا
وَ حَتَّاءً: التراب: کرنا۔ ذُلُّ اَلتَّرَابِ:
کرنا لہ: تھوڑا سا دینا۔ کہا جاتا ہے "حَتًّا فِي
وَجْهِهِ الرَّمَادُ" یعنی اس نے اسے شرمندہ کر
دیا۔ "وَ حَتًّا فِي وَجْهِهِ اَلتَّرَابُ" یعنی وہ اس
سے سبقت لے گیا۔

اِسْتَحْتَوَا: ایک دوسرے کے چہرے پر مٹی
ڈالنا۔

اَلْحِثَا وَ اَلْحِثِي: بھوسہ کے ریزے۔ ڈالی
ہوئی مٹی۔

اَلْحِثْوَاءُ: بہت مٹی والی زمین۔

اَلْحِثِيُّ: سر۔ لپ۔ حج حِثِيَّاتُ

اَلْحِثْوَةُ: مٹی کا ایک حصہ۔ حج حِثِيَّ

حَجَّةً (ن) حَجًّا: دلیل میں غالب ہونا۔
اَلْحِجْرُ: سلائی لگا کر دیکھنا۔ قصد کرنا۔ کہا
جاتا ہے "حَجَّ بَنُو فُلَانٍ فُلَانًا" یعنی فلاں

کے پاس بنو فلاں نے بہت آمدورفت کی "وَ
حَجَّجْتُ فُلَانًا" یعنی میں فلاں کے پاس بار
بار آیا گیا۔ حَجَّ اَلْاِمَاكِنُ اَلْمَقْدِسَةِ:

زیارت کرنا۔ مَقَّتْ (حَاجَّ) حَجَّ حِجَّاجُ وَ
حَجَّجِجُ وَ حَجَّجٌ: مؤنث حَاجَّةٌ حِجْوَاةٌ
حَجَّ عَلَيْهِ: اَلْعَمْرُ: بار بار۔

حَاجَّةٌ حِجَّاجًا وَ مَحَاجَّةٌ: جھگڑا کرنا۔

حَجَّجَهُ تَحَجَّجًا وَ اَحْجَجَهُ اِحْجَاجًا: حج
کرنے کے لئے بھیجنا۔

تَحَاجًّا تَحَاجًّا: باہم جھگڑا کرنا۔

سے مراد وہ حرارت جو کہ طیاروں کے فضاء میں نکلانے سے پیدا ہوتی ہے۔

المُحْتَجِرُ: ازار باندھنے کی جگہ۔
حَاجِفُهُ مُحَاجِفَةٌ: مقابلہ کرنا۔ مدافعت کرنا۔

إِنْحَجَفَ: زاری کرنا۔ گڑگڑانا۔

اِحْتَجَفَ الشَّيْءُ: اپنے لیے خاص کر لینا۔

نَفْسُهُ عَنِ كَذَا: باز رکھنا۔

الْحَجْفَةُ: بغیر کلاڑی کے چڑے کی بنی ہوئی ڈھال۔ سبز۔ حَجْفٌ:

الْحَجِيفُ: جوف سے نکلنے والی آواز۔

الْحَجْوْفُ: وہ شخص جس کے نیچے کے

چبڑے میں درد ہو۔

حَجَلٌ (ن ض) حَجَلًا وَحَجَلَانًا: ایک

ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر اٹھا کر آہستہ آہستہ

چلنا۔ المَقْيَدُ: دونوں پاؤں سے کودنا

الْبَعِيرُ: باندھنا۔

حُجَلٌ حَجَلًا: بَيْنَهُمَا: حائل کیا جانا۔

حَجَلَتِ (ن) حَجُولًا وَحَوَجَلَتِ:

العَيْنُ: اندر کودھنسا جانا۔

حَجَلٌ: العروس: ذہن کے لیے کرہ

آراستہ کرنا۔ ذہن کو آراستہ کرہ میں داخل

کرنا۔ حَجَلَتِ الْمَرْأَةُ بِنَانِهَا: بہندی لگانا۔

العَيْنُ: اندر کودھنسا جانا۔ الرَّجُلُ أَمْوَةٌ:

مشہور کرنا۔ المَقْيَدُ: دونوں پاؤں سے کودنا۔

حَجَلٌ وَتَحَجَلٌ: الفرس: ٹانگوں میں

سفیدی والا ہونا۔ صفت (مَحَجَلٌ)

وَمَحَجُولٌ اور اگر تین ٹانگوں میں سفیدی

ہو تو اس کو حَجِيلٌ کہتے ہیں۔ حَجَلَتِ

الْمَرْأَةُ: پازیب پہنایا جانا۔

الْحَجَلُ وَاحِدٌ حَجَلَةٌ: حَجَلَانٌ وَ

حَجَلِيٌّ: چکور۔

الْحَجَلُ وَالْحَجَلُ وَالْحَجَلُ: پازیب۔

بِزْيٍ: گھوڑے کی ٹانگ کی سفیدی۔ حَج

أَحْجَالٌ وَحُجُولٌ:

الْحَجَلَةُ: پردہ جو دلہن کے لیے مکان کے

اندر لگایا جائے۔ کرہ جو دلہن کے لیے آراستہ

نہر کے کنارے کا وہ حصہ جو پانی کو روک لے۔

الْمُحَجِرُ وَالْمُنْحَجِرُ: من العين: آنکھ کا

خانہ۔ باغ۔ حَجْرٌ مُحَاجِرٌ:

الْمُحَجِرُ: گاؤں کا گردا گرد۔ حفاظت کی

جگہ۔ اور اسی سے ”الْمُحَجِرُ الصَّحْبِيُّ“

وہ مقام جہاں پر واڑدہ لوگ رکھے جائیں تاکہ

وہاں دوسری جگہ نہ پھیلنے پائے۔

حَجْرَةٌ (ن ض) حَجْرًا وَحِجَارَةً: منع

کرنا۔ روکنا۔ دَفْعٌ کرنا بَيْنَهُمَا: فاصلہ کرنا

عَلَيْهِ الْمَالُ أَوْ الْعِقَازُ: مال یا جائیداد کو

دعویٰ کی بنا پر روک لینا۔

أَحَجَرَ وَإِنْحَجَرَ: ملک حجاز میں آنا۔

الْحَجَرُ: رُكٌ جاتا۔

حَاجِرَةٌ: ایک دوسرے کو منع کرنا۔

تَحَاجَرُوا: بعض کا بعض کو منع کرنا اور دفع

کرنا۔

اِحْتَجَرَ الشَّيْءُ: اکٹھا ہونا بہ: باز رہنا

بالأزار: کمر پر باندھنا الشَّيْءُ: گود میں اٹھانا

الرَّجُلُ: حجاز میں آنا۔

الحجر والحجيز: جز۔ قبیلہ۔ کنارہ۔

الحجيز: پاک دامن۔ پاک۔

الحجيز: ملک عرب کا ایک حصہ۔ کربند۔

اونٹ کے باندھنے کی رسی۔ گانے کا ایک سُر۔

الحجيرة: حَجْرٌ حَجْرٌ وَحُجْرَاتٌ وَ

حُجْرَاتٌ وَحُجْرَاتٌ: ازار باندھنے کی

جگہ۔ نِفْدٌ۔ کہا جاتا ہے ”فَلَانٌ طَيِّبٌ

الحجزة“ فلاں پاک دامن ہے۔ ”وشديد

الحجزة“ یعنی بڑا صابر۔ ”وهذا كلامٌ

أَخِذْ بَعْضُهُ بِحُجْرَةِ بَعْضٍ“ یعنی یہ کلام

ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے۔

الحاجز: حَجْرَةٌ: روک۔ فاصلہ۔

ظالم۔ الحاجز حواجز: تلوار کی دھار۔

بوزخ: فاصلہ وروک۔

الحاجز: ”النَّارِي“ تو پختانہ سے مسلسل گولہ

باری کہ دشمن کے سامنے آگ کی دیوار بن

جائے۔

الْحَاجِزُ (الحراي) ایک علمی اصطلاحی اس

تعلقی ڈالنا۔ کہا جاتا ہے ”تَحَجَّرَ مَا وَسَّعَهُ

اللَّهُ“ اللہ نے جس چیز میں اس کے لیے

وسعت کی تھی اس کو اس نے اپنے لیے تنگ

بنالیا۔ محروم کرنا۔ اِسْتَحَجَرَ عَلَيْهِ: جبرمت

و دلیری کرنا۔

اِحْتَجَرَ: جمرہ بنانا۔ اِحْتَجَرَ الشَّيْءُ: اپنی

گود میں لینا بہ: پناہ لینا۔

الْحَجْرُ: منع۔ روک من العين: آنکھ کا

خانہ (وَالْحَجْرُ وَالْحَجْرُ) گود۔ کہا جاتا ہے

”نَشَأَ فُلَانٌ فِي حَجْرِ فُلَانٍ“ فلاں کی

پرورش فلاں کی گود میں ہوئی۔ حرام۔ کہا جاتا

ہے ”هَذَا حَجْرٌ عَلِيٌّ“ یہ تمہارے اوپر

حرام ہے۔ وَحَجْرٌ أَلْهُ: یعنی دفع ہو۔ غرب

اس کو اس وقت بولا کرتے ہیں جبکہ کسی چیز کو

مکروہ سمجھیں۔

الْحَجْرُ: عقل۔ گھوڑی۔ حَجْرٌ حُجُورٌ

وَحُجُورَةٌ وَأَحْجَارٌ:

الْحَجْرُ: پتھر۔ حَجْرٌ أَحْجَارٌ وَحِجَارٌ

وَحِجَارَةٌ وَأَحْجَرٌ کہا جاتا ہے ”الْقَمَّةُ

الحجر“ یعنی اس نے اسے لاجواب کر دیا۔

اور کہا جاتا ہے ”أَهْلُ الْحَجَرِ وَالْمَذْرُ“ یعنی

دیہات کے رہنے والے لوگ۔ الْحَجْرَانُ:

سونا چاندی۔ أَحْجَارٌ التَّخِيلُ: وہ عمدہ گھوڑے

جو نسل بڑھانے کے لیے پالے جائیں۔ (مفرد

استعمال نہیں کرتے)

الْحُجْرُ: ناخن کے ارد گرد کا گوشت۔

الْحَجْرَةُ: کنارہ۔ حَجْرٌ حَجْرٌ وَحُجْرَاتٌ

وَحَوَاجِرٌ: کہا جاتا ہے ”اِنْتَشَرَتْ

حَجْرَتُهُ“ اس کا مال زیادہ ہو گیا۔

الْحُجْرَةُ: چھوٹا کرہ۔ قَبْرٌ: بازہ۔ کنارہ۔ حَجْرٌ

حَجْرٌ وَحُجْرَاتٌ وَحُجْرَاتٌ وَحُجْرَاتٌ

حُجْرَاتٌ: حُجْرَاتُ الْعَسْكَرِ: لشکر کے

دونوں بازو میند و میسرہ۔

الْحَجْرُ وَالْحَجْرَةُ: بہت پتھروں والی جگہ۔

الْحَاجِرُ: فاج حُجْرَانٌ بلند زمین جس

کے درمیان میں پست جگہ ہو۔ صحرا میں

حاجیوں کے اترنے کی جگہ۔ (وَالْحَاجِرُ)

الحِجَا: کنارہ۔ گوشہ۔ حِجَاخَاء۔ پردہ۔
الحِجَا: دوا کی کاموز۔ زمین کا بلند حصہ۔ حِج
أَحْجَاء وَحِجَا. الشَّيْ: کنارہ۔
الحِجَاة: بارش کا پانی پڑنے کی وجہ سے بلبلا۔
حِجَا.

الحِجِي والحِجِي: لائق۔
الأَحْجِيَّة: چھتال۔ پھیلنا۔ حِجَا حِجِي و
أَحَاج. كَلِمَةٌ (مُحْجِيَّةٌ وَمُحْجِيَّةٌ) پھیلنا
دار لگے کہ جس کے الفاظ ظاہر معنی کے مخالف
ہوں۔ کہا جاتا ہے "انہ (المُحْجَاة) ان
يفعل كذا" یعنی وہ یہی فعل لائق ہے کہ ایسا
کرے۔

حَدَّ (ن) حَدًّا وَ حَدَّدَا. الدَّارُ: حد
مقرر کرنا المَدْنَب: حد جاری کرنا الشَّيْ
عن الشَّيْ: جدا کرنا اللہ عَنَّا الشر:
روکنا۔ باز رکھنا۔ پھیرنا۔

حَدَّتْ (ن) ض) حَدًّا وَ حَدَّدَا. المرأة:
سوگ منانا۔ صفت (حَادَّةٌ) حِجَا حِجَا
حَدَّ حَدًّا وَ حَدَّدَ وَ أَحَدَّ. السَّكِينُ: تیز
کرنا۔

حَدَّتْ (ض) حِدَّةً وَ اِخْتَدَّتْ.
السَّكِينُ: تیز ہونا باریک دھار ہونا۔
حَدَّ (ض) حَدًّا وَ حَدَّدَا وَ حِدَّةً. عليه:
غضب ناک ہونا۔

حَدَّدَ. الارض: حدود قائم کرنا اِلَيْهِ وَلَهُ:
قصد کرنا الامر: معلوم کرنا اَعْلِيَهُ: غضبناک
ہونا الزرع: بارش سوخا ہونے کی وجہ سے
چھپے آگنا۔

حَادَّةً: دشمنی کرنا۔ باہم غضبناک ہونا۔
حَادَّتْ اَرْضَهُ اَرْضِي: پڑوس میں ہونا۔
أَحَدَّ اِلَيْهِ النظر: گھورتا۔ تیز نظر کرنا۔
أَحَدَّتْ المرأة: شوہر کے مرنے پر سوگ
کرنا صفت (مُحَدَّةٌ وَ مُحَدَّةٌ)

تَحَدَّدَ: درپے ہونا۔
تَحَادَّ: باہم غضبناک ہونا۔
اِخْتَدَّ: قوی ہونا اَعْلِيَهُ: غضبناک ہونا۔
اِسْتَحَدَّ: دھار تیز کرنا۔ شرمگاہ کے بال

حَجَّجَ (س) حَجَّجْنَا. بالدار: اقامت کرنا
عَلَيْهِ وَبِهِ: بھل کرنا۔

تَحَجَّجْنَا: مزاجنا۔ ٹیزھا ہوجانا۔
الحَجَّجْنَا والحَجَّجْنَا: بھلی۔ ٹیزھا ہونا۔
المُحَجَّجْنَا: اپنے لیے مخصوص طریقہ سے جمع
کی ہوئی چیز۔ الحَجَّجْنَا: چھڑی۔

الأَحَجَّجْنَا: ٹیزھا۔ کہا جاتا ہے "صقر
أَحَجَّجْنَا المَخَالِبَ" شکر ٹیزھے چنگل والا۔
مؤنث حَجَّجْنَا حِجَا حِجَا.
الحَجَّجُونَ: کابل۔ کہتے ہیں "بَسْرْنَا عَقَبَةَ
حَجَّجْنَا" ہم یہی اور دور دراز گھائی پر چلے۔

المُحَجَّجْنَا والمُحَجَّجْنَا: ٹیزھے سر والا
ؤنڈل ٹیزھے سر والا۔ کہا جاتا ہے "ہو
مُحَجَّجْنَا مال" وہ مال کا یعنی اونٹوں کا بہترین
بتنظم ہے۔ مَحَجَّجْنَا الطائر: چوچ۔

حَجَّجَا (ن) حَجَّجُوا: ٹھہرنا بالْمَمَكَانِ:
اقامت کرنا بالشَّيْ: بھل کرنا بہ خیراً:
گمان کرنا السر: حفاظت کرنا حَجَّجَاه: قصد
کرنا۔ بھروسہ کرنا۔ منع کرنا القوم: بدلہ دینا
الامر: گمان کر کے دعویٰ کرنا۔

حَجَّجِي (س) حَجَّجِي. بِهِ: فریفتہ ہو کر
لازم ہونا۔
أَحْجَاهُ اِحْجَاء. بگڈا: لائق بنانا۔ کہا جاتا
ہے "ما أَحْجَاهُ بگڈا" وہ اس کے کس قدر
لائق ہے۔

حَاجَاةٌ مُحَاجَاةٌ: پہیلی پیش کرنا۔ یا عقل
وزیر کی میں مقابلہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "حَاجَاةٌ
فَحَاجَاةٌ" میں نے زیر کی میں اس کا مقابلہ کیا
اور میں غالب رہا۔

تَحَجَّجِي. بالشَّيْ: فریفتہ ہو کر لازم ہونا
بالمَمَكَانِ: اقامت کرنا۔ کہا جاتا ہے
"تَحَجَّجِيكُمْ لِي هَذَا المَمَكَانِ" میں تم سے
پہلے اس جگہ میں پہنچ گیا اور وہاں پر جم گیا
الشَّيْ: قصد کرنا۔

اِحْتَجَّجِي. الشَّيْ: چھپانا۔
تَحَاجَّجُوا: آپس میں پہیلی پیش کرنا۔
عقل وزیر کی جمع اِحْجَاء.
حِجَا حِجَا: عیبناک ہونا۔

کیا جائے۔ حِجَا حِجَا و حِجَل: عربوں کے
قول "المُحْجَلُونَ لِرَبَاتِ حِجَالِ" کے
معنی یہ ہیں کہ پازیب عربوں کے لیے ہے۔
المُحْجَلَا: پانی جس کو دھوپ نہ لگے۔
الحَوْجَلَةُ والحَوْجَلَةُ: شیشی۔ حِج
حَوَاجِلٌ وَ حَوَاجِلٌ.

المُحْجَلُ مِنَ الخَيْلِ: ٹانگوں میں
سفیدی والا گھوڑا۔ يَوْمَ مُحْجَلٍ: خوشی کا
دن۔ اور کہا جاتا ہے "أَمْرٌ أَعْرُ مُحْجَلٌ"
بہت مشہور معاملہ۔

حَجَمَ (ن) ض) حَجَمْنَا. العَيْرُ: منہ پر
جالی لگانا الحَجَامُ المَرِيضُ: بچھنا
لگانا الحَيَّةُ: ڈسنا الصَّيِّ ندى امه: چوسنا۔
حجمه عن الشَّيْ: منع کرنا۔ حجم
طرفہ عنہ: نگاہ پھیرنا۔

حَجَمَ (ن) حَجَمْنَا وَ أَحْجَمَ. الندى:
اُبھرتا۔ بلند ہوتا۔ أَحْجَمَتِ المرأة
للمولود: پہلی دفعہ دودھ پلانا۔ أَحْجَمَ عن
الشَّيْ: ڈر کر باز رہنا یا چھپے ہونا۔
اِحْتَجَمَ: بچھنا لگوانا۔

الحِجَامَةُ: بچھنا لگانے کا پیشہ۔
الحَجَمُ: سر۔ جسم کی مقدار۔ اُبھار جو ہاتھ
کے گزارنے سے محسوس ہو۔ حِجَا حِجَا
الحِجَامُ: اونٹ کے منہ میں لگانے کی جالی۔

الحَاجِمُ حِجَا حِجَا وَ حِجَمَةٌ وَ
(الحِجَامُ) چھپنے لگانے والا۔
المُحْجَمُ: بچھنا لگانے کی جگہ۔ حِجَا حِجَا
المُحْجَمُ والمُحْجَمَةُ: چھپنے لگانے کا
اوزار۔ سگ۔ حِجَا حِجَا.

المُحْجَمُ: خوف کی وجہ سے بہت پیچھے ہٹنے
والا۔
حَجَّجْنَا (ن) حَجَّجْنَا وَ حَجَّجْنَا. العود:
موزنا۔ ٹیزھا کرنا۔ (وَ اِحْتَجَّجْنَا) الشَّيْ:
ٹیزھے سر کے ڈنڈے سے کھینچنا۔ کہا جاتا ہے

اِحْتَجَّجْنَا المَالَ: اس نے مال کو جمع کیا۔ نیز
اس نے منتشر مال کو اکٹھا کیا اور اس کی اصلاح
کی۔ اِحْتَجَّجْنَا عَلَيْهِ: روک دینا۔

موثلاً۔

الحَدُّ: س. دو چیزوں کے درمیان کی روک۔ تم کہتے ہو ”دَارَةُ حَدِّ دَارِي“ اس کا گھر میرے گھر کے پڑوس میں ہے۔ والحَدُّ: کسی چیز کی انتہا۔ الْحَدُّ مِنَ السَّيْفِ: تلوار کی دھار من الشَّرَابِ: شراب کی تیزی من الانسَانِ: دبدبہ اور غضب کی بنا پر جو کیفیت پیدا ہو۔ من كل شيء: تیزی۔ حَدُّ الشَّيْءِ: جامع مانع تعریف۔ سراج حَدُّوْدُ و حَدُّوْدُ اللّٰه: طاعت الہی و احکام شرعیہ۔

الحَدُّد: س. ممنوع۔ کہا جاتا ہے ”هذا امر حَدُّ“ یعنی یہ امر ممنوع ہے اس کا کرنا جائز نہیں ”و هذا خَيْرٌ حَدُّ“ یہ خبر باطل و جھوٹ ہے ”و دُونَ هذا حَدُّ“ اس کے ورے ممانعت ہے ”و حَدُّا ان يَكُون هذا“ اللہ کی پناہ کہ ایسا ہو۔

الحَدَّاد: حَدَّتِ الْمَرْأَةُ كَمَا صَدَّرَ سِيَاهَا تَمِي لِبَاسِ۔

الحَدَّاد: تیزی والا۔ کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ حَدَّادٌ“ تیزی والا مرد۔ سَکِنَ حَدَّادٌ تِيزَ جَهْرِي۔ ج أَحَدَةٌ اور کہا جاتا ہے ”حَدَّادُكَ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا“ تمہاری انتہائی کوشش یہ ہے کہ تم ایسا کرو۔

الحَدَّادَةُ: بیوی۔

الحَدَّادَةُ: لوہاری۔

الحَدِيدُ: لوہا۔ مضبوط اور سخت لوہے کو ”ذِکْرٌ“ اور نرم کو ”أُنْثَى“ اور ”أُنْثَى“ سے تعبیر کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے ”هو حَدِيدِي“ وہ میرا پڑوس ہے۔ ”و دَارِي حَدِيدَةٌ دَارَةٌ“ میرا گھر اس کے گھر کے پڑوس میں ہے۔

الحَدِيدُ: ج أَحَدَاءٌ وَجَدَادٌ: کاٹنے والا۔ کہا جاتا ہے ”سَيْفٌ حَدِيدٌ“ کاٹنے والی تلوار۔ رَجُلٌ حَدِيدٌ: تیز فہم یا سرخ غضب۔

الحَدِيدَةُ: لوہے کا کٹڑا۔ ج حَدَائِدُ وَ حَدِيدَاتٌ وَ ج حَدَائِدَاتٌ حَدِيدَةٌ الْحَرْتُ: بل کی پھار۔ الْحَدِيدَةُ: چمچ۔

الحَدَّاد: لوہار۔ لوہا پیچنے والا۔ دربان۔ جِلْبَر۔ زرہ سالہ۔ شراب فروش۔ سَمْنَر۔

المَحْدُوْدُ: حد بندی کیا ہوا۔

حَدَّاءُ (ف) حَدَّاءُ الشَّيْءِ: پھیرنا۔ ہٹانا۔

حَدَّيْ (س) حَدَّاءُ بِالْمَكَانِ: کسی جگہ میں جم کے رہ جانا الیہ: پناہ لینا الیہ و علیہ: مہربانی کرنا۔ مدد کرنا۔ ظلم سے بچانا علیہ: غضبناک ہونا۔

الحَدَّاءُ: دو سر والی کدال۔ ج حَدَّاءُ وَجَدَّاءُ۔

الحَدَّاءُ: جَمَل۔ عوام حَدِيَّةٌ کہتے ہیں۔ ج حَدَّاءُ وَجَدَّاءُ وَجَدَّاءُ۔

حَدَبٌ (س) حَدَبًا وَأَحْدَبٌ: الرَّجُلُ: کبڑا ہونا صفت (حَدَبٌ وَأَحْدَابٌ) مَوْنَتْ حَدَبَةٌ وَحَدَبَاءُ: ج حُدْبٌ وَأَحْدَابٌ. وَ حَدَبَاتٍ. حَدَبٌ عَلَيْهِ: مہربان ہونا۔

حَدَبٌ وَأَحْدَبٌ: کبڑا بنانا۔ حَدَبٌ الشَّيْءِ: کسی چیز کو ابھرا ہوا بنانا۔

تَحَدَّبٌ: کبڑا ہونا علیہ: مہربان بہ: تعلق رکھنا۔ الْمَرْأَةُ: بچوں پر مہربانی کی وجہ سے دوسرا نکاح نہ کرنا۔

أَحْدَوْدَبٌ وَتَحَادَبٌ: کبڑا ہونا۔

أَحْدَوْدَبُ الرَّمْلِ: لمبا اور ٹیڑھا ہونا۔

الحَدَبُ: س. کبڑا پن۔ موج۔ لہر۔ کھال کے اندر نشان۔ زمین کی اونچی جگہ۔ ایک قسم کی گھاٹ۔

الحَدَبَاءُ: قحط کا سال۔ دشوار امور۔ لاش۔

الحَدَبِيَّةُ: کبڑا پن۔ پیٹھ میں کبڑا ہونے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے ”فی ظہرہ حَدَبِيَّةٌ“ اس کی پیٹھ میں کبڑا پن ہے۔ مِنَ الْأَرْضِ: بلند و سخت جگہ۔

الْأَحْدَبُ: تلوار۔ ہاتھ کی ایک رگ کا نام۔

أَحْدَبٌ: دشوار کام۔

المُحْدَبُ: کبڑا۔ مِنَ الْخَطْوَةِ: ابھری ہوئی لکیریں۔ لَبِنٌ (حَدْبَةٌ) جما ہوا روہ۔

حَدَّتْ (ن) حَدُّوْنَا الْأَمْرُ: واقع ہونا۔

(حَدَّائَةٌ وَجُدُوْنَا) نوپید ہونا اور جب قدم کے مقابلے میں بولتے ہیں تو میں کلمہ کو ضمہ دیتے ہیں جیسے ”أَخَذَنِي مَا قَدَّمَ وَمَا حَدَّتْ“ یعنی مجھ کو سننے پر آنے والوں نے گھیر لیا۔ اس کے علاوہ دوسری جگہ ضمہ نہیں دیتے۔

حَدَّتْ: عَنْ فُلَانٍ: روایت کرنا۔ ه كَذَا وَبِكَذَا: خبر دینا۔ بیان کرنا۔

حَادَّتْهُ: گفتگو کرنا۔ حَادَّتِ السَّيْفُ: تلوار کو جلا دینا۔ اور اسی سے ہے ”كَنْصَلِ السَّيْفِ حُوْدَتْ بِالصَّقَالِ“ مانند تلوار کی پھل کے کہ صیقل کرنے سے جلا دیا گیا ہو۔

أَخَذَتْهُ: ایجاد کرنا۔ پیدا کرنا۔ أَخَذَتْ الرَّجُلُ: پاخانہ کرنا۔ السَّيْفُ: تلوار کو جلا دینا۔

تَحَدَّتْ: بِالشَّيْءِ: گفتگو کرنا۔

تَحَادُّوْنَا: باہم گفتگو کرنا۔

أَسْتَحَدَّتْهُ: پیدا کرنا۔ الخَيْرِ: نیا پانا۔

رَجُلٌ (جَدَّتْ) مَلُوكٌ: بادشاہوں کا قصہ گو۔

الْحَدِيثُ وَالْحَدَثُ: اچھی گفتگو کرنے والا۔

الحَدَّثُ: نئی چیز۔ خلاف سُنَّتِ نئی بات۔

دِينٌ مِثْلُ نَوِي بَاتِ۔ پانچواں۔ ج أَحْدَاثٌ وَأَحْدَاثُ الدَّهْرِ: زمانہ کے مصائب۔

الحَدَّثُ: جِوَانٌ۔ ج أَحْدَاثٌ وَحَدَثَانٌ۔

الحَدَّائَةُ: س. حَدَّائَةُ الْأَمْرِ: آغاز وابتداء الحُدُثِي: نئی۔

الحُدُوْنَةُ: آغاز وابتداء الحَدَثَانُ: آغاز وابتداء حَدَثَانٌ الدَّهْرِ وَحَدَثَانَةٌ: زمانہ کی سختیاں۔

الْأَحْدَوْتَةُ: بات۔ افسانہ۔ کہانی۔ ج أَحَادِيثُ۔

حُدُوْتُ الْعَالَمِ: فلاسفہ کے نزدیک دنیا کا حادث ہونا (نئی پیدائش) اس کے صانع نے اس کو نیا بنایا ہے وہ ازل سے نہیں۔

الْحَادِثُ: نوپید چیز۔ قدیم کی ضد۔ ج

میں جلا کرے۔
 حدس (ن ض) حدسًا فی الامر:
 گمان کرنا۔ تخمینہ کرنا۔ وہم کرنا۔ الشی
 برخیلہ: روندنا۔ زیندا: پچھاڑنا۔ الشاة
 وبالشاة: ذبح کرنے کے لیے لٹانا۔ فی
 الارض: انکل سے چلنا۔ فی السیر: تیز
 چلنا۔ حدس بہ الارض: چلک دینا۔
 تحدس الاخبار وعن الاخبار: چھپ
 کر دریافت کرنے کی کوشش کرنا۔
 الحدیس والمحدوس: زمین پر پچھاڑا
 ہوا۔
 الحدوس: اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے
 والا۔
 الحدس: س۔ دانائی۔ زیرکی۔
 الحدسیات: دانائی اور زیرکی سے معلوم کی
 ہوئی باتیں۔
 الحداس: غایت۔ انتہاء۔ کہا جاتا ہے
 ”بلغت بہ الحداس“ میں اس کی انتہاء کو
 پہنچ گیا۔
 المحدس: مطلب۔ کہا جاتا ہے ”فلان
 بعید المحدس“ فلاں کا مطلب بڑا ہے۔
 حدق (ض) محققًا۔ القوم: گھیر لینا۔
 حدقه بعینہ: کسی کی طرف دیکھنا: آٹھ کی
 سیاہی پرمانا۔ المریض حدوقًا: بیمار کا آٹھ
 کھونا اور دیکھنا۔
 احدق۔ القوم بہ: گھیر لینا۔ احدثت
 الروضة: باغ میں چار دیواری ہونا۔
 حدق الیہ: گھورتا۔ تیز نظر سے دیکھنا
 حدق بہ: چاروں طرف سے گھیر لینا۔
 تحادقوا: ایک دوسرے کو گھیر لینا۔
 احدثق۔ القوم بہ: گھیرنا۔ احاطہ کرنا۔
 الحدقة: آٹھ کی سیاہی۔ ج حدق و
 حدقات واحداق وحداق: کہا جاتا ہے
 ”ہم فی مثل حدقة البعیر“ وہ لوگ فراخی
 میں ہیں اور ان کے پاس پانی بہت ہے۔ ”وہم
 رماة الحدق“ یعنی وہ لوگ تیر اندازی میں
 بڑے ماہر ہیں۔ وتکلمت علی حدق

اتر۔ الشی: نیچے اترنا اللثام عن
 حنکہ: جگانا العین الدمع: آنسو بہانا۔
 القراءة فی القراءة: تیزی سے پڑھنا۔
 الدواء بطنہ: اسپال لانا۔
 تحدر وتحادر: اترنا۔ کہا جاتا ہے ”زایت
 الذمع یتحادر علی لحيته“ میں نے دیکھا
 کہ آنسو اس کی داڑھی پر بہ رہا تھا۔
 انحدر: نیچے کہا جاتا ہے ”انحدرت من
 الجبل الی المدينة“ میں پہاڑ سے شہر کی
 طرف اتر الجدل: سوچنا۔
 الحدرد: ڈھلوان جگہ۔ وہ جگہ جہاں سے اترنا
 جائے۔ آٹھ کا بھیگنا۔
 الحدور والحدراء والحدور: وہ جگہ
 جہاں سے اتر جائے۔ الحدور: اسپال لانے
 والی دوا۔ ج حوادیر۔
 الحدرة: پھوٹنے کے اندر کا زخم۔ عین
 حدرة: پر گوشت آٹھ۔
 الحدرة: اونٹوں کا روڑ۔
 الحدار: فا: موٹا خوبصورت جبل
 حدرد: بلند پہاڑ۔ جبل حدرد: مضبوط عینی
 ہوئی رتھی۔ حی حدرد: جمع شدہ قبیلہ۔
 الحدار: شیر۔ کہا جاتا ہے ”ناقة حدرد
 العینین“ پر گوشت خوبصورت آنکھوں والی
 اونٹنی۔
 الحدرد: من الخیل: پر گوشت گھوڑا۔
 من الرجال: ایک چیز کو دو (۲) دیکھنے والا۔
 مؤث حدراء
 الحدورة والحدورة والحدورة:
 آنسوؤں کا بہاؤ۔
 الحدرد والحدور والحدورة
 والحدارة: آٹھ کی سیاہی۔ ج حدرد: کہا
 جاتا ہے ”جعلته علی حدورة عینی
 وحديرة عینی“ میں نے اس کو اپنا نصب
 العین بنایا۔
 الحدرد: شیر۔ پست قد۔
 الحديرة: شیر۔ ہلاکت۔ کہا جاتا ہے ”رماة
 اللہ بالحديرة“ اللہ اس کو مصیبت و ہلاکت

حوادث. وحادثات. حوادث الدمرد:
 زمانہ کے مصائب۔
 الحدرد. ج حدرد وحداثا: نیا۔
 الحدرد. ج احادرد وحداثان
 وحدثان: خبر۔ کہا جاتا ہے ”صدروا
 احادرد“ یعنی وہ لوگ ختم ہو گئے صرف ان
 کی بات ہی بات باقی رہ گئی۔ وعلم الحدرد: نبی
 کریم ﷺ کے اقوال، افعال و احوال بتانے والا
 علم۔
 الحدرد: بہت گفتگو کرنے والا۔
 الحدرد: گفتگو کرنے والی جماعت۔
 الحدردی: خبر حدرد۔
 المحدث. مع کتاب وسنت واجماع کے
 خلاف نئی بات۔ ج محدثان. نیا۔
 متحدث. القوم: قوم کے گفتگو کرنے کی
 جگہ۔
 حدج (ض) حدجا. البعیر: اونٹ پر
 کچا وہ باندھنا الاحمال: باندھنا الابل:
 داغ لگانا: مارنا۔ حدجه بالسهم تیر
 اندازی کرنا۔ بالذنب: تہمت لگانا۔ کہا جاتا
 ہے ”حدجه بیع سوء“ اس نے ایسی بیج
 اس پر لازم کر دی جس میں گھانا ہے۔
 حدج و حدج. ببصرہ: گھورتا۔ تیز
 دیکھنا۔
 احدج. البعیر: اونٹ پر بوجھ لادنا۔ اونٹ
 پر کچا وہ کنا۔
 الحدج: بوجھ۔ ج حدج و حدوج و
 احدج. (والحداجة) بمانہ کی مانند
 عورتوں کی ایک سواری۔ ج حدانج۔
 الحدج: کچا اور سخت اندر آن۔ کچا تیروڑ۔
 ابو حدرد: لقلق پرندہ کی نیت۔
 المحدث: اونٹوں کے داغ لگانے کا اوزار۔
 حدرد و حدرد (ن وک) حدرد و حدرد
 وحدارة. الرجل: مضبوط موٹا ہونا۔
 الجلد: سوچنا۔ حدرد حوله وہ: گھیر
 لینا۔
 حدرد (ن و ض) حدرد و حدرد نیچے

کرنے سے بچتا رہنا۔
 اِحْدَارٌ غُضْبَانٌ وَ مُنْقَضٌ هُوَانٌ۔
 الحَادِرُ. فَا. مستعد تیار۔
 الحَادِرُورَةُ. بہت چوکنا۔
 حَذَارٌ اسم فعل بمعنى بچ۔ کہا جاتا ہے
 حَذَارِيلاً زَيْدًا یعنی زید سے بار بار بچ۔
 الحَذَارِيَاتُ. ڈرانے والے۔
 الحَذْرَانُ. چوکنا رہنے والا۔
 الحَذْرَانُ. باطل۔
 الحَزْرِي. ڈرانے والا۔ کہا جاتا ہے "انا
 حَذِيرٌكَ مِنْهُ" میں تم کو اس سے ڈراتا ہوں۔
 الحَذْرِي. وہ چیز جس سے پرہیز کیا جائے۔
 الحَذْرُورَةُ. گھبراہٹ۔ بلا و مصیبت کہ
 جس سے پرہیز کیا جائے۔ جنگ۔
 حَذْفٌ (ض) حَذْفًا. گرانہ۔ کانٹا ہ
 بالقصا او الحجو: لائھی یا پتھر سے مارنا۔
 حَذْفٌ فِي مَسْئَلَةٍ: قریب قریب قدم
 رکھنا۔
 حَذْفُ الشَّيْءِ: الجھٹی طرح سے کرنا۔ (گویا
 کہ جن چیزوں کا علیحدہ کرنا ضروری ہے ان کو
 علیحدہ کر دیا۔ جس کی وجہ سے ہمارے محبوب
 سے پاک صاف ہو گیا) شعْرَةٌ: زلف نکالنا۔
 ہموار کرنا۔
 حَذْفُ العَصَا: بارتا پھینک کر مارنا۔
 الحَذْفُ. سر۔ چھوٹی بھیریں۔ حَذْفُ
 الزَّرْعِ: بھیت کے پتے۔
 الحَذْفُ. ایک قسم کی بیل۔ واحد حَذْفَةٌ
 الحَذْفَةُ. پست قدم عورت۔
 الحَذْفَةُ مِنَ الشَّيْءِ: تھوڑا تراش۔
 الحَذْفَانُ وَالْحَذْفُورُ ج حَذْفَانِيْرٌ:
 جانب۔ جماعت کثیر۔ آمادہ جنگ لوگ۔ کہا
 جاتا ہے "أَشْدُّ حَذْفَانِيْرِكُ" یعنی آمادہ ہو
 جاؤ۔ و "أَخَذَهُ أَوْنَالَهُ بِحَذْفٍ قَارِهِ وَ بِحَذْفِ
 فُورِهِ وَ بِحَذْفِ فَيْرِهِ" اس نے اس کو ہتلمہ
 لے لیا۔
 حَذْقٌ (ض) حَذْقٌ (س) حَذْقًا وَ حَذْفًا
 وَ حَذْفًا وَ حَذْفًا وَ حَذْفًا وَ حَذْفًا. ماہر

حذاه علی كذا: برا بھیت کرنا (واخذی)
 اللیل النهاز: پیچھے آنا۔
 الحَادِي وَ حَادِي النجم. دو ستاروں کے
 نام اور لفظ حادی عشر، میں حادی واحد کا مقلوب
 ہے۔
 الحَدَاءُ. حادی کا مبالغہ۔ اور حادی اس کو کہتے
 ہیں جو اونٹوں کو گانا کہے۔
 الحَذْوَاءُ. شمائی ہوا۔
 الحَوَادِي. ہر چیز کے آخری حصے۔ ٹانگیں۔
 الْأَخْدُوَّةُ وَالْأَحْدِيَّةُ. اونٹوں کے ہانکنے کا
 گیت۔
 حَذِي (س) حَذِي. بالمکان: کسی جگہ
 میں جم کے رہنا۔
 حَذِي. الرجل: مقابلہ کرنا۔
 (وَحَذِي) الشَّيْءِ: کرنے کا اردہ کرنا۔
 الحُدْيَا. جھگڑا۔ مقابلہ۔ کہا جاتا ہے۔ "هو
 حُدْيًا نَاسٍ" وہ لوگوں سے مقابلہ کرنے والا
 ہے "وَ اَنَا حُدْيَاكَ فِي هَذَا الْأَمْرِ" میں
 اس معاملہ میں تیرا مقابلہ کرنے والا ہوں۔
 حَذْوَةٌ (ن) حَذْوًا. جلدی سے کانٹا۔
 الحَذْوُ. ہاتھ یا زوم کا ہلکا پن۔ وَ حَذْوُ
 الْقَلْبِ: تیزی خاطر۔ تیز نہیں۔
 الْأَحْذُ. ہلکے ہاتھ یا دم والا۔ تیز۔ دہلا۔ امر
 أَحْذُ: امر منکر۔ سخت امر۔ بے مثل۔
 قَلْبٌ أَحْذٌ: ذکی۔ مؤنث۔ حَذَاءُ. کہا جاتا
 ہے "نَاقَةٌ حَذَاءٌ" تیز رفتار "وَقَصِيْدَةٌ
 حَذَاءٌ" مشہور قصیدہ۔ "وَ حَاخَةٌ حَذَاءٌ"
 جلدی پوری اور کامیاب ہونے والی حاجت۔
 "وَ عَزِيْمَةٌ حَذَاءٌ" پختہ ارادہ۔ ج حَذْوُ
 الْحَذْوَةِ. گوشت کا ٹکڑا۔
 حَذْرٌ (س) حَذْرًا وَ حَذْرًا وَ مَحْذَرَةٌ
 الرَّجُلِ وَ مِنَ الرَّجُلِ: بچنا۔ پرہیز کرنا۔
 چوکنا رہنا۔ صفت (حَذْرٌ وَ حَذْرٌ) ج
 حَذْرُوْنَ وَ حَزَارِي.
 حَذْرَةٌ. خوف دلانا۔ متنبہ کرنا۔ چوکنا کرنا۔
 حَذْرَةٌ. ایک دوسرے سے پرہیز کرنا۔
 ڈرتے رہنا۔ (وَتَحَذَّرُ مِنْهُ) (أَحْذَرُهُ) پرہیز

القوم: میں نے قوم کی نگاہ کے سامنے گھٹکھو
 کی۔
 الحَذْقُ: بیکن۔
 الحَدِيْقَةُ: باغ جس کی چار دیواری ہو۔ ج
 حَذَائِقُ.
 حَذَلٌ (ض) حَذَلًا وَ حُدُولًا. غَلِيْبُهُ: کسی
 پر ظلم کرنے کے لیے مائل ہونا۔
 حَذِلٌ (س) حَذَلًا: بہ نسبت دوسرے
 کندھے کے ایک بلند کندھے والا ہونا۔
 الرَّجُلُ: ٹھکیوں سے دیکھنا۔ صفت أَحْذَلُ
 مؤنث حَذَلَاءُ ج حَذَلٌ (شاذ) (و حَذِلٌ)
 ج حَذَالِي. حَذِلٌ غَلِيْبُهُ: ظلم کرنا۔
 حَذَالَةٌ: پھسلانا۔
 تَحَذَلٌ: کمان پر جھلنا۔
 الحَذَلُ: لڑا رہا ہونے کی جگہ۔ گردن کا درد۔
 الحَذَلُ. سر۔ کہا جاتا ہے "إِنَّهُ لَحَذَلٌ" وہ
 غیر عادل ہے۔
 الحَذَالُ: چکناو ہموار۔
 مَحْذَلَةُ الطَّرِيقِ: شوارع کو درست کرنے والی
 گاڑی۔
 الحَوْدَلَةُ. پشت۔ ٹیلہ۔
 حَذْمَةٌ (ض) حَذْمًا. تیز گرم کرنا۔ الدَّمُ:
 گہرا سرخ کرنا۔
 اِحْتَدَمَ. النهاز: سخت گرمی والا ہونا۔
 الشَّرَابُ: تیزی بڑھ جانا۔ اِحْتَدَمَتْ
 الْقَدْرُ: سخت جوش والی ہونا۔
 اِحْتَدَمَ وَ تَحَدَمَ. الرَّجُلُ: غصہ سے
 بھڑک اٹھنا۔ سخت غضبناک ہونا۔ اِحْتَدَمَ
 الدَّمُ: گہرا سرخ ہونا۔ عَلَيْهِ غِيْظًا: غصہ
 سے دانت پینا۔
 الحَدْمَةُ: آگ کے بھڑکنے کی آواز۔
 الحَدْمَامُ. غصہ۔ غضب۔
 حَذًا حَذْوًا وَ حَذَاءً وَ حَذَاءً حَذِي يَضَعُ
 فِي أَوَّلِ بَلَدٍ كَرْنَا. کہا جاتا ہے "مَا أَمْلَحَ
 حَذَاءً" اس کا ہدی پڑھنا کسی قدر عمدہ ہے۔
 الْأَيْلُ وَ بِالْأَيْلِ: گاڑا ہانکنا۔ صفت (حَادِي)
 ج حَذَاةُ الرِيْحِ السَّحَابُ: ہانکنا۔ چلانا۔

ہونا۔ مفت (حاذق) ح حُذَاق و حِذَاق۔
 الكتاب: پوری پڑھ لینا۔ العمل: ماہر ہونا۔
 حذق (ض) حُذُوقًا۔ الخُلُّ: بہت کٹنا
 ہونا۔
 حذق (ض) حَذُوقًا۔ النَشِيُّ: کٹنا الخُلُّ
 فاه: چرپاہٹ لگنا۔
 حَذُوقًا۔ ماہر بناؤ۔
 تَحَذَّقْ۔ ماہر ہونا۔ وَتَحَذَّقْ عَلَيْهِ:
 مہارت ظاہر کرنا۔
 اِنْحَذَّقْ۔ کٹ جانا۔ کہا جاتا ہے ”حَذَّقْتُ
 الخُلَّ فَأَنْحَذَّقُ“ میں نے رسی کو کٹا پس وہ
 کٹ گئی۔
 الجَذْقَةُ۔ کٹوا۔ ح حِذَقْ و حُذَاق۔
 (آخری جمع شانہ ہے)۔
 الحَاذِقُ فَاحِ حُذَاقٍ و حِذَاقٍ مِّن
 الخُلِّ۔ بہت تیز سرکہ۔
 الحَذِيقُ۔ کٹا ہوا۔
 الاِخْذَاقُ۔ کٹے۔ کہا جاتا ہے۔ ”حِبْلٌ
 اِخْذَاقٌ“ کٹی ہوئی رسی (جمع کے ساتھ مفت
 ہے جیسے ثوب اخلاق میں)
 الحِذَاقُ۔ سچے کا ختم قرآن۔ ختم قرآن کی
 دعوت۔
 الحُذَاقَةُ۔ تھوڑا کھانا۔
 الحُذَاقِيُّ۔ فصیح زبان والا۔ تیز چھری گدھے
 کا بچہ۔
 حَذَلْتُ (س) حَذَلًا۔ العينُ: گری ہوئی
 پلکوں والی ہونا۔ مفت (حَذَلَاءُ)
 اَحْذَلُ۔ العينُ: پلک گرا دینا۔
 تَحَذَلُ۔ عَلَيْهِ: مہربان ہونا۔
 الحَذَلُ۔ میلان (والحَذَلُ وَالْحَذَلُ)
 کپڑے کے دامن کی گولائی۔
 الحُذَالَةُ۔ ایک قسم کی سرخ گوند۔ چاول
 وغیرہ کی بھوسی۔ کرتے کے دامن کی گولائی۔
 حَذَلْتُ وَتَحَذَلُ۔ حذافت ظاہر کرنا یا
 حذافت کی ڈیک مارنا۔ کہا جاتا ہے ”اِنَّهُ
 يَتَحَذَلُ فِي كَلَامِهِ“ وہ اپنی گفتگو میں
 ظریف اور ہوشیار بنتا ہے۔

حَذَلْتُ۔ النَشِيُّ: تیز کیا جانا۔
 رجل (حذلق) بے فائدہ ڈیک مانے والا،
 گئی۔
 حَذَلْتُمْ۔ جلدی کرنا۔ العودُ: چھیل کر تیز
 کرنا السقاء: بھرتا۔
 تَحَذَلْتُمْ: جلدی کرنا، بادب ہونا۔
 الحُذَلُومُ: ہلکا پھلکا جلد باز۔
 حَذَمَهُ (ض) حَذَمًا۔ کٹنا (حَذَمَانًا) فی
 مشیتہ: تیز چلنا۔ دیر کرنا۔
 الحَذِمُ وَالْحِذِيمُ وَالْمِحْذَمُ۔ مِّن
 السِّیُوفِ: شمشیر براں۔
 الحِذْمُ۔ بازو کٹے ہوئے پرندہ کی اڑان۔
 حَذَمًا۔ ایک عورت کا نام جس کا لقب زرقاء
 بیامہ تھا اور جو تیزی نظر میں ضرب المثل تھی۔
 الحِذَامُ۔ سُسْتُ و کَالُ۔ کہا جاتا ہے
 ”اشترى عبداً حُذَامًا المِشِي“ اس نے
 سُسْتُ رقم غلام خرید۔
 حَذَا (ن) حَذَوًا و حِذَاءً النَّعْلُ: نمونہ
 پر کٹنا۔ حَذَا النَّعْلُ بِالنَّعْلِ: ایک برابر قطع
 کرنا۔ حِذَاءً و حَذَا حِذْوَةٌ: پیروی کرنا۔
 نقل کرنا۔ حِذَاءً و حِذَالَهُ و أَحْذَاءَهُ نَعْلًا:
 جوتہ پہنانا۔ جوتہ دینا۔ جوتہ بنانا۔ حَذَا
 الشَّرَابُ لِسَانَهُ: زبان کو چھیل دینا۔ التَّرَابُ
 فِي وَجْهِهِمْ: خاک ڈالنا۔ زِيدَا شَيْئًا:
 کسی کو کچھ دینا۔
 حِذَاءً و حَاذَاءً مُنْحَاذَةً و حِذَاءً مَقَابِلَ
 میں ہونا۔ مقابل میں بیٹھنا۔
 تَحَاذَيَا۔ ایک دوسرے کے مقابل ہونا۔ کہا
 جاتا ہے ”بنو فلان يَتَحَاذَوْنَ الْمَاءَ“ فلاں
 کی اولاد پانی آپس میں برابر تقسیم کرتی ہے۔
 اِخْتَذَى جوتہ پہنانا۔ مثال فلان و علی
 مثاله: پیروی کرنا۔ مشابہت کرنا۔
 اِسْتَحْذَاهُ۔ جوتہ طلب کرنا۔
 الحِذَاءُ وَالْحِذَةُ وَالْحِذْوُ وَالْحِذْوَةُ
 وَالْحِذْوَةُ: مقابل و برابر۔ کہا جاتا ہے
 ”داری حِذَاءَ دَارِهِ“ میرا گھر اس کے گھر
 کے مقابل ہے ”وَجَلَسَ حِذَاءَهُ“ و

بِحِذَائِهِ“ وہ اس کے مقابل بیٹھا۔
 الحِذْوَةُ وَالْحِذْوَةُ۔ عطیہ۔ گوشت کا کٹورا۔
 الحِذَاوَةُ۔ بیت۔
 الحِذَاءُ۔ جوتہ۔ اُونٹ یا گھوڑے کا سم جس پر
 پڑے۔ حِذَاوِيَّةٌ۔
 الحِذَاءُ۔ جوتہ بنانے والا۔ حِذَاوُونَ۔ کہا
 جاتا ہے۔ هُوَ (مُحَا ذَاك) وہ تمہارے
 مقابل ہے۔
 حَذَى (ض) حَذِيًا۔ الخُلُّ لِسَانَهُ: زُبان
 کو چھیل دینا۔ يِدَهُ: کٹنا ہ بلسانہ کھلی دینا۔
 نَمِيْتُ كَرْنَا۔
 أَحْذَاهُ اِحْذَاءً۔ مال قیمت کا حصہ دینا
 أَحْذَاهُ طَعْنَةً: نیزہ مارنا۔
 الحِذْيَا وَالْحِذْيَا وَالْحِذَاوِيَّةُ وَالْحِذْيَةُ۔
 مال قیمت کا حصہ۔ وَالْحِذْيَا: ہدیہ جو بشارت
 دینے والے کو دیا جائے۔
 الحِذْيَةُ۔ ہیرا۔ گوشت کا کٹورا جو لمبا کٹا
 جائے۔
 المِخْذَاءُ۔ لوگوں کی بہت قیمت کرنے والا۔
 حَوْرٌ (س) حَوْرًا۔ العَبْدُ: آزاد ہونا
 (حَوْرِيَّةٌ) شریف الاصل ہونا۔ (حَوْرَةٌ) پیاسا
 ہونا۔
 حَوْرٌ (س ن ض) حَوْرًا و حَوْرَةً و حَوْرًا
 حَوْرًا۔ گرم ہونا۔
 حَوْرٌ (ن ض) حَوْرًا۔ الماءُ: بگرم کرنا۔
 الارضُ: ہموار کرنا۔
 حَوْرٌ۔ العَبْدُ: آزلا کرنا۔ الولدُ او
 الشَّيْءُ: اللہ تعالیٰ کی عبادت کیلئے وقف کرنا۔
 الكتابُ: خوبصورت دورست لکھنا۔
 الوزنُ: غور کر کے ضبط کرنا۔ المعنى:
 حشود و زوائد سے پاک کرنا۔
 اِحْوَرٌ۔ النهارُ: گرم ہونا۔ اِحْوَرٌ صَدْرُهُ:
 پیاسا کرنا۔
 تَحَوَّرَ۔ العَبْدُ: آزاد ہونا۔
 اِسْتَحْوَرَ۔ القتالُ: سخت جنگ ہونا۔
 الحَوْرُ۔ غری۔ ح حَوْرُورٌ و اِحْوَارٌ۔ (خلافہ
 قیاس)

الحورؤ۔ گرم ہوا جو رات میں چلے۔ دھوپ کی گرمی۔ آگ۔ لاغری۔

الحوراء۔ گرمی۔

الحورية۔ والحوروة والحوروية۔ وتضم الحاء فيهما: آزواي۔

الحورية: خالص ہونا۔ حورية القوم: قوم کے اشراف۔ کہا جاتا ہے ”هو من حورية قومه“ وہ اپنی قوم کے اشراف میں سے ہے۔

الحورير۔ ریشم۔ ریشم کا بنا ہوا۔ ریشم کا پکڑا (والمنخورؤ۔ غصہ کی وجہ سے گرم۔

الحورية۔ ریشم کا کھلا۔ ایک قسم کا کھانا جو آٹا، دودھ اور روغن ملا کر تیار کیا جاتا ہے۔

غصہ کی وجہ سے گرمی والا۔

الحور۔ آزواہ شریف۔ من كل شئ: عمدہ جہت۔ کہا جاتا ہے ”فوس حور“ امیل گھوڑا۔

”وطین حور“ بغیر ریت کے خالص مٹی۔ حور المدار: گھر کا درمیان۔ حور الارض:

زمین کا حصہ۔ حور الوجه: رخسار کہا جاتا ہے ”لطمه على حور وجهه“ اس نے اس

کے رخسار پر طمانچہ مارا۔ حور اور حور۔

أحور البقول وہ تڑکایاں جو بھکی کھائی جائیں۔ الحور: کوتر کا پتہ۔ شکر۔ باز۔ ساق حور: زقمری۔ عین حور: ایک پرندہ کا نام۔

الحورة۔ حور کا موٹ۔ آزاد عورت۔ شریف عورت۔ ح حوائو و حوات۔

أرض حورة: بغیر ریت والی زمین۔ زملة حورة: ریت جس میں گاراند ہو۔ ليلة حورة أو ليلة حورة: ہر مہینے کی پہلی رات۔

الحورة۔ سیاہ پتھروں والی زمین۔ ح حوات و حوار و حورون و حورون۔

الحورة۔ پیاس۔ کہتے ہیں ”رماة الله بالحورة تحت القيوة“ اللہ اس کو سردی کے

زندگی میں پیاس میں مبتلا کر دے۔ الحار۔ گرم من الاعمال: دھواں۔

الحوان۔ بہت پیاسا۔ مؤنث حور ح ح حوار و حورای۔

الحوريری۔ ریشم بنانے والا۔ ریشم بیچنے والا۔

المنخورؤ۔ وہ شخص جس کو گرمی لاحق ہو گئی ہو۔

حرب (ن) حربا۔ الرجل: سب کچھ چھین لینا۔ صفت مفعول (حربی) ح حربی و حرباء و (محررب)

حرب۔ الرجل ماله: چھینا جانا۔ حرب (س) حربا۔ کتے کے کاٹے کی

دیوانگی والا ہونا۔ سخت غضبناک ہونا۔ صفت (حرب) یعنی سخت غضبناک۔ ح حربی و حرب الرجل: ویل و ہلاکت کو پکارتا اور

و حرباء کہتا۔ حرباء غضبناک بنانا۔ حرب السنان: تیز

کرتا۔ حرباء حربا و محاربة۔ لڑائی کرتا۔

أحرب۔ الحرب: جنگ بڑکانا۔ فلانا: دشمن کے مال کے لئے کیلئے رہنمائی کرتا۔

النحل: شلوں نکلنا۔ تحارب و تحرب۔ القوم: جنگ کی آگ بھڑکانا۔

أحرنی أحرنباء۔ آہادہ غضب ہونا۔ آہادہ شرارت ہونا۔ چت لیٹ کر آسمان کی طرف

ٹانگیں اٹھانا۔ المكان: کشادہ ہونا۔ الحرب۔ لڑائی۔ تم کہتے ہو ”وقعت بينهم حرب“ ان کے درمیان لڑائی واقع ہوئی کلمہ

مؤنث ہے کبھی مذکر استعمال کرتے ہیں اس کی تفسیر حروب۔ ح حروب۔ رجل حرب: بہادر جنگجو۔ کہا جاتا ہے ”انا حرب لمن يحاربني“ میں اس کا دشمن ہوں جو مجھ

سے جنگ کرے۔ دار الحرب: مشرکین کا ملک۔ اور وہاں کے رہنے والوں کو (الحربيون) کہتے ہیں۔

الحربة۔ چھوٹا تیز۔ ح حواب۔ الحربة۔ نیزہ دارنا۔ مان چھیننا۔ فسادین۔ جمع کادن۔ ح حوابات و حوابات

الحواب۔ چھوٹے نیزے کو اٹھانے والا ز چھوٹا نیزہ بنانے والا۔

الحونة۔ بیٹ جنگ۔

الحونة۔ گون یا بورے کی مانند ایک برتن ز چرواہے کا تھیلا۔

الحوناء و الحونانة۔ گرمٹ۔ اس کو تون مزاج کے لیے بطور مثال کے بولا جاتا ہے۔ ح حوابی

الحوناء۔ زہرہ کا حلقہ۔ پشت کا گوشت۔ الحرب۔ س۔ ہلاکت ویل۔

أحونا۔ میت پر افسوس اور نوحہ کرنے کے لئے کلمہ۔ اس کا اعراب (ترکیب)

و ا و حرف نداء و ندبہ۔ حربا منادی یعنی بالضم اس کے آخر میں ظاہری اعراب نہیں۔

تقریری اعراب مفعول بحذف فصل اندب اور الف آخر میں برائے ندبہ ہے۔

المحرب و المحرب۔ جنگجو۔ بہادر۔ المحراب: گھر کی صدر کی جگہ۔ گھر کی اچھی

جگہ۔ صدر مجلس۔ لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ۔ کچھار۔ و محراب المسجد: اہم

کھڑے ہونے کی جگہ۔ قبلہ۔ ح محارب۔ کہا جاتا ہے ”انه يكره

المحارب“ وہ صدر مجلس میں لوگوں سے ممتاز ہو کر بیٹھنے کو مکروہ سمجھتا ہے۔

الحربش و الحربش۔ بڑا ساپ، اڑوہا۔ حوت (ن) حوتاً۔ الشئ: سخت ملنا۔

حوت (س) حوتاً۔ الرجل: بد خلق ہونا۔

الحوت۔ سہ جانوروں کے چارہ کھانے کی آواز۔

الحويت۔ ایک قسم کی مچھلی۔ حوت (ن ض) حوتاً۔ الارض: ہل

چلانا، کھیتی کرتا۔ صفت (حارث) ح حرات۔ حوت المال: کمائی کرتا۔ جمع

کرتا۔ النار: کریدنا۔ الشئ: اچھی طرح مطالعہ کرتا۔ الامر: یاد کر کے بھڑک اٹھنا

الخنز: کلوے کلوے کرتا (و أخوت و اختوت) الذابة: تھکانا۔ دبلا کرتا۔ صفت

مفعول (حينة) ح حوات۔ اختوت الارض: کھیتی کرتا۔ المال:

کمانی کرنا۔

الحوزت برہکتی۔

الحارث. فاج حوَّات. الحارث. و

ابو الحارث بئیر کی کنیت۔

الحوئیة کمانی۔ ج حوَّاث۔

الحوَّاة بھکتی۔ کاشکاری۔

المعزج. ج معزجات و (المعزجات)

ج معزجات ال۔ کرلیٹی۔

حروج (س) حوَّاجا. الشئی: تک ہونا

الرجل: گنہگار ہونا. العین: اندر دھنس

جانے کی وجہ سے پینائی کم ہونا۔

علیہ الشئی: حرام ہونا۔ الیہ: پناہ لینا

العبار: تک جگہ میں گھٹنا۔

حروج (ن) حوَّاجا. انیابہ: نخصتہ سے

دانت پینا۔

حروجہ تک کرنا۔ حروج علیہ: کسی سے

یہ کہنا کہ تو تنگی میں ہے۔

أخوَّجہ گناہ میں مبتلا کرنا۔ تنگی میں ڈالنا۔

تک جگہ کیلئے مجبور کرنا۔ فلانا الیہ مضطر

کرنا۔ أخوَّج علیہ الامر جرم کرنا۔

تخوَّج گناہ سے بچنا۔

الحوَّج گناہ۔ بہت درختوں والی تک جگہ۔

مردہ لے جانے کا تختہ۔ حرمت۔ کہا جاتا ہے

"لا حوَّج علیک تمہارا کوئی قصور نہیں، یا

تمہارے اوپر کوئی اعتراض نہیں۔

وحدَّث عن البخو. ولاحوَّج۔ سمندر

کے متعلق بیان کرو اور تمہارے اوپر مبالغہ

وغیرہ کا کوئی اعتراض نہیں۔

الحوَّج گناہ۔ کوڑی۔ شکار میں سے کئے کا

حصہ۔ درندوں کے شکار کے لیے چندرا۔

بکریوں کا یوز۔ ج. أخوَّج و حوَّاج۔

الحوَّج تک۔ وہ شخص جو لڑائی سے منہ نہ

پھیرے۔ بہت درختوں والی تک جگہ۔ وہ

شخص جو کسی معاملہ میں پیش قدمی کرنے سے

خوف کھائے۔

الحوَّجہ۔ درختوں کا جھنڈ۔ بکریوں کا،

بٹوں کا گلہ۔ ج حوَّج و حوَّجات۔

الحوَّجۃ ڈوہی۔

الحوَّجۃ تک۔

المخوَّج. من اللیالی بہت سردرات۔

المخوَّج تک کرنے والا۔ کہا جاتا ہے

"حلف بالمخوَّجات اس نے تنگی میں

بتلا کرنے والی قسمیں کھائیں۔

حوَّجل حوَّجلۃ لبا ہونا۔ دائیں بائیں

دوڑنا۔

الحوَّجلۃ بر۔ لنگڑاپن۔ (والمحوَّجل)

گھوڑوں کا گلہ۔ کہا جاتا ہے "جاء وَا

حوَّجلۃ ڈوہے گھوڑوں پر آئے۔

المحوَّجل والمحوَّجل لبا۔

حوَّجم۔ الابل اونٹوں کو ایک دوسرے پر

گرتے ہوئے واپس کرنا۔

أخوَّجتم۔ القوم او الابل تاکھا ہونا۔

اعن الامر ارادہ کے بعد مت جانا۔

حوَّدا (س) حوَّدا و حوَّدا۔ علیہ:

غضبناک ہونا۔ صفت (حارِد و حوَّد و

حوَّدان) الوتر نکان کی تاروں میں سے

بعض کا بعض سے لبا ہونا۔ صفت (حوَّد)

حوَّد (ض) حوَّدا منع کرنا۔ ارادہ کرنا

الخشب: سوراخ کرنا۔ (أخوَّدا) قوم

سے علیحدہ کیا ہونا۔ صفت (حوَّد و حوَّد)

ج حوَّادو (حوَّیدج) حوَّداء۔

حوَّد جمہوریت میں پناہ لینا۔ الشغوَّیک

پال کا تباہنا ہو کنا۔ حوَّد الخیل نیشے

سے گول ہو جانا۔ الشئی بیزھا کر دینا۔

أخوَّدۃ الگ کر دینا۔ کیا کر دینا۔ أخوَّد

فی المشی تیز چلنا۔

تخوَّدۃ۔ الانیم: بالوں سے پاک صاف

ہونا۔

حارَّذت. الناقۃ: کم دوڑھ والی ہونا۔ صفت

(حوَّوڈ محارِد) السنۃ: کم بارش والا

ہونا۔ حارَّذ الرجل ذیے رہنے کے بعد بند

کر دینا۔

أخوَّدۃ. المعجم لوثا۔

الحوَّوڈ بر۔ اونٹ کی اگلی ٹانگ کے پٹھے کا

ڈھیلا پن۔

الحوَّوڈ کم دوڑھ والی اونٹنی۔

الحوَّوڈ دور۔ خشک کی ہوئی پھلی۔ بہت میں

سے تھوڑی چیز۔

الأخوَّوڈ اگلی ٹانگ کے پٹھے کے ڈھیلا پن والا

ہونا۔ بخیل کجوس۔ زرہ کے بوجھ سے اچھی

طرح نہ چل سکے والا۔ ج حوَّوڈ۔

المخوَّوڈا ہے بارش کا سال بج۔ محارِد۔

الحوَّوڈۃ: سبکی بے عقلی۔

الحوَّوڈون زگوہ۔ پاگرت کے مشابہ ایک

جانور۔

حوَّوڈان. حوَّوڈا. المال حفاظت کرنا،

اکٹھا کرنا۔

حوَّوڈا (س) حوَّوڈا پر بیزگار ہونا۔

حوَّوڈاک (حوازۃ و حوازا. المکان:

مضبوط ہونا۔

حوَّوڈ. الشئی: حفاظت میں مقابلہ کرنا۔

(وأخوَّوڈ) المکان الرجل بنائے پناہ ہونا

أخوَّوڈ الشئی بج کرنا۔ حفاظت کرنا۔ ذخیرہ

کرنا۔

تحوَّوڈ و أخوَّوڈ. منہ بچنا۔

أمنحوَّوڈ محفوظ جگہ میں آجانا۔

الحوَّوڈ. مضبوط جگہ۔ کہا جاتا ہے "حوَّوڈ"

حوَّوڈ و حوازۃ بہت محفوظ مقام۔ حصہ۔ کہا

جاتا ہے "أخذ حوَّوڈا اس نے اپنا حصہ لے

لیا۔ ہر وہ چیز جس میں اشیاء کی حفاظت ہو سکے

جیسے صندوق وغیرہ۔ ہر وہ چیز جو ضائع اور تلف

ہونے سے بچائے۔ فی اصطلاح

المعوَّوڈین: تعویذج أخوَّوڈ۔

الحوَّوڈ بر۔ بچوں کا ایک قسم کا کھیل جو

اخوَّوڈ سے کھیلتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو محفوظ کی گئی

ہو۔ ج أخوَّوڈ۔

الحوَّوڈین جمع کی ہوئی چیز۔ کہا جاتا ہے "لا

حوَّوڈ من بیع یعنی اگر اس نے خواہش کے

مطابق قیمت دے دی تو میں بیچ دوں گا۔

الحوَّوڈۃ. من الابل اونٹ جن کو خوبی کی

وجہ سے فروخت نہ کیا جائے۔ ج حوَّوڈو۔

حوص المرعى: چر کے بالکل صاف کیا جانا۔

حوصه: علی الشئی: لالچ دلانا۔

تحوص: بھگت لالچ کرنا۔ وقت کا انتظار کرنا اور اسی سے ہے ہو يتحوص غداہم و عشانہم وہ ان لوگوں کے صبح شام کے کھانے کے وقت کا انتظار کرتا ہے۔

الحوص: س۔ لالچ۔

الحوصة والحارصة والحريصة: زخم جو کچھ کھال کو پھاڑ دے۔ الحارصة والحريصة: سخت بارش جو زمین کو صاف کر دے۔

حوص (ن ض) حوصا و حوصا و حوصا (س) حوصا و حوصا (ک) حوصا۔

مرض فاسد میں مبتلا ہو کر دبلا ہونا۔ صفت (حوص و حوص و حوص و حوص و حوص و حوص) حوصا: ہناقا حوص: دہلی اونٹنی۔

حوص (ض) حوصا: نفسہ: خراب کرنا، بگاڑنا۔

حوصه: علی الامر: براہینتہ کرنا۔ فلانا: کسی کے بدن یا عقل کی خرابی کو دور کرنا۔ الشئی: خراب کرنا، بگاڑنا۔

أحوصه: گراتا ہ الحوص: او المرص: بدن کو گھلا دینا ہ علی الشئی: براہینتہ کرنا الرجل: ناخلف اولاد کا باپ ہونا۔

حاص: علی العمل: مداومت کرنا۔ فلانا: تیر کی چمڑے ایک دوسرے کو مارنا۔ تحاصفوا: علی العمل: ایک دوسرے کو براہینتہ کرنا۔

الحوص: س۔ بدن یا مذہب یا عقل کی خرابی حوص الثوب: کپڑے کا کنارہ۔

الحوص: قریب بھلاکت۔ بے فیض آدمی۔ وہ شخص جس کو غم یا عشق گھلا دے۔ گرا ہوا جو اٹھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ بڑی گفتگو۔ ج

أحواض و حوصان و حوصة۔ الحوص والحوص: اثنان جس سے

تحوص: بہ: درپے ہونا۔ تحوص الصب والبصب: شکار کرنا۔

أحوص: الشئی: جمع کرنا القوم: اکٹھا ہونا الرجل: دھکا دینا اعمالہ: کمائی کرنا الصب: شکار کرنا۔

الحوص: س۔ اڑھو کا، فریب۔ جماعت۔ ج حوصا۔

الحوص: کھر در۔ وہ شخص جس کو نیند نہ آئے۔

الحوصة والحوص: کھر در ہیں۔ الحوص: کسلائی۔ ج حوصا: کن بھجورا۔

الحوص: ایک دریائی جانور۔ گینڈا، ایک قسم کا چنی دار سانپ۔

الحوصة: ایک قسم کی نباتات۔ کہا جاتا ہے "أخروج له حوصیة" میں نے اس کیلئے اپنا سب کچھ جو میرے قبض میں تھا نکال دیا۔

الحوص: من الحیات: پرانا سیاہ سانپ۔ الأحوص: کھروری گوہ۔ دینار احوص: نئے ہونے کی وجہ سے کھر در دینار۔ ج حوص۔

الحوصف: مچھلی کا سفنا۔ چھوٹے پرندے۔ بڑی کہ ابھی پرندے نکلے ہوں۔ زرہ کی کڑیاں۔

کمزور بوڑھے۔ کہا جاتا ہے "ليس ثمة غير حوصف رجال" وہاں پر سوائے کمزور و بوڑھے لوگوں کے کوئی نہیں۔ پیلاؤں کی جماعت۔ سمندر کے کنارے کے پتھر۔ ج حوصیف۔

الحوصف: سخت زمین۔ حوص (ن) حوصا: الحلد: چھیلنا۔ القصار الثوب: دھونے یا کوٹنے میں پھاڑنا۔

حوص (ض) و حوصا و تحوصا: الصب: شکار کرنا البصير: تیز چلنے کیلئے رستی سے پیٹھ کو رگڑنا الرجل: خراش لگانا۔

حوص (س) حوصا: سخت ہونا۔ صفت (أحوص) الرجل: دھکا دینا۔ حوص: بین القوم و بین الکلاب والسباع: ایک کو دوسرے کے خلاف براہینتہ کرنا۔

حوصة (ن ض) حوصا: حفاظت کرنا۔ صفت (حوص) حوصا و حوصة و حوص و أحوص: حوص السماء و حوص السمك: نو ستاروں کے نام۔

حوص (ض) حوصا و أحوص: الشئی: رات میں چوری کرنا۔

حوص (س) حوصا: زمانہ دراز تک زندہ رہنا۔

أحوص: بالمکان: حفاظت کیلئے قیام کرنا۔

تحوص و أحوص: منہ: محفوظ رہنا، بچ کر رہنا۔

الحوص: س۔ زمانہ۔ کہا جاتا ہے "مضى عليه حوص" اس پر ایک زمانہ گزر گیا۔ ج أحوص۔

الحوص: حفاظت کرنے والے۔ و حوص المملک: شاہی محافظ۔ فوج۔ واحد (حوصی) الحوصان: رات دن۔

الجوصة: حفاظت۔ الحوصة: بکریوں کا باڑہ۔ رات میں چوری کی ہوئی بکری۔ چوری۔ ج حوصان۔

الأحوص: جس پر ایک زمانہ گزر گیا ہو۔

الحوصان: بڑی کی ایک قسم۔ الحوصم: گوشہ۔

الحوصم: زہر و موت۔ الحوصین: ایک قسم کی مچھلی۔ الحوصین: ڈیلے اونٹ (اس کا واحد نہیں) قطا والے سال۔

حوص (ض) حوصا و تحوصا: الصب: شکار کرنا البصير: تیز چلنے کیلئے رستی سے پیٹھ کو رگڑنا الرجل: خراش لگانا۔

حوص (س) حوصا: سخت ہونا۔ صفت (أحوص) الرجل: دھکا دینا۔ حوص: بین القوم و بین الکلاب والسباع: ایک کو دوسرے کے خلاف براہینتہ کرنا۔

کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے تھے۔
 الحروف ضارہ قسم کا آدمی جس کو کوئی مذنب
 لگائے۔ ج حروض
 حروف (ض) حروفاً. الشئ عن وجه:
 پھیرنا، جھکانا عن الشئ مائل ہونا۔
 لعیالہ ہنوز ہر ادھر سے کماٹی کرتا۔
 حروف. فی مالہ حروفہ کچھ ضائع ہو جانا۔
 حروف. القول قول کو اس کے موقع سے
 پھیر دینا القلم غیر حافظ لگانا۔
 الشئ شکارہ بنانا۔ جھکانا۔
 حارفعہ معاملہ کرنا۔ اور اسی سے ہے "فقدنا
 علمونا فی الغزو کیف نحارفعہ انہوں
 نے یقیناً جان لیا کہ ہم جنگ میں ان کے ساتھ
 کیسا معاملہ کرتے ہیں الرجل شریخیر کا بدلہ
 دینا الجوح نملائی سے اندازہ کرنا۔
 آخر حرف بقیری کے بعد مستغنی ہونا۔ اہل و
 عیال کے لیے مشقت برداشت کرنا۔
 النافقہ ڈنڈہ کرنا الرجل غیر وشر کا بدلہ
 دینا۔
 تحرف عنه وانحرف و اخو زرف
 ایک جانب کو جھکانا۔ تحرف لعیالہ ہنوز پیشہ
 سے کماٹی کرنا۔
 اختورف پیشہ اختیار کرنا۔ تلاش کرنا۔ جیلہ
 کرنا لاهلہ تلانی کرنا۔
 الحروف ج حروف کنارہ، دھار۔ جانب
 "حرف الجبل پہاڑ کا تیز سرا۔ کہا جاتا ہے
 "فلان علی حرف من امرہ ٹلاں شخص
 معاملہ کے ایسے موقع پر ہے کہ اگر پسند خاطر نہ
 ہو تو ہٹ جائے۔
 الحرف: پانی بننے کی جگہ۔ حروف
 السیفینہ او النہر بختی یاد رکھنا کنارہ۔
 الحرف ج حروف و آخر حرف
 حروف
 جمعی میں سے ایک اور اس کا نام "سوروف
 المعنی ہے فی النحو نہ کلمہ جو بغیر
 دوسرے سے ملے ہوئے معنی نہ دے اور اس کا
 نام حرف المعنی ہے۔ کلمہ جیسے یہ حرف
 قاموس میں نہیں یعنی یہ کلمہ نہیں۔

الحروف رائی واحد (حروفہ)
 الحروف: حب رشاد واحد حروفہ۔
 الحروف محرومی۔ بد بختی۔
 الحروف قیش۔
 حریف الرجل حمل پیشہ۔ ج حوفاء
 الحروفہ محرومی۔ کم نصیبی۔ بد بختی۔
 الحروف اقچہ پراہٹ۔
 الحروف یف چ پراہٹ والی چیز۔ کہا جاتا ہے
 "هذا بصل حریف تیز پیاز ہے۔"
 المحترف پیشہ ور۔
 المخروف والمخروف زخم کی گہرائی
 معلوم کرنے کی سلائی۔
 المخروف وہ شخص جس کا مال ضائع ہو گیا
 ہو۔
 المخراف محروم۔ کم نصیب۔
 حروفون حروفاً بالنار جلا تا۔
 بالمبرد ذہنی سے رگڑنا الشئ بعض کو
 بعض سے رگڑنا۔
 حروف (ض) حروفاً و حریفاً و
 حروفاً. نابہ علیہ ذہن پینا۔ کہا جاتا ہے
 "فلان یحرف و یحرف علی الأزم یعنی
 وہ میرے اوپر ذہن پیتا ہے۔ شدت غضب
 کے لیے بطور کنایہ کے بولتے ہیں۔
 حروفلاس حروفاً شعورہ کٹ جانا یا
 جانا۔ مفت (حرف) الشغور۔
 حروف و حروف پیر کی کٹی ہوئی رگ یا پٹھے
 والا ہوتا۔
 حروفہ و آخرتہ بالنار جلا تا۔
 حرق المرعی الابل نیاس لگانا۔
 تحرق و احترق جلا تا۔
 حارق مُحارَفۃ۔ المرأة پہلو پر لٹا کر
 جماع کرنا۔
 الحرق والحرق۔ جلن۔ الحرق:
 دھوئی کے جلنے سے پڑے کی پھین۔
 الحرق کلکزے میں جلنے کی وجہ سے سورج۔
 الحرق سخت چمک والا بدل۔ ہال جو دراز نہ
 ہوں۔

الحروفۃ والحرف فکری۔ کہا جاتا ہے "فی
 حروفہ حروفۃتس کے جوف کے اندر گری
 ہے۔"
 الحرفۃ والحاروفۃ والحرافۃ مشیر
 ہراں۔
 الحراق والحراق ہر چیز کو بگاڑنے والا۔
 الحراق ہبت کھاری پانی۔ بہت تیز دوڑنے
 والا گھوڑا۔
 الحریق ہگ کی بھڑک۔ آگ کا شعلہ۔ جلا
 ہوا۔ سردی یا گرمی سے جلی ہوئی نباتات۔ ج
 حرقہ۔
 الحریقۃتہ الناس کے نزدیک کسی جگہ پر
 آگ بھٹک اٹھنا۔ حرارت۔
 الحراقہبت کھاری پانی۔
 حرقا صوم کے نزدیک لقمہ طعام۔
 الحراقۃ بختی جس پر بے دشمنوں پر آگ
 پھینکی جائے۔ ج حرقاقت عوام کے نزدیک
 حرقاقتس کو کہتے ہیں جو کھال پر رکھ دیا جائے
 تو آبلہ اٹھ آئے۔
 الحروق والحروق پھرتاق کا سونڈ۔
 الحرقۃ گرمی (والحرقۃ تلک قسم کی
 خوراک جس کو پانی جوش دے کر آناؤال کرتیار
 کرتے ہیں۔
 الحرقۃ دیتی۔
 الحرقۃ قویجہ جس کو اظہار عبودیت کیلئے
 جلا دیا کرتے تھے۔ ج محرقات۔
 الحرقۃ غیر کی رگ یا پھلا۔
 عمامہ (حرقۃ قینہ کسٹری رنگ کا عمامہ۔
 الحرقۃ قلدبان کی جڑ۔ ج حرقا قد۔
 الحرقۃ قزخہ کی گرہ۔
 حرقص فی الممشی لرب قریب قدم
 رکھنا۔ الکلام جلدی جلدی بولنا۔
 الحرقوص پسو کی مانند ایک کیڑا۔ ج
 حرقیص۔
 الحرقوص نمونے ہوئے گوشت کا ٹکڑا۔
 الحرقۃ قسمرین کی ہڈی کا سرا۔ ج حرقاف
 و حرقیف۔

المُحْرَفُونَ. دیکھا جانا۔

حَوْك (ن) حَوْكًا. حق ادا کرنے سے باز رہنا۔ حَوْكَة: دونوں کندھوں کے درمیان میں مارنا۔ حَوْك حَارِكَة: دونوں کندھوں کے درمیان کاٹ دینا ہا بالسیف: تلوار سے مارنا۔

حَوْك (س) حَوْكًا: کمر یا دونوں کندھوں کے درمیان کمزوری والا ہونا۔ نامرد ہونا۔ مفت (حَوِيْك) ہونٹ حَوِيْكَة۔

حَوْك (ك) حَوْكًا و حَوْكَة: ہلنا۔ حَوْكَة: ہلان۔ کہا جاتا ہے "حَوْكٌ مِّنِي الْأُمُو": مجھے معاملہ نے مضطرب کر دیا۔

الْحَارِكِ: فادوں کندھوں کے درمیان کا لائی حصہ۔

الْحَرْكَةُ الْيَوْمِيَّةُ (فلكيات)

آسانی گیند کی گردش کا تصور جہاں کے محور کے رد گرد جس کا سبب زمین کی گردش اپنے محور کے ارد گرد۔

الْحَرَكَ: حرکت۔

الْحَوْك: سبک و خیز خاطر۔ کہا جاتا ہے "غلامٌ حَوْكٌ" سبک و خیز خاطر لڑکا۔

المُحْوَرَك: حرکت دینے کا آلہ۔ کرینچی۔

الْمُحْوَرَكُ ج مُحْوَرَكَاتٍ: مختلف جہازوں کاڑیوں کے انجن۔

المُحْوَرَكُ: گردن اور سر میں جوڑی جگہ۔

حَرْكَتْ حَوْكَةً: الربيع الاشجار:

ہلانا۔

الْحَوْرِكَلَّة: سبزین کا وہ حصہ جو بیٹھنے میں زمین سے لگے۔ ج حَوْرَاكِك و حَوْرَاكِيك:

المُحْوَرَكُ: کندھوں کے درمیان کا حصہ۔

حَوْكٌ كَثَلٌ: الصائبة: دکار سے محروم واپس آنا۔

الْحَوْرِكَلَّة: ایک قسم کی رفتار۔ پیادے۔

حَوْمَه (ض) و حَوْمَة (س) حَوْمًا و حَوْمًا و حَوْمَانًا و حَوْمًا و حَوْمَة:

حَوْمَة الشئ: منع کرنا۔ روکنا۔ محروم کرنا۔ مفت معنوی (محروم)

حَوْمًا و حَوْمًا و حَوْمًا و حَوْمًا

(ك) حَوْمًا و حَوْمًا و حَوْمَة و حَوْمَة و حَوْمًا و حَوْمًا

حَوْمًا. عَلَيْهِ الْأُمُو: حرام ہونا۔

حَوْم (س) حَوْمًا و حَوْمًا. فِي الْقَمَار:

جوئے میں ہارنا۔

حَوْمٌ. الشئ: حرام کرنا۔ حَوْمُ الصَّلَاة:

نماز کا تحریمہ باندھنا (وا حَوْم) ماہ حرام میں داخل ہونا۔ حَوْمُه و احْرَمُه فِي الْقَمَار:

غالب ہونا۔ وَا حَوْمٌ: حرم میں داخل ہونا۔

أَحْرَمُ الشئ: حرام کرنا۔ أَحْرَمُ عَنِ

الشئ: نہ کرنا، باز رہنا۔

حَوْمٌ. مِنْهُ بِحَوْمَةٍ: کسی کے ذمہ میں آکر

محفوظ ہونا۔ حَوْمٌ بِهِ: ایک ساتھ زندگی بسر

کرنے کی وجہ سے دونوں کے درمیان حرمت

قائم ہو جانا۔ کہا جاتا ہے "تَحَوَّمْتُ بِطَعَامِكَ

و مَجَالِسِكَ" یعنی ایک ساتھ کھانا کھانے

اور بیٹھنے، اٹھنے کی وجہ سے مجھ سے جس چیز کا

لینا تمہارے لیے جائز تھا وہ ممنوع ہو گیا۔

إِحْتَرَمَهُ. ذُنَابًا: حرمت و عزت کی رعایت

کرنا۔ احْتَرَمُ الشئ: محروم ہونا۔ "لَا

تَحْتَرِمُ فِتْحَتَرِمٌ" میں دونوں معنی جمع ہو گئے

ہیں۔ یعنی ڈرمت ورنہ خیر سے محروم رہو

گے۔

إِسْتَحْوَمَ. الشئ: حرام سمجھنا۔

الحِزْم. س. حرام۔ ایسا وجہ جس کا ترک کرنا

جائز ہو۔ ج حَوْمٌ: حرام کا زمانہ۔

الحَوْم. س. حج کا حرام۔

الحَوْم. س. ہر وہ چیز جس کی حفاظت کی

جائے اور جس کی طرف سے مدافعت کی

جائے۔ مقدس۔ ج أَحْرَام. الحَوْم

الاقصی: بیت المقدس

الحَوْمان. مَنَكَة: مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ۔

الْحَوْمَان. محرومی۔

الْحَوْمَة و الْحَوْمَة و الْحَوْمَة: ذمہ،

ہیت، ہر وہ چیز جس کی ادائیگی ضروری ہو اور

جس کے اندر کوتاہی حرام ہو۔ حصہ۔ قابل

حفاظت چیز جس کی پردہ روری حرام ہو۔ حَوْمَة

الرجل: بیوی۔ ج حَوْم و حَوْمَات و حَوْمَات

الحَوْمَة: حفاظت۔

الحَوْنِم. س. ہر وہ چیز جو حرام ہونے کی وجہ

سے چھوٹی نہ جائے۔ محرم کا کپڑا۔ حَوْنِم

الرجل: جس کی طرف سے مدافعت اور اس

کی حفاظت کی جائے اور اسی وجہ سے بیوی کو

حَرِيم کہتے ہیں۔ قصر شاہی کے ارد گرد و وسیع

جگہ۔ ہر وہ جگہ جس کی حفاظت واجب ہو۔ ج

حَوْم و أَحْرَم و أَحْرَامِم.

الحَوْم: ایک شخص کی بیویاں۔ الْأَشْهُرُ

الحَوْم: أربعة: ذوالقعدة و ذوالحجہ و محرم و

رجب کہ ان مہینوں میں عرب قتل و قتال کو

حرام سمجھتے تھے۔

الْحَوْنِمَة. س. ہر مرغوب چیز سے جو فوت

ہو جائے۔

الْحَرَاد. س. ضد حلال۔ ج حَوْم. کہا جاتا

ہے "حَرَامٌ اللَّهُ لَا اِفْعَالُ هَذَا" قسم کیلئے

جیسے "يَسِينُ اللَّهُ لَا اِفْعَالُ" حرام باندھنے

والا۔ کہا جاتا ہے "رجل حرام و قوم

حرام" حرام باندھنے والا مرد، حرام باندھنے

والی قوم۔ دونوں صورتوں میں واحد ہی مستعمل

ہے اس وجہ سے کہ یہ مصدر ہے۔ الشهور

الْحَرَاد: ماہ محرم۔ البلد الحرام: مَنَكَة

مکرمہ۔ المسجد الحرام: مسجد مکہ۔

الْحَرَامِي. حرام کام کرنے والا۔

مُحْرَم. قمری سال کا پہلا مہینہ۔ الْمُحْرَم:

جس کے لیے ذمہ ہو۔ جلد مُحْرَم: بے

کمانی ہوئی کھال سَوَط مُحْرَم: کوڑا جو زرمہ نہ

کیا گیا ہو۔ أَقْرَابِي مُحْرَم: اُخْتَدِيہائی۔

الْمُحْرَم. حرام۔ ج مَحْرَام. مَحْرَام

اللَّيْلِ: رات کے خطرات۔

الْمُحْرَم. حرام باندھنے والا۔ صلح کرنے

والا۔ ہر وہ شخص جو تمہاری حفاظت میں ہو۔ کہا

جاتا ہے "أَنَّ الْمُحْرَمَ عِنْدَكَ" یعنی اس کی

تکلیف تمہارے آؤد حرام ہے۔

الْمُحْرَم. خیر سے روکا ہوا۔ وہ شخص جس

کے مال میں زیادتی نہ ہو۔ وہ بد نصیب جو کمائی نہ کر سکتا ہو۔

المَحْرَمَةُ والمَحْرَمَةُ: ہر وہ چیز جس کی پروردہ جاری جائز نہ ہو۔ ج محارم۔

حَرْمَةٌ: فی الامر: اصرار کرنا۔

العِزْمَةُ والعِزْمَةُ: رگ و پو بدلا ہوا اور بقول بعض سیاہ بچڑ۔

حَرْمَةٌ: لعنت کرنا۔

العِزْمَةُ: کالا دانہ۔

حَرْوَنٌ و حَرْوَنٌ (ن و ک) حَرْوَنًا و حَرْوَانًا و حِرَانًا. البَغْلُ: اڑ جانے۔ صفت مذکر مؤنث

(حَرْوَنٌ) حَرْوَنٌ و حَرْوَنٌ فی البیع: ٹھک قیمت پر بیچنا۔ حَرْوَنٌ (ک) حَرْوَنَةٌ۔

بالمِکَانَ: جگہ سے نہ ہٹنا العِصْلُ فی الخَلْبَةِ: شہد کا ہمتہ میں چپکنے کی وجہ سے

کالے میں دشواری ہونا۔ و حَرْوَنٌ القَطَنُ: حنہ۔

المِخْرُونُ: دُغْنَةُ کی مکان۔

الحِرَا: گھر کا گھن۔ کہا جاتا ہے "نَزَلَتْ بِحِرَاةٍ" میں اس کے گھن میں اتر آواز۔

رہ۔ ہرن کے۔ چپے کی جگہ۔ ج اَحْرَاءُ. الحِرَا: لائق۔ کہا جاتا ہے "بالحِرَا اَنْ يَكُونَ ذَاكُ"

الحِرَاوَةُ: رائی وغیرہ کی تیزی۔

الحِرْوَةُ: گلے یا سینے میں یا سر میں غصہ یا درد کی وجہ سے جلن۔ بدلو کے ساتھ چر پراہٹ۔

حَرْوَى (ض) حَرْوَانًا: الشَّيْءُ: گھٹانا۔ کم ہونا۔ اَحْرَى: الشَّيْءُ: گھٹانا۔ کم کرنا۔

تَحْرَى: قابل استعمال کو طلب کرنا۔ دو چیزوں میں سے اولیٰ کو طلب کرنا الاَمْرُ: قصد کرنا اور فضیلت دینا بالمِکَانَ: ضمیر نا۔

المَحْرَى والمَحْرَاةُ: لائق سزاوار۔ کہا جاتا ہے "هَذَا الامر محروى" محروا

لذَلِكَ اَوْ بَدَا لِكَ" یعنی یہ کام اس کے لائق ہے۔

الحَرْوَى: ج حَرْوِيٌّ و اَحْرِيَاءُ مؤنث حَرْوِيَّةٌ و حَرْوِيَّاتٌ و حِرَايَا (النحوى) ج

اَحْرَاءُ (الحَرْوَى) لائق سزاوار۔ مناسب۔ کہا جاتا ہے۔ "اِنَّهُ لِحَرْوَى اَوْ حِرَى اَوْ حَرْوَى بَكَلًا يَأْتِي فَيُفْعَلُ كَذَا" یعنی وہ لالہں چیز کے

لائق ہے اور فلاں کام کرنے کے لائق ہے۔ (آخر کلمہ کے شنیہ و مع نہیں آتے)

الحَارِيَّةُ: بہت زہریلا سانپ جو پرانے ہونے کی وجہ سے چھوٹا ہو گیا ہوتا۔

اَحْرَبَهُ: فعل تعجب ہے بمعنی کس قدر لائق۔ اس کی ترکیب اَحْرُ فعل امر بمعنی تعجب اس کے

آخر میں ی حرف علت گرا دیا گیا ہے۔ بہ۔ با حرف زائد ہے اور ہا حالت رفع میں فاعل

اَحْرَا۔ الاَحْرَى: زیادہ لائق زیادہ مناسب، زیادہ بہتر۔

رِجَالُ التَّحْرَى: پولیس کی تفتیش پارٹی جو کہ جرائم اور مجرمین کے متعلق تفتیش کرتے ہیں۔

حَوْزَةٌ (ن) حَوْزًا و اِحْتِزَّةٌ: کانٹا۔ حَوْزُ العُودِ: شگاف ڈالنا۔

تَحْوَزُ: شگاف پڑنا۔ حَوْزًا و اَحْوَزًا: علیٰ کرم فلان: بڑھ جانا۔

حَوْزٌ: اَسْنَانُهُ: کناروں کو تیز کرنا۔ حَاوَزَةٌ مُحَاوَزَةٌ و حِزَاوًا: پوری کوشش کرنا۔

الحِزْوُ: سر۔ وقت۔ سخت گفتگو والا۔ لکڑی وغیرہ میں شگاف۔ واحد (حَوْزَةٌ)

الحِزْوَةُ: درودل۔ دقت۔ کہا جاتا ہے "اِنِّى حَوْزَةٌ اَتَيْتَنِى قَضِيَّتٌ حَاجِطٌ" میں نے

اس وقت تیری حاجت پوری کی جب تم میرے پاس آئے۔ دشوار حالت

الحِزَاوُ والحِزَاوَةُ: سر کی بھوسی۔ عوام حزاز کو داد کے معنی میں استعمال کرتے ہیں مگر

فصح لفظ اس کیلئے تو باء ہے۔ الحِزَاوَةُ: غصہ وغیرہ کی وجہ سے دل کا درد،

گفتگو میں بے راہ روی۔ ج حِزَاوَاتٌ الحِزَاوُ والحِزَاوُ: ہر وہ چیز جو دل یا سینہ میں

باعث تکلیف ہو۔ حِزَاوٌ: القَلْبُ: دل کو اَلْمُ بھونچانے والے

امور۔ واحد (حَاوَزَةٌ)

المِخْرِيَّةُ: سخت عمل کرنے والا ج حُزُوٌ و حُزَانٌ و حِزَانٌ و اِحْوَزَةٌ۔

الْحِزَاوُ: بھوسا جو کہ چھٹی کے بعد گرتا ہے۔ ایک بیماری کا نام

الْحِزَاوِيُّ: سخت عمل کرنے والا۔ تیز ہانکنے والا۔

الْحِزَاوُ: سفید یا سبز پودا جو کہ پتھروں یا باغیوں میں پیدا ہوتا ہے۔

المِخْرُ: کانٹے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے۔ "قطع فاصاب المِخْرُ" اس نے قطع کیا اور

درست قطع کیا۔ المِخْرُ: کانٹے کا آلہ۔ ج محارز: سخت گفتگو والا۔

الحِزْوُ: سختی۔ العِزْوَةُ: نغصہ۔

الحِزَاتُ: شرح ازرد پھول کا نام۔ حِزَا (ف) حِزَا: الابل: جمع کرنا۔ اَلطَّهْرَانَا

السَّرَابِ الشَّخْصُ: نمایاں کرنا المرأة: جمع کرنا۔

الطَّانُو: پروں کو سمیٹ کر اظہار سے علیحدہ ہونا الابل: اَلطَّهْرَانَا حِزْوَهُ (ن) حِزْوَانًا: الوَيْلُ العِصْمَةُ: بچنا۔

لائق ہونا، سخت ہونا۔ حِزْوَبُ القُرْآنُ: ایک حصہ مقرر کر کے پڑھنا۔

حِزْوَبُ القَوْمِ: پارٹی پارٹی کر کے جمع کرنا۔ حِزَابُهُ: کسی کی پارٹی میں داخل ہونا۔ مد کرنا۔

قوت پہنچانا۔ حِزْوَبُ القَوْمِ: اکٹھا ہونا۔ پارٹی پارٹی ہونا۔

الحِزَابُ: ج حِزَابٌ و (العِزْبُ) ج حِزْبٌ و حِزْبٌ: امر شدید۔ تم کہتے ہو "نَزَلَتْ بِه حِزَابُ الخُطُوبِ" اس پر

سخت حادثے واقع ہوئے۔ "وهذا امر حِزْبٌ" یہ دشوار امر ہے۔

الحِزْبُ: لوگوں کی جماعت۔ ہتھیار پارٹی۔ حصہ۔ درد۔ وظیفہ۔ ج اَحْزَابٌ: ہر وہ قوم جس کے خیالات و افکار ایک ہوں اگرچہ آپس میں

کر پیشین گوئی کرے اور اسی سے ہے "علی الجازی ہیبطت" یعنی میں دانا اور واقف کار کے پاس پہنچا۔

الخزى والخزاء: واحد خزاءة و خزاة۔
جو ان کی طرح بود۔

حسّون (حسّون) حسّا قتل کرتا۔ جڑ سے اکھیرتا۔
حسّ الدابة: کھریا کرنا البرد النورع:
جلاتا۔

المحسّم: چگاری پر ڈالنا النار: پختہ ہونے کے لئے کباب وغیرہ پر آگ ڈالنا۔
حسّ (ض) حسّا وحسّ الشئ و بالشئ: معلوم کرتا۔ کہا جاتا ہے "حسّ واحسّ منه خبراً" اس نے اس سے خبر معلوم کی۔

حسّ (س ض) حسّا وحسّا بالخبر: یقین کرنا لفلان: زہم دل ہونا۔

حسّہ: معلوم کرنا۔
تحسّس: سننا دیکھنا الخبر: معلوم کرنے کی کوشش کرنا الشئ: حواس سے پہچاننا۔
تحسّس منه: حقیقت حال معلوم کرنا۔
انحسّ: اُسناہ: اکھر جانا۔ ٹوٹ جانا۔
انحسّ الشئ: چھوٹا۔ جڑ سے اکھیرنا۔

الحسّ: س۔ حرکت: آہستہ آواز۔ کہا جاتا ہے "ما سمعت له حسّاً" میں نے اس آہستہ آواز نہیں سنی۔ آہستہ۔ بچہ کی پیدائش کے بعد کا درد۔ حسّ الحمی: بخار کے شروع ہونے کا احساس۔

الحسّ: س۔ حیلہ۔ شور۔
الحسّۃ والحسّۃ: حالت۔ کہا جاتا ہے "ہو فی حسّۃ سوء" وہ بُری حالت میں ہے۔

الحاسّۃ: الحاسّ کا مؤنث۔ معلوم کرنے کی قوت۔ ح حواس الحواس الخمس: معلوم کرنے کی پانچ قوتیں۔ (سننا دیکھنا سونگھنا) چکھنا چھونا "حواس الارض خمس" زمین کے لئے پانچ آفتیں۔ سردی، اولے، ہوا، ٹڈی، موٹی۔ کہا جاتا ہے "موت بالقوم

حواس" لوگوں پر سخت سال گزرے۔
الحسّیس: آہستہ آواز۔ حرکت۔ مقبول۔
حسّاس الحمی: بخار کے شروع ہونے کا احساس۔

الحسّی: وہ چیز جس کا ادراک قوت حاسہ سے ہو اور اس کا ضد عقلی ہے۔

الحسّاس: ایک قسم کی چھوٹی مچھلی جو خشک کی جاتی ہے۔ پتھر کے چھوٹے ٹکڑے۔ واحد (حسّاسۃ) بدبختی۔ بد خلقی۔

حسّاس گاڑی کی ریس۔
الحسّوس: سخت قحط کا سال۔

المذہب الحسّی: ان لوگوں کا نظریہ جن کا عقیدہ ہے کہ تمام عقلی ملکات احساس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔

حسّاسات الحیا: کہنا یہ ہے شرمندگی کی چیزوں کی وجہ سے انقباض کے احساس ہے۔

المحسّوس: حس ظاہری سے معلوم کیا ہوا۔ بدبخت۔ ارض محسّوسۃ: ٹڈی یا اولے سے تباہ شدہ زمین۔

المحسّۃ کھریا۔
الحاسّوس جاسوس۔

حسّیہ (ن) حسّیا وحسّابا وحسّابانا وحسّابانا وحسّیۃ وحسّابۃ: شمار کرنا۔
حسّیہ (س ح) حسّیا ومحسّیۃ ومحسّیۃ: گمان کرنا۔

حسّب (ک) حسّبا وحسّابۃ: شریف الاصل ہونا۔ صفت (حسّیب) ج حسّیاء۔

حسّب: تکلیف دینا المیت: کفن کر دینا کرنا یا پتھروں میں دفن کرنا۔ (واخصیہ) کسی کو اتنا کھلانا دینا کہ وہ بول اٹھے کہ بس۔ کہا جاتا ہے "اعطی فاحسّب" یعنی اس نے دیا اور بہت دیا۔

حاسّیہ نحاسیۃ وحسّابا: حسابات کی جانچ کرنا۔

تحسّب: قناعت کرنا۔ تکلیف لگانا۔ الخبر: دریافت کرنا۔ پہچاننا۔ قصد کرنا۔

تحاسّبا: ایک دوسرے کے حساب کی جانچ کرنا۔

کرنا۔

احسّب: الامور: گمان کرنا۔ شمار کرنا ما عند فلان: آزمائش کرنا۔ احسّب علیہ الامور: امر منکر سے منع کرنا بہ: قناعت کرنا عنہ: رک جانا، باز رہنا۔ احسّب ولذا لہ:

بڑی عمر کے بچہ کو کھودینا (اور اگر چھوٹا بچہ مر جائے تو اس کے لئے انفرطہ آتا ہے عند اللہ خیراً ثواب کی امید رکھنا۔ کہا جاتا ہے "فلان لا یحسّب بہ" یعنی فلاں اس کے مقابلہ میں کسی شمار میں نہیں و "فلان استعطانی فاحسّیۃ" فلاں نے مجھ سے عطیہ مانگا اور میں نے اس کو کافی دیا۔

الحاسیب: فاحسب۔ حساب۔ داں۔ ج حسّیۃ الحسّب: س۔ کافی ہونا۔ کہا جاتا ہے "حسبک درهم" اور باہ کی زیادتی سے "بحسبکک درهم" بھی کہا جاتا ہے یعنی تمہارے لئے ایک درہم کافی ہے۔ و هذا رجل حسبک من رجل" یہ مرد تمہارے لئے اس مرد سے کافی ہے و "زید صدیقی فاحسّی او فاحسّب" زید میرا دوست ہے اور میرے لئے کافی ہے۔

الحسّب: حسّب کا مصدر۔ عدد۔ اندازہ کہا جاتا ہے "هذا بحسب ذاک" یہ اس کے موافق ہے و اععمل علی حسّب ما امرتک" یعنی کرو اس کے موافق جیسا میں نے تم کو حکم دیا ہے۔ و "حسبما ذکرت" موافق اس کے جو ذکر کیا گیا۔ خاندانی شرافت، آباء و اجداد کے مفاخر۔ الحسّب: شمار کیا ہوا۔

الحساب: س۔ شمار۔ کافی۔ کہا جاتا ہے "اغطاء عطاء حساباً" اس نے اس کو کافی دیا۔ لوگوں کی بڑی جماعت۔ کہا جاتا ہے "اتانی حساب من الناس" جیسا کہ کہا جاتا ہے "جاء نبی عذد منہم و برزق اللہ من یشاء بغير حساب" اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر کسی دستخطی کے رزق دیتا ہے۔ حساب الجمل: حروفِ اجداد کا حساب۔ یوم

المَحْسَرُ: فلاں دیکھنے میں خوبصورت اور باطن کے لحاظ سے کریم ہے۔ طبیعت۔ ج مَحَابِسِ: کہا جاتا ہے "أَرْضٌ عَارِيَةٌ المَحَابِسِ: بغیر نباتات والی زمین۔

المَحْسَرُ: جھاڑو۔
المَحْسُورُ: البَصْرُ: کھلی ہوئی نگاہ والا۔

حَسَفَتْ (ض) حَسَفًا وَ حَسِيفًا
الْحَيْةُ: پھنکارنا (حَسَفَ (ض) حَسَفًا)
السَّحَابُ: چلنا الغنم: کھانا التمر: صاف

کرنا القرحا: چھیلنا۔
(حَسَفًا وَ حَسَفًا) الزَّرْعُ: کھانا۔

حَسِيفَ (س) حَسَفًا: لہ: کیڑہ رکھنا۔
غضبناک ہونا۔

أَحْسَفَ: التمر: عمدہ کھجوروں میں ردی کھجوریں ملا دینا۔

حَسَفَ: التمر: عمدہ کھجوروں میں ردی کھجوریں ملا دینا۔

حَسَفَ: التمر: ردی کھجوروں سے صاف کرنا۔

تَحَسَّفَ: الجلد: چھلنا اِدْبَارُ الْاِبْلِ: اُونٹ کے بالوں کا چھڑ جانا۔

اِنْحَسَفَ الشَّيْءُ فِي يَدِي: ریزہ ریزہ ہونا۔

الْحُسَافُ: کھائی ہوئی چیز کا تھوڑا بقیہ۔

الحُسَافَةُ: ردی کھجوریں یا کھجور کے چھلکے۔

کہا جاتا ہے۔ "فَلَانٌ لَا يُعْطَى مِنَ الْبُرِّ اِلَّا سَافَةً" مِنَ التَّمْرِ اِلْحُسَافَةُ: فلاں گیہوں کی صرف پھلکن اور کھجوروں میں سے

صرف ردی کھجوریں دیتا ہے۔ تھوڑا پانی۔

حُسَافَةُ الدَّنَسِ: رذیل لوگ۔ (الحُسَافَةُ وَالْحَسِيفَةُ: دُشْمَانِيَّةٌ) كَسْبَةٌ هِيَ "زَجَجَ بِحَسِيفَةٍ نَسِيمًا" بغير اِثْنِي حَاجَتِ پوری کئے

ہوئے واپس ہوا۔

حَسِبَكَ (س) حَسِبًا: عليه: غضبناک ہونا۔ صفت (حَسِبَكَ) الدَابَّةُ: چارہ کھانا،

دانہ چبانا۔
أَحْسَكَ: الدَابَّةُ: چارہ دینا۔

تَمَكَّ جاتا۔ الشَّيْءُ: کھل جانا الماء: میچے اتر جاتا (حَسْرًا) الرجلُ او الدَابَّةُ: تھکنا۔

حَسْرًا (ن ض) حَسْرًا: الشَّيْءُ: کھولنا۔ کہا جاتا ہے "حَسْرٌ كُفْمُهُ عَنِ ذِرَاعِهِ" یعنی اس نے آستین چڑھائی۔ "وَ حَسْرَتِ الْجَارِيَةِ خِمَارُهَا عَنِ وَجْهِهَا" یعنی لڑکی نے اپنی

اُوڑھنی اپنے چہرہ سے ہٹا دی۔ صفت مؤنث (حَابِسٌ) ج حَسْرٌ وَ حَوَاسِرٌ۔

الحَسْرُ: میدان جنگ کے پیادے جن کے سر اور چہرے کھلے ہوئے ہوں یا جن کے جسم پر زہر اور سر پر خود نہ ہوں۔ الغصن: چھیلنا

الْبَيْتُ: جھاڑو دینا الدَابَّةُ: چلا کر تھکانا۔

حَسِرَ (س) حَسْرًا: تھکنا۔ (حَسْرًا وَ حَسْرَةً) افسوس کرنا۔

حَسْرَ: الطَّيْرُ: پروں کا گرنا حَسْرَةً: افسوس کرنا۔ افسوس کرنے پر برا بھانتہ کرنا۔

تَكَلَّفَ دینا۔ عقارت کرنا۔

أَحْسِرَ: الدَابَّةُ: چلا کر تھکانا۔

تَحَسَّرَ: عليه: افسوس کرنا الشعرُ او الریش: گرنا۔ جھڑنا۔ تَحَسَّرَ الطَّائِرُ: پروں کا گرنا۔ تَحَسَّرَتِ السَّرَاةُ: برہنہ زو

ہو کر بیٹھنا۔

اِنْحَسَرَ: الشَّيْءُ: کھلنا الطَّيْرُ: پرانے پر گر کر

کرنے لگانا۔

اِسْتَحْسَرَ: تھکنا۔

المَحَابِسِ: فا۔ بغیر عامر یا بغیر زہر یا بغیر خود والا۔ عورت جس نے اپنے چہرہ سے اُوڑھنی کو ہٹا دیا ہو۔

الحَسِيرُ: تھکانے والا۔ افسوس کرنے والا۔ الحَسِيرُ: تھکا ہوا کزور۔ افسوس کرنے والا۔ تھکانے والا۔ ج حَسْرَى۔

الحَسْرَانُ: فوت شدہ چیز پر زیادہ افسوس و حسرت کرنے والا۔

التَّحَابِسِيرُ: مہمبشتیں۔ بلائیں۔ واحد (تَحْسِيرٌ)

المَحْسِرُ وَ المَحْسَرُ: چہرہ۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ مُلْبِحٌ الْمَنْظَرُ وَ كَرِيمٌ

الْحِسَابُ: قیامت کا دن۔
الجَسَابِيُّ: حساب والی۔

الجَسْبَةُ: سر۔ میت کو پتھروں میں یا کفتار کو دفن کرنا۔ ثواب۔ جزا۔ ج حساب۔

الحَسِيبُ: خاندانی شرف والا۔ حساب جانچ کر کرنے والا۔ کہا جاتا ہے "كُفِيَ بِاللَّهِ حَسِيبًا"

الحَسْبَانُ: حساب۔ چھوٹے تیر۔ واحد (حُسْبَانَةٌ)

كُفِيَ بِاللَّهِ حَسِيبًا: اللہ کافی حساب کرنے والا ہے۔ کئی فعل ماضی یا حرف چارہ زائدہ ہے۔

لَفَّظَ اللّٰهُ فَاعِلٌ مَّكْمَلًا مَّرْفُوعٌ ہے۔ حَسِيبًا تَمِيْزٌ ہے۔

الْحُسْبَانَةُ: کڑک۔ بادل۔ اولے۔ چوٹی (وَالْمَحْسَبَةُ) چھوٹا کتیر۔

مُحْتَسِبٌ: البلد: شہر میں حاکم کی طرف سے اوزان وغیرہ کی دیکھ بھال کے لئے جو مقرر ہو۔

حَسْبَلُ: جسے اللہ کھاتا۔

حَسْحَسَ: لَهُ: رومند ہونا اللحم: گوشت کو اٹکاروں پر ڈال کر اٹھانے لگانا۔

تَحَسَّحَسَ: لِلْقِيَامِ: حرکت کرنا اوبارُ الْاِبْلِ: متفرق و پراگندہ ہونا۔ گر جانا۔

حَسَدَتْ (ن ض) حَسَدًا وَ حَسَادَةً وَ حَسَدَتْ: فَلَانًا نِعْمَتَهُ وَ عَلِيٌّ نِعْمَتَهُ: زوال نعمت کی تمنا کرنا دوسرے سے نعمت کے

زوال اور اپنے لئے حصول کی تمنا کرنا۔

صفت (حَابِسَةٌ) ج حَسَادٌ وَ حَسَدَةٌ وَ حُسَدٌ۔

أَحْسَدًا: حاسد پانا۔

تَحَاسَدًا: ایک دوسرے کے زوال نعمت کی تمنا کرنا۔

المَحْسُودُ: وہ شخص جو طبعاً حاسد ہو (مذکر و مؤنث) ج حُسَدٌ۔

الحَسَادُ: بہت حسد کرنے والا۔

المَحْسُودَةُ: باعث حسد۔
حَسْرَ (ن ض) حُسْرًا: البَصْرُ: نگاہ کا

النبات: کانے دار ہونا۔

الحسک: س کانے دار پودہ۔ باریک ہڈی واحد (حسکۃ)

الحسیبۃ: جانور کا دانہ۔ سیبی۔

(والحسکۃ والحساکۃ) دشمنی۔ کینہ۔

الحسینک: پت قدر۔

حسَل (ن) حَسَلًا: الشئی: ذلیل کرنا۔

الدابة: حیزا کتا۔

حَسِلَ بِهِ: ذلیل کیا جانا۔

حَسَلٌ بِنَفْسِهِ: اپنے آپ کو ذلیل کرنا۔

وَبات اختیار کرنا۔

تَحَسَّلَ وَاحْتَسَلَ: گروہ کے بچے کا شکار کرنا۔

الحسَل: گروہ کا بچہ۔ حَسَلٌ: حَسَلَةٌ وَاحْتَسَلَ

وَ حَسُولٌ وَ حَسْلَانٌ: کہا جاتا ہے

”لَا آتِيكَ بَيْنَ الْحَسَلِ“ یعنی میں تمہارے

پاس کبھی نہیں آؤں گا چونکہ گروہ کے دانت

موت تک نہیں گرتے اس لئے دوام سے کنا یہ

کیا گیا اور لفظ سین منصوب بنزع

الحافظ ہے اس وجہ سے کہ تقدیر مدۃ

بقاء سین الحسَل ہے۔ ابو حَسَلٍ وَ ابُو

حَسَلٍ: گروہ۔

الحسالة: چاندی۔ چاندی کے ذرات جو

وغیرہ کی ہوسی۔ (والحسيلة): قوم کے

ادنیٰ درجہ کے لوگ۔

الحسيل: گائے کے بچے۔ واحد

(حسيلة) گھٹیا چیز۔ حَسَلٌ

الْمَحْسُولُ: گھٹیا۔ روٹی۔

حَسَمَهُ (ض) حَسَمًا: جڑے کاٹنا۔

حَسَمَ الْعِرْقَ رَكَاتٍ كَرَّخًا رَوَّكَةً لَمْ يَكُنْ

دَاخِلًا فِي الدَّاءِ: مرض کو دو دنے دور کرنا۔

حَسَمَهُ الشَّيْءُ: روکنا، منع کرنا۔

إِنْحَسَمَ: جڑے کٹنا۔

الْأَحْسَمُ: باختر فیصلہ کن مرد۔

الْحُسُومُ: نامبارک۔ محسوس۔ کہا جاتا ہے

”أَيَّامٌ حُسُومٌ“ علی الوصف ”أَيَّامٌ

حُسُومٌ“ عی الاضافة یعنی نامبارک و

محسوس دن۔

الحسَام: شمشیر بُرَان۔ حَسَامُ السيف:

تلواری دھار۔

الْمَحْسَمَةُ: کانے کا ذریعہ۔ کہا جاتا ہے

”هَذَا مَحْسَمَةٌ لِلدَّاءِ“ یہ مرض کے دور

کرنے کا ذریعہ ہے۔

حَسَنٌ وَ حَسَنٌ (ك ن) حَسَنًا:

خوبصورت ہونا۔ صفت (حَسَنٌ) حَسَانٌ

وَ (حُسَانٌ) حَسَانُونَ وَ (حَاسِنٌ وَ

حَسِينٌ) مَوْثٌ حَسَنَةٌ وَ حَسَنَاءٌ ح

حِسَانٌ وَ حَسَنَاتٌ اور مبالغہ کے لئے

(حَسَانٌ) مَوْثٌ حَسَانَةٌ:

حَسَنَةٌ: آراستہ کرنا۔ خوبصورت بنانا۔

حَاسِنَةٌ مُحَاسِنَةٌ: خوبصورتی میں مقابلہ

کرنا۔ زمی برتنا۔ نیک سلوک کرنا۔ کہا جاتا ہے

إِنِّي لِأَحَاسِنُ بِكَ النَّاسَ“ میں تمہاری

خوبیوں کی وجہ سے لوگوں پر فخر کرتا ہوں۔

أَحْسَنُ: نیکی کرنا۔ اچھی طرح سے کرنا۔

الشَّيْءُ: اچھی طرح بنانا۔ اچھی طرح جانا۔

کہا جاتا ہے فَلَانٌ يَحْسِنُ الْقَوْلَةَ“ فلاں

اچھی طرح پڑھتا ہے الیہ وہ: نیک سلوک

کرنا۔ نیکی کرنا۔

تَحَسَّنَ: خوبصورت ہونا۔ لہجہ ہونا۔

بكذا: آراستہ ہونا۔ موٹنا۔ کہا جاتا ہے

”دَخَلَ الْحَمَامُ فَتَحَسَّنَ“ وہ حمام میں

داخل ہوا اور جماعت بنائی۔

إِسْتَحَسَّنَهُ: لہجہ جانا۔

الْحُسْنُ: جمال و خوبصورتی۔ حَسَانٌ

(غلاف قیاس) الْمُحَاسِنُ: بدن کے

خوبصورت مواضع حَسَنٌ سَاعِيَةٌ: ایک قسم کی

نبات ہے، جو طلوع آفتاب سے پہلے مھلتی اور

طلوع آفتاب کے بعد مر جھا جاتی ہے چونکہ اس

کی خوشنمائی تھوڑی در کیلئے ہوتی ہے اس لئے

اس کا یہ نام ہے۔ سِبْتٌ الْحُسْنِ: ایک قسم

کی نباتات جو درختوں پر لپٹی ہوئی ہوتی ہے اور

اس کا پھول عمدہ خوبصورت ہوتا ہے۔

الْحُسْنُ: کہنی کے پاس ایک ہڈی کا نام۔

الْحُسْنُ: سر کہنی کے پاس کی ہڈی۔

بند نیل۔ الحَسَانُ: سیدنا حسن و سیدنا

حسین

الحسنة: نیکی۔ بھلائی۔ حَسَنَاتٌ

الْأَحْسَنُ: حسن کا اسم تفضیل۔ حَسَانٌ

مَوْثٌ حُسْنِيٌّ اور کبھی شاذ طریقہ سے اس کی

تفسیر أَحْسِنُ لاتے ہیں اور کہتے ہیں ”ما

أَحْسِنُ زَيْدًا“ أَحْسِنُ الْقَوْمِ: قوم کے

خوبصورت لوگ۔

الحسنى: لہجہ کا نام۔ لہجہ انعام۔ اللہ تعالیٰ کو

دیکھنا۔ کامیابی۔ شہادت۔ حَسَنِيَّاتٌ

حَسَنُ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى: اللہ تعالیٰ کے

نانوے نام۔

الحسنيان: فتح مندی و شہادت۔ کہا جاتا ہے

”حَسِينَاهُ وَ حَسِينَاءُهُ أُنْ يَفْعَلُ كَذَا“

اس کیلئے انتہا یہ ہے اور جن کاموں کے کرنے

کی طاقت رکھتا ہے ان میں بہتر یہ ہے کہ ایسا

کرے۔

الحسُونُ: ایک خوبصورت خوش آواز چھوٹا

سا پرندہ۔

المحسنان: بہت بھلائی کرنے والا۔

التحاسين: اچھی چیزیں۔ کہا جاتا ہے ”ما

أَبْدَعَ تَحَاسِينِ الطَّائِرِ وَ تَزَايِينَهُ“

مور کی خوبی اور زینت کس قدر نادر اور عجیب

ہے۔

الْمَحْسَمَةُ: سب حسن۔ کہا جاتا ہے ”هَذَا

طَعَامٌ مَحْسَمَةٌ لِلْجَنِينِ“ یہ خوراک جسم

کیلئے باعث حسن ہے۔

الحسنة: پہلا کالکلا ہوا گوشہ۔

حَسَا (ن) حَسَوًا وَ تَحَسَّى وَاحْتَسَى

الْمَرْقُ: تھوڑا تھوڑا پینا الطائر الماء:

چونچ سے پانی پینا۔

حَسَى وَاحْسَى وَ حَاسَى: الرجل

الْمَرْقُ: تھوڑا تھوڑا پلانا۔

تَحَاسيًا: ایک دوسرے کو شور مچانا۔

الْحَسُو وَ الْحَسَا وَ الْحَسَاءُ وَ الْحَسُوءُ:

ہر قسم کی چیز جو پی جا سکے۔ اور اسی سے ہے ”يَوْمٌ

كَحَسُو الطَّيْرِ“ یعنی بہت چھوٹا دن۔ ایک

قسم کا کھانا جو آنا اور پانی ملا کر تیار کیا جاتا ہے۔

الحسوة بہت گھونٹ گھونٹ بننے والا۔

الحسوة۔ حاکا ام مرتہ گھونٹ۔ ج

حسوات۔

الحسوة۔ ایک مرتبہ گھونٹ لگانے کا

اندازہ۔ کہا جاتا ہے ”فی الاناء حسوة“

برتن میں ایک گھونٹ کی مقدار ہے۔ ج

أحسیة وأحسوة زوج أحاس۔

الحسیة وہ چیز جو پی جا سکے۔

حسی (ض) حسیا و احتسی۔ نرم

دلدلی زمین۔

المحساة پانی کھینچنے کا تیل۔

حش (ن) حشاً العشب کائن النار:

لگانا اور کرینا الحرب: بھڑکانا الفرس:

گھاس ڈالنا۔ اور اسی سے شل ہے ”أحشک

و تبرؤئی“ میں تیرے لئے گھاس ڈالتا ہوں

اور تو تیرے اوپر لید ڈالتا ہے یعنی میں تیرے

ساتھ نیکی کرتا ہوں اور تو میرے ساتھ بُرائی

سے پیش آتا ہے المال: بڑھانا۔ زیادہ کرنا

الصید: دونوں جانب سے گیریٹ۔ حشیت

الید: شل ہونا الولد فی بطن الناقة:

پیٹ میں خشک ہونا۔

الفرس تیز دوڑنا۔

أحش۔ الکلاء کائن کا وقت قریب آنا

الارض: گھاس والی یا بہت گھاس والی ہونا۔

أحشہ: گھاس کاٹنے میں مدد دینا أحشیت

الناقہ او المرأة: پیٹ میں بچہ خشک ہونا۔

صفت (محش) أحشہ عن حاجتہ:

جلدی کرنا۔

أحش۔ الحشیش: گھاس جمع کرنے کی

کوشش کرنا۔

استحش۔ الرجل: پیاسا ہونا العفن:

بہی ہونا الید: شل ہونا۔

العظم باریک ہونا۔

الحشیش خشک گھاس۔ واحد (حشیشة)

الحشیشة بھنگ۔

حشیشة الملائک یورپ میں پودا پیدا ہوتا

ہے گل کی تیاری کے واسطے کام آتا ہے۔

الحشاشة والحشاش مریض یا زخمی کی

بقیہ روح۔ کہا جاتا ہے ”حشاشاک ان تفعل

۔ کذا: تمہاری انتہائی کوشش یہ ہے کہ تم ایسا

کرو۔

الحش والحش والحش۔ باغ۔

کھجوروں کا جھنڈ۔ پانچاند۔ ج حشوش و

حشون۔

الحش بالضم ناں کے پیٹ میں مردہ بچہ

الحش بالكسر بچہ۔ الحش بالفتح:

چھوٹا مریض یا بچہ جو کپڑوں کا پودہ۔ ج حشان۔

الحشہ بڑا بچہ۔

الحشاش گھاس کی گون۔ ہر چیز کا کنارہ۔

ج أحشہ۔

الحشاش گھاس کا جمع کرنے والا یا بچنے

والا۔ بھنگ پینے والا۔ ج حشاشون و

حشاشہ۔

الأحشوش والمحشوش ناں کے پیٹ

میں خشک بچہ۔

المحش والمحشہ بہت گھاس والی

جک۔ ج محاش۔ المحشہ زبر۔

المحش گھاس کاٹنے کی دانتی۔

(والمحشہ) آگ ہلانے کی لوہے کی

کرینٹی۔ المحش ذلاور۔

حش (ض) حشاً النار روشن کرنا۔

ہ بسہم: کسی کے جوف میں تیر مارنا

بسوط پیٹ یا پہلو پر کوڑا مارنا۔

المحشاً ہونا کب۔ ج محاشی۔

أحشبه غضبناک کرنا۔

أحشبو أکٹھا ہونا۔

الحوشبة لوگوں کی جماعت۔

الحوشب جڑ گوش۔ بچھڑ زلومڑی۔

دُبلا پھولے ہوئے پہلوؤں والا (ضد)

حشحشوا و تحشحشوا: اٹھنے کیلئے

حرکت کرنا۔ حشحشہ: انار: جلانا۔

تحشحش القوم: متفرق ہونا۔

حش (ض) حشداً الشی جمع کرنا۔

(حشوداً) الزرع: پوری طرح آگنا

الناقہ: بچن میں دودھ جمع کرنا القوم بچکار

جلدی جواب دینا۔

حشداً الشی جمع کرنا۔

أحشد و تحشد و تحاشد و احتشد

القوم ایک مقصد کیلئے جمع ہونا۔ کہا جاتا ہے

”أحشد۔ لنا فی الضیافة“ اس نے مہمانی

میں درباری سے کام لیا۔ ”وأحشد لفلان

فی کذا“ اس نے فلاں کیلئے تیار کیا۔

الحش۔ س (والحشد ہماعت۔ کہا جاتا

ہے ”عندی حشد من الناس“ میرے

پاس لوگوں کی جماعت ہے۔ ج حشود۔

الحاشد۔ فابغیر کو تابی کے اونٹنی کا دودھ

دوہنے والا۔ بہت دانوں والا بھجور کا گچھا۔ مستعد

وتیار۔ کہا جاتا ہے ”فلاں حافد حاشد“

فلاں خدمت میں پوری کوشش کرنے والا

ہے۔

الحشذوہ شخص جو مدد کرنے اور مال خرچ

کرنے اور کوشش کرنے میں دریغ نہ کرے۔

ج حشداً۔ عین حشداً: چشمہ جس کا پانی

خشک نہ ہو۔

الحشود۔ بچن میں جلدی دودھ جمع کرنے

والی اونٹنی۔

المحشودوہ شخص جس کی خدمت کرنے

میں لوگ چست ہوں۔

المحاشد بھفلیں۔ مجلسیں۔

حش (ض) حشراً الناس جمع کرنا

ہ عن و طنه: جلا وطن کرنا۔ حشر

الجمع: ایک جگہ سے دوسری جگہ نکلانا

العود: چھیلنا اور باریک کرنا السنہ

الشددۃ المال نال یعنی اونٹوں کو لاغر کر

دینا اور ہلاک کر دینا۔

حشر وأحشیر۔ فی راسہ بڑے سرو والا

ہونا۔ علیٰ هذا القیاس۔ حشر فی

بطنه بڑے پیٹ والا ہونا اور جسم کے ہر حصہ

کے ساتھ مستعمل ہے۔ حشیرت

الْوَحُوشُ: مرنا و ہلاک ہونا۔
 الحشور: من الاذنان: باریک کان۔ کہا جاتا ہے۔ "أَذُنُ حَشْرٍ" وَأَذْنَانُ حَشْرٍ وَأَذَانُ حَشْرٍ ساری صورتوں میں واحد ہی مستعمل ہے۔ اس وجہ سے کہ مصدر ہے۔
 الحشر من الاستة: باریک نیزہ۔ ج حشر: یوم الحشر: قیامت کا دن۔
 الحشارة: معمولی درجہ کے لوگ (بعضوں کے نزدیک "الحشارة" کی تعریف ہے)۔
 الحاشیر: فاج حاشرون و حُشَار۔
 الحشرة: چھلکا جو دانہ سے ملا ہوا ہو۔ ج حشر: یوم الحشر: قیامت کا دن۔
 الحشر: کیزا کوڑا یا چھوٹے چھوٹے جانور۔
 الحشر: بھوسی۔
 الحشور: بڑے پیٹ والا۔ پھولے ہوئے پہلوؤں والا۔ لطیف قد و قامت والا۔ کہا جاتا ہے "فرس حشور" اچھے ذیل ڈول کا گھوڑا۔
 المحشر والمخشر: لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ۔
 حشرج حشرجة: جاں کنڈنی کے وقت ٹھکر و کالونٹا۔
 الحشرج: آپ خوردہ جس میں پانی ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ پہلا گڑھا جس میں پانی صاف ہو۔
 حشف (ض) حشفًا: الضرع: دودھ خشک ہو جانا۔
 أحشف: النخلة: رومی مجبور والا ہونا صرع الناقة: سکرنا۔ سمنٹا۔
 حشف: عینہ: آنکھیں بھیج کر دیکھنا۔
 تحشف: پرانا کپڑا پہننا۔
 استحشف: اذن الانسان: خشک ہو کر سمنٹا صرع الانثی: سکرنا۔ سمنٹا۔
 الحشف: ہودی مجبور "أحشفًا و سؤء کئیلة:" رومی مجبور اور پھر کم ناپ) اس شخص کے حق میں بطور ضرب اللش کے بولتے ہیں جس کے اندر دو بری عادتیں جمع ہوں۔ جیسے اُردو میں "گریلا اور نیم چڑھا" خشک پستان۔

الحشفة: ذنبل جو کھیت کٹنے کے بعد باقی رہ جائے۔ خشک خیر۔ گول چھوٹا جزیرہ جس پر پانی نہ چڑھ سکے۔ ج حشاف۔
 حشك (ض) حشکًا و حشوکًا: الضرع: دودھ سے پڑ ہونا السحاب: بہت پانی والا ہونا النخلة: بہت پھلدار ہونا۔ صفت (حاشك) الوادی: پانی کو باہر پھینک دینا۔
 القوم: جمع ہونا الريح: مختلف جہات سے چلنا الناقة لبنا: تھن میں دودھ جمع کرنا۔ صفت (حشوك) الناقة: دودھ جمع ہونے کے لئے تھن میں چھوڑ دینا۔ صفت معمولی (مخشوكا)۔
 حشك (س) حشكًا: الدابة: جو وغیرہ چھلکا حشك اللبن فی الضرع: جلدی سے تھن میں دودھ جمع ہونا۔
 أحشك: الدابة: جو وغیرہ کھانا۔
 تحشك: الضرع: دودھ سے پڑ ہونا۔
 الحشكة: بارش کی پوچھل۔
 الحشكة: جماعت۔ کہا جاتا ہے "جاءوا بحشكهم" لوگ اپنی جماعت کے ساتھ آئے۔
 الحشكة: جانوروں کے کھانے کیلئے جو وغیرہ (الريح الحواشك) مختلف جہات سے چلنے والی ہوائیں۔ واحد (حاشكة) الحشاکة والحشاك: گلڑی جو چالور کے بچے کے منہ میں لگادی جائے تاکہ دودھ نہ پی سکے۔
 حشل (ن) حشلا: الشی: حقیر و ذلیل کرنا۔
 الحشل: حقیر و ذلیل چیز۔
 حشمة (ن ض) حشما: ناہنديات سناکر غضبناک کرنا۔ تکلیف پہنچانا۔ شرمندہ کرنا۔
 الشی: طلب کرنا۔ کہا جاتا ہے ما حشم الصيد اس نے شکار کو نہیں پایا "ما حشم من طعامنا" اس نے ہمارے کھانے سے نہیں کھایا۔

حشم (ض) حشومًا: حشمت لاغری کے بعد قرعہ ہونا منہ: مقبض ہونا۔
 حشم (س) حشما: غضبناک ہونا۔
 حشما: غضبناک کرنا۔
 حشمة وأحشمة: غضبناک کرنا۔ شرمندہ کرنا۔ وحشمة: تکلیف پہنچانا۔
 حاشمة: غضبناکی پر برا بھلا کہنا۔
 تحشم: من فلان: شرم کرنا۔ خدمت سے بچنا۔
 احتشم: منه و عنه: غضبناک ہونا۔ مقبض ہونا۔ شرم کرنا۔
 حشم: الرجل: نوکر چاکر۔ کسی شخص کے وہ قرابت دار یا غلام یا سامنے وغیرہ جو اس کے لئے دوسروں پر غضبناک ہوں یا جن کی وجہ سے یہ غضبناک ہو۔ اہل و عیال۔ قرابت ج أحشام۔
 الحشمة: غضب۔
 الحشمة: شرم و حیا۔ انقباض۔ غصہ و غضب۔
 الحشمة: عورت، قرابت، ذمہ داری۔
 الحشیم: کامل حیا دار۔ ہڈوسی۔ مہمان ج۔
 حشما۔
 حشین (س) حشنا: السقاء: دیر تک دودھ رہنے کی وجہ سے بدبودار ہونا۔
 أحشین: السقاء: بدبودار کرنا۔
 حاشنة: باہم گالی گلوچ کرنا۔
 تحشئن: میلا ہونا۔ کمانی کرنا۔
 الحشن: من۔ دودھ کی چمٹناہٹ کی وجہ سے میل پھیل۔
 الحشنة: کینہ۔
 حشا (ن) حشوا: الوسادة بالفظن: تکیے میں روئی بھرنا الرجل: کسی کے حشا پر مارنا۔ (دیکھئے لفظ الحشا حاشاه: تھوڑی چیز دینا۔
 احتشنى احتشأ: بھر جانا۔ کہا جاتا ہے "احتشبت الرمانة بالحب" اتار دانوں سے بھر گیا۔ واحتشنى من الطعام"۔

جانبہ۔ الحصص سر کے بالوں کی کمی۔ سر کے بالوں کا چھوٹا ہونا۔ الحصص حصہ۔ ج۔ حصص الحص زعفران۔ موتی۔ ج۔ خصوص و أحصاص۔ الحصاص دوڑنے کی تیزی۔ خارش۔	حاشا۔ کلمہ استثناء جس کے ذریعہ مشقی کو مشقی منہ کے حکم سے تنزیہاً خارج کیا جاتا ہے جیسے ضربت القوم حاشا زیداً یعنی وجہ ہے کہ صلی الناس حاشا زیداً لہنا مستحسن نہیں، اس لئے کہ تنزیہ کے معنی نہیں بنتے۔ اگر حاشا فعل ہو تو نصب ہوگا اور اگر حرف جر ہو تو مابعد حاشا شرط آئے گا۔ الحشاشیہ۔ گوت۔ کنارہ۔ اہل و عیال اور خاص اپنے لوگ۔ کتاب کا حاشیہ۔ ج۔ حواش۔ کہا جاتا ہے "رجل رقیق الحواشی" یعنی صحبت کا مرد۔ "وکلام رقیق الحواشی نرم گفتگو۔ الحششی مؤنث حشیہ و (الحشیان) مؤنث۔ حشیاء حقیق النفس کی بیماری میں مبتلا ہونے والا۔ حصان) حصاً الشعر مؤنث۔ الجلید النبت پالے کاناٹات کو جلا دینا۔ حصنی من المال کڈال مال میں سے حصہ مقرر کرنا الشی گھانا۔ کات لینا۔ حصن حصص کے ہوئے سر کے بال یا کم بال والا ہونا۔ مفت (احص) حصص الامرتا ہر ہونا۔ أحصصہ دینا۔ أخصہ المکانیکہ میں اتارنا۔ حصص مخاصة الغرماء حصے تقسیم کرنا۔ تخاص القوم الشی آپس میں حصے تقسیم کرنا۔ انحص الشعر چھڑنا گرنا اللحية: ٹوٹے ہوئے بالوں والی ہونا الذنوب کرنے والی۔	کھانے سے آسودہ ہو گیا۔ "أحشش المرأة الحشیة وبھا" عورت نے حشیہ کا استعمال کیا۔ (دیکھیے لفظ الحشیع) الحاشیة من الناس والابل: چھوٹے چھوٹے جن میں بڑے نہ ہوں۔ الحشا۔ پسیوں کے اندر کی چیزیں۔ پیٹ کے اندر کی چیزیں۔ ج۔ أخصاء کہا جاتا ہے "أنا فی حشا۔ فلان" میں فلاں کی پناہ میں ہوں۔ "و فلان خیر ہم حشا" فلاں ان میں سے حفاظت کے لحاظ سے بہتر ہے۔ الحشوس چھوٹے چھوٹے آدمی یا اونٹ کلام کی زیادتی۔ رذیل لوگ وہ چیز جس سے کوئی چیز بھری جائے۔ مسالہ جو بکری کے پیٹ کے پیٹ میں بھرا جائے۔ ج۔ المحاشی (خلاف قیاس) الحشوة والحشوة من البطن انتہی ردی چیز۔ کہا جاتا ہے "هو من حشوة بنی فلان" وہ بنو فلان کے رذیل لوگوں میں سے ہے۔ الحشیة تشک۔ گدی جس کو عورتیں بدن کے کسی حصہ کو نمایاں ہونے کے لئے باندھتی ہیں۔ ج۔ حشایا۔ الحشوی یکہ بک کرنے والا۔ المحشیہ پیٹ میں کھانے کی جگہ۔ المحشی گدی جس کو عورتیں بدن کے کسی حصہ کو نمایاں ہونے کے لئے باندھتی ہیں۔ ج۔ محاشی المحشاة۔ من البطن فیہ کا وہ پچھلا حصہ جس میں کھانا رہتا ہے اور جو خرچ تک پہنچتا ہے۔ حشی (س) حشی۔ الرجل شقیق النفس کی بیماری میں مبتلا ہونا السقاء تشک کے اندرونی حصہ میں دودھ کی تہ جم جانا۔ حشی الثوب گوت لکھلکے کتاب: حاشیہ لکھنا۔ مفت فاعلی (محش) ہر مفی (محشی) حاشا محاشاة۔ زیداً من القوم مبتشاء
---	---	--

أَحْصَبَ الفرسُ في عدوه: نكّري أژانا
عنه: امراض و زور گردانی کرنا ہ عن کذا:
دور کرنا۔
تَحْصَبُ الحَمَامُ: ولید کی تلاش میں جنگل
کی طرف اڑنا۔
تَحْصَبُوا: ایک دوسرے پر نکری پھینکنا۔
الحَصْبُ: پتھر۔ عگریہ: ابد من۔
الحصبة: روده جس کا کھن سر دہونے کی
وجہ سے نہ نکلا ہو۔
الحَصْبَةُ والحَصْبِيَّةُ والحَصْبَةُ (ایک
پھاری کا نام) الحَصْبَةُ: نکری کو اڑانے والی
تیز ہول ارضِ حَصْبَةٍ: بہت نکری والی
زمین۔ لَيْلَةُ الحَصْبَةِ: پام تھریق کے بعد
والی رات۔
الحَصْبَاءُ: عگریہ نکری واحد (حصبة)
الحاصِبُ: فَا نکری کو اڑانے والی تیز
ہول اول۔ اولہ برسانے والا ہول۔ ج
حواصِبُ۔
المَحْصَبَةُ: بہت نگریوں والی زمین۔
حَصْحَصَ حَصْحَصَةً: الحق پو شدگی
کے بعد ظاہر ہونا۔ الرجلُ: جھ میں بڑی
پڑے ہوئے کی طرح چلنا
الشئُ في الشئُ: مضبوط و محکم کرنے
کیلئے حرکت دینا الترابُ وغیره: دائیں
بائیں ہلانا۔
تَحْصَحَصَ: زمین سے چٹنا اور برابر ہونا۔
الوَبْرُ والزَنْبِرُ: اون یاروں کی جھڑ جانا۔
الحَصْحَاصُ والحَصْحِصُ: منی
والحَصْحِصُ: پتھر۔ رجل (حَصْحَصُ
و حَصْحُوصُ) معاملات کے پیچھے پڑ کر تہ
تک پہنچنے والا۔
حَصَدَ (ن ض) حَصَدًا و حِصَادًا و
حَصَادًا و اِحْتَصَدَ: الزرع: دار تہی سے
کاٹنا۔ اسی سے ہے "مَنْ زَرَعَ الشَّرَّ حَصَدَ
النَّدَامَةَ" جو بُرائی بونے کا پھیلانی کاٹے گا۔
مفت (حاصد) مع حَصْدَةٍ و حِصَادِ
القومُ بالسيف: قتل کرنا۔

حَصَدَ (س) حَصَدًا: الحبلُ: مضبوط بنی
ہوئی ہونا الدرغ: مضبوط بناوٹ کا ہونا۔
أَحْصَدَ: الزرع: کاٹنے کا وقت قریب ہونا
الحبلُ: بٹھا۔
اِسْتَحْصَدَ: القومُ: جتنا بٹھا الزرع:
کاٹنے کا وقت قریب آنا الحبلُ: مضبوط بنی
ہوئی ہونا الرجلُ: غضبناک ہونا۔
الحِصَادُ: کیت کاٹنے والا۔
الحِصَادُ والحِصَادُ: س۔ کیت کاٹنے کا
وقت۔ الحِصَادُ: کٹی ہوئی کھیتی۔ حِصَادُ
الشجرة: درخت کا بھل۔ کہا جاتا ہے۔
"أَخَذُوا حِصَادَ الشجر" انہوں نے
درخت کا بھل لیا۔ حِصَادُ البُقُولِ البرِّيَّةِ:
دانے جو حرکت کرنے کی وجہ سے گر جائیں۔
الحِصْدُ والحِصْدُ والحِصْدَةُ: کیت کا
کٹنا ہوا حصہ۔ الحِصْدَةُ: کھیتی کا وہ مخلصا جو
دو تہی سے کٹنے کے بعد رو جائے۔ کھیتی۔ ج
حِصَانَدُ و حِصَانَدُ الألسنة: جو باتیں
دوسروں کے حق میں کہی جائیں۔
الأَحْصَدُ: مضبوط بنی ہوئی رشتی۔ درخت جو
ٹنگ ہو گیا ہو مگر کھڑا ہوا۔ مؤنث حِصْدَاءُ
درغ حِصْدَاءُ: ٹنگ حلقوں والی مضبوط
زور شجرۃ حِصْدَاءُ: بہت چوں والا
درخت۔
المَحْصَدُ: دار تہی۔
حِصْرَةٌ (ن ض) حِصْرًا: محلی ڈالنا۔ گھیرنا
الشئُ: پورالے لینا القومُ: بفلان: محلی
ڈالنا البعيرُ: اونٹ کی پیٹھ پر گدیلا باندھنا۔
حِصْرُ: قبض ہونا۔
حِصْرٌ (س) حِصْرًا: بھل کرنا۔ منفقو
کرنے میں عاجز ہونا بالسُّرِّ: چھپانا الرجلُ:
ٹنگ دل ہونا عن الشئِ: شرم کر کے چھوڑ
دینا۔ مفت (حِصْرُ و حِصْرُ و حِصْرُ)
حَاصِرًا و حِصَارًا و مُحَاصِرَةً: العدو:
محاصرہ کرنا۔ گھیر ڈال کر ادا کر دینا۔
أَحْصَرَهُ: عن السفر: روکنا ہ المرضُ
أو البولُ: مرض یا پیشاب کا کسی کو روک

دینا۔
أَحْصِرُ: قبض ہو جانا۔
اِحْتَصِرُ: ٹنگ ہونا۔
اِحْتَصِرُ: البعيرُ: گدیلا باندھنا۔
اِحْتِصَارُ: گدیلا جو اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھنے کے
لئے استعمال ہوتا ہے۔ محاصرہ کی جگہ۔
اِحْصَرُ و اِحْصِرُ: قبض۔
اِحْتِصِرُ: یوریا۔ چٹائی۔ آدمیوں کی قطار۔
مجلس۔ پہلو۔ کہا جاتا ہے "ذَابَةُ عَرِيضُ
اِحْتِصِرِينَ" چوڑے پہلوؤں والا جانور۔
موتھ سے سے کر تک کا گوشت۔ ٹنگ جگہ۔
قید۔ قید خانہ۔ قیدی۔ راستہ۔ لوگوں کی نگاہوں
سے اوجھل بادشاہ۔ اور اسی سے ہے۔ "اَقْرَبُ
حِصِيرِ الحِصِيرِ فِي حِصِيرِ الحِصِيرِ"
یعنی قید خانہ کی چٹائی نے بادشاہ کے پہلو میں
شان ڈال دینا۔ حِصْرُ و أَحْصِرَةُ:
اِحْتِصِرَةُ: یوریا۔ چٹائی۔ گھوڑے کے
موتھ سے اور پہلو تک کا گوشہ حِصْرُ حِصَانَرُ:
المَحْصِرَةُ: للجمال: گدیلا۔
المَحْصِرُ: شہر۔
اِحْتِصِرِي: چٹائی بیچنے والا۔
اِحْتِصِرُ: ٹنگ دل، بخیل، خوفزدہ۔ کسی
کام سے رکھے والا۔ راز کا پوشیدہ رکھنے والا۔
باوجود طاقت کے عورتوں کی طرف رغبت نہ
رکھنے والا۔
اِحْتِصِرَةُ: محلی، بھلی۔ بھل۔
حِصْرُمُ: القوس: مضبوطی سے تانت
کٹنا۔ الحبلُ: مضبوط بٹھا القربة: بھڑنا
القلم: تڑانا۔
تَحْصِرُمُ: بخیل و ٹنگ دل ہونا۔
اِحْتِصِرُمُ: کچا سزا انگور۔ کچا بھل واحد
(اِحْتِصِرْمَةُ) سخت بخیل۔ پست قدم۔ ہر چیز کا
گھٹیل۔ اِحْتِصِرُمُ: کنوئیں سے ڈول نکالنے کا
کاٹیل۔
حِصْفٌ (ک) حِصْفًا: عودہ رائے اور
پختہ عقل والا ہونا۔ مفت (حِصْفُ و
حِصْفُ)

<p>حَصَا (ن) حَصَوًا هـ: روکنا۔ منع کرنا۔ الحَصَوَا۔ پیک کا دور۔</p>	<p>الْحَصِيْلَةُ تحمیل کا اسم۔ حاصل کردہ بقیہ۔ ج حَصَائِلُ کہا جاتا ہے "ما حَصَيْتَكَ وَمَا حَصَائِلُكَ" تمہارا حاصل کردہ کیا ہے۔</p>	<p>حَصِفَ (س) حَصْفًا شُكَّ خَارِشٌ وَاللَا هَوْنَا۔ حَصْفُهُ (ن) حَصْفًا دُورٌ كَرْنَا۔</p>
<p>حَصِي (ض) حَصِيًّا الرَّجُلُ: نکلری سے مارنا۔ حَصِيٌّ مَثَانَةٌ فِي تَقْرِي كِي بِيَارِي وَاللَا هَوْنَا۔</p>	<p>الْمَحْضُولُ حَاصِلٌ۔ كَمَا جَاتَا فِي "هَذَا مَحْضُولٌ كَلَامَةٌ" يِي اس كے كَلَام كَاتِيْبِي فِي "وَمَا لِفُلَانٍ مَحْضُولٌ وَلَا مَعْقُولٌ" يِيْنِي فُلَانٍ كے لِيْے رَاے تَمِيْز نِيْسِيں هِيْے۔</p>	<p>أَحْصَفَ تَمِيْرٌ دُوْرَانَا مَفْتٌ (مُحْصِفٌ وَ مِخْصِفٌ) أَحْصَفَهُ: دُوْر كَرْنَا۔</p>
<p>حَصِيٌّ مَثَانَةٌ فِي تَقْرِي كِي بِيَارِي وَاللَا هَوْنَا۔ مَفْتٌ (مَحْصِيٌّ)</p>	<p>حَصْنٌ (ك) حَصَانٌ مَضْبُوطٌ وَ اسْتَوَارٌ هَوْنَا۔ مَفْتٌ (حَصِيْنٌ)</p>	<p>الْأَمْرُ: مَضْبُوطِيْ سِي كَرْنَا النَّسِيْجَ: كَفَّ بِنَا الْحَبْلَ: مَضْبُوطٌ بِنَا: الْحَرُّ فُلَانًا: شُكَّ خَارِشٌ فِيْ بِنَا كَرِيْنَا۔</p>
<p>حَصِيَّتٌ (س) حَصَاً الْاَرْضُ: بِيْتٌ نَكْرِيْ وَالِي هَوْنَا۔ مَفْتٌ (مُحْصَاةٌ)</p>	<p>حَصْنَةٌ حَصَانٌ وَ حَصَانٌ وَ حَصَانَةٌ (حَصَانٌ) جِ الْمَرْأَةُ: پَاكِدَامِن هَوْنَا۔ مَفْتٌ (حَصَانٌ) جِ حُصْنٌ وَ حَصَانَاتٌ وَ (حَاصِنٌ وَ حَاصِنَةٌ) جِ حَوَاصِنٌ وَ حَاصِنَاتٌ وَ (حَصْنَاءُ)</p>	<p>الْقَوْمُ: اَكْثَا هَوْنَا الدَّهْرُ عَلَيْهِ: تَحْتٌ هَوْنَا الْحَبْلُ: مَضْبُوطٌ بِنَا۔</p>
<p>حَصَاةٌ تَحْصِيَةٌ بِنَا۔ أَحْصَى الشَّيْءَ شَاكِرًا۔ كَمَا جَاتَا فِي "هَذَا الْأَمْرُ لَا أَحْصِيَهُ" يِي اِيْمَا هِيْے جِس كِي فِي طَاقَتِ نِيْسِيں رَكْهَتَا۔</p>	<p>حَصَانَةٌ (ن) حَصَانًا مَضْبُوطٌ كَلِمَةٌ فِي مَحْفُوظٍ كَرْنَا۔</p>	<p>الْحَصِيْفُ هِيْے عِيْبٌ مَضْبُوطٌ جِيْرٌ۔ الْحَصْفُ شُكَّ خَارِشٌ۔</p>
<p>تَحْصَى بِنَا۔ الْحَصِيٌّ نَكْرِيٌّ وَاحِدٌ (حَصَاةٌ) جِ حَصِيَّاتٌ وَ حَصِيٌّ وَ حَصِيٌّ وَ طَرَقَ الْحَصِيَّ: كَهَانَتٌ اُوْر جَاوِدُ كِي اَعْمَالِ فِي سِي اِيْك اَعْمَلٌ۔ وَ الْحَصَاةُ: عِدْرٌ عَقْلٌ وَرَاے۔ كَمَا جَاتَا فِي "فُلَانٌ ثَابِتٌ الْحَصَاةُ" فُلَانٌ عَاطِلٌ هِيْے۔</p>	<p>حَصْنٌ وَأَحْصَنُ الْمَكَانُ: مَضْبُوطٌ بِنَا۔ أَحْصَنُ الْمَرْأَةُ: شَادِي كَرْنَا۔ أَحْصَنَتِ الْمَرْأَةُ: شَادِي شَدِيْدَةٌ هَوْنَا۔ پَاكِ دَامِن هَوْنَا۔</p>	<p>حَصَلٌ (ن) حُضُولًا وَ مَحْضُولًا الشَّيْءُ: حَاصِلٌ هَوْنَا۔ ثَابِتٌ هَوْنَا۔ بَاقِي رَهْنَا۔</p>
<p>تَحْصِيٌّ بِنَا۔ الْحَصِيٌّ نَكْرِيٌّ وَاحِدٌ (حَصَاةٌ) جِ حَصِيَّاتٌ وَ حَصِيٌّ وَ حَصِيٌّ وَ طَرَقَ الْحَصِيَّ: كَهَانَتٌ اُوْر جَاوِدُ كِي اَعْمَالِ فِي سِي اِيْك اَعْمَلٌ۔ وَ الْحَصَاةُ: عِدْرٌ عَقْلٌ وَرَاے۔ كَمَا جَاتَا فِي "فُلَانٌ ثَابِتٌ الْحَصَاةُ" فُلَانٌ عَاطِلٌ هِيْے۔</p>	<p>أَحْصَنَتِ الْمَرْأَةُ: شَادِي شَدِيْدَةٌ هَوْنَا۔ پَاكِ دَامِن هَوْنَا۔ مَفْتٌ (مُحْصِنَةٌ) بَفْتَحِ الصَّادِ أَحْصَنَ الرَّجُلُ: شَادِي شَدِيْدَةٌ هَوْنَا۔ مَفْتٌ (مُحْصِنٌ) تَحْصَنُ اِيْنِي لِيْے قَلْعَةً بِنَا۔ تَحْصَنَتِ الْمَرْأَةُ: عَفِيْفَةٌ وَ پَاكِدَامِن هَوْنَا الْفَرَسُ: اَصِيْلٌ هَوْنَا۔</p>	<p>حَصَلْتُ (س) حَصَلًا الدَّابَّةُ: جَاوِرٌ كَا مَثِي يَا نَكْرِي كَهَانِي كِي وَجِهِي سِي بِيْتِ كِي دَرْدِ فِيْ بِنَا هَوْنَا۔</p>
<p>تَحَاضٌ الْقَوْمُ: اِيْك دُوْرِي كُوْر اِيْتِيْتِي كَرْنَا۔</p>	<p>الْحِصْنُ مَحْفُوظٌ وَ بَلَدٌ كَلِمَةٌ۔ تَهْمِيَارِجٌ حُضُونٌ وَ أَحْصَانٌ وَ حِصْنَةٌ۔ الْحَاصِنُ وَ الْحَاصِنَةُ: پَاكِدَامِن يَا شَادِي شَدِيْدَةٌ عُوْرَتِيں جِ حَوَاصِنٌ وَ حَاصِنَاتٌ۔ الْحَوَاصِنُ: حَامِلَةٌ عُوْرَتِيں۔ الْحِصَانُ هَوْتِي۔</p>	<p>حَصَلْتُ (ن) حَصَلًا الدَّابَّةُ: جَاوِرٌ كَا مَثِي يَا نَكْرِي كَهَانِي كِي وَجِهِي سِي بِيْتِ كِي دَرْدِ فِيْ بِنَا هَوْنَا۔</p>
<p>تَحَاضٌ الْقَوْمُ: اِيْك دُوْرِي كُوْر اِيْتِيْتِي كَرْنَا۔</p>	<p>الْحِصْنُ مَحْفُوظٌ وَ بَلَدٌ كَلِمَةٌ۔ تَهْمِيَارِجٌ حُضُونٌ وَ أَحْصَانٌ وَ حِصْنَةٌ۔ الْحَاصِنُ وَ الْحَاصِنَةُ: پَاكِدَامِن يَا شَادِي شَدِيْدَةٌ عُوْرَتِيں جِ حَوَاصِنٌ وَ حَاصِنَاتٌ۔ الْحَوَاصِنُ: حَامِلَةٌ عُوْرَتِيں۔ الْحِصَانُ هَوْتِي۔</p>	<p>حَصَلْتُ (ن) حَصَلًا الدَّابَّةُ: جَاوِرٌ كَا مَثِي يَا نَكْرِي كَهَانِي كِي وَجِهِي سِي بِيْتِ كِي دَرْدِ فِيْ بِنَا هَوْنَا۔</p>
<p>تَحَاضٌ الْقَوْمُ: اِيْك دُوْرِي كُوْر اِيْتِيْتِي كَرْنَا۔</p>	<p>الْحِصْنُ مَحْفُوظٌ وَ بَلَدٌ كَلِمَةٌ۔ تَهْمِيَارِجٌ حُضُونٌ وَ أَحْصَانٌ وَ حِصْنَةٌ۔ الْحَاصِنُ وَ الْحَاصِنَةُ: پَاكِدَامِن يَا شَادِي شَدِيْدَةٌ عُوْرَتِيں جِ حَوَاصِنٌ وَ حَاصِنَاتٌ۔ الْحَوَاصِنُ: حَامِلَةٌ عُوْرَتِيں۔ الْحِصَانُ هَوْتِي۔</p>	<p>حَصَلْتُ (ن) حَصَلًا الدَّابَّةُ: جَاوِرٌ كَا مَثِي يَا نَكْرِي كَهَانِي كِي وَجِهِي سِي بِيْتِ كِي دَرْدِ فِيْ بِنَا هَوْنَا۔</p>
<p>تَحَاضٌ الْقَوْمُ: اِيْك دُوْرِي كُوْر اِيْتِيْتِي كَرْنَا۔</p>	<p>الْحِصْنُ مَحْفُوظٌ وَ بَلَدٌ كَلِمَةٌ۔ تَهْمِيَارِجٌ حُضُونٌ وَ أَحْصَانٌ وَ حِصْنَةٌ۔ الْحَاصِنُ وَ الْحَاصِنَةُ: پَاكِدَامِن يَا شَادِي شَدِيْدَةٌ عُوْرَتِيں جِ حَوَاصِنٌ وَ حَاصِنَاتٌ۔ الْحَوَاصِنُ: حَامِلَةٌ عُوْرَتِيں۔ الْحِصَانُ هَوْتِي۔</p>	<p>حَصَلْتُ (ن) حَصَلًا الدَّابَّةُ: جَاوِرٌ كَا مَثِي يَا نَكْرِي كَهَانِي كِي وَجِهِي سِي بِيْتِ كِي دَرْدِ فِيْ بِنَا هَوْنَا۔</p>
<p>تَحَاضٌ الْقَوْمُ: اِيْك دُوْرِي كُوْر اِيْتِيْتِي كَرْنَا۔</p>	<p>الْحِصْنُ مَحْفُوظٌ وَ بَلَدٌ كَلِمَةٌ۔ تَهْمِيَارِجٌ حُضُونٌ وَ أَحْصَانٌ وَ حِصْنَةٌ۔ الْحَاصِنُ وَ الْحَاصِنَةُ: پَاكِدَامِن يَا شَادِي شَدِيْدَةٌ عُوْرَتِيں جِ حَوَاصِنٌ وَ حَاصِنَاتٌ۔ الْحَوَاصِنُ: حَامِلَةٌ عُوْرَتِيں۔ الْحِصَانُ هَوْتِي۔</p>	<p>حَصَلْتُ (ن) حَصَلًا الدَّابَّةُ: جَاوِرٌ كَا مَثِي يَا نَكْرِي كَهَانِي كِي وَجِهِي سِي بِيْتِ كِي دَرْدِ فِيْ بِنَا هَوْنَا۔</p>
<p>تَحَاضٌ الْقَوْمُ: اِيْك دُوْرِي كُوْر اِيْتِيْتِي كَرْنَا۔</p>	<p>الْحِصْنُ مَحْفُوظٌ وَ بَلَدٌ كَلِمَةٌ۔ تَهْمِيَارِجٌ حُضُونٌ وَ أَحْصَانٌ وَ حِصْنَةٌ۔ الْحَاصِنُ وَ الْحَاصِنَةُ: پَاكِدَامِن يَا شَادِي شَدِيْدَةٌ عُوْرَتِيں جِ حَوَاصِنٌ وَ حَاصِنَاتٌ۔ الْحَوَاصِنُ: حَامِلَةٌ عُوْرَتِيں۔ الْحِصَانُ هَوْتِي۔</p>	<p>حَصَلْتُ (ن) حَصَلًا الدَّابَّةُ: جَاوِرٌ كَا مَثِي يَا نَكْرِي كَهَانِي كِي وَجِهِي سِي بِيْتِ كِي دَرْدِ فِيْ بِنَا هَوْنَا۔</p>
<p>تَحَاضٌ الْقَوْمُ: اِيْك دُوْرِي كُوْر اِيْتِيْتِي كَرْنَا۔</p>	<p>الْحِصْنُ مَحْفُوظٌ وَ بَلَدٌ كَلِمَةٌ۔ تَهْمِيَارِجٌ حُضُونٌ وَ أَحْصَانٌ وَ حِصْنَةٌ۔ الْحَاصِنُ وَ الْحَاصِنَةُ: پَاكِدَامِن يَا شَادِي شَدِيْدَةٌ عُوْرَتِيں جِ حَوَاصِنٌ وَ حَاصِنَاتٌ۔ الْحَوَاصِنُ: حَامِلَةٌ عُوْرَتِيں۔ الْحِصَانُ هَوْتِي۔</p>	<p>حَصَلْتُ (ن) حَصَلًا الدَّابَّةُ: جَاوِرٌ كَا مَثِي يَا نَكْرِي كَهَانِي كِي وَجِهِي سِي بِيْتِ كِي دَرْدِ فِيْ بِنَا هَوْنَا۔</p>
<p>تَحَاضٌ الْقَوْمُ: اِيْك دُوْرِي كُوْر اِيْتِيْتِي كَرْنَا۔</p>	<p>الْحِصْنُ مَحْفُوظٌ وَ بَلَدٌ كَلِمَةٌ۔ تَهْمِيَارِجٌ حُضُونٌ وَ أَحْصَانٌ وَ حِصْنَةٌ۔ الْحَاصِنُ وَ الْحَاصِنَةُ: پَاكِدَامِن يَا شَادِي شَدِيْدَةٌ عُوْرَتِيں جِ حَوَاصِنٌ وَ حَاصِنَاتٌ۔ الْحَوَاصِنُ: حَامِلَةٌ عُوْرَتِيں۔ الْحِصَانُ هَوْتِي۔</p>	<p>حَصَلْتُ (ن) حَصَلًا الدَّابَّةُ: جَاوِرٌ كَا مَثِي يَا نَكْرِي كَهَانِي كِي وَجِهِي سِي بِيْتِ كِي دَرْدِ فِيْ بِنَا هَوْنَا۔</p>
<p>تَحَاضٌ الْقَوْمُ: اِيْك دُوْرِي كُوْر اِيْتِيْتِي كَرْنَا۔</p>	<p>الْحِصْنُ مَحْفُوظٌ وَ بَلَدٌ كَلِمَةٌ۔ تَهْمِيَارِجٌ حُضُونٌ وَ أَحْصَانٌ وَ حِصْنَةٌ۔ الْحَاصِنُ وَ الْحَاصِنَةُ: پَاكِدَامِن يَا شَادِي شَدِيْدَةٌ عُوْرَتِيں جِ حَوَاصِنٌ وَ حَاصِنَاتٌ۔ الْحَوَاصِنُ: حَامِلَةٌ عُوْرَتِيں۔ الْحِصَانُ هَوْتِي۔</p>	<p>حَصَلْتُ (ن) حَصَلًا الدَّابَّةُ: جَاوِرٌ كَا مَثِي يَا نَكْرِي كَهَانِي كِي وَجِهِي سِي بِيْتِ كِي دَرْدِ فِيْ بِنَا هَوْنَا۔</p>
<p>تَحَاضٌ الْقَوْمُ: اِيْك دُوْرِي كُوْر اِيْتِيْتِي كَرْنَا۔</p>	<p>الْحِصْنُ مَحْفُوظٌ وَ بَلَدٌ كَلِمَةٌ۔ تَهْمِيَارِجٌ حُضُونٌ وَ أَحْصَانٌ وَ حِصْنَةٌ۔ الْحَاصِنُ وَ الْحَاصِنَةُ: پَاكِدَامِن يَا شَادِي شَدِيْدَةٌ عُوْرَتِيں جِ حَوَاصِنٌ وَ حَاصِنَاتٌ۔ الْحَوَاصِنُ: حَامِلَةٌ عُوْرَتِيں۔ الْحِصَانُ هَوْتِي۔</p>	<p>حَصَلْتُ (ن) حَصَلًا الدَّابَّةُ: جَاوِرٌ كَا مَثِي يَا نَكْرِي كَهَانِي كِي وَجِهِي سِي بِيْتِ كِي دَرْدِ فِيْ بِنَا هَوْنَا۔</p>

مقابل ہے۔

الحَضْبَةُ شے مملوکہ۔ تم کہتے ہو۔
”أَخْرَجْتُ إِلَيْهِ حَضْبِي وَ
بَضْبِي“ میں نے اپنی ساری ملکیت اس
کے سامنے کر دی۔

الحَضْبُ ضِي دُورِي۔ آگ۔

حَضْبٌ (ض) حَضْبًا وَأَحْضِبُ النَّارَ:
ایس دن ڈالنا۔

تَحَضَّبَ دُشْوَارٌ قَرِيبٌ كَارِاسْتِ اعْتِقَارٌ
کرنا۔

الحَضْبُ وَالْحَضْبُ كَمَا نِ أَوَارِ
دَا مَن كُورِ أَحْضَابِ

حَضْبٌ (ن) حَضْبًا النَّارَ: جَلَانَا۔

الشَّيْءُ فِي الْمَاءِ يُذَابُ بِفَلَانٍ بِجَازِنَا
بِهَ الْأَرْضِ يَبْكُ دِيَانَا۔

حَضْبُ الْكَلَامِ كَوَاتَايِ كَرَانَا۔

أَنْحَضِبُ الرَّجُلَ بِعَصَدَةِ يَمْزُكُ أَشْمَا۔
الْحَضْبُجُ وَهُوَ مَخْضٌ جَسُّ كِي يَبْتَهْ جَمَلِي هُوَتِي أَوْر
پہٹ لگا ہوا ہو۔

الْحَضْبُجُ بَمَرِي هُوَتِي بَرِي مَكُ جَسُّ كِي
تِيك لگادی گئی ہو۔

الْمُخَضَّبُ وَالْمُخَضَّبُجُ أَكُّ بِلَانِي كِي
كِرِيئِي۔ الْمَخَضَّبُجُ كِبْرَا دَهُونِي كِي
مُوَكْرِي۔

إِمْرَأَةٌ مُخَضَّبَةٌ بِكُشَادَةِ هَيْتِ دَالِي عَوْرَتِ۔

حَضْبُجَرُ حَضْبُجَرٌ بِبُوكَا عِلْمِ جَسُّ هِي۔

حَضْرٌ (ن) حَضْرًا وَحَضْرًا مُوَجُودٌ
هُونَا (حَضْرَةٌ) شَهْرِي مِي مِثْمِ هُونَا۔

حَضْرٌ (س) وَحَضْرٌ (ن) حَضْرًا
الْمَجْلِسُ حَاضِرٌ هُونَا عَنِ الْمَكَانِ: مَقْعَلٌ

هُونَا حَضْرَةُ الْأَمْرِ: دَلٌ مِي گَزْرَانَا ه
الْمَوْتُ: مَوْتُ كَادِقْتِ آتَا إِلَيْهِ: آتَا كِهَا جَاتَا

ہے۔ ”حَضْرَتٌ الْأَمْرِ بِخَيْرٍ“ یعنی میں
نے درست رائے کا خیال کیا۔ ”و حَضْرَتٌ
الصَّلَاةِ“ نماز کا وقت آ گیا۔

حَضْرٌ مَوْتُ وَاقِعٌ هُونَا مَفْتٌ (مَحْضُورٌ)
حَضْرَةٌ وَحَضْرَةٌ وَأَحْضَرَةٌ حَاضِرٌ كَرَانَا۔

کہا جاتا ہے ”أَحْضَرَةُ الشَّيْءِ“ اس کے پاس
چیز کو لایا۔ أَحْضَرَ الْفَرَسُ تِي زِدُوْرْنَا۔

حَاضِرَةٌ مَحَاضِرَةٌ وَحِضَارًا سَاثَه
دُوْرْنَا مَقَابِلَه كَرَانَا جُو جَوَابِ مَبْجَه مِي آئِي

دِيَانَا۔

حَاضِرُ الْحَوَابِ: حَاضِرٌ جَوَابٌ هُونَا۔

تَحَضَّرَ وَأَحْضَرَ حَاضِرٌ هُونَا تَحَضَّرَ وَ
أَحْضَرَ الرَّجُلُ: حَاضِرٌ كَرَانَا أَحْضَرَ

الْفَرَسُ: دُوْرْنَا تَحَضَّرَ الْبِدُوِيُّ: شَهْرِي
جِي سَابِنَا تَحَضَّرَةُ الْهَيْمُ: عَمَلًا حَقٌّ هُونَا۔

أَحْضَرَ قَرِيبَ الْمَرْگِ هُونَا۔

اسْتَحَضَّرَ الشَّيْءُ: حَاضِرٌ كَرَانَا حَاضِرٌ
هُونِي كُو كِهْنَا الْفَرَسُ: دُوْرْنَا۔

الْحَضْرُ وَالْحَضْرَةُ وَالْحَضْرَةُ شَهْرَاور
مَقَامَاتٌ مَسْكُونَةٌ يِي الْبِدُوِيَّةِ وَالْبِدَاوَةُ

وَالْبَادِيَّةُ كِي خِلَافِ هِي۔ كِهَا جَاتَا هِي ”هَذَا
مِنَ كَلَامِ الْحَاضِرَةِ وَلَمْ اِرِ الْبَادِي

لَفُظًا بِه وَلَا عَرَفُوْهُ“ يِي شَهْرِ كِي رَهْنِي
وَالوِنِ كِي مَقْتَلُوْهُ دِي هَاتِ كِي رَهْنِي وَالوِنِ كُو

نِيئِي دِي كِهَا كِي اَنْهَوْنِي اِس كَالْفَلْظِ كِي هَاوَرِنَا
دِه اِس جَانَسْتِي هِي۔

الْحَضْرَةُ وَالْحَضْرَةُ شَهْرِي اِقَامَتِ۔

الْحَضْرُ وَالْحَضْرَةُ مُوَجُودِي۔ پهلُو۔
زِدُوِي كِي مَكَانِ كِي سَاثِنِي كَا مَحْنِ۔

حَضْرَتُ كَا اِطْلَاقُ هِرَا يِي بَرِي اَدْمِي پَر هُو تَا هِي
جَسُّ كِي پَاسِ لُوگِ حَاضِرٌ هُو تِي هُوِنِ جِي

الْحَضْرَةُ الْعَالِيَةُ تَامِرٌ بَكْدَا جَنَابِ عَالِي
فَلَانِ كَامِ كَا حَكْمِ دِي تِي هِي اَوْر كِهَا جَاتَا هِي

”كَلِمَتُه بِحَضْرَةِ فَلَانِ“ مِي نِي فَلَانِ كِي
مُوَجُودِي مِي اِس سِي مَقْتَلُوِي كِي۔

الْحَضْرُ تِي زِدُوْرُ أَحْضَرَ الْفَرَسُ كَا اِسْمُ
ہے۔

الْحَضْرُ وَالْحَضْرُ لُوگوِنِ كِي كِهَانِي كِي
وَقْتِ كَا اِنْتِظَارِ كَرِ كِي حَاضِرٌ هُو تِي دَالَا۔

الْحَضْرُ: حَاضِرٌ جَوَابِ۔ الْحَضْرُ: هُو شَخْصٌ
جُو سَفَرِ كَا اِرَادَه نِي كَرِي يَاسَفَرِي كِي مَصْلَاحِيَّتِ نِي رَكِهْتَا

ہو۔

الْحَضْرَةُ وَالْحَضْرَةُ وَالْحَضْرَةُ۔ پهلُو
زِدُوِي كِي مَكَانِ كِي سَاثِنِي كَا مَحْنِ۔ كِهَا جَاتَا هِي

”فَلَانٌ حَسَنُ الْحَضْرَةِ“ جِيكِي بَهْلَانِي كِي
سَاثَه حَاضِرٌ هُو ”وَجَمْعُ الْحَضْرَةِ“ یعنی وہ

عَمَارَتِ بِنَانَا جَاتَا هِي اِيئِنِ چُونِه گُجِ وَغِيْرَه كَر لِيَا
ہے۔

الْحَضْرَةُ سَفِيْدِ۔

الْحَضْرَةُ شَهْرِي۔

الْحَاضِرُ فَادِي شَهْرِ كَارِهْنِي دَالَا جِ حُضْرُو
حُضَارٌ وَحُضُوْرٌ وَحَضْرَةٌ الْحَاضِرُ:

بُرْدَا قَبِيْلَه (يِي جَمْعِ هِي جِيئِي ”حَاجٌ“ حَاجِيُوِنِ كِي
لِي كِهَا جَاتَا هِي۔)

الْحَاضِرَةُ حَاضِرٌ كَا مَوْنَسُ۔ هَاتِي كَا كَا كَانِ جِ
حَوَاضِرِ

الْحَضْرَةُ لُوگوِنِ كِي جَمَاعَتِ۔ فَوْجِ كَا
هِرَاوِلِ۔ زَخْمِ كَا مَوَادِ۔ كِهْجُوْرُ خَشْكِ كَرْنِي كِي

جِيكِي حَضْرَاتُو وَحَضْرِي۔

الْمَحْضَرُ حَاضِرٌ هُو تِي جِيكِي۔ دِسْتَاوِيْزِجِ
مَحَاضِرِ۔ الْمَحْضَرُ: حَاضِرٌ هُو تِي دَالِي

لُوگِ۔ كِهَا جَاتَا هِي ”فَلَانٌ حَسَنُ
الْمَحْضَرِ“ جِيكِي غَايِبِ اَدْمِي كَا زِدُوِي كِي بَهْلَانِي سِي

كَرِي۔ ”وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرِ مِيْنِ
فَلَانِ“ فَلَانِ كِي مُوَجُودِي مِي هِي يِي هُو۔

الْمَحْضُوْرُ مَفْعٌ لِيْنِ مَحْضُوْرٌ: بِيئَتِ
آفْتِ وَالَادُوْدِ۔

الْمِحْضَارُ وَالْمِحْضِيرُ مِيْنِ الْخِيْلِ
وَغِيْرَهَا: تِي زِدُوْرُنِي دَالَا جِ مَحَاضِرِي

الْمِحْضَرُ شَهْرِي۔ شَهْرِي مِي آئِي دَالَا۔

الْمِحْضَرُ قَرِيبُ الْمَرْگِ۔ كِي تِي هِي
”الْبَلْبِنُ مِحْضَرٌ فَعَطَ اِنَا عَاكُ“ دُوْدِه كِي

لِي بِيئَتِ آفْتِ هِي اِس لِي سِيئِنِي بَرْتِنِ كُو چِيصَا
لُو۔

حَضْرَمٌ فِي الْكَلَامِ عَرَابِي غَلْطِي كَرَانَا۔
الشَّيْءُ لَانَا لِي عَاءِ الشَّجَرِ: جِي مَالِ اَتَارَانَا۔

الْقَوْسُ مَكَانٌ كُو مَضْبُوْبُ كَسَا۔
الْحَضْرَمِيَّةُ: مَقْتَلُوِي مِي لِكْنَتِ۔

حَضْرَمُوْتِ كِي جَانِبِ مَنَسُوْبِ۔

حَطًا (ف) حَطًا. الارض به: پھاڑنا۔
 به عن كذا: دفع كرهنا۔ ہٹانا۔ جھکانا۔
 بالشئ: پھینکنا۔
 الحطينة: بد صورت پست قدم مرد۔
 الحطء: برتن کا بقیہ پانی۔ کہا جاتا ہے
 ”حطء من تمر“ پیوے پر اٹھانے کے لائق
 سمجھو گریں۔
 الحطی: من الناس: ذلیل آدمی۔ کہا جاتا
 ہے ”هو حطی بطنی“ وہ ذلیل ہے۔
 بطیء کا لفظ تابع ہے۔
 حَطَب (ض) حَطَبًا وَاخْطَبَ
 وَاخْطَبَ كَلْبًا كَلْبًا مَفْتًا (حَاطَبٌ) کہا
 جاتا ہے ”هو حَاطَبٌ لَيْلٌ“ وہ مہنگو میں
 رطب دیاجس ملانے والا ہے۔
 حَطْبَةٌ كَلْبًا لَانًا۔
 حَطَبٌ وَاخْطَبَ. المكان: بہت کڑیوں
 والی جگہ ہوتا۔ مَفْتًا (حَطْبِ) مؤنث
 (حَطْبِيَّة)
 حَطَبٌ. به و عليه: چٹلی کھانا۔ تہمت
 لگانا۔ کہا جاتا ہے ”حَطَبٌ فِي حَبْلِهِ“ اس
 نے اس کی مدد و اعانت کی۔ ”و حَطَبٌ عَلَيْهِ
 بَخِيرٌ“ یعنی وہ اس کے پاس بھلائی کولایا۔
 اَحْطَبَ وَاِسْتَحْطَبَ. الكرم: انگور کی
 تیل سے شامیں تراشنے کا وقت آنا۔
 الحَطَبُ. ابو من رج اَحْطَابٌ. ایک
 گلے کو حطبة کہتے ہیں۔
 الحَطْبُ. مؤنث حَطْبَةٌ و (الاحطَب)
 مؤنث حَطْبَاءٌ. رج حَطْبٌ: بہت دہلا
 الحَطْبُ. کڑی خنے والا۔ کڑھارا۔
 الحَطْوِيَّةُ. کڑی کا کھانا۔
 الحَطَابَةُ. الحطاب کا مؤنث۔ کڑی خنے
 والی۔
 المِخْطَبُ. ہنیا۔
 القوس: تانت چڑھانا۔
 حَطْمَةٌ (ض) حَطْمًا و حَطْمَةٌ تَوْتًا۔
 حَطْمٌ (س) حَطْمًا. بڑی عمر والا ہونا۔
 تَحَطَّمَ وَاِنْحَطَّمَ. ٹوٹنا۔ کہا جاتا ہے

المِخْضِي: مٹی کی بنی ہوئی □۔
 حَطٌّ (ن) حَطًّا. اترنا۔ نازل ہونا۔
 (حَطًّا و حُطُوًّا) السعور: ستا ہوتا
 (حَطٌّ) (ن) حَطًّا (ط) البعير: ایک جانب
 تکمیل کو دہانا (وَاَحْطَّ) الوجه: مہاسا لگانا
 (حَطٌّ) (ن) حَطًّا وَاِحْتَطَّ اِحْتِطَّاطًا
 الشئ: چھوڑنا۔ رکھنا الحَمْلُ: جانور کی پیٹھ
 سے اترنا۔ کہا جاتا ہے ”حَطٌّ رَحْلُهُ“ اس
 نے اقامت کی الجلد: پالش کرنا۔ لوہے سے
 چڑے پر نقش کرنا۔
 اِنْحَطَّ. اترنا النَّاقَةُ فِي سَيْرِهَا: تیز دوڑنا
 السعور: ستا ہونا۔ کہا جاتا ہے ”الاسعار
 حَاطِبَةٌ وَاِحْتِطَّةٌ“ ہماڑ ستا ہے۔
 اِسْتَحْطَبَ. چھپے اترنے کو کہنا۔ کہا جاتا ہے
 ”اِسْتَحْطَبَ فَلَانًا وَاِسْتَحْطَبَ“ اس نے فلاں سے
 اپنا بوجھ گھٹا دیے کو کہا من الثمن شيئًا: کچھ
 گھٹانے کو کہنا۔
 الحِطَّةُ وَاِحْتِطِي. اِسْتَحْطَبَ وَاِسْتَحْطَبَ وَاِسْتَحْطَبَ
 اسم ہے۔
 الحَطِيطُ. چھوٹا۔
 الحَطِيظَةُ. قیمت کی کمی۔
 الحَطِيظَةُ. کھانسی۔
 الحَطَاطُ. مہاسہ۔ دودھ کے جھاگ۔ واحد
 (حَطَاطَةٌ)
 الحَطَاطُ. بدبو۔
 الحَطَطُ. نرم و نازک اجسام۔
 الحِطَانُ. کبر۔
 الحَطْوُطُ. اصل تیز رفتار اونٹنی۔
 الحَطُّ. نرم و چکنی پیٹھ والا۔
 المِخْطُ وَاَلْمِخْطَةُ. اترنے کی جگہ۔
 ظہرنے کی جگہ۔ ن۔ مِحَاطٌ وَاِمْحَاطٌ.
 المِخْطَةُ: ریلوے اسٹیشن۔ (جدید)
 المِخْطُ وَاَلْمِخْطَةُ. کڑی یا لوبا جو چڑے پر
 نقش کرنے کے لئے بنایا گیا ہو۔
 المِخْطُوَطُ. مفع ادیم محطوط: پالش
 کیا ہوا چڑھ۔ سَيْفٌ مِخْطُوَطٌ. تیز کی ہوئی
 تلوار۔

المُحَضَّرُم. بمعنى المُحَضَّرُم (دیکھئے
 لفظ المحضرم)
 حَضَلْتُ (س) حَضَلًا. النخلة: درخت
 ثمر کے ڈھل کے جو کا ثراب ہوتا۔
 حَضَنَ (ن) حَضْنًا و حِضَانَةً و
 اِحْتَضَنَ. الصبي: گود میں لینا۔ پرورش
 کرنا۔ سینه سے لگانا۔ حَضَنَهُ عَنْ كَذَا:
 علیہ کرنا۔ دور کرنا۔
 حَضَنَ (ن) حَضْنًا و حِضَانَةً و حِضَانًا
 و حُضُونًا وَاِحْتَضَنَ. الطيرُ بَيْضَهُ و
 على بَيْضِهِ: اٹھے سینا۔
 حَضَنْتُ (ك) حِضَانًا. المرأة او
 الشاةُ او النَّاقَةُ: ایک چھوٹے اور ایک بڑے
 پستان یا گھن والی ہوتا۔ مَفْتًا (حَضُونُ)
 اَحْضَنَ. الرجل و بالرجل: محارت کرنا
 اَحْضَنَ بِحَقِّهِ: حق مار لینا۔
 الحَضْنُ. گود۔ اتنی مقدار جو گود میں آسکے۔
 کہا جاتا ہے ”اغطاه حَضْنًا مِنَ التمر“ اس
 نے اسے گود بھر کر سمجھو گریں دیں۔ کسی چیز کا
 کنارہ۔ پھاڑ کی جڑ۔ کہا جاتا ہے ”عَشَّشَ
 الطائرُ فِي حَضْنِ الجبلِ“ پرندے نے
 پھاڑ کی جڑ میں گونسل بنایا۔ ج اَحْضَانٌ و
 حُضُونٌ. الحَضْنُ وَاَلْحَضْنُ: بچو کا
 بھٹ۔
 الحَضْنَةُ وَاَلْحَضْنُ. الطائرُ کا اسم مصدر۔
 الحَاضِنَةُ. بچہ کو پرورش کرنے والی دایہ۔ ج
 حَوَاضِنٌ. کہا جاتا ہے ”حَمَامَةٌ حَاضِنٌ و
 حَمَامٌ حَوَاضِنٌ“
 الحِضَانَةُ. دایہ گری۔ پرورش۔
 الحِضَانُ. وہ شخص جس کا ایک ضیہ
 دوسرے سے بڑا ہو۔
 المِخْضَنَةُ. پیالہ کی مانند مٹی کا ایک برتن۔
 الْمُخْضَنُ. گود۔
 حَضًا (ن) حَضْوًا. النار: کرپٹی سے
 ہلانا۔
 المِخْضَا وَاَلْمِخْضَاءُ. آگ ہلانے کی
 کرپٹی۔

”تَحَطَّمُ الرَّجُلُ غَيْظًا“ وہ غم سے چور ہو گیا۔ ”وَاتحَطَّمُ النَّاسُ عَلَيْهِ“ لوگوں نے اس پر بھیڑ کی۔

الحَطْمُ بے رحم چرواہا۔ (والحَطْمُ بہت کمانے۔ سب کچھ چٹ کر جانے والا۔

الحِطْمَةُ والحطامة والحطام سوکھی چیز کے ٹکڑے۔ حَطَامُ الدنیا: دنیاوی سازوسامان۔ حَطَامُ البیض: انڈے کا چمکا۔

الحطام والحظوم والمخطم شیر۔ کہا جاتا ہے ”ریح حطوم“ بہت تیز ہو۔

الحاطوم: ہم کرنے والی دوا (والحطمة والحطمة سخت سال۔

الحطمة: تیز آگ۔ دوزخ۔ بہت اونٹ و بکریاں۔

الحطیم: کعبہ کے کنارے کی دیوار۔ وہ جگہ جو رکن اور زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان

ہے۔ الحطیبات زر ہیں جو ایک فرض حطمة نامی کی جانب منسوب ہیں۔ اور بقول بعض

تکواروں کو توڑ دینے والی زر ہیں۔ اور بعضوں کے نزدیک ایسی زر ہیں جو بھاری اور چوڑی

ہوں۔ حَطَّ (س) حَطًّا و حَطًّا و أَحَطَّ نصیب

والا ہونا۔ مَفَّتْ (حَطَّيٌّ و حَطِيظٌ و محظوظ)

الحَطَّ: حصہ۔ بہرہ۔ نصیب۔ حصہ خیر و فضل۔ کبھی حصہ شریکیلی بھی بولا جاتا ہے۔

دولت مندی و نیک بختی۔ ج حظوظ و حِظاظ و أَحِظَّ۔

حَظَبٌ (ن) حُظُونًا و حَظَبٌ (س) حَظَبًا۔ الرجل: موٹا ہونا۔ پست قد اور

بڑے پیٹ والا ہونا۔ مَفَّتْ (حَظَبٌ) مؤنث حَظْبَةٌ

الحظْبُ بڑے پیٹ والا پست قد سخت آجڑ۔ بخیل۔ بچ خور۔

حَظْرٌ (ض) حَظْرًا الشَّيْءُ و حَظْرٌ عَلَيْهِ

الشَّيْءُ مَنَعَ كَرَاهًا۔ روکنا۔ الشَّيْءُ مَحْفُوظٌ كَرَاهًا۔ (اس وجہ سے کہ گویا غیر سے روک دیا)

المواشی: بازہ میں بند کرنا۔ (واحتظر) اپنے لیے بازہ بنانا۔ احتظر بہ بچنا۔

احتظر دوسرے کے لیے بازہ بنانا۔ حَظْرٌ بمعنی حَظْرٌ تشدید مبالغہ کیلئے ہے۔

الحَظْرُ درخت کی شاخ کہ جس سے بازہ بنائیں۔ تَرَكَائِمًا: کہا جاتا ہے ”وَقَعَ فِي الحَظْرِ الرُّطْبُ“ یعنی وہ ایسی چیز میں پھنس گیا جس کی

اسے طاقت نہیں۔ ”وَأوقَدَ فِي الحَظْرِ الرُّطْبُ“ اس نے چفل خوری کی۔ ”وَجَاءَ بِالْحَظْرِ الرُّطْبُ“ وہ بہت مال لایا بہت

جموٹ ہوا۔ الحَظِيرَةُ ج حِظَائِرٌ و (الحِظَارُ و الحِظَارُ) بہرہ چیز جو تمہارے لیے کے سرے

کے درمیان میں حائل ہو۔ بَازُونٌ: ”وَأِنَّهُ لَكَيْدٌ الحَظِيرَةُ“ وہ بخیل و بے فیض ہے۔ حَظِيرَةُ القُدْسِ: نخت۔

المَحْظُورُ روکا ہوا۔ حرام۔ ناجائز۔ کہا جاتا ہے ”الصُّرُورَاتُ تَنْبِیحُ المَحْظُورَاتِ“

حَظْرَبٌ: القوس: سختی سے تانت چرمانا الحبل: مضبوط بنا السقاء: بھرتا۔

تَحَظَّرَبَ بھرجانا۔ حَظَلٌ (ن ض) حَظَلًا و حَظَلَانًا و حَظَلَانًا۔

حَظَلَانًا۔ علیہ: حرکت اور تعریف سے روکنا۔ (حَظَلَانًا) المشی: ٹھہر ٹھہر کر

چلنا اور کہا جاتا ہے ”هُوَ يَحْظَلُ حَظَلَانًا“ وہ غھبناک چال چلتا ہے۔

حَظَلٌ (س) حَظَلًا۔ البعیر: بہت اندر ان کہتا۔ مَفَّتْ حَظَلٌ جمع حظالی۔

أَحْظَلٌ۔ المكان: بہت اندر ان والی جگہ ہوتا۔

الحَظَلُ و الحَظَالُ و الحَظُولُ۔ بخل کی وجہ سے اپنے اہل و عیال پر بچی کرنے والا۔

حَظَلَانٌ حَظُولًا آہستہ چلنا۔ حَظِيٌّ (س) حُظْوَةٌ و حُظْوَةٌ و حِظَّةٌ

بالرزق: حصہ پانا۔ (واحتظی) رجبہ والا

ہونا۔ نصیب والا ہونا۔

أَحْظَاهُ صاحب رجبہ بنانا۔ أَحْظَاهُ بالمال: مال کا حصہ دینا۔ أَحْظَاهُ عَلِيٌّ

فلان تمہیں دینا۔

الحَظْوَسُ: حصہ۔

الحَظِيٌّ صاحب رجبہ۔

الحَظْوَةُ چھوٹا تیر۔ درخت کی بڑکی شاخ جو ابھی سخت نہ ہوئی ہو۔ ج حِظَاءٌ و حِظَوَاتٌ۔

الحِظَّةُ حصہ۔ مرتبہ۔ ج حِظَاءٌ و حِظَاءٌ۔ الحَظْوَةُ و الحِظْوَةُ س۔ مرتبہ۔

الحَظِيٌّ وہ شخص جس سے لوگ محبت کریں اور اس کے مرتبہ کو بلند کریں۔

الحِظِيَّةُ۔ الحِظِيٌّ کا موٹا تیر یا بادشاہ کی پیاری لوتھی۔ ج حِظَايَا۔

الحِظِيَّةُ آہستہ چال۔ کہا جاتا ہے ”مَشَى الحِظِيَّةً“ وہ آہستہ چال چلا۔

الحِظِيَّةُ بے بھل کا چھوٹا تیر۔ الحِظِيٌّ جوں۔ واحد (حِظَاةٌ)

الحِظِيٌّ حصہ ج حَظْوَةٌ و حِظَاةٌ۔ حَفَّ (ن) حَفًّا و حِفَافًا۔ الشَّيْءُ چمکا

أَهْرَتَا اللحية: موٹا بنا کرنا۔ الوجه: بال دور کرنا۔

حَفَّ (ن) حَفًّا۔ القوم الرجل و بہ و حوله: گھیرنا۔ حَفَّ: بکذا: ناہل کرنا۔

حَفَّتْ الحاجة: ضرورت لاحق ہونا۔ حَفَّتْ الشجرة او الحية: سرسراہٹ ہونا۔ حَفَّتِ الارض

حُفُوفًا، خشک ہونا سمعہ: بھرا ہونا اللحية: پر آگندہ ہونا۔ حَفَّ الرجل: تیز

نظر بد گانے والا ہونا۔ أَحَفَّ أَحْفَافًا۔ راسہ: مدت تک تیل نہ

لگانا الرجل تیرائی سے یاد کرنا۔ حَفَّفَ القوم حوله و حَفَّفُوهُ: ناہل کرنا۔ گھیرنا الرجل: بتلائے معیبت و کم مال

والا ہونا بکذا: ناہل کرنا۔ أَحْتَفَّ القوم بہ: ناہل کرنا۔

حَافِرٌ. اليربوعُ: جنگلی چوہے کا اپنے ڈھونڈنے والوں پر سوراخ کو ملتیس کر دینا اور اسی سے مثل ہے "فَلَأَن آرَوْعَ مِن يَرْبُوعَ مُحَافِرٍ"

تَحْفَرُ السَّبِيلُ: گڑھے ڈالنا۔
اِسْتَحْفَرُ النَهْرُ: کھودنے کا وقت قریب پہنچنا۔

الحفر والحفیر: کشادہ کنواں۔ دانتوں کی زردی۔ الحفر: مٹی جو کھودی ہوئی جگہ سے نکالی جائے۔ ح الحفار و ح الحفیر۔

الحفيرة ح حفر و (الحفيرة) ح حفائر و (الحفیر) گڑھا۔ قبر۔ الحافر فلان: جانور کا کھر۔ ح حوافر۔ اور "النقد عند الحافر" کا مطلب یہ ہے کہ جب تم کسی جانور کو خریدو تو بغیر دام ادا کئے ہوئے وہاں سے جدا مت ہو۔

الحافرة الحافر کا مونت کھودی ہوئی زمین۔ ابتدا کی حالت۔ کہا جاتا ہے "الآن قد تعسفت و قد كان نجيبا في الحافرة"

اب وہ راہ راست سے ہٹ گیا ہے ابتدا میں شریف تھا۔ کسی چیز کی طرف لوٹا۔ اور اسی سے ہے "رجع على حافرته اوفى حافرته"

یعنی وہ اسی راستے سے لوٹا جدھر سے آیا تھا۔ یا ایک کام میں تھا پھر اس سے علیحدہ ہو گیا اور پھر دوبارہ اسی میں مبتلا ہو گیا۔ "رجع في حافرته" یعنی پوڑھا ہو گیا۔ "والنقى القوم فافتتلوا عند الحافرة" یعنی قوم نے بڑبھڑھوتے ہی جنگ کی۔

الحفر ح: ایک قسم کی ریستانی نباتات جو ہمیشہ سبز رہتی ہے۔

الحقار: کھودنے والا۔ عموماً گور کن کیلئے مستعمل ہے۔

المحفرة والمحفرة والمحفار: کدال۔ المحفور: مفتح۔ زرد دانتوں والا۔

حفرة (ض) حفرا: بچھے سے دکھایا۔ کہا جاتا ہے "حفرة الليل النهار" یعنی رات نے دن کو ہٹایا۔ و "حفروا علينا الخيل

النبت: کائن الشئ: چھلکا اُتارنا۔ کہا جاتا ہے "اِخْتَفَّ جَمِيعَ مَا فِي الْقَدْرِ" اس نے ہانڈی میں کاسب کچھ کھالیا۔

اِسْتَحْفَ: المال: سارے لیٹا۔
الحاف: فا: تیز نظر بدگمانے والا۔ سَوِيق حَافٍ: خشک ستور۔ حَمِيز حَافٍ: سوکھی روٹی۔ بغیر سالن کے روٹی۔ کہا جاتا ہے "ماله حَافٌ و لا رَافٌ" اس کے لیے کوئی نہیں جو اس کے امور کی دیکھ بھال کرے اور اس کی خدمت کرے۔

الحفاف: س۔ جانب۔ نشان قدم۔ کہا جاتا ہے "جاء على حفافه" وہ اس کے نشان قدم پر آیا۔ گنجے کے سر کے گرد گرد کے بال۔ ح الحففة: کہا جاتا ہے "كان الطعام حفافا ما اكلوا" کھانا اتنی ہی تھا جتنا انہوں نے کھایا۔

الحف: س۔ (والحفف) گوشہ۔ نشان قدم۔ کہا جاتا ہے "جاء على حفة او على حففة" وہ اس کے نشان قدم پر آیا۔ "وفلان حف على نفسه"

الحف: مال کی کمی۔ کہا جاتا ہے "طعام حف" تھوڑا کھانا۔ و معيشة حف

تنگ زندگی۔
الحف: رانچہ، دھڑکی۔
الحفافة: گرجے ہوئے بال وغیرہ۔ جھوسہ کا بقیہ۔

الحقان: شتر مرغ کے چوزے۔ واحد (حفانة) نوکر چاکر۔ بھرا ہوا برتن۔ کہا جاتا ہے "اناء حقان" بھرا ہوا برتن۔ و حقان النعام: شتر مرغ کے پر۔

الحقة: پوری فیاضی۔ بننے وقت کپڑا لینے کی لکڑی۔ اونٹ کی مقدار خوراک۔ الحقة: گڑھے کے کنارے کی زمین (مولدہ)

المحفة: عورتوں کی پانکی۔ تخت رواں۔ اشتر بچر۔

المحفوف: س۔ محتاج۔
الحفیف: سانپ کے چلنے کی سر سر اہٹ۔

حفافه (ف) حففاً پچھڑنا۔
الحففاً: ایک قسم کا پودہ جس کی چھال کو قدماء مصر کتابت کے لیے استعمال کرتے تھے۔
واحد حفافة۔

حفته (ن) حففاً: ہلاک کرنا۔ گردن توڑ دینا۔ حففت الشئ: کوٹنا۔
الحفث والحفث: ح الحفث و (الحفث) ح حفافيث: ایک قسم کا بڑا سانپ جس میں زہر نہیں ہوتا (الحفث الحفث: الحفثة) آنت کا ایک حصہ جس میں بہت خانے ہوتے ہیں۔
الشئ: پرندے کے اڑنے یا تیر کے پھینکنے یا آگ کی بھڑک میں آواز ہونا۔
حفد (ض) حفداً و حفوداً و حفداناً و احسفطاً فاطح العمل: جلدی کرنا۔ و حفدة: لٹوٹ کرنا۔
أحفد: الظليم: تیز دوڑنا۔ دوڑنے پر براہیمتہ کرنا۔
الحفید: پوتا۔ ح حفدء۔
الحافد: خادم۔ تابع۔ مددگار۔ پوتا۔ ح حفد و حفدة: الحفدة: نقش و نگار کرنے والا۔

المحفد: اصل۔ کوہان کی جز۔ کپڑے کا نقش و نگار۔ ح محافد (والمحفد) جانوروں کو جھوسہ کھلانے کا برتن۔ المحفد: بیان کرنے کا پیالہ۔ کپڑے کا کنارہ۔
المحفود: محذوم۔
المحفيد: من السيف: جلدی کانٹے والی تلوار۔
حفر (ض) حفراً و احنفر: گڑھا کھودنا۔
حفر الطريق: چل کر نشان ڈالنا۔ حفر الشئ: یہ تک معلوم کرنا العنبر: ڈبلی کرنا۔
حفر (ض) حفراً و حفر (س) حفراً و حفر: زردی کی وجہ سے دانتوں کی جڑوں کا خراب ہونا۔
أحفر: الصبي: دودھ کے دانت گرنا۔
ه بفرأ: کھودنے میں مدد دینا۔

والو کتاب انہوں نے ہمارے اوپر گھوڑوں اور سواروں کو جمع کر دیا ہ: بالروح بیزہ مارنا ہ عن کذا: دور کرنا اور جلدی کرنا المرأة: بیوا کرنا۔

حافزہ: زانو بزا نویشنا اور قریب ہونا۔ تحفظ و احتفظ: زانو پر پاسرین کے بل بیٹھنا۔ کودنے کیلئے آمادہ ہونا۔ کہا جاتا ہے۔ "احتفظ فی مشیہ" اس نے چلنے میں کوشش کی۔

الحفظ: مدت۔ کہا جاتا ہے "جعلت بینی و بینک حفزاً" میں نے اپنے اور تمہارے درمیان مدت مقرر کی۔

الحفظ: من القسی تیر کو بہت تیزی سے پھینکنے والی کمان۔

حفظ (ض) حفصاً: کھانا۔ تحفیس: بستری تلملانا۔

الحقیق و الحقیق: مونا جس سے کسی چیز کی امید نہ ہو۔ بے وجہ غصہ اور راضی ہونے والا۔ الحقیق: غصہ ناک۔

حفش (ض) حفشاً: چھلکا اُتارنا۔ حفش السیل الوادی: بھرو دینا۔ المطر الارض: روئیدگی ظاہر کرنا فلانا: دھکا دینا۔

السیل: ایک جگہ میں سار پانی جمع ہونا۔ القوم: علیہ: اکٹھا ہونا۔ حفش فی الامر: کوشش کرنا القوم: پار بار دوڑنا اور ہر مرتبہ اچھی طرح سے دوڑنا۔

حفش (س) حفشاً: السحابۃ: یکبارگی زور کی پوچھار برسا کر رک جانا۔

حفش و تحفش: الرجل: چھوڑنے میں رہنا۔

الحافشۃ: پانی بہنے کی جگہ۔ ح حافشات و حوافش۔

الحفش: ٹوٹ کر۔ چھوڑنا۔ ہالوں کا بنا ہوا خیمہ۔ کوہاں۔ بوسیدہ چیز۔ ح حافش و حفش: آخفاش البیت: گھر کی معمولی چیزیں۔ آخفاش الارض: سیبی۔ جنگلی

چوہا۔ گوہ وغیرہ۔ الحفش اندام نہانی۔ حفص (ض) حفصاً: الشی جمع کرنا۔ الشی من یدہ: مال دینا۔ گرا دینا۔

الحفاصۃ: جمع کی ہوئی چیز۔ الحفص: میں۔ چیز کے کا تھلا۔ چھوٹا گھر۔ شیر کا بچہ۔ ح حفاص و حفص۔ الحفص: بیرو وغیرہ کی گھٹلی۔

المحفصۃ: چیز کے کا تھلا۔ الحفصۃ: بچہ۔ (الحفصۃ و أم حفصۃ) ایک قسم کا گدھ۔ (أم حفصۃ مرغی۔

حفص (ن) حفصاً: العود: موڑنا (و حفص) الشی: ہاتھ سے گرانا الارض: خشک کرنا القوم: اپنے پیچھے چھوڑ دینا اللہ عنہ: تخفیف کرنا۔

الحفص: گھر کا سامان جو بار کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہو۔ گھر کا سامان اٹھانے والا۔ اونٹ۔ بورا جس میں قوم کا سامان ہو۔ خیمہ کا ستون۔

ہالوں کا خیمہ۔ کزور اونٹ۔ کہا جاتا ہے "انہ لحفص علم" وہ کم علم ہے (اس قول میں علم کو حفص سے قلت کی بنا پر تشبیہ دی گئی ہے) اور کہا جاتا ہے "نعم حفص العلم

هذا" یہ علم کا جاننے والا تھا ہے۔ ح حفاص و حفاص۔

حفظ (س) حفظاً: الشی: ضائع ہونے سے بچانا۔ خراب ہونے سے بچانا۔

الکتاب: زبانی یاد کرنا السور: چھپانا۔ المال: حفاظت کرنا۔ نگہبانی کرنا۔

حفظہ: الکتاب: یاد کرنا۔ حافظہ: حفاظاً و محافظۃ: علی الامر: مداومت کرنا۔ نگہبانی کرنا۔ معنہ: مدافعت کرنا۔ بچانا۔ کہا جاتا ہے "انہ لڈو حفاظ و ڈو محافظۃ" اس شخص کے حق میں جس کے اندر خودداری ہو۔

أحفطہ: غصہ دلانا۔ احتفظ: غصہ ناک ہونا بہ یاد کرنا۔

الشی و بہ لفسہ: اپنے لئے خاص کرنا۔ تحفظ: عنہ و منہ: بچنا بہ الکتاب:

تھوڑا تھوڑا یاد کرنا۔

استحفظہ: مالا او سیراً: محفوظ رکھنے کو کہنا۔

الحفظ: بیاد۔ ہوشیاری۔ الحفیظۃ: نگہبانی۔ تعویذ: جس کو بچنے کے

گلے وغیرہ میں ڈالتے ہیں۔ ح حفاظ: اہل الحفاظ: بھارم کی نگہبانی کرنے والے۔

الحفیظۃ و الحفیظۃ: قابل حفاظت چیز کے لیے غضب و حمیت۔

الحفاظ: فاکسی چیز پر مقرر۔ الطريق الحافظ: واضح سیدھا راستہ جو ختم نہ ہو۔ کہا جاتا ہے "رجل حافظ العین" مرد بیدار چشم جس پر نیند کا غلبہ نہ ہو۔ ح حفاظ و حفظہ و حافظون۔

الحافظ و الحفیظ: من الملائکۃ: نیکی بری لکھنے والا فرشتہ۔ الحفیظ: محفوظ۔ نیز اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے۔

الحفاظۃ: الحافظ کا مؤنث یادداشت کی قوت۔

المحفطۃ: غصہ دلانے والا معاملہ۔ ح محفطات: المحفطات: مصیبتیں۔

حفل (ض) حفلاً و حفولاً و حفیلاً الماء: کثرت سے جمع ہونا القوم: اکٹھا ہونا الدمع: بہت ہونا الوادی بالسیل: لب بھرنا السماء: بہت برساتا الشی: صیقل کرنا۔ کہا جاتا ہے "ماحفله و ما حفل بہ" اس نے اس کی پروا نہیں کی۔

حفله: اچھی طرح جمع کرنا۔ زینت دینا الشی: صیقل کرنا الناقۃ: تھن میں دودھ جمع ہونے کے لیے چھوڑ دینا۔

تحفل: اللین: اکٹھا ہونا فلاں: آراستہ ہونا المجلس: مجلس کا بھر جانا۔

احتفل: القوم: جمع ہونا المجلس بالناس: بھرنا الوادی بالسیل: لباب بھرنا الطريق: واضح ہونا الشی: روشن ہونا بالامر: اچھی طرح انتظام کرنا فی الامر: مبالغہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "ما احتفل بہ" اس

حَقًّا (حَقًّا) حَقًّا. عَلَيْهِ اِنْ يَفْعَلْ كَذَا: واجب ہونا۔ کہا جاتا ہے ”حَقٌّ لَكَ اِنْ تَفْعَلْ كَذَا۔ وَ حَقَّقْتَ اَنْ تَفْعَلَ كَذَا“ یعنی اس کا کرتا تمہارے لائق ہے اور تم اس کے کرنے کے لائق ہو۔

حَقْلًا (حَقْلًا) حَقًّا وَ حَقَّةً. الْاِمْرُؤُا تَابِتٌ وَوَجِبَ هُوَا الْحَاجَّةُ بَحْتِ بَيْتِ اَتَا۔

حَقْلًا (حَقْلًا) حَقَّقًا. الْفَرَسُ ذُوْرْنَے مِیْنِ اَهْلِ تَاغُوْیْ كِیْ جَمْعٌ یَجْمَعُ پَاؤُنْ رَكْبًا۔ مَفْتٌ (اَحَقُّ)

حَقَّقًا. تَاكِیْدُ كَرْنَا۔ وَوَجِبَ كَرْنَا۔ حَقَّقَ الْقَوْلُ اَوْ الظَّنُّ تَقْدِیْرًا كَرْنَا۔

حَاقًا مُحَاقًا وَ حَقَاقًا. فِی الْاِمْرِ یَجْمَعُوْا كَرْنَا۔ اِسْمٌ حَقْرٌ دُوْرُوْیْنِ اِسْمٌ كَرْنَا۔ كَمَا جَا تَا بِهٖ ”اَنْ لَّهٗ كَذَا وَ كَذَا لَا یَحَاقُهٗ فِیْهٖ اَحَدٌ“ یعنی اس کیلئے لیا اور ایسا ہے کوئی اس بارے میں اس سے جھگڑا نہیں کر سکتا۔

اَحَقُّ جَنْ كَبْرًا۔ اَحَقُّهٗ جَنْ مِیْنِ غَاِبِ اَتَا اَحَقُّ الْاِمْرِ: ضَرُوْرِیْ وَ وَوَجِبَ تَحْمِیْرًا۔ كَمَا جَا تَا بِهٖ ”اَحَقُّ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ“ یعنی قضا کو اس کے ذمہ واجب کیا۔ اِحِق الرمية: تیر اندازی کے وقت ہی مار ڈالنا۔

تَحَقَّقَ. الْخَبْرُ: ثَابِتٌ هُوَا الرَّجُلُ الْاِمْرُؤُا یَقِیْنُ كَرْنَا۔

تَحَاقًا یَاہِمُ جَمْعًا اَوْ فِیْلًا كے لَیْجے جَا تَا۔ اِنْحَقَ. الرِّبَاطُ نَبْدٌ جَا تَا۔ اِحْتَقَّتْ الطَّغْنَةُ بِهٖ: تَوْرًا اَوْ اِثْمًا۔ اِحْتَقَّ الْقَوْمُ: نَبْرٌ اِیْكَ كَا یَبْرُ كَمَا كَرْنَا حَقٌّ مِیْرے پَاَسْ ہے۔

النَّاقَةُ: مَوْئُوْیٰ ہونا۔ كَمَا جَا تَا بِهٖ ”اِحْتَقَّ اِلَیْ كَذَا“ یعنی اسے سُوْخَرِیْ اَوْ اِسْ پَرِ تَحَقُّیْ اِثْمًا۔ اِسْتَحَقَّهٗ: ضَرُوْرِیْ وَوَجِبَ تَحْمِیْرًا۔ الدِّیْنُ: اَوْ اِیْجَلُ كَا دِقْتُ قَرِیْبًا اَتَا۔

النَّاقَةُ: مَوْئُوْیٰ ہونا الرَّجُلُ: مَسْتَقِنٌ سَرَاہُوْا۔ الْحَقُّ: سَرَّجًا۔ رَاسْتِیْ یَقِیْنُ۔ اَضَافَ۔ ثَابِتٌ شَدُّہٗ حَسْبُ۔ مَالٌ اَوْ مَلِكٌ۔ ہُوْشِیَارِیْ۔ فِیْلٌ شَدُّہٗ مَحَامِلٌ۔ مَوْتُ۔ جَ حَقُوْقًا اَوْ كَمَا

عِزَّتِ دِیْنًا۔ حَقًّا الْبَرِّیُّ: اَبْرَهْمَ اَبْرَهْمَ یَاوُلْ كے اطْرَافِ مِیْنِ چُكْمَا شَارِبُهٗ غُیْبٌ اِجْمَعُیْ طَرِحٌ مَوْئُوْیٰ۔ حَقِّیْلًا (حَقِّیْلًا) حَقَّازٌ یَاہِدُ چلنے سے پاؤں گھسنا۔ نِجْمٌ پَاؤُنْ چِلَا۔ مَفْتٌ (حَقْفٌ وَ حَاقٌ) جِ حَقَّافَةُ الْفَرَسُ: جَمْعٌ ہُوئے کھروالا ہونا (حَقَاوَةٌ وَ حَقَاوَةٌ وَ حَقَایْبَةٌ وَ تَحَقَایْبَةٌ) وَ اِحْتَقْفُیْ بِهٖ جِزَّتْ وَ اِكْرَامُ كَرْنِے مِیْنِ مَبَاذِہٖ كَرْنَا۔ كَسِیْ كے سَا تَمَّہٗ خُوْشِ ظَاہِرُ كَرْنِے مِیْنِ مَبَاذِہٖ كَرْنَا۔ حَقْفِیْ عِنْدَ خَالْتِ بَہْتِ پُوْچھنا۔ حَاقًا مُحَاقًا: تَحَقُّوْا كَرْنِے مِیْنِ جَمْعًا كَرْنَا۔ اَحْقِیْ اِحْقَاءً: جَمْعٌ ہُوئے کھروالے جانور کا مالک ہونا السُّؤَالُ: بَارٌ بَارِدٌ ہِرَا تَا ہٗ: مَرَارٌ كَرْنَا۔ خَبْرُ كِیْ تَنْبِیْثِ پَرِ بَرَاہِیْمَ كَرْنَا اِلَیْہِ فِی الْوَصِیَّةِ مَبَاذِہٖ كَرْنَا بِهٖ جَبِیْبٌ لَكَ تَا شَارِبُهٗ: كَرْنِے مِیْنِ مَبَاذِہٖ كَرْنَا۔ تَحَقْفُیْ: فِی الشَّیْءِ: كُوْشُشٌ كَرْنَا لَهٗ بِہْتِ اِكْرَامُ كَرْنَا۔

تَحَاقِیًا. اِلَی السُّلْطَانِ فِیْمَلہٗ كِلَیْلَے جَا تَا۔ اِحْتَقْفُیْ: نِجْمٌ پَاؤُنْ چِلَا۔ جُوْا اَثْرًا الْبَقْلُ چھوٹی ہونے کی وجہ سے اٹھیوں سے اکھیرنا۔ الْقَوْمُ الْمَرْعِیُّ: بَرَاہِیْمَ مِیْنِ كِیْچَہٗ نَبْدٌ چھوڑنا۔ اِسْتَحَقْفُیْ: ہٗ عِن كَذَا: كِیْ كِیْ شَخْصٌ سے كِیْ چِزْ كے مَتَلَقٌ مَبَاذِہٖ سے دِیَا بَت كَرْنَا۔ اِحْقَاءً: كَہْرُ یَاؤُنْ كِیْ كَسَالِیْ۔

الْحَقَایْبَةُ وَ الْحَقَاوَةُ وَ الْحَقْفِیَّةُ: بِمَعْنٰی الْحَقَّافِ۔ اِحْقِیْ: كِیْ چِزْ كے مَتَلَقٌ پُوْرِیْ طَرِحٌ عِلْمٌ رَكْبَے وَ اِلَا۔ عِزَّتْ وَ اِكْرَامٌ وَ اِنْطِهَارٌ خُوْشِیْ مِیْنِ مَبَاذِہٖ كَرْنِے وَ اِلَا۔ كِیْ شَخْصٌ كے حَالَاتِ كے مَتَلَقٌ بَہْتِ سَوَالِ كَرْنِے وَ اِلَا۔ سَوَالٌ كَرْنِے مِیْنِ بَہْتِ اِصْرَارُ كَرْنِے وَ اِلَا۔ جَ: فُجُوْا۔ حَقْلًا (حَقْلًا) حَقًّا جَنْ مِیْنِ غَاِبِ ہُوْنَا۔

حَقٌّ اِمْرًا: ثَابِتٌ كَرْنَا الْخَبْرُ: حَقِیْقَتِ پَرِ مَطْلَعٌ ہُوْنَا الْعَقْدَةُ: بَا نَدْحًا الرَّجُلُ نُوْطَ سُرِّ یَا مَوْئُوْیٰ كے گُڑھے پَرَا تَا الطَّرِیْقُ: نُوْطٌ رَاسْتِ چِلَا۔

حَقْلًا (حَقْلًا) حَقًّا. فَلَا تَا: دِیْنًا۔ حَقَّافٌ مِیْنِ الشَّیْءِ: رُوْكَتَا۔ مَنَعٌ كَرْنَا۔ حَقَّافُ اللّٰہِ بِهٖ: نَے اس کی پروا نہیں کی۔ الْحَاقِلُ: فَا. ضَرْعٌ حَاقِلٌ: مَبْرَا ہُوَا تَمْنٌ۔ وَ اِیْ حَاقِلٌ: نِیْلَابٌ سے مَبْرِیْ ہُوئی وَ اِیْ۔ جَمْعٌ حَاقِلٌ: بُوْرِیْ جَمَاعَتٌ۔ نَاقَةٌ اَوْ شَاةٌ حَاقِلٌ: بِہْتِ دُوْدُہٗ وَ اِیْ اَوْ نِثْمِیْ یَا مَبْرِیْ۔ جَ حَقْلٌ وَ حَوَاقِلٌ۔ الْحَاقِلَةُ: الْحَاقِلُ: مَوْئُوْیٰ دَارٌ حَاقِلٌ مَبْرَا۔ مَبْرَا كَرْنَا۔ سُوْقٌ حَاقِلَةٌ: مَبْرَا ہُوَا بَار۔ الْحَقْلُ: مِیْنِ جَمَاعَتِ۔ كَمَا جَا تَا بِهٖ ”عِنْدَہٗ حَقْلٌ مِیْنِ النَّاسِ“ اس کے پَاَسْ لُوْکُوْیْ كِیْ جَمَاعَتِ ہے۔ جَمْعٌ حَقْلٌ: بُوْرِیْ جَمَاعَتٌ۔ الْحَقِیْلُ: بِہْتِ۔ جِیسے جَمْعٌ ”حَقِیْلٌ“ بِہْتِ جَمَاعَتٌ ”مَكَاثٌ حَقِیْلٌ“ مَبْرِیْ ہُوئی جَمْعٌ ”رَجُلٌ حَقِیْلٌ“ پَرِ چِزْ مِیْنِ مَبَاذِہٖ كَرْنِے وَ اِلَا۔ الْحَقْوَلُ: خُوْصُوْرَتٌ عَوْرَتٌ۔ جَ حَقَانِلٌ۔ الْحُقَالُ: بُوْرِیْ جَمَاعَتٌ۔ جَمْعٌ شَدُّہٗ بِہْتِ دُوْدُہٗ۔ رُوْیٌ مَبْرُوْرٌ۔ الْحَقَاةُ: ہر گھسیا چِز۔ فَرَوَا یَہٗ لُوْکٌ۔ حُقَالَةُ الطَّعَامِ: كَمَا تَا مِیْنِ سے جُوْ لُكے اَوْرِ پِیْكَ دِیَا جَا تَا۔ حُقَالَةُ اللَّبْنِ: جَمَاعٌ۔ الْحَقْلَةُ: اِسْمُ الْمَرْءِ۔ اَوْرِ كَمَا جَا تَا بِهٖ ”اِحْذَلْ لَامِرٌ حَقْلَتُہٗ“ اس نے مَحَامِلَ مِیْنِ كُوْشُشِ كِیْ۔ وَ جَا تَا بِهٖ حَقْلَتِہِمُ وَ بِحَقِیْلَتِہِمُ وَ ہٗ سَبْ كے سَبْ آئے۔ اِحْقَالُیْ: حَامٌ دَعْوَتٌ۔ الْمَحْقَلُ: جَمْعٌ مَحَاقِلٌ (وَ الْمَحْقَلُ) جَمْعٌ ہُوئے كِیْ جَمْعٌ۔ مَحْقَلٌ الْاِمْرُ: مَعَامِلٌ كَا بَرَاہِیْمَ۔ حَقْلًا (حَقْلًا) حَقًّا. الشَّیْءُ: لَبٌّ مَبْرِلِیْنِ لَهٗ: لَبٌّ مَبْرِدِیْنِ۔ اِحْتَقَنَّ. الشَّجْرَةُ: جِزْ سے اَكْھِیْرُنَا۔ الشَّیْءُ لِنَفْسِہٖ: یَیْنِ مِیْنِ الشَّیْءِ: بِہْتِ یَیْنِ الرَّجُلِ: دُوْنُوْیْ بَا تَمَّہٗ زَانُوْیْ كے یَیْچِ اِثْمًا كَرَا تَا۔ الْحَقْفَةُ وَ الْحَقْفَةُ: لَبٌّ مَبْرٌ۔ وَ الْحَقْفَةُ: كَرْمٌ جَ حَقْفٌ۔ حَقْلًا (حَقْلًا) حَقًّا. فَلَا تَا: دِیْنًا۔ حَقَّافٌ مِیْنِ الشَّیْءِ: رُوْكَتَا۔ مَنَعٌ كَرْنَا۔ حَقَّافُ اللّٰہِ بِهٖ:

جاتا ہے "هو حق بكذا" وہ اس کے لائق ہے۔ "ولحق لا آيتك" بغیر توین کے یعنی تم ہے حق اللہ کی میں تیرے پاس نہیں آؤں گا۔ "وحق لا آيتك" توین کے ساتھ بغیر لام کے حقوق الدار: گھر کے مانا ہے۔
الحقۃ۔ سر حق۔ یہ لفظ حق سے خاص ہے اس وجہ سے کہ حصہ معین پر دلالت کرتا ہے۔ تم کہتے ہو "هذه حقۃ" یہ میرا خاص حصہ ہے۔ حقیقت امر۔ تم کہتے ہو "وقفت علی حقۃ ذلك الامر" میں اس امر کی حقیقت پر مطلع ہو گیا۔ مصیبت۔
الحق۔ موٹھے کے سرے کا گڑھا۔ سرین کا سر۔ بازو کا سر۔ گول زمین۔ پائت زمین۔ کڑی کا جالا۔ حق الطیب: خوشبو کی ڈبیہ۔
حقۃ۔ چھوٹا برتن۔ مصیبت۔ عورت۔ ج حق و حقق و حقائق۔
الحق۔ من الابل: چوتھے سال والا اونٹ نہ ہو یا مادہ اور یہ اس لیے کہ اب وہ بار بہادری کے قابل ہو گیا۔ اونٹنی جس کے دانت بڑھانے کی وجہ سے گر گئے ہوں۔
الحقۃ۔ حق و واجب۔
الحقیق۔ لائق سزاوار کہا جاتا ہے "هو حقیق ان یفعل کذا" وہ فلاں کام کرنے کے لائق ہے۔ "هو حقیق بكذا" وہ اس کے لائق ہے۔
والحقیق علی الشئ: وہ اس پر یس۔ لا یجوز۔
الحقیقۃ۔ وہ چیز جس کی حمایت واجب ہو گیا جاتا ہے "هو حامی الحقیقۃ" و هو من حماة الحقائق" یعنی وہ اس چیز کی حفاظت کرتا ہے جس کا دفاع اس کے ذمہ لازم ہے۔
حق۔ دو لفظ جو اپنے موضوع لہ میں مستعمل ہو۔ حقیقۃ الشئ: چیز کا معنی اور اصل۔ ج حقائق۔
الحاق۔ فا۔ وسط۔ کہا جاتا ہے "سقط علی حاق رأسہ" اس کے وسط پر گرا۔

"وجنتہ فی حاق الشتاء" میں اس کے پاس جائزے کے وسط میں آیا۔ و "رکب حاق الطريق" وہ وسط راستہ پر چلا۔ کسی چیز میں کامل۔ کہا جاتا ہے "رجل شجاع حاق الشجاع" وہ شجاعت و بہادری میں کامل ہے۔ و "احذنی حاق الجوع" مجھے خالص بھوک لگی۔
الحاقۃ۔ الحاق کا مؤنث مصیبت۔ قامت۔ کہا جاتا ہے "هو رجل خاقۃ الرجل" وہ مردانگی میں کامل ہے۔ و "هو شجاع خاقۃ الشجاع" وہ بہادری میں کامل ہے۔
الاحق۔ اسم تفضیل۔ "هو احق من فلان" کا مطلب یہ ہے کہ وہ فلاں سے زیادہ حق دار ہے اور کبھی بغیر شرکت کے صرف خصوصیت کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے "زید احق بمالہ" زید اپنے مال کا حق دار ہے کسی دوسرے کا اس میں حق نہیں۔
المحقق۔ غیر کلام محقق: منظم کلام۔ ثوب محقق: مضبوط بنا ہوا کپڑا۔
المحقق۔ لائق۔ سزاوار۔ کہا جاتا ہے "هو محقق بكذا" وہ اس کے لائق ہے۔ "هو محقق ان یفعل کذا" وہ ایسا کرنے کے لائق ہے۔
الحقانی۔ حق کی جانب منسوب۔ جیسے ربانی رب کی جانب منسوب۔
حقب (س) حقباً و احقب۔ المطر: رکن العام: بارش نہ ہونے سے خشک سالی ہوتا المعدن: ختم ہونا نائل فلان: کم اور منقطع ہونا الامر: خراب ہونا۔ احقبہ: پیچھے سوار کرنا۔
احقبت۔ الاثم: مرتکب گناہ ہونا۔ زیداً علی ناقبہ: پیچھے سوار کرنا (واستحقب) الشئ: ذخیرہ کرنا۔ کجاوہ یا بالان کے پیچھے باندھنا۔
الحقب۔ ج حقب و (الحقب) ج احقاب و احقب: اسی سال یا اس سے زائد

أَحْفَرَةٌ وَاحْتَفَرَةٌ وَاسْتَحْفَرَةٌ جَهْوَانًا
 ذَمِيلٌ سَمِيحًا
 تَحَاقَرْتُ بِأَيْ كَوَذَلْتُ كَرْتًا كَمَا جَاتَا فِي
 "تَحَاقَرْتُ إِلَيْهِ نَفْسُهُ" بِعَنْ نَفْسِهِ
 الْحَقَارَةُ وَالْحِقَارَةُ وَالْحَقَارَةُ وَ
 الْمَحْفَرَةُ ذَلْتُ وَبَعْدَ قَدْرِي كَمَا جَاتَا فِي
 "هَذَا الْأَمْرَ مَحْفَرَةً لَكَ" يَهْ أَمْرَ تَهَارَةٍ
 لِأَيْ بَاعَثَ ذَلْتُ فِيهِ
 الْمُحْفَرَاتُ جَهْوَانَةٌ جَهْوَانَةٌ
 الْحَقْفَةُ بَيْتٌ قَدْرًا بِسَبْكِ جَسْمِ وَالِي عَوْرَتِ
 الْحَيْفُطُ وَالْحَيْفُطَانُ حَيْفَرٌ أَوْ بَقُولِ
 بَعْضِ زَيْتَرٍ مَوْنِثُ الْحَيْفُطَانَةِ
 حَقْفٌ (ن) حُقُوفًا الطَّبِيُّ: بَرْنٌ كَا
 رِيكِ كَيْ تَوَدُّ فِي بَيْتُنَا يَأْسُو فِي كَالِحَاتِ فِي
 مَزْكَرٍ رِيكِ كَيْ تَوَدُّ كَيْ مَانِدٌ هَوَانًا الشَّيْءُ
 نُيْزَ هَا هَوَانًا صَفْتٌ (حَاقِفٌ)
 إِحْقُوفٌ لِبَاوِئِرِ هَا هَوَانًا
 الْحَقْفُ دِرَازٌ وَبِجِدَّةٍ تَوَدُّ رِيْتِ نَجْ
 أَحْقَافٌ وَحُقُوفٌ وَحَقَافٌ وَحَقْفَةٌ وَ
 جَجْ حَقَافِيفٌ
 الْمَحْقِفُ وَهُوَ فَخْصٌ جَوْنٌ كَمَا فِي نَبَطِ
 حَقْلٍ (س) حَقْلًا وَحَقْلَةً الْبَعِيرُ أَوْ
 الْفَرَسُ: مَثَى كَمَا فِي دُرُوكِ فِي جَمَلًا
 هَوَانًا
 حَاقِلَةٌ مُحَاقِلَةٌ بِعِيْنِ كَوْخُوشِ فِي فِي بَيْتَانَا
 أَحَقَلْتُ الْأَرْضُ: قَابِلٌ زَرَعَاتِ هَوَانًا
 أَحَقَلَ الزَّرْعُ: بَعَثَ جَهْوَانًا الرَّجُلُ فِي
 الرُّكُوبِ: سَوَارِي كِي فِي بَيْتِهِ بِرَجْمِ كَرِيْبُنَا
 الْحَقْلُ عَمْرَةٌ قَابِلٌ كَاشَتِ زَمِيْنِ كَمَا فِي بَيْتِ
 تَمَكِ بَزْرِيْنِ نَجْ حَقُولٌ وَاحِدٌ حَقْلَةٌ
 الْحَقْلُ هَوْدَجٌ (وَالْحَقْلَةُ) كَوْخُوشِ يَأْ
 أَوْنِثُ كَيْ فِي فِي مَثَى كَمَا فِي كِي وَجْهٍ فِي
 دُرُوكِ
 الْحَقْلَةُ مَثَلَةٌ الْحَاءُ: دُوْدُهُ يَأْبَانِي كَا
 بَقِيْدِ رُوِي كَجُورِ كَجُورِ كَا بِجَا كَمَا فِي الْحَقْلَةُ
 بِالْفَتْحِ حَوْضٌ كَابَاقٌ مَانِدٌ صَافِيَانِي
 الْحَقْلَةُ: بَالِكَمَرِ: يَمَالِدُ بَمَرِ فِي كَمِ

الْحَاقِلُ فَكَا شِكْرًا
 الْمَحْقَلَةُ بِعِيْنِ نَجْ مُحَاقِلِ
 الْحَقِيْلَةُ وَالْحَقَالُ دُرُوكِ كَجُورِ
 الْحَقِيْمَانُ كَيْبِيْنِ كِي طَرَفِ كِي دُوْنُوْنِ كَوْشِ
 چشم
 حَقْنٌ (ض) حَقْنًا رُوِكٌ لِيْنَا أَوْ رَاسِي
 فِي فِي "حَقْنٌ بَوْلُهُ" اِسْنِ فِي بِيْشَابِ كُو
 رُوِكٌ لِيَا
 دَمَةٌ بَمَرَانِي فِي بِيْجَانَا مَاءٌ وَجْهٌ: آبِرُوِكِي
 حَقَانَتُ كَرْنَا اللَّيْنُ: مَكْنُ نَكَالِي كِي لِي فِي
 مَكْنِيْزِهِ فِي جَمْعِ كَرْنَا الْمَرِيْضُ: حَقْنٌ فِي عِلَاقِ
 كَرْنَا
 أَحَقْنُ مَزِيْدٌ هَوَانِي كِي لِي فِي مَخْلَفِ قَسْمِ
 كِي دُوْدُهُ جَمْعُ كَرْنَا
 إِحْتَقْنُ الْمَرِيْضُ: بِيْشَابِ كَرْنَا حَقْنُهُ
 اسْتَعَالُ كَرْنَا الدَّمُ: بَدْنِ كِي اِنْدَرُوْنِي حَصَّةٍ فِي
 نِيْزِهِ مَارِنِي فِي خُوْنِ جَمْعِ هَوَانًا
 الْحَقْنَةُ هَرْدُوَا جُورِيْضِ كِي مَقْعِدِ فِي بِيْشَابِ
 صَافِ كَرْنِي كِي لِي فِي چَرَهَانِي جَائِي نَجْ
 حَقْنُ
 الْحَقْنَةُ بِيْشَابِ كَا دُرُوكِ نَجْ أَحْقَانُ
 الْحَاقِنُ فَا بِيْشَابِ رُوِكِي وَاللَّيْنُ أَوْ رَاسِي
 فِي مَثَلِ فِي "لَا رَاِي لِحَاقِنِ" لِيْنِي
 بِيْشَابِ رُوِكِي كِي رَاِي كَا اِعْتِبَارِ نِيْشَابِ
 اِسْ لِي فِي كِي وَهُوَ اِسْ قَوْلِي اِسْتِيْخَارِ فِي نِيْشَابِ
 هُوَا فِي مَثَلِ مَضْرُوكِي لِي بُوْلِي فِي
 الْحَاقِنَةُ بَسْمَلِي كِي دُوْنُوْنِ بَدُوْنِ كِي دَرْمِيَانِ
 كَا حَصَّةٍ أَوْ رَاسِي فِي مَثَلِ فِي "لَا لِحَقْنُ
 حَوَاقِنُكَ بَدُوْا قِنُكَ" اِسْ مَثَلِ كُوْتَهِيْدِ كِي
 مَوْقِعِ بُوْلِي فِي
 الْحَقِيْنُ رُوِكَا هَوَانًا كَمَا جَاتَا فِي "سَقَاةُ اللَّيْنِ
 الْحَقِيْنِ" اِسْنِ فِي اِسْ كُوْتَهِيْزِهِ فِي جَمْعِ كِيَا هَوَانًا
 دُوْدُهُ بِلَايِنِ جِ حَقْنِي
 الْمَحْقِنُ وَالْمَحْقِنَةُ حَقْنٌ كِي بِيْچَا رِي
 الْمَحْقِنُ: وَهُوَ مَكْنِيْزُهُ جَسْمِ فِي دُوْدِهِ جَمْعُ كِيَا
 جَائِي
 الْمَحْقَانُ بِيْشَابِ رُوِكِي وَاللَّيْنُ عَوَامُ

المحققن اور المحققان کو پانی کی نیکی کے
 لیے استعمال کرتے ہیں۔
 حَقْلَانُ (ن) حَقْلًا كُوْكُهُ بَرْمَانَا
 حَقِي دُرُوكِ وَاللَّيْنُ كَمَا جَاتَا فِي
 دُرُوكِ وَاللَّيْنُ صَفْتٌ (مَحْقُوْ وَ مَحْقِي)
 تَحَقِي دُرُوكِ وَاللَّيْنُ
 الْحَقُو كُوْكُهُ اِزَارُ بِيْشَابِ كَا كِنَارُهُ نَجْ حَقَاءُ
 وَأَحْقُ وَاحْتَقَاءُ وَحَقِي كَمَا جَاتَا فِي "لَا ذُ
 بِحَقْوِيْنِهِ" اِسْنِ فِي اِسْ فِي رِيْدَرِي كِي
 الْحَقَاءُ وَالْحَقْوَةُ اِزَارُ يَأْ اِزَارُ بَانِدِيْنِ كِي
 جَدُّ كُوْتِ كَمَا فِي بِيْشَابِ كَا دُرُوكِ
 حَقْنٌ (ن) حَقْنًا الشَّيْءُ بَالِشِّيْ أَوْ عَلِيْهِ
 رَغْزَانًا كَمَا فِي الشَّيْءِ: چَمَلَا اَثَارَانَا
 (وَأَحْنُ وَاحْتَنُ) الْكَلَامُ فِي صَدْرِهِ:
 دَلِي فِي اِثْرُ كَرْنَا أَوْ كَمَا جَاتَا فِي "مَا حَقْنُ فِي
 صَدْرِي كَذَا" اِسْنِ فِي دَلِي فِي بَاتِ نِيْشَابِ
 آتِي
 حَقْنٌ وَاحْتَنُ اِحْتِنَا وَاحْتِنَا
 وَاسْتَحْتِنَا رَأْسُهُ كَمَا فِي
 بِالِشِّيْ: بَكِي فِي سَا تَمَلَامُ هَوَانًا
 حَاكٌ مُحَاقِلَةٌ وَ حَاكَا الرَّجُلُ:
 بَرَابِرِي كَرْنَا مُقَابِلَةً كَرْنَا
 تَحْحَكُ: بَدَنُورِي بَرَابِرِي هَوَانًا اِشْدُ عَرَبِ
 فِي فِي "تَحْحَكْتُ الْعَقْرُبُ بِالْحَيَّةِ"
 اِسْ كِي حَقْنِ فِي بُوْلِي فِي جُوَا بِيْنِ قُوِي فِي
 جَمَلًا اِكْرِي
 تَحْحَاكًا بَاهِمٍ مُقَابِلَةً كَرْنَا
 الْحَكُّ كَبْكُ (وَالْحَكَاكُ) خَارِشْتِي أَوْنِثُ
 كِي كَمَا فِي كِي لِي فِي دَرِخْتِ كَا سَمِي كَمَا جَاتَا فِي
 "فَلَانُ حَكُّ أَوْ حَكَاكُ شَرٌّ" فُلَانُ شَرِّ كِي
 اُوْپَرِ غَالِبِ فِي وَهُوَ بِيْشَابِ اِسْ فِي مُقَابِلَةً كَرْنَا
 فِي
 الْحَكُّ جِهَازَانُوْنِ كَا قَطْبُ نَمَا (مَوْلِدَةٌ)
 الْحَكَاكَاتُ وَوَسُوْ وَاحِدٌ (حَكَاكَةٌ)
 الْحَكُّ رَخَامُ كِي مَانِدٌ سَفِيْدُ پَتْمَرِ مَوْنِدُهُ
 بِلَايِي هُوِي فِي طَلِيْنِ وَالِي عَوْرَتِ كِي مَانِدُ قَنَارِ
 الْحَكَاكَةُ نَزْمُ پَتْمَرُوْنِ وَالِي زَمِيْنِ

الحُكْمُ: بُرَأَىٰ وَاللَّيْلِ وَالنَّجَاسَاتِ وَالْحَاكِمَاتِ وَالْحَاكِمَةُ: حَلَّتْ كَالِأَمْرِ - خَارِشٌ - كَهَلْبِي حِكْمَةٌ الْإِنْفِ: أَيْ قِسْمٌ كِي سَوْشٌ جُو نَاكٌ مِثْلُ شَعْرِي هُوَا كِي بِنْتِي سِي هُوِي هِي أُوْرَ اس كَا اَثَرُ دَاغٌ تِكْ هُوَا هِي أُوْرَ آكْهُوِي مِثْلُ آسُوِ آجَاتِي هِي - شَكٌّ - الْحَاكِمَةُ: دَاوَتٌ - كِيَا جَاتَا هِي مَا بَقِي فِي فِيمَا حَاكِمَةٌ" اس كِي مُنَدُّ مِثْلُ دَاوَتِ نَبِي - الْحُكْمُكَ: سُوَا - أَيْ قِسْمٌ كَا مَرْضٌ جِسْ مِثْلُ كَهَلْبِي هُوِي هِي - الْحُكْمَاكَةُ: هُوَا كُو سِي جِزِ كِي رِغْزِي سِي كَرِي - الْإِحْكَامُ: هُمُ كَفُو لُوْجٌ - كِيَا جَاتَا هِي "لَسْتُ مِثْلُ أَحْكَامِي" يَعْنِي تُوَا سِي كِي مَرْدُوِي مِثْلُ نَبِي - الْإِحْكَ: دَاوَتُوِي سِي خَالِي مُنَدُّ - تَرَشَا هُوَا كَهْرٌ - الْحُكْمَاكُ: بِيهْتُ رِغْزِي وَاللَّ - اِخْتِمَانُ كِي لِي سُوِي كُو رِغْزِي وَاللَّ - الْمِصْحُكُ: كَسُوِي - الْمُصْحَكُ: مِثْلُ الْجَدُّ الْمُصْحَكُ: خَارِشِي أُوْنْتُ كِي كِهَلْبَانِي كِي لِي دِرْخْتُ كَا تِنْدٌ - كِيَا جَاتَا هِي اِنَا جَذْبِيلُهَا الْمُصْحَكُ وَعَذِيْقُهَا الْمُرْجَبُ" يَعْنِي مِيرِي رَاغِي سِي شِفَا حَاوِلُ كِي جَاتِي هِي جِي سِي أُوْنْتُ تِنْدٌ سِي شِفَا حَاوِلُ كَرَاتَا هِي - حَكَا (ف) بِحَكَا وَأَحْكَأ وَأَحْتَكَا الْعَقْدَةُ: بَا نَدَهْنَا اِخْتِمَاكَاتِ الْعَقْدَةُ: نَحْتٌ هُوَا - كِيَا جَاتَا هِي اِخْتِمَاكَاتِ الشَّيْ فِي صَدْرِي" مِيرِي دَلُ مِثْلُ جَاغْزِي هُوَا كِيَا بِلُ جِي شَكٌّ نَبِي - الْحُكْمَاةُ وَالْحُكْمَاةُ: بَرَاغْرُتٌ - حِكْرَةٌ (ض) بِحِكْرًا: كِهَلْبَانَا - ظَلَمُ كَرِنَا بَرِي مَعَاوَرَتِ اِخْتِيَارُ كَرِنَا - زَنْدُ كِي بَرُ كَرِنَا مِثْلُ تَغْلِي وَشَقَّتْ ذُنَابَا - حِكْرٌ (س) بِحِكْرًا: اِصْرَارُ كَرِنَا - مَفْتٌ

(حِكْرٌ) بِالْأَمْرِ: خُوْدُ سَرُ هُوَا - حَاكِرَةٌ مُحَاكِرَةٌ: جَهْلُ كَرِنَا - تَحْكُرُ وَاحْتَكُرُ: الشَّيْ: مِيْطَا بِيْتِي كِي لِي رُوْكَ رُكْحَانُو تَحْكُرُ عَلِيْهِ: اَلْفُوسُ كَرِنَا - الْحِكْرُ: سِرُّ وَالْحِكْرُ: تَهْوِزَا بِيَانِي يَا كِهَلْبَانَا - جَهْوَانِيَا لِي - الْحِكْرُ وَالْحِكْرُ: كِرَا سِي بِيْتِي كِي لِي رُوْكَ هُوِي جِزِ - تَهْوِزَا كِهَلْبَانَا دُوْدَه - الْحِكْرَةُ: غَلْدُ كِي بِنْدُش - الْحَاكِرَةُ: يَأْتِي بِأَغْوَ عَامِيَه) حَكَّشَ (ض) بِحَكَّشَا الرَّجُلُ: سَمَّنَا - حَشِيْبَةُ الدِّيْنَارِ: اِمْرِيَه أُوْرِيُوْطِ مِثْلُ بَكْرَةٌ پِيْدَا هُوْنِي وَاللَّ پُوْدَه جِسْ كُو شَرَابِ مِيرِي كِي تِيَارِي مِثْلُ اِسْتِعَالُ كَرْتِي هِي - الشَّيْ: مِجْعُ كَرُطُرُجُلُ: ظَلَمُ كَرِنَا - حَكَّفَ (ض) بِحَكَّفَا الرَّجُلُ: كَامٌ مِثْلُ سَسْتٌ هُوَا - حَكَلٌ (ن) بِحَكَلًا وَاحْتَكَلٌ وَاحْتَكَلٌ: لَامُرٌ عَلِيْهِ: دُشَوَارُ وَشَتِيْرٌ هُوَا - تَحَكَّلٌ: جِهَالَتٌ سِي اِصْرَارُ كَرِنَا - الْحُكْلُ: هُوَا جِسْ كِي آوَا زِ شَانِي نَدُو - كِيَا جَاتَا هِي تَنَكَلَمُ كَلَامُ الْحُكْلُ" اس نِي غَيْرُ مَفْهُومُ تَنَكَلُوِي - الْحِكْلُ: فِي الْفُوسِ: كِهْوِي سِي كُنْهُوِي كَا ذُو هِلَا بِي - الْحِكْمَةُ: جِهَالَتُ كِي وَجِهٌ سِي اِصْرَارُ - حَكْمٌ (ن) بِحَكْمًا: لُوْشَا - وَاپَسُ هُوَا - كِيَا جَاتَا هِي اِحْكَمَه فَحْكَمٌ" اس نِي اس كُو وَاپَسُ كِيَا اُوْرُوْه وَاپَسُ هُوَا كِلْفُوسُ: كِهْوِي سِي كِي مُنَدُّ مِثْلُ كِهَلْبَانَا (دِكِي سِي لَفْظُ حَكْمَه) عَنِ كَلْبَا: مَنَعُ كَرِنَا - بَارُ كِهَلْبَانَا - حَكْمٌ (ك) بِحَكْمَةً: دَانَا هُوَا - حَكْمَةٌ: حَاكِمٌ بِنَا اِحْكَمَه فِي الْاَمْرِ: فَيْضَلُ كَرِنَا كِي لِي سِرُ دَرُكْرُنُ كَلْبَا: لُوْشَا اُوْرُوْه مَنَعُ كَرِنَا - جَهْلُ كَرِنَا - حَاكِمَةٌ: اِصْرَارُ كَرِنَا - مَفْتٌ اَلِي

الحَاكِمُ: جَهْلُ كِي كُو حَاكِمُ كِي سَانِي لِي جَانَا - أَحْكَمُ: الشَّيْ: مَضْبُوْطِي سِي كَرِنَا - أَحْكَمَتُهُ التَّجَارِبُ: دَانَا وَعَقْلُهُ بِنَا دِيْنَا - أَحْكَمُ السَّفِيْنَةُ: كَسِي رِي كَامُ كِي كَرِنَا سِي هَاتَه پُزُ لِي نَا يَارِي رِي اِنجَامُ كُو جِتَا دِيْبَتُ عَنِ الْاَمْرِ: رُوْكَرِنَا، مَنَعُ كَرِنَا لِفُوسُ: كِهْوِي سِي كِي مُنَدُّ مِثْلُ كِهَلْبَانَا - (دِكِي سِي اِحْكَمَه) تَحْكَمُ فِي الْاَمْرِ: بَغِيْرُ وَجْهِ ظَاهِرُ هُوِي اِنِي رَاغِي سِي فَيْضَلُ كَرِنَا - حَكْمٌ جَارِي كَرِنَا - خَوَاشِشُ كِي مَطَابِقُ تَقْرَفُ كَرِنَا - اِخْتَكَمُ فِي الْاَمْرِ: مَنَعُ مَنظُورُ كَرِنَا لِنَاسُ اَلِي الْحَاكِمُ: مَقْدَمُهُ لِي جَاهِلِي فِلَانُ: اِرَادَةُ كِي مَوَافِقُ طَلْبُ كَرِنَا فِي الشَّيْ: خَوَاشِشُ كِي مَطَابِقُ تَقْرَفُ كَرِنَا الْاَمْرُ: مَضْبُوْطٌ هُوَا - تَحَاكَمُوا اَلِي الْحَاكِمِ: مَقْدَمُهُ لِي جَانَا - اِسْتَحْكَمُ: الْاَمْرُ: مَضْبُوْطٌ هُوَا عَلِيْهِ لِكَلَامُ: مَشْتَبِهٌ هُوَا - اِلْحَكْمُ: سِي فَيْضَلُ - حِ اِلْحَكَامُ: الْحَكْمُ: حَكْمٌ جَارِي كَرِنَا وَاللَّ - حَاكِمٌ - فَيْضَلُ كَرِنَا وَاللَّ - سَرِيْحٌ (مَفْرُوْدٌ وَجِعُ دُوْنُوِي كِي لِي سَمْتَلُ هِي جِهَلُ حَكْمٌ غَمْرُ رَسِيْدَه مَرُوْدٌ - الْجِكْمَةُ: اِنصَافٌ - عِلْمٌ - بَرُوْبَارِي - فِلْسَفَةٌ - حَقُّ كِي مَوَافِقُ تَغْتَكُوِي: كَامُ كِي دَرَسْتِي - حِ حَكْمٌ - الْحِكْمَةُ: كَامٌ كَا وَهَ صَهْ جُو كِهْوِي سِي دُوْنُوِي جِزُوِي كِي جَانِبُ عَنِ الْاِنْسَانِ: چِرِي كِي كَا سَانِي كَاهِيَه - قَدْرُ مَنَزَلَتِ - الْحِكْمَةُ: سِرُّ كُوْرْمَنَسْتِ - الْحَاكِمُ: قَاضِيٌ - حَكْمٌ نَاغْزِي كَرِنَا وَاللَّ - حِ حِكْمًا وَحَاكِمُوْنٌ - الْحَكِيمُ: دَانَا، عَالِمٌ بِحِكْمَتِهِ - مَوْثٌ حِكْمِيَه - قَصِيْدَةُ حِكْمِيَه: دَانَا لِي اَمِيْزُ قَصِيْدَه لِحَكِيمِ: اَللَّهُ تَعَالَى كِي اِسْمَانِي حَسْبِي

میں سے ہے۔
الإحکومة تحكم في الأمر باسم
المحكّم بجمري۔ ج محاکم

المحكّم بغير آرموده (والمحكّم) ہے
نفس کے ساتھ انصاف کرنے والا۔

حکمی (ض) حکایة عنه الکلام: نقل
کرنا الخبر بیان کرنا فلاناً: مشابہ ہونا

الشئی: مشابہ بنانا۔ حکمی علیہ: چغل
خوری کرنا العقيدة: پابند رہنا۔

أحکمی إحصاء العقدة: پابند رہنا۔
حاکمی محاکاة: ہ: مشابہ ہونا۔

إحکمی إحصاء الأمر: مضبوط ہونا۔
الحکمی: چغل خور۔ (مذکر مؤنث)

حلّ (ن) حللاً: عقدة: کھولنا۔
إنحلّت: العقدة: کھل جانا۔

حلّ (ن) حلّوا: علیہ امر اللہ:
واجب ہونا۔

حلّ (ن) حلّوا و حلّلاً و حلّوا
المکان و بالمکان: ہزل ہونا یہ فی

المکان: آٹارنا۔
حلّ (ض) حللاً: الشئی: حلال ہونا۔

الدین: اور ایسی کا وقت پہنچنا۔
الیمین: قسم پوری ہونا الرجل: اِحرام سے

لکھنا۔
حلّ الجامد: کھلایا جانا مکان: آباد

ہونا۔
حلّ (س) حلّلاً: پاؤں پانچنے میں ڈھیلا پن

ہونا۔ مفت (أحلّ) ج حلّ
حلّ تخلیلاً و تحلّة و تحلّلاً: الشئی:

حلال ٹھہرانا الیمین: کفارہ ادا کرنا۔
حلّ بالمكان: آٹارنا۔

تحلیل الكهف بانی: مرکب اجسام کو بجلی والی
لہروں کے ساتھ ان کے عناصر کی طرف لوٹانا۔

جیسے پانی کو آکسیجن اور ہائیڈروجن کی طرف
لوٹانا۔

أحلّ إخلالاً: عہد و پیمانے سے آزاد ہونا
المخوم: احرام سے نکل جانا۔ اشہر حرم کے

علاوہ مہینوں میں داخل ہونا بنفسہ: مستحق
سزا ہونا۔ أحلّ بالمکان او المکان:

آٹارنا الشئی حلال کرنا علیہ الامر: واجب
کرنا الناقۃ علی ولدھا: زودہ جاری ہونا۔

إنحلّ: کھل جانا۔
تحلّل: فی یمینہ: شرطیہ قسم کھانا۔ جیسے

واللہ لا فعلن ذلك ان شاء اللہ یا الا
ان یکون کذا من یمینہ: کفارہ ادا کر کے

آزاد ہو جانا۔ تحلّله: حلال کر دینے کو چاہنا۔
إختلّ: المکان و بالمکان: آٹارنا اور ایسا

ہی کہا جاتا ہے۔ إختلّ القوم و بالقوم: وہ
قوم کے پاس آٹارنا۔

استحلّ الشئی: حلال سمجھنا یا حلال کر لینا۔
استحلّ الشئی: حلال ٹھہرانے کی اجازت

چاہنا۔
الحالّ: فاج حلّ و حلّول و حلّال۔

و (الحالّ) حالّ کا اسم مبالغہ۔ کہا جاتا
ہے۔ "فلان حلّال للعقد کاف

للمہمات" فلاں گروہوں کا بڑا کھولنے والا
اور مشکلات کیلئے کافی ہے۔

الحلّ: تل کا تیل۔
الحلّ: سر۔ حلال: مکہ مکرمہ کے ارد گرد

حرم محترم کے علاوہ جگہ۔ کسی جگہ میں آٹرنے
والا۔ جیسے "مازلت حلّاً بهذا البلد" میں

ہمیشہ اس شہر میں آٹرنے والا ہوں۔
والا شہر الحلّ: اشہر حرم کے علاوہ جیسے۔

الحلّ: نشاندہ۔ جس پر تیر اندازی کی جائے۔
قسم سے بری ہونا۔

الحلّول: اس سے مراد دو جسموں کا اس طرح
تھک ہونا کہ ان میں سے ایک کی طرف اشارہ

دوسرے کی طرف اشارہ ہو گیا۔ اسی سے مذہب
حلول ہے۔ اس مذہب والوں ہ عقیدہ ہے کہ

اللہ تعالیٰ ہر شی اور ہر چیز میں حلول کر گئے ہیں
اور اس کے ساتھ متحد ہو گئے ہیں حتیٰ کہ ہر شے

پر اللہ کا اطلاق درست ہے۔
حلولّ چیزى: اجسام کا حلول مقامات میں

حلولّ و ضیفی: نیاسی کا حلول جسم میں

حلولّ بربانی: صورت کا حلول ہوتی میں یا
اعراض نفسانیہ کا حلول نفس میں

حلول الجوارى: دو جسموں میں سے ایک
دوسرے کا طرف ہو جیسے پانی آنجورے میں۔

حلولیہ فرقة موفیاء کرام کا ایک فرقہ جو کہ
مذہب حلول کے قائل ہیں۔

الحلّ و الحلّ: احرام سے نکلنے کا وقت۔ کہا
جاتا ہے "فعله فی حلّ و حزمۃ" اس نے

اس کو احرام میں اور احرام سے نکلنے کے وقت
کیا۔

الحلّة: حلول کا اسم مرد۔ نرکل کا بنا ہوا بڑا
ٹوکر۔ (د و الحلّة) آٹرنے کی جگہ۔ مجلس۔

جمع ہونے کی جگہ من الشئی: جہت و جانب۔
ج حلّ و حلّال: اور کہا جاتا ہے "فیہ

حلّة أو حلّة" اس میں کمزوری ہے۔
الحلّة: آٹرنے کی بیعت۔ نازل ہونے والی قوم

جو بہت زیادہ ہو۔ کہا جاتا ہے "جی حلّال"
آٹرنے والا قبیلہ جن کے اندر بہت کثرت ہے۔

الحلّة: نیا کپڑا کپڑوں کا جوڑا ہتھیار۔ کہا
جاتا ہے "لبس المحارب حلّته و بزّته"

جنگ کرنے والے نے اپنا لباس اور ہتھیار
استعمال کیا۔ ج حلّ و حلّال۔

الحلّال: چروہ (مولدہ)
الحلال: ضد حرام۔ احرام سے نکلنے والا۔

والسحر: التحلال: تعجب انگیز امور جن
سے عقل حیران ہو جائے۔ الحلو الحلال:

کلام جس میں شک نہ ہو۔
الحلال: ضد حرام۔ کجاوہ کا سامان۔ عورتوں

کی ایک سواری۔
الحلیل: حلال۔ شوہر (والحلیلہ)

بیوی۔ الحلیل: گھر میں ایک ساتھ رہنے
والا۔ ج إحصاء مؤنث حلّیل و حلّیلۃ ج

حلّالین
الأحلّ: ہاتھوں میں کمزوری والا۔ مؤنث

حلاء ج حلّ
الإحلال: افعال حج سے فراغت۔

الإحلیل: پیشاب نکلنے کا سورن۔ پستان میں

دودھ نکلنے کا سوراخ۔ ح خالیل۔
 التَّحْلِيَّةُ: قسم کا کفارہ یا قسم میں استثناء
 التَّحْلِيلُ: بمعنی الاطلاق۔
 المَحَلُّ: آرتھ۔ آرتھ کی جگہ۔ ح محال۔
 مَحَلُّ الدِّينِ: لواٹھی قرض کا وقت۔
 المَحَلُّ: فا۔ رجل مَحَلٌّ: حرم کی پردہ
 دری کرنے والا۔
 المَحَلَّةُ: آرتھ کی جگہ (المُحَلَّتَانِ) ہانڈی
 المَحَلُّ: سیدھا مَحَلُّ: اُونٹوں کے
 آرتھ سے گدلا پانی۔ مکان مَحَلُّ: وہ جگہ
 جہاں کثرت سے لوگ آتے ہیں۔ روضہ او
 مکان مَحَلَل: باغ یا مکان جہاں کثرت
 سے لوگ آتے ہیں۔
 حَلَاةٌ (ف) حَلَاٌ: بالسيف: تلوار سے
 مارنا ہا بالسوط: کوڑے سے مارنا بہ
 الارض: بچھاڑ دینا۔ حَلَاةُ الشَّيْءِ: دینا۔
 حَلَاةُ الْجِلْدِ: کھال اتارنا (حَلَاةٌ وَأَخْلَاةٌ)
 کسی کو سرمہ یا آئین لگانا۔ حَلَاةُ حُلْوَةٍ: کسی
 کے لئے سرمہ یا آئین لگانا۔
 حَلِيٌّ (س) حَلَاٌ: الادیم: کھال اتارتے
 ہوئے چھری لگ کر خراب ہونا۔ حَلِيَّتٌ
 الشَّفَةُ: ہونٹ پر چھال پڑ جانا۔
 حَلَاةٌ تَحْلِيْنَا وَتَحْلِيَّةٌ عَنِ السَّمَاءِ:
 دھکارنا۔ پانی پر آرتھ سے روکنا ہ الشَّيْءِ:
 دینا۔
 الحُلْوَةُ وَالحَلَاةُ: سرمہ۔ چڑے پر کی
 جھلی جس کو دباؤ اتارتا ہے۔ ہر وہ چیز جس کو
 رگڑ کر آٹھ میں لگا جائے۔
 الحَلَاةُ وَالتَّحْلِيَّةُ وَالتَّحْلِيَّةُ: چڑے کے
 بال۔ یا چڑے کا میل و سیاہی۔ التحلیء:
 چھری لگا ہوا چڑہ۔ الحَلَاةُ: بخار کے بعد
 ہونٹوں پر بننے والا چھال۔
 الحَالِيَّةُ: بہت زہریلا سانپ۔
 التَّحْلِيَّةُ: سرمہ جو جھل۔ کہا جاتا ہے ”رجلٌ
 تَحْلِيَّةٌ“ جو جھل مرد۔
 المَحَلَّةُ وَالمَحَلَّةُ: چڑھا صاف کرنے کی
 چھری۔

حَلَبٌ (ن ض) حَلْبًا وَ حَلْبًا وَ حَلَابًا
 الشَّاةُ: دودھنا۔ کہا جاتا ہے ”حَلَبُ الدَّهْرِ
 اشْطَرُّ“ اس نے زمانے کے امور خیر و شر کو
 آزمایا (اشتر أو نخی کے تھن کے ہاکھ کو کہتے
 ہیں کو ”حَلَبٌ بِالسَّاعِدِ الاشد“ جبکہ تم
 ایسے آدمی سے مدد لو جو تمہارے کام کو اچھی
 طرح انجام دے۔
 ”وَمَا لَهُ حَلَبٌ وَلَا حَلَبٌ“ اس کیلئے نہ
 اُونٹیاں ہیں نہ اُونٹ۔ حَلَبُ الرَّجُلِ: زاو
 کے بل بیٹھنا۔
 حَلَبْتُ وَأَخْلَبْتُ: الرَّجُلُ: دوسرے کے
 لیے دودھنا۔ حَلَبْتُهُ وَأَخْلَبْتُهُ نَاقِي: دودھ
 کے لیے دینا۔ حَلَبُ القَوْمِ حَلْبًا وَ حُلُوبًا
 وَأَخْلَبُوا: ہر طرف سے مدد کیلئے جمع ہونا۔
 حَلَبٌ (س) حَلْبًا: الشَّعْرُ: کالا ہونا۔
 حَالِبُهُ: ساتھ مل کر دودھنا (وَأَخْلِبُهُ) مدد
 کرنا۔
 تَحَلَّبٌ وَانْحَلَبٌ: العرق او الدمع:
 بہنا۔ عَيْنُهُ: آنسو بہنا۔ فَمَه: تھوک چکانا۔
 اِخْتَلَبَ وَاسْتَحَلَبَ: دودھ نکالنا۔
 اِخْتَلَبَ النَّاقَةَ: دودھنا۔ اِخْتَلَبَ القَوْمُ:
 مدد کے لیے جمع ہونا۔
 الحَلَبُ: س۔ (وَالْحَلِيبُ) دودھنا ہوا
 دودھ۔ کہا جاتا ہے ”شَرِبْتُ حَلْبًا“ میں نے
 تازہ دودھ پیا۔ گھوڑی شراب۔ حَلَبُ الكَرْمِ
 وَ حَلَبُ العَصِيرِ: شراب۔ کہا جاتا ہے
 ”ذَاقُوا حَلَبَ امرهم“ یعنی انہوں نے اپنے
 کام کے وبال کا مزہ چکھا۔ و ”ذَمَّ حَلِيبٌ“
 تازہ خون۔ کہا جاتا ہے ”نَاقَةٌ (حَلْبِي)
 رَكِبِي او (حَلْبَانَةٌ) رَكِبَانَةٌ“ دودھ دینے
 والی اور سواری کے قاتل اونٹنی۔
 الحَلْبَانَةُ: ایک بار دودھنا۔ ایک دفعہ کی
 گھوڑوں کی دودھ۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ يَرَكُضُ فِي
 كَلِّ حَلْبَةٍ مِنْ حَلْبَاتِ المَجْدُ“ وہ مجھ کو
 بزرگی کی ہر دودھ میں دوتاتا ہے۔ الحَلْبَانَةُ:
 گھوڑے جو دوڑانے کے لیے جمع کئے جائیں۔ ح
 حَلْبَاتٌ وَ حَلَابٌ۔

الحَلْبَانُ: صبح شام۔ (چونکہ یہ دونوں
 اوقات دودھ دھونے کے ہیں۔)
 الحَلَبُ: ایک درخت جس کے دانے خوشبودار
 ہوتے ہیں۔
 الحَلْبِيَّةُ: میتھی۔ زچہ کی خوراک۔
 الحَلْبِيَّةُ: زچہ کی خوراک۔ بکریوں کا ایک
 حصہ جو پوڑے سے علیحدہ ہو جائے۔
 الحَالِبُ: فا۔ ح حالبہ۔
 الحَالِبَةُ: تھن کے ارد گرد کی رگیں۔ ح
 حَوَالِبُ حَوَالِبِ البَنُو: کونہیں کا سوت۔
 حَوَالِبُ العَيْنِ: آنکھ کی وہ رگیں جن سے
 آنسو نکلنے لگتی ہیں۔
 الحَالِيَانُ: دو رنگوں کا نام جن سے پیشاب
 گروے سے مٹانے کی طرف آتا ہے۔
 الحَالَابُ: دودھ دھونے کا برتن۔
 الحَالَابُ: بہت دودھ دھونے والا۔ ”يَوْمَ
 حَالَابٍ“ نمناک دن۔
 الحُلُوبُ وَالحَلُوبَةُ: مِنَ الابلِ او
 الغنمِ: دودھ دینے والی اونٹنی یا بکری۔ دوی
 ہوئی۔ ح حَلَبٌ وَ حَلَابٌ
 الحَالَابُ: جماعتیں۔ کسی شخص کے مددگار
 لوگ جو چھپاکی اولاد سے ہوں۔
 الحَلِيبُ: کالا رنگ۔ کہا جاتا ہے ”السُّودُ
 حَلِيبٌ“ بہت کالا۔
 الحَلِيبُ: حشک بچہ کی تیل۔
 الحَلْبُ وَالحَلْبَانُ وَالحَلْبَابُ
 وَالحَلِيبُ: مختلف نباتات کے نام۔
 شَاةٌ (تَحْلَابَةٌ وَ تَحْلَبَةٌ وَ تَحْلِيَّةٌ وَ
 تَحْلِيَّةٌ وَ تَحْلِيَّةٌ) حاملہ ہونے سے پہلے
 دودھ دینے والی بکری۔
 المَحَلَبُ: دودھ دھونے کا برتن۔ ح
 مَحَالِبُ۔
 المَحَلَبُ: دودھ دھونے کی جگہ۔ ح
 مَحَالِبُ: ایک قسم کا درخت جس کے پتے سے
 خوشبو حاصل کی جاتی ہے۔
 المَحَلِبُ: فا۔ کہا جاتا ہے ”فَلَانٌ مَحَلِبٌ
 مَحَلِبٌ“ یعنی فلاں شخص کے اُونٹ بیچے

<p>الارض نرسبز ہونا۔ اَحْلَسَهُ الخوف: خوف لازم کرنا۔ خالسہ لازم ہونا۔ خالَسَ البعير ناث سے ڈھانپنا۔ اَحْلَسَ سرخ مالک بسیار ہی ہونا۔ صفت (اَحْلَسَ مؤنث (حلساء) اِسْتَحْلَسَتْ۔ الارض نرسبز ہونا۔ النبت زمین کو ڈھانپ لینا اللیل بخت تاریک ہونا الخوف فلاناً خوف کا لازم رہنا۔</p>	<p>المِخْلَج والمِخْلَجُ جروئی دھننے کا آلہ۔ بیلن۔ ج مَخَالِج و مَخَالِجِج۔ المِخْلَج: لکڑی جس پر چرشی گھومتی ہے۔ المِخْلَج والمِخْلَجَةُ وہ چیز جس پر روئی دھنی جائے۔ حَلَحَل. الشئى جرت دینا۔ ہٹانا القوم: قوم کو ان کی جگہ سے علیحدہ کر دینا۔ تَحَلَّل. عن مکانہ جرت کرنا۔ دور ہونا۔ ہٹ جانا۔</p>	<p>ہوئے جن میں ستھ وہ مادہ سے دودھ دو دھتا ہے اور ز کو پیچنے کے لیے لے جاتا ہے۔ المُخْلِج مذگار اور بقول بعض مذگار جو اپنی قوم کا نہ ہو۔ الحلیجہ چھوٹا اونٹ۔ مؤنث حلیدہ۔ الحلِيس بہادر۔ الحلِيس بہادر۔ کسی شے کو لازم ہو کر رہنے والا۔ شیر۔ الحلِيس شیر۔ حَلَسَ (حَلَسَ) حَلَسًا۔ الراس بوٹنا۔ الصوف بٹک لگائے ہوئے چڑے سے بال اکھیرنا الذین لدا کرنا۔ ظہر الخیل چٹ کے رہنا۔ بِسَلْحَةٍ پانچنا کرنا۔ الحلِيس اُون کا اکھیرتے وقت گرا ہوا۔ الاحلِيت وہ جس کا بال یا اُون اکھیر دیا گیا ہو۔ الحلیت ج، اولہ، پالا۔ الحلیت والحلیتہ پنگ۔ الحلیتہ پنگ۔</p>
<p>الحلِيس والحلِيس ناث۔ زین یا کجاہ کے نیچے بچھانے کا کپڑا۔ قیمتی فرش کے نیچے بچھانے کا کپڑا۔ ج اَحْلَاس و اَحْلَاس و حُلُوس و حِلْسَة۔ اَحْلَاسُ الخیل بھوڑوں پر ہی سوار ہونے والے اور کہا جاتا ہے ”فلان حلس بیتہ“ فلاس ہمیشہ اپنے گھر ہی میں رہتا ہے اور یہ عربوں کے نزدیک قابلِ مذمت ہے۔ ”وہو حلس من اَحْلَاس البلاد یعنی وہ صاحب عزت و قوت ہے (اور یہ قابلِ مدح ہے) و ”کونوا اَحْلَاس بِنُوؤمکم“ ہم ہمیشہ خاند نشین رہو و ”هذا لیس من اَحْلَاس فلان“ یہ فلان کا کفو نہیں ہے۔ و ”رَفِضَتْ کَذَا و نَقَضَتْ اَحْلَاسہ یعنی میں نے اسے چھوڑ دیا۔ الحلِيس: عہد و پیمان۔ جوئے کا چوتھا تیر۔ سردار۔ بہادر۔ اُم حلِيس بگھی۔ الحلِيس بن عہد و پیمان۔ الحلِيس بہادر۔ حریص جو اپنی جگہ سے جدا نہ ہو۔ سرخ سیاہی مالک۔</p>	<p>الخلاج۔ سردار۔ بہادر۔ کامل۔ ج مَخَالِج (انہی معانی میں مُخْلَج و مُخْلَجِج بھی ہیں۔) حَلَزَن (حَلَزَن) حَلَزًا۔ الجلدًا والعود: چھیلنا۔ تَحَلَز. الشئى باقی رہنا القلب و درمند ہونا للامر جبار ہونا بالمکان باقامت کرنا۔ اِحْتَلَز. منه حقه لینا۔ الحلِيز بخیل۔ بد خلق۔ پست۔ اُو۔ ایک قسم کا قتلہ۔ واحد (حَلَزَة) الحلِيزُون ایک قسم کا آبی جانور ہے کچھ میں ہوتا ہے۔ سگھ۔ الحلِيزُونَة۔ فی عرف الحدادین و النجارین بوہاروں اور بڑھیوں کے عرف میں بچ دار کیل کو کہتے ہیں۔ شکل اُو خط (حَلِيزُونی) گھونٹنے کی ہیت کی شکل۔ حلس (ش) حَلَسًا۔ البعير ناث سے ڈھانپنا الرجل بالشئى بہت حریص ہونا السماء لگا تار نرم برسا۔ حلس (س) حَلَسًا و تَحَلَس. بالمکان کسی جگہ میں جم کے رہنا لِلأمر: کسی کام کے لیے چکر لگانا۔ کہا جاتا ہے ”ما تَحَلَس منه بشئى و ما تَحَلَس شئیاً“ اس نے اس میں سے کچھ نہیں پایا۔ اَحْلَس. الرجل: مغلس ہونا۔ فلانا فی البيع: نقصان پہنچانا ہ: عہد و پیمان کرنا۔ اَحْلَسَت السماء: لگا تار ہلکی بارش ہونا</p>	<p>حَلَج (ن ض) حَلَجًا۔ الخبزة: بیلن سے بڑھانا اور گول کرنا فی المشی: آہستہ آہستہ چلنا دوڑنے میں قدم کشادہ رکھنا القوم لَيْلَتَهُمْ: چلنا۔ کہا جاتا ہے ”بات القوم یَحْلِجُون لَيْلَتَهُمْ“ قوم ساری رات چلتی رہی۔ حَلَج الفطن: دھن کر بنولے نکالنا۔ صفت (حَلَج) اور صفت مفعولی (حَلِج و مَحْلُوج) الحَبَل یثنا الرجل بالعضا لا یثنی سے مارنا۔ تَحَلَج. الحَلُوج: بادل کا چمکانا فی صدرہ بھٹکانا۔ اِحْتَلَج. حقه لینا۔ الحَلِجَة و الحَلِجَة مافات۔ الحلاجہ ڈھنے کا پیشہ۔ الحَلُوج بچکنے والا بادل۔ الحَلِج بہت کھانے والے۔ الحلیجہ دودھ جس میں گھوڑا ترکی گئی ہو۔ حَلِج۔</p>
<p>حَلَط (ش) حَلَطًا۔ قم کھانا فی الامیر: اصرار کرنا اور جلدی کرنا۔ غضبناک ہونا۔ حَلَط (س) حَلَطًا و اِحْتَلَط. علیہ: غضبناک ہونا منہ لہج ہونا۔ اَحْلَط. بمعنی حَلَط ہ: غضبناک کرنا بالمکان باقامت۔ فی الیمین: کوشش کرنا۔ حلف (ش) حَلَفًا و حَلَفًا و حَلَفًا و مَحْلُوفًا و مَحْلُوفَةً و مَحْلُوفَاء. بالله:</p>	<p>حَلَف (ش) حَلَفًا و حَلَفًا و حَلَفًا و مَحْلُوفًا و مَحْلُوفَةً و مَحْلُوفَاء. بالله:</p>	<p>حَلَف (ش) حَلَفًا و حَلَفًا و حَلَفًا و مَحْلُوفًا و مَحْلُوفَةً و مَحْلُوفَاء. بالله:</p>

من حَلِقٍ“ وہ بلند جگہ سے آیا و ”هوى من حالىق“ وہ اونچی جگہ سے گرا یعنی ہلاک ہو گیا۔
 ”ضرع حالىق“ بھرا ہوا تھن۔ پیٹ سے سنا ہوا تھن (ضد) ح حَلِق و حَوَالِق۔
 الحَالِقَةُ۔ الحالىق کا مؤنث۔ موت۔ بُرا قول۔ تخت سال۔ ح حَوَالِق۔
 الحَالِقُوق۔ موت۔
 الحَالِقُوقَةُ۔ مَن السیوف او الرجال: تیز۔
 الحَوَالِقُ والحَالِقُ۔ بلا مصیبت۔
 الحَوَالِقَةُ۔ ”لا حول ولا قوة الا بالله“ کہنا۔
 الحَالِقِیق۔ موٹڑا ہوا۔ کہا جاتا ہے ”شعر حلیق ولحیة حلیق“ موٹڑا ہوا بال موٹڑی ہوئی داڑھی۔ ح حَلِقِی۔
 المِخْلِق۔ اُسترہ۔ تخت کبل۔
 الحَلْقِد۔ بد خو۔
 حَلْقَمہ۔ گلا کا ٹٹا۔
 الحَلْقُوم۔ گلا۔ ح حَلْقَمِیق۔
 حَلِك (س) حَلُوکَةٌ و حَلْکًا و حُلُوکًا و اِحْلُوک و اِسْتَحْلِك۔ تخت سیاہ ہونا۔
 صفت (حَالِك و حَلِك)۔
 الحَلِك والحَلِکة۔ تخت سیاہی۔
 الحَلِکَةُ والحَلِکَاءُ والحَلِکَاءُ والحَلِکَاءُ والحَلِکَاءُ والحَلِکَاءُ۔
 الحَلِکُوك والحَلِکَلِك۔ تخت سیاہ۔
 الحَلِکَم۔ سیاہ۔
 الحَلِکَمہ۔ سیاہی۔
 حَلَم (ن) حَلَمًا و حَلْمًا۔ فی نومہ: خواب دیکھنا۔ کہا جاتا ہے ”حَلْمہ و حَلْم بہ“ اس نے اس کو خواب میں دیکھا۔ حَلْم الصبِی (واختلم) بالغ ہونا۔ (حَلْمًا) الجلد: کپڑے نکالنا۔
 حَلَم (ک) حَلْمًا۔ درگزر کرنا۔ بردبار ہونا۔ صفت (حَلِیم) ح حَلْمَاء و اِحْلَام۔
 مؤنث حَلِیمة۔
 حَلَم (س) حَلْمًا۔ الجلد: خواب ہونا اور

حَلِق (س) حَلْقًا۔ حلق کے درود الا ہونا۔
 حَلِق۔ الراس: موٹڑا (تشدید کثرت کے لیے ہے) الطائر: اُڑنے میں چکر لگانا القمور: بال پڑنا الشئی: حلقہ کی مانند بنانا۔
 الاناء مَن الشراب: بھرتا۔
 الحوض: خشک ہونا عین الحیوان: دھس جانا النجم: بلند ہونا ضرع الناقاة: دودھ کا خشک ہو جانا۔
 اَحْلِق۔ الاناء او الحوض: بھرتا۔
 تَحْلِقُ۔ القوم: حلقہ بنا کر بیٹھنا القمور: بال پڑنا۔
 اِحْتَلِق۔ الراس: موٹڑا۔
 الحَلِق۔ سر۔ گلا۔ ح اخلاق و حُلُوق و حُلُق۔
 حُلُق۔ حُلُوق۔ الارض: ٹالیاں۔ وادیاں۔
 کہا جاتا ہے ”اَحْذُوا فِی حُلُوقِ الطَّرِیقِ“ انہوں نے تک راستے اختیار کئے۔ الحَلِق۔ بد بختی۔
 الحَلْقَةُ۔ ہر گول چیز۔ زرہ۔ ریش۔ ح حَلِق و حَلَقَات۔ و حلقۃ القوم: قوم کا دائرہ کہا جاتا ہے ”سَأَلَهُ فِی حَلْقَتِہِ“ اس نے اس سے مانگا جبکہ وہ مانگنے والوں کے حلقہ میں تھا۔
 حلقۃ الحوض: حوض کا بھرتا۔
 حَلْقَةُ۔ الباب او القوم: دروازہ کا حلقہ یا قوم کا دائرہ۔
 الحَلِق۔ بادشاہ کی انگوٹھی۔ بغیر گمبیر کی انگوٹھی۔ بہت مویشی۔
 الحَلِق۔ بے بال کا۔ راس حَلِق: بے بال کا سر۔
 الحَلِق و حَلِاق۔ بروزن نظام بنی علی اکسر معدول از حَالِقَة: موت۔
 الحَلِاق۔ گلا۔
 الحَلِاق والحَوَالِق۔ گلے کا درو۔
 الحَلِاق۔ نالی، جام۔
 الحَالِقَة۔ موٹڑے ہوئے بال۔
 الحَالِقَة۔ نالی کا پیٹیر۔
 الحَالِق۔ فاج حَلْقَة مَن الحیال: بلند پہاڑ جس میں پیداوار نہ ہو۔ کہا جاتا ہے ”جاء

تَم کھانا۔
 اَحْلَفَ و حَلَفَ و اِسْتَحْلَفَ۔ تَم کھانا۔
 حَالِفٌ مَحَالِفَةٌ۔ معاہدہ کرنا۔ حالف فلانا حزنہ: غم کا لازم ہونا۔
 تَحَالَفُوا۔ باہم عہد و پیمان کرنا۔
 الحَلْف والحَلِف و اِلْحَافُوقَةُ۔ تَم۔
 الحَلْف مَن عہد و پیمان۔ دوستی۔ دوست جو بیوفائی نہ کرنے کی تَم کھائے۔ ح اِحْلَاف۔
 کہا جاتا ہے ”فلان حَلِف کذا“ یعنی فلاں اس سے جدا نہیں ہوتا۔
 الحَلْفَاء۔ ایک بوٹی نوکیلی جیسے بھور کی شاخ پانی بہنے کی جگہ آگئی ہے۔ واحد حَلْفَة و حَلْفَاء۔
 الحَلْفَاء۔ بہت چیخنے والی لوٹڑی۔ ح حَلْف و حُلْف۔
 ارض (حَلِیْفَة و مَحَلِیْفَة) حلفاء گھاس والی زمین۔
 الحَالِفِی۔ وہ جگہ جس میں حلفاء گھاس بہت آگے۔
 الحَالِف والحَالِیْفَة۔ بہت قسمیں کھانے والا۔
 الحَلِیْف۔ عہد و پیمان کرنے والا۔ لازم۔
 ساقی۔ کہا جاتا ہے ”فلان حَلِیْفُ الجُودِ“ فلاں جو درخشش کا حلیف ہے، یعنی بڑا فیاض۔
 ”فلان حَلِیْفُ اللسان“ فلاں چرب زبان فصیح ہے۔ ح حَلْفَاء۔
 المَحْلِف۔ شک کی چیز جس کے ثابت کرنے کے لیے قسم کی ضرورت ہو۔ کہا جاتا ہے ”ہذا غلامٌ مَحْلِف“ یہ ایسا لڑکا ہے جس کے احتلام میں شک ہے۔
 حَلِق (ض) حَلْقًا و تَحَالِقًا۔ الراس: موٹڑا۔
 حَلِق (ن) حَلْقًا۔ الرجل: حلق پر مارنا الحوض: بھرتا الشئی: چھیلنا۔ السُنَّة القوم: مصیبت میں ڈالنا۔ صفت (حَلِقِی) القوم بَعْضُهُمْ بَعْضًا: ایک دوسرے کو قتل کرتا۔

کیرے پڑنا۔ مفت (حِلْم و حَلِيم)
 أَحْلَمْتُ. المرأةُ حَلِيمَةٌ ورديا ریح جننا۔
 حَلْمَةُ الْجِلْدِ كَبِيرَةٌ كَالنَّارِ الْقَرِيبَةِ يَحْرَأُ۔
 تَحَلَّمَ بَرْدِيَارٌ مِنَ الْجِلْمِ بَرْدِيَارِيٌّ مِنْ سَمِّ
 لَيْلِي الرَّجُلِ بَرْدِيَارِيٌّ تَحَلَّمَ الْقَرِيبَةَ:
 پانی سے بھر جانا۔

تَحَلَّمَ كَلْفٌ مِنْ بَرْدِيَارِيٍّ ظَاهِرٌ كَرْنَا۔
 انْحَلَّمَ وَاخْتَلَّمَ. فِي نَوْمِهِ فُجْرَابٌ وَيَكْنَى۔
 الْجِلْمُ مَبْرٌ وَآبَتُكِيٌّ۔ بَرْدِيَارِيٌّ۔ اور کبھی
 جہل و بیوقوفی کے مقابلہ میں آتا ہے جیسے
 "وَأَنَّ سَفَاةَ الشَّيْخِ لَأَجْلَمُ بَعْدَهُ بِعَقْلِ۔"
 جِ أَحْلَامٌ وَحُلُومٌ كَمَا جَاتَا فِي "تَأْمُرُهُمْ
 أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا لَأَنَّ كَيْفَ عَقْلِهِمْ اس كَمَا مَرَّتِي
 ہیں۔

الْحِلْمُ بَرْدِيَارِيٌّ خَرَابٌ۔ جِ أَحْلَامٌ اور کہا جاتا
 ہے "هَذِهِ أَحْلَامُ نَائِمٍ" یہ جمہونی آرزوئیں
 ہیں۔
 الْحَلْمَةُ بَرْدِيَارِيٌّ۔ ایک قسم کا کیزا جو
 چڑے میں لگ جاتا ہے اور اس کو خراب کر دیتا
 ہے۔ جِ حَلْمٌ

الْحَلِيمُ اللَّهُ تَعَالَى كَيْفَ حَسْبِي مِنْ سَمِّ
 ہے۔ موتائی کی چربی۔

حَلَاوَنٌ وَحَلَاوَةٌ وَحَلَاوَةٌ وَحَلَاوَةٌ (حَلَوِيٌّ وَحَلَوِيَّةٌ)
 حَلَاوَةٌ وَحَلَاوَةٌ مِثْلًا هُوَ الْفَاكِهِةُ تَهْتَدُ
 هُوَ حَلَاوَةٌ الشَّيْءِ لَذِيذٌ هُوَ مَفْتٌ (حَلْوِيٌّ)
 اور کہا جاتا ہے۔ حَلَوِيٌّ فِي عَيْنِي وَبَعِينِي
 وہ میری آنکھوں میں بھلا معلوم ہوا۔ حَلَاوَةٌ
 منہ بخیر خیر ومنفعت حاصل کرنا۔

حَلَاوَانٌ وَحَلَاوَةٌ وَحَلَاوَةٌ هُوَ تَهْتَدُ هُوَ لِيَاوِيٌّ
 مہر وصول کرنے کی شرط پر لڑکی یا بہن کی شادی
 کرنا۔ حَلَاوَةٌ كَذَا او بكَذَا دِيْنَا۔ کہا جاتا ہے
 "حَلَاوَةٌ حَلَاوَةٌ اس نے اسے بدل دیا۔

(وَحَلَوِيٌّ) الشَّيْءُ (تَحَلَوِيٌّ) مِثْلًا بَنَاتُ۔
 (حَالِيٌّ) مَحَالَاةٌ الرَّجُلِ جَوْشٌ طَبِيعِيٌّ كَرْنَا۔
 أَحْلَاةٌ إِخْلَاءٌ مِثْلًا بَنَاتُ مِثْلًا بَنَاتُ۔ کہا جاتا ہے
 "مَا نَمُّ وَلَا يَحْلِي لَمَعْنِي وَهَذَا كَرُوِيٌّ بَاتِي"

کرتا ہے نہ بیٹھی یا نہ لہتا کام کرتا ہے نہ بُر۔
 تَحَلَّتْ. المرأةُ لِوِيٍّ بِنَاتُ۔ کہا جاتا ہے
 "تَحَلَّى فُلَانٌ بِمَا لَيْسَ فِيهِ لَلَاں نِي
 اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے آراستہ کیا جو اس
 کے اندر نہیں ہیں۔

تَحَلَّى وَاخْلَوِيٌّ وَاسْتَحَلَّى. الشَّيْءُ:
 بیٹھا پانا۔ وَاخْلَوِيٌّ الشَّيْءُ مِثْلًا هُوَ۔
 تَحَالِيٌّ عِلَاةٌ ظَاهِرٌ كَرْنَا۔
 الْحَلْوِيٌّ مِثْلًا۔ لَذِيذٌ خَوْشِكَاوَرٌ۔ خوبصورت۔
 الْحَلْوَانُ دَلَالٌ وَكَابِنٌ كِي أَجْرَتُ۔ مہر،
 بدلہ۔

الْحَلَاةُ وَالْحَلَاوَةُ وَالْحَلَاوَةُ
 وَالْحَلَاوِيٌّ. مِثْلُ الْقَفَاءِ كَدِي كَارِ مِيَانِي
 حصہ۔ جِ حَلَاوِيٌّ

الْحَلْوَاءُ وَالْحَلْوِيٌّ. حَلْوَاءٌ مِثْلًا مِوِيٌّ جِ
 حَلَاوِيٌّ.
 الْحَلْوَانِيٌّ جَلْوَانِيٌّ۔ حلوانے والا۔
 الْحَلْوِيُّ. مِثْلُ الرَّجَالِ دِيكِيٌّ مِثْلًا مَعْلُومٌ
 ہونے والا۔

الْحَلِيٌّ لَذِيذٌ اور مِثْلًا۔ نَاقَةٌ حَلِيَّةٌ:
 حَلِيٌّ (حَسٌّ) حَلِيًّا. المرأةُ مِوِيٌّ كِيكِيٌّ
 زیور بنانا۔ آراستہ کرنا۔

حَلِيَّةٌ (حَلِيَّةٌ) حَلِيًّا. المرأةُ لِوِيٍّ بِنَاتُ۔
 صفت (حَالٌ وَحَالِيَّةٌ) حَوَالٌ كَمَا جَاتَا
 ہے "شَجَرَةٌ حَالِيَّةٌ" چتے والا پھل دار
 درخت۔ حَلِيٌّ مِنْهُ بَخِيرٌ خَيْرٌ وَنَفْعٌ
 پہنچانا۔

حَلِيٌّ تَحَلِيَّةٌ. المرأةُ لِوِيٍّ بِنَاتُ يَا لِوِيٍّ
 بنانا۔ وَحَلِيٌّ الشَّيْءُ آراستہ کرنا۔
 تَحَلَّى آراستہ ہونا یا زیور پہننا۔

الْحَلِيٌّ پھنسیاں جو بچوں کے منہ میں نکلتی
 ہیں۔

الْحَلِيٌّ جِ حَلِيٌّ وَجَلِيٌّ وَ(الْحَلِيَّةُ) جِ
 حَلِيٌّ وَحَلِيٌّ (أَخْلَافٌ) قِيَاَسٌ لِوِيٍّ۔
 حَلِيَّةٌ الْإِنْسَانُ إِنْسَانٌ مِنْ جَوْرِكِ وَأُورِيَّةِ
 دکھائی دے۔
 الْحَلِيٌّ نَجَسٌ۔

حَقْنٌ) حَمًّا. التَّنْوِيرُ كَرْنَا۔
 الشَّحْمَةُ: كَمَلَانَا الْمَاءُ: كَرْنَا
 الْإِرْتِحَالُ: جَلْدِي كَرْنَا۔ حَمُّ اللّٰهِ لَهُ
 كَذَا مَقْدَرُ كَرْنَا الْأَمْرُ فَلَانًا: نَمٌّ مِثْلُ ذَالِنَا۔
 کہا جاتا ہے "حَمُّ حَمَّةِ اس نے اس کے
 ساتھ اس جیسا قصد کیا۔

حَمُّ. الْأَمْرُ فِعْلُهُ كَمَا جَاتَا الشَّيْءُ قَرِيبٌ
 ہونا الرَّجُلُ مَخَارِزُهُ هُوَ كَذَا مَقْدَرُ كَمَا
 جاتا۔

حَمٌّ (حَمٌّ) حَمًّا كَالْمَاءِ هُوَ الْمَاءُ كَرْنَا
 ہوتا۔

حَمَمٌ. الْغَلَامُ بِنْرُهُ أَغَاظُ هُوَ الرَّاسُ:
 موٹنے کے بعد بال نکلتا الْمَكَانُ دُونِي كِي
 ظاہر ہونا الشَّيْءُ كَالْمَاءِ كَرْنَا الْمَاءُ كَرْنَا
 الرَّجُلُ كُوْنِيٌّ مِنْهُ كَالْمَاءِ كَرْنَا۔

الْمَرْأَةُ هَلَاوَةٌ كِي بَعْدُ مَفْتٌ كِي كَرْنَا۔
 أَحْمَةُ اللّٰهُ: بَخَارٌ مِثْلُ جَلَا كَرْنَا۔ أَحْمٌ
 الشَّيْءُ قَرِيبٌ هُوَ الْمَكَانُ بَهْتٌ مَخَارِزُهُ
 جگہ ہونا الْمَاءُ كَرْنَا اللّٰهُ لَهُ كَذَا مَقْدَرُ
 كَرْنَا الشَّيْءُ كَالْمَاءِ كَرْنَا الْأَمْرُ فَلَانًا: نَمٌّ مِثْلُ
 ذَالِنَا۔

تَحَمَّمَ كَالْمَاءِ هُوَ۔

أَحْتَمَّ عَمَلِيٌّ هُوَ۔ نَمٌّ كِي وَجْهٌ مِنْهُ سَوَا
 الْعَيْنُ بَخِيرٌ رُوْدُ كِي بَعْدُ رَهْتُ۔
 اسْتَحَمَّ مِيَانِيٌّ مِنْ حَمَلٍ كَرْنَا۔ حَمَامٌ مِثْلُ دَاغِلٍ
 ہوتا۔ پینڈے والا۔

الْحَمُّ بَرْدِيَارِيٌّ۔ حَمُّ الظَّهْرِ دُوْدِيٌّ كِي سَخْتٌ
 كَرْنَا۔ کہا جاتا ہے "مَالَهُ حَمٌّ عَنْ ذَلِكَ او
 مِنْهُ اس کے لیے اس سے کوئی چارہ نہیں۔
 حَمُّ الشَّيْءِ وَ(حَمْمَةٌ) كَرْنَا كَرْنَا۔
 الْحَمِيٌّ مَخَارِجٌ حَمِيَّتٌ۔
 الْحَمَّةُ كَرْمِيَانِيٌّ كَرْنَا۔

الْحَمَّةُ مِيَانِيٌّ۔ بَزِيٌّ اور مِيَانِيٌّ كِي دَرْمِيَانٌ
 رَنگ۔ بَخَارٌ۔ ہر مقدور و فِعْلٌ شَدِيذٌ۔ اور اس
 سے ہے "حَمَّةُ الْفِرَاقِ" کہا جاتا ہے
 "عَجَلْتُ بِنَادِيكُمْ حَمَّةُ الْفِرَاقِ مَقْدَرُ
 شَدِيذٌ فِرَاقٌ نِي تَهْمَارِيٌّ كَمَلِيٌّ كِي سَاوَهُ جَلْدِي

<p>(حَمَامَةٌ) الحَمَامَةُ والحَمَامُ. ایک قسم کا پرندہ گاؤں زبان۔ واحد (حَمَامَةٌ و حَمَامَةٌ) حَمِيدَةٌ (س) حَمْدًا و مَحْمَدًا و مَحْمَدًا و مَحْمَدَةٌ و مَحْمَدَةٌ. فضیلت کی بنا پر تعریف کرنا ہ علی امر: بدلہ دینا الشی: قابل تعریف پانا۔ اور کہا جاتا ہے "حَمِدْتُ إِلَيْكَ اللَّهُ" یعنی تیرے ساتھ اللہ کی تعریف کرتا ہوں یا تیرا شکر یہ ادا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کا بھی۔ حَمْدًا. اللہ: بار بار تعریف کرتا اور الحمد للہ کہتا۔</p>	<p>المُحَمَّمُ. قریب۔ المحمَّم. ثابت۔ المَحْمُوم. بخار والا۔ مقدر۔ کہا جاتا ہے "نزل به القضاء المَحْمُوم" اس پر قضاء مقدر کا نزول ہوا۔ المَسْتَحَم. غسل کرنے کی جگہ۔ حَمًا (ف) حَمًا. البئر: کنوئیں سے کچھ نکالنا۔ حَمِي (س) حَمًا و حَمًا. الماء: پانی میں کچھ چھلنی ہوئی ہونا۔ صفت۔ حَمِي. أَحَمًا. البئر: کنوئیں میں کچھ ڈالنا۔ الحَمَاءُ والحَمَاءُ. والحَمُو والحَمَاءُ. بلاہمزہ: عورت کا خر۔ شوہر کی جانب سے عورت کا رشتہ دار جیسے دیور۔ جیٹھ۔ خسر۔ الحَمَاءُ والحَمَاءَةُ. کچھ۔ حَمَتُهُ (س) حَمَتًا. اللہ علیہ: حَمِيَت (س) حَمَتًا. الحوزُ وغیرہ: اخروث وغیرہ کا خراب ہونا۔ حَمَت (ك) حَمَوْتَةٌ. اليوم: دن کا سخت گرم ہونا۔</p>	<p>کی۔ ح حَمَمٌ و حِمَامٌ. الحَمَم. حَمَمٌ کی جمع۔ کوئلہ۔ راکھ۔ ہر وہ چیز جو آگ میں جل جائے۔ واحد (حَمَمَةٌ) الحَمَمَةُ. موت۔ پینہ۔ الحَمَام. کبوتر۔ واحد (حَمَامَةٌ) اور کہا گیا ہے کہ حمامہ کا اطلاق زربادہ دونوں پر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس میں "حا" تانیث کیلئے نہیں بلکہ تائے وحدت ہے اور بسا اوقات حمام مفرد کے لیے بھی بولتے ہیں۔ ح حَمَائِمٌ و حَمَامَاتُ حَمَامِ الزَّاجِلِ او الزَّجَالِ: پیغام و خطوط لے جانے والے کبوتر۔ ساقی الحمام و رعی الحمام: دو قسم کی گھاس کے نام۔ بَيْضُ الحَمَامِ: آنگور کی ایک قسم جس کے دانے بڑے ہوتے ہیں۔ عنق الحمام: ایک قسم کا رنگ جو سرخ اور نیلے کے درمیان ہوتا ہے۔ الحَمَام. موت۔ الحَمَام. جانوروں خصوصاً گھوڑوں کا بخار۔ سردار شریف۔ الحَمَامِي. ایک قسم کی گھاس۔ کھال کی سرفی۔ الحَمَام. غسل کرنے کی جگہ۔ یہ بکثرت مؤنث مستقل ہوتا ہے اور کبھی مذکر بھی۔ ح حَمَامَاتُ. الحَمَامِي. حمام والا۔ حمام کا نگہبان۔ الحَمَامَةُ. اپنے خاص لوگ۔ عمدہ اونٹ۔ الحَمِيم. قریبی رشتہ دار۔ دوست۔ ح حَمَامٌ. گرم پانی۔ حَمَامَةُ پانی۔ چنگاری جس سے دھوئی دی جائے۔ ح حَمَائِم. الحَمِيم: گرمی۔ پینہ۔ سخت گرمی کے بعد بارش۔ کہا جاتا ہے "هو حَمِيمٌ بالحاجة" وہ حاجت پر فریفتہ ہے۔ الحَمِيمَةُ. حیم کا مؤنث۔ گرم پانی۔ گرم کیا ہو اور وہ۔ عمدہ نسل کا اونٹ۔ ح حَمَائِم. الأحم. بہت خاص و بہت قریبی۔ کالا۔ سفید (خند) بے پھل کا تیر۔ ح حَمٌ. المَحَم. پانی گرم کرنے کا برتن۔</p>
<p>أَحْمَدٌ. قابل تعریف کام کرنا الشی: قابل تعریف ہونا الشی: قابل تعریف پانا ہ فعل پر راضی ہونا۔ تعریف کا حقدار ظاہر ہونا۔ تَحْمَدُ. بالشی علی فلان: احسان جتان۔ اور کہا جاتا ہے "يَتَحَمَدُ النَّاسُ بِفَضْلِهِ" یعنی ان کے سامنے ظاہر کرتا ہے کہ وہ محمود ہے۔ اسْتَحْمَدُ. اللہ الی خلقہ مخلوق کو انعام و احسان کر کے اپنی حمد کی جانب بلانا۔</p>	<p>حَمِيمٌ (س) حَمِيمًا. اللہ علیہ: حَمِيَت (س) حَمَتًا. الحوزُ وغیرہ: اخروث وغیرہ کا خراب ہونا۔ حَمَت (ك) حَمَوْتَةٌ. اليوم: دن کا سخت گرم ہونا۔</p>	<p>حَمَامَاتُ حَمَامِ الزَّاجِلِ او الزَّجَالِ: پیغام و خطوط لے جانے والے کبوتر۔ ساقی الحمام و رعی الحمام: دو قسم کی گھاس کے نام۔ بَيْضُ الحَمَامِ: آنگور کی ایک قسم جس کے دانے بڑے ہوتے ہیں۔ عنق الحمام: ایک قسم کا رنگ جو سرخ اور نیلے کے درمیان ہوتا ہے۔ الحَمَام. موت۔ الحَمَام. جانوروں خصوصاً گھوڑوں کا بخار۔ سردار شریف۔ الحَمَامِي. ایک قسم کی گھاس۔ کھال کی سرفی۔ الحَمَام. غسل کرنے کی جگہ۔ یہ بکثرت مؤنث مستقل ہوتا ہے اور کبھی مذکر بھی۔ ح حَمَامَاتُ. الحَمَامِي. حمام والا۔ حمام کا نگہبان۔ الحَمَامَةُ. اپنے خاص لوگ۔ عمدہ اونٹ۔ الحَمِيم. قریبی رشتہ دار۔ دوست۔ ح حَمَامٌ. گرم پانی۔ حَمَامَةُ پانی۔ چنگاری جس سے دھوئی دی جائے۔ ح حَمَائِم. الحَمِيم: گرمی۔ پینہ۔ سخت گرمی کے بعد بارش۔ کہا جاتا ہے "هو حَمِيمٌ بالحاجة" وہ حاجت پر فریفتہ ہے۔ الحَمِيمَةُ. حیم کا مؤنث۔ گرم پانی۔ گرم کیا ہو اور وہ۔ عمدہ نسل کا اونٹ۔ ح حَمَائِم. الأحم. بہت خاص و بہت قریبی۔ کالا۔ سفید (خند) بے پھل کا تیر۔ ح حَمٌ. المَحَم. پانی گرم کرنے کا برتن۔</p>
<p>أَحْمَدٌ. قابل تعریف کام کرنا الشی: قابل تعریف ہونا الشی: قابل تعریف پانا ہ فعل پر راضی ہونا۔ تعریف کا حقدار ظاہر ہونا۔ تَحْمَدُ. بالشی علی فلان: احسان جتان۔ اور کہا جاتا ہے "يَتَحَمَدُ النَّاسُ بِفَضْلِهِ" یعنی ان کے سامنے ظاہر کرتا ہے کہ وہ محمود ہے۔ اسْتَحْمَدُ. اللہ الی خلقہ مخلوق کو انعام و احسان کر کے اپنی حمد کی جانب بلانا۔</p>	<p>حَمِيمٌ (س) حَمِيمًا. اللہ علیہ: حَمِيَت (س) حَمَتًا. الحوزُ وغیرہ: اخروث وغیرہ کا خراب ہونا۔ حَمَت (ك) حَمَوْتَةٌ. اليوم: دن کا سخت گرم ہونا۔</p>	<p>حَمَامَاتُ حَمَامِ الزَّاجِلِ او الزَّجَالِ: پیغام و خطوط لے جانے والے کبوتر۔ ساقی الحمام و رعی الحمام: دو قسم کی گھاس کے نام۔ بَيْضُ الحَمَامِ: آنگور کی ایک قسم جس کے دانے بڑے ہوتے ہیں۔ عنق الحمام: ایک قسم کا رنگ جو سرخ اور نیلے کے درمیان ہوتا ہے۔ الحَمَام. موت۔ الحَمَام. جانوروں خصوصاً گھوڑوں کا بخار۔ سردار شریف۔ الحَمَامِي. ایک قسم کی گھاس۔ کھال کی سرفی۔ الحَمَام. غسل کرنے کی جگہ۔ یہ بکثرت مؤنث مستقل ہوتا ہے اور کبھی مذکر بھی۔ ح حَمَامَاتُ. الحَمَامِي. حمام والا۔ حمام کا نگہبان۔ الحَمَامَةُ. اپنے خاص لوگ۔ عمدہ اونٹ۔ الحَمِيم. قریبی رشتہ دار۔ دوست۔ ح حَمَامٌ. گرم پانی۔ حَمَامَةُ پانی۔ چنگاری جس سے دھوئی دی جائے۔ ح حَمَائِم. الحَمِيم: گرمی۔ پینہ۔ سخت گرمی کے بعد بارش۔ کہا جاتا ہے "هو حَمِيمٌ بالحاجة" وہ حاجت پر فریفتہ ہے۔ الحَمِيمَةُ. حیم کا مؤنث۔ گرم پانی۔ گرم کیا ہو اور وہ۔ عمدہ نسل کا اونٹ۔ ح حَمَائِم. الأحم. بہت خاص و بہت قریبی۔ کالا۔ سفید (خند) بے پھل کا تیر۔ ح حَمٌ. المَحَم. پانی گرم کرنے کا برتن۔</p>
<p>أَحْمَدٌ. قابل تعریف کام کرنا الشی: قابل تعریف ہونا الشی: قابل تعریف پانا ہ فعل پر راضی ہونا۔ تعریف کا حقدار ظاہر ہونا۔ تَحْمَدُ. بالشی علی فلان: احسان جتان۔ اور کہا جاتا ہے "يَتَحَمَدُ النَّاسُ بِفَضْلِهِ" یعنی ان کے سامنے ظاہر کرتا ہے کہ وہ محمود ہے۔ اسْتَحْمَدُ. اللہ الی خلقہ مخلوق کو انعام و احسان کر کے اپنی حمد کی جانب بلانا۔</p>	<p>حَمِيمٌ (س) حَمِيمًا. اللہ علیہ: حَمِيَت (س) حَمَتًا. الحوزُ وغیرہ: اخروث وغیرہ کا خراب ہونا۔ حَمَت (ك) حَمَوْتَةٌ. اليوم: دن کا سخت گرم ہونا۔</p>	<p>حَمَامَاتُ حَمَامِ الزَّاجِلِ او الزَّجَالِ: پیغام و خطوط لے جانے والے کبوتر۔ ساقی الحمام و رعی الحمام: دو قسم کی گھاس کے نام۔ بَيْضُ الحَمَامِ: آنگور کی ایک قسم جس کے دانے بڑے ہوتے ہیں۔ عنق الحمام: ایک قسم کا رنگ جو سرخ اور نیلے کے درمیان ہوتا ہے۔ الحَمَام. موت۔ الحَمَام. جانوروں خصوصاً گھوڑوں کا بخار۔ سردار شریف۔ الحَمَامِي. ایک قسم کی گھاس۔ کھال کی سرفی۔ الحَمَام. غسل کرنے کی جگہ۔ یہ بکثرت مؤنث مستقل ہوتا ہے اور کبھی مذکر بھی۔ ح حَمَامَاتُ. الحَمَامِي. حمام والا۔ حمام کا نگہبان۔ الحَمَامَةُ. اپنے خاص لوگ۔ عمدہ اونٹ۔ الحَمِيم. قریبی رشتہ دار۔ دوست۔ ح حَمَامٌ. گرم پانی۔ حَمَامَةُ پانی۔ چنگاری جس سے دھوئی دی جائے۔ ح حَمَائِم. الحَمِيم: گرمی۔ پینہ۔ سخت گرمی کے بعد بارش۔ کہا جاتا ہے "هو حَمِيمٌ بالحاجة" وہ حاجت پر فریفتہ ہے۔ الحَمِيمَةُ. حیم کا مؤنث۔ گرم پانی۔ گرم کیا ہو اور وہ۔ عمدہ نسل کا اونٹ۔ ح حَمَائِم. الأحم. بہت خاص و بہت قریبی۔ کالا۔ سفید (خند) بے پھل کا تیر۔ ح حَمٌ. المَحَم. پانی گرم کرنے کا برتن۔</p>
<p>أَحْمَدٌ. قابل تعریف کام کرنا الشی: قابل تعریف ہونا الشی: قابل تعریف پانا ہ فعل پر راضی ہونا۔ تعریف کا حقدار ظاہر ہونا۔ تَحْمَدُ. بالشی علی فلان: احسان جتان۔ اور کہا جاتا ہے "يَتَحَمَدُ النَّاسُ بِفَضْلِهِ" یعنی ان کے سامنے ظاہر کرتا ہے کہ وہ محمود ہے۔ اسْتَحْمَدُ. اللہ الی خلقہ مخلوق کو انعام و احسان کر کے اپنی حمد کی جانب بلانا۔</p>	<p>حَمِيمٌ (س) حَمِيمًا. اللہ علیہ: حَمِيَت (س) حَمَتًا. الحوزُ وغیرہ: اخروث وغیرہ کا خراب ہونا۔ حَمَت (ك) حَمَوْتَةٌ. اليوم: دن کا سخت گرم ہونا۔</p>	<p>حَمَامَاتُ حَمَامِ الزَّاجِلِ او الزَّجَالِ: پیغام و خطوط لے جانے والے کبوتر۔ ساقی الحمام و رعی الحمام: دو قسم کی گھاس کے نام۔ بَيْضُ الحَمَامِ: آنگور کی ایک قسم جس کے دانے بڑے ہوتے ہیں۔ عنق الحمام: ایک قسم کا رنگ جو سرخ اور نیلے کے درمیان ہوتا ہے۔ الحَمَام. موت۔ الحَمَام. جانوروں خصوصاً گھوڑوں کا بخار۔ سردار شریف۔ الحَمَامِي. ایک قسم کی گھاس۔ کھال کی سرفی۔ الحَمَام. غسل کرنے کی جگہ۔ یہ بکثرت مؤنث مستقل ہوتا ہے اور کبھی مذکر بھی۔ ح حَمَامَاتُ. الحَمَامِي. حمام والا۔ حمام کا نگہبان۔ الحَمَامَةُ. اپنے خاص لوگ۔ عمدہ اونٹ۔ الحَمِيم. قریبی رشتہ دار۔ دوست۔ ح حَمَامٌ. گرم پانی۔ حَمَامَةُ پانی۔ چنگاری جس سے دھوئی دی جائے۔ ح حَمَائِم. الحَمِيم: گرمی۔ پینہ۔ سخت گرمی کے بعد بارش۔ کہا جاتا ہے "هو حَمِيمٌ بالحاجة" وہ حاجت پر فریفتہ ہے۔ الحَمِيمَةُ. حیم کا مؤنث۔ گرم پانی۔ گرم کیا ہو اور وہ۔ عمدہ نسل کا اونٹ۔ ح حَمَائِم. الأحم. بہت خاص و بہت قریبی۔ کالا۔ سفید (خند) بے پھل کا تیر۔ ح حَمٌ. المَحَم. پانی گرم کرنے کا برتن۔</p>

حَمْرُ (س) حَمْرًا. الفرس: بد بھئی والا ہونا، یا بدبودار منہ والا ہونا۔ صفت (حَمْرٍ) الرجل: غصہ سے بھڑک اٹھنا۔ حَمْرُ الجلد: بڑی دباغت دینا۔ الشئی: سرخ رنگنا: کسی کو اسے گدھے کہنا۔ اَحْمَرُ: سرخ بچہ والا ہونا الدابۃ: چارہ دینا یہاں تک کہ منہ بدبودار ہو جائے۔ اِحْمَارُ اِحْمَارًا: سرخ ہونا۔ اِحْمَارًا اِحْمَارًا: بتدریج بہت سرخ ہونا۔

اِحْمَرُ. ما علی الجلد: کھر چانا۔ الحَمْرُ. ایک قسم کی رمال جس کو عوام الحَمْرُ کہتے ہیں (والحَمْرُ) ایک سرخ رنگ کا پرندہ واحد (حَمْرَةٌ و حَمْرَةٌ) الحَمْرَةُ. سرخ رنگ۔ ایک قسم کی وہابی بیماری جس کی وجہ سے بخار آتا ہے اور بدن پر سرخ رنگ کے دانے پڑ جاتے ہیں۔ حَشِيشَةٌ الحَمْرَةُ: ایک قسم کا ہریلا پودہ۔

الحَمَارُ. گدھا۔ اس کی دو قسمیں ہیں لڑھکی اور جنگلی۔ اسی وجہ سے جنگلی کو حمار وحش و حمار الوحش والحمار الوحشی کہتے ہیں۔ ح حَمِيرٍ وَاَحْمِرَةٌ و حُمُرٍ و حُمُورٍ و حُمُرَاتٍ. مؤنث حَمَارَةٌ ح حَمَائِرٍ. حَمَارَةُ القدم: پشت قدم۔ اُذُن الحَمَارِ و قِنَاء الحَمَارِ: دو پودوں کے نام۔ حَمَارُ الزَّرْدِ: ایک قسم کا جنگلی سفید گدھا جس پر سیاہ عاریاں ہوتی ہیں۔

الحَمَارَةُ. گرمی کی شدت۔ ح حَمَارٍ. الحَمَارَةُ. گدھے والے۔ واحد حَمَارٌ. حَمَّي جَمَالٍ و بَعَالٍ. دوغلا گھوڑا۔ الاَحْمَرُ. جس کا رنگ سرخ ہو۔ ح اَحْمِرٍ. سرخ رنگ سے رنگا ہوا۔ ح حَمْرٍ و حُمْرَانٍ. سونا۔ زعفران۔ گوشت۔ شراب۔ کہتے ہیں۔ "نحن من اهل الاسوددين لامين اهل الاخمريين" ہم گھور اور پانی والے ہیں۔ گوشت اور شراب والے نہیں۔ الموت الاحمر: قتل۔ کناہ ہے خون بہنے یا سخت

موسے سے۔ الحَمْرَاءُ. الاحمر کا مؤنث۔ سخت سال۔ گرمی کی شدت۔ الحمرء أو القلعة الحمرء: غرناطہ کا ایک مشہور قلعہ جو مسلمانوں کے دور حکومت کی یادگار ہے اور جس کے اندر ایک عجیب نادرہ روزگار محل ہے۔ الحمرء: تین لکڑیاں جن کو آپس میں باندھ کر دودھ کا مشکیزہ یا پانی کی صراحی وغیرہ رکھ دیتے ہیں اور اس کو الحماير بھی کہتے ہیں۔

الاحمري. سخت سرخ۔ الحمر. گرمی کی سخت شدت۔ برا آدمی۔ غيث حمر: تیز بارش۔ الحمرۃ. ایک قسم کا پرندہ۔ المنحمر. کھال صاف کرنے کا آلہ۔ کتبوس۔ ح محامير المنحمر: دوغلا گھوڑا۔

البيحمر. سرخ۔ ایک قسم کا پرندہ۔ اور بقول بعض گورخر۔ حَمْرٌ (ض) الحورول اللسان: چرپرہٹ ڈالنا الشفرة: تیز کرنا۔ حَمْرٌ (ك) حَمَارَةٌ: سخت ہونا۔ الشراب: چرپرہٹ ڈالنے والی ہونا۔ الحامير. فا. حامر الفواد: تیز فہم، عقلمند۔

الحمير. سخت۔ ذکی۔ تیز فہم۔ حَمْسَةٌ (ض ن) حَمْسًا. غضبناک کرنا اللحم: بھوننا۔ حَمِيسٌ (س) حَمْسًا. دین یا جنگ میں سخت ہونا۔ دلیر ہونا۔ صفت (حَمِيسٌ) حَمِيسٌ الوغى: گھمان کی جنگ ہونا الا مؤنث سخت ہونا۔

حَمْسٌ (ن) حَمَاسَةٌ و حَمِيسٌ (ض) حَمْسًا. دلیر ہونا۔ حَمْسَةٌ وَاَحْمَسَةٌ. جوش دلانا۔ غضبناک کرنا الدواء ونحوہ: نیم گرم ہونا۔ حَمْسٌ. جوش میں آنا۔ غضبناک ہونا۔

سخت ہونا۔ تا فرمائی کرنا۔

احتمس. جوش میں آنا۔ اِحْتَمَسَ القرنان: باہم جنگ کرنا۔ حَمَسَ القوم: ایک دوسرے پر حملہ کرنا اور جنگ کرنا۔

الحماس. سختی۔ منع۔ جنگ کرنا۔ الحامسة. معاملہ میں سختی۔ دلیری۔ الاحمسن. دین یا جنگ میں سخت دلیر۔ مؤنث حَمَسًا. ح حَمَسٌ و اَحَامِيسٌ. سَنَةٌ حَمَسَاءٌ: سخت سال۔ سِنُون اَحَمِيسٌ. حَمْسٌ: بہت سے سخت سال۔

الحمسن. سخت جگہیں۔ الاحميس. دلیر۔ سخت۔ تنور۔ الاحميسة. بھوننا ہوا۔

الاحمسة. ایک قسم کا دریائی جانور۔ کھوج حَمَسٌ.

حَمْسَةٌ (ن) حَمْسًا. غضبناک کرنا۔ جوش دلانا۔ حَمْسُ الشئی: جمع کرنا القوم: غصہ سے چلانا۔

حَمْسَتْ (ض) و حَمْسَتْ (ك) حَمُوسَةٌ. الساقی: پارک ہونا۔ حَمْسٌ (ض) حَمْسًا و حَمْسَةٌ و تَحَمْسٌ وَاِحْتَمَسٌ وَاِسْتَحَمَسٌ.

غضبناک ہونا۔ حَمِشٌ (س) حَمْسًا و حَمِشًا. الرجل: پارک پنڈلیوں والا ہونا۔ صفت (حَمِشٌ و حَمِشٌ وَاِحْمَشٌ) ح حَمَاشٍ و حَمِشٌ. کہا جاتا ہے۔ "رجال حَمَاشٍ السُّوقِ" پارک پنڈلیوں والے مرد۔ "سوق حماس" پارک پنڈلیاں۔ حَمْسَةٌ. غضبناک کرنا۔ جوش دلانا۔ حَمْسُ الشئی: جمع کرنا الشحم: پگھلانے

ہوئے چلانے کے قریب کرنا۔ اَحْمَسَهُ. غضبناک کرنا۔ اَحْمَشَ النار: ایندھن ڈال کر بھڑکانا القدر: ہانڈی کے نیچے بہت ایندھن لگانا الحروب: تیز کرنا۔ الاحميش. پگھلائی ہوئی چربی۔

الْحَمَاطَةُ: گلے کی سوزش۔ انجیر کے مشابہ ایک درخت اور بقول بعض گولر۔ دل کا نظہ۔ دل کا خون۔ حَمَاطٌ وَ حَمَانِطٌ۔
حَمَطْرٌ. القبرية: بھرنا القوس: چلہ کھینچنا۔
حَمَطَةٌ (ن) حَمَطًا. نچوڑنا۔
حَمَقٌ (س) وَ حَمَقٌ (ک) حَمَقًا وَ حُمَقًا وَ حَمَاقَةً. بیوقوف ہونا۔ صفت أَحَمَقُ مَوْتُ حَمَقَاءُ. حَمَقٌ وَ حَمُقٌ وَ حَمَقِي وَ حِمَاقٌ وَ حِمَاقِي وَ حِمَاقِي. (ک حَمَاقَةُ) السوق: منداپڑنا۔ حَمَقَةٌ. بیوقوف کہنا۔
أَحْمَقَةٌ. بیوقوف پانا۔ أَحْمَقَتِ الْمَرْأَةُ بیوقوف بننے بنا۔ صفت (مُحَمِقٌ وَ مُحَمِقَةٌ)
حَامِقَةٌ. بیوقوفی میں مدد دینا۔
تَحَامِقٌ وَ تَحَمِقٌ. تکلف بیوقوف بننا۔
إِنْحَمَقٌ. بیوقوف ہونا السوق: منداپڑنا الثوب: بوسیدہ ہونا۔
اسْتَحَمَقَ. بیوقوف ہونا: بیوقوف سمجھنا۔
الْحَمَقُ. سر کم عقلی۔ بیوقوفی۔ شراب۔
نَوْمَةُ الْحَمَقِ. ظہر کے بعد کی نیند۔
الْحَمِقُ. بیوقوف۔ کم دماغی والا۔
الْحَمَاقُ وَالْحَمَاقُ وَالْحَمِيقُ وَالْحَمِيقِي وَالْحَمِيقَاءُ. ایک بیماری جو بچک کے مشابہ ہوتی ہے۔
الْبَقْلَةُ الْحَمَقَاءُ وَبَقْلَةُ الْحَمَقَاءِ. خرفہ کا ساگ۔
الْحَمُوقَةُ وَالْحَمِيقَةُ وَالْأَحْمُوقَةُ. بہت بیوقوفی والا۔
الْمُحَمِقَاتُ. وہ راتیں جن میں اول سے آخر تک چاندنی رہے۔
حَمَلٌ (ض) حَمَلًا وَ حَمَلَانًا. الشَّيْءُ عَلَى ظَهْرِهِ: اٹھانا الغضب: غصہ ظاہر کرنا عَلَى نَفْسِهِ فِي السَّيْرِ: چلنے میں مشقت اٹھانا حَمَلَهُ عَلَى الْأَمْرِ: آسانا۔ براہِ مَنَّةِ کرنا۔ حمل عنہ: بردبار ہونا الشَّيْءُ عَلَى

کان کے ساتھ ملایا جائے۔ حوامض کا ذائقہ سرکہ یا پھلکوی کی طرح ہوتا ہے۔
الْحَامِضُ: الحامض کا نمونہ۔ کسی چیز کی خواہش۔ کسی چیز کا معدہ میں فساد کی جانب منتقل ہونا۔
الْحَمِضُ كَرَوَا وَ تَمَكِينُ پودہ۔ واحد (حَمِضَةٌ) حَمُوضٌ۔
الْحَمِضُ الْأَسْتَبَلِكُ: اسٹیک ایسڈ (سرکہ) میں C.H3COOH۔
زَيْتٌ زَائِجٌ پھلکوی تیل۔ الحمض النتریک۔ NO3H نائٹروجن پر آکسائیڈز ڈائنامیٹ کے جوڑنے میں استعمال ہوتی ہے۔
الکبیریت گندھک۔ الحمض الکلوریدرک: ہائیڈروکلورک ایسڈ H.C.L الحمض استریک: سٹرک ایسڈ C.H.O۔
الْحَمِضَةُ: کھانے کی خواہش۔ کہا جاتا ہے "فؤاد حمض، و نفس حمضہ" کسی چیز کو سننے ہی بدکنے والا نفس۔
الْحَمَاضُ: ایک قسم کی گھاس جس کے پتے کا سنی کے پتے کی مانند ہوتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ ترش اور کڑوی اور اس کو حَمِضُہ بھی کہتے ہیں۔ واحد (حَمَاضَةٌ) تَرَجٌ حَمَاضُ الْكِبَاد: تَرَجٌ کا اندرونی حصہ۔
الإخماض: سر۔ دلچسپ گفتگو میں مشغول ہونا۔ سنجیدگی سے مذاق کی طرف منتقل ہونا۔
الْحَمِيزَةُ: حَمِضٌ وَ حَمِضٌ وَ (المُحَمِضُ) وَ (المُحَمِضُ) کثرت سے تمکین اور کڑوی پودوں والی زمین۔
المُسْتَحَمِضُ: من اللبن: دیر میں جمنے والا دودھ۔
حَمَطَةٌ (ض) حَمَطًا. چمکلا اُتارنا۔
حَمَطٌ. الکرم: انور پر درخت کا سایہ کرنا۔
الشَّيْءُ: چھوٹا کرنا الرجل: ہلکانا۔ اور اسی سے مثل ہے "اذا ضربت فلا تُحَمَطُ" جب مارو تو ہلکا مت مارو۔

حَمِضٌ (ن) حَمِضًا وَ حَمُوضًا۔
الجرح: زخم سے سوجن ختم ہونا۔ صفت (حميض)
الورم: ورم کا ختم ہونا الارجوحة: جھولے کا ٹھہر جانا الدابة: پیٹھ خشک ہو جانا۔
حَمِضٌ. الحَبُّ: بھوننا۔
تَحَمِضٌ. الرجل: سبب اللحم: خشک ہونا۔
الْوَرْمُ: کم ہونا مند: سگڑنا۔
لاغر ہونا۔
الْحَمِضُ. وَالْحَمِضُ. چٹا۔ واحد (حَمِضَةٌ وَ حَمِضَةٌ) الْحَمِيزُ. بھوننا ہوں۔
الْحَمِيزَةُ وَالْمَحْمُوضَةُ. چوری کی ہوئی کبری۔ حَمِيزَةٌ كِي جَمْعُ حَمَائِصٍ۔
الْمَحْمُوضَةُ. غلہ بھوننے کا آلہ۔ (لغت عوام)
حَمِضٌ (ن) حَمِضًا وَ حَمِيزٌ (س) حَمِضًا وَ حَمِضٌ (ک) حَمُوضَةٌ. کھانا ہونا۔
حَمِضٌ (ن) حَمِضًا. عنده: ناپسند کرنا یہ: خواہش کرنا۔ (وَأَحْمَضُ وَ حَمِضٌ) الْجَمَلُ: تمکین و کڑوی پودے چرنا۔
حَمِضٌ وَ أَحْمَضُ الْأَبَلُ: تمکین و کڑوی پودے چرانا اور کہا جاتا ہے "حَمِضٌ لَنَا فِي الْقُرَى" اس نے ہماری مہمانی میں کمی کی حَمِضٌ وَ أَحْمَضُ الشَّيْءُ: کھانا کرنا الشَّيْءُ عنده: پھیر دینا أَحْمَضُ الْمَكَانُ: بہت تمکین و کڑوی پودے والی جگہ ہونا۔ صفت (مُحَمِضٌ)
تَحَمِضٌ. الرجل: ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف منتقل ہونا۔
الْحَامِضُ. فَا. کہا جاتا ہے "هُوَ حَامِضٌ الْفُؤَادُ" وہ بگڑے دل کا ہے۔
الْحَامِضُ الرَنْتِينُ "کڑوی سانس والا۔
الْحَامِضُ: (ک) ہائیڈروجن والی مرکب یہ نمک سے تبدیل ہو جاتا جب ہائیڈروجن کسی

الأخر: ایک کا حکم دوسرے پر لگانا المرأة: حاملہ ہونا الشجرة: پھل دار ہونا القرآن: یاد کرنا العلم: روایت کرنا۔ نقل کرنا۔ (حملة) فی الحرب علیہم: حملہ کرنا (حمالة) به: ضامن ہونا۔

حملة وأخمله: الحمل: بوجھ اٹھانے میں مدد کرنا۔

حملة تخمیلًا وجملاً: الشئ: اٹھوانا۔

تحملة تحملاً وجملاً: اٹھانا الامر: برداشت کرنا القوم: کوچ کرنا الرجل: بہادر بننا۔

تحمّل: فی الامر وبالامر: باوجود مشقت کے اپنے ذمہ لینا علی فلان: ظلم کرنا۔ طاقت سے زیادہ کام کو کہنا عنہ: اعراض کرنا۔

آلیہ: متوجہ ہونا الشيخ فی مشیہ: چلنے میں گرا تیار ہونا علی نفسہ: باوجود مشقت کے برداشت کرنا۔

انحمّل: علیہ: آسایا جانا۔

إحتمل: الشئ: اٹھانا الامر: کسی امر کی طاقت رکھنا اور اس پر صبر کرنا ماکان منه: چشم پوشی کرنا معاف کرنا الصبیغة: شکر ادا کرنا۔

أحمّل: غضبناک ہونا لونه: رگ بدلنا۔

استحمل: اٹھانے کی طاقت رکھنا۔

فلاناً: اٹھانے کو کہنا۔

الحمل: س۔ پیٹ کا بچہ۔ پھل۔ ج حمل و آحمل و حمول۔

الحمل: ابو جہ۔ ج آحمل و حمولة۔

الحمل: ہودج یا ہودہ والے اونٹ۔ ج حمول۔

الحمل: بکری کا بچہ۔ ج حملان و آحمل۔

بہت پانی والا بادل۔ آسمان کے برجوں میں سے ایک برج۔ لسان الحمل: بارنگ (ایک دوکان نام)

الحملة: س۔ ایک مرتبہ کا بوجھ۔ لڑائی کا حمل۔

الحملة والحملة: ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔

الحاملة: نوکرا بچولہ ہے کاتا۔

جرمی بیڑہ جس پر جنگی جہاز رکھے جاتے ہیں۔

الحامل: فاج حملہ۔ حملة القرآن: قرآن کے یاد کرنے والے۔ قرآن کی روایت کرنے والے۔ مؤنث حاملہ: امرأة حامل و حاملہ: پیٹ والی عورت۔ ج حوامل۔

الحاملة: انکور وغیرہ اٹھانے کی نوکری۔

الحوامل: قدم ہاتھ اور قدم کے پٹھے۔

الحمال: دیت۔ تاوان۔ ج حمل۔

الحمالة: ضمانت۔ دیت۔ تاوان۔

الجمالة والحملة: ج حمائل و (المحمل) ج محامل: تلوار کا پتلا۔ کہا جاتا ہے ”هو حميلة علينا“ وہ ہمارے ذمہ بار ہے۔

الجمالة: مزدور کا پیشہ۔

الحمل: قلی مزدور۔ بوجھ اٹھانے والا۔

عوام اس کو عتال کہتے ہیں۔ الحمل: جزو دان۔ فصیح لفظ القمطر ہے۔

الحمول: صابر۔ بردبار۔ حمول النحر: دریائی نباتات۔

الحمولة: بار برداری کا جانور۔ ج حمولات

الخملان: بار برداری کا جانور جو کسی کو بہرہ کیا جائے۔ مزدور کی اجرت۔

الحمیل: اٹھایا ہوا۔ اجنبی۔ ضامن۔ پیٹ کا بچہ۔ ترمہ۔ سیلاب کا کوڑا کرکٹ۔ اٹھایا ہوا بچہ جس کی کوئی پرورش کرے۔ منہ بولا بیٹا۔

الخمولة: تیز بارش کے وقت تالے میں اچھلنے والا پانی (مولد) ج حوامل۔

المخمل: وہ چیز جس میں کوئی چیز اٹھائی جائے۔ ہودہ۔ ج محامل۔

المحمول: سیرالمحمول والموضوع عند المنطقین: اصطلاح علم منطق میں قضیہ حملیہ کے دونوں اجزاء جو نحو یوں کے

زودیک بمنزلہ مند و مند الیہ کے ہیں۔ جیسے زید کحرم میں زید موضوع ہے اور کریم محمول۔

حمله: آنکھیں پھاڑ کر تیز نظر سے دیکھنا۔

خملاف العین و خملافها و خملوقها: پپوں کا اندرونی حصہ۔ ج خمالیق

الحمو والحماء والحمو والحمء: خسر۔ خاندان کی جانب سے عورت کا قریبی رشتہ دار۔ یہ اسم سے متکبرہ میں سے ہے اس کا اعراب حالت رفعی میں وا اور حالت نھی میں ألف اور حالت جری میں یا سے آتا ہے اور یہ ہمیشہ مضاف مستعمل ہوتا ہے۔ تشبیہ حموان و حمآن ج۔ احماء۔

حماء الرجل: خوش دامن۔ حماة المرأة: ج حموات۔ الحماء پڑنی کا عضل۔

حمو الشمس: آفتاب کی گرمی۔

حموة الالم: درد کی شدت و تیزی۔

حمی (ض) حمیا و حمیة و حمیة و حمیة و حمیة لشیء من الناس: روکنا۔ بچانا۔

(حمیة) المریض ما یضرة و عما یضرة: پرہیز کرنا۔

حمی (س) حمیة و حمیة من الشئ: کسی کام کے کرنے سے ناک چڑھانا۔

حمی (س) حمیا و حمیا و حموا: النار: تیز گرم ہونا علیہ: غضبناک ہونا۔

حامي لحمامة و حماء: عنہ: حمایت کرنا۔ مدافعت کرنا۔ علی الضیف: ابھی طرح میزبانی کرنا۔

أحمی إحماء: المكان: حمی بنانا۔

الحدید: بہت گرم کرنا۔

تحمی و احمی: المریض: روکنا، پرہیز کرنا۔ احمی منہ: بچنا۔

تحمی: ۵۔ بچنا۔ پرہیز کرنا۔

إحمومی إحمیاء: کالا ہونا۔

الحَمِيّ چراگاہ کہ جس میں دوسروں کے جانور کو چرانے کی ممانعت ہو۔ ہر وہ چیز جس کی حفاظت کی جائے۔

حَمِيّ الشَّمْسِ قِطَابِ كِى گری۔

الْحَمَاءُ پچائی ہوئی چیز۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ حَمَاءٌ لَكَ ذُو تَهْمَارِي طَرْفٍ سَے فِدِیہ ہے۔“

الْحَمِيَّةُ پچائی ہوئی چیز۔ پرہیز۔ کہا جاتا ہے ”الْمَعْدَةُ بَيْتِ الذَّاءِ وَالْحَمِيَّةُ رَأْسُ الذَّوَاءِ“ معدہ بیماریوں کا گھر ہے اور پرہیز دوا کی اصل ہے۔

الْحَمِيَّةُ نَفْرَتٍ۔ مَرُوْتٍ۔ نَخْوَتٍ۔

الْحَمِيّ بخار۔ رَجْحَمِيَّاتٍ۔

الْحَمِيًّا غَمَّةٌ كَا اِبْتِدَائِي جُوشٍ۔ کہا جاتا ہے ”لَا تَكَلِّمُهُ فِي حَمِيًّا غَضَبِيہ“ اس سے غمّے کے ابتدائی جوش کی حالت میں گفتگو مت کرو۔ شراب کی تیزی۔ شراب۔ مَن كَلِّ شَيْءٍ: شدت و تیزی۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ سَدِيدُ الْحَمِيّ“ وہ بہت خوددار ہے۔

الْحَمَّةُ زَهْرٌ ذُكْرٌ۔ رَجْحَمَاتٍ حَمِيّ۔ حَمَّةُ الْبُرْدِ مَرْدِي كِى شدت۔

الْحَامِيّ: فَا. شِيْرٌ۔ كِتْمَانٌ حَمَاةٌ وَ حَامِيَّةٌ نَزَاوَنُتٌ كِى جس کے بہت سے بچے ہو گئے ہوں تو اس کو آزاد چھوڑ دیتے تھے کہ جہاں چاہے چرے اور اس کے اوپر سوار نہیں ہوتے تھے اور نہ اس کے بال کترتے تھے۔ الْحَمِيّ: وہ شخص جو ظلم برداشت نہ کر سکے۔ ہر محفوظ کی ہوئی چیز۔ مریض جو مضر چیزوں سے روک دیا گیا ہو۔

الْحَامِيَّةُ: الْحَامِي كَا مَوْثٌ۔ حَامِيَّتٌ كَرْنَةُ وَالَا (اس صورت میں تا مبالغہ کے لیے ہے) جَمَاعَتٌ جُو حَامِيَّتٌ كَرْنَةُ وَالَا ہو۔ رَجْحَمِيّ: الْحَوَامِيّ: الْحَامِيَّةُ بِيَاوِدِيكِدَانٍ۔ پتھر جس سے کوئیں کا سن بنایا جائے۔

حَنْ (ض) حَمِيْنَا: خَوْشِي يَا غَمٌّ سَے آواز نَكَا لَنَا الْقَوْسُ: كَمَا نَ سَے آواز نَكَا لَنَا إِلَيْهِ: مَشْتَاكٌ هُوَا (حَنْتٌ وَ حَنَا) عَلِيهِ: مَهْرِيَانٌ هُوَا۔ مَعْتٌ (حَنْوُنٌ)

حَنْوُنٌ) حَنَا بَحِيْرِنَا۔ بَاوَرَكْنَا۔ تَم كِتْبَةُ هُوَا ”حَنْ عَنِي شَرِكٌ جَمِھ سَے اِسْمُ شَرِكُو رُو كِ“

حَنْنٌ: الشَّجَرُ يَجُودُ دَارِ هُوَا۔

أَعَنُ: الْقَوْسُ: كَمَا نَ سَے آواز نَكَا لَنَا الرَّجُلُ يَطْلُعِي كَرْنَا۔

تَحَنَّنٌ: عَلِيهِ زَحْمٌ كَرْنَا۔

تَحَانٌ وَاسْتَحَنُّ: إِلَيْهِ: مَشْتَاكٌ هُوَا۔ اِسْتَحَنُّ الشَّوْقُ فَلَا نَا طَرْبٌ كُو بُو حَاوَرِيَا۔

الْحَانُ: فَا بِيْتِ خَوْشٍ هُوَنُ وَالَا۔ كَمَا جَا تَا سَے ”مَا لَهُ حَانَةٌ وَلَا آتَةٌ“ اس کے پاس نہ اُوْتِي سَے نہ بَكْرِي۔

التَّحْنَانُ رَجْمَتٌ وَ مَهْرِيَانِي۔

الْحَمْنُ جُؤُنٌ كَا اِيَكٌ كَرُو۔

الْحَنَا نَزْوِي۔ بَرَكْتُ۔ دَل كِ نَزْمِي۔ كَمَا جَا تَا سَے ”حَنَانِيكٌ وَ حَنَانِكٌ يَا رَبِّ الْبَلْعَنِي لَے پُرُو رُو دَا كَر تِي رَے رَحْمٌ كِي التَّجَا كَر تَا هُوَا۔“ وَ حَنَا اللّٰهُ اللّٰهُ كِي پَنَا۔

الْحَنَا نٌ: مَهْرِيَانٌ۔ رَجْمٌ۔ اللّٰهُ تَعَالَى كِے اِسْمَے حَنْئِي مِيں سَے اِيَكٌ كِی چیز كَا مَشْتَاكٌ۔

سَهْمٌ حَنَا نٌ: آوَاوَزٌ نَكَا لَنِي وَ اِلَى كَمَا نَ: طَوْبِيْقٌ حَنَا نٌ بَوَا صُحٌّ رَا سَتَا۔

الْحَنَا نٌ مَهْنَدِي۔

حَنَا (ف) حَنَا: الْمَكَانُ: مَهْرِيَانٌ هُوَا۔

مَعْتٌ (حَانِي) اُو ر حَانِيءٌ كَا كَلْمَةُ اَخْضَرُ كِے لِيے بَطُو ر تَا كِي دِ كِے مَسْتَعْمَلٌ هَے۔ كَمَا جَا تَا سَے۔ اَخْضَرٌ حَانِيءٌ جِيسَے اَسْوَدٌ حَا لِكٌ اَصْفَرٌ فَاقِعٌ

أَبْيَضٌ نَاصِعٌ: اَخْمَرٌ قَانِي.

حَنَاةٌ تَحْنِيْنَا وَ تَحْنِيْنَا: مَهْنَدِي سَے رَنَكْنَا۔ تَحَنَا: بِالْحَنَاءِ: مَهْنَدِي سَے رَنَكَا جَا نَا۔

الْحَنَاةُ: مَهْنَدِي۔ وَ اِحْدُ حَنَاةٌ رَجْحَمَانُ. اَبُو الْحَنَاةُ: اِيَكٌ سَرَخِي سِيْنَةُ وَالَا چھوٹا پَر نَمُو۔

حَنْبٌ (س) حَنْبَا وَ حَنْبٌ وَ تَحَنْبٌ الشَّيْخُ: كَبِيْرٌ هُوَا۔ حَنْبَةُ الْكَبِيْرُ: جَمَلَا دِيَا۔

تَحَنْبٌ عَلِيهِ: مَهْرِيَانٌ هُوَا۔

حَنْبِرٌ حَنْبِرَةٌ: الْبُرْدُ: نَخْوَتٌ هُوَا۔

الْحَنْبِرُ پَسْتِ قَدَرِ

حَنْبِلٌ لُو يَا كَمَا نَا۔ مَوْزُهُ يَا پَر اِلَى پُو سْتِيْنِ پَهْنَانَا۔

تَحَنْبِلٌ مَهْرَجَمَانَا۔

الْحَنْبِلُ لُو يَا۔

الْحَنْبَالُ: مِيْنِ الْاَوْتَارِ مَضْبُوْبٌ اُو ر مَوْثِي تَانَتٌ۔

الْحَنْبِلُ مَوْزُهُ يَا پَر اِلَى پُو سْتِيْنِ۔ بُو سَے پِيْثٌ وَالَا پَسْتِ قَدَرِ۔

الْحَنْبَالُ فَرِيْبَةُ پَر مَوْشُ۔ بِيْتِ بُو لَنِي وَ اِلَا۔

الْحَنْبَالَةُ سَمْنَدَرٌ۔ بِيْتِ بُو لَنِي وَ اِلَا۔

الْحَانُوْتُ: دَكَا نٌ۔ شَرَابٌ يَبِيْجَةُ وَ اِلَى كِي دَكَا نٌ۔ (مَزْكُوْمُوْتٌ) رَجْحَمَانِيْتٌ۔

نَسْبَتٌ كِے لِيے (حَانِيّ وَ حَانُوْتِيّ)

حَيْثُ (س) حَيْثَا بَا طَلُّ كِي طَرْفِ مَائِلٌ هُوَا فِي يَمِيْنِهِ: قِسْمٌ تُوْرَتَا۔

أَحْنَثُهُ قِسْمٌ تُوْرَانَا۔

تَحَنَّثٌ: كِنَاةٌ سَے نَفْرَتٌ كَرْنَا۔ عَمَادَتٌ كَرْنَا۔

تَوَسُّؤٌ سَے عَلِيْمِدُهُ هُوَا اُو ر اِن كِي پَر سَتَشُ جَمُوْرَتَا مِيْنِ كَذَا جَمُوْبُهُ كَرْنَا۔

الْحَنْثُ: كِنَاةٌ۔ رَجْحَمَانٌ: اَحْنَاثٌ كَمَا جَا تَا سَے

”بَلْعُ الْعَلَامِ الْحَنْثُ الْاَكَا بَالُغٌ هُوَا كِي۔“

الْمَحَانِثُ: كِنَاةٌ كِے مَوَاقِعُ۔

حَنْجَةٌ (ض) حَنْجَا: جَمَلَانَا الْحَنْجَلُ: مَضْبُوْبٌ بِنَا۔ حَنْجَتٌ حَا جَةٌ جُوْشِ اَنَا۔

أَحْنَجُ: الشَّيْءُ: جَمَلَانَا الْخَبِيْرُ بُو شِيْدُهُ كَرْنَا

الْكَلَامُ بَرُخٌ يَمِيْرُ دِيَا الشَّيْءُ يَمَلُنَا الرَّجُلُ: تِيْزٌ طَلِيْعٌ هُوَ يَبِيْجُ كِي طَرْفِ نَظَرُ دَالَا۔

أَحْنَجُ: الشَّيْءُ: جَمَلَانَا۔

حَنْجَرَتٌ: الْعَيْنُ بَدْرٌ كُو دُحْنَانَا۔ حَنْجُوْرَةٌ: ذَنْجٌ كَرْنَا۔

الْحَنْجُوْرَةُ وَ الْحَنْجُوْرُ: بَرُخَرْمٌ

الْحَنْجُوْرُ: شَيْءٌ كَا اِيَكٌ بَرْتَنُ جِسْمِ مِيں مَهْرِيَا سِيَا هِي رَهْتِي هَے۔

حَنْحَنٌ: عَلِيهِ: خَوْفٌ كَمَا نَا۔ عَوَامٌ بُو لَنِي هِيں

حَنْحَنُ الْبُنْدُقُ اُو الْحَوْزُ وَ نَحْوُهُمَا: جِكْرَةٌ كَرِي خَرَابٌ هُوَا جَائِے۔ مَجْلُ لَفْظٌ حَمْتٌ هَے۔

حَنْدَسٌ وَ تَحْنَدَسُ: اللَّيْلُ: تَارِيَكٌ

ہوتا۔

الْحِنْدِسُ. سخت تاریک رات۔ تاریکی۔ راج
حَنَادِسُ. الحَنَادِسُ: مہینے کی پانیسویں،
تیسویں، چوبیسویں راتیں۔

الْحِنْدَقُوقِي وَالْحِنْدَقُوقِي وَالْحِنْدَقُوقِي
والْحِنْدَقُوقِي. ایک قسم کی نباتات کا نام۔ لبا
تڑکا مرد جو دیوانہ کے مشابہ ہو۔

حَنْدٌ (ض) حَنْدًا وَ تَحْنَادًا. اللحم:
ہوتا۔ مفت مفعولی (حنیند)

(حَنْدًا وَ حَنْدًا) الفرس: پسینہ لانے کے
لئے دوڑانا۔ مفت مفعولی (مَحْنُوذٌ وَ حَنِيدٌ)
حَنْدَتُهُ الشَّمْسُ: مجلس دینا۔

أَحْنَدٌ. شراب میں زیادہ پانی ملانا یا کم ملانا
اللحم: پکانا۔

اِسْتَحْنَدٌ. دھوپ میں لیٹ کر پسینہ لانا۔
الْحِنْدَةُ. سخت گرمی۔

الْحِنْدِيَّةُ. ہوتا ہوا گوشت۔ گرم پانی۔ سر
دھونے کی خوشبودار چیز۔

الْحِنْدِيذُ. بہت پسینہ والا۔
حَنْرٌ (ض) حَنْرًا. الحَنْيِرَةُ. محراب بنانا،

طاق میں خم دار جگہ بنانا۔
الْحَنْيِرَةُ. طاق میں خم دار جگہ۔ کمان، دھننے

کی کمان۔ ہر وہ چیز جو خم دار ہو۔ ج حَنْيِرٌ و
حَنْيَارٌ.

حَنْسٌ (س) حَنْسًا. دلیری سے وسط
معرکہ میں ڈٹے رہنا۔

الْحَنْسُ. پرہیز گار لوگ۔
حَنْشَةٌ (ض) حَنْشًا. ہٹانا۔ علیحدہ کرنا۔

غَضِبْنَاكَ كَمَا الصَّيْدُ: شکار کرنا۔
حَنْشَتِ الْحَيَّةُ فَلَانًا: ڈنسا۔

أَحْنَشُهُ. شکار کرنا۔ عن الامر: جلدی
کرنا۔

الْحَدَشُ. سانپ کی ایک قسم۔ ہر وہ جانور
جس کا سر سانپ کی مانند ہو جیسے گرگٹ۔ چمچلی

وغیرہ ج اَحْنَاشٌ وَ حَنْشَانٌ.
حَنْطٌ (ن) حَنْطًا وَ أَحْنَطٌ. الزرع:

کٹائی کے قابل ہونا الشجر: چل پکانا۔

حَنْطٌ (ض) حَنْطًا الجملد: سرخ ہونا۔

صفت (حانط)

حَنْطٌ وَ أَحْنَطٌ. المصيبة: مردہ پر حنوط ملنا۔

تَحْنَطُ. حنوط استعمال کرنا۔

اِسْتَحْنَطُ. جان دینے کے لئے دلیری کرنا۔

الْحَانِطُ. فاء بہت گیہوں والا۔ گیہوں والا۔

کپے ہوئے پھلوں والا درخت۔ أَحْمَرُ

حَانِطٌ: بہت سرخ۔

الْحِنْطَةُ. گیہوں۔ ج حنط۔

حِنْطَةٌ سَوْدَاءُ: سیاہ گندم جانوروں کی غذا میں

استعمال ہوتی ہے اور انسانوں کے لئے اس سے

بعض حلوے تیار کیے جاتے ہیں۔

الْحِنْطِيُّ. بہت گیہوں کھانے والا۔ پھولا

ہوا۔

الْأَحْنَطُ. بڑی اور گھنی داڑھی والا۔

الْحِنْطَاةُ. گندم فردشی۔ مردوں پر حنوط

لگانے کا پیشہ۔

الْحِنْطَا. مُرَدُّوْنَ پر حنوط لگانے والا

(وَالْحِنْطَايِيُّ) گیہوں بیچنے والا۔

الْحِنْطَا وَ الْحَنْوُطُ. ایک قسم کی مرکب

خوشبو جو مُرَدُّوْنَ کے جسم اور کفن پر لگاتے

تھے۔

الْحِنْطِيُّ ء. وہ شخص جس کی خوراک گیہوں

ہو۔

الْحِنْطِيُّ ء. پست قد۔

الْحِنْطَا وَ الْحِنْطَاوَةُ. بڑے پیٹ والا۔

پست قد۔

الْحَنْطَرِيَّةُ. بادل۔

الْحَنْطَبَاءُ وَ الْحَنْطَبَاءُ. نرمی۔ نرم گھریلا۔

الْحَنْطُوبُ. بڑے ذیل ڈول کی ناکارہ

عورت۔

الْحِنْطَابُ. پست قد، بد خو۔

الْحِنْطَلُ. اندرائن جو کڑوا ہونے میں ضرب

الثل ہے۔

حَنْطَلَتِ الشَّجَرَةُ: کڑوے پھل والا

ہوتا۔

حَنْفٌ (ض) حَنْفًا جملتا: رجلہ: پاؤں

ٹیڑھا کر دینا۔

حَنِيفٌ (س) حَنْفًا وَ حَنْفٌ (ك)

حَنْفًا: ٹیڑھے پاؤں والا ہونا۔ صفت

(أَحْنَفٌ)

حَنْفَةٌ. ٹیڑھے پاؤں والا کر دینا۔

تَحْنَفُ. جھٹی ہونا۔ حنفي ہونا۔ کہا جاتا ہے

”شَافِعِي تَحْنَفُ“ شافعی حنفي ہو گیا البتہ:

بائل ہونا۔

الْحَنْفَاءُ. ٹیڑھا پاؤں۔ کمان۔ اَسْتَرَأْ. گرگٹ۔

چکھور۔

الْحَنِيفِيَّةُ. سیدھا۔ اسلام کے احکام پر چلنے

والا۔ سیدنا ابراہیم کے دین کا تعلق۔ موحد۔

کلیات میں ہے کہ قرآن پاک میں جہاں کہیں

لفظ ﴿حَنِيفٌ﴾ کے ساتھ ﴿مُسْلِمٌ﴾ ہے

وہاں حاجی مُرَاد ہے جیسے ﴿وَلَكِنْ كَانُ

حَنِيفًا مُسْلِمًا﴾ اور جہاں بغیر لفظ

﴿مُسْلِمٌ﴾ کے تھا ﴿حَنِيفٌ﴾ ہے وہاں

﴿مُسْلِمٌ﴾ مراد ہے جیسے ﴿حَنِيفٌ لِلّٰهِ﴾

ج حَنْفًا. اویان باطلہ کو چھوڑ کر دین حق کو

اختیار کرنے والا۔

الْحَنِيفِيُّ. امام ابوحنیفہ کے مذہب کا تابع۔

ج أَحْنَافٌ وَ حَنْفِيَّةٌ.

الْحَنْفِيَّةُ. بیچ دار ٹوٹی جس کو پانی کی ضرورت

کے وقت استعمال کیا جاسکے۔

الْحَنِيفِيَّةُ. فی الاسلام او الدین: اسلام

کی طرف میلان اور دین کے ساتھ تمسک۔

الْحَنِيفِسُ. بے حیا، بد زبان عورت۔

الْحَنِيفِشُ وَ الْحَنِيفِشُ. ایک قسم کا زہریلا

سانپ جس کا سر بڑا اور گردن باریک ہوتی ہے

اور جب غضبناک ہوتا ہے تو اس کی گردن کی

رگیں پھول جاتی ہیں۔ ج حَنْفِيشٌ وَ

حَنْفِيشٌ.

الْحَنِيفِصُ. ڈوبلا پتلا۔

حَنِيقٌ (س) حَنْفًا. منہ و علیہ: سخت

غضبناک ہونا۔ صفت (حَنِيقٌ وَ حَنِيقٌ) ج

حَنْقٌ اَبْلٌ حَنْقٌ وَ مَحَانِيقٌ: موٹے اونٹ۔

أَحْنَفٌ. غضبناک بنانا۔ أَحْنَفُ الدَّابَّةُ: دبلا

الْحُوبَةُ وَالْحَبِيْبَةُ وَالْحُوْبَةُ نَائِي كِي جَانِب
سے قرابت۔ کہا جاتا ہے "لی فیہم حُوْبَةٌ"
میرکی ان سے ناہمالی رشتہ داری ہے۔ حاجت۔
حالت۔ کہا جاتا ہے "ہات بحُوْبَةٍ سُوِيءٌ"
اس نے بری حالت میں رات گزاری۔
الْحُوْبَةُ نَائِي كِي مَاتَا۔ بیوی۔ ہانڈی۔
الْحُوْبَةُ كِي زُوْر مَرْد۔ کہا جاتا ہے "اِنَّمَا
فُلَانٌ حُوْبَةٌ" فلاں شخص کمزور ہے، نہ اس
سے خیر کی امید ہے نہ شر کا خوف۔ و"اِن لِي
حُوْبَةٌ اِجْمَلْتُهَا" میرے عیال ہیں جن کی میں
کفالت کرتا ہوں۔
الْأَحْوَابُ كِي مَرْجَارُ مَوْثِ حُوْبَاءِ۔
الْحُوْبَاءُ كِي نَسْرَجُ حُوْبَاءَاتِ۔
الْمُتَّحُوْبُ وَالْمُحُوْبُ وَهُوَ فَخْصٌ جِسْ كَا
مَالٍ ضَائِعٌ يُوْجَأُ يَجْمُرُ لِي جَائِعٌ۔
حَات (ن) حُوْتًا حُوْتَانًا۔ الطير او
الوَحْشِ عَلِي الشَّيْءِ نَسْرَجًا۔
حَاوْتَةً كِي رُوْفِيْبٌ سَ كَامٍ لِيْنَا۔ دھوکا دینا ہ
عن كَذَا نِدْرَاعَتِ كَرْنَا۔
الْحُوْتُ كِي مَجْمَلٌ۔ عموماً بڑی مَجْمَلِ پَر اِطْلَاقِ
ہوتا ہے۔ ج حَيْتَانُ وَ أَحْوَاتُ وَ حَوْتَةٌ
آسْمَانِ كِي اِيْكَ بَرَجِ كَاتَامِ۔
الْحُوْتَاءُ كِي مَوْتِي كَرُوَالِي عَوْرَتِ۔
أَحَاتٌ اِحَاتَةٌ۔ الارضُ تَزِيْمٌ كُوْدُ كَرَالْتَا
يَلْتَا الشَّيْءُ كِي نَاكَلًا۔ کہا جاتا ہے "تَرَكْهُمْ
(حُوْتٌ بُوْتٌ اُوْحُوْتٌ بِيْنَتْ اُوْحَاتٌ
بَاتٌ اُو حُوْتًا بُوْتًا" یعنی اس نے ان کو
متفرق چھوڑا۔
الْحُوْتَاءُ كِي جَرُ اور اس کے آس پاس کے
حصے۔ مَوْتِي عَوْرَتِ۔
الْحُوْتُ كِي جَرُ كِي رُكْ۔
حَاَج (ن) حُوْجًا كِي مَتَاجِ ہونا۔
حُوْجٌ كِي عَنِ الشَّيْءِ كِي شَيْ كِي وَجْهٍ
كِي سَ ہٹ جانا۔
أَحُوْجٌ كِي اَلِيْبَةِ كِي مَتَاجِ ہونا ہ : مَتَاجِ ہونا۔
تَحُوْجٌ كِي حَاجَتِ طَلْبِ كَرْنَا۔ کہا جاتا ہے
"خَرَجَ فُلَانٌ يَتَحُوْجُ" فلاں حاجت طلب

كَمَا نَائِي۔
حَنَانٌ (ن) حُوْرًا وَاحْسِي عَلَيْهِ نَائِلٌ
ہونا۔
حَتَّى تَحْيِيَّةً الشَّيْءِ مَوْثًا۔
تَحْتِي اِيْزِهَا ہونا عَلَيْهِ مَہْرَبَائِي كَرْنَا۔
اِنْحَسِي اِيْزِهَا ہونا۔ مَوْثًا۔
الْحَائِيَّةُ ج الحوانى و (الحاناة)
والحانوت كِي كَان۔ مَالِكٌ ذِكَان۔ الْحَائِيَّةُ:
كَبْرِي جِسْ كِي مَرْدُنٌ بَغِيْرُ كِي عِلْتِ كِي مَرْي
ہوئی ہو۔
الْحَانُوِي وَالْحَانِي سَب سَ لِي پِئِي۔
الْحَائِيَّةُ شَرَابٌ۔ الْحَانِي كَا مَوْثٌ۔
شَرَابٌ يَجْمَعُ وَابِلٌ۔
الْحِنُو وَالْحَنُو بَدَنٌ كَا بَرُوْهٌ حَصَّةٌ جِسْ مِيں
كَمِي ہُو يِيسَ پِئِي۔ ہر اِيْزِ حِي كَلُوِي۔ جِنُو
الشَّيْءِ نِيْزِ كَا پِئِي۔ وَجِنُو السَّرْجِ زِيْنِ كَا اَكْلًا
اور چھپلا حَصَّةٌ جِ اِحْنَاءٌ وَ حِنِي وَ حِنِي
وَ اِحْنَاءُ الْأُمُوْدِ تَشَابِهَاتِ اُمُوْر۔
الْحَيِيَّةُ كَمَا۔ مِيْنِ الْبِنَاءِ كِي مَانِدٌ
ثَم دَارِ جِ حَنَائِي وَ حِنِي۔
الْأَحْنِي كِي بَرَا مَوْثِ حِنُوَاءِ كِي جَا تَا ہ
"فَلَانٌ اِحْسِي النَّاسِ ضَلُوْعًا عَلِيْكَ"
فلاں تمہارے اوپر لوگوں میں بہت مہربان
ہے۔
الْمَحْيِيَّةُ وَالْمَحْنُوَّةُ وَالْمَحْنَاءَةُ ج
مَحَانٌ بُوَالِي كَا مَوْثٌ۔
الْمُنْحَنِي وَالِي كَا مَوْثٌ۔
حَاب (ن) حُوْبًا وَ حُوْبِيًا وَ حُوْبَةٌ وَ
حَابًا وَ حِيَابَةٌ كِي كَذَا كِي مَرْجَارُ ہونا۔
أَحُوْبٌ اِحْوَابًا كِي مَانِ كِي طَرَفِ مَالِكِ ہونا۔
تَحُوْبٌ كِي مَانِ سَ پِئِي مَانِ رُوْدِ مَنِدِ ہونا فِئِي
دَعَانَةً كِي مَرْجَارُ كَرُوْعَا كَرْنَا۔
اِسْتَحُوْبٌ رُوْدِ مَنِدِ ہونا۔
الْحُوْبُ وَالْحُوْبُ وَ حُوْبٌ غَمٌ وَ حَشْتٌ
(الْحُوْبُ وَالْحُوْبُ وَالْحُوْبَةُ وَالْحَابُ
وَ الْحَابَةُ كِي مَانِ۔
الْحُوْبَةُ نَائِي پَاپِ مَانِ بِيئِي۔

كَرْنَا۔ اِحْتَقَ الرَّجُلُ نَحْتِ كِي نَہ رَكْنَا۔
اِحْتَقَ مَوْثًا ہونا۔
الْحَقُّ وَالْحَقِيْقُ نَحْتِ حَصَّةٌ۔
الْحَقْفَقُ اِيْكَ قَسْمِ كَارِيْبِيَا تِيْرُ۔
حَنْكٌ (ن ض) حَنْكًا الشَّيْءِ سَمْعًا۔
(وَ اِحْتَنْكُ الفرس كِي مَوْثِي كِي مَنِ مِيں
رِشِي كَانَا)۔
حَنْكٌ وَ حَنْكٌ كِي اَرْزَمِ ہونا۔
حَنْكٌ (ن ض) حَنْكًا وَ حَنْكًا وَ حَنْكٌ
وَ اِحْتَنْكُ الدَّهْرُ الرَّجُلِ:
تَا تَجْرِيْبَ كَارِ ہونا۔ صَفْتِ (حَنِيكِ ج)
حَنْكٌ حَنْكٌ الصَّبِيءِ مَنْدِبِ ہونا۔
تَحَنْكُ كِي مَوْثِي كِي مَنِ سَ لِي پِئِي
پَا ہونا۔
اِحْتَنْكُ الْجَرَادُ الارضُ كَمَا كَرِصَانِ
كِرِيْنَا۔ اِحْتَنْكَةُ نَائِلِ ہونا۔
اِسْتَحَنْكُ كَمِ خُوْرَا كِي بَعْدِ زِيَادَةِ خُوْرَا كِ
وَ اَلِہُوْنَا۔
الْحَانِكُ فَا اَسُوْدٌ حَانِكٌ نَحْتِ سِلَا۔
الْحَنْكُ وَالْحِنْكُ وَالْحَنْكَةُ تَجْرِيْبُ۔
الْحَنْكُ سِلَا۔ شُوْرِي۔ حَنْكُ الْفَرَا ب:
كُوِي كِي چُوْجِ يَا اِسْ كِي سَائِي۔ كِي جَا تَا ہ
"اَسُوْدٌ مِيْنِ حَنْكِ الْفَرَا بِ كُوِي كِي چُوْجِ
سَ كَالَا۔ جِ اِحْتَنْكُ۔ الْحَنْكُ: وَہ لُوْگِ جُو
كِي دُو سَرِي جِلْدِ چَا ہ كِي مَلَا شِ مِيں جَائِيں۔
چھوٹے ٹیلے جہاں کے پتھر سفید اور نرم ہوں۔
وَ اِحْتَنْكَةُ (حَنْكَةُ)
الْحَنْكُ كِي مَنِدِ تَجْرِيْبِ كَارِ مَرْدِ مَوْثِ
حَنْكَةُ۔
الْحِنَا كِي جِ حُنْكَ وَ (الْمِحْنَكُ)
الْمِحْنَكُ تَجْرِيْبِ كَارِ۔
حَنْكَلٌ فِئِي الشَّيْءِ كِي مَرِ اِبْرِي سَ چَلْنَا۔
آہستہ چلنا۔
الْحَنْكَلِيْسُ اِيْكَ قَسْمِ كِي مَجْمَلِ۔ فَصْحِ عَرَبِي
الْجَوِيءِ ہے۔
حَنْلٌ (ن) حَنْوًا وَ حَنِي (ن ض) جِنَائِيًا۔
الشَّيْءِ مَوْثًا۔ حَنَا الْحَيِيَّةُ اِي الْقُوْسِ:

کرنے کے لیے نکلا۔

إِحْتِاجَ إِلَيْهِ: محتاج ہونا۔

الْحَاجُّ: ایک قسم کا کتا۔ ایک قسم کا ترش پودہ۔

الْحَوْجُ: س۔ سلامتی۔ کہا جاتا ہے ”حَوْجًا لَكَ“، یعنی تمہارے لیے سلامتی ہو۔
الْحَوْجُ: فقر و فاقہ۔

الْحَوْجَاءُ: حاجت، ضرورت۔ اور اسی سے ہے۔ مَا كَانَ فِي نَفْسِهِ حَوْجَاءً وَلَا لَوْجَاءً وَبِالتَّصْغِيرِ حَوْجِيَاءً وَلَا لَوْجِيَاءً“ یعنی اسے کوئی حاجت نہیں۔ ”و

كَلِمَتُهُ فَمَا رَدَّ حَوْجَاءً وَلَا لَوْجَاءً“ میں نے اس سے گفتگو کی اس نے ہمتا بڑا کوئی جواب نہیں دیا۔

الْحَاجَّةُ: ضرورت۔ سوال۔ حَاجٍ وَ حَوْجٍ وَ حَاجَاتٍ وَ حَوَائِجٍ: آخری جمع حاجت کی تقدیر پر ہے۔ مبالغہ کی غرض سے حَاجَّةٌ حَاجِيَةٌ کہا جاتا ہے۔

المحوائج: محتاج لوگ۔

حَادٌ (ن) حَوْدًا: عنہ: ہٹ جانا۔

حَاوَدْتُهُ: الضمى: بخار کا بار بار آنا۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ يَحَاوِدُنَا بِالزِّيَارَةِ“، وہ ہم لوگوں کے پاس ملاقات کے لیے بار بار آتا ہے۔

حَادَةٌ (ن) حَوْدًا: حفاظت کرنا۔

عَلَى الشَّيْءِ: نگہبانی کرنا (وَأَحْوَدٌ) الدبابة: تیز ہانکا۔ أَحْوَدٌ ثوبه: کپڑے سینکنا أَحْوَدُ السَّيْرُ: تیز چلنا۔ أَحْوَدُ الشَّاعِرُ قَصِيدَةً: عمدہ قصیدہ کہنا۔

إِسْتَحْوَدَ: علیہ: غالب ہونا۔

الْحَادُ: ایک قسم کا درخت۔ واحد (الحادَة) حَاحَادٍ: پیٹھ۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ خَفِيفٌ الْحَادُ“ وہ تھوڑے مال والا ہے۔

الْحَوَادُ: ڈوری۔ جدائی۔

الْحَوْدَانُ: ایک خوش مزہ نباتات کا نام جس کا پھول سرخ رنگ کا اور اس کی جڑ میں زردی ہوتی ہے۔

الْأَحْوَدِيُّ: ماہر۔ ہر کام میں چست و

پھر بیٹلا۔

الْحَوْذِيُّ: کوچوان۔ گاڑی بان۔ عوام العزبھی کہتے ہیں۔

حَاوَزٌ (ن) حَوَازًا وَ حَوَازًا وَ مَحَاوَزًا وَ مَحَاوَزَةً: لوٹنا۔ بتبیر ہونا (حورا) الثوب دھونا۔ سفید کرنا۔ حَاوَزَ الشَّيْءُ: مندا پڑنا۔ کہا جاتا ہے ”حَاوَزَ بَعْدَ مَا كَانَتْ“ زیادہ ہونے کے بعد گھٹ گیا۔ (نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكُحُورِ“ ہم زیادتی کے بعد نقصان سے اللہ کی پناہ لیتے ہیں۔

حَوْرَتٌ (س) حَوْرًا: العین: سفیدی اور سیاہی کا بہت سفید وسیہ ہونا۔ صفت (حوراء) حَوْرٌ: القرض: بیلن سے بیلنا الثوب: سفید کرنا ہ اللہ: محروم کرنا۔

حَاوَرَهُ مَحَاوَرَةً وَ حَوَارًا وَ حَوَارًا: گفتگو کرنا۔ جواب دینا۔ أَحَارَ إِحَارَةً: الجواب: جواب دینا۔ اور اسی سے ہے ”لَمْ يُحَوِّرْ حَوَارِيًّا“

اس نے جواب نہیں دیا۔ اور کہا جاتا ہے ”طَحَنَتِ الطَّاحِنَةُ فَمَا أَحَارَتْ شَيْئًا“ چکی پیسنے والی نے چکی پیسا اور آٹا کچھ بھی نہیں دیا۔ أَحَارَتِ النَّاقَةُ: بچنے والی ہونا۔ أَحَارَ البعيرُ: ذبح کرنا۔

تَحَاوَرَ: القوم: ایک دوسرے سے گفتگو کرنا۔ ایک دوسرے کو جواب دینا۔

إِخْوَرًا: إِخْوَرًا: سفید ہونا۔ إِخْوَرَتِ العَيْنُ: بہت سیاہی اور سفیدی والی ہونا۔

إِسْتَحَارَهُ: گفتگو کرنا۔

الْحَوْرُ: ہلاکت۔ کمی۔ کہا جاتا ہے ”إِنَّهُ فِي حَوْرٍ وَبُؤْرٍ“ یعنی وہ نہ تو کسی صنعت میں ہے اور نہ کسی قسم کی آمدنی میں۔

الْحَوْرُ: گہرائی۔ کہا جاتا ہے ”بَعْدُ الْحَوْرِ“ یعنی عقلمند۔ وَمَا أَصْبَتْ حَوْرًا مِثْلَ نَجْمٍ نہیں پایا۔

الْحَوْرُ: س۔ سفید پتلے چیزے۔ سرخ رنگا ہوا چیزہ۔ گائے۔ ایک مشہور درخت جس کے گوند سے کھرباہ تیار ہوتا ہے۔ حِجَاحُورُ:

الْحَوَارُ وَ الْجَوَارُ: اُونٹنی کا بچہ جس کا دودھ

ایک نہ چھڑایا گیا ہو۔ حِجَاحُورَةُ وَ حِجِرَانُ: الحارة: گول چوک۔ محلہ۔ کہا جاتا ہے ”نَزَلْنَا فِي حَارَةِ قَبِيْلَةِ فَلَانٍ“ ہم لوگ بنو فلان کے محلہ میں آئے۔

الْحَانِ: فالانغر۔ ڈبلا پتلا۔

الْحَائِرَةُ: الحائِرُ كَأَمُونْتِ: کہا جاتا ہے ”مَا هُوَ الْإِحَائِرَةُ مِنَ الْحَوَائِرِ“ یعنی اس کے اندر کوئی خیر و برکت نہیں۔

الْأَحْوَرِيُّ: سفید نازک۔

الْحَوَارِيُّ: میدہ۔ کھریا مٹی۔ ہر وہ چیز جس سے سفیدی کی جائے۔

الْحَوَارِيُّ: نصیحت کرنے والا۔ خیر خواہ۔ دھولی۔ رشید دار۔ مددگار۔ اور بقول بعض انبیاء (علیہم السلام) کے مددگار اور اسی سے ہے

(الْحَوَارِيُّونَ) سَيِّدُنَا عِيسَى عَلِيُّ نَبِيِّنَا وَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ کے انصار و اعوان۔

الْحَوَارِيَّةُ: الحَوَارِيُّ كَأَمُونْتِ: شہری عورت حَوَارِيَّاتُ:

المحور: وہ لکڑی یا لوہا جس پر چرخی گھومتی ہے۔ المحور في الهندسة: علم ہندسہ کی اصطلاح میں وہ سیدھا خط جو کرہ کے دونوں قطبین کے درمیان ہوتا ہے۔

المحور: روٹی پکانے والے کا بیلن۔ وہ لکڑا جس پر کوئی چیز گھومے۔ حِجَاحُورُ: کہا جاتا ہے ”فَلَقْتُ مَحَاوِرَهُ“ یعنی اس کا معاملہ بگڑ گیا۔

المحارة: واپسی۔ کمی۔ لوٹنے کی جگہ۔ اُونٹ کا کھر۔ تالا۔ ہر وہ بڑی جو پٹی کی مانند ہو۔ محارة الاذن:

کان کا گڑھا۔

المحورة والمخورة: جواب۔ حُفٌّ (مُحَوَّرٌ) موزہ جس کا سرخ پڑے کا ہو۔

حَاوَزٌ (ن) حَوَازًا وَ حِجَارَةً وَ إِخْتِيارًا: الشَّيْءُ: اٹھا کرنا۔ جمع کرنا۔

الاجل: نرمی سے ہانکا (حَاوَزَ حَوْرًا) الرجل: نرم چلنا۔

حَوْزٌ تَحْوِيزًا. الابل: پانی کی طرف لیلۃ الحوز میں اُونٹوں کو ہانکنا (دیکھئے لیلۃ الحوز)

حَاوِزَةٌ مُحَاوِزَةٌ. باہم زندگی بسر کرنا۔ میل ملاپ کرنا۔ روندنا۔ ایک دوسرے کو دھکارنا۔

تَحَوَّزٌ. علیہہ ہونا الحیۃ: کڈلی مارنا۔ کہا جاتے "دَخَلَ عَلَيْهِ فَمَا تَحَوَّزَ لَهُ" وہ اس کے پاس آیا اور اس کے لیے علیہہ نہیں ہوا۔

تَحَاوَزَ. الفریقان: ایک دوسرے سے علیہہ ہونا۔

اِنْحَازٌ اِنْحِيزًا. عنہ: ہٹ جانا الیہ: مائل ہونا القوم: مرکز کو چھوڑ دینا۔ شکست کھانا۔

الحوزة: گوشہ، کنارہ، طبیعت۔ حوزة المملکة: ایک مملکت کی سرحدوں کا درمیانی حصہ۔

الحوز: وہ جگہ جس کے ارد گرد پودا وغیرہ کھڑی ہو۔ حوز الدار: مکان کے منافع جو اس کے ساتھ وابستہ ہوں۔ لیلۃ الحوز: پانی کی طرف اُونٹوں کے جانے کی پہلی رات۔

الحوزی: اُونٹ کا ہانکنے والا۔ قوم سے علیہہ ہو کر تہاارتے والا۔ کالا۔

الحیز والحیز: جگہ۔ کہا جاتا ہے "هذا فی حیز التواتر" یعنی یہ چیز تواتر سے ثابت ہے۔

الحوزاء: لڑائی۔ الحویزاء: ساتھیوں سے پوشیدہ رکھا ہوا ذخیرہ۔

الاحوزی: ماہر۔ ہر کام میں پھرتیلا۔ بہتر کار گزار۔

الحواز: الحائز کا مبالغہ۔ اور اسی سے ہے "الائم حواز القلوب" گناہ دلوں پر غالب آنے والا ہے یہاں تک کہ آدم غیر پسندیدہ کام کر بیٹھتا ہے۔

الحواز: بڑے بڑے گہریلے۔ حاس (ن) حوئسا: القوم: میل ملاپ کرنا۔ روندنا۔ ذلیل کرنا الذئب الغنم:

درمیان میں آکر پراگندہ کرنا۔ حاست المرأة ذیلها: دامن کھینچتے ہوئے چلنا۔ الجواز الاحاب: قصائی کا کھال کو اتارنا۔

حوص (ن) حوصا: دلیر و بہادر ہونا۔ صفت (أحوص)

تَحَوَّسَ. دلیری دکھانا فی الکلام: گفتگو کیلئے تیار ہونالشی: دردمند ہونا۔

اِسْتَحَوَّسَ اِسْتَحَوَّاسًا. زکنا۔ دلیر کرنا۔ الاحوص: دلیر و بہادر۔ وہ شخص جو اپنی جگہ سے جدا نہ ہو جب تک کہ اپنی حاجت پوری نہ کر لے۔ بھیریا۔ ن حوص

الحووس: لوگوں کو بہت قتل کرنے والا۔ بہادر۔

الحواسة: قیمت۔ حاجت (والحوئساء) قربت۔ رشتہ داری۔

حاش (ن) حوئسا: الابل: جمع کر کے ہانکنا واحاش) احاشة واحوش احواشا و استحوش استحواشا) الصيد: گھیر کر پھندے کی طرف لانا۔ حاش واحوش واحاش علیہ الصيد و احوشہ اياه: شکار کرنے میں مدد کرنا۔

حوشہ: بہت جمع کرنا۔ حوش الرجل: دلیری دکھانا، تیاری کرنا۔

حَاوِشَةٌ. علی الامر: آسانا۔ برا بھانتہ کرنا۔

تَحَوَّسَ. عنہ: علیہہ ہونالمنہ: شرم کرنا المرأة من زوجها: بیوہ ہونا۔

انحاش: اکٹھا ہونا عنہ: بھاگنا۔ بدکنالہ الصيد: شکار کا خود آنا۔

تَحَاوَسُوا. علیہ: اپنے درمیان میں کر لینا۔

اِحْتَوَسَ. القوم الصيد: قوم کا شکار کو ایک دوسرے کی طرف بدکانا۔ اِحْتَوَسَ القوم الرجل و علیہ: گھیر لینا اور اپنے درمیان میں کر لینا۔

الحوش: بازہ کے مشابہ گھر کے ارد گرد۔ الحواشہ: باعث شرم۔ رشتہ داری۔ ایسا

کام جس میں گناہ و قطع رحمی ہو۔

الحائش: فا. حائش الشجر: درخت کا گنجان حصہ۔ رجل (حوش) الفؤاد: ذکی و تیز فہم مرد۔

الحوئشی: من الکلام: نادر و غریب کلام رجل حوئشی: لوگوں سے نہ ملنے والا۔ لیل حوئشی: تاریک رات۔

حاص (ن) حوصا و حیاصہ: الثوب: دُور دُور بینا۔ حوئہ منڈلانا بینہما: تنگ کرنا۔

حوص (ن) حوصا تنگ گوشہ چشم والا ہونا۔ صفت (أحوص) مؤنث حوصاء نج حوص و آحوص

حَاوِصَةٌ. چپکے سے گوشہ چشم سے دیکھنا۔ اِحْتِصَ اِحْتِصَاً. فی امرہ: احتیاط کرنا۔

الحوص: سر۔ پیٹ کا مروڑ۔ کہا جاتا ہے "لا طعن فی حوصک" جو تم نے سایہ اُس کو میں اُدھیر دوں گا اور جس کو تم نے درست کیا ہے اُس کو بگاڑ دوں گا۔ "وما طعن فی حوصہ" تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا۔ "دخل فی حوص الناس" وہ لوگوں کے باطن امور میں داخل ہوا۔

الحیاصہ: جانور کا تنگ۔ الحواص: لکڑی کی سوئی۔

الحوص: چھوٹی آنکھیں۔ حوصل: الطائر: پونا بھرتا الحنطة: اکٹھا کرنا۔

الحوصل والحوصلۃ والحوصلۃ والحوصلۃ: الحوصلۃ: پرندہ کا پونا۔

حاص (ن) حوصا: حوص بنانا الماء: جمع کرنا۔

حوص: حوص بنانا حول الامر: گھومنا زچکر لگانا۔

احفاص و تحوص: حوص بنانا۔ استحووص: الماء: حوص کے مشابہ گڑھے میں جمع ہونا۔

حوقہ۔ مؤنث حانکة و حانک ج حانکات و حوانک کہا جاتا ہے "حَاكُ الشَّاعِرُ الْقَبِيْذَةُ" شاعر نے قصیدہ بنایا۔ "وَحَاكُ النَّبِيُّ فِيْ صَدْرِيْ" فلاں چیز میرے دل میں جم گئی۔

ما (احاڪ سيفه: نہ کاٹنا۔ کہا جاتا ہے "ضربه فدا احاك فيه سيفه" اس نے اُسے مارا تلوار نے کوئی اثر نہیں کیا۔) یہ ہمیشہ نفی ہی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے

الحوك: جنگلی تلسی۔ کہا جاتا ہے "هذا علي حوك دلدل" یہ بیت و شکل و عمر میں اس کی مانند ہے۔

المحاككة: کارگہ۔ کھڑی۔ المحوكة: لڑائی۔ جنگ۔

حال (ن) حولا و حوولا: الشئ: ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا الحول: گزرتا اور پورا ہونا۔ کہا جاتا ہے "حالت الدر و حبل بها" گھر بہت سے سال گزرے علیہ الحول: پورا سال گزرتا۔ القون: کج ہونا العهد: پلٹ جانا الی مکان آخر: منتقل ہونا فی ظہر الدابة: جانور کی پیٹھ پر نور کر چرمانا الشخص: متحرک ہونا۔ (حيلة و محالا) جیلہ کرنا۔

(حوولا و حوالا) الانثی: حاملہ نہ ہونا النخلة: نانہ سے چمکدار ہونا۔ (حولا و حوولا و حموله) درمیان میں حائل ہونا۔ حوالت (س) حولا عینہ: جھٹکی ہونا۔ حولة تحولا: ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا۔ زائل کرنا۔ حولة الیہ: پلٹ دینا۔ حول الرجل: منتقل ہونا۔ حول الارض: ایک سال کے نانہ سے کاشت کرنا الشئ: محال بنانا (وآحال) العین: بھیجا کرنا۔

حاوله محارلة و حوالا: جیلہ سے طلب کرنا لہ البص: حیر کرنا الشئ: ارادہ کرنا اور جیلہ سے طلب کرنا۔

الحايط: فا۔ دیوار۔ باغ۔ ج حیطان و حیاط۔

الحواط: حائط اسم قائل کا مبالغہ۔ حواط: الامر کسی کام کا مدار۔ الحواطة: عکدہ کی حفاظت کے لیے بنی ہوئی جگہ۔

المحاط: وہ جگہ جو قوم کے یا جانوروں کے پیچھے ہو اور جہاں ان کی حفاظت ہو۔

المحيط: فا۔ وہ خط جو دائرہ کا احاطہ کئے ہوئے ہو۔ البحر المحيط: بحر اوقیانوس جو ہر طرف سے خشکی سے گھرا ہوا ہے۔

حاف (ن) حوفا و حوفا الشئ: کنارہ پر کرنا۔ حوفا المكان: تحوفا الشئ: کناروں سے کم کرنا۔ کنارہ کو پکڑنا۔

الحوفا: سر۔ ازار کی مانند چیزے کی ایک چیز جس کو بچے پہنتے ہیں۔ جانب۔ کنارہ۔ گوشہ۔ الحواف: زبان کے نیچے سبز رنگ کی دو رگیں۔

الحافة: جانب۔ کنارہ۔ شدت۔ حاجت۔ ج حافات و حيف: حافنا الوادی و نحوہ: وادی کے دونوں کنارے۔

حاق (ن) حوقا: البیت: جھاڑو دینا الشئ: رگڑ کر چکنا کرنا۔ بہ۔ احاط کرنا۔ حوق: علیہ مجرور گفتگو کرنا۔ الحوق و الحوقة: بڑی جماعت۔ الحوق: گھیرا۔ چوکھا۔ الحوافة: کوڑا کرکٹ۔ سامان۔

المحوقة: جھاڑو۔ ج محواف: حوقل حوقلة و حوقلا: چلنے سے تھکنا۔ کزور بڑھا ہونا الشیخ: چلنے میں کمر پر ٹیک لگانا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم کہنا۔

الحوقل: عمر رسیدہ بڑھا۔ الحوقلة: سر۔ لمبی گردن کی شیشی۔ حاك (ن) حوکا و حیاکا و حیاكة الثوب: بنا۔ صفت (حانک) ج حاکة و

الحوض: پانی جمع ہونے کی جگہ۔ ج أخواض و حیاض و حیضان: حوض الأذن: نہان کا گڑھا۔

المحوض: درخت کے ارد گرد پانی کا گڑھا۔ تھا۔

حاطة (ن) حوطا و حیطة و حیاطة: حفاظت کرنا۔ تمہائی کرنا۔ بہ۔ گھیر لینا۔ احاط کرنا۔ حوطہ: حفاظت کرنا۔ تمہائی کرنا۔

الساحة: مگرد ارد گرد دیوار بنانا الحانط: دیوار بنانا حوال الامر: گھومنا۔ پکر لگانا۔ حاطة: کسی سے کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے کہ جس کے دینے سے وہ انکار کر رہا ہو پیچھے پڑنا اور اس کے گرد پکر لگانا۔

أحاط و احتاط: بہ۔ گھیرنا۔ احاط کرنا۔ کہا جاتا ہے "أحاط به علما" اس نے پورے طریقے سے علم حاصل کیا۔ احتاط الرجل: ہوش و حواس سے کام کرنا۔ احتاط علی الشئ: محافظت کرنا۔ احتاط لنفسه: محروسہ کے ساتھ لینا۔

تحوطہ: حفاظت کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ "فلان یتحوط أخاه حیطة حسنة" فلاں اپنے بھائی کی بہت اچھے طریقے سے حفاظت کرتا ہے۔

استحاط: فی أمره او تجارتہ: احتیاط کرنے میں مبالغہ کرنا۔ الحوطة و الحیطة و الحیطة: احتیاط کا اسم۔ الحیطة: پاکدامن شریف عورت۔ الحوط: سر۔ چاندی وغیرہ کا بنا ہوا چاندی ہلالی شکل کا۔ سیاہ و سفید دونوں کا دھاگا کہ جس میں مہرے یا کوڑی وغیرہ پرو کر نظر بد سے بچنے کے لیے عورتیں کمر باندھتی ہیں۔ الحوط: وہ چیز جس سے دراہم کے نقصان کو پورا کریں۔

الاحوط: بہت احتیاط کرنے والا۔ قابل اعتماد۔ (اور یہ شاذ ہے اس لیے کہ احتیاط سے ماخوذ ہے۔)

آمال۔ اللہ الحول: پر اکرنا بالمکان:
 ایک سال قیام کرنا الرجل: مجال بات کہنا
 الشی: چند سال گزرتا۔ احوال العزیم
 بدینہ علی آخر: قرض کو دوسرے کے
 حوالہ کرنا۔ صفت فاعلی (مُحَوِّل) صفت
 مفعولی (مُحَال) اور دوسرے فریم کو
 (مُحَال علیہ) مال کو (مُحَال بہ) اور اس
 فعل کو (الحوالۃ) کہتے ہیں۔ احوال عینہ:
 بیعتی کر دینا۔ احوال علیہ الماء من الدلو:
 اُٹھانا۔ کہا جاتا ہے "احوال علیہ باله موط
 یضربہ" وہ اس کو کوڑے سے مارنے پر متوجہ
 ہوا۔ احوال فی ظہر الدابة: کوڑ کر سوار
 ہونا۔ احوال الامر علی فلان: کسی پر کسی
 کام کو منحصر کر دینا۔
 احوال الصبی: یک سالہ ہونا اور کہا جاتا
 ہے "ما احوالہ وما احوالہ" وہ کتنا بڑا چیلہ
 ساز ہے۔ "وهو احوال منک وخیل
 منک" وہ تم سے زیادہ چیلہ گرے۔
 تحوّل: عنہ: پھر جانا الرجل: ایک جگہ
 سے دوسری جگہ منتقل ہونا فی الامر: چیلہ و
 کرے کام کرنا۔
 احوال احوالاً: چیلہ کرنا الشی: ایک
 سال کا ہونا علیہ بالذین: دوسرے کے ذمہ
 ڈالنا۔
 احوالہ القوم: گھیر لینا۔
 احوالت عینہ: بیعتی ہونا۔
 احوالت الارض: سرسبز ہونا اور ہموار
 آئنا۔
 استحالة استحالة: ایک حال سے دوسری
 حالت کی طرف بدلنا۔ مجال ہونا القوس:
 درستی کے بعد کج ہونا فلان الشی: کسی چیز
 کی طرف دیکھنا کہ آیا اس میں حرکت ہے یا
 نہیں۔
 احوالی: سب سے زیادہ طویل پھیلیں اس
 واسطے کہ ان میں میز چاہن ہوتا ہے۔
 احوضیة: پھول کا نام جو کہ بڑے جسم والا
 متعدد رنگوں والا ایک ستارہ کی شکل پر ہوتا ہے۔

الحوالۃ: ایک شخص کی طرف سے دوسرا قرض
 کی ادائیگی کرے۔ اس کی کئی اقسام ہیں۔
 (۱) حوالۃ برقیۃ: منی آرڈر (۲) حوالۃ
 مصرفیۃ: بینک ڈرافٹ۔ (۳) حوالۃ برقیۃ:
 ٹیلی گراف منی آرڈر۔ (۴) الحوالۃ
 المسطرة: کراس چیک (۵) الحوالۃ
 المعتمده (۵) ایل۔ سی چیک طرفین کے
 اعتماد کے بغیر رقم نہ لے۔ (۶) للموقعۃ علی
 بیاض: بلیک چیک۔
 احوال: کیفیت۔ بہت۔ صفت (مذکر و
 مؤنث) گرم راکھ۔ کالی مٹی۔ حال متن
 الفرس: گھوڑے کی پشت کا درمیان۔ ج
 احوال و احوالۃ
 حالۃ الشی: کیفیت۔ حالت۔ ج
 حالات۔ حالات الدھر: زمانہ کی
 گردشیں۔
 احوال: سر۔ قدرت۔ کہا جاتا ہے "لا
 حوال ولا قوہ الا باللہ" یعنی نہ تو حرکت
 ہے نہ قوت ہے مگر اللہ تعالیٰ کی مشیت سے۔
 ہوشیاری۔ دور بینی۔ سال۔ ج حوول و
 احوال۔
 الحوولی: یک سالہ بچہ۔ ج حوولیات۔ اور
 اسی سے ہے "حوولیات زہیر" یعنی زہیر
 کے وہ قصائد جن کی نظم و ترتیب و تہذیب اور
 لوگوں کے سامنے پیش کرنے میں ایک سال کی
 مدت لگتی تھی۔
 الحوول: ہوشیاری۔ دور بینی۔ قدرت،
 تصرف زوال۔ انتقال۔ کہا جاتا ہے "لا حوال
 عنہ"
 الحوول: بھیگان۔
 حوول و حوولی و حوال و حوالی
 الشیء او الشخص: گرد گرد۔ کہا جاتا
 ہے "فقد حوول و حولیہ و حوالہ و حو
 الیہ"
 الحووال والحوالان والحوالان: تغیر و
 انقلاب۔
 الحوالی وال وول والحوولی: چیلہ ساز۔

بہت سخت چیلہ گر۔
 الحووال: ہر وہ چیز جو دو چیزوں کے درمیان
 حائل ہو۔
 حیال الشیء: مقابل۔ سامنے اور کہا جاتا
 ہے "فقد کل علی حیالہ" ہر ایک علیحدہ
 علیحدہ بیٹھا۔
 الحیئلۃ والحوئلۃ: ہوشیاری۔ دور بینی۔
 تصرف کی قوت۔ ج حیئل و حوول۔
 الحوئلۃ: تعجب۔ امر منکر۔ مصیبت۔ کہا جاتا
 ہے "رجل حوئلۃ" یعنی بہت چیلہ گرد مرد۔
 "وهذه من حوئلۃ الدھر" یہ عجائبات زمانہ
 سے ہے۔
 الحوول: بھیگان۔ بہت چیلہ گر۔
 الحوویل: گواہ۔ ضامن۔
 الاحوول: بھیگان۔ مؤنث حوولاء۔ ج
 حوول۔
 الحوائل: فا۔ رنگ بدلا ہوا۔ یکسالہ۔ ہر وہ مادہ
 جو حاملہ نہ ہوتی ہو۔ کہا جاتا ہے "امراة حوائل
 و نخلة حوائل" ج حوول و حوول و
 حیال و حوائل۔
 الحوائلۃ: الحوائل کا مؤنث۔ چیلہ۔ کہا جاتا
 ہے "ما فیہ حوائلۃ" اس میں کوئی چیلہ نہیں۔
 المحال: مشکل۔ باطل۔ نیز۔ غیر ممکن۔
 المحوول: یک سالہ بچہ۔
 المحویل: من النساء: لڑکی کے بعد لڑکایا
 لڑکے کے بعد لڑکی جننے والی عورت۔
 المحالۃ: ہوشیاری۔ تصرف کی قدرت۔
 رہت۔ پیٹھ کا درمیان۔ ج محال و
 محاول۔ کہا جاتا ہے "لا محالۃ من
 الامر" ضروری۔ اس میں کوئی شک نہیں۔
 المحالۃ: رہت۔ بڑی چرخہ۔
 المحوال: بہت مجال باتیں کہنے والا۔
 المستحیل: بیپودہ و لغو بات۔ مہرا ہوا۔
 المستحیئلۃ والمستحالۃ من القسی: نیز
 می کمان من الارض: ایک سال یا چند
 سال چھوڑی ہوئی زمین۔
 حام (ن) حووما و حوماناً علی

الشيء و حوله: مثلانا الرجل: يما
 ہونا۔ صفت (حائِم) ح حوم۔ مؤنث
 حائِمة۔ ح حوائِم و حوم (حومًا و حيامًا
 و حوومًا) حول غرضه و عليه: طلب
 کرتا۔
 حوم۔ فی الامر: کام میں لگا رہا۔
 الحوم۔ اونٹوں کا بڑا گلد۔
 الحوم۔ شراب جو سر کو چکراوے۔
 حومة القتال او البحر او الرمل
 و غير ذلك۔ بواصة۔ حومة الموت:
 موت کا ہجوم۔
 الحومة۔ بلور۔
 حومل حوملة۔ پانی اٹھانا۔
 الحومل۔ صاب سیلاب۔ کالا بادل۔
 تحون۔ الرجل: ذلیل ہونا۔ ہلاک ہونا۔
 حوى (س) حوى و اخوى اخوواء
 و اخووى اخوواء۔ سبزی مالک یا سرفی
 مالک سیاہ ہونا۔ صفت (اخوى) مؤنث حوى
 ح حوى
 حوى (ض) حواية و حياء۔ الشئ: جمع
 کرتا۔ حواء تحوية۔ بقیعہ کرتا۔
 تحوى۔ سمنٹا گول ہونا۔ الحية۔ کنڈلی
 مارنا۔ الشئ۔ بقیعہ کرتا۔
 احتوى احتواء۔ الشئ و عليه: جمع
 کرتا۔
 الحواى۔ فا۔ سانپ کا متر کرنے والا۔
 مؤنث حاوية ح حاويات و حواو۔
 الحواياء۔ سمٹی ہوئی آنتیں ح حاویات
 و حواو۔
 الحواء و الحواة آواز۔
 الحوى۔ استحقاق کے بعد مالک ہونے والا
 چھوٹا حوض۔
 الحواء۔ قریب قریب گھروں کا مجموعہ۔ ح
 اخوية۔
 الحوية۔ الحوى کا مؤنث۔ بھٹی ہوئی
 آنتیں۔ چھوٹا حوض۔ کبیل کہ جس میں گھاس
 بھوسہ وغیرہ بھڑکے اونٹوں کے کوہان کے

ارد گرد رکھتے ہیں۔ ح۔ حوايا۔ اور اسی سے
 مثل ہے "المنأ یا علی الحوايا" اس
 شخص کیلئے جو موت کو خود ہی تلاش کرے۔
 الحواء۔ سانچوں کا جمع کرنے والا۔
 حيث۔ ظرف مکان۔ بنی برضہ۔ اور کہا جاتا
 ہے من هذه (الحينية) یعنی اس اعتبار
 ہے۔ اور کبھی حيث زمان کے لیے بھی
 استعمال ہوتا ہے۔
 حاح (ض) ححاحا۔ محتاج ہونا۔
 احاح و احيح۔ مکان: کانٹے اگانا۔
 الحاح۔ کانٹا۔ ایک قسم کا ترش پودہ۔
 حاد (ض) حیدا و حيدانا و مچیدا و
 حيدة و حيوذا و حيدودة۔ عن
 الطريق: الگ ہونا۔ ہٹ جانا۔
 حيدة۔ گرہ پر کر دینا۔ حيد السيز: تسمہ
 میں گرہ لگانا۔
 حابد محابدة و حيااد۔ علیحدہ ہونا۔
 الحيد۔ چیز کا اٹھرا ہوا حصہ۔ پہاڑ کا ٹکڑا ہوا
 کنارہ۔ پہاڑی بکرے کے سینگ کی گرہ۔ ح
 حيوذ و حيد و احياد (والحيد) مثل و
 نظیر۔
 الحيدة۔ پہاڑی بکرے کے سینگ کی گرہ۔
 الحيدى۔ منکبر کی چال۔
 الحيدان۔ کنکری جو جانور کے چلنے سے
 اڑے۔
 المحيد۔ حاد کا اسم ظرف۔
 حار (س) حيرا و حيرة و حيرانا و
 حيرا الماء: پانی کا اس طرح آنا جانا کہ یہ نہ
 معلوم ہو کہ کیسے جاری ہے۔ الرجل: چکا
 چوند ہونا۔ راستہ گم کرنا۔ فی امرہ: حیران
 ہونا۔ صفت (حيران) مؤنث حيرى ح
 حيارى و حيارى۔
 حيرة۔ حیرانی میں ڈالنا۔
 تحير۔ الماء: بمعنی حار الماء۔
 المكان بالماء: بھر جانا (واستحار)
 حیرانی میں پڑنا۔ استحار المكان
 وبالمكان: چند دن کے لیے اترنا

السحاب: کسی جانب میں متوجہ نہ ہونا۔
 الحير حمى بارغ۔
 الحير والحير۔ بہت ال مال۔ کہا جاتا ہے
 "لا آت حير ذهر" میں اُس کے پاس کبھی
 نہیں آؤں گا۔
 الحارذ۔ محلہ۔
 الحابر۔ فاء۔ پانی جمع ہونے کی جگہ۔ بلند
 کناروں والی نشیبی جگہ۔ ح حوران و
 حيزان
 المحارة۔ سبزی۔ ح محار۔ پانی جمع ہونے
 کی جگہ۔ المحارتان: سرین کے دونوں
 گول سرے جن سے ران کے سرے ملے
 ہوئے ہیں۔
 المخير۔ بہت حیران۔
 المتحيرات۔ کواکب۔ سیارہ۔ واحد
 (متحيره)
 المستحير۔ فا۔ وہ راستہ جو جنگل کے عرض
 میں ہو اور یہ معلوم نہ ہو کہ کہاں نکلا ہے۔
 بھاری بادل جس کے لیے ہوانہ ہو جو کہیں لے
 جائے۔
 حاز (ض) حيزا۔ الابل: ہانکنا۔
 تحير۔ الشئ: کسی ایک ہی جگہ میں منحصر
 ہونا الحنة: کنڈلی مارنا۔
 الحيز۔ دیکھنے ماہ حوز۔
 حاس (ض) حيسا: الشئ: ملانا
 الحبل: بنا (وحيس الحيس: حيس
 بنانا۔ کہا جاتا ہے "حيس حيسهم" ان کی
 ہلاکت قریب ہوئی۔
 الحيس۔ س۔ ایک قسم کا کھانا جو گھوڑ، گھی اور
 ستو سے تیار کیا جاتا ہے۔ کچا کام۔ ردی کام۔
 المحيس۔ وہ جس کے مان باپ دونوں
 غلام ہوں۔
 حاشه (ض) حيشا۔ گھبراہٹ میں ڈالنا۔
 حاش منه: گھبرانا الرجل: جلدی کرتا۔
 الوادى: راز ہونا۔
 تحيش۔ گھبرانا۔
 الحيشان۔ بہت گھبرانے والا۔

حَاَص (ض) حَيْضًا وَ حَيْضَةً وَ حَيْضًا وَ مَحِيضًا وَ حَيْضَانًا وَ اِنْحَاَصَ وَ تَحَايَصَ عَنْ كَذَا: اَلگ ہوا۔ ہٹ جانا کہتے ہیں۔ ”مَنْ حَاَصَ عَنِ الشَّرِّ سَلِمَ“ جو بُرائی سے اَلگ رہا محفوظ رہا۔ وَوَقَعَ فِي حَيْضٍ بَيْضٌ اَوْ فِي حَيْضٍ بَيْضٌ“ وہ ایسی گزری میں پڑ گیا جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔

حَالِصَةٌ: فریب دینا اور غلبہ کرنا۔
الْاَحْيِصُ: وہ شخص جس کی ایک آنکھ دوسری سے چھوٹی ہو۔

دَابَّةٌ (حَيْوُصٌ) بَدَنُكَ وَالْاَجَانُورُ۔
الْمَحِيصُ: علیحدہ ہونے کی جگہ۔ بھاگنے کی جگہ۔

الْحَيْضَاءُ وَالْمَحِيصُ: وہ عورت جس کی اندام نہانی تنگ ہو۔

حَاَصَتْ (ض) حَيْضًا وَ مَحِيضًا وَ مَحَاَصًا وَ تَحَايَصَتْ الْمَرْأَةُ: ماہواری خون جاری ہوتا۔ مَفْتُحٌ (حَائِضٌ وَ حَائِضَةٌ) رَجُ حَيْضٌ وَ حَوَائِضُ۔

حَيْضُ الْمَاءِ: پانی بہانا۔
الْحِيَاضُ: حیض کا خون۔

الْحَيْضَةُ وَالْمَحِيضَةُ: حیض کا چھتروں۔
حَيْجَلٌ الْمَوْذُونُ: حَتَّى عَلَيَّ الصَّلَاةُ حَتَّى عَلَيَّ الْفَلَاحُ کہنا۔

حَاَفَ (ض) حَيْفًا: عَلَيْهِ ظَلَمَ كَرَأَ مَفْتُحٌ (حَائِفٌ) رَجُ حَيْفٌ وَ حَيْفٌ وَ حَائِفَةٌ۔

تَحَيْفُ الشَّيْءِ: کم کرنا۔ اطراف سے گھٹانا۔
الْحَائِفُ: فَالْحَائِفُ الْجَبَلُ: پہاڑ کا کنارہ۔

الْحَيْفَةُ: گوشہ۔ کپڑے کا ٹکڑا جو تھیس کے دامن میں بیوند لگا جائے۔ شکار کے واسطے ہتھیار کا ہوا جانور۔ رَجُ حَيْفٌ

الْاَحْيِفُ مِنَ الْاَمْكِنَةِ: وہ جگہ جہاں بارش نہ ہو۔ مَوْثٌ حَيْفَاءُ۔

حَاَقَ (ض) حَيْفًا وَ حَيْفًا وَ حَيْفَانًا وَ اَحَاَقَ اِحَاَقَةً: بہ: احاطہ کرنا۔ گھیرنا۔ حَاَقَ بِهِمُ الْاَمْرُ: لازم ہونا۔ واجب ہونا۔ بِهِمُ الْعَذَابُ: نازل ہونا۔ فِيهِ السَّيْفُ: اثر کرنا۔ نِشَانُ الْوَالِدِ: اَحَاَقَ الشَّيْءُ بَكَذَا: گھیر کرنا۔ حَاَيِقُهُ مَحَابِقَةٌ: حسد کرنا۔ دشمنی کرنا۔ بَعْضُ رَهْتَانِ۔

اِحْتَاَقَ: عَلَيَّ الشَّيْءُ: احتیاط کرنا۔
الْحَقِيْقُ: بُرے نسل کی وجہ سے جو کچھ انسان کو لازم ہو۔
الْحَقِيْقُلُ: بے فیض آدمی۔

حَاَكَ (ض) حَيْكًا وَ حَيْكَانًا: منکبرانہ چال چلنا۔ مَفْتُحٌ (حَائِكٌ وَ حَيْكٌ) مَوْثٌ حَيْكَةٌ وَ حَيْكَانَةٌ وَ حَيْكِي (وَ اَحَاكُ) السَّيْفُ: کائنا السَّيْفُ اَوْ الْكَلَامُ فِيهِ: اثر کرنا۔

اِحْتَاَكَ اِحْتِيَاكًا: بِنُوبِهِ: لپٹنا۔ مَشِيئَةٌ (حَيْكِي) منکبرانہ چال۔

حَالَ (ض) حَيْوَلًا: الشَّيْءُ: بَدَلْنَا الْمَاءَ: وادی میں جمع ہونا۔

الْحَيْلُ: قُوَّةٌ۔ وادی میں جمع شدہ پانی۔ رَجُ اَحْيَالٌ وَ حَيْوٌ۔

الْاَحْيَالُ وَالْاَحْوَالُ: بہت جلد کرنے والا۔
الْحَيْلَةُ: ہوشیاری۔ دور بینی۔ تَعْرِفُ كِي قُوَّةٌ۔ رَجُ حَيْلٍ

الْحَيْلَةُ: بکریوں یا بھیڑوں کا ریوڑ۔ جلد گری۔

الْحَيْلَانُ: غلہ گاہنے کا اوزار۔

حَانَ (ض) حَيْنًا وَ حَيْنُونَةً: الشَّيْءُ: وقت قریب ہونا۔ فلان: ہلاک ہونا۔ رَجُ وَ تَكْلِفٌ مِیْنُ بَرْتَانِ: تَوْفِيقٌ سے محروم ہونا۔ حَانَ لَّهُ اَنْ يَفْعَلَ كَذَا: وقت قریب آنا۔

السَّنْبُلُ خُتْکُ ہُو کر کٹائی کا وقت قریب آنا۔
حَيْنَةٌ: وقت و میعاد مقرر کرنا اللہ فلانا: ہدایت کے لیے توفیق نہ دینا۔

حَاَيِنَهُ: وقت معین کیلئے معاملہ کرنا۔
اَحْيِنَا اَحْيَانًا: الرَّجُلُ اَوْ الشَّيْءُ: وقت آنا۔

بِالْمَكَانِ: کچھ وقت کے لیے قیام کرنا۔
اَحَاَنَهُ: اللہ: ہلاک کرنا۔

تَحَيَّنَ: مِنْهُ عَقْلَةٌ: انتظار کرنا۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ يَتَحَيَّنُ طَعَامَ النَّاسِ“ وہ لوگوں کے کھانے کے وقت کا انتظار کرتا ہے۔ تَوْفِيقٌ وَ ہدایت سے محروم رہنا۔

اِسْتَحْيَنَ: وقت مناسب کی آرزو رکھنا۔
الْحَاَنُ وَالْحَايَةُ: شراب فروشی کی دکان۔

الْحَيْنُ: ہلاکت۔ رَجُ وَ مَمْتٌ۔
الْحَيْنُ: وقت۔ رَجُ اَحْيَانٌ۔ رَجُ اَحْيَابِنُ۔

الْحَيْنَةُ وَالْمَحْيَانُ: وقت۔
الْحَايِنُ: فَالْبُؤُوفُ۔

الْحَايِنَةُ مَعْصِيَةٌ۔ رَجُ حَوَائِنُ۔
حَيْ (س) حَيَاةٌ: زندہ رہنا۔ اس میں ایک لغت ادغام سے بھی ہے۔ کہا جاتا ہے حَتَّى يَحْيَى (حَيَاءً) مِنْهُ: مُنْقَبِضٌ ہونا۔

الطَّرِيقُ: ظاہر ہونا۔
حَيَاةٌ وَ تَحْيَةٌ: حَيَاةُ اللّٰهِ کہنا (یعنی اللہ تمہاری عمر دراز کرے) سلام کرنا۔ حَيَاةُ اللّٰهِ: باقی رکھنا۔ کہا جاتا ہے ”حَيَاةُ الْخَمْسِينَ مِنْ عُمْرِهِ“ وہ اپنی عمر کے پچاسوں سال کے قریب پہنچا۔

حَايَا مَحَايَاةً: الصَّيْبُ: نَدَا رِيَا زَيْدًا: شرم دلانا۔ النَّارُ: بھڑکانا۔

اَحْيَاةٌ: زندہ کرنا۔ النَّارُ: پھونک کر سلاگانا۔
الارضُ: سرسبز بنانا۔

الرَّائِدُ الْاَرْضُ: گھاس پانی طلب کرنے والے کا زمین کو سرسبز پانا۔ اللہ: بیدار رہنا۔ (اَحْيَاةٌ وَ اِسْتَحْيَاةٌ): زندہ چھوڑنا۔

اِسْتَحْيَا وَ اِسْتَحْيَا: مِنْهُ: شرم کرنا۔
اِسْتَحْيَاةٌ وَ اِسْتَحْيَاةٌ مِنْهُ: مُنْقَبِضٌ ہونا۔ باز رہنا۔

حَتَّى وَ حَتَّى هَلَا وَ حَيْهَلُ: اسم فعل بمعنی اَقْبَلُ وَ عَجَلُ: کہا جاتا ہے ”حَتَّى عَلَيَّ الصَّلَاةُ“ یعنی نماز کے لیے آؤ۔ (حَتَّى هَيْلُ) بفلان: فلاں کو بلاؤ۔

الْحَيَا وَ الْحَيَاةُ: بارش۔ تَرَوَاتُ رَجُ۔ نباتات۔

الْحَيَاةُ: بفلان: فلاں کو بلاؤ۔


الْحَيَاةُ: بفلان: فلاں کو بلاؤ۔

الْحَيَاةُ: بفلان: فلاں کو بلاؤ۔

الْحَيَاةُ: بفلان: فلاں کو بلاؤ۔

الْحَيَاةُ: بفلان: فلاں کو بلاؤ۔

الحیاء شرم و حیا۔ کسی چیز سے منقبض ہونا اور
 ملامت کے خوف سے چھوڑنا۔ بارش و
 تروتازگی۔ توبہ۔
 الحیاء: زندگی۔
 الحی: زندگی۔ زندگی کے لیے (حیوی)
 مؤنث حیة: أرض حیة: سرسبز زمین۔ کہا
 جاتا ہے "لا یعرف الحی من اللی" یعنی وہ
 بیوقوف ہے۔ الحی: حلیہ۔ عرب کے قبیلوں
 میں سے چھوٹا قبیلہ۔ ح: احیاء۔
 الحی والحی: شرم دلانا۔
 الحیوان: جاندار۔ ح: حیوانات۔
 المحی: وہ موقع جہاں شرم کی جائے۔ ح:
 صحای: زندگی۔
 المحی: چہرہ۔



الى الله: عاجزی و فروتنی کرنا۔
 الحَبْتِ: کشادہ و پست زمین۔ حِجْ اَحْبَات
 و حُبُوت.
 الحَبْتَةُ وَالْحَبْتَةُ: تواضع۔ عاجزی۔
 فروتنی۔
 الحَبْتِ: حقیر و فرومایہ و غیث۔ کہا جاتا ہے
 ”هو حَبْتُ النَّفْسِ“ وہ ٹھکتہ دل ہے۔
 حَبْتٌ (ن) حَبْتًا و حَبَاتَةٌ و حَبَاتِيَّةٌ پلیدو
 ناپاک ہونا۔ صفت حَبْتٌ (ج) حَبْتٌ و
 حَبْتًا و اَحْبَاتٌ و حَبْتَةٌ. حَبْتٌ نَفْسُهُ:
 جی مٹانا۔ المرأة: زنا کرنا۔
 حَبْتٌ (ك) حَبْتًا: ردی ہونا۔ مکار ہونا۔
 (و اَحْبَتٌ) بُرے لوگوں کے ساتھ رہنا۔
 و اَحْبَتُهُ: بُرائی سکھانا۔ خراب کرنا۔ بُرائی کی
 طرف منسوب کرنا۔
 حَبْتُهُ: حَبْتٌ بیانا الطعام: کھانے کو ناگوار
 کر دینا۔
 تَحَابَتٌ: بُرائی ظاہر کرنا اور اس پر عمل کرنا۔
 تَحَبَّتْ: جھگڑنا شرارت کرنا۔
 اِسْتَحَبَّتْ: بُرائی کرنا۔ شرارت کرنا: بُرا
 پانا۔
 الحَبْتِ مِنَ الْحَدِيدِ و نحوہ۔ لوہے کا میل
 سونے یا لوہے کا ٹھوس۔ بے فائدہ چیز۔
 حَبَاتٌ: بروزن قطام۔ حبیبہ سے معدول
 ہے اور صرف نڈا کی صورت میں عورت کو گالی
 دینے کے لیے آتا ہے جیسے ”یا حَبَاتُ“ اے
 بدکار عورت۔

گوشت کا پارچہ۔
 ثَوْبٌ (حَبْتٌ و حَبَانٌ و اَحْبَابٌ) بچے
 پرانے کپڑے (تعداد اجزاء کی وجہ سے صفت
 میں جمع لانا جائز ہے)
 الحَبْتِ: زمین میں لہا شگاف۔
 الحَبْتِ: ریت یا بدلی کی دھاری۔ گوشت کا
 پارچہ۔ واوی کا درمیانی حصہ۔ حِجْ حَبَانٌ
 المَحْبَةُ: واوی کا درمیانی حصہ۔
 حَبًا (ف) حَبًا و حَبًا الشَّيْءُ: چھپانا۔
 پوشیدہ کرنا۔
 حَبَانَةٌ: کسی سے چیتاں و پھیلنا۔
 اِحْتَبًا منه: چھپنا۔ الشَّيْءُ: چھپانا۔ کہا جاتا
 ہے ”اِحْتَبَا حَبِيًّا“ اس نے اس سے ایک
 چیز پوشیدہ کی اور پھر اس سے دریافت کیا۔
 الحَبُّ و الحَبِي: پوشیدہ۔ حَبٌّ
 الارض: نباتات۔ حَبٌّ السماء:
 بارش۔ کہتے ہیں ”اِخْرَجَ حَبُّ السَّمَاءِ
 حَبًّا الارضِ“ بارش نے نباتات کو آگایا۔
 الحَبَاءُ: اُدُن یا بالوں کا خیمہ۔ حِجْ حَبِيَّةُ
 الحَبِيَّةُ پوشیدہ رکھی ہوئی چیز۔ حِجْ حَبَايَا
 الحَبَايَةُ و الحَبَايَةُ: مٹکا۔ حِجْ الحَبَايِي
 و الحَبَايِي: بِنْتُ الحَبَايَةِ: شراب۔
 الحَبَاةُ: بہت پوشیدہ رہنے والی عورت۔
 المَحْبَاةُ چھپنے کی جگہ۔ حِجْ حَبَايِي
 حَبْتٌ (ض) حَبْتًا: ذِکْرَةٌ: پوشیدہ ہونا۔
 مخفی ہونا۔
 اَحْبَتِ القَوْمُ: کشادہ و پست زمین میں آنا

خ: الحَبَاءُ: بنیادی حروف میں سے ساتواں
 حرف ہے۔ حساب جمل میں اس کا نمبر ۶۰۰
 ہے۔
 حَبٌّ (ن) حَبًّا: النبات: بلند ہونا۔ بوہنا
 الرَّجُلُ: اپنی چیز کو روکنا۔ بخل کی وجہ سے بے
 نشان ہونے کیلئے پست زمین میں اتر آنا (حَبًّا
 و حَبِيًّا و حَبِيًّا و اَحْبَتٌ) الفرس فی
 عَذْوِه: گھوڑے کا دوڑنے میں کبھی اگلی ٹانگوں
 پر کھڑا ہونا اور کبھی پچھلی پر۔ (حَبًّا و حَبَايَا)
 البحر: جوش مارنا۔
 حَبٌّ (س) حَبًّا و حَبًّا: مکار ہونا۔
 حَبِيَّةُ: دھوکا دینا۔ خراب کرنا۔ کہا جاتا ہے
 ”حَبَّتْ عَلَيَّ فُلَانٌ صَدِيْقُهُ“ اُس نے فلاں
 کے دوست کو بگاڑ دیا۔ حَبْبٌ لِحَمْدِ:
 گوشت کے جاتے رہنے سے جھریاں پڑنا۔
 اَحْبٌ الفرس: گھوڑے کو حَبٌّ چال
 چلانا (دیکھئے مصدر حَبَّبَ)
 الحَبُّ: سر و دغا باز۔ فریبی۔ فساد۔ ریت کی
 دھاری۔ نرم زمین جو دو سخت زمینوں کے
 درمیان ہو۔ حِجْ حُبُوبٌ: کہتے ہیں ”اَصَابَهُمُ
 الحَبُّ“ یعنی ہوا میں ان پر پچھیدہ ہو گئیں اور
 موجوں میں اضطراب ہو گیا۔
 الحَبُّ: پست زمین۔ درخت کی چھال۔ حِجْ
 حُبُوبٌ و اَحْبَابٌ.
 الحَبَّةُ مُثَلَّثَةُ الحَبِّ: ریت یا بدلی کی
 دھاری۔ پٹی کی طرح و جھی۔ الحَبَّةُ: پانی کے
 جمع ہونے کی جگہ۔ واوی کا درمیانی حصہ۔

الخبیر واقف۔ آگاہ۔ دانہ۔ کسان۔ نج
خبیر اعجمی۔ اونٹ کے بال۔ گرے ہوئے
بال۔ واحد (خبیرۃ) ج خبائر الخبیر:
اونٹ کے منہ کی جھاگ۔
الخبائر ایک درخت کا نام۔ راس العین

اور فرات کے درمیان ایک ندی کا نام۔
المخیر والمخیرۃ والمخیرۃ تمہاں جو

خبر یا آزمائش سے حاصل ہو۔
خبیر (خبیر) خبیر الخبیر زوئی پکانا۔
القوم زوئی کھانا۔ کہا جاتا ہے "خبیر تمہم و
تمہم میں نے ان کو روٹی کھور کھائی۔
خبیرہ و خبیرہ بارنا۔ کہا جاتا ہے۔
"خبیطی برجلہ و خبیرنی اس نے مجھ کو

اپنے پیر سے مارا۔
الخبیر۔ المکان نیت ہونا۔
الخبیر۔ الخبیر زوئی پکانا۔
الخبیر زوئی۔ خبیر الغراب ایک قسم کی
نانات جس میں روٹی کی مانند گول گول نکلیاں
نکلتی ہیں۔

الخبیر پت جگہ۔
الخبیر فا۔ روٹی والا۔
الخبیر کی ہوئی روٹی۔ ٹرید۔
الخبیرۃ تانائی کا پیشہ۔
الخبیر تانائی۔
الخبیر والخبیر والخبیرۃ

والخبیرۃ تانائی (ایک دو کا نام)
خبیرون (خبیرا وخبیرس وخبیرس
الشئی لے لیا۔ غیرت حاصل کرنا۔ کہا جاتا
ہے "خبیرس فلانا حقہ فلان نے اس کے
حق کو بار لیا۔ اخبیرس مائلہ خاتار ہنا۔
الخبیرس ظم کرنے والا۔ الخبیرس ظم والی
الخبیرس والخبیرس والخبیرس شیر۔
الخبیرس شیر۔ ظم کرنے والا۔
الخبیرسۃ وہ چیز جو ظمانی جائے۔
(والخبیرسۃ ظمیرت۔
خبیرون) خبیرا وخبیرس۔ الاشیاء
من ہنہنا و ہنہنا ازہر اذہر سے جمع کرنا۔

خابیرہ۔ پٹائی پر کھیت جو تانہ پروا کرنا۔
بعضوں نے گفتگو کرنے اور بحث کرنے کے
معنی میں استعمال کیا ہے۔
تخابیر ایک دوسرے کو خبر دینا۔
تخبیر الامور: حقیقت حال سے واقف
ہونا۔

تخبیرۃ واستخبیرۃ: خبر دریافت کرنا۔
تخبیر القوم بکبری کو خرید کر زنج کرنا اور اس
کے گوشت کو آپس میں تقسیم کرنا۔
اخبیر الشئی آزمائش۔ حقیقت حال سے
واقف ہونا لافیلہ اپنے گھر والوں کے لیے
کھا لیا ہمارا۔
المخبیرینا رثری: (ساتس روم)

الخبیر بڑا توشہ دان۔ زیادہ دودھ والی
اونٹنی۔ کھیتی۔ پہاڑ میں پانی جمع ہونے کی جگہ۔
بیری یاراک کا درخت اور اس کے ارد گرد کی
گھاس۔ واحد (خبیرۃ) ج خبیر

الخبیر نس۔ بڑا توشہ دان۔ زیادہ دودھ والی
اونٹنی۔
الخبیر نس۔ علم۔ تجربہ۔ آزمائش۔ کہا جاتا
ہے "صدق الخبیر الخبیر آزمائش کے خبر
کی تصدیق کر دی۔ زجل خبیر و خسر خبر کا
جانے والا۔

الخبیر خبر۔ ج اخبیر و اخبیر
الابخیرای۔ تاریخ کی تدوین کرنے والا
مورخ۔
الخبیراء بڑا توشہ دان۔ بیری کے درختوں
کو اگانے والی زمین۔ ج خبیرای و خبیرای و
خبیراوات۔

الخبیرۃ نس۔ بکری جس کو لوگ مختلف قیمت
دے کر خریدیں اور پھر آپس میں تقسیم کر لیں
اور ہر ایک کو اس کی قیمت کے لحاظ سے ملے۔
زیادہ ٹرید۔ خوراک وغیرہ جو ابل و عیال کیلئے
خریدی جائے۔ کہا جاتا ہے "اجتسعو علی
خبیرتہ" وہ لوگ اس کے کھانے پر جمع ہو گئے۔
سالن

الخبیرازم زمین۔ جزیں۔ واحد (خبیرۃ)

خبیر غیث، سے معدول ہے اور یہ بھی
صرف ندائی کے موقع پر مرد کو گالی دینے کے
لیے آتا ہے۔ جیسے "یا خبیر" یعنی اے بدکار
مرد۔
الخبیرت ناپاک۔ گھٹیا۔ ناپسندیدہ چیز۔ ہر
حرام چیز۔ ہر خراب چیز۔ ج خبیرت و خبیرت
و اخبیرت و خبیرت۔ مؤنث خبیرتۃ ج
خبیرتات و خبیرت۔

الخبیرت بڑے افعال۔ وہ چیزیں جن کو
عرب گندی سمجھتے تھے اور کھاتے نہیں تھے۔
جیسے سانپ و گہریلا وغیرہ۔ الاخبیران
پیشاب، پانکھانہ۔
الخبیرت بڑا بدکار۔ بڑا شیر۔
الخبیرت بڑا پلیدی۔
المخبیرت سبب قیاد کہا جاتا ہے: الکفر
مخبیرتۃ لفسن المنعم" شاکری منعم کی
طبیعت کے لیے باعث فساد ہے۔
خبیر (ن) خبیرا۔ بالعصاء نوحی سے
مارنا الرجل موز کرنا۔

الخبیر والخبیرا: بیوقوف۔
الخبیر والخبیرا: موز۔
خبیر۔ الرجل ڈھیلے پیٹ والا ہونا ۵

بیوفانی کرنا۔
تخبیر الشئی المضطرب وھیلا ہونا
بذہنہ نمونائی کے بعد دہلا ہونا۔
الخبیر کی بکری کا کم ہونا۔
خبیرون (خبیرا وخبیرۃ۔ الشئی آزمائش۔
تجربہ سے جاننا۔
خبیرون) خبیرا۔ الارض بھیجی کیلئے جو تان
الطعام فرغ کرنا۔

خبیر (ک) وخبیر (ن) خبیرا وخبیرا
وخبیرۃ وخبیرۃ وخبیرۃ وخبیرۃ
الشئی بہ حقیقت حال سے واقف ہونا۔
خبیرۃ وخبیرۃ۔ الشئی وبالشئی ہماگہ
کرنا۔ خبردار کرنا۔ کہا جاتا ہے "اخبیرۃ
خبیرۃ" یعنی اس نے اطلاع دی ہر اس چیز کی
جو اس کے پاس تھی۔

الغِبْشُ كَمَا كُنِيَ الرَّبُّ وَاللَّهُ

خِبَاشَاتُ الْعَيْشِ: زَنْدِغِي بَسْر كَرْنِي كِي
پيزرين جيسے کھانا، کپڑا وغیرہ۔ خِبَاشَاتُ
النَّاسِ بِمُخْتَلَفِ قَوْمَاتِ كِي جَمَاعَتِ۔

خَبِصَ (ض) خَبِصًا الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ:
مَلَانَا (خَبِصَ وَ تَخَبَّصَ وَ اخْتَبَصَ) كَجُورٍ
اور گھی کا حلوا بنانا۔ اخْتَبَصَ الرَّجُلُ: اپنے
لیے کجگور اور گھی کا حلوا بنانا۔ کجگور گھی کا حلوا
کھانا۔

الْخَبِصُ وَالْخَبِصَةُ: كَجُورٍ اور گھی کا حلوا۔
الْمَخْبِصَةُ: كَرِهَاتٍ مِثْلِ حُلْوَةٍ كَوَالْتِنِي پلٹنے
کا پچھ۔

خَبِطَ (ض) خَبِطًا زور سے مارنا۔

الشَّيْءُ: سَخْتٌ رَوْدَانَا اللَّيْلُ: نِيْزَهَا نِيْزَهَا
چلانا۔ کہا جاتا ہے "اِنَّهُ يَخِطُّ خَبِطًا
عَشْوَاءَ لَوْرٍ تَوْنِيْ وَ اِلَى اُوْتِنِيْ كِي طَرَحٍ نِيْزَهَا
نِيْزَهَا چلتا ہے۔ یعنی امور میں بغیر بصیرت کے
تصرف کرتا ہے" وَا مَا اَذْرَى اَتَى خَابِطٌ
لَيْلٍ هُوَ" میں نہیں جانتا کہ گم نام رات میں
آنے والا کون ہے۔

الشَّيْطَانُ زَيْدًا: يُوَانَةُ كَرْدِيْنَا هِ بَخِيْرٍ بَغِيْرٍ
جان پیمان کے دینا۔ البَعِيْرُ بَعْدُ كِي چُوْرَانِيْ
میں لبادا رخ لگانا الشَّجْرَةَ: بِيْطَةُ جَهَانَا۔

خَبِطَ كَامٌ هُوَانَا مَفْتٌ (مَخْبُوْطٌ)
تَخَبَّطَ زور سے مارنا الشَّيْطَانُ زَيْدًا:
یوانہ کر دینا البلاطُ: بَقْتَةُ وَ فِئْدَا وَ لَوْتٌ مَارُوَانِ

هَوَانَا۔ تَخَبَّطَ الشَّيْءُ: بَرُوْدَانَا۔
اخْتَبَطَهُ زور سے مارنا زَيْدًا: بَغِيْرٍ كِسِيْ وَ سِيْلَةٍ
کے مانگنا۔ اخْتَبَطَتِ الْبِلَادُ: بَقْتَةُ وَ فِئْدَا وَ اَوْتَانِ
هَوَانَا۔

الْخَبِطُ: رَخْتِ كِي پتے جو ڈنڈے سے مار
کر گرائے جائیں۔

الْخَبِطَةُ: تَالَا بِاَبْرَتِنِ كَا بَقِيَّةِ پانی۔ مَنَكٌ
میں بقیہ دودھ۔ حَقِيْرٌ: پِزِرٌ، دِيُوَانِيْ۔ رَجٌ: حِطٌ وَ
خَبِطٌ، كَمَا جَاتَا هِي "عَلَيْهِ خَبِصَةٌ مِّنْ
الْجَمَالِ اس کے اوپر جمال و خوبصورتی کا کچھ
اثر ہے۔

الْخَبِطَةُ: هِرْ پِزِرٌ كَا كِي كَهْمَةٌ۔ كَمَا جَاتَا هِي۔

"كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ خَبِطَةِ مِنَ اللَّيْلِ" يِي
رات کے کچھ حصے کے بعد ہوا۔ الْخَبِطَةُ مِنَ
الْمَاءِ: پَانِيْ كَا كَهْمَةٌ۔ رَجٌ: حِطٌ۔

الْخَبِطُ: غَمَارٌ۔

الْخَبِطُ: چہرے کی چوڑائی میں لبادا رخ۔ رَجٌ
خَبِطٌ۔
الْخَبِطُ: دِيُوَانِيْ۔

الْخَبُوْطُ وَ النَّخِيْطُ وَ الْاَخْبِطُ: مِّنْ
الْخَبِيْلِ بَرِيْنِ پَرِيَاؤِنِ مَارِنَا وَ الْاَكُوْزَا۔
النَّخِيْطُ: حَوْضٌ جِسْ كُو اُوْتُوْنِ نِيْ پَرِيَاؤِنِ مَارِ
مَارِ كَرُورِ دِيَا يُوَانَا۔ دِيْ جِسْ مِثْلِ تَاَزُو دُوْدَهْ ذَالِ كَرِ
مَلَا جَلَا دِيَا يُوَانَا۔

الْمَخِطُ وَ الْمَخِطَةُ وَ الْمَخْبِطُ: پتے
جھاڑنے کا ڈنڈا۔ دھوبی کی موگری۔

خَبِغَ (ف) خَبِغًا: فِی الْمَكَانِ: دَاخِلٌ
هَوَانَا الشَّيْءُ: چھپانا۔ کہا جاتا ہے "جَارِيَةٌ
خَبِغَةٌ طَلَعَتْ" یعنی اپنے آپ کو چھپانے والی
اور گھی ظاہر کرنے والی لڑکی۔ (خَبُوْعًا)
الصَّنْبِيُّ: بَرُوْتِي رُوْتِي سَاَسِنِ وَ كَنَانَا۔

خَبِقَ (ض) خَبِقًا: كُوْرُ كَرْنَا هِ: اِنِّيْ سِيْ
حقیر جانا۔

تَخَبَّقَ: الشَّيْءُ يَلِيْدُ هَوَانَا۔

الْخَبِيْقُ: بِيْطٌ كُوْدِنَا وَ الْاَبْرَدُ: تِيْزٌ رَقَا
گھوڑا۔

خَبَلْنَا (س) خَبَلًا وَ خَبَلَةً: خَرَابٌ كَرْنَا۔
بِكَارْتَا هِ الْحَزْنُ: عَقْلٌ كُوْتَاہُ كَرْنَا۔ كَمَا جَاتَا هِي
"خَبَلُ الْحُبِّ قَلْبُهُ: نَحْبَتٌ نِيْ اس كِي دَلِ

كُوْتَاہُ كَر دِيَا يِيْدَهْ: بَلْجَا كَرْنَا هِ عِن كَمْدَا بَرُو كَنَا۔
مَنَعُ كَرْنَا۔ كَمَا جَاتَا هِي "خَبَلٌ عَنِ فِعْلِ اَبِيْهِ"
اُس نے اپنے باپ کے رویے سے کوتاہی کی۔

خَبِلَ (س) خَبِلًا وَ خَبِلًا: جَمُوْنٌ لَّا حَقٌّ
هَوَانَا۔ صَفْتٌ (خَبِلٌ وَ اَخْبَلٌ) خَبِلَتِ الْيَدُ:
لِجَاهَانَا۔

اَخْبَلَهُ: نَاقِدٌ بِنَا رِيْتِ پَر دِيَا۔

اَخْتَبَلَهُ: عَقْلٌ كُو خَرَابٌ كَرْنَا۔ اَخْتَبَلْتِ
الدَّابَّةُ: جَانُوْرٌ كَا اِنِّيْ جَلَدٌ مِثْلِ نَهْ مَظْهَرْنَا۔

تَخَبَّلَتْ: الْيَدُ: بَلْجَا هَوَانَا۔

اِسْتَخْبَلَهُ: الْاَبَلُ: عَارِيْتٌ پَرَا كَنَانَا۔
الْخَبِيْلُ: بَسْرٌ: قَرَضٌ۔ مَكْتَبِيْ: قَنْتَهْ (وَ الْخَبِيْلُ)
ہاتھ پاؤں کی تباہی رَجٌ خَبُوْلٌ۔

الْخَبِيْلُ: اِيْكٌ پَر نَدَهْ جِسْ كِي آوَازُ الْوَكِي آوَازُ
کے مشابہ ہے۔ ذَهْرٌ (خَبِيْلٌ): بَلْجَا هُوَا زَمَانَا۔
الْخَبِيَالُ: فِئْدَا۔ نَقْصَانٌ: هَلَاكَتٌ۔ زَهْرٌ
قَاتِلٌ: كَمَا جَاتَا هِي "هُوَ خَبِيَالٌ عَلَيَّ اَهْلِيْهِ"
وہ اپنے لوگوں کے لیے بوجھ ہے۔

الْخَبِيَالُ: فِئْدَا۔ شَيْطَانٌ: جِنٌ۔ كَمَا جَاتَا
ہے۔ "مَسَّهُ الْخَبِيَالُ" اس کو جن نے دیوانہ
بنادیا۔ الْخَبَابِلَانُ: بَرَاتٌ دِنٌ۔

الْمَخْبِيْلُ: فَا مَخْبِيْلٌ بَغِيْرِ الْفَلَامِ كِي زَمَانَا
کے ناموں میں سے ہے۔
الْمَخْبِيْلُ: دِيُوَانَا۔ تَهْمُورَا: وَ هِ شَخْصٌ جُوْدَرُ كِي
وَجْهَةٍ سِي طَرَحٍ چل نہ سکتا ہو۔

خَبِنَ (ض) خَبِنًا وَ خَبَانًا: الْوَتْبُ: مَوْزُ
كِرِيْنَا الشَّاعِرُ: شَعْرٌ مِثْلِ خَبِنٍ وَ اَوْتَانِ كَرْنَا
(دِيَكِيْنِيْ: الْخَبِيْنُ) وَ اَخْبِنَ (الطَّغَامُ: پَیْرُ سِي
کی تہ میں چھپانا۔

اَخْتَبِنَ: الشَّيْءُ: كِي تہ مِثْلِ چھپانا۔
الْخَبِيْنَةُ: پَیْرُ سِي تہ۔ خَوْرَاكٌ: جُوْدَا مِثْلِ كِي
تہہ میں لے جائے۔ رَجٌ: خَبِيْنٌ۔

الْخَبِيْنُ: فِی الْعَرُوْضِ: عِلْمٌ عَرُوْضِ كِي
اصطلاح میں سب خفیف سے ساکن کو حذف کر
دینا۔ جیسے فَاَعْلَنُ سِي فَعْلَنُ: رَجُلٌ
(خَبِيْنٌ) مَرْدٌ كِي جِسْ كِي اَعْضَاءُ سَمِيْ هُوَانَا۔

خَبِلَانٌ (س) خَبُوْنَا وَ خَبُوْنَا: خَبِيْتُ النَّارِ
اَوِ الْيَدِ: جَهْمَانَا۔ دِهِيْمَا: پَرْنَا۔ كَمَا جَاتَا هِي "خَبِيْنَا
لَهُنَّ" اس کے غصہ کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔

اَخْبِيْنَا: النَّارُ: نَاكٌ جَهْمَانَا۔

خَبِيْنَا: الشَّيْءُ: چھپانا۔

اَخْبِيْنَا وَ خَبِيْنَا وَ تَخَبَّيْنَا وَ اِسْتَخَبَّيْنَا:
الْخَبِيَاءُ: خَبِيْرٌ لَّكَانَا۔ اِسْتَخَبَّيْنَا: الْخَبِيَاءُ: خَبِيْرٌ
مِثْلِ دَاخِلٌ هَوَانَا۔

الْخَبِيَاءُ: اُوْلُوْا يَا اُوْتُوْنِ كِي بَالُوْنِ كَا خَبِيْرٌ: بَالِي

میں جو یاگیوں کا چمکا۔ کلی کا غلاف اخبیه۔
خث (ن) ختتا۔ السنان الیہ: پیانے نیزہ

مارتا۔
آختہ۔ حصہ کم کرنا۔ لَحْثُ الرَّجُلِ: باپ
کے ذکر پر شرمندہ ہونا۔
الخثت۔ بدن کی سستی۔
الخثیت۔ گھلیا، ناقص۔
خثاء (ن) خثاً۔ عن كذا: روکنا۔ منع

کرنا۔
إخْتَنَّا۔ خوف وغیرہ سے رنگ بدل جانا۔ مِنْ
فُلَانٍ: شرم، ڈر یا زلت کی وجہ سے چھپنا لہ:
فریب دینا الشئی: اچک لینا۔
مفازة (مُخْتَنَّةٌ) بیابان جس میں راستہ نہ ملتا
ہو۔

خُتْرَهُ (ض) خُتْرًا۔ بری طرح سے یوقائی
کرنا۔ صفت (خَاتِرٌ وَ خَتَارٌ وَ خَتِيرٌ وَ
خُتُوْرٌ وَ خُتِيْرٌ) (ن ض) خُتْرًا وَ
خُتُوْرًا۔ نفسہ: جی بگڑنا۔

خُتِرَ (س) خُتْرًا۔ زہر یاد او وغیرہ پینے کی
وجہ سے بے حس ہونا۔
تَخْتَرُ۔ ست و ڈھیلا ہونا۔ مرض وغیرہ کی وجہ

سے ست ہونا۔
خُتْرَةٌ۔ الشراب: بے حس کر دینا۔
خُتْرِيَّةٌ۔ کاٹنا اور ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔
خُتْرَمٌ۔ خُتْرَمَةٌ۔ عاجزی یا گھبراہٹ کی وجہ

سے چپ رہنا۔
خُتْعٌ (ف) خُتْعًا وَ خُتُوْعًا۔ الدلیل
بالقوم: اندھیرے میں راہبری کرنا علی
القوم: اچانک آجانا۔ (وَ انْخُتِعْ) فی
الارض: ڈور تک نکل جانا۔

الخُتُوْعُ وَ الخُتْعُ وَ الخُتْعُ۔ باہر راہبر۔
الخُتُوْعُ: خرگوش کا بچپ۔ الخُتْعُ: بچو۔
الخُتْعَةُ: مادہ چپنا۔

الخُتَاعُ۔ چوڑے کا دستا۔ جو باز پانے والے باز
کے بچوں کے خوف سے ہاتھ میں بستے ہیں۔
خُتْلَةٌ (ن ض) خُتْلًا وَ خُتْلَانًا وَ خُتْلَانَةٌ
مُخَاتَلَةٌ۔ فریب دینا۔ کہا جاتا ہے "خاتل

الصیاد" یعنی آہستہ آہستہ چلا تاکہ شکار کو
احساس نہ ہو۔ صفت (خَاتِلٌ وَ خُتُوْلٌ)
تَخَاتَلُوا۔ یا ہم ایک دوسرے کو فریب دینا۔
إخْتَلَّ۔ لِانْسِرَارِ الْقَوْمِ: چوری سے سننا۔

إخْتَلَّ الرَّجُلُ: فریب دینا۔
التخيل۔ چھینے کی جگہ۔ خرگوش کا سوراخ۔
الخُتُوْلُ۔ خوش طبع و درانامرد۔
الخُتَالُ۔ بڑا فریبی۔ مَوْنُثٌ خُتَالَةٌ۔

خُتَمٌ (ض) خُتْمًا وَ خُتْمًا۔ الشیء وَ
علیہ: مہر لگانا العمل: ختم کرنا الكتاب:
پوری پڑھ لینا الاناء: مٹی وغیرہ سے بند کرنا۔

کہا جاتا ہے "خُتْمٌ عَلَیْكَ بَابِہ" یعنی اس نے
تم سے اعراض کیا اللہ لہ بالخیر: اچھا انجام
کرنا علی قلبہ: بے سمجھ کر دینا الزرع وَ
علیہ: پہلی مرتبہ سیراب کرنا۔

خُتْمٌ۔ اچھی طرح ختم کرنا۔ خُتْمَةٌ: انگوٹھی
پہنانا۔
أختم۔ خاتمہ پر پہننا۔

تَخْتَمُ۔ الخاتم بہ: انگوٹھی پہننا۔ کہا جاتا
ہے "تَخْتَمُ بِالْعَقِیْقِ" اس نے عقیق کی
انگوٹھی پہنی بامرہ: چھپانا عنہ: غفلت برتنا

اور چپ رہنا۔ امامہ باندھنا۔ کہا جاتا ہے
"تَخْتَمُ بِعَمَامَتِہ" اس نے اپنا امامہ باندھا۔
إخْتَمَمَ۔ پورا کرنا۔
أختم۔ مہر۔ شہد۔

الخاتام۔ انگوٹھی۔ مہر۔ ج۔ خواتیم۔
الخاتم والخاتیم۔ ج خواتیم وَ ختم:
انگوٹھی۔ مہر۔ انجام۔ گدی کا گڑھا۔ ناگوں کی
تھوڑی سی سفیدی۔

الخاتیمۃ۔ الخاتیمہ کا مَوْنُث۔ انجام۔ نتیجہ ج
خواتیم وَ خاتیمات۔
الختم۔ انگوٹھی۔

الختم۔ مہر لگانے کی مٹی یا ہر وہ چیز جس سے
مہر لگائی جائے۔ ج ختم۔
المُخْتَمُ۔ مین الخیل: گھوڑا جس کی ناگوں

میں تھوڑی سی سفیدی ہو۔
خُتْمٌ (ن ض) خُتْمًا۔ الشئی بکاف۔

الصبی: ختمہ کرنا۔ صفت مفعول۔ (ختمین
وَ مَخْتُوْنٌ) عام مَخْتُوْنٌ: خشک سال۔

وَ خُتْنُ الرَّجُلِ: فریب دینا۔
خُتْنَةٌ (ن) خُتْنًا وَ خُتْنَةٌ وَ خَاتَنَةٌ
وَ اِبَادِئُنَا۔ خاتن الرجل: فریب دینا۔
أختن۔ الصبی: ختمہ شدہ ہونا۔
الخُتْنُ وَ الخُتْنَانَةُ۔ خُتْنٌ۔ الخُتْنَانَةُ: ختمہ

کرنے کا پیشہ۔
الخُتْنُ۔ عورت کی طرف سے رشتہ جیسے
سسر، سال، داماد، ج۔ اختنان۔
الخُتْنَةُ۔ الخُتْنُ کا مَوْنُث۔ ساس۔

الخاتون۔ بیگم۔ معزز عورت کا لقب۔ ج
خواتین (کلمہ عربی ہے)
خُتَانِيخُو خُتُوَا۔ غم یا بیماری سے شکستہ دل
ہونا۔ خُتَانٌ: روکنا۔

أخسئ۔ الصناع: ایک ایک کر کے پینا۔
أخسئ۔ مرض یا غم کی وجہ سے شکستہ
دل ہونا۔
خُتْسٌ۔ الشئی: جمع کرنا اور درست کرنا۔

أخسئ۔ شرم کرنا۔
الخُثُ۔ سیلاب کا کوڑا کرکٹ۔ یا خشک شدہ
کالی۔

الخُثَا۔ وَ الخُثَاةُ۔ آگ لگانے کیلئے چھوٹی
چھوٹی لکڑیوں کا مٹھا۔
خُثْرٌ (ن) خُثْرًا وَ خُثُوْرًا وَ خُثْرَانًا وَ
خُثِرٌ (س) خُثْرًا وَ خُثُوْرٌ) وَ تَخُثِرُ

اللسن: کھاڑھا ہونا۔ وہی بنا۔ صفت (خاتیر)
خُثِرْتُ (ض) خُثْرًا۔ نفس الرجل: جی
متلاٹانا۔ مضطرب ہونا۔ کہا جاتا ہے "اسْتَفْظُ
فُلَانٌ خُثَايِرَ النَّفْسِ" فلاں شخص بیدار ہوا

اس حال میں کہ وہ ست تھا۔
خُثِرُ (س) خُثْرًا۔ شرم کرنا۔
خُثِرٌ وَ أخشِرُ۔ اللسن کھاڑھا کرنا۔

أخثر الزید: کمھن کو بغیر کھلائے ہوئے
چھوڑ دینا۔ اور امثلہ عرب میں سے ہے "ما
بدری أخثر ام یذیب" اس شخص کے حق
میں بولتے ہیں جو متردد و متحیر ہو۔

تَخَذَبُ در میانی چال چلنا۔
الْخَذَبُ لبائی۔ کہا جاتا ہے ”فِي لِسَانِهِ خَذَبٌ“ اس کی زبان میں او چھاپن اور حماقت ہے۔

الْخَذِبُ وَالْأَخَذِبُ: بیوقوف۔ لباً۔ جلد باز۔ سَيْفٌ خَذِبٌ: تلوار قاطع۔
طَعْنَةٌ أَوْ حَرْبَةٌ خَذِبَةٌ وَخَذَبَاءٌ: سخت یا

کشاہدہ زخم والی نیزہ کی مار۔
الْخَذْبَةُ: لبائی۔

الْخَذَابُ: بڑا جھوٹا۔ دِرْعٌ (خَذَبَاءُ) کشاہدہ زور۔ الخَذَبَاءُ: ہر وہ جانور جو کٹ کھتا ہو۔

خَذَجَتْ (ن ض) خَذَاجًا وَ أَخَذَجَتْ الدَابَّةَ بِتَامٍ بَعْدَ كَرَادِيئِهِ۔ صفت (خَادِجٌ وَ مُخَدِّجٌ) صفت مفعولی خَدِيحٌ وَ خَدُوجٌ وَ مُخَدِّجٌ اور خَدُوجٌ كِي جَمْعِ خَدُوجٍ وَ خَدَاجٌ وَ خَدَائِحٌ۔ أَخَذَجَ الشَّيْءُ: كَهَنًا صَلَوَاتُهُمْ فِي كَيْفٍ كِي كَرَدِيئِهِ۔

خَذَجَتِ النَّاقَةُ بِتَامٍ بَعْدَ كَرَانَا۔
الْخَدَاجُ: نقصان۔

خَدِرٌ (س) خَدْرًا: العَضْوُ: سُنُّ هُونَا الْعَيْنُ خَارِشٌ يَتَكَرَّرُ جَانِبِي وَجْهِهِ كَأَنَّكَ كَاهِمَارِي هُونَا الْحَرُّ أَوْ الْبَرْدُ: سَخْتٌ هُونَا النَّهَارُ نَهْوَابِنْدُ أَوْ تَمِزْ كَرْمِي هُونَا۔

خَدْرٌ (ن) خَدْرًا: تَمِيزٌ هُونَا الطَّبِيبُ زِيُوْرٌ سَے چِیچھہ رہنا الِاسْدُ فِي عَرِيْنَه نَانِدِ مِيں رَهْنَا بِالْمَكَانِ: اِقَامَتُ كَرْنَا (وَ خَدْرٌ وَ أَخَدْرٌ) النَّبْتُ: پَرْدَه مِيں رَهْنَا خَدْرٌ وَ أَخَدْرٌ الْعَضْوُ: سُنُّ وَ بَے حَس كَر دِيَا۔

أَخَدْرٌ بِالْمَكَانِ: اِقَامَتُ كَرْنَا مَعَ اَهْلِهِ: اِسْمٌ لِمَنْ رَهْنَا الْاِسْدُ فِي عَرِيْنَه كَهَمَارِ كَاشِيْرٌ كُو چھپا لِيَا۔
تَخَدَّرَ وَ اخْتَدَرَ: چھپنا۔
الْخَادِرُ سُسْتُ كَامِلٌ: حِيْرَانٌ۔

الْخَدْرُ: پَرْدَه جو لڑكِي كَے لِيْے مَكَان كَے گوشہ مِيں لگا دِيَا جَانِے۔ لڑكِي كِيْلِيْے مَكَان كَا

خَجَلٌ (س) خَجَلًا: شَرْمٌ سَے سَر كَشِيْءٌ وَ بَے خُود هُونَا۔ صفت (خَجِلٌ وَ خَجَلَانٌ) الْفُؤَادُ: كِيْرِيْے كَے نِيچے كَاهِصَه پھنھنا اور كَشَادَه هُونَا۔

النَّبَاتُ: بَہْت اور گنجان هُونَا۔ صفت (خَجَلٌ) الْبَعِيْرُ بِالْخَمَلِ: بُو جَمَلِ هُونَا بِأَمْرِهِ: مَشِيْرٌ هُونَا مَن كَذَا: زُوْجٌ هُونَا فِي طَلَبِ الرِّزْقِ: سُسْتُ هُونَا۔

خَجَلَةٌ وَ اخَجَلَةٌ: شَرْمِنْدَه كَرْنَا۔ وَ اخَجَلُ النَّبَاتُ: لِبَا وَ گنجان هُونَا۔

الْخَجَلُ مِّنْ شَرْمٍ۔
خَجِيٌّ (ض) خَجِيًّا: التَّرَابُ بِرِجْلِهِ: پاؤں سَے خَاك اُزَانَا۔

خَجِيٌّ (س) خَجَا شَرْم كَرْنَا۔
خَدْرٌ (ن) خَدْرًا: فِيْهِ الضَّرْبُ: بِدِهْمِي پَرْنَا الْاِرَاضِ: كَهُو دِيَا۔

خَدَّدَ تَخْدِيْدًا: لَحْمُهُ: زُوْبِلَا هُو كَر جَمْرِي پَرْنَا لَحْمُهُ زُوْبِلَا كَرْنَا۔

خَادَهُ مُخَادَةً كَامٍ مِيں مَرَامٌ كَرْنَا۔
تَخَادًا: اِيْك دُوسَرِے كِي مَرَامَتُ كَرْنَا۔

تَخَدَّدَ: لَحْمُهُ: الْاَغْرِي سَے جَمْرِي دَار هُونَا الْقَوْمُ: فَرْتِي فَرْتِي هُونَا۔

الْخَدُّ: جھوٹی نڈی۔ طَرِيْقَةٌ: لِبَا گُڑھَا۔

لُوكُوں كِي جَمَاعَتُ۔ جِ اَخِيْذَةٌ وَ خَدَادٌ وَ خَدَانٌ: الْخَدُّ مِّنَ الْوَجْهِ: رِخْسَارُهُ: جِ خَدُوْدٌ۔

الْخَدَّةُ لِبَا گُڑھَا: جِ خَدُوْدٌ۔
الْاَخْدُوْدُ: لِبَا گُڑھَا: جِ۔ اَخَادِيْدٌ۔

الْاَخَادِيْدُ: كُوْرِيْے كَے مَارْنِے كَے نَشَانَتُ۔
اور اِسِي سَے اَخَادِيْدُ الْاَرْشِيْئِيْةُ فِي الْبِيْرِي: كُنُوْكِيں مِيں رِسْتِي كَهِنِيْجِيْے كَے نَشَانَتُ۔

الْمَجْحَدَةُ: جھوٹا تکیہ جس پر سوتے ہوئے رِخْسَارَه رَكْتِيْے ہِيں۔ سَرْبَانِدُ: اَل كَا پھَار۔

الْمَجْحَدَانُ: دو نوں کچلیاں۔
خَذَبٌ (ن) خَذَبًا: جھوٹ بولنا

بِالسَّيْفِ: تَلُوْر سَے مَارْنَا۔
ه الْحَيَّةُ: وِسْنَا۔

الْخَائِثِرَةُ: جَمَاعَتُ۔

الْخَيْثَارُ: سُوْر خُوَان كَا بَاتِي مَانِدَه۔

الْخَيْثَارَةُ: چِيْر كَا بَاتِي مَانِدَه صَے۔ دُوْدَه كَا گَاڑھَا گَاڑھَا صَے جو بَاتِي رَه جَانِے۔ كَہَا جَاتَا ہِے ”ذَهَبٌ صَفْوَةٌ وَ بَقِيْتٌ خَيْثَارَتُهُ“ اِس كَا خَالِصَ صَے خَم ہُو گِيَا اور تَجَمُّثُ بَاتِي رَه گِيَا۔

تَخْتَعِمُ: خُون سَے آلوْدَه هُونَا۔
الْمُخْتَعِمُ وَ الْمُخْتَعِمُ: شِيْر۔

الْمُخْتَعِمَةُ: جَانُوْر كُو زَن كَرْنَا اور اَكْشِيْے هُو كَر كَهَا تھرا اِسِي جَانُوْر كَے خُون مِيں خُوشُو بُلَا كَر ہَاتھ ڈَال كَر اِيں مِيں اِيْك دُوسَرِے كِي مَدُو كَرْنِے كَا مَعَابِدَه كَرْنَا۔

الْخَيْثَلَةُ وَ الْخَيْثَلَةُ: مِّنَ الْبَطْنِ: پِيْرُو۔ كَہَا جَاتَا ہِے ”طَعْنَهُ فِي خَيْثَلَةِ بَطْنِهِ“ اِس نَے اِس كَے پِيْرُو پَر نِيْزَه مَارَا۔ جِ خَيْثَلَاتٌ وَ خَيْثَلَاتٌ: الْخَيْثَلَةُ: مَوْتُ عُوْرَتُ۔

خَيْثَمٌ (س) خَيْثَمًا: مَوْتُ يَأْچُوْرِي نَاكِ وَالَا هُونَا۔ صفت (خَيْثِمٌ وَ اَخَيْثَمٌ) خَيْثَمْتُ اَخْلَافِ النَّاقَةِ: اُوْثِي كَے تَهْن كَا بِنْدَه هُونَا۔

خَيْثَمٌ (ن) خَيْثَمًا: اَنْفَه: كَجَل دِيَا۔
خَيْثَمٌ الشَّيْءُ: چُوْرَا كَرْنَا۔

الْمُخْتَمَةُ: نَاك كِي چُوْرَائِي يَامَوْتِي۔
خَيْثِيٌّ (ض) خَيْثِيًّا: الْبَقُوْرُ: گُوْبَر كَرْنَا۔

خَيْثَةٌ (ن) خَيْثًا: پھانا۔ دَفْعُ كَرْنَا

الْحَطَبُ: پھارنا۔ چِيْر نَا بِرِجْلِهِ: پاؤں سَے خَاك اُزَانَا بِسَلْحِه پَانْخَانَه كَرْنَا۔

سَاعِدُهُ: كَهَا هُو اُوْثِي الْمَرْأَةُ: جَمَاعَتُ كَرْنَا۔
اِحْتَجَّ: الْجَمَلُ: پِيچ كَهَاتے ہوئے تير

دُوْرْنَا۔ رِيحٌ (خَجُوجٌ) تَمِيزٌ هُو۔
خَجَلَانٌ (ن) خَجَلًا: الرِّجْلُ: جھپك كَے

گھر مِيں دَاغَلُ هُونَا الْاَلِيْلُ: ۵: مَارْنَا۔
الْمَرْأَةُ: جَمَاعَتُ كَرْنَا۔

خَجِيٌّ (س) خَجَا شَرْم كَرْنَا۔ بِيُوْدَه بَلْنَا۔
اَخَجَاهُ: بُوَال مِيں اِصْرَارُ كَرْنَا۔

تَخَجَّأَ: دِير لگانا۔

الْمُخَجَّأَةُ: مَوْتُو سُسْتُ۔ بِيُوْقُوْفٌ۔
الْمُخَجَّفُ وَ الْخَجِيْفُ: اُو چھاپن۔

<p>ہو۔ الخُدْعَةُ كَرْدُ كَلْبٍ خُدْف (ش) خُدْفًا تَجِرْطَانًا خُدْفَتِ السَّمَاءِ بِاللَّيْلِ: بَرَفٌ غَرَانَا (وَإِخْتَدَفَ) الشَّيْءُ: أَوْجَعُ لِيَانًا الخُدْفُ: سُرٌّ شَيْءٍ كَأَجْوَارِ خُدِلْتُ (س) خُدَلًا وَخُدَالَةً وَ خُدُولَةً لِسَاقٍ يُرْغَشُ بِهَا لُحْمٌ وَهُوَ سَاقٌ خَدَلَةٌ يُرْغَشُ بِهَا لُحْمٌ خُدْمَةٌ (ض ن) خُدْمَةٌ وَخُدْمَةٌ خُدْمَتُ كَرْنَا: صَفْتُ (خَادِم) جِ خُدَامٍ وَ خُدْمٌ مَوْثٌ خَادِمٌ وَخَادِمَةٌ أَخْدَمْتُ خَادِمًا رَيْنًا خُدْمُ الرَّجُلِ أَمْرَانَهُ يَازِيبُ يَهْنَأُ تَخْدَمُهُ خُدْمَتُ لِيَانًا خَادِمًا يَهْنَأُ إِخْتَدَمْتُ أَيْ خُدْمَتُ كَرْنَا ه: خَادِمٌ مَا لَكُنَا خَادِمًا يَهْنَأُ اسْتَخْدَمْتُهُ خَادِمًا يَهْنَأُ الرَّجُلُ يَهْنَأُ خَادِمًا مَا لَكُنَا الخُدْمُ: وَقْتُتُ خَوَاهِدُنَ كَابِوَارَاتِ كَا الخُدْمَةُ سِيَالَةٌ يَبْزِي بِهَا لُجُوجٌ كَالْحَلْقَةِ: كَمَا جَاتَانِي: "فَقَضَّ اللَّهُ خُدْمَتَهُمْ" اللّٰهُ انْ كِي جَمَاعَتٌ كَوَ تَقْتَرِقُ كَرْدِي (وَإِخْدَمَةٌ) حَلْقَةٌ كِي مَانِدٌ مَضْبُوطٌ جِزْءٌ كَا مَوْنَا كَرْمٌ جِسٌّ كُوْأَنْثٌ كِي كِي پَر بَانْدَهَا جَاتَا هـ: جِ خُدْمٌ وَخُدَامٌ وَخُدْمَاتُ الخُدَامِيَّةُ نُوْكَرِي المَخْدَامَةُ وَهِيَ آقَابِي الخُدَامُ نُوْكَرِي الخُدْمَةُ نُوْكَرِي غَلَامٌ الْإِخْدَامُ: كَمَا هُوَ الرَّجُلُ: كَمَا مَالٌ وَاللَّ هُوَنًا: دَاوُدُ هُوَ سِي رُكْنَا: السُّوقُ: بَازَارُ كَا مَانِدُ پَرْنَا: رَانُجٌ هُوَنًا (ضد) الْاُمُورُ: بِمُخْتَلَفٍ هُو جَانَا الشَّمْسُ: غَائِبٌ هُوَنًا الطَّرِيقُ: غَيْرٌ مَعْلُومٌ هُوَنًا الشَّيْءُ: خَرَابٌ هُوَنًا الثُّوبُ: مَوْنَا الرَّجُلُ: يَخْدَعُ رُكْنَا كَاثِدِيَانًا أَخْدَعَهُ دَعَا بَازِيًا پَرَا كَسَانَا: الشَّيْءُ: چِهَانَا</p>	<p>پوشیدہ کرنا۔ خَادَعَهُ مُخَادَعَةً وَخَدَاعًا وَاحْتَدَعَهُ وَ تَخَدَعَهُ دَهْوًا كَابِيَانًا: خَادَعُ الْعَيْنَ: يَدِيكِي هُوَنِي جِزْءٌ مِي سَكُ ذَالِنَا: تَخَدَعُ لِي: بِحُكْمِ مَدْرِكْرَانَا تَخَادَعُ: فَرِيْبٌ خَوْرَدَه ظَاهِرُ كَرْنَا الْقَوْمُ: اِيْكَ دُوسَرِي كُو فَرِيْبُ دِيَانَا انْخَدَعُ: فَرِيْبٌ خَوْرَدَه هُوَنًا: دَهْوِي كِي پَر رَاضِي هُوَنًا يَهْ بِهْ هُو كَا كَهَا جَانَا السُّوقُ: بَازَارُ كَا مَانِدُ پَرْنَا الْخُدَيْعَةُ: جِ خُدَائِعٌ وَ (الْخُدْعَةُ وَ الْخُدَاعُ) فَرِيْبٌ: دَهْوًا كَا مَدْرُجِيْلِي الْخُدْعَةُ لُجُوجٌ كُو دَهْوًا كَابِيَانًا وَاللَّ الْخُدْعَةُ وَ الْخُدَاعُ وَ الْخُدَيْعُ: بَهْتٌ دَهْوًا كَابِيَانًا وَاللَّ: سُنَّةٌ خُدَاعَةٌ: كَمَا يَبْدُو اِدْوَارُ وَالْاَسَالُ الْخُدَاعُ: فَا: طَرِيقٌ خَادِعٌ رَاسْتَهُ جُو كَبِي ظَاهِرٌ هُو اُو رُ كَبِي پُو شِيْدَه هُو جَائِي: دِيْنَارُ خَادِعٌ: كَبُوْتَانِيَانَا الْخَادِعَةُ: مَوْثٌ: بَرِي دِرْوَازَه مِي سَ جِهُونَا دِرْوَازَه: مَكَانٌ كِي اَنْدَرُ كُو شُرِي الْاِخْدَاعُ: اَسْمٌ تَقْضِيْلِي: الْاِخْدَاعَانُ: كَرْدُنُ كِي دُوْوَلُوْنَ پِهَلُوُوْوْ پَر دُو پُو شِيْدَه رُكُوْوْ كَا نَامُ اُو رُ كَمَا جَاتَانِي: "لَا فَيْمَنُ اخْدَاعِيْكَ" مِي سَ تَهْمَارَه سَكِي كُو دُو رُ كَرْدُوْوْ كَا: "فَلَانُ شَدِيْدُ الْاِخْدَاعُ" فَلَانُ بَرَا كَرْدُنُ كَشِي هُو جِ اَخَادِعُ الْخُدَيْعُ: وَهُ هُفْضٌ جِسٌّ كِي دُو سِي پَر بَهْرُوسَه نَه كِيَا جَائِي: رَاسْتَهُ جُو مَقْصِدُ كِي مُخَالَفٌ هُو: چِ كَبِي هُوَنِي رِيْتِ: فَرِيْبُ دِيَانِي وَاللَّ بَهِيْرِيَانَا الْخُدُوْعُ: بَهْتٌ فَرِيْبُ دِيَانِي وَاللَّ طَرِيقُ خُدُوْعٌ: رَاسْتَهُ جُو كَبِي ظَاهِرُ اُو رُ كَبِي پُو شِيْدَه هُو جَائِي: جِ خُدْعُ الْمَخْدَعُ وَ الْمَخْدَعُ وَ الْمَخْدَعُ: كُو شُرِي جُو بَرِي كَرَه كِي اَنْدَرُ هُو: جِ مَخَادِعُ الْمَخْدَعُ: تَجْرِبَةُ كَارِ جُو بَارِ بَارِ دَهْوًا كَا كَهَا چِ كَا</p>	<p>مخصوص حصہ۔ شیر کی جھاڑی۔ رات کی تاریکی جِ اَخْدَارٌ وَخُدُوْرٌ جِ اَخَادِيْبُرِ الْخُدْرُ: عَضُوْوِي كِي بِي حَسِي: كَابِي، سُسْتِي تَارِيكِي: اَنْدَهِيْرِي جِلْدِي الْخُدْرُ: بِي حَسِ عَضُوْوَالَا: لَيْلُ الْخُدْرِ: تَارِيكُ رَاتِي: مَكَانُ الْخُدْرِ: پُو شِيْدَه اَنْدَهِيْرِي جِلْدِي: نَهَارُ الْخُدْرِ: نَمْنَاكُ دِنَا الْخُدَارُ: شِيْرُ كِي جَهَاڑِي الْخُدْرَةُ: سَخْتُ تَارِيكِي الْاِخْدَرُ وَ الْخُدَارِي: تَارِيكُ رَاتِي الْخُدَارِي: كَالاِبَادِلِ الْخُدَارِيَّةُ: عَقَابِي الْاِخْدَرُ وَ الْخُدْرِي وَ الْاِخْدَرِي: اِيْكَ قِسْمٌ كَا جِ كَبِي كَرْدَهَا هُوْدُجٌ (مَخْدُوْرٌ) پَر دَه پَرَا هُو اُو دَه الْخُدْرُنِي: كَبِي الْخُدْرُنُقُ: نَزْ كَبِي: اُو رُ بَقُولُ بَعْضُ بَرِي كَبِي: جِ خُدَارُنُ خُدَشَه (ض) خُدَشَا وَ خُدَشَه خِرَاشُ لَكَا: كَلُوْءٌ كَلُوْءٌ كَرْنَا: عَيْبٌ لَكَا الْخُدَشُ: سِي خِرَاشُ: جِ خُدُوْشُ وَ خُدَاشُ وَ اِخْدَاشُ الْخُدُوْشُ: بَهْتٌ خِرَاشُ لَكَا نِي وَاللَّ: پَسُو كَبِي الْمَخْدَاشُ وَ الْمَخْدَاشُ: بِلِي الْمَخْدَاشُ: اِنْسَانُ كِي كَرْدُنُ مِي سَ كُنْفِي كِي جِلْدِي خُدَعَه (ف) خُدْعَا وَ خُدْعَا دَهْوًا دِيَانَا: فَرِيْبُ دِيَانَا الضُّبُّ فِي حُجْرَه بَرَا اَعْلُ هُوَنًا الْمَطْرُ: كَمَا هُوَنَا الرَّجُلُ: كَمَا مَالٌ وَاللَّ هُوَنًا: دَاوُدُ هُوَ سِي رُكْنَا: السُّوقُ: بَازَارُ كَا مَانِدُ پَرْنَا: رَانُجٌ هُوَنًا (ضد) الْاُمُورُ: بِمُخْتَلَفٍ هُو جَانَا الشَّمْسُ: غَائِبٌ هُوَنًا الطَّرِيقُ: غَيْرٌ مَعْلُومٌ هُوَنًا الشَّيْءُ: خَرَابٌ هُوَنًا الثُّوبُ: مَوْنَا الرَّجُلُ: يَخْدَعُ رُكْنَا كَاثِدِيَانًا أَخْدَعَهُ دَعَا بَازِيًا پَرَا كَسَانَا: الشَّيْءُ: چِهَانَا</p>
---	--	--

جگہ۔ تسمہ۔ عورت کے ہاجمہ میں نیچے باندھنے کا دھاگا۔ قوم مُخَدَّمُون: بہت نوکر چاکروالے لوگ۔
 خَاذَنَةُ مُخَاذَنَةٌ: دوستی کرنا۔ ساتھی بنا۔
 الخِذَن: دوست۔ یار، ساتھی (مذکر و مؤنث) ج اخذان۔
 الخِذَيْن: دوست، یار، ساتھی۔
 الخِذَنَةُ: لوگوں سے بہت دوستی کرنے والا۔
 خِذَى (ض) خِذِيْنَا وَ خِذِيْنَا: الفرس ام البعير: تیز دوڑنا۔
 اخذى اخذاءً: آہستہ آہستہ چلنا۔
 الخِذَاءُ: کیز جو گوبر میں سے نکلتا ہے۔ واحد (خِذَاءٌ)
 الخِذِيُوِيٌّ: عزیز مصر کا لقب۔ فارسی لفظ ہے بمعنی بادشاہ۔ وزیر۔ سردار۔
 خِذَا وَ خِذِي (س) خِذُوا وَ خِذُوْا وَ خِذَاءً وَ اسْتَخِذُوا: لہ: فرودتی کرنا۔
 تابعدار ہونا۔
 اخذاه: ذلیل کرنا۔ تابع بنانا۔
 الخِذَاءُ: نفس کی کمزوری۔
 خِذَ (ن) خِذِيْنَا: الجرح: پیپ بہنا۔
 الخِذْرَةُ: پھرکی۔
 خِذْرَفٌ: جلدی چلنا ہاں بالسیف: جسم کے اطراف کاٹنا الاناء: بھرتا۔
 تَخَذَ رَفْنَهُ: النوى: پھینک دینا۔
 تَخَذَرْتُ الثوبَ: پھینکا۔
 الخِذْرُوفُ: تیز چلنے والا۔ پھرکی۔
 اس کو خِرَارَه بھی کہتے ہیں۔ اونٹوں کا گلہ۔
 اونٹ جو گلہ سے علیحدہ ہو گیا ہو۔ "تَوَكَّتِ السَّيْفُ رَاسَه خِذَارِيْفٌ" تلواروں نے اس کے سر کو ٹکڑے کر دیا۔ رجل (متخذرف) بچھے اخلاق والا مرد۔
 خِذَعٌ (ز) خِذَعًا وَ خِذَعٌ: اللحم او الفرع: بغیر جدا کئے ہوئے قاشیں تراشنا۔
 تَخَذَعٌ: کتنا۔ کہا جاتا ہے "ذُهِبُوا خِذَعٌ مِذَعٌ" لوگ متفرق ہو کر چل گئے۔
 الخِذَعَةُ: زمین وغیرہ کا ٹکڑا۔

الخِذِيْعَةُ: ایک قسم کا کھانا جو قیہ سے تیار کیا جاتا ہے۔
 المِخْذَعَةُ: چھری۔
 الخِذَعُ: عیب۔
 خِذَعٌ وَ خِذَعٌ: البَطْنِيخُ وَ نحوه: پھاٹکیں کرنا۔
 الخِذَعُوْسَةُ وَ الخِذَعُوْلَةُ: پھاٹک۔ تاش۔
 خِذَفٌ (ض) خِذَفًا: بالحصاة وَ نحوه: انگلیوں سے پھینکنا۔ گوبچن سے پھینکنا۔
 تَخَذَفْتُ: عيناه بالدموع: جلدی آنسو بہانا۔
 الخِذَافَةُ: ڈبر۔
 المِخْذَفَةُ: گوبچن۔ نلیل۔
 الخِذُوْفُ: مِنَ الدَّوَابِّ: تیز رفتار جانور جو دوڑنے میں نکری اڑائے نہ جو چلنے میں پیروں کو پیٹ تک اٹھائے۔ ج خِذَفٌ الخِذَفَانُ: تیز رفتاری۔
 خِذَقٌ (ن ض) خِذَقًا: الدابة: تیز چلنے کیلئے چھوٹا ہلانی: بیٹ کرنا۔
 الخِذَقُ: گوبر۔ لہ۔
 خِذَلٌ (ن) خِذَلًا وَ خِذَلَانًا وَ خِذَلَانًا: فلانًا وَ عنہ: مدد چھوڑنا۔ صفت (خِذَلٌ) ج خِذَلٌ: صفت مفعولی (مُخْذَلُوْلٌ) ج مُخَاذِيْبٌ: خِذَلْتُ الظَّيْبَةَ: روڑے علیحدہ ہو جانا۔ صفت (خِذَلٌ وَ خِذَلُوْلٌ) ج خِذَلٌ: عنہ اصحابہ: مدد چھوڑنے پر آسنا۔
 ہ: پسائی اور ترک جنگ پر آمادہ کرنا۔
 خَاذَلَهُ مُخَاذَلَةً: مدد چھوڑنا۔
 تَخَاذَلُ: القوم: باہم مدد چھوڑنا۔ رجلاہ: ناگوں کا کمزور ہونا۔
 الخِذَالُ: زیادہ مدد چھوڑنے والا۔
 الخِذَلَةُ: وہ شخص جس کی مدد ہمیشہ چھوڑ دی جائے۔
 الخِذَلُوْلُ: بہت مدد چھوڑنے والا۔
 رجلٌ خِذَلُوْلٌ الرجل: وہ مرد جس کی

ناگوں نے کمزوری یا کسی آفت یا نشہ کی وجہ سے جواب دے دیا ہو۔
 خِذَمٌ (ض) خِذَمًا وَ خِذَمٌ: الشئ: جلدی سے کاٹنا۔
 خِذِمٌ (س) خِذَمًا: نشہ میں ہونا۔ صفت (خِذِيْمٌ) کتنا۔
 خِذِمٌ (س) خِذَمًا: تیز چلنا۔ ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔
 اخذم: ذلت کا اقرار کرنا ہاں الشراب: مست کر دینا۔
 تَخَذِمُ: الشئ: ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔
 الشئ: تکلف سے کاٹنا۔
 اخْتَذِمُ: قاطع ہونا الشئ: کاٹنا۔
 الخِذُوْمُ ج خِذَمٌ وَ (الخِذِمُ وَ المِخْذَمُ وَ المِخْذَمُ) مِنَ السَّيْفِ: کاٹنے والی تلوار۔
 الخِذَامَةُ: چیز کا ٹکڑا۔
 المِخْذَمُ: کاٹنے کا اوزار۔
 خِذَا (ن) خِذُوا وَ خِذِي (س) خِذِيْ وَ ذُهِلَا ہونا لِحْمِهِ: کٹھا ہونا الاذن: بلکتا ہوا ہونا۔
 اسْتَخْذَى: تابعدار ہونا۔ فرمانبردار ہونا۔
 الاخذى: ڈھیلے کان والا۔ اذن (خِذَوَاءٌ) لکھے ہوئے کان۔
 خِرٌّ (ض) خِرٌّ: المَاءُ او الرِيْحُ: پانی کے پینے اور ہوا کے چلنے میں آواز ہونا۔ صفت (خِرٌّ) النائم: خرابے لینا۔
 خِرٌّ (ن ض) خِرًّا وَ خِرُّوْرًا: اوپر سے نیچے گرنا خِرٌّ لِلّٰہِ سَاجِدًا: سجدہ میں گر پڑنا لُوْجُهہُ: گرنا الرُّجُلُ: مرنا علیہ: غیر معلوم جگہ سے ایک آ پڑنا۔
 اَخْرَوْهُ اِخْرَارًا: گرانا۔ کہا جاتا ہے "صُرْبَةُ بالسَّيْفِ فَأَخْرَوْهُ" اس نے اسے تلوار مار کر گرا دیا۔
 اِنْخَرَّ: ڈھيلا ہونا۔
 الخِرُّ: کان کی جڑ۔ زمین کا وہ حصہ جس میں سیلاب ڈگاف ڈال دے۔ ج خِرْوَرَةٌ

(والنُحْرِيُّ) جگہ کا سوراخ۔
النُحْرُورُ۔ بلی کی آواز۔ جگہ جس میں پانی اور
گڑھے ہوں۔

النُحْرِيُّ۔ مصل۔ سونے والے کا خراب۔ دو
نیلوں کے درمیان پست جگہ۔ جِ اُخْرَةَ
النُّحْرَاءِ۔ بہت خرابے لینے والا۔ مؤنث
خَوْرَاءُ۔ النُّحْرَاءَةُ۔ پھر کی۔

خَوْرِيٌّ (س) خَرَأٌ و خِرَاءَةٌ و خِرَاءَةٌ
و خُرُوءًا۔ پانچاند کرنا۔ بیٹ کرنا۔ کہا جاتا ہے
”خَرْنَتْ بَيْنَهُمُ الصُّبْعُ“ یعنی ان کے
درمیان دشمنی ہوگئی۔

الخِرْوَاءُ۔ جِ خُرُوءٌ و (الخِرْوَاءُ) پلیدی۔
پانچاند۔ بیٹ۔

المُخْرَاءَةُ و المَخْرَاءَةُ و المَخْرَاءَةُ۔ پانچاند
کی جگہ۔ جِ مَخْرَارِيٌّ۔

خَرِبٌ (س) خَرَبًا و خَرَابًا۔ البَيْتُ:
اُجَارًا ہونا۔ صفت (خَرِبٌ) مؤنث خَرِبَةٌ۔

(خَرَبًا) الرَّجُلُ: پھٹے ہوئے یا چھدے
ہوئے کان والا ہونا۔ صفت (أَخْرَبٌ) مؤنث

خَرَبَاءُ۔ جِ خَرِبٌ۔
خَرِبَةٌ (ض) خَرِبًا۔ ڈھانا۔ ہلاک کرنا۔

پھاڑنا۔ سوراخ کرنا۔
خَرِبٌ (ض) خَرَابَةٌ و خَرَابَةٌ و خَرَبًا و

خُرُوبًا۔ چور ہونا۔ صفت (خَارِبٌ) جِ
خَرَابٌ۔

خَرِبٌ۔ البَيْتُ: ویران کرنا۔ ڈھانا
المَزَادَةُ: سوراخ کرنا۔

أَخْرَبٌ۔ البَيْتُ: غیر آباد کرنا المَكَانُ:
خالی ہونا۔

تَخْرَبُ الدَّوْدَةُ الشَّجَرَةَ: سوراخ کرنا۔
اِسْتَخْرَبَ الرَّجُلُ: مصیبت سے شکستہ

دل ہونا اِلَيْهِ: مشتاق ہونا السَّقَاءُ: سوراخ
دار ہونا۔

النُّحْرِبُ۔ ویران جگہ۔ پہاڑ کا باہر کو نکلا ہوا
کنارہ۔ بزدل۔ کہا جاتا ہے ”ہو خَرِبٌ

العِظَامُ“ یعنی اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں
ہے۔ ”وہو خَرِبٌ الجَوْفُ“ یعنی وہ خالی

پیٹ بھوکا ہے۔ ”وہو خَرِبٌ الامَانَةُ“ یعنی
وہ امانت دار نہیں ہے۔ رَجُلٌ (خَرِبَانٌ)
بزدل مرد۔

النُّحْرِبُ و النُّحْرَابَةُ و النُّحْرَبَةُ۔ سرین کا
گڑھا۔ سوئی کا ناکہ اور بقول بعض ہر گول

سوراخ جیسے کان کا سوراخ۔ جِ خَرِبٌ
و أخراب و خُرُوبٌ۔

النُّحْرِبُ و النُّحْرَبَةُ و النُّحْرَبَةُ۔ چرواہے کا
تھیلا۔ دین کی خرابی۔

النُّحْرَبَةُ۔ چھلی۔ عیب۔ لغزش۔ باعث شرم
چیز۔ دینی خرابی۔ کہا جاتا ہے ”ہو صاحبُ

خَرِبَةٍ“ یعنی اس کے دین میں خرابی ہے اور
اسی سے ہے ”الحی اللہ ادنانا الی کل

خَرِبَةٍ“ اللہ تعالیٰ لعنت کرے کہ اس نے ہم کو
دین کی ہر خرابی کے قریب کر دیا۔ ”وما رأینا

مِنَ فُلَانٍ خَرِبَةً فِی دِیْنِهِ“ ہم نے فلاں کے
دین میں کوئی خرابی نہیں دیکھی۔ جِ خَرِبَاتٌ۔

النُّحْرَبَةُ و النُّحْرَبَةُ۔ ویران جگہ۔ جِ
خَرِبَاتٌ و خَرِبٌ و خَرِبٌ و خَرَابٌ

النُّحْرَبَةُ: چور کی بیٹ۔
النُّحْرَابُ۔ ویران۔ جِ اُخْرَبَةٌ و خَرَابٌ۔

خَرَابَةٌ و خَرَابَةٌ۔ الاِبْرَةُ: سوئی کا ناکہ۔
النُّحْرُوبُ و النُّحْرُوبُ۔ ایک درخت کا نام

واحد خُرُوبَةٌ و خُرُوبَةٌ۔
النُّحْرَابِيُّ۔ بھڑوں کے چتے کے سوراخ۔

شہد کے چتے کے سوراخ جس میں کھیاں شہد
جمع کرتی ہیں۔ اس کا مفرد نُّحْرُوبٌ ہے (صحیح
نُحْرَابِيُّ بالنون ہے)

النُّحْرَبِدُ۔ کھانا ہوا دودھ۔
النُّحْرَبِزُ۔ خربوزہ۔

خَرِبَشٌ خَرِبَشَةٌ الكتاب او العمل:
بگاڑنا۔

خَرَابِيشٌ۔ الخِطُّ: تحریر جو بگاڑی گئی ہو۔
خَرِبَصٌ۔ الاشیاء۔ الگ الگ کرنا المال:

لے کر چھپت ہو جانا۔
النُّحْرَبِصَةُ۔ جوان پر گوشت عورت۔
خَرِبِقٌ۔ چلے میں جلدی کرنا الشَّيْءُ: ٹکڑے

ٹکڑے کرنا العمل: بگاڑنا۔

النُّوْبُ: پھاڑنا النُّبْتُ: ایک دوسرے سے
متصل ہونا۔

النُّحْرَبِقُ۔ ایک قسم کی گھاس جس کی پتیوں
بارنگ کے مشابہ ہوتی ہے اور دو قسم کی ہوتی
ہیں سیاہ و سفید۔

النُّحْرَبِقُ۔ سر جھکانا۔ زمین سے ہٹنا۔
خَرِبَتْ (ن) خَرَبًا۔ الاَذُنُ: سوراخ کرنا

الارض: راستوں سے واقف ہونا۔
خَرِبَتْ (س) خَرَبًا۔ ہوشیار رہنا۔

النُّحْرَبَتْ و النُّحْرَبَتْ۔ سوئی وغیرہ کا سوراخ۔
کہا جاتا ہے ”أَضْبِقْ مِینَ خَرِبَاتِ الاِبْرَةِ“ و

”اجعل العود فی خَرِبَاتِ الفاس“ سینہ
کے نزدیک ایک چھوٹی ہڈی۔ جِ اُخْرَاتٌ

و اُخْرَاتٌ ذَنْبٌ خَرِبَتْ: تیر بھیرا۔
النُّحْرَبِيتُ۔ ماہر راہبر جو جنگل و بیابان کے

مخفی راستوں سے بھی واقف ہو۔ جِ خَرَابِيتٌ
و خَرَابِيتٌ۔

النُّحْرَبِيتُ۔ واضح راستہ۔
النُّحْرَبِيتُ۔ منہ چھٹے ہوئے کان یا ناک یا

ہوٹ والا۔
النُّحْرَبِيتُ۔ بڑی کوکھ والی اور ڈھیلے گوشت والی

عورت۔
النُّحْرَبِيتُ۔ سرخ جیوٹی۔

النُّحْرَبِيتُ۔ ردی و گھٹیا سامان۔ خُرُوبِيٌّ
الكلام: بے فائدہ گفتگو۔

خَرَجٌ (ض) خُرُوجًا و مَخْرَجًا۔ مِینَ
موضعیہ: لُكْنَا فِی الْعِلْمِ: فائق ہونا بہ:

نُكْنَا عَلَيْهِ: جگہ کیلئے لُكْنَا الرَّعِيَّةَ عَلٰی
المَلِكِ: سرکشی و بغاوت کرنا الی فُلَانٍ مِینَ

ذِیْنِهِ: ادا کر دینا۔
خَرَجَهُ مِینَ الْمَكَانِ: نکالنا الارض:

خَرَجَ مقرر کرنا المسئلَةَ: مسئلہ کی توجیہ
کرنا۔

الوَلَدُ فِی الْاَدَبِ: مہذب و تجرید کار بنانا
العمل: ایک دوسرے کے مخالف مختلف قسم

کے کر دینا۔ الغلام اللوح: کچھ لکھنا اور کچھ

فصح خورقیہ۔
 الخورذق چہرہ ج خوراذق (ذیل)
 خورذل الطعام اچھا کھانا اللحم:
 چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹا۔
 الخوراذل گوشت کے ٹکڑے۔
 لحم (خوراذیل) ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا
 گوشت۔
 الخورذل رالی۔ واحد (خورذلة)
 خورذل (ض) خورزا۔ الجلد بتالی سے
 سینا۔
 خورس (س) خورزا کزوری کے بعد مضبوط
 کرنا۔
 الخورذ پوتھ جس کو لڑی میں پرو لیا جائے۔
 شیشہ کے چھدے ہوئے دانے پتھر کے ٹک
 واحد (خورذة) خورذة الظهر نیزہ کی ہڈی
 کے سٹے۔ خورذات الملك ثانی تاج کے
 جواہر۔
 الخورذة سورخ اور اس کا دھاگا۔ ج۔
 خورذ۔
 الخورازہ بوجی کا پیشہ۔
 الخوراز بوجی۔
 طابو (مخورذ) پندہ جس کے بازوؤں پر
 نطقتے ہوں۔
 المخورز بتالی۔ ج مخارز۔
 خورس (س) خورسا بونگا ہوتا۔ خورسا:
 مکے سے پینا۔
 آخرسہ اللہ: گونگا کرنا۔ آخرسٹ
 الارض واستخرسٹ ناقابل زراعت
 ہوتا۔
 خرس۔ علی النفساء بچہ کو اس کی
 خوراک کھلانا۔
 تخارس گونگا بننا۔
 تخارسٹ۔ النفساء بچہ کو اپنے لئے کھانا
 تیار کرنا۔ اور اسی سے مثل ہے "تخورسی یا
 نفس لا مخورسة للیثمی تو اپنا کام خود ہی
 کر کوئی اور کرنے والا نہیں۔
 الخورس والخراس بچہ کی پیدائش کا

اس کے خاندان میں سرداری ہو یا ایسا شخص جو
 ڈیر اور باپ اس کا بزدل ہو اور اسی طرح اس
 گھوڑے کو بھی کہا جاتا ہے جو سابق ہو جائے اور
 اس کے ماں باپ ایسے نہ ہوں۔ بادشاہ کا باغی۔
 جماعت کا مخالف۔ مدب خوارج کا معتقد۔
 الخارجیة الثارجی کا مؤنث۔ وہ منصب جس
 کے تعلقات دوسری حکومتوں سے ہوں۔
 المخرج والمخرج والمخرج تریبیت
 یافتہ۔
 الخورج ہر۔ یوم الخورج عید کا دن۔
 قیامت کا دن۔
 المخرج ہر۔ نکلنے کی جگہ۔ پانخانہ کا مقام۔
 ج مخارج۔ والمخرج عند القراء
 والصفین جنہ سے حروف نکلنے کی جگہ۔
 المخرج نکلنے کی جگہ۔
 خورخو۔ النائم: خورالینا النمر أو
 السنور آواز کرنا۔
 تخورخو۔ بطنہ بڑے ہونے کی وجہ سے
 پیٹ کا بلنا۔
 الخورخویانی بننے یا ہوا چلنے کی آواز۔
 الخورخار کثرت سے بہتا ہوا پانی۔
 خورذت (س) خورذا و تخورذت
 الجاریة باکرہ ہونا۔ دو شیرہ ہونا۔
 خورذ و خورذ۔ الرجل زیادہ خاموش
 رہنے والا ہونا۔ کم گفتگو ہونا۔ ذلت کی وجہ سے
 شرم کرنا۔ آخردالی اللہو مال ہونا۔
 الخورید والخوریدة۔ والخورود باکرہ
 دو شیرہ۔ شرمیلی۔ زیادہ خاموش رہنے والی
 لڑکی۔ ج خوراند و خورذ و خورذ۔ صوت
 خوریدہ بزم آواز جس میں شرم و حیا کی
 آمیزش ہو۔ لولوۃ خوریدہ سفید موتی۔
 الخوریدة سفید موتی۔ ج خوراند و خورذ
 و خورذ۔
 الخورذہ معمولی اسباب تجارت۔
 الخورذجی خورذہ بیچنے والا۔ معمولی تاجر۔
 بساطی۔
 خورذق۔ العمل بگازنا۔ کلمہ عامیہ ہے۔

چھوڑ دینا الراعیۃ المرفقہ کچھ چرنا کچھ چھوڑ
 دینا۔
 اخرج۔ الشئی: نکالنا الرجل: خراج ادا
 کرنا الراعیۃ المرفقہ: کچھ چرنا کچھ چھوڑ
 دینا۔
 خارج۔ السید عہدہ ہر مہینہ رقم معین
 کی ادائیگی کا معاملہ کرنا۔
 تخارج۔ الشراکاء: آپس میں تقسیم کرنا۔
 تخورج۔ الولد فی الادب تریبیت یافتہ
 ہونا۔ صفت منخرج۔
 اخرج۔ الشئی: نکالنا۔ استنباط کرنا۔ ایجاد
 کرنا فلاناً نکلنے کو کہنا۔
 اخرج و اخرج۔ الحيوان بیاہ و سفید
 رنگ والا ہونا۔ صفت (اخرج) مؤنث
 خورجاء۔
 استخرج۔ الشئی: استنباط کرنا و نکالنا
 المسئلة: حل کرنا استخرجت
 الارض بھتی کے قابل ہونا۔
 الخورج خراج۔ بعضوں کے نزدیک خراج
 اور خراج میں فرق ہے۔ خراج وہ ہے جو انسان
 کے عوض میں ہو اور خراج عام ہے۔ خراج
 اول اول گھرتے وقت کا بدل۔ ج اخراج۔
 الخورجة خورج کا اسم مرۃ۔ جھروکا۔
 الخورج خرمی۔ ج خورجة۔
 الخورج۔ مثلثة الخاء مین کا محصول۔
 جزیر۔ ج اخراج و اخرجۃ اخراج
 الخورج پھوڑا چھسی۔ واحد (خورجة ہج)
 خوراجات۔
 خراج و لاج و خورجة و لجة بہت نکلنے
 والا۔ بہت داخل ہونے والا۔ بڑا ہوشیار۔ جیلہ
 گر۔
 الخراج ہر چیز کا ظاہر۔ نکلنے والا۔
 الخارجۃ الثارج کا مؤنث۔ ج خراجات
 و خوراج۔ الخوراج: باغی لوگ۔
 جماعت سے نکلے ہوئے لوگ۔
 الخارجی ہر دہی۔ وہ شخص جو بذات خود
 سرداری حاصل کرے بغیر اس کے کہ پہلے سے

کھانا۔
الْخُرْسَةُ وَالنَّخْرَسَةُ. زچہ کا کھانا۔
اچھوانی۔
الْخُرْسُ وَالْخُرْسُ. مکا۔ ج خُرْسُ
الْخُرْسُ: ناقابل زراعت زمین۔
الْخُرْسُ. مکا بنانے والا یا بیجے والا۔
الْخُرْسُ. زچہ کہ جس کے لئے اچھوانی تیار
کی جائے۔
الْأَخْرَسُ. گوہگا۔ ج خُرْسُ و خُرْسَانُ و
أَخْرَسُ مَوْتٌ خُرْسَاءُ. لَبَنٌ أَخْرَسٌ: بجا
ہوا دودھ کہا جاتا ہے۔ ”وَلَا نَبِيَّ عُرْضًا
أَخْرَسٌ أَمْوَسٌ“ یعنی اُس نے مجھ سے مُنہ
پھیر لیا اور گفتگو نہیں کی۔
الْخُرْسَاءُ. مصیبت۔ بغیر گرج و چک کے
بادل۔ رَجُلٌ (خُرْسُ) رات کو نہ سونے والا
مرد۔

خُرْشَةُ (ض) خُرْشَا و خُرْشُهُ و
خَارْشُهُ مُخَارْشَةٌ و خِرَاشًا وَاخْتَرَشَ.
خِرَاشٌ لَكَانَ هَذَا الذَّبَابُ: کاٹنا۔ خُرْشُ و
خُرْشُ الْعَصْنِ: ٹہنی کو ڈنڈے سے کھینچنا۔
خَارَشَ الْكَلْبُ: برا بھینٹ کرنا۔ خُرْشُ
وَاخْتَرَشَ لِبَعِيَالِهِ: بال بچوں کے لئے کمانی
کرنا۔
اِخْتَرَشَتِ الْجِرَاءُ: ایک دوسرے پر حملہ
کرنا۔ خَارَشَهُ الشَّيْءُ وَاخْتَرَشَ مِنْهُ
الشَّيْءُ: زبردستی لے لینا۔
تَخَارَشَتِ الْكِلَابُ: ایک دوسرے پر

حملہ کرنا اور نوچنا۔
الْخُرْشُ. کبھی واحد (خُرْشَةُ) گھر کاروی
سامان۔ ج خُرْشُ و
الْخُرْشَاءُ. برادہ۔

الْخُرْشَاءُ. ساب کی کینچلی۔ اٹلے کا چھلکا۔
غبار۔ خُرْشَاءُ الْعَسَلِ: موم۔ شہد کہ جس
میں مردہ کھیاں بڑی ہوں۔ ج خُرْشَاءُ
الْمِخْرَشُ وَالْمِخْرَشُ. مڑے ہوئے سر
کا ڈنڈا۔ عوام اس کو بَعْمُكُورَةٌ کہتے ہیں۔
خُرْشَبُ الْعَمَلِ: کام کو اچھی طرح نہ

کرتا۔
الْخُرْشَعَةُ. پہاڑ کی چھوٹی چوٹی۔ ج خُرْشَعُ
و خُرْشَعُ.
الْخُرْشَقَةُ. گفتگو کی گڑبڑ۔ حرکت۔
(وَالْخُرْشَافُ) سخت زمین کہ جس میں چلنا
دشوار ہو۔
الْخُرْشُوفُ. ایک قسم کی نباتات۔
الْخُرْشُومُ. وادی یا ہموار زمین پر نکلی ہوئی
پہاڑ کی نوک۔ بڑا پہاڑ۔ ج خُرْشِيمُ.
خُرْصٌ (ن ض) خُرْصًا. جھوٹ بولنا۔
فِي الْأَمْرِ: انکل سے کہنا۔ قیاس کرنا۔ اندازہ
کرنا۔ کہا جاتا ہے ”خُرْصُ النَّحْلَةِ“ اس نے
درخت خرما کے پھلوں کا انکل سے اندازہ کیا۔
خُرْصٌ (ن) خِرَاصَةٌ. الشَّيْءُ: درست
کرنا۔

خُرْصٌ (س) خُرْصًا. بھوک و سردی والا
ہونا۔ صفت (خُرْصٌ و خُرْصٌ)
تَخْرُصُ وَاخْتَرُصُ. تہمت لگانا۔ جھوٹ
بولنا۔ توشہ دان میں رکھنا۔
الْخُرْصُ. اندازہ۔ تم کہتے ہو ”کم خوص
ارضك“ تمہاری زمین کا کیا اندازہ ہے۔ توشہ
دان۔ چھوٹا نیزہ۔ بھالا۔ مکا۔ ٹوکری۔

الْخُرْصُ وَالْخُرْصُ. ج خُرْصَانُ و
خُرْصَانُ. سونے چاندی وغیرہ کا حلقہ ج
خِرَاصٌ و أَخْرَاصٌ: درخت خرما کی شاخ۔
الْخُرْصُ وَالْخُرْصُ وَالْخُرْصُ. شہد
نکلنے کی گلاڑی۔ جاخراص۔

الْخُرْصَةُ. حصہ۔ زچہ کا کھانا۔
الْخُرْصِيصُ. ٹھنڈا پانی۔ درختوں کی جڑوں میں
جمع شدہ پانی۔ نہر کی ایک جانب۔
الْخُرْصُ. جھوٹا۔

الْمِخْرُصُ. نیزہ۔ ج مَمَارِصُ.
خُرْطٌ (ن ض) خُرْطًا. الذَّرْقُ: ہاتھ سے
مار کر پتے جھاڑنا العنقود: انگور کے گچھے کو
مٹہ میں رکھ کر بغیر دانہ کے نکالنا الشجرۃ:
کھینچ کر پتے جھاڑنا العود: خراوے ہموار کرنا
الحديد: عمود کی مانند لبا کرنا۔ الجواهر:

تھیلے میں جمع کرنا البازی: شکار پر چھوڑنا
الرجل: فی الامر: کسی کام میں لگانا
الرجل: جھوٹ بولنا الدلو فی البئر: لگانا
الابل فی الرعی: چرنے کے لئے چھوڑنا
جاریتہ: جماع کرنا بائیتہ: گوز کرنا عبدہ
علی الناس: ایذا رسانی کیلئے مقرر کرنا۔
خُرْطَةُ (ن) و خُرْطَةُ. الدواء: اسپہل
لانا۔

خُرْطُ (س) خُرْطًا و اِخْرَطْتُ.
الشاةُ و الناقَةُ: بکری یا اونٹنی کو خرط کی
بیماری لاحق ہونا خُرْطُ بِالطَّغَامِ: پھندہ لگانا۔
تَخْرُطُ. فی الامور: دلیری و خود سری
کرنا۔

اِنْخَرَطَ. الجسمُ: لاغر ہونا۔ اِنْخَرَطَتْ
الْحُرْزَةُ فِي السَّلْكِ: پرویا جانا۔ اِنْخَرَطَ
فِي الْمَكَانِ: جلدی سے داخل ہونا۔ من: نکلنا
الصقر: شکار پر ٹوٹ پڑنا۔

بَطْنُ الْإِنْسَانِ: پیٹ چلنا۔ کہا جاتا ہے۔
”اِنْخَرَطَ عَلَيْنَا بِالْقَبِيحِ“ وہ ہمارے اوپر
فحش گوئی کے ساتھ متوجہ ہوا۔

اِنْخَرَطَ. السيفُ: سونتا العنقود: انگور
کے گچھے کو مٹہ میں رکھ کر بغیر دانہ کے نکالنا۔
اِسْتَحْرَطَ. فِي الْبِكَاءِ: پھوٹ پھوٹ کے
رونا۔

الخراطُ. خراوہ کا کام کرنے والا۔ بڑا جھوٹا۔
الخروطُ. سارے جسم کی کمزوری۔ جانوروں
کی ایک بیماری جو ان کے قہن میں ہوتی ہے اور
اس سے ہما وادودھ نکلتا ہے۔

الخُرْطُ. مٹہ زور جانور۔ ج خُرْطُ. بے
عقلی و نادانی سے کاموں میں دخل دینے والا۔
الخِرَاطَةُ. خراوہ کے کام کا پیشہ۔
الخِرَاطَةُ. برادہ۔

الخُرَيْطَةُ. تھمبلا۔ ملک کا نقشہ۔ اٹلیس۔
خُرَيْطَةُ كُو خَارِطُهُ بھی کہتے ہیں اور عربی
مُصَوِّرٌ يَمْخَطُطُ ہے۔

الْخُرْطَانُ، انگور جس کو جانور کھاتے ہیں اور
امریکی لوگ اس کا شراب پیتے ہیں۔

المخروط. وہ بکری یا اونٹنی جس کو خرط کی بیماری لاحق ہو۔ مخاریط.

المخروطة. خراذ کرنے کا اوزار۔ ج مخاريط.

المخروط. سب کم واہمی والا۔ لسا چہرہ جس میں عرض کم ہو بشر مخروطیہ: جگہ منہ کا کٹواں۔

المخروطيط. منقش پرود والا پروانہ۔ ج خراطيط.

المخروطوم والمخروطم. سوئد۔ جلدی نشہ لانے والی شراب۔ انگور کا پانی جو ملنے سے پہلے نکلے خراطيم القوم: سرداران قوم۔

خروطمه. سوئد پرمانہ۔ اخرونظم. ناک بلند کرنا۔ غضبناک ہونا۔

تکبر کرنا۔ الخروطون. زمین کے اندر بسنے والا کیڑا جو کہ زمین کو زراعت والی بنانے میں فائدہ مند ہے۔

خروعه (ف) خروعا. بھاڑنا۔ خروع (س) خروعا. الشی: ٹوٹنا۔

وإنخوع و تخروع. الرجل: ست ہونا۔ ناقص رائے ہونا۔ کمزور جسم ہونا۔ انخوعت القناة: پھٹنا۔ ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔

خروع (ک) خرواعة و خروعا و خروعا. ڈھیلے جوڑوں والا ہونا۔ صفت خروع و خویع.

خروع. الثوب: عصف (کسم) سے رنگنا۔

إخترع الشی: بھاڑنا۔ پیدا کرنا۔ ایجاد کرنا اور اس سے (الخروعة) ہے۔

فلانا: خیانت کرنا۔ دھوکا دینا۔ الدابة: دوسرے کے جانور کو چند دن کام

میں لانا اور پھر واپس کر دینا۔ الخرواعة. سبے باکی۔

المخروع. ارٹھی کا پودہ جس سے کسرا سکل تیار ہوتا ہے ہر وہ پودہ جو نرمی سے دہرا ہو جائے۔ واحد خروعة۔

المخراع. اونٹنی کی دیوانگی۔ اونٹنی کی پیٹھ کی

شکستگی۔

المخروع والمخویع والمخروع. من النساء: نزاکت سے جھک جھک جانے والی عورت۔ ج خرواع و خروع. غیش

خروع. آسودہ زندگی۔ جمل خویع: کمزور مرد۔ ناقہ خویع و مخروطیة: اونٹنی جس کو دیوانگی لاحق ہو۔

خروف (س) و خروف (ک) خروفا. بڑھاپے کی وجہ سے فاسد العقل ہونا۔ صفت (خروف) مؤنث (خروفیة).

خروف (ن) خروفا و خروفا و خروفا و مخروفا. الشمر: چننا۔

خروفیة. الارض: موسم خریف کی بارش ہونا۔ صفت (مخروفیة) البہائم: موسم خریف کا آتیا ان کے چرنے کے لائق گھاس

اگانا۔ خروفہ. حرف (ن) عقل کی جانب نسبت کرنا۔

خروفہ. محارفة و خروفا. موسم خریف میں معاملہ کرنا۔

أخروفہ. بگاڑنا۔ فاسد کرنا۔ أخروفت الشاة: موسم خریف میں بچہ دینا۔ أخروف الرجل: موسم خریف میں داخل ہونا۔ الشمر: پھل

توڑنے کا وقت آپہنچا۔ إختروف. الشمر: چنبھی مکان: موسم خریف میں اقامت کرنا۔

الخروف والخرواف. پھلوں کے چننے کا زمانہ۔

الخروافة: بے عقلی کی ہنسی لانے والی باتیں۔ الخروف. بکری کا بچہ۔ ج خرواف و

أخروفة و خروفان. الخروفیة. بکری کا مادہ بچہ۔ درخت خرما جس کا پھل توڑا جائے۔

الخروفیة. چنا ہوا میوہ۔ الخروفیف. موسم خریف۔ گرمی اور جاڑے

کے درمیان کا زمانہ۔ موسم خریف کی بارش۔ اور نسبت کے لئے الاخرفیعی و خروفی و

خروفی. چنی ہوئی کھجور۔

الخروفیة. درخت خرما جس سے تر کھجوریں چنی جائیں۔

الخروافة. باطل بات۔ ج خروافات. چنا ہوا پھل۔

المخروف. چھوٹی ٹوکری۔ جس میں عمدہ کھجوریں چن کے رکھی جائیں۔

المخروفة. درخت خرما کی دو نظاروں کے درمیان کا راستہ۔ ج مخارف. بڑھاپے کی وجہ سے عقل کی خرابی۔

المخارف. من الرجال: محروم۔ خرفش. الشیء: ملانا۔ خلط ملط کرنا۔

خروق (ن) ض) خروفا. الثوب: بھاڑنا۔ فلانا بالرمح: نیزہ مارنا۔ الکذب: جھوٹ

گھڑنا۔ المفازة: طے کر کے انتہا تک پہنچنا۔ العادة: عادت کے خلاف کرنا۔ البناء و فی

البناء: روشدان کھولنا۔ الريح: تیز چلنا۔ الرجل: جھوٹ بولنا۔

خروق (ن) خروفا. فی البيت: لگاتار قیام کرنا۔

خروق (س) خروفا. خوف یا شرم سے دہشت زدہ ہونا۔ صفت (خروق) فی البيت: لگاتار قیام کرنا۔ الغزال او الطائر:

اُٹھنے یاڑنے سے عاجز ہونا۔ خروق (س) خروق (ک) خروافة. ہو قوف ہونا۔ ادھورا کام کرنا۔ صفت

(أخروق) مؤنث خروقاء۔ خروفہ. بھاڑنا۔ خروق الرجل: بہت جھوٹ بولنا۔

أخروفہ. دہشت زدہ کرنا۔ تخروق و انخروق و اخروروق. جھٹنا

وتخروق الكذب: جھوٹ گھڑنا۔ تخروق فی الکرم: بے حد فیاضی کرنا۔ تخروقت و انخروقت الريح: تیز چلنا۔

إخترق. الارض: زمین میں ایک طرف کو بغیر راستہ کے چلا لگوم: قوم کے درمیان سے چلا لگادب: جھوٹ گھڑنا۔

ہے ”خزّہ وَاخْتَزَّهٖ بَبَصْرِهِ: اس نے اس کو اپنی نگاہ میں رکھا۔
 الخَزْرُ: ریشم۔ ریشم اور اُون کا بنا ہوا کپڑا۔ ج خَزُوْرُ۔
 الخَزْرُ: زرخروش۔ ج خَزَان وَاخْزَاةُ الخَزْرِيُو: بہت ہی خشک عوج (عوج ایک کانٹے کا نام ہے)
 الخَزَاْرُ: ریشم فروش۔
 المَخْزَاةُ: خرگوشوں کی جگہ۔
 خَزْبُ (س) خَزْبَانُ و تَخْزَبُ: الجلد: بغیر درد کے سوجنا۔ صفت (خزب)
 الشَّاةُ: سو بے ہوئے تھنوں والی ہونا۔ صفت (خزبہ و خزباء)
 الخِزْبُ و الخِزْبَانُ: نرم گوشت۔ ایک ککڑے کو (خزبہ و خبزبانہ) کہتے ہیں۔
 الخِزْبَانُ: شتر مرغ کا بچہ۔
 الخِزْبِيَّةُ: سونے کی کان۔
 الخِزْبَانُ و الخِزْبَانِيَا: مبینی علی الکسرة: ایک قسم کی کھلیاں جو باغوں میں ہوتی ہیں۔ باغ کی کھلیوں کی بھینٹناہٹ۔
 خَزْرَا (ن) خَزْرَا: کھلیوں سے دیکھنا۔ چالاک ہونا۔ صفت (خازر)
 خَزْرَا (س) خَزْرَا: عينه: تنگ آنکھ والا ہونا۔ صفت (اخزور) مؤنث خَزْرَاءُ ج خَزْرَا: خَزْرَا الرَّجُلُ: بھاگنا۔
 خَزْرَا: الشَّيْ: تنگ کرنا۔
 تَخَاَزَّرَ: نگاہ تیز کرنے کے لئے پلکوں کو سینٹا۔
 الخَزْرُ: آنکھ کی تنگی۔ ایک قوم جن کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں اور اسی سے ہے ”بخز الخزرم“ یعنی بحر کیسپین۔
 الخَزْرَاةُ و الخَزْرَاةُ: بیٹھ کا درد۔
 الخَزْرَاةُ: بدترین قسم کا بھیگان جس میں آنکھ کا ذہیلا کھینٹی والے گوشے کی جانب اُلٹ جاتا ہے۔
 الخِزْرَانُ: بآس۔ نیزے۔ نرکل۔ ہر نرم لکڑی۔ لکڑی جس سے ملاح نشی کو چلاتا ہے۔

کیا۔
 خَزْرَمَ (س) خَزْرَمًا: تھنوں کے بیچ کی چھدی ہوئی ہڈی والا ہونا۔ صفت (اخزرم)
 خَزْرَمَ (ک) خَزْرَمَةً: شوخ و بیباک ہونا۔ صفت (خازم و خزرم)
 خَزْرَمَ: الخَزْرَاةُ: سوراخ کرنا۔
 تَخَزْرَمَ: ٹوٹنا۔
 تَخَزْرَمَهُ وَاخْتَزْرَمَهُ: ہلاک کرنا۔ جڑ سے اکھیرتاہ اختزرمہ المرض: لاغر کرنا۔
 تَخَزْرَمْتَهُ وَاخْتَزْرَمْتَهُ المَنْبِيَّةُ: اس کو موت نے لے لیا۔
 اُخْتَزْرَمَ: عنًا: مرنا۔
 اِنْخَزْرَمَ: انْفَه: تھنوں کے بیچ کی ہڈی کا چھدنا۔ کہا جاتا ہے ”انخزرم ذلك القرن“ یہ زمانہ ختم ہو گیا۔
 النَخْرَمُ: س۔ پہاڑ کی نکلی ہوئی نوک۔ ج خُرُوْمُ۔
 النَخْرَمَانُ: جھوٹ۔
 النَخْرَمَةُ: ناک میں چھدنے کی جگہ۔
 النَخْرَمَاءُ: چھدا ہوا کان۔ عنزہ خرماء: بکری جس کا کان عرض میں پھاڑ دیا گیا ہو۔
 النَخْرَمَةُ: انسان کی ناک کا بانہ یا دونوں تھنوں کا درمیانی حصہ۔
 الاَخْرَمُ: مونڈھے کا کنارہ۔ شاہ روم کا لقب۔
 الاَخْرَمَانُ: اوپر کے جڑے میں دو سوراخ دار ہڈیاں۔
 المَخْرَمُ: پہاڑ کی نوک کا آخری سرا۔ ج مَخْرَمُ: مَخْرَمُ اللّٰیْلِ: رات کے ابتدائی حصے۔
 خَزْرَمَشُ: الكتاب: مٹانا۔ بگاڑنا۔
 خَزْرَفَهُ: بالسيف: تلوار سے مارنا۔
 الخَزْرِيْقُ: جوان خرگوش۔ ج خَزْرَاقِيقُ۔
 الخَزْوَرْنَقُ: بادشاہ کے کھانے پینے کی مجلس۔ ایک نباتات۔
 خَزْرَا (ن) خَزْرَا: الحائط: دیوار پر کانٹے رکھنا خَزْرَا التَّمْرُ يَخْزُرُ: کچھ کھٹا ہونا۔ صفت (خازر و اخززه) بالرمح: نیزہ مارنا کہا جاتا

الخَزْرَقُ: س۔ سوراخ۔ کشادگی۔ بغیر گھاس پانی کا بیباک۔ کشادہ زمین جس میں ہوا میں تیز چلیں۔ ج خَزْوَرُوْقُ۔
 الخَزْرَقُ: ج أَخْرَاقُ و خُرَاقُ و خَزْوَرُوْقُ و (الخزرق) فیاض۔ جی۔
 الخُرْقُ و الخَزْرَقُ و الخَزْرَقَةُ: رائے کی کمزوری۔ نادانی و بیوقوفی۔ جی۔ نومۃ الخَزْرَقُ: چاشت کے وقت کی نیند۔ اس کو نومۃ الخَزْرَقُ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس وقت سونے سے عبادت بڑھتی ہے۔
 الخَزْرَقَةُ: کپڑے کا ایک کٹڑا۔ ج خَزْرَقُ: چھتھرا۔ دھجی۔
 الخَارِقُ: فا۔ وہ چیز جو متعنائے عادت کے خلاف ہو۔ ج خَوَارِقُ۔
 الخَزْرِيْقُ و الخَزْوَرُوْقُ: شندھی تیز ہول۔
 الخَزْرِيْقُ: نرم ہول۔ ج خَزْرَقُ: وادی کا کشادہ حصہ۔ پانی بہنے کی جگہ۔
 الخَزْرَقَاءُ: أَخْرَقُ کا مؤنث۔ کشادہ زمین۔ تیز ہول۔
 المَخْرَقُ: بے گھاس پانی کا بیباک۔ ج مَخْرَاقُ: مَخْرَاقُ کا استعمال عام طور پر بدن کے منافذ جیسے منہ، ناک وغیرہ ہوتا ہے۔
 المَخْرَقَةُ: جھوٹ۔
 المَخْرَاقُ: خوبصورت بدن والا۔ فیاض۔ تجربہ کار۔ ج مَخْرَاقِيقُ: المَخْرَاقِيقُ: وہ کپڑا جس کو بٹ کر بچے کھیلنا کرتے ہیں۔
 المُنْخَرَقُ: تیز رفتار۔
 المُنْخَرَقُ: گزرگاہ۔ مُنْخَرَقُ الرِّیَاحِ: ہوا کے چلنے کی جگہ۔ اور کہا گیا ہے ”مکان خاوی المُنْخَرَقُ“ یعنی ایسی جگہ جہاں کوئی چلنے والا نہ ہو۔
 خَزْرَمَةَ (ن) خَزْرَمًا: شگاف ڈالنا۔ سوراخ کرنا۔ خَزْرَمَ الخَزْرَاةُ: توڑنا: ناک کی درمیانی ہڈی پھاڑنا الاِنْبَرَةُ: ناک توڑ دینا عن الطريق: ہٹ جانا۔ کہا جاتا ہے ”خزرمته الخوارم“ یعنی وہ مر گیا۔ و ”ماخزمت منه شینا“ میں نے اس میں سے کچھ کم نہیں

انْفَعِ الْخِزَامَةَ“ فلان کی ناک میں ناتھ ڈال دی۔ یعنی تابع و مطیع کر لیا۔
خِزَامَةٌ مُخَازِمَةٌ. الطريق: دو مختلف راستوں سے چل کر ایک جگہ ملنا۔
تَخَزَمَ. الشَّرْكَةُ فِي رَجُلِهِ: چھینا۔
تَخَازَمَ. الْجِيْشَانُ: دو فوجوں کا ایک دوسرے کے مقابل ہونا۔
الخِزَمُ. اِيك درخت جس کی چھال سے رسی بناتے ہیں۔
الخِزَامِيُّ وَالخِزَامُ. اِيك قسم کی نباتات جس کا پھول بہت خوشبودار ہوتا ہے۔
الخِزَامَةُ. بَارِكْ جِزْرًا جَسَّ: وہ تمہوں کو باندھا جائے۔ ج خزانہ۔
الخِزْوَمَةُ. گائے یا چھوٹے قد اور زیادہ عمر والی گائے۔
الْاِخْزَمُ. زَبَانِيْبُ-
شَرَاكُ (مَخْزُوْمٌ) كُنَّا هُوَاتَمَهُ-
خَزَنَ (س) خَزْنَا وَخَزْتَنَ
المَالُ: وَخَيْرُهُ كَرْنَا- جَمْعُ كَرْنَا السَّرُّ: چھپانا۔
اللِّسَانُ: زَبَانُ رُوْكُنَا- اِخْتَزَنَ الطَّرِيْقُ:
قَرِيْبُ تَرِيْنِ رَاسْتِهِ اِخْتِيَارُ كَرْنَا-
خَزَنَ (ن) خَزْنَا وَخَزُوْنَا وَخَزِنَ
(س) خَزْنَا وَخَزِنَ (س) خَزَانَةٌ
اللِّحْمُ: بَدِيْوِدَارُ هُوَاتَمَهُ صَفْتِ (خَزِيْنِ)
اِخْرَنَ مَتَّحِيْجِ كَيْ بَعْدِ مَالِ دَارِ هُوَاتَمَهُ-
اِسْتَخَزَنَ. المَالُ: وَخَيْرُهُ كَرْنَا كُوَاهِنَا-
اِسْتَخَزَنَ المَالُ: وَخَيْرُهُ كَرْنَا-
اِخْتِزَانَةُ وَالخِزِيْنَةُ: وَخَيْرُهُ كَرْنَا كَيْ جَلَدِ-
خَزَانِيْنِ. اِخْتِزَانَةُ: خَزَانِيْنِ كَاپِيْشَةُ-
اَلْخَزَانُ. فَآ. وَخَيْرُهُ كَرْنَا وَاللّٰ- خَزَانُ
اَلْاَمِيْرُ: خَزَانِيْنِ جِ خَزَانَةٌ وَخَزَانُ
اَلخَزَانُ: زَبَانُ-
اَلخِزَانَةُ وَالخِزِيْنَةُ. خَزَانَةُ. وَخَيْرُهُ كَرْنَا هُوَا
مَالُ-
اَلخِزَانُ: زَبَانُ-
اَلْمَخْزُوْمُ. وَخَيْرُهُ كَرْنَا كَيْ جَلَدِ- ج
مَخَازِنُ. مَخَازِنُ الطَّرِيْقِ. مَقْصُوْدُ كِي

والا ياتي والـ
خَزَقَهُ (ض) خَزَقًا. اَمْتَهُ نِيْزُهُ مَارْنَا-
خَزَقَهُ بِالسَّهْمِ: تِيْرُ مَارْنَا- خَزَقَ الطَّائِرُ:
بِيْطُ كَرْنَا الشَّيْءَ فِي الْاَرْضِ: كَاثَرْنَا-
تَخَزَقَ وَانْخَزَقَ: جَمْدْنَا-
اِخْتَزَقَ. السِّيْفُ: نَعْمِيْ هُوَاتَمَهُ مِيَانُ سَيْفِ كَلِّ
پڑنا۔
اَلْخَزَاقُ. فَآ. نِيْزُهُ كَاپِيْلُ-
اَلْخَزَاقُ. تِيْرُ سَرِّ كَا اِيك لِبَاؤُنْثَا جَسَّ كُو
بَجْرَمِ كِي دَرِيْنِ وَدَاخِلُ كَرْتِي تَهَّ اُوْرُوهُ اِسْ پَر
مَر جَايَا كَرْتَا تَهَّ جِ خَزَاقِيْنِ. مَوْلِدِيْنِ نَعْمِيْ
اِسِي سَيْفِ فَعْلُ “خَزَاقُ” بِنَايَا۔
اَلْمَخْزُوْقَةُ. جَهْوَانِيْزُهُ-
خَزَقَ (س) خَزَقًا. اِصْرَارُ كَرْنَا-
خَزَلُ (س) خَزَلًا. فَكَلْتُهُ پِيْشْتُ هُوَاتَمَهُ صَفْتِ
(اِخْزَلُ وَ مَخْزُوْلُ)
خَزَلُ (ض) خَزَلًا. الشَّيْءُ: كَاثَرْنَا هُوَا
حَاجْتُهُ: رُوْكُنَا-
تَخَزَلُ. كُنْنَا- بُوَجْهَلُ جَلْنَا السَّحَابُ:
اَلْاِخْتِزَالُ: عِلْمُ حَآبِ مِيْنِ صَدْفِ كَرْنَا اُوْرُ كِيْثَرُ كُو
قَلِيْلُ كِي طَرَفِ الْاِنَا- كَسْرًا اِخْتِصَارًا:
($\frac{20}{100} - \frac{1}{100} = \frac{19}{100}$)
اِخْتِصَارُ (شَارْتُ) جَلْدِي كِي خَاطِرُ لَكُنْنَا-
اِخْزَلُ. مَرَاوِي سِي جَلْنَا فِي كَلَامِيْهِ:
رُكُ جَانَا عَنِ الْجَوَابِ: لَا پَرُوَانِي كَرْنَا مِيْنِ
اَلْمَكَانِ: عَلِيْجُهُ هُوَاتَمَهُ-
اِخْتَزَلُ. الشَّيْءُ: كَسِيْ جِيْزُ كُو كَاثَرْنَا لِيْنَا-
هُوَا: عِيْبُ لَكُنْنَا بَرَايَهُ: عَلِيْجُهُ رَاوِي رَكُنْنَا هُوَا
عَنِ قَوْمِيْهِ: عَلِيْجُهُ كَرْنَا الْوَدِيْعَةَ: وَاِپْسِي سِي
رُوْكُ كَر خَاصَاتُ كَرْنَا-
اَلْحِزْلَةُ: مَهْلِكِيْ پِيْشْتُ-
اَلْحِزْلَةُ. مَرَاوِي رُوْكِي وَاللّٰ-
اَلْخِزْوَلِيُّ وَالخِزْوَلِيُّ. اِيك قسم كِي چَال
جِس مِيْنِ نَاوَا نَدَا هُوَا-
خَزَمَ (ض) خَزَمًا. اللّٰلِي: پَرُوْنَا-
(وَخَزَمَ) البَعِيْرُ: نَاكُ مِيْنِ حَلْقَةِ ذُلْنَا-
كُهَابَا تَا هُوَا “خَزَمَ اِنْفَ فُلَانُ” يَا “جَعَلُ فِي

واحد (خِزْرَانَةٌ) جِ خِيَاوِرُ-
اَلْخِزْوَرُ. زَكَلُ-
اَلْخِزْوَرِيُّ وَالخِزْوَرِيُّ. اِيك قسم كِي چَال
نَاوَا نَدَا كِي سَاكُهُ-
خَزَرَفَ. فِي مَشِيْتِهِ: هَاتَهُو كُو هَلَا تِي
هُوَاتَمَهُ چَلْنَا-
خَزَعًا وَ تَخَزَعًا. الشَّيْءُ:
كَاثَرْنَا عَنِ القَوْمِ: پِيْجِي رُو جَانَا- خَزَعُ مِنْهُ
شَيْئًا: لِيْنَا- تَخَزَعُوا الشَّيْءَ: بَاهِمُ تَقِيْمُ
كَرْنَا-
خَزَعُ. الشَّيْءُ: كَاثَرْنَا- الشَّيْءُ بِيْنَهُمْ:
تَقِيْمُ كَرْنَا-
اِنْخَزَعُ. اَلْحِيْلُ: نِصْفُ سِي كَرْنَا جَانَا-
الرُّجْلُ: بَرُوَاهِيْ يَا كَرُوِي كِي وَجْهِي سِي جَمْدْنَا-
اِخْتَزَعَهُ. لِيْنَا- هُوَا عَنِ القَوْمِ: جَدَا كَرْنَا لِيْنَا-
اَلْخِزَاعُ. مَوْتُ-
اَلْخِزَاعَةُ. اِيك پَاؤُنُ سِي لَكْرَا پَرْنَا-
اَلْخِزَاعَةُ. گوشتِ كَا كَلْمَا-
اَلْخِزَاعَةُ. كَلْمَا جُو كَسِي جِيْزُ سِي كَا تَا جَانَا-
اَلْخِزْوَعُ. بَرُوَاهِي-
اَلْخِزْوَعَةُ. رِيكُ كَا تُوْدُهُ جُو بُوِي تُوْدُهُ سِي جَدَا
هُوَا-
اَلْخِزْوَعُ. وَهُ فَحْصُ جُو لُوْگُوْنُ كِي مَالُ كُو اُوْرَا
لِي-
اَلْخِزْعِيْلُ وَالْخِزْعِيْلُ وَالْخِزْعِيْلُ.
خُوشُ طَبِيْعِي كِي بَاتِيْمُ- بَاطِلُ بَاتِيْمُ-
اَلْخِزْعِيْلَةُ. خُوشُ طَبِيْعِي وَنَدَاقُ-
خِزْعَلُ. فِي مَشِيْتِهِ: لَكْرَا هَاتَمَشِي:
پَاؤُنُ كُو جَمَارْنَا-
اَلْخِزْعَلُ. بِيْجُو-
اَلْخِزْعَالَةُ. خُوشُ طَبِيْعِي وَكِيْلُ رُوْدُ-
خَزَفَ (ض) خَزَفًا. فِي مَشِيْتِهِ: هَاتَمَهُ
هَلَا تِي هُوَاتَمَهُ چَلْنَا اَلثَّوْبُ: پَهَارْنَا الشَّيْءُ:
چِرْنَا-
اَلْخِزْفُ. وَاحِدُ (خِزْفَةُ) مَهْمِيْكِي- مَثِي كِي
كِي هُوَاتَمَهُ بَرْتَنُ-
اَلْخِزْفُ وَالْخِزْفِيُّ. مَثِي كِي بَرْتَنُ بِنَانِي

دھس جانا القمر: مھن گنا العین: آنکھ، جاتا رہنا یا اندر کو دھس جانا السقف: گھر، الشی: کم ہونا الرجل: ڈبلا ہونا۔ خسف فی الارض و خسف بہ: زمین میں دھسنا۔ (خسفا) الشی: کائن العین: چھوڑنا اللہ الارض: مع ساری چیزوں کے دھسنا۔ اللہ الارض یفلان: زمین میں دھسنا۔ البئر: پھر لی زمین میں کنواں کھودنا جو ہمیشہ جاری رہے فلائنا: ڈبل کرنا۔ ناپسندیدہ امر پر مجبور کرنا۔ خسف الشی خسف ہو: پھاڑنا اور پھٹنا۔ (لازمی و متعدی) افسفت وانخسفت: عینہ: اندھی ہونا الارض: مع ساری چیزوں کے دھس جانا البئر: گرجانا۔

الخسف: سر عیب۔ ذلت۔ کہا جاتا ہے "سامہ خسفاً و خسفاً" اس نے اس کو ڈبل کیا اور اس کو مشقت کی تکلیف دی۔ الخسف: کنوئیں کا سوت۔ الخسيف: فا۔ دھسی ہوئی آنکھ۔ ڈبلا۔ بیماری کی وجہ سے لاغر۔ بھوکا۔ خسف الخسف والخسف الخسوف واحد (خسفة) کہا جاتا ہے "باتوا علی الخسف" انہوں نے فاقہ سے ات گزاری۔ و "شربنا علی الخسف" بغیر

کچھ کھائے ہوئے ہم نے پیا۔ الخسيف: ج افسفة و خسف و (الخسوف) ج خسف۔ من الآبار: کنواں جو پٹان میں کھودا جائے اور اس کا پانی ختم نہ ہو۔ والخسيف من العيون: دھسی ہوئی آنکھ من النوق: بہت دودھ والی اونٹنی جس کا دودھ جائے میں جلدی ختم ہو جائے۔ من السحاب: بہت پانی کو لے کر اٹھنے والا پادل۔

خسق (ض) خسفاً و خسوفاً السهم: اچھی طرح نافذ نہ ہونا۔ الخساق: بڑا جھوٹا کہا جاتا ہے "هو ذو خسفات فی البیع" وہ بھی بیچ کو جاری کرتا

الخساسة: تھوڑا مال۔

الخسيسية: الخسيس کا مؤنث۔ ج خسائس و خسائس الامور: حقیر باتیں۔ شی (خسائس و مخسوس) معمولی گھٹیا چیز۔

الخسان: ستارے جو غائب نہ ہوں۔ جیسے نبات النعش۔

خسأ (ف) خسأ الكلب: دھکارنا۔ (خسأ و خسونا) البصر: چندھیا جانا۔

نکاح کا تمک جانا (و خسی) (س) خسأ و

انخسأ) الكلب: ڈور ہونا۔ دھکارا جانا۔

خاسا مخساسة و تخاسا و تخاسوا۔

القوم: آپس میں ایک دوسرے کو پتھر مارنا۔

الخسی: گھٹیا اون وغیرہ۔

الخاسی: فا من الخنازیر و الکلاب:

دھکارے ہوئے کتے و سور جو لوگوں کے

قریب نہ آنے دئے جائیں۔

الخسیج: خمیر۔ اون کا بنا ہوا کھل۔

خسر (س) خسرا و خسرا و خسرا و خسرا و خسرا۔ نقصان

اٹھانا۔ گمراہ ہونا۔ ہلاک ہونا۔ صفت (خاسیر و خسیر و خیسری)

خسر (ض) خسرا و خسرا۔

المیزان: کم کرنا۔ گھٹانا۔ المال: ضائع

کرنا۔

خسرة و خسرة: نقصان کرنا۔ گمراہ

کرنا۔ ہلاک کرنا۔ أخسر الرجل: نقصان

میں پڑنا۔ أخسر المیزان: گھٹانا۔ کم کرنا۔

الخاسر: فا۔ مکرہ خاسرة: غیر مفید

حملہ۔

الخنسر و الخنسری: وہ شخص جو نقصان

میں ہو۔ ج خناسرة۔

خسيع خسفاً: عنہ کذا: کسی سے کسی چیز

کو ڈور کیا جانا۔

خاسيع القوم و خسیعتهم: قوم کا خیس

ترین فرد۔

خسف (ض) خسوفاً: المكان:

طرف قریب ترین راست۔

خزاه (ن) خزوا۔ غالب آنا۔ سیاست

کرنا۔ خواہش نفسانی سے روکنا۔ دھسی کرنا۔

خز الذابة: سدھانا۔

خزى (س) خزیا و خزى: ڈبل ہونا۔

مصیبت میں مبتلا ہونا۔ خزیه و خزى منہ

خزایہ و خزى: شرم کرنا۔ صفت (خز) مؤنث خزیه و (خزبان) مؤنث خزبان۔ ج

خزایا۔

خزى (ض) خزیا۔ ۵: شرمندگی میں

ڈالنا۔ رسوا کرنا۔ بہت زیادہ رسوا ہونا۔

خزاه مخازاة: شرمندگی میں ڈالنا۔

أخزاه اخزاه: شرمندگی میں ڈالنا۔ ڈبل

کرنا۔ اہانت کرنا۔ اور جب کوئی شخص کوئی

پسندیدہ فعل کرے تو کہا کرتے ہیں "أخزاه

اللہ ما أشعوه" جیسے کہ کہتے ہیں "قاتلة

اللہ ما أشجعہ" ان جیسی دعاؤں میں معنی کا

اعتبار نہیں ہوتا۔

استخزى شرم محسوس کرنا۔

الخزى: ذلت۔ رسوائی۔ عذاب۔ دوری۔

الجزية و الخزية: بلاء۔ مصیبت۔ ڈبل

کن عادت۔

المخزاة: باعث رسوائی و شرمندگی۔

خس (س) خساسة و خسومة و

خسة: رذیل ہونا۔ وزن یا اندازہ میں کم ہونا۔

صفت (خسیس) ج خسائس و اخسة۔

خس (ن) خسأ و خسس۔

نصیبتہ: حصہ کم کرنا۔

أخس: گھٹیا کام کرنا ۵: رذیل پانا۔ حقارت

کرنا۔ أخس خطه: حصہ کم کرنا۔

تخاسوا: الشی: کسی چیز کو آپس میں لینا،

دیبا اور اس کی طرف سبقت کرنا۔

استخسه: رذیل پانا۔ حقارت کرنا۔

الخس: خس۔ خس الجمار و خس

البقر: دو جنگلی گھاس کے نام۔

الخسائس: ہر وہ چیز جس کو لوگ آپس میں

دیں لیں۔

حصہ کو دور کرنا۔
 خشیر (س) خشرا۔ بڑی سے بھاگنا۔
 حریص ہونا۔
 الخشار والخشارة۔ ہر چیز کا ردی حصہ۔
 دسترخوان کا بچا کھچا۔ جو کا دانہ جس میں گودانہ
 ہو۔ رذیل لوگ۔
 خاشيرة۔ الناس: رذیل لوگ۔ واحد
 (الخاشير)
 خشرب خشربة۔ ادھر اکرام کرنا۔
 خشرمت۔ الضبع: کھانے میں چڑچڑ
 کرنا۔
 الخشرم۔ شہد کی کھپوں یا بھڑوں کی
 جماعت۔ شہد کی کھپوں کی ملکہ۔ شہد کی کھپوں
 کا چھتہ۔ نرم پتھر جس سے چونہ بناتے ہیں۔ ج
 خشارمة۔
 الخشارم۔ موٹی آواز۔ بڑی تاک۔
 خشع (ف) خشوعا۔ لہ۔ فروتنی کرنا۔
 عاجزی کا اظہار کرنا۔ صفت (خاشع) ج
 خشع و خشعة و خاشعون بصرہ:
 پست کرنا بصرہ: نگاہ کا پست ہونا الصوت:
 آواز کا پست ہونا الشمس: ڈوبنے کے
 قریب ہونا الوردی: پتے نمر جھانا الارض:
 بارش نہ ہونے سے خشک ہونا۔
 اخشعة۔ کسی کو فروتنی کرنے پر برا بھینٹہ
 کرنا۔
 تخشع۔ فروتنی کرنا۔ وتخاشع۔ فروتنی
 دکھانا۔
 اخشع۔ کسی کے سامنے سر جھکاتے ہوئے
 فروتنی کرنا۔
 الخاشع۔ فا۔ مکان خاشع: وہ جگہ جس
 کا راستہ نہ لے۔ بلدة خاشعة: وہ شہر جس
 میں آنے کی کوئی جگہ نہ ہو۔ حداز خاشع:
 دیوار جو گر کر زمین کے ہموار ہو گئی ہو۔
 الخشعة۔ بچے جو مردہ ماں کے پیٹ کو چھانڑ کر
 نکالا گیا ہو۔
 الخشعة۔ پست نلہ۔ ج خشع
 خشف (ن ض) خشوفا و خشفانا

لگے۔
 خشب (ض) خشبا الشئ بالشئ:
 ملتا الشئ: چھانٹنا۔ صاف کرنا السیف:
 صقل کرنا (واختشب) الشعر: آمد کے
 مطابق بغیر نتیجے کے اشعار کہنا۔
 اختشب السیف: تلوار کو لکڑی جیسا بنانا۔
 خشب الشئ: موٹائی میں لکڑی کی مانند
 ہونا۔
 تخشب۔ چراگاہ سے سوکھی گھاس چرنا۔
 السیف: تلوار کو لکڑی جیسا بنانا۔
 اخشوشب۔ لکڑی کی مانند سخت ہونا۔
 فی غشبه: مشقت پر صبر کرنا۔
 الخشب۔ موٹی لکڑی۔ ج خشب و
 خشب و خشبان۔
 الخشب والاشب۔ موٹا کھردرا۔
 غش خشب: ناپسندیدہ زندگی۔
 الخشاب۔ لکڑی بیچنے والا۔ ج خشابة
 الخشباء۔ سخت زمین جس میں پتھر، کنکر اور
 گارہ ہو۔
 الخشيب۔ من السيف: تلوار جو ابھی
 ڈھیلی گئی ہو۔ صقل کی ہوئی تلوار۔ رذی۔
 گھٹیا۔ صاف کی ہوئی چیز من القسی: تراشی
 ہوئی کمان۔ ج خشب و خشائب
 الخشوب۔ مخلوط نوب والا۔ وہ شخص جس
 کی تعلیم و تربیت اچھی نہ ہوئی ہو۔ وہ شخص جو
 اچھے طریقے سے کام نہ کرتا ہو۔
 الخشاب۔ موٹا۔ پست قد۔
 الخشب۔ سخت نلہ۔
 الخشق۔ کٹاں۔ ریٹم۔ چونغلا۔
 خشخشا خشخشة و تخخششا۔
 السلاح او الحلی: جھنکار ہونا فلاں بین
 الشجر و بین القوم: داخل ہو کر غائب ہو
 جانا۔
 الخشخاش۔ پوست کا پودہ۔ واحد
 (خشخاشة)
 خشر (ض) خشرا۔ دسترخوان پر ردی
 چیز چھوڑنا الشئ: کسی چیز سے اس کے ردی

ہے۔ کبھی طرح کرتا ہے۔
 خشلة (ن) خشلا۔ رذیل کرنا۔ دور کرنا۔
 الخسالة والخسالة۔ ہر چیز کا ردی حصہ۔
 الخسبل۔ فردمایہ۔ رذیل۔ ج خسبال و
 خشبال۔
 الخسل و الخسال۔ کہنے و کمزور لوگ۔
 المخسل و المخسول۔ رذیل۔ خشر۔
 خاسی مخاساة و اخسی اخساء
 خسی تخسیة: اخروث سے باہم طاق و
 جفت کھیلنا۔
 الخسا۔ طاق۔ ج الاخاسی (غلاف)
 قیاس) کہا جاتا ہے "خسا اوزسحا" یعنی طاق یا
 جفت۔
 الخسی۔ اون کا پڑایا خیمہ۔
 خش (ن) خشا۔ فیہ: داخل ہونا
 السحاب: تھوڑی بارش برسا زبدا: نیزہ
 مارنا البعیر: اونٹ کی خشاش ڈالنا۔ (دیکھئے لفظ
 "خشاش")
 انخش۔ فیہ: داخل ہونا بین القوم: گھل
 ل جانا۔
 الخش۔ من تھوڑی بارش۔ جفت۔
 کھردری چیز۔ پیلا۔
 الخش۔ نلہ۔
 الخاش۔ فا۔ الخش کا واحد بمعنی پیلا۔
 الخشاش۔ کیزے کوڑے۔ پہاڑی سانپ۔
 ایک قسم کی لکڑی جس کو اونٹ کی تاک میں
 ڈالتے ہیں۔ واحد (خشاشة) غضب۔ کہا جاتا
 ہے "حرکة خشاشة" یعنی وہ غضبناک ہو۔
 خشاشا الشئ: چیز کے دونوں کنارے۔ ج
 آحشة۔
 الخشاش۔ ردی۔ گھٹیا۔ بہادر۔
 الخشاء۔ گارے اور کنکر والی زمین۔ ج
 خشاوات و خشاشی۔
 الخشاء۔ کان کے پیچھے ابھری ہوئی بڑی۔
 الخش۔ ذیر مرد جو رات کی ہولناکیوں
 میں کام کرے۔ ذیر گھوڑا۔
 الخشیش و الخشیش۔ بران کا پتہ

صل والا۔ و ”هُوَ أَحْسَنُ الْجَانِبِ“ وہ
دُشوار طاقت سے زیادہ ہے۔ ”كَيْبِيَّةُ
خَشَاءٌ“ بہت ہتھیار والی فوج۔
خَشِيَّةٌ (س) خَشِيًّا وَخَشِيًّا وَخَشِيَّةً وَ
خَشَاءً وَخَشِيَانًا وَمَخَشِيَّةً وَمَخَشَاءً۔
ڈرنا۔

خَشَاءٌ تَخَشِيَّةً وَخَشَاءٌ ذُرَانًا خَشَاءُ
فَلَانًا: کسی سے خوف دلانا۔
الْخَشِيُّ وَالْخَاشِي وَالْخَشِيَانُ وَ
الْخَشِيُّ ذُرْنَةٌ وَاللَّحْمُ مَوْتٌ خَاشِيَّةٌ
وَخَشِيَّةٌ وَخَشِيَانَةٌ وَخَشِيَانٌ خَشِيَانًا
الْخَشِيُّ وَالْخَشِيُّ مِنَ النَّبَاتِ: خشک
گھاس۔ کہا جاتا ہے ”هَذَا الْمَكَانُ أَحْسَى
مِنْ ذَلِكَ“ یہ جگہ اس سے زیادہ خوفناک ہے۔

خَصَّ (ن) خَصًّا وَخُصُوصًا
وَخُصُوصَةً وَخُصُوصِيَّةً وَتَخَصُّصًا
وَخَصِيَّةً وَخَصِيصِيَّةً وَخَصِيصًا فَلَانًا
بِالشَّيْءِ نَحَاصٌّ: خصوصیت دینا۔ کہا جاتا
ہے ”خَصَّ بِالْوَدِّ“ یعنی اس نے اسی کے
ساتھ محبت کی (خصوصًا) الشَّيْءِ نَحَاصٌّ
هُوَ الشَّيْءُ لِنَفْسِهِ اِيْنِ لِيْنِ جِهَانِ لِيْنًا
خَصَّ (س) خَصَّاصَةً وَخَصَّاصًا وَ
خَصَّاصَةً نَحَاصٌّ: خصوصًا محتاج ہونا۔

خَصَّصَ الشَّيْءَ نَحَاصًّا: بالشَّيْءِ:
کسی کو کسی چیز کے ساتھ خاص کرنا الغلام:
کڑی کے سرے پر آگ لے کر گھمانا۔ تَبْطِئِي
گھمانا۔

اِخْتَصَّ بِمَحَاجٍ هُوَ بِالشَّيْءِ نَحَاصٌّ هُوَ
بِالشَّيْءِ نَحَاصٌّ: خاص کرنا اور اسی سے ہے۔ ”اللَّهُ
يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ جَسَّ كُو
چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا
ہے۔

تَخَصَّصَ الشَّيْءَ نَحَاصًّا: بالشَّيْءِ: خاص ہونا۔
تَخَصَّصَ الرَّجُلُ نَحَاصًّا لَوَاكِلٍ مِّنْهُ
ہونا۔

اِسْتَخَصَّ الشَّيْءَ: مخصوص ہونے کی
درخواست کرنا۔

الْخَشَلُ وَالْخَشَلُ رَدِي۔ الْخَشَلُ: ہیر
جو دراز چیز۔ خالی کیا ہوا انڈا۔ واحد (خَشَلَةٌ)
کہا جاتا ہے۔ رَجُلٌ خَشَلٌ فَشَلٌ وَخَشِلٌ
فَشَلٌ كَزُرٍّ مَرْدٍ۔

خَشَمَةٌ (ض) خَشَمًا نَاكٌ كِي بَرْتُوْرَتَا۔
خَشَمٌ (س) خَشَمًا وَخَشُوْمًا: چوڑی
ناک والا ہونا الانف: بدبودار ہونا۔

خَشَمٌ (س) خَشَمًا وَخَشَمًا وَخَشَمًا وَ
تَخَشَمٌ: اللحم: بدبودار ہونا۔ خَشَمَهُ
الشَّرَابُ نَاكٌ كِي جَزِيْمٍ شَرَابٌ كِي بُو بُوْبُوْجِ كَر
مست کر دینا۔

الْاِخْشَمُ: چوڑی ناک والا۔ بُوْحُوْسٌ نَه
کرنے والا۔ اَنْفٌ اِخْشَمٌ: بدبودار ناک۔
مَوْتٌ خَشَمَاعِجٌ خَشَمٌ۔

الْخَيْشُوْمُ: ناک کی جڑ۔ جِ خَيْاشِيْمٍ
الْخَيْاشِيْمُ: ناک کے اندر کی رگیں۔
خَيْاشِيْمُ الْجِبَالِ: پہاڑوں کی چوٹیاں۔ کہا
جاتا ہے۔ ”اَشْرَفَتْ خَيْاشِيْمُ الْجِبَالِ“
الْخَشَامُ شِيْرٌ: بڑی ناک والا۔ بَرَاپَهْلَا جَسَّ
کی بڑی چوٹی نکلی ہوئی ہو۔

رَجُلٌ (مَخْشُوْمٌ) مَسْتٌ مَرْدٍ۔
خَشَنٌ (ك) خَشَنَةً وَخَشَانَةً وَ
خُشُوْنَةً وَمَخْشَنَةً: سخت و کھردرا ہونا
صفت (خَشِنٌ بِجِ خَشَانٍ)۔

خَشَنَةً: سخت و کھردرا ہونا۔ کہا جاتا ہے۔
”خَشَنَ صَدْرُهُ اَسَّ نَسَ كُوْغَمَّةٌ دَلَاكِرٌ
بُهْرٌ كَاوِيَا۔

خَاشَنَةٌ: سختی کا برتاؤ کرنا۔
تَخَشَّنَ: سخت کھردرا ہونا۔ سخت زندگی بسر
کرنا۔ مَوَاكِرُ دَرَاپَهْلَا۔

تَخَاشَنَ: جھکتی سختی برتنا۔

اِسْتَخَشَنَ: الشَّيْءَ كَهْرَدَاپَهْلَا۔

اِخْشَوْنَتُنْ: سخت کھردرا ہونا۔ عَلَيْهِ

صَدْرُهُ: ہضمناک ہونا۔

الْاِخْشَانُ: سخت و کھردرا۔ مَوْتٌ خَشْنَاءٌ

ج۔ خَشَنٌ۔ کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ اَخْشَنٌ بُوْرِي

مَلِكٌ مِّنْ جَانَاوَرَاغَايْبِ هُوَ جَانَا۔ رات میں چلنا۔
الماء: جَمَا البَرْدُ: تیز ہونا (وَاِنْخَشَفَ)
فِي الشَّيْءِ: داخل ہونا۔

خَشَفَ (ض) خَشَافَةً: بالقَوْمِ: ساتھ
چلنا اور راہبری کرنا (خَشَفًا وَخَشَفَةً)
الْجَلِيْدُ: برف پر چلنے سے آواز نکلنا فِي
السِّيْرِ: تیز چلنا۔

خَشَفَ (س) خَشَفًا: البَعِيْرُ: پورے
بدن پر خارش والا ہونا۔ صفت (اِخْشَفَ)
مَوْتٌ خَشَفَاءٌ: جِ خَشَفٌ۔
خَشَفٌ: راستہ تلاتا۔

خَاشَفَ: اِلَى الشَّرِّ: برائی کی طرف
سبقت کرنا۔ کہا جاتا ہے ”خَاشَفَ فِي ذِمَّتِهِ“
اس نے بد عہدی کرنے میں جلدی کی۔

خَاشَفَ السَّهْمُ: سناٹا ہونے والا۔
اِخْشَفَتِ: الطَّيْبَةُ: بچنے والی ہونا۔

الْخَاشِيفُ: فَ: سَيْفٌ خَاشِيفٌ: تیز
تلوار۔ مَاءٌ (خَاشِيفٌ وَخَشَفٌ) جَمَا هُوَا
پانی۔

الْخَشْفُ: بِتَثْلِيثِ الخَاءِ: ہرن کا
نوزائیدہ بچہ۔ جِ خَشْفَةٌ (وَاِخْشَفٌ) بَزْرٌ
رَبْغٌ كِي كَمِي۔ واحد (خَشْفَةٌ)

الْخَشْفُ وَالْخَشْفَةُ وَالْخَشْفَةُ: آواز۔
حُرْكَتٌ۔ اَهْمٌ۔ الْخَشْفُ: ذلت۔
الْخَشْفُ وَالْخَشْفُ: جَمْعٌ كَامُوْنٌ۔

الْخَشُوْفُ: معاملات میں دخل دینے والا
مِنَ الرَّجَالِ رَاتِ كِي وَتِ چلنے میں دلیر۔
تِيْزٌ مِّنَ السِّيُوْفِ تِيْزٌ تَلْوَارٌ۔

الْمَخْشَفُ: وہ جگہ جہاں پانی جم گیا ہو۔
الْمَخْشَفُ: راہبر۔ معاملات میں دخل
دینے والا۔ رات کے وقت چلنے میں دلیر۔ تیز۔

خَشَلَةٌ (ن) خَشَلًا وَخَشَلَةً: خَمِيْرٌ
بنانا۔ خَشَلُ الشَّرَابِ: صاف کرنا۔

خَشِلٌ (س) خَشَلًا: التَّوْبُ: بوسیدہ
ہونا۔

تَخَشَّلَ ذَلِيْلٌ: ہونا۔ سَرَجَمَانَا۔ رَدِي چِرَلَانَا۔

الْخَصَصُ بَأْسٍ يَأْكُلُ فِيهَا كَمَا يَجْمَعُ نَبْرًا شَرَابًا يَجْنَعُ
وَاللَّيْلِ دَكَانَ - جِ احْتِصَاصٌ وَخِصْصٌ وَخِصْصُ
وَخِصْصٌ شَهْرٌ (خِصْصٌ) كَمَا تَقْصُ مَهِينَةٌ -

الْخِصَاصُ فَاعِيَةٌ كَمَا فِي خِصْبٍ كَمَا
الْخِصَاصَةُ عَامَّةٌ كِي خِصْبٍ وَهِيَ جِزٌّ جِزٌّ كَوْتِمْ
إِسْمٌ لِنَيْ خِصْبٍ كَرِوَلٍ - خِصَاصَةُ الْمَلِكِ:
بَادِشَاهُ كَيْ قُوتِمْ وَ اِثْرُ جِ خِصَاصُ
نَاتَاتِ كِي قُوتِمْ وَ اِثْرُ جِ خِصَاصُ
(وَ اِثْرُ خِصَاصُ وَ اِثْرُ خِصَاصُ وَ اِثْرُ خِصَاصُ)
الْقَوْمِ: بَرِّزْ كَرِيْدَهْ اَوْرُ بَرِّزْ كَرِيْدَهْ لَوْ كَمَا جَاتَا
"إِنَّمَا يَفْعَلُ هَذَا خِصَاصُ النَّاسِ" اِسْ كُو
بَرِّزْ كَرِيْدَهْ لَوْ كَمَا جَاتَا
الْخِصَاصِيَّةُ خِصَاصَةُ كِي جَانِبِ نَسَبِ - جِ
خِصَاصِيَّاتٌ وَ خِصَاصِيَّاتٌ

الْاِخْتِصَاصُ اِفْتِصَالٌ كَمَا جَاتَا فِي "لَمْ يَكُنْ فِي
اَطْبَائِبِهِ اِخْتِصَاصٌ مِّنْ هَذِيْنَ"
الْاِخْتِصَاصَةُ اِنْكَوْرُ تُوْزِنِ كَيْ بَعْدِ تَيْلِ مِي
جِوْئِيْ هُوْءِ دَانِيْ - تَهْوُزَا - قَلِيْلٌ - جِ
خِصَاصُ

الْاِخْتِصَاصُ وَ اِخْتِصَاصُ عِلْمِيْ كِي اِسْ
كَيْ مَقَابِلَهْ مِي عَمُوْمٌ هُوْءِ اِنْخِصَارٌ اِسْ كَيْ
مَقَابِلَهْ مِي اِطْلَاقٌ هُوْءِ اَوْرُ كَمَا جَاتَا فِي "عَلَى
الْاِخْتِصَاصِ وَ اِخْتِصَاصًا" اَيْنِيْ خِصَاصُ طُوْر
پَرِيْ جِيْءِ حَرِيْرِيْ كَا قَوْلِ هُوْءِ "لَنْ يَفْضَلَ
الْخِطَابُ وَ يَنْشِطُ الْفَاتِرُ كَقَابِلَهْ الْهُوَ اَجْرُ
وَ اِخْتِصَاصًا فِي شَهْرِيْ نَاجِرُ

الْاِخْتِصَاصُ سِ - دَرُوَا هُ كِي جَهْرِيْ - بَرِّقِ
وَ غِيْرَهْ كَا سُوْرَاحُ كَمَا جَاتَا فِي "بَدْرُ الْقَمَرِ مِي
خِصَاصِ الْغِيْمِ" جَانِدِ اِبْدَالِ كَيْ دَرْمِيَانِ
سِي ظَاهِرِ هُوْ كِيَا - وَ اِمْتَحَنَهْ مِي خِصَاصِ
الْبَابِ" مِي نِي اِسْ كُو دَرُوَا هُ كِي جَهْرِيْ سِي
دِيكَلَهْ مَكَانِ وَ غِيْرَهْ مِي شِكَاغِ - وَ اِحْدِ
(خِصَاصَةً) اَوْرُ كَمَا جَاتَا فِي "سَدَدَتْ
خِصَاصَةً فَلَانٌ" مِي نِي فَلَانِ كِي جَمَاعِيْ دُوْر
كَرُوِيْ

خُوْنِيَصَةٌ الْاِنْسَانِ وَ هُوْءِ خِصْصٌ جُوْ خِدْمَتِ
كَرْنِيْ كَيْ لِيْ مَخْصُوْمٌ هُوْءِ

خِصْبٌ (ض) وَ خِصْبٌ (س) خِصْبَا
الْمَكَانِ: سَرِيْبِزْ هُوْنَا - زَرِيْبِزْ هُوْنَا - مَفْتِ
(خِصْبٌ وَ خِصْبٌ وَ مَخْصَبٌ وَ مَخْصَبٌ
وَ مَخْصَبٌ)

اَخْصَبَ الْمَكَانُ: سَرِيْبِزْ هُوْنَا اَللّٰهُ
الْمَكَانُ: سَرِيْبِزْ كَرْنَا الشَّاةُ: سَرِيْبِزِيْ مِي
بِيْتِنَا الْقُوْدُ: سَرِيْبِزِيْ يَانَا - كَمَا جَاتَا فِي
"اَخْصَبَ جَنَابُ الْقَوْمِ" قَوْمِ كَا مَقَامِ
سَرِيْبِزْ وَ شَادَابِ هُوْءِ

الْخِصْبُ شَكُوْنَهْ خَرْمَا - بَهْتِ بَهْلِ دَارِ
دَرِخْتِ خَرْمَا - وَ اِحْدِ (خِصْبِيَّةٌ)

الْخِصْبُ سَرِيْبِزْ لَهَاسِ كِي كَثْرَتِ - فَرَاغِيْ
زَنْدِ كَانِيْ - جِ اِخْصَابُ كَمَا جَاتَا فِي "بَلَدٌ
خِصْبٌ وَ اِخْصَابٌ" جَمْعُ كَا مِيْنَهْ مَبَالِغِ كَيْ
(لِيْ) اَيْنِيْ سَرِيْبِزْ شَهْرِ اَوْرُ كَمَا جَاتَا فِي "اَرْضُ
خِصْبٍ وَ اَرْضُوْنُ خِصْبٍ وَ اَرْضُ
خِصْبِيَّةٌ وَ خِصْبِيَّةٌ"

الْاِخْصَابُ بَهْتِ بَهْلِ دَارِ دَرِخْتِ خَرْمَا - وَ اِحْدِ
(خِصْبِيَّةٌ)

(رَجُلٌ خِصْبٌ) بَهْتِ فَيْضٌ وَ اِلْمَرْدُ
خِصْرٌ (س) خِصْرًا - الْيَوْمُ تَهْتَدُ هُوْنَا -
الرَّجُلُ تَهْتَدُ كِي وَجِهَ سِي اَطْرَافِ اَعْضَا
مِي تَكْلِيْفِ بِيْتِنَا -

اَخْصَرَ الْقَرَأْمَلَةَ: سَرُوِيْ كَا اَنْكِيُوْنِ كُو
تَهْتَدُ اَكْرُوِيْنَا -

خَاصِرَةٌ مَخَاصِرَةٌ هَاتَهْ پَرُوْ كَرِ چَلْنَا - كِي
كَيْ پَهْلُوْ مِي چَلْنَا كِي كَيْ كَرِ پَرِ هَاتَهْ رَهْ كَرِ
چَلْنَا -

اِخْتِصَرَ اَيْنِيْ پَهْلُوْ پَرِ هَاتَهْ رَهْتَا - الْكَلَامُ:
مَخْصَرُ كَرْنَا الطَّرِيْقِ: قَرِيْبٌ كَارِسْتِ چَلْنَا - فِي
الشَّيْءِ نَزَائِدِ جِيْزِيْ حَذْفِ كَرْنَا الرَّجُلُ نَاهَتْ
مِي لَا تَهْتِيْ وَ غِيْرَهْ لِيْنَا - بِالْعَصَا نِيْكُ لَكَانَا -
تَخَاصَرَ اَيْنِيْ كَرِ پَرِ هَاتَهْ رَهْتَا الْقَوْمُ نَاهَتْ
مِي هَاتَهْ ذَالِ كَرَا كَشْتِيْ چَلْنَا -

تَخْصَرَ اَيْنِيْ پَهْلُوْ پَرِ هَاتَهْ رَهْتَا -
بِالْمَخْصَرَةِ لَا تَهْتِيْ كُو هَاتَهْ مِي لِيْنَا -
الْخِصْرُ كَرِ - خِصْرُ الْقَدَمِ: تَلُوْءُ كَا اَكْرَا

حصر جو زمین سے نہ لگے۔ ج۔ خ۔ خصور۔

الْخِصْرُ سَرُوِيْ -

الْخِصْرُ تَهْتَدُ -

الْخِصْرُ اِزَارُ -

الْخِصْرَةُ: مَنِ الْاِنْسَانِ: پَهْلُوْ - جِ

خَوَاصِرُ پَهْلُوْ كَا دَرُوْءِ -

الْمَخْصَرَةُ: نِيْكُ لَكَانِيْ كِي چِيْزِ جِيْءِ لَا تَهْتِيْ

زِ چَهْرِيْ وَ غِيْرَهْ - عَصَا شَاهِيْ جِسْ كُو بَادِشَاهُ

تَقْرِيرِ كَيْ وَ قَتِمْ اَيْنِيْ هَاتَهْ مِي لِيْ - جِ

مَخَاصِرُ: مَخَاصِرُ الطَّرِيْقِ: اَقْرَبُ تَرِيْنِ

رَاسْتِيْ -

الْمُخْصَرُ بَارِيْكُ كَرُوَالَا - كَمَا جَاتَا فِي "هُوَ

مُخْصَرُ الْقَدَمِيْنِ" وَ هُوْءِ اَيْسَا خِصْصٌ هُوْءِ جِسْ كَا

تَلُوْ اِزْمِيْنِ سِي نَهِيْنِ لَكَانَا -

رَجُلٌ (مَخْصُوْرٌ) كَرِيَا پَهْلُوْ مِي دَرُوْدِ اَلَا -

اِخْصَرَ: مَخْصَرُ: اِخْصَرَ كَا اِسْمُ تَفْصِيْلِ

هُوْءِ اَوْرُ شَاذِ هُوْءِ -

خِصْفٌ (ض) خِصْفًا وَ اِخْصَفٌ وَ

اِخْتِصَفَ: النَعْلُ: جُوْتَا سِيْنَا - جُوْتِيْ پَرِ اِيْكِ

اَوْرُ پَرُوْ اِچْرَامَانَا - الشَّيْءُ عَلَيِ الشَّيْءِ: چِيْكَا نَا -

كَمَا جَاتَا فِي "هُمُ يَخْصِفُوْنَ اَقْدَامَ الْقَوْمِ

بِاَقْدَامِهِمْ" وَ هُوْءِ لَوْ كِي قَدَمِ بَقْدَمِ پِيْرُوِيْ

كَرْتِيْ هِيْ -

خِصْفٌ: بِيْجِيْءِ كِيَا جَانَا - لَاحِقٌ كِيَا جَانَا -

خِصْفٌ: بَدِ عَطْلِ هُوْنَا - جُوْ كَجْهَ اَيْنِيْ پَاسِ نَهْ هُوْءِ

اِسْ كَيْ تَكْلِفِ مِي كُو شَشِ كَرْنَا - كَمَا جَاتَا فِي

"خِصْفَةُ الشَّيْبِ" بَرِ هَا پِيْ نِي اِسْ كَيْ

نِصْفِ بَالِ سَفِيْرِ كَرُوِيْنِيْ -

الْاِخْصِفُ سِ - جُوْتَا -

الْاِخْصِفُ سِيَا هُوْءِ اَوْرُ سَفِيْدِ سِي مَرْكَبِ رَنَكِ -

الْاِخْصِفَةُ: كَجْجُوْرُ كَيْ پَتُوْنِ كِي بَنِيْ هُوْنِيْ

تُوْ كَرِيْ - مَوْنَا پَرُوْ اِسْ جِ خِصْفٌ وَ اِخْصَفٌ -

الْاِخْصِفُ وَ اِخْصِفَةُ: چِرُوْءِ كَا كَلُوْ اِجْسِ

سِي جُوْتِيْ كُو سِيَا جَانَا -

الْاِخْصِفَةُ: جُوْتِيْ وَ غِيْرَهْ كَا سُوْرَانِ -

الْاِخْصَافُ: بَرُوْ اَجْمُوْتَا - مَوْجِيْ -

الْاِخْصِيْفُ رَاكُهْ - سَلَا هُوْ اَجْمُوْتَا - تَا زَهْ دُوْدَهْ

خصل

خضم + خضب

خصد

۲۰۸

جو وہی پر ڈالا جائے۔ (والأخضفہمیدو سیاہ سفید پہلوؤں والا گھوڑا یا بکری۔ الأخضفۃ مرغ مؤنث خضفاء۔ شاة (مخضوفہ) سفید سیاہ رنگوں والی بکری۔ خصلن (خصلن) خضلاً الشیء یعنی جدا کرنا۔ (خصلن) خضلاً وخضالاً القوم باقی ہونا۔ مرتبہ میں بڑھ جانا۔ خصلکفرے کرنا الشجر خضائنا۔ خاضلہ خضالاً ومخاضلیر اندازی میں شرط لگانا۔ أخصل الرأیی نغانہ پر ٹھیک لگانا۔ تخاضل القوہیر اندازی میں باہم شرط لگانا۔ الخضل میں۔ تیر کا نشانہ پر لگانا۔ شرط جو تیر اندازی میں مقرر ہو۔ جس پر جو اٹھایا جائے۔ کہا جاتا ہے۔ "أخرز خضله وأصاب خضله یعنی وہ غالب رہا۔ ج خضول الخضلة عادت (حسہ یا قبیحہ) غالب استعمال حسہ کیلئے ہے) تیر کا نشانہ پر لگانا۔ ج خضال (والخضلة) گچھا۔ کانٹے دار کڑی۔ تر کڑی کا کنارہ۔ ج خضل الخضل نلکے ہونے درخت کا کنارہ۔ الخضلة باؤں کا گچھا، گوشت کا عضو۔ الخضلة باؤں کا گچھا۔ گوشت جس میں پٹھا بھی ہو۔ ج خضیل و خضائل کہا جاتا ہے "أزعدت فرائضه واضطربت خضائله" کے شانہ کا گوشت کا پٹھنے لگا اور پٹھے والا گوشت تھر تھرانے لگا۔ المخضل ششیر براس (مفصل میں ایک ضعیف لقت) المخضال راتق۔ خضلاء (خضلاء) خضماً جھگڑے میں غالب آنا۔ خاضمہ خضاماً ومخاضمہ جھگڑا کرنا۔ اسم (الخضوفہ) ہے۔	أخضم جھگڑا کرنے کیلئے دلیل سمجھانا۔ تخاضم واختضم القوم ایک دوسرے سے جھگڑنا۔ الخضم۔ مد مقابل۔ مخالف۔ جھگڑا کرنے والا۔ تشبیہ جمع اور مؤنث کے لیے بھی مستعمل ہے۔ کہا جاتا ہے "هنا وهم وهي" کی مثالیں موسم ربیع کی گھاس کھانے سے سرخ خضمی" ج خضوم و خضام ہو گئی ہوں۔ وأخضام الخضم جانب۔ گوشہ۔ ج أخضام الخضیم جھگڑا۔ ج أخضام وخضامہ و خضمان۔ الخضیم ج أخضام و خضمون و بارش کے بعد نئی اگی ہوئی سبزی۔ ج (الخضوم) جھگڑا۔ مخالف۔ مد مقابل۔ خصل (ش) خضاء۔ چھس کرنا۔ الخصى فوطوں میں درد والا۔ الخصىہ شخص جس کے فوطے نکال لیے گئے ہوں۔ آخت۔ ج خضیة و خضیان الخضیة فوطہ ج خصى خضیة البحر و خصى التغلب و خضیة الذئب و خضیة الکلب مختلف نباتات کے نام۔ خضض الجاریة سفید مہرے پہننا کر ستورانا۔ خاضه مخاضج بالعرض کرنا۔ الخضض سفید مہرے رنگ رنگ کے کھانے۔ بیہودہ گفتگو۔ کہا جاتا ہے "منطق خضض" الخضاض کم حیثیت زیور۔ روشنائی۔ قیدی کی بیڑی۔ کتے یا بلی وغیرہ کے گلے کا پٹا۔ رجل خضاض و خضاضة بیوقوف مرد۔ مکان (خضضیالی سے تر جگہ۔ خضض (خضض) خضاً وخضب الشیء رنگین کرنا۔ خضض (خضض) و خضب (خضوب) خضوباً و خضب و أخضب الشجر اور المکان سبز ہونا۔ تخضب واختضب بالحناء رنگین	ہونا۔ مفت (خضیب) خضب و (مخضوب و مخضب) اخضوب اخضیباً۔ الشجر: سرسبز ہونا۔ الخاضب شتر مرغ جس کے تیخ پر اور جس کے نام سے مشہور ہے وہ پتوں اور دانوں میں ہوا کے اندر کاربون آئی کے وجود سے پیدا ہوتا ہے جس کی مدد سورج کی شعاعیں بھی کرتی ہیں۔ الخضیب۔ درخت کی سبزی۔ الخضیب۔ بارش کے بعد نئی اگی ہوئی سبزی۔ ج خضوب الخضاب۔ رنگ کرنے کی چیز۔ الخضبة خضاب لگانے والی عورت۔ الخضوب بارش کے بعد نئی اگی ہوئی سبزی۔ الخضیب رنگا ہوا۔ کہا جاتا ہے "كف خضیب وامرأة خضیب" تو لگی ہوئی پتیلی۔ خضاب لگائی ہوئی عورت۔ ج خضب۔ الکف الخضیب ایک ستارے کا نام۔ المخضب کپڑے دھونے یا رنگنے کا برتن۔ لگن۔ خضض خضض الماء و نحوه: ہلانا۔ تخضض ہلانا۔ الخضاض۔ من الاماکن جگہ جس میں پانی و درخت زیادہ ہوں۔ بڑے پیت والا موٹا مرد (والخضض پھوئی اور پروائی کے درمیان کی ہوا۔ خضض (خضض) خضداً العود بغیر جدا کئے ہوئے توڑنا۔ موڑنا الشجر کانٹے کاٹنا الرجل کڑی گارو وغیرہ کی مانند تریچر کھانا۔ خضد کاٹنا۔ تخضد واختضد العود بوٹنا۔
--	--	---

انْخَضَتِ الشَّمَارُ: پھلون کا پارہ پارہ ہونا۔
 الْخَضْدُ: کائی ہوئی یا ٹوٹی ہوئی لکڑی۔ پھلون
 کی پرمردگی۔ نباتات کی کمزوری۔
 خَضَدَ الْبَدَنُ: کابلی کے ساتھ بدن کا درد
 اور ٹوٹنا۔ خَضَدَ الشَّقْرُ: مکان سر
 (والْخَضَادُ) اعضاء کا درد۔
 الْخَضِدُ وَالْمَخْضُودُ: اُغْضَى سے عاجز،
 کمزور۔ کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ مَخْضُودٌ“ دلیل
 سے عاجز مرد۔
 الْاِخْضَدُ وَالْمُتَخَضِدُ: دوہرا ہونے والا۔
 الْمِخْضِدُ: بہت کھانے والا۔
 خَضِرَ (س) خَضْرًا: سبز ہونا الزَّرْعُ:
 سرسبز و شاداب ہونا۔
 خَضِرَ (ن) خَضْرًا: النخل: کائٹل۔
 اَخْضَرَ: الرئی النبات: سرسبز و شاداب
 کرنا۔
 خَضَرَ الشئی: سبز کرنا۔
 خَاضِرَةٌ مُخَاضِرَةٌ: درخت کے اوپر ہی کچا
 پھل پڑنا۔
 اِخْضَرَ وَاِخْضُوضًا: سبز ہونا۔ وَاِخْضَرَ
 اللَّیْلُ: سیاہ ہونا۔
 اِخْضَرَ: الْفَاكِهَةُ: وقت سے پہلے کچا کھانا
 الْعُشْبُ: سبز رہنے ہوئے کائٹل التجاریہ:
 بلوغ سے پہلے بکارت زائل کرنا۔ اِخْضَرَ:
 جوان مرنا۔
 الْخَضِرُ وَالْخَضِرُ: اس ذات گرامی کا نام
 جن سے سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ
 والسلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ اور اس کی کچھ
 تفصیل سورہ کیف میں ہے۔
 الْخَضِرُ: سبز۔ بُشْبِی: بھکتی۔ سبز ترکاری۔
 سبزہ زار۔
 الْخَضَارُ: نئی سبزی۔ زیادہ پانی ملا ہو اور دھ۔
 الْخَضِیْرُ: سبز۔ سبز ترکاری۔
 الْخَضْرَةُ: سبز رنگ۔ ترکاری۔ نرمی و نازکی۔
 کہا جاتا ہے۔ ”غَضْنٌ فِیْهِ خَضْرَةٌ“ بُشْبِی جس
 میں نرمی ہو۔ ج خَضِرٌ وَخَضِرٌ و ”خَضْرَةُ
 الدَّمَنِ“ کوڑے کی سبزی (ایسی چیز جس کا

ظاہر اچھا اور باطن خراب ہو اس کیلئے بطور کنایہ
 استعمال کرتے ہیں) وَالْخَضْرَةُ فِی الْوَانَ
 الابل والخیل: خیالاً جس میں سیاہی ملی ہوئی
 ہو فی الْوَانَ النَّاسُ: گندم گونی۔
 الْخَضَارُ: سبزی فروش۔
 الْخَضَارَةُ: سبز ترکاریاں۔ خَضَارَةٌ:
 سمندر کیلئے علم ہے اور تانیف اور معرفہ کی وجہ
 سے غیر مصرف ہے۔
 الْخَضَارِیُّ وَالْخَضِیْرِیُّ: ایک قسم کا
 پرندہ جس کا رنگ سبزی مائل زرد ہوتا ہے اور
 اس کو خیل بھی کہتے ہیں۔ ج خَضَارِیُّ.
 الْخَضْرَاءُ: اَخْضَرَ کا مؤنث۔ الْفِیْبَةُ
 الْخَضْرَاءُ: آسمان۔ و خَضْرَاءُ الْقَوْمِ:
 قوم کا بڑا حصہ۔ ج خَضْرَاوَاتُ
 الْاِخْضَرَاوَاتُ: ترکاریاں۔ میوے۔
 الْاِخْضَرَانُ: گھاس و درخت۔
 الْاِخْضَارُ: سونا۔ گوشت و شراب۔
 الْاِخْضِیْرُ: کبھی۔ آنکھ کی ایک بیماری۔
 الْمَخْضِرَةُ: سبزہ زار۔
 خَضِرْمُ: الْاَدْنُ: کان کا کچھ حصہ کاٹ لینا۔
 الْخَضِرْمُ: بہت پانی والا کتوال۔ بہت بڑا
 سمندر۔ کہا جاتا ہے ”بَحْرُ خَضِرْمٍ“ بہت پانی
 والا سمندر۔ و ”رَجُلٌ خَضِرْمٌ“ بہت فیاض
 مرد۔ (والْحَضَارِمُ) ج۔ خَضِرْمُونَ
 و خَضَارِمٌ و حَضَارِمَةٌ:
 الْخَضِرْمُ: بیٹھے اور کھاری کے درمیان پانی
 ز گوہ کا بچہ۔
 الْمَخْضِرْمُ: غیر مختون۔ وہ شخص جو خود کالا
 ہو اور اس کا باپ سفید رنگ کا ہو۔ وہ شخص جو
 حسب کے لحاظ سے ناقص ہو۔ وہ شخص جس
 نے جاہلیت و اسلام کے زمانوں کو دیکھا ہو۔
 ”مَاءٌ مَخْضِرْمٌ“ بیٹھے اور کھاری کے درمیان
 پانی۔
 خَضِعَ (ف) خَضُوعًا و خَضَعًا و
 خَضَعَانًا: عاجزی کرنا۔ فروتنی کرنا۔ سرگندہ
 ہونا۔ مَفْتٌ (خَاضِعٌ) ج خَضِعٌ و
 (خَضُوعٌ) ج خَضِعٌ: لہ: تابع و فرمانبردار

ہونا النجم: مائل بغروب ہونا الرجل:
 ساکن کر دینا۔
 خَضِعَ (س) خَضَعًا: الرَّجُلُ:
 جھکا ہوا ہونا۔ مَفْتٌ (اِخْضَعُ) مؤنث
 خَضَعَاءُ.
 خَضَعَةٌ: عاجز کرنا اللحم: کلوے کلوے
 کرنا۔
 اِخْضَعُ: عاجز ہونا: عاجز کرنا۔ کہا جاتا ہے
 ”اِخْضَعْتَنِی الْیَکُ الْحَاجَّةُ“ تمہارے
 سامنے حاجت نے مجھ کو عاجز بنا دیا۔
 الْکِبْرُ فَلَانًا: بڑھاپے کا کسی کو پست گردن بنا
 دینا۔
 خَاضَعَةٌ: نرمی سے گفتگو کرنا۔
 تَخَضَعٌ وَاِخْضُوضٌ: جھکنا عاجزی ظاہر
 کرنا۔
 اِخْتَضَعُ: عاجز ہونا الصَّقْرُ: ٹوٹ پڑنے
 کیلئے سر جھکانا فی سَبْرِهِ: تیز چلنا۔
 الْاِخْضَعُ: سر پیدا کئی گردن کی پستی۔
 الْاِخْضَعُ: ذلت پر راضی۔ دبی ہوئی گردن
 والا۔
 الْاِخْضَعَةُ: ہر ایک سے عاجزی ظاہر کرنے
 والا۔ اپنے ہمسر پر غالب آنے والا۔ ج
 خَضِعُ.
 الْاِخْضَعَةُ وَالْاِخْضَعَةُ: تلواریں۔ کوڑے۔
 تلواروں اور کوڑوں کی آواز۔ کہا جاتا ہے
 ”سَمِعْتُ لِلْسَّیَاطِ خَضَعَةً“ میں نے
 کوڑوں کے پڑنے کی آواز سنی۔
 الْاِخْضَعَةُ: آواز جو جانور کے پیٹ سے سنائی
 دے۔ سیلاب کی آواز۔
 الْاِخْضَعَةُ: لڑائی کا شور۔ میدان جنگ اور
 اس کا غبار۔
 الْاِخْضَعُ: مِنَ الرَّجَالِ: ذلت پر راضی
 ہونے والا۔
 خَضَفَ (ض) خَضَافًا و خَضَفًا: گوز
 کرنا۔ مَفْتٌ (خَضِیْفٌ) و خَضُوفٌ
 و خَضَافٌ)
 الْخَضِیْفُ: چھوٹا کدو یا کگری یا خر بوڑھ۔

گائے۔

المُخَطَّاطُ بہت کھینچنے والا۔

المُخَطَّاطُ کپڑے پر دھاری ڈالنے کی کٹڑی۔

المُخَطَّاطُ دھاری دار۔ خوبصورت۔

خطی (س) خطاً غلطی کرنا فی دینہ:

قصد آیا بلکہ قصد غلطی کے راستے پر چلنا۔ (حطاً

وخطاً) گناہ کرنا۔ صفت (خاصی) ج

خطاۃ مؤنث خاطیۃ ج خواصی

خطات (ف) خطاً القدر بزندہا:

جھاگ پھینکانا۔

خطاۃ تخطینا و تخطینا غلطی کی طرف

نسبت کرنا۔

خطاً خطاء و خطیۃ غلطی کرنا

الطریق: چوک جانا الرجل: غلطی میں ڈالنا

الراہی الغرض: نشانہ پر نہ لگنا فی عملہ:

راہ راست سے ہٹ جانا۔

تخطاً و تخطاطاً غلطی کرنا۔ تخطاً

و تخطاه: غلطی میں ڈالنا السہم الرمیۃ:

نشانہ سے ہٹ جانا۔ تخطاً لہ فی المسئلۃ

وہنا: کسی کی غلطی ڈھونڈنے کے درپے

ہونا۔

الخطاء گناہ۔

الخطاۃ و الخطاۃ و الخطاء گناہ اور بقول

بعض غیر ارادی گناہ۔ غلطی۔

الخطاۃ بہت غلطی کرنے والا۔ بہت گناہ

کرنے والا۔

الخطیۃ گناہ اور بقول بعض ارادی گناہ۔ ج

خطایا و خطینات

خطب (ن) خطیۃ و خطبا و خطابة

وعظ کہنا۔ تقریر کرنا۔ یکچر دینا۔ حاضرین کے

سامنے خطبہ پڑھنا۔ کہا جاتا ہے "خطب

القدم و فی القوم" اس نے قوم کے سامنے

تقریر کی۔

خطب (ک) خطابة و اعظ ہونا۔ مقرر

ہونا۔ یکچر ہونا۔

خطب (ن) خطبا و خطیۃ و خطیۃ

الفتاۃ: منگنی کرنا۔ صفت (خطاب) کہا جاتا

الریاح الرمل: دھاری ڈالنا فی الارض:

کبیر کھینچنا۔ کہا جاتا ہے "جاراۃ فما خط

غبارہ" اس نے اس کا مقابلہ کیا اور گرد کو بھی

نہ پہنچا اور کہا جاتا ہے "فلان یخط فی

الارض" فلاں اپنے معاملہ میں غور و فکر کر رہا

ہے۔ خط الطعام و فی الطعام: تھوڑا

کھانا فی نومہ: خزانے لینا۔

خطط۔ کبیریں کھینچنا الخطوط نقش کرنا

البلاد: حدود مقرر کرنا۔

اختط۔ الوجه او غیرہ: دھاری دار ہونا

الغلام: سبزہ آغاز ہونا الارض او الدار:

اپنا معلوم ہونے کیلئے حد بندی کرنا خطۃ:

معیّن کرنا۔ علامت لگانا۔

الخاط۔ فا۔ جا دوگر۔

الخط۔ تحریر۔ کتابت۔ لہا راستہ۔ خط

الاستواء: وہ فرضی خط جو کرۃ زمین کو دو

صوں شمالی و جنوبی میں تقسیم کرتا ہے۔ ج

خطوط۔ و خطوط الکف: ہاتھ کی

کبیریں۔

الخط و الخط۔ راستہ۔ سڑک۔ محلہ۔

الخط و الخطۃ۔ وہ زمین کہ جس پر سب

سے پہلے تم آئے اور تم سے پہلے کوئی نہیں آیا۔

زمین کا وہ حصہ جو کوئی اپنے لئے خاص کر لے۔

ج خطط

الخطۃ۔ کام۔ کہا جاتا ہے "بلك خطۃ

لیست من بالی" یہ کام میری شان کا نہیں

ہے۔ "وفی زاہہ خطۃ" اس کے سر میں

کوئی خیال ہے۔ خصلت۔ جہالت۔ مشکل

معاملہ جس کا کوئی حل نہ ملے۔ ج خطط۔ کہا

جاتا ہے "فلان یبني خطط المکارم"

فلاں شرافت اور بزرگی کے مقامات کی بنیاد

رکھتا ہے۔

الخطی۔ نیزہ جو خط کی جانب منسوب ہے۔

اور بحرین کی ایک بندرگاہ کا نام ہے جہاں نیزے

بکتے تھے۔ خطیۃ

الخطوط۔ زمین پر پاؤں کا نشان چھوڑنے

والا۔ عورت کے ابو روکنے کی چیز۔ جنگلی

الاخضف

خصل (س) خصلاً و اخضلاً و اخضلاً

و اخضوضلاً تر ہونا۔ نناک ہونا۔ صفت

(خضل و خاضل) کہا جاتا ہے "غیش

خصل" شاداب زندگی و "شواء خصل"

اچھی طرح سے بھنا ہوا گوشت۔ و "سنان

خصل" خون سے تریزہ۔

خصل و اخصل۔ الشیء: تر کرنا۔

اخضال و اخضلاً تر ہونا۔

الشجر: بہت ٹہنی اور بکثرت پتے ہونا۔

الخصل و الخضل۔ صاف موتی۔ ایک

قسم کے مہرے۔ واحد (خضلۃ)

الخضلۃ۔ تروتازگی۔ آسودگی۔ نعمت۔

زندگی کا آرام و آسودگی۔

الخضیلۃ۔ سر سبز و شاداب باغ۔

المخصل و المخضل۔ آسودہ زندگی

والا۔

خصم (ض) و خصم (س) خصماً

الطعام: انتہائی داڑھ سے کھانا۔ منہ بھر کے

کھانا۔

أخصم۔ لہ فی العطاء: زیادہ دینا۔

الخصم۔ بڑا سمندر۔ سردار۔ بڑا فیاض

(عورت کی صفت میں یہ نہیں آتا) بڑی

جماعت۔ سان رکھنے کا پتھر۔ سیف خصم:

ششیر بڑال۔

الخصام و الخصامۃ۔ وہ چیز جو انتہائی داڑھ

سے کھائی جائے۔

الخصیۃ۔ سبز نباتات۔ بہت نباتات والی

زمین۔ ابلہ ہوا کیے ہوں۔

الخصمۃ۔ درمیان۔ چیز کا بڑا حصہ۔

المخصم و المخصم۔ آسودہ زندگی والا۔

خط (ن) خطاً بالقلم: لکھنا۔

الخطۃ لنفسیہ: نشان لگا کر اپنے لیے

مخصوص کرنا۔

الشیء: قلم وغیرہ سے لکھنا علی الشیء:

نشان لگانا۔ علامت لگانا الغلام: سبزہ آغاز ہونا

عذارۃ: رخسار پر ہال لکھنا۔ المقبر: کھودنا

الخطرف۔ غلہ کا ایک بڑا پیمانہ (والخطرف)
اؤنٹ کے سرینوں پر بیٹھنے اور پیشاب مل کر بھا
ہو۔ بادل جو سامنے ظاہر ہو۔

الخطرف۔ بہت پانی ملا ہو اودودہ۔ بہت سے
اؤنٹ۔ شاخ۔ ایک قسم کی گھاس جس کو بطور
خطب کے استعمال کرتے ہیں۔ رج الخطرف۔

الخطرف۔ قریب بھلاکت رج الخطرف کہا جاتا
ہے "ر کبوا الاخطرف" وہ لوگ خطروں میں
پڑ گئے۔ شرافت۔ بلندی۔ رتبہ۔ مثل۔ ہم
پلہ (اور ذی رتبہ چیز ہی میں استعمال ہوتا ہے)
جیسے فی ظل عیش خطرف مالہ خطرف
شرط جو گھوڑ دوڑ میں لگائی جائے۔ رج خطرف۔

الخطرفۃ۔ ایک بار۔ تم کہتے ہو "ما لقیته الا
خطرفۃ" میں اس سے ایک بار ملا۔

الخطرف۔ فا۔ امر یا تدبیر جو دل میں گزرے
خیال اور بھی دل اور نفس پر بھی مجاز اطلاق کیا
جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے "وقع فی خاطرئی"
میرے دل میں واقع ہوا۔ و "فلان سرفع
الخطرف" فلان تیز طبیعت ہے۔ و "جاش
الشرف فی خاطرئی" میرے دل میں شعر کی
آمد ہوئی۔ رج خواطر۔

الخطرف۔ الخطرف کا اسم مبالغہ۔ عطر
فروش۔ نیز ہارنے والا۔ نیز۔ گوچھن۔ زیتون
کا خوشبودار تیل۔ شیر
الخطرفۃ۔ اؤنٹوں کا بازہ۔

الخطرف۔ عالی مرتبہ۔ شریف۔ مہار۔ رتق۔
ترمرے۔ رات کی تاریکی۔ دھمکی۔ شادمانی۔
بلند رتبہ چیز کا مثل۔ کہا جاتا ہے "لیس لہ
خطرف" اس کا کوئی ہم پلہ نہیں۔

المخاطر۔ خطرے (اس کیلئے مفرد نہیں)
الخطرف والخطرف۔ اترا پرداز۔
جھوٹا۔

خطرف و تخطرف۔ چلنے میں جلدی
کرنا۔ صفت (خطرف و خطرف)
خطرفۃ بالسیف۔ تلوار سے مارنا۔

خطرف (س) خطرفا الشئی: آپک لینا

منسوب ہیں۔ وہ ان کو اپنے مخالفین کے خلاف
جھوٹی گواہی دینے کا حکم کرتا تھا۔

الخطرف۔ منگنی کرنے والا۔ خطرف پڑھنے
والا۔ کہا جاتا ہے "رجل خطرف" خوش بیان
مرد۔ رج خطرفاء۔

الخطرف۔ عورت کو پیغام نکاح دینے والا۔
رج خطرفیون
الخطرفی۔ عورت جس کو کوئی پیغام نکاح
دے۔

الخطرف۔ شکر۔ من الخطرف: سبز
دھاریوں والا اندرین۔ الخطرف: خطابت
کا اسم تفصیل ہے جیسے کتابت سے اکتب اور
شعر سے أشعر۔ کہا جاتا ہے "کان
أخطرف أهل زمانہ" وہ اپنے زمانہ کے
لوگوں میں بڑا مقرر تھا۔

خطرف (ض) خطرفانا و خطرفنا: فی
منشیہ: ہاتھوں کو اوپر نیچے کرتے ہوئے
چلنا۔ الرمخ: ہلنا بسیفہ اور منجہ: فخر و
غرور سے ہلانا بیدہ: چلنے میں آگے پیچھے کرنا
(خطرفا و خطرفنا و خطرفنا) الجمیل
بذنبہ: بار بار اٹھانا اور رانوں پر مارنا۔

خطرف (ن ض) خطرفا الامر لہ: سوچنا
خطرف الحوادث: پیش آنا۔ خطرف
الامر ببالہ و علی و فی بالہ: بھولنے
کے بعد یاد آنا۔

خطرف (ک) خطرفا و خطرفۃ: عالی
مرتبہ ہونا۔ صفت (خطرف) خطرف
خطرف مخاطرفۃ: بنفسہ: خطرہ میں ڈالنا
علی کذا: شرط لگانا۔

أخطرف الشئی فی او علی او ببالہ: یاد
دلانا ہ: بلند مرتبہ میں ہم مثل ہونا المال:
مال کو شرط پر رکھنا المریض: خطرہ میں ہونا۔
صفت (مخطف)

تخطرفی: پھانڈنا۔ تجاوز کرنا۔ کہا جاتا ہے
"تخطرفانی شر فلان" فلان کا شر مجھ سے
تجاوز کر گیا۔

تخطرف القوم علی الشئی: شرط لگانا۔

ہے الخطرفۃ علی فلان اس نے
فلان کے لیے لڑکی کی منگنی کی۔

خطرف (س) خطرفا الشئی: تیرہ ماں
سرخ زرد ہونا۔

خطرفۃ خطرفا و مخاطرفۃ و تخاطرفا ہام
گفتگو کرنا۔ کہا جاتا ہے "خطرفۃ فی فلان"
اس نے اس سے فلان کے بارے میں گفتگو کی۔

أخطرف الصید فلانا: قریب ہونا
الخطرفۃ: رنگین ہونا الخطرف: زرد ہونا اور
سبز دھاریاں پڑنا۔

أخطرف: الخطرفۃ: منگنی کرنا القوم فلانا:
قوم کی لڑکیوں میں سے کسی لڑکی سے شادی
کرنے کے لیے کسی کو بلانا علی الجنس:
خطرفہ دینا۔

الخطرف۔ س۔ حالت۔ کہا جاتا ہے "ما
خطرف" تمہاری کیا حالت ہے اور کسی چیز
نے تم کو اس پر برا بیعت کیا ہے۔ معاملہ خواہ
چھوٹا ہو یا بڑا عموماً بڑے اور ناپسندیدہ معاملہ کے
لیے مستعمل ہے۔ رج خطرف۔

الخطرف۔ گفتگو۔ فضل الخطرف:
فصاحت۔ حکم جو دلیل یا قسم کے ساتھ دیا
جائے۔ خطرف کا الحمد للہ کے بعد اما بعد
کہنا۔

الخطرفۃ۔ تقریر۔ گفتگو خطرفۃ الكتاب:
کتاب کا دیاچہ۔ الخطرفۃ: تیرہ رنگ جس میں
سرخ زردی ملی ہوئی ہو۔

الخطرف۔ منگنی کرنے والا مرد۔ عورت
جس سے منگنی کی جائے۔ کہا جاتا ہے "ہو
خطرفها وھی خطرفۃ" ج۔ أخطرف۔

الخطرفۃ۔ س۔ منگنی کرنا۔ عورت جس سے
منگنی کی جائے۔
الخطرف۔ منگنی کرنے والا۔ بہت تقریر
کرنے والا۔

الخطرفۃ۔ بہت تقریر کرنے والا (مذکر
مؤنث) الخطرف کا مؤنث۔

الخطرفۃ: شیعہ رافضیہ میں سے ایک
فرقہ جو کہ اپنے امیر ابو الخطرف کی طرف

البرق البصر: چندھا کر دینا السمع:

چوری سے شنا۔

خطف (س) و خطف (ض) خطفاناً

تیز چلنا۔ صفت (خطیف و خطیف)

خطف۔ اُچک لینا (تشدید مبالغہ اور تکثیر کے

لیے ہے)

أخطفہ۔ خطا کرنا المرص: بیماری کا ہلکا

ہونا یا بالکل زائل ہونا الرجل: کچھ بیمار ہونا اور

جلدی سے ٹھک ہونا۔

تخطف و أخطف: الشیء: چھین لینا۔

کھینچنا۔ نکال لینا۔ اُچک لینا۔

الخطف و الخطف: لاغری اور پہلوؤں کا

ڈبلا پن۔

الخطفة۔ جھپٹا۔ عضو جس کو درندہ جھپٹا مار کر

اُتار لے یا انسان کی زندہ جانور سے کاٹ لے۔

الخطاطف: فاء۔ بھیریا۔ تیز جرمین پر پڑ کر

نشانی برگے۔ ج و خ و ا ط ف

أخطف الحشی: ذبلا۔

الخطاؤف: درایتی کی مانند جس کو جال میں

باندھ کر بہن وغیرہ کا شکار کرتے ہیں۔

الخطاف: الخطاف کا اسم مبالغہ۔ چور۔

شیطان۔ ابابیل کی مانند ایک پرندہ۔

الخطاف: آسکس کی مانند ایک قسم کا ٹیڑھا لوہا

جس سے کسی چیز کو اُچک لیا جائے۔ ج

أخطاف و خطاف السباع:

درندوں کے چنگل۔

الخطفی و الخطیفی: تیز رفتاری۔ کہا جاتا

ہے "هُوَ يَمْشِي الخطیفی" وہ تیز چلتا ہے۔

الخطیفیة: ایک قسم کا کھانا جو آٹے میں دودھ

ملا کر پکاتے ہیں اور پھر چچے سے جلدی جلدی

کھاتے ہیں۔

خطل (س) خطلاً و أخطل: فی

کلامہ: بہت بولنا اور فحش بولنا۔ فی منطقہ

أوزابہ: غلطی کرتا۔ جیسے "أصالة الرأی

صانتي من الخطل" رائے کی اصالت نے

مجھ کو غلطی سے بچایا۔

تخطل: فی المشی: ناز انداز سے چلنا۔

الخطاطل: باطل۔

الخطل: سر۔ بیوقوفی۔ سکی۔ سرعت۔ بہت

روی گفتگو۔ کہا جاتا ہے۔

"أرأی فی مشیتہ خطلاً" میں اس کی چال

میں ضعف محسوس کرتا ہوں۔ گفتگوئے

پریشان۔

الخطل: بیہودہ گفتگو والا۔ بیوقوف۔ سہم

خطل: نشانہ سے خطا کرنے والا تیر۔ ثوب

خطل: موٹا کھر دراکپڑا جو لمبائی کی وجہ سے

زمین پر کھنچے۔ ج الخطل اور کہا جاتا ہے

"رجل خطل الیدین" سخت ہاتھوں والا مرد

و "زمنح خطل" بے ڈول لمبائیزہ۔

الخطل: تیز اور جلدی نیزہ مارنے والا۔ جیسے

"أخوس فی الہبیحاء بالرمح خطل"

شجاع و بہادر لڑائی میں تیز اور جلدی نیزہ مارنے

والا ہوتا ہے۔ خطل بالمعروف: داد و

دہش میں جلدی کرنے والا۔

الخطل: لمبے اور لٹکے ہوئے کانوں والا۔

بیہودہ گفتگو والا۔ مؤنث خطلاً، ج خطل

الخطل: کتاب۔ بی۔ مصیبت۔ عطر فروش۔

ٹڈی دل۔

خطمة (ض) خطماً و خطمہ۔

بالخطام: تکمیل لگانا۔ خطمہ بالكلام:

خاموش کرنا۔ مغلوب کرنا۔ خطم الرجل:

ناک پر مارنا۔ (خطماً و خطاماً) القوس

بالوقوف: کمان پر تانت چڑھانا۔

أخطم: الخطام: تکمیل لگانا۔

المخطم و المخطم: ناک۔

الخطم: سر۔ ناک کا اگلا حصہ۔ چوچ من

الدابة: چوپایہ کی ناک اور منہ کے سامنے کا

حصہ۔ أمر عظیم: پہاڑ کی چوٹی۔

الخطام: مہار۔ تکمیل۔ کمان کی تانت۔ ج

خطم۔

الخطام: فاء۔ کہا جاتا ہے "فلان خطام"

أمر بنی فلان" فلاں بنو فلاں کا قاتل ہے اور

ان کے معاملات کا منتظم ہے۔

الخطام: اسم مبالغہ۔ مسک خطام: ناک

کو خوشبو سے بھر دینے والی کستوری۔

الخطم: لمبی ناک والا۔ کالا۔ مؤنث

خطماء ج خطم۔

الخطمی: ایک قسم کی نباتات جو دواؤں میں

کام آتی ہے۔ واحد (خطمیة)

خطا (ن) خطوا: قدموں کے درمیان

کشاوہ کر کے چلنا۔

خطا و خطی: الرجل: قدموں کو کشادہ

کر کے چلانا۔ خطی عنه الشیء: زائل کیا

جائنا۔

تخطی تخطياً و أخطی أخطاء: ہ الی

کذا: پھانڈنا۔ تجاوز کرنا۔ آگے بڑھ جانا۔

الخطوة: چلنے کے وقت دو قدموں کے

درمیان کا فاصلہ۔ عوام اسے نغمہ کہتے ہیں۔

مساft: کہا جاتا ہے۔ قرب اللہ علیک

الخطوة: اللہ تعالیٰ مسافت کو تمہارے لیے

قرب کر دیں۔ ج خطی و خطوات

و خطوات و خطوات

الخطوة: بمعنی خطوة: خطا کا اسم مرہ

فی المساحة: چھو قدم۔

الخطمة: گناہ۔

خطا خطواً خطواً لحمہ: گناہ ہونا۔

أخطی الرجل: موٹا ہونا۔ أخطاه: موٹا

کرنا۔

الخطی: مٹھے بدن والا۔ کہا جاتا ہے۔

خف (ض) خفاً و خفةً و خفةً: ہلکا ہونا۔

خفيف الغش ہونا۔ کم مال والا ہونا۔

المطر: کم ہونا (خفاً و خفةً و خفوفاً)

إلی العذو: جلدی کرنا القوم: جلدی کوچ

کر کے کم ہونا۔

سخطف الشیء: ہلکا کرنا الحرف: مشدودہ

کرنا الثوب: باریک بنانا۔

أخف: کم سامان والا ہونا۔ سبک حال ہونا

الرجل: جہالت پر آسانا۔ عیب لگانا۔

تخفف: چرمی موزہ پہننا۔ جلدی کرنا۔

تخاف: ہلکا چھلکا ہونا۔

استحفه: ہلکا سمجھنا۔ جاہل سمجھنا۔ حق و

صواب سے ہناتا ہ الغناء طرب و نشاط میں
والنا ہ الطرب :

استخف بہ بھیر جانا۔

الخف بکاء توڑی جماعت۔ کہا جاتا ہے
”خرج فی خف من أصحابہ وہ اپنے
تھوڑے سے ساتھیوں کے ساتھ نکلا۔

الخف للبعير والنعام اونت اور شتر
مرغ کی ناپ۔ چری موزہ۔ ج اخفاف
و خفاف کہا جاتا ہے ”خف ضاحك“
پھنسا ہوا موزہ۔ الخف قدم کا وہ حصہ جو زمین
سے لگے۔ سخت زمین۔

الخف کا پین (جسم میں ہویا عقل میں یا عمل
میں)

الخفیف بکاء پھر تپا۔ کہا جاتا ہے ”هو
خفیف الروح وہ لطف اچھی صحبت والا

ہے و ”خفیف القلب وکی و ”خفیف
العقل بیز قوف و ”خفیف الظہر کم اولاد

والا و ”خفیف اليد پھر تپا و ”خفیف
العارضین الاڑھی میں کم مال والا۔ ج اخف

و خفاف و اخفاف الخفیف: علم
عروض کی اصطلاح میں ایک بحر کا نام۔

الخفاف ذکی، تیز فہم۔
الخفاف چرمی موزوں کا بیچنے والا۔

الخفوف بزم۔
خف (خف) خفا الشیء کبھی کر زمین پر

پکنا البیت نما کر گرا دینا القربۃ تک کو
پھلا کر زمین پر بچھا دینا تاکہ پانی جذب نہ ہو۔

خف (خف) خفونا الصوت پست
ہونا۔ صفت (خافت و خفیت)۔ (خفانا

اچانک مرنا۔ (و خفنا و خافت و تخافت
بکلامہ و بصوت پھو شیدہ رکنا۔ پست کرنا۔

آہستہ کرنا بالقراءة آہستہ پڑھنا۔ خافتہ
پست گفتگو کرنا۔ تخافت تکلف ضعف و

سکون ظاہر کرنا۔
الخفتایک قسم کی نباتات۔

الخفتان پلٹ (جگ میں پہننے کا ایک لباس
(دخیل)

الخاف بے پانی کا بادل۔ زرع خافت:
کمزور پودہ جو ابھی لہانہ ہوا ہو۔

خفج (س) خفجاً البعیر حج کی بیماری
لاحق ہونا۔

الخفج کبڑور۔ سست۔
الاخفج حج کی بیماری والا۔ ٹیزھے پاؤں

والا۔ عمود اخفج بیز ہاستون۔
الخفج لاکوں میں لڑکھڑاہٹ ہونا۔

خفخف خفخفۃ الخنزیر او الضبع
آواز کرنا الرجل قبیصہ الجدید او

القرطاس حرکت دینے سے آواز نکلا۔
الخفخاف وہ شخص جس کی آواز تاک سے

نکلنی ہوئی معلوم ہو۔
خف (س) خفلاً و خفدانا و خفد

(س) خفداتیز جانا۔
الخفد دو الخفد و دو چگاڑیا چگاڑی کی

مانند ایک دوسرا پرندہ۔
الخفید دتیز چلنے والا۔ شتر مرغ۔ ج

خفاد و خفادید و خفیدات۔
خفون (س) خفراً و خفراً۔ ہ و بہ

و علیہما دینا۔ حفاظت کرنا اس دینا ہنہ
دینے کی اہرت لینا۔ خفر بالعہدۃ کرنا۔

عہد پورا کرنا۔ (خفراً و خفوراً) فلان عہد
توڑنا۔ بیوفائی کرنا۔

خفر (س) خفراً و خفارة الجاریۃ:
بہت شرمیلی ہونا۔ صفت (خفراً و خفراً

و مخفراً)
خفراً من دینا۔ حفاظت کرنا۔ شرمندہ

کرنا۔ کسی کے ساتھ رہ رہ بھیننا۔
تخفراً۔ بہ ہنہ دینا۔ پناہ لینا۔ رہ رہ بننے کو

کہنا۔ تخفرت الجاریۃ بہت شرمیلی
ہونا۔

الخفارة۔ (بتثلیث الخاء) رہ رہی۔
عہد۔ الخفارة بہر کی اہرت۔

المخفرو لیس اسٹیشن
الخفرة۔ خفارت کے معنی میں اسم ہے۔ کہا

جاتا ہے ”هو فی خفرة اللہ اللہ کے ذمہ

ہے ”هذا خفرتی یہ میرا رہ رہ ہے۔

الخفیر پناہ دیا ہوا۔ پناہ دینے والا۔ حمایت و
حفاظت کرنے والا۔ ج خفراء۔

الخفیر پناہ دینے والا۔
خفلائن) خفسا شمشا کرنا۔

خفص الطعام او الشراب تھوڑا کھانا یا
پینا۔

البناء عمارت ڈھانا۔
خفص (س) خفسا و اخفص بہت

بدرزبالی کرنا۔
انخفص الماعلیٰ کا خفیر ہونا۔

تخفص الرجل لہانا۔
شراب (مخفص) مہلہ مست کرنے والی

شراب۔
خفص (س) خفشا۔ بہ پھینکنا البناء:

ڈھانا۔
خفص (س) خفشا کبڑور ہونا۔ پیدائشی

کمزور نظر والا ہونا۔ تک آنکھ والا ہونا۔ رتوند
والا ہونا۔ صفت (خفص و اخفص)

خفص البدن کبڑور ہونا۔
البناء عمارت ڈھانا الرجل پچھا کر کچل

دینا بالارض زمین سے چٹنا۔
الخفاش پچھا کر جرح خفایش

خفص (س) خفصا پست کرنا۔
الصوت آہستہ کہنا الکلمۃ زیر دینا۔

خفص الصوت آہستہ ہونا بالمکان:
اقامت کرنا الرجل مرنا الابل آہستہ چلنا

الجاریۃ تھن کرنا۔
خفص (س) خفصا العیش آسودہ و

خوشحال ہونا۔ صفت (خفص و خفص و
خفص و مخفوض)

خفص الشیء آسان کرنا۔ نرم کرنا اور
اس سے ہے ”خفص عنک یعنی اپنے اوپر

نرم کرو۔
تخفص الامر آسان ہونا۔

انخفص بلندی کے بعد پست ہونا
الصوت پست ہونا۔

اِخْفَضُ. السعير، بماؤكرنا۔

الخافض. فالله تعالى کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے۔ اور کہا جاتا ہے ”هو خافض الطير وخافض الجناح“ وہ باوقار اور متحمل البراج ہے۔ مؤنث خافضة۔

الخافضة: لڑکیوں کی غصہ کرنے والی۔

الخفص. سد (والخفصة) آسودگی۔

فراخی کی زندگی۔ کہا جاتا ہے ”هو فی خفص من العیش“ وہ آسودہ زندگی میں ہے۔

خفف (ف) خففاً: بھوک وغیرہ سے چکرا کر گرنا۔ خففةً بالسيف: تلوار سے مارنا۔

(خففاً وخففاً) الستر: پناہ۔

أخفعه. الجوع: چکرا کر گرنا۔

إنخفع: بیہوشی کے قریب ہونا۔

المخفوع: دیوانہ۔

خفقه (ن ض) خففاً. بالسيف: آہستہ

تلوار سے مارنا النعل: جوتے سے آواز لگانا

(خففاً وخففاً وخففاً) الفؤاد:

دھڑکنا الرأية: پھر پھراننا البرق: کوننا

(خففاً) النجم: غروب ہونا الليل: اکثر

حصہ گزر جانا الطائر: اڑنا الرجل فی

البلاد: سفر کرنا المكان: خالی ہونا۔

أخفق. مضرب ہونا حاجت میں ناکام رہنا۔

محروم ہونا القوم: قوم کے توش کا ختم ہونا

براسہ: اونگھ سے سر ہلانا بنوہ: کپڑے کو

حرکت دے کر اشارہ کرنا النجم: غروب ہونا

الطائر: بازو پھرنانا ہ: پھارنا۔

أخفق. العلم او السراب: جھنڈے کا یا

سراب کا پانا۔

الخففة: خفف کا اسم مرۃ۔

الخففة: کوئی چیز جس سے مارا جائے۔ جیسے

تسمہ وغیرہ۔

الخفف والخففة والخفف والخففة تلی

کر کا گھوڑا (خففة اور خففة) میں تاننا تسمیہ

کی نہیں مبالغہ کی ہے۔ ج خفف وخففات

والخفف وخففات. فالله تعالى کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے۔ اور کہا جاتا ہے ”هو خافض الطير وخافض الجناح“ وہ باوقار اور متحمل البراج ہے۔ مؤنث خافضة۔

الخافض. فالله تعالى کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے۔ اور کہا جاتا ہے ”هو خافض الطير وخافض الجناح“ وہ باوقار اور متحمل البراج ہے۔ مؤنث خافضة۔

الخافض. فالله تعالى کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے۔ اور کہا جاتا ہے ”هو خافض الطير وخافض الجناح“ وہ باوقار اور متحمل البراج ہے۔ مؤنث خافضة۔

الخافض. فالله تعالى کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے۔ اور کہا جاتا ہے ”هو خافض الطير وخافض الجناح“ وہ باوقار اور متحمل البراج ہے۔ مؤنث خافضة۔

الخافض. فالله تعالى کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے۔ اور کہا جاتا ہے ”هو خافض الطير وخافض الجناح“ وہ باوقار اور متحمل البراج ہے۔ مؤنث خافضة۔

الخافض. فالله تعالى کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے۔ اور کہا جاتا ہے ”هو خافض الطير وخافض الجناح“ وہ باوقار اور متحمل البراج ہے۔ مؤنث خافضة۔

جگہ۔ رجل خافق العين: دھنسی ہوئی آنکھ

والا۔

الخفقا. اسم مبالغہ۔ خفقا القدم: وہ

مخمس جس کے قدم کا اگلا حصہ چوڑا ہو۔

الخفافة. ذیر۔ امرأة خفافة الحشا:

تلی کروالی عورت۔

الخافقان. پورب و پچم۔

الخواقق والخافقات. خافقه کی جمع۔

جمندے۔ خواقق السماء: ہوا چلنے کی

چاروں سمتیں۔

الخفيف. مصیبت۔ بہت تیز رفتار گھوڑا یا

اونٹنی۔ وسیع بیابان جس میں سراب چمکتا ہو

معلوم ہو۔

المخفف. ہموار زمین جس میں سراب

حرکت کرتا ہوا ہو۔

المخفف. چوڑی تلوار۔

المخففة. کوزا جس سے مارا جائے۔ اور

بقول بعض کڑی کا کوزا۔

مخافق. النجم: ستاروں کے غروب

ہونے کی جگہیں۔

المخفوق. سنا یا گل۔ دیوانہ۔

الخافيل. بھاگنے والا۔

الخفن. پیٹ کا ڈھیلا ہونا۔

الخفان. مڈی۔ واحد (خفانہ)

الخفان. شتر مرغ کے جوزے۔

الخفان. ایک قسم کا نرم پتھر۔ یہ استعمال

عام سے ہے صح لفظ ”الخففة“ ہے۔

خفا (ن) خفوا وخفوا. البرق: چمکتا

الشيء: ظاہر ہونا۔

خفی (ض) خفياً وخفياً. الشی: ظاہر

کرنا۔ کہا جاتا ہے ”خفی المطر القار“

بارش نے چوے کو بل سے نکال دیا۔ چھپانا۔

پوشیدہ کرنا۔ (ضد)

خفی (س) خفاء وخففة وخففة۔

پوشیدہ ہونا۔ صفت (خاف وخفی)

خفی وخفی. الشی: پوشیدہ کرنا۔

خفف عفا: ہمارے

خفف عفا: ہمارے

خفف عفا: ہمارے

خفف عفا: ہمارے

خفف عفا: ہمارے

متعلق جو تم سے دریافت کرے اس سے ہماری

حالت چھپاؤ۔ وأخفى الرجل: چھپنا۔

پوشیدہ ہونا۔ أخفى الشی: سر پوش ہانا۔

تخفی واستخفى. چھپنا۔ پوشیدہ ہونا۔

أخفى الشی: ظاہر کرنا۔ نکالنا من

فلان: چھپنا البئر: کھودنا۔

الخفاء. سر پوشیدگی۔ کہا جاتا ہے ”برح

الخفاء“ یعنی معاملہ واضح ہو گیا۔ پردہ چادر

جو لباس کو چھپالے۔ پوشیدہ چیز۔ ج أخففة

أخففة الكرى: آنکھیں۔ أخففة

الزهرة: بکلی کے غلاف۔

الخففى. لوگوں سے علیحدہ۔ مخفی جگہ میں

رہنے والا۔ کہا جاتا ہے ”رجل خفى البطن“

پتکے ہوئے پیٹ کا مرد۔

الخافى والخافياء. جن۔

الخافية. الخافى کا مؤنث۔ پوشیدہ چیز۔

پوشیدگی۔ جن۔ ج خواف. اور کہا جاتا ہے

”أرض خافية“ جنوں کی سر زمین۔

الخوافى. پرندے کے بازوؤں کے نیچے

چھپے ہوئے پر۔ اور امثال عرب سے ہے ”ليس

القوادم كالخوائى“ سچ پر چھوٹے پروں کی

مانند نہیں۔

الخففة. الخففى کا مؤنث۔ گنجان۔

جھاڑی۔ کواں جس میں پانی ہو۔ ج خفایا و

خفیات کہا جاتا ہے۔ ”بہ خففة“ اس پر کچھ

جنون و دیوانگی کا اثر ہے۔

المخففى. فاعل، کن، چور۔

خففت (ض) خفاً وخففاً وخففاً.

القدر: جوش سے سننا۔ ج حق السبل فی

الأرض سمہا اگر ظاہر کر دینا (واخففت)

البكرة: چرخے کے سوراں کا چوڑا ہونا۔

الخق. ج أخقاق وخقوق و

(الأخقوق والأخقيق) زمین کا شکاف۔

تالاب جبکہ خشک ہو جائے۔

خاقان. ترکوں کے بادشاہ کا لقب۔ ج

خواقین. کہا جاتا ہے (خفنة) القوم علی

انفسهم: لوگوں نے اس کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

خل (ن ض) خلا و خلولا۔ لحمہ: ویلا ہونا۔ کم گوشت ہونا (خلال الشئی: سوراخ کرنا۔
الفصیل: زبان کو چیر کر دودھ سے روکنے کیلئے لکڑی ڈالنا فی ذعابہ: خاص کرنا۔
خل: اللہ: محتاج و فقیر ہونا۔
خلل: العصیز: کھنا ہونا۔ سرکہ بنا العصیز: سرکہ بنانا الاستنان: خلال کرنا۔
خلل فی ذعابہ: خاص کرنا۔
خالہ مخالہ و خلالا و خلالا: دوستی کرنا۔ بھائی بندی کرنا۔
اخل: محتاج ہونا بالشئی: کوتاہی کرنا۔ چھوڑ دینا الوالی بالنعور: لنگر کم کر دینا بصر کثوف: مرکز کو چھوڑ دینا بقوم: غائب ہو جانا بالرجل: پورا حق نہ دینا۔ بالامر: بڑے طریقے سے انجام دینا۔ لگا دینا۔ اخل اللہ: محتاج کر دینا۔ اخل بالرجل: محتاج ہونا۔
تخلل: القوم: قوم میں مل جانا ہا بالرمح: پیارے نیزے مارنا الشئی فیہ: نفوذ کرنا المطر: مخصوص جگہ میں برسا الرجل: خلال کرنا۔
اخل الامر: کمزور و فاسد ہونا عقلہ: خراب ہونا اللہ: محتاج ہونا العصیز: سرکہ بنا العصیز: سرکہ بنانا لحمہ: لاغری کی وجہ سے کم ہونا الرجل: اپنے لیے سرکہ بنانا۔
تخالوا تخالاً: باہم دوستی کرنا۔
الخل: سرکہ۔ ریگستانی راستہ۔ ڈبلے جسم والا۔ لاغر۔ ہونٹا۔ بوسیدہ کپڑا۔ کپڑے کی پھین۔ ج اخل و خلال: کہا جاتا ہے "خالہ خل ولا خمر" اس کے پاس نہ جیدے نہ روی "ولست من هذا الامر فی خل ولا خمر" مجھ کو اس معاملہ کے نہ خیر سے مطلب نہ شر ہے کام۔ ام الخل: شراب۔ الخل و الخل: دوست۔ مؤنث خل و خلة: ج اخلال۔
الخلل: سستی۔ فساد۔ رائے میں انتشار و پراندگی۔ شگاف۔ دراڑ۔ ج خلال۔

الخلل: وائٹوں کے درمیان خوراک کا پتھر۔ واحد (خلة) کہا جاتا ہے "هو خلل القوم" وہ قوم کے درمیان ہے۔
الخللة: عادت۔ سوراخ۔ تھوڑا سرکہ۔ ن تھوڑی سی کھٹی شراب۔ حاجت۔ محتاج۔ ج خلال و خلل: الخلة: ہلکی پھلکی عورت۔ الخلة: گھاس جس میں مٹھاس ہو۔ ج خلل۔ دوستی۔ عادت۔ بیوی۔ محبوبہ۔ دوست (واحد) شہر جمع مذکر مؤنث سب کے لئے تم کہتے ہو "هو وهي و هن خلتي" الخلة: دوستی۔ بھائی بندی۔ تلوار کی میان جس پر تھوڑا منڈھا ہوا ہو۔ تھوڑا جو منقش ہو۔ ج خلل و خلال۔
الخلال: سوراخ کرنے کا آلہ۔ لکڑی جو اونٹ کے بچے کی زبان میں لگادی جاتی ہے تاکہ دودھ نہ پی سکے۔ ج اخللة (والخلاللة) دانت صاف کرنے کا تکا۔
الخلال و الخلاللة: وائٹوں کے درمیان خوراک کا پتھر۔ و خلال الدیار: شہروں کا ارد گرد۔ گھروں کے درمیان۔ کہا جاتا ہے "هو خلالهم: وہ ان کے درمیان ہے۔
الخلاللة و الخلاللة و الخلاللة: سچی دوستی۔
الخلیل: خالص دوست۔ ج اخللاء و خلان: لاغری۔ فقیر۔ مؤنث خلیللة: ج خلیلات و خلائل: شی خلیل: چھدی ہوئی چیز۔
الخلال: سرکہ بیچنے والا۔ سرکہ بنانے والا۔ الاخل: محتاج۔ دوسرے سے زیادہ محتاج۔ رجل (مخل) محتاج مرد۔
خلا (ق) خلوا: جگہ سے نہ لٹنا۔
خلات الناقا: آڑگانا۔
خالاً مخالاً القوم: ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری میں مشغول ہو جانا۔
خلبه (ن ض) خلبا بظفوه: خراش لگانا، زخمی کرنا المسع الفریسہ: چنگل سے کچلنا الفتی: جوان کے دل کو چھین لینا اور رفتہ میں

بلا کرنا۔
خلبه (ن) خلبا و خلایا و خلایبہ و خالیہ مخالیه و خلیہ و اختلیہ: نرم کلاب سے فریقتہ کرنا۔ صفت (خالب و خلوب و خلآب و خللیوت) مؤنث خالیہ و خلیہ و خلوب و خلایبہ و خللیوت۔
خلبت (س) خلبا: المرأة: بیوقوف ہونا۔ صفت خلبا۔
اخلب: الماء: کچھ والا ہونا۔ صفت (مخلب)
استخلبه: بظفوه: خراش لگانا۔
الخلب: جگر کے اوپر کی جھلی۔ انور کے تھے۔ ج اخلاب (والمخلب) چنگل۔ ج مخلاب: المخلب: دار بنی۔
الخلب و الخلب: کچھ۔ کھجور کے درخت کا گودا۔ کھجور کے درخت کی چھال اور اس کی بی ہوئی رتی۔
الخلب: بے بارش کا بادل۔ والیرق الخلب و بیرق الخلب: بے بارش کے بادل کی بجلی۔ "انما انت کبیرق خلب" اس شخص کے حق میں بولتے ہیں جو وعدہ کرے اور پورا نہ کرے۔
الخلیبی فریب۔
المخلب: من النیاب: بہت نقش و نگار والا کپڑا۔
خلبسه: اوخلبس قلبه: فریقتہ کرنا۔
الخلابس: نرم بات۔
الخلابس و الخلابس و الخلابیس: باطل و جھوٹی باتیں۔ الخلابیس: کہنے و فریادہ لوگ۔
خلبص: بھگانا۔
خلجہ (ن ض) خلججا: کھینچنا۔ کھینچ کر نکالنا ہ بعینہ: آنکھ سے اشارہ کرنا الشئی: حرکت دینا ہ بالسیف: تلوار سے مارنا الولد: زورہ چھڑانا ہ الامر: مشغول کرنا۔ کہا جاتا ہے "خلجته امور الدنيا" اس کو دنیا کے دھندوں نے پھنسا لیا۔

علت پیدا ہو جائے۔
 الخُلْسَة جھپٹ۔ جھپٹی ہوئی چیز۔ مناسب فرصت۔ اور اسی سے ہے "الخُلْسَة سَرِيعَة الفوت بَطِيئَة العود" فرصت جلد ختم ہو جانے والی اور دیر میں آنے والی ہے۔
 الخَلِيسُ والخَلِيسُ جھپٹنا، بھادرنے والی اور دیر میں آنے والی ہے۔
 الخُلْسَة درندے کے منہ سے جھپٹایا ہوا جانور جو زخم کرنے سے پہلے مر جائے۔
 الخَلِيسُ وہ بچہ کہ جس کے ماں باپ میں سے ایک گوارا ایک کالا ہو۔
 خَلَصَ (ن) خُلُوْصًا و خَلَاصًا خَالِصًا ہونا من الہلاک: نجات پانا۔ محفوظ رہنا الماء من الکبد: نصاب ہونا الی المکان وبالْمکان پہنچنا من القوم: جدا ہونا۔
 خَلَصَ (س) خَلَصًا اللحم: گوشت میں بڑی کا چورا ہونا۔
 خَلَصَهُ من کذا: نجات دینا۔ خَلَصَ الشَّيْءَ صَافَ کرنا۔ خَالِصَ کرنا۔ خلاصہ لینا۔ خَلَصَ الرَّجُلُ شَيْئًا دینا۔ خَالَصَهُ مُخَالَصَةً: فی العشرة او المودة: خلوص برتنا۔ خَالَصَهُ الوُدَّ: خالص دوستی کرنا۔
 تَخَلَّصًا بَاهِمٍ خَالِصًا دوستی کرنا۔
 أَخْلَصَ الشَّيْءَ خَلَاصَةً لِيُنَا: جن لینا۔ ه اللہ: میوب سے خالی کرنا الطاعة وفي الطاعة: بے نام و نمود کے کرنا له الحب او القول بکھوت سے خالی کرنا۔
 تَخَلَّصَ مِنْهُ حِمَاتٌ پانا۔ جدا ہونا من کذا الی کذا: بھٹل ہونا۔
 اسْتَخْلَصَهُ جَن لِيُنَا الشَّيْءَ مِنْهُ: بچے لیے حاصل کرنا۔
 الخَلَاصُ من (و الخِلاص) بکھوت سے خالی کیا ہوا۔ (سونا چاندی وغیرہ)
 الخَلَاصَةُ والخِلاصَةُ خَالِصٌ گھی۔ پھر اس کا عام طریقہ سے استعمال ہر اس چیز پر ہونے لگا جو دوسرے سے خالص کر لیا گیا ہو۔ اور اسی سے ہے "خَلَاصَةُ الْكَلَامِ"

(خَلْخَالٌ وَخُلْخُلٌ بَارِكٌ كَيْزًا)
 المُنْخَلْخَلُ۔ پڈلی یازیب پینے کی جگہ۔ عسکر (مُنْخَلْخَلٌ بَکْهْرِيٌّ ہوئی فوج۔
 خَلْدَانٌ (خُلُوْذًا) ہمیشہ رہنا۔ (خَلْدًا و خُلُوْذًا) ہا جو زیادتی عمر کے کمزوری و بڑھاپا نہ آتا۔ صفت (خَالِدٌ وَمُخَلَّدٌ وَمُخَلَّدٌ وَمُخَلَّدٌ) الی الْمَكَانِ وَبِالْمَكَانِ: اقامت کرنا الی الْأَرْضِ پھینکا۔
 خَلَدَ وَأَخْلَدَ. الی الْمَكَانِ وَبِالْمَكَانِ: اقامت کرنا ہ: ہمیشہ کیلئے رکھنا۔ أَخْلَدَ بِصَاحِبِهِ: ہمیشہ ساتھ رہنا۔ أَخْلَدَ إِلَيْهِ: مائل ہونا۔ جھٹکنا۔
 الخُلْدُ۔ بیٹھکی۔ دوام۔ بقا۔ الخُلْدُ: چھپو ندر۔ مَنَاجِدُ الخُلْدِ: کنگن۔ بالی۔ ج خِلْدَةٌ۔
 الخُلْدُ دل۔ ہمیشہ رہنے والا۔ الخِلْدَةُ بالی۔ کنگن۔
 الخَالِدُ۔ فا۔ أَبُو خَالِدٍ بَنُو الخَالِدَاتِ جَزَائِرُ کِنَارِيٍّ الخَوَالِدُ وِجِ دَانَ كَيْ پائے۔ پہاڑ۔ پتھر۔ الخُلُوْرَاكِ قِسْمٌ كِي نَابَاتَاتٍ۔ بقول بعض لویا یا ماش۔
 خَلَسَ (ض) خَلَسًا وَخَالِيسِيٍّ الشَّيْءَ: فریب سے چھپانا لینا۔
 أَخْلَسَ النَّبْتُ بَسْبَرًا اور خَشْكَ مَلَا جَلَا ہونا الراس نالوں کا بھڑوی ہونا۔ صفت خَلَسَ وَخَالِيسٌ وَمُخَلِّسٌ أَخْلَسَتْ الْأَرْضُ: کچھ ہریالی ہونا۔
 خَالَسَهُ مُخَالَسَةً جَلْدِيٍّ کرنا۔ تَخَالَسَ القوم الشَّيْءَ نَبِكٍ دوسرے سے چھیننا کہا جاتا ہے "هُمَا يَتَخَالَسَانِ انْفُسَهُمَا" وہ دونوں ایک دوسرے کے قتل کا ارادہ کرتے ہیں۔
 اخْتَلَسَ الشَّيْءَ غَرِيبًا سے چھپانا لینا القارِيَّ الحَرَكَةَ: پرنہ پڑھنا۔ اس کے مقابلہ میں اشعار ہے جس کے معنی پر پڑھنے کے ہیں کہ جس سے بجائے حرکت کے حرف

خَلَجَتْ (ن ض) خَلَجًا وَخُلُوْجًا وَ خَلَجَانًا. العین پھڑکنا۔
 خَلَجَ (س) خَلَجًا طَعْنًا یا جھکنے کی وجہ سے پڈیوں کا درد کرنا الشَّيْءَ: بگڑنا۔ خراب ہونا۔ خَالَجَ. قَلْبُهُ امر: کسی معاملہ کا دل کو سوچ بچار میں ڈال دینا۔
 أَخْلَجَ حَاجِبِيَهُ مَكَانًا۔
 تَخَلَّجَ لِزَكْرَاتٍ۔ بٹنا، جھٹکنا الشَّيْءَ بھینچنا۔ تَخَالَجْتَهُ. الهموم: کہا جاتا ہے "تَخَالَجَ فِي صَدْرِي شَيْءٌ بَعِيٌّ مِیرے دل میں کچھ غلجان ہوا۔
 اخْتَلَجَ جَهْرًا العین پھوٹوں کا غیر ارادی طور پر پھڑکنا الشَّيْءَ فِي صَدْرِهِ: غلجان ہونا الشَّيْءَ: بھینچ کر نکالنا الولد: دودھ چھڑانا۔
 أَخْتَلَجَ مِنْ بَيْنِهِمْ مَرْنَا۔
 الخَالَجُ۔ فاموت۔
 الخُلْجُ۔ کاغذ والے بدن کے لوگ۔
 مَلْکُوكِ نَسَبُ كِي لُوكِ۔
 الاخْلَجُ رَشِيٍّ۔
 الخَلِيجُ۔ من البحر: کھاڑی۔ ندی۔ چھوٹی کشتی۔ رَشِيٍّ۔ ج خُلْجَانٌ وَ خُلْجُ خَلِيجًا النهر و رَاكِيٍّ دُونُوں جَانِبِ الخِلَاجِ لِيَكِ قِسْمٌ كِي دَهَارِيٍّ دَارِ جَادِرِ الخُلُوْجِ أَوْ نَشِيٍّ جِس كَادُوْدِهِ بچہ جدا کرنے کی وجہ سے کم ہو گیا ہو۔ تیز رو او نَشِيٍّ۔ پراگندہ بادل۔ بہت پانی والا بادل۔
 الاخْلِيجُ اِيَكِ قِسْمِ كِي كِهَاسِ مِنَ الخَيْلِ: تیز رفتار گھوڑا۔
 خَلْخَلُ. العظم گوشت چھڑا کر صاف کرنا المرَاةُ يَزِيْبُ پھینکا۔
 تَخَلْخَلُ الشَّيْءَ كِي بِيْرَ كِي اِيْرَاءُ كَامَلَا ہوا نہ ہونا۔ شَيْءٌ مِثْلُ خَالِي ہونا من مَكَانِهِ جگہ سے ہٹنا المرَاةُ يَزِيْبُ پھینکا الثوب بوسیدہ ہونا۔
 الخَلْخَالُ ج. خَلَاخِيلٌ وَ (الخَلْخَلُ وَ الخَلْخَلِيَّ ج. خَلَاخِيلٌ يَزِيْبُ۔ ثوب

الإخلاص والإخلاصة. كمن جو تلچٹ سے جدا کر لیا جائے۔ ”كَلِمَةُ الإِخْلَاصِ“ لا إله إلا الله

الخلص ہر سفید چیز۔

الخلص ج خالصاء و الخلصان یار یا خالص دوست۔ خلصان مفرد جمع دونوں کے لیے مستعمل ہے۔ کہا جاتا ہے ”هو خُلَصَانِي وَ هُم خُلَصَانِي“

الخالص فابے کھوٹ۔ صاف رنگ۔ کہا جاتا ہے ”هَذَا ثَوْبٌ خَالِصٌ“ یہ صاف رنگ کا کپڑا ہے۔ ج خَلَصَ

الخالصة خالص کا مؤنث۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ خَالِصَتِي“ وہ میرا دوست ہے و ”هَذَا الشَّيْ خَالِصَةٌ لَكَ“ یہ چیز تمہارے لیے مخصوص ہے۔

الخلوص نیت جو کھجور سے تیار کی جائے۔ تلچٹ جو خالص گھی کی تہ میں بیٹھ جائے۔ بالائی

المُخَلَّص. فاجابت دہندہ۔ خَلَطَ (ض) خَلَطًا وَ خَلَطَ الشَّيْءُ بالشيء: ملانا۔ کہا جاتا ہے ”خَلَطَ المرصيفُ“ پیار نے مضر چیزیں کھائیں۔ و ”خَلَطَ فِي الكَلَامِ“ اُس نے بکواس کی۔

خَلَطَ فِي الشَّيْءِ: خراب و فاسد کرنا۔ أَخْلَطَ: الفرس: دوڑنے میں کوتاہی کرنا۔ خالطه مُخَالَطَةٌ وَ خَلَاطًا: ملنا۔ میل ملاپ کرنا۔ ساتھ رہنا الداءُ فَلَانًا: بیماری لاحق ہونا۔

خَوَّلَطَ: فِي عَقْلِهِ: مَحْبُوطُ الحَوَاسِ ہونا۔ اِخْتَلَطَ: ملنا الظلام: تاریکی کا چھا جانا الرجلُ: خراب عقل والا ہونا۔

الفرس: دوڑنے میں کوتاہی کرنا۔ تَخَالَطُوا: باہم ایک دوسرے کے ساتھ گفتہ جاتا۔

الخلط: سر لوگوں سے ملنے والا اور چالوس کرنے والا۔ الخلط: نیر حاتیر۔ نیر مگی کمان۔ بیوقوف۔

کہا جاتا ہے ”هو خلط بين الخلاطة“ وہ بیوقوف ہے جس کی بیوقوفی ظاہر ہے۔ ہر وہ چیز جو دوسری چیز سے ملے۔ ج خلط حرامی۔ اور کہا جاتا ہے ”رجل خلط ملط“ مخلوط نسب کا مرد۔

الاخلط: لمی جلی تسمیں۔ اخلط الجسد في عرق الأقدمين: خون۔ بغم۔ سودا۔ صفرا۔ و اخلط القوم: قوم کے معمولی اور گھنیا درجہ کے لوگ۔

الخلط: بیوقوف۔ الخلطة: شرکت۔ الخلطة: آدمیوں اور جانوروں کا ملا جلا ہونا۔

الاخلط: عقل کی خرابی۔ بیوقوفی۔ الخلیط: ج خلط و خلطاء: خلط ملط رکھنے والا۔ شریک۔ وہ لوگ جن کا معاملہ ایک ہو۔ شوہر۔ بڑی۔ ساتھی۔ بھوسہ ملی ہوئی مٹی۔ خلیط الرجل: میل جول رکھنے والا۔

کہا جاتا ہے ”خلیط من الناس“ معمولی اور گھنیا درجہ کے لوگ۔ الخلیطی والخلیطی: معمولی اور گھنیا درجہ کے لوگ۔ کہا جاتا ہے و ”فَعَوًا فِي خَلِيطِي“ وہ لوگ گڑبڑی میں پڑ گئے۔

المخلط والمخلط: بہت میل جول رکھنے والا۔ جمل (مخلیط) موٹا اونٹ کہ جس کی چربی گوشت کے ساتھ مل گئی ہو۔ خلع (ف) خلعًا: الشیء: اُتارنا کتبفہ او و رکھ: عضو کو جگہ سے ہٹا دینا القائد: معزول کر دینا الدابة: بندش سے آزاد کر دینا العذار: اپنے مرتبہ کو گرا دینا (کنایہ ہے بے حیائی سے) علیہ ثوبًا: خلعت دینا۔ خلع الشجر: پتے چھڑانا، نئے پتے لگانا۔

خلع (ف) خلعًا و خلعًا: ابنہ: عاق کرنا۔ صفت مفعولی (خلیع) زمانہ جاہلیت میں ایسا کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے بیٹا باپ کے جرم میں ماخوذ نہیں ہوتا تھا۔

امرته: مال کے عوض میں طلاق دینا صفت مفعولی (خالع) اسم (الخلعة) وہ خلع المیت: کفن جدا کیا جاتا۔ خلع (ک) خلاعة: خواہشات نفسانی کا تابع ہونا۔ بے حیاء ہونا۔ خالعة: الرجل: زوجتہ او المرأة: زوجہا: مال کے شرط پر جدائی اختیار کرنا۔

خالع الرجل: جو اکیلنا۔ خلعة: جدا جدا خالص کرنا۔ خلع السنبل: خوشہ میں دانے بیٹھنا الشجر: نئے پتے لگانا۔ تخلع في المشي: چلنے میں پیروں کو علیحدہ علیحدہ رکھنا فی الشرب: منہبک ہونا القوم: بچکے سے کھک کر چلا جانا۔ تخلع: الزوج والزوجة: مال پر جدائی اختیار کرنا القوم: باہم عہد توڑنا۔

انخلع ہٹ جانا۔ اُکھڑ جانا۔ زائل ہو جانا۔ اِخْتَلَعَ الشیء: نکال لینا۔ کھینچ لینا۔ اِخْتَلَعُوا الرجلُ: مال لے لینا۔ اِخْتَلَعَتِ المرأةُ من زوجها: مال دے کر جدائی اختیار کرنا۔ اسم (الخلع) الخلعة: کپڑے جو عزت کے طور پر ملیں۔ اُتار اہوا کپڑا۔ عمدہ مال۔ الخلعة: عمدہ مال۔ کمزوری۔ کہا جاتا ہے ”فیه خلعة“ اس میں کمزوری ہے۔ الخلاع: ایک قسم کی دیوانگی جو انسان کو لاحق ہوتی ہے۔

الخلیع بے حیائی کا کام کر کے اپنے مرتبہ کو گرا دینے والا۔ معزول شدہ۔ خبیث۔ جوئے باز۔ ج خلعاء: بھیڑیا۔ بھوت۔ ثوب خلیع پوشیدہ کپڑا۔ الخلیعة: بے حیائی۔ الخلیع کا مؤنث۔ من مانی عورت۔ الخولع: بیوقوف۔ ایک قسم کا کھانا جو آنے سے تیار کیا جاتا ہے۔ سرکہ میں جوش دیا ہوا گوشت۔ بھیڑیا (والخلیع) خوف جو دل پر طاری ہو۔ الخلیع: بے استیوں کی قیص۔

مفعولی (خالع) اسم (الخلعة)

خلع المیت: کفن جدا کیا جاتا۔

خلع (ک) خلاعة: خواہشات نفسانی کا تابع ہونا۔ بے حیاء ہونا۔

خالع مُخالعة: الرجل: زوجتہ او

المرأة: زوجہا: مال کے شرط پر جدائی اختیار

کرنا۔

خالع الرجل: جو اکیلنا۔

خلعة: جدا جدا خالص کرنا۔

أخلع السنبل: خوشہ میں دانے بیٹھنا

الشجر: نئے پتے لگانا۔

تخلع في المشي: چلنے میں پیروں کو

علیحدہ علیحدہ رکھنا فی الشرب: منہبک ہونا

القوم: بچکے سے کھک کر چلا جانا۔

تخلع: الزوج والزوجة: مال پر جدائی

اختیار کرنا القوم: باہم عہد توڑنا۔

انخلع ہٹ جانا۔ اُکھڑ جانا۔ زائل ہو جانا۔

اِخْتَلَعَ الشیء: نکال لینا۔ کھینچ لینا۔

اِخْتَلَعُوا الرجلُ: مال لے لینا۔ اِخْتَلَعَتِ

المرأةُ من زوجها: مال دے کر جدائی اختیار

کرنا۔ اسم (الخلع)

الخلعة: کپڑے جو عزت کے طور پر ملیں۔

اُتار اہوا کپڑا۔ عمدہ مال۔

الخلعة: عمدہ مال۔ کمزوری۔ کہا جاتا ہے

”فیه خلعة“ اس میں کمزوری ہے۔

الخلاع: ایک قسم کی دیوانگی جو انسان کو

لاحق ہوتی ہے۔

الخلیع بے حیائی کا کام کر کے اپنے مرتبہ کو

گرا دینے والا۔ معزول شدہ۔ خبیث۔ جوئے

باز۔ ج خلعاء: بھیڑیا۔ بھوت۔ ثوب

خلیع پوشیدہ کپڑا۔

الخلیعة: بے حیائی۔ الخلیع کا مؤنث۔

من مانی عورت۔

الخولع: بیوقوف۔ ایک قسم کا کھانا جو آنے

سے تیار کیا جاتا ہے۔ سرکہ میں جوش دیا ہوا

گوشت۔ بھیڑیا (والخلیع) خوف جو دل پر

طاری ہو۔ الخلیع: بے استیوں کی قیص۔

رجل خلیع: کمزور مرد۔
المخلع: سے من الرجال: کمزور شخص۔

اکھڑے ہوئے جوڑوں والا۔ وہ شخص جس کا سارا بدن یا کچھ بدن بے حس ہو۔
الخلعاء و الخلع: بوجہ۔

خلفہ (ن) خلافة و خلیفی جانشین ہونا ربہ فی قومہ: جانشین بنانا۔ الرجل: قائم مقام ہونا (خلفا و خلفه) الفاکھة بعضہا بعضا: ایک دوسرے کے قائم مقام ہونا (خلافة و خلوفا) العلام: بیوقوف ہونا۔ صفت (خالف خالفة) عن خلق

ابیہ: باپ کے عادات و اخلاق سے بدل جانا (خلوفا و خلوفا) ہم الصائم: منہ کی بوکا متغیر ہونا (خلف (ض) خلفا) الرجل لاہلہ: اپنے گھر والوں کے لیے پانی لانا

البيت: پچھلے حصہ میں ستون لگانا۔ باب کے قائم مقام ہونا۔ کہا جاتا ہے "خلف الله لك و علیك" اللہ تعالیٰ تم کو بدل دیں

الثوب: مرمت کرنا عن اصحابہ: پیچھے رہ جانا فلانا: پیچھے سے پڑنا۔ جانشین ہونا۔ اور کہا جاتا ہے "خلف له بالسيف" اس کے پیچھے سے آکر اس نے اسے تلوار ماری۔ و "خلف له بخیر او شر" اس کی غیر

موجودگی میں اس نے اس کا بھلا یا بُرا ذکر کیا۔
خلف (س) خلفا: بائیں ہاتھ ہونا۔ بھیگا ہونا۔ بیوقوف ہونا۔ خلیفت الناقہ: حاملہ ہونا۔ صفت (خلفه)

خلف الشی: پیچھے چھوڑنا۔ موخر کرنا ۵:
جانشین بنانا۔

خالفہ خلافا و مخالفة: ناموافق کرنا۔ خالف عن کذا: پیچھے رہنا بین رجلینہ: آگے پیچھے کرنا اور تم کہتے ہو "خالفی عن کذا" جبکہ وہ اعراض کر رہا ہو اور تم قصد کر رہے ہو۔ اور "خالفی الی کذا" جبکہ وہ قصد کر رہا ہو اور تم اعراض کرتے ہو۔

خلف یو کا بدلنا یا خراب ہونا الثوب: مرمت کرنا لاہلہ: اپنے لوگوں کیلئے پانی کھینچنا

وعدہ و بوعدہ: پورا نہ کرنا ۵: وعدہ خلاف پانا الغیث: امید کے بعد نہ برسا الشجرة: کئی ہوئی شاخ کے بدلے دوسری شاخ لگانا الطائر: پہلے پروں کے بعد دوسرے پر لگانا العلام: قریب البلوغ ہونا لنفسہ: ایک چیز

ضائع ہونے کے بعد دوسری کو اس کے قائم مقام کرنا ۵: پیچھے ڈالنا الذراء فلانا: کمزور کرنا اللہ علیہ: ضائع شدہ کا بدلہ دینا۔ تخلف: عنہم: پیچھے رہنا القوم: پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ جانا۔

تخالفتوا و اختلفوا: اختلاف کرنا۔ ناموافق ہونا۔ اختلفتہ: جانشین ہونا۔ پیچھے کرنا۔ پیچھے سے پڑنا۔ و اختلف الی المكان: بار بار جانا۔

استخلفہ: اپنا جانشین بنانا فلانا من فلان: قائم مقام کرنا۔ استخلفت الارض: گرمی کی گھاس کو اگانا۔ استخلف الرجل لاهلہ: اپنے لوگوں کیلئے پانی یا بیٹھاپانی لانا۔ پانی پلانا۔

الخلف: س۔ ایک گروہ جو ایک گروہ کے بعد ہو اور اسی سے ہے "ہؤلاء خلف سوء" ان لوگوں کے حق میں بولا جاتا ہے جو اپنے سے زیادہ کے ساتھ لاحق ہوں۔ ردی قول اور

بہتان عرب میں ہے "سکت الف و نطق خلفا" وہ ہزاروں باتوں سے خاموش رہا اور بولا تو ردی بات۔ کھلاڑی کی دھار، بڑا کھلاڑ۔ بے نفع شخص۔ پہلو کی سب سے چھوٹی پہلی۔ ج خلوف اور خلف قدم کی نقیض ہے۔ بمعنی پیچھے و بعد ازاں۔

الخلف: وعدہ پورا نہ کرنا۔ خلاف مفروض خلیف کی جمع۔ قیاس الخلف: منطقیوں کی اصطلاح میں ایک نقیض کے امتناع سے دوسرے کے ثبوت پر استدلال کرنا۔ الخلف: مختلف۔ اونٹنی کے تھن کا سرا۔ موسم بہار کی گھاس۔ ج اخلاف و خلفة الخلقان: دو مختلف صفات والے۔ کہا جاتا ہے "لہ و لدان خلفان" اس کے دو بیٹے ہیں جن میں سے ایک زیرک اور دوسرا بیوقوف یا

بے خبر ہونا۔ الخوالف: عورتیں۔ وہ زمینیں جن کی پیداوار بعد میں آگے۔ الخوالف: ناموافق۔ بید کی ایک قسم۔ آستین۔ المسائل الخلافیة: مختلف فیہ مسائل۔ الخلافة: امارت۔ قائم مقامی۔ امامت۔ الخلفۃ: مرض کی وجہ سے بھوک کا زائل ہونا۔ ج خلف الخلفۃ: آجا جانا۔ مخالف۔ مختلف۔ کپڑے کا

ایک لہا اور دوسرا دست قدے۔ اور کہا جاتا ہے "وُلِدَت الناقۃ خلیفین" اونٹنی نے ایک سال بڑا اور دوسرے سال مادہ بچے دیئے۔ الخلیفین: کھلاڑ جس کے دوسرے ہوں۔ ج ذوات الخلیفین۔

الخلف ولد یا ولد صالح بدلہ۔ کہا جاتا ہے "فی هؤلاء القوم خلف ممن مضی" یعنی اس قوم میں گزشتہ لوگوں کے جانشین ہیں۔ وہ چیز جو کسی کے بعد حاصل ہو۔ کہا جاتا ہے "اعضاک اللہ خلفا من تلف" اللہ ہے

تعالیٰ تم کو تلف شدہ چیز کا بدلہ دیں۔ نسل۔ اولاد۔ کہا جاتا ہے ہم کرام خلفا عن سلف" یعنی وہ لوگ اپنے باپ دادا سے کریم ہیں۔ و "ہو خلف صدق عن ابیہ" یعنی وہ اپنے باپ کا عادات و اخلاق میں سچا جانشین ہے۔

الخالف: فا۔ بیوقوف۔ وہ شخص جو تمہارے جانے کے بعد بیٹھا رہے۔ نبیذ خالف: بگڑی ہوئی شراب۔ الخالیف: گوشت جس میں کچھ بڑ پیدا ہوگئی ہو اور کھانے کے قابل ہو۔

الخالف: الخالف کا مؤنث۔ نزی ہوئی جماعت کے بعد باقی ماندہ جماعت۔ مکان کے پچھلے حصہ کا ستون۔ رجل خالفہ: بیوقوف۔ جھگڑا۔ بہت اختلاف کرنے والا۔ کہا جاتا ہے "ما اذری ائی خالفہ ہو وای الخالف ہو" میں نہیں جانتا وہ کون شخص ہے۔

الخوالف: عورتیں۔ وہ زمینیں جن کی پیداوار بعد میں آگے۔ الخوالف: ناموافق۔ بید کی ایک قسم۔ آستین۔ المسائل الخلافیة: مختلف فیہ مسائل۔ الخلافة: امارت۔ قائم مقامی۔ امامت۔ الخلفۃ: مرض کی وجہ سے بھوک کا زائل ہونا۔ ج خلف الخلفۃ: آجا جانا۔ مخالف۔ مختلف۔ کپڑے کا

ایک لہا اور دوسرا دست قدے۔ اور کہا جاتا ہے "وُلِدَت الناقۃ خلیفین" اونٹنی نے ایک سال بڑا اور دوسرے سال مادہ بچے دیئے۔ الخلیفین: کھلاڑ جس کے دوسرے ہوں۔ ج ذوات الخلیفین۔

الخلف ولد یا ولد صالح بدلہ۔ کہا جاتا ہے "فی هؤلاء القوم خلف ممن مضی" یعنی اس قوم میں گزشتہ لوگوں کے جانشین ہیں۔ وہ چیز جو کسی کے بعد حاصل ہو۔ کہا جاتا ہے "اعضاک اللہ خلفا من تلف" اللہ ہے

تعالیٰ تم کو تلف شدہ چیز کا بدلہ دیں۔ نسل۔ اولاد۔ کہا جاتا ہے ہم کرام خلفا عن سلف" یعنی وہ لوگ اپنے باپ دادا سے کریم ہیں۔ و "ہو خلف صدق عن ابیہ" یعنی وہ اپنے باپ کا عادات و اخلاق میں سچا جانشین ہے۔

الخالف: فا۔ بیوقوف۔ وہ شخص جو تمہارے جانے کے بعد بیٹھا رہے۔ نبیذ خالف: بگڑی ہوئی شراب۔ الخالیف: گوشت جس میں کچھ بڑ پیدا ہوگئی ہو اور کھانے کے قابل ہو۔

الخالف: الخالف کا مؤنث۔ نزی ہوئی جماعت کے بعد باقی ماندہ جماعت۔ مکان کے پچھلے حصہ کا ستون۔ رجل خالفہ: بیوقوف۔ جھگڑا۔ بہت اختلاف کرنے والا۔ کہا جاتا ہے "ما اذری ائی خالفہ ہو وای الخالف ہو" میں نہیں جانتا وہ کون شخص ہے۔

الخوالف: عورتیں۔ وہ زمینیں جن کی پیداوار بعد میں آگے۔ الخوالف: ناموافق۔ بید کی ایک قسم۔ آستین۔ المسائل الخلافیة: مختلف فیہ مسائل۔ الخلافة: امارت۔ قائم مقامی۔ امامت۔ الخلفۃ: مرض کی وجہ سے بھوک کا زائل ہونا۔ ج خلف الخلفۃ: آجا جانا۔ مخالف۔ مختلف۔ کپڑے کا

ایک لہا اور دوسرا دست قدے۔ اور کہا جاتا ہے "وُلِدَت الناقۃ خلیفین" اونٹنی نے ایک سال بڑا اور دوسرے سال مادہ بچے دیئے۔ الخلیفین: کھلاڑ جس کے دوسرے ہوں۔ ج ذوات الخلیفین۔

الخلف ولد یا ولد صالح بدلہ۔ کہا جاتا ہے "فی هؤلاء القوم خلف ممن مضی" یعنی اس قوم میں گزشتہ لوگوں کے جانشین ہیں۔ وہ چیز جو کسی کے بعد حاصل ہو۔ کہا جاتا ہے "اعضاک اللہ خلفا من تلف" اللہ ہے

تعالیٰ تم کو تلف شدہ چیز کا بدلہ دیں۔ نسل۔ اولاد۔ کہا جاتا ہے ہم کرام خلفا عن سلف" یعنی وہ لوگ اپنے باپ دادا سے کریم ہیں۔ و "ہو خلف صدق عن ابیہ" یعنی وہ اپنے باپ کا عادات و اخلاق میں سچا جانشین ہے۔

پوند گھاس جو گرمی کے زمانہ میں آگے۔ وہ چیز جو سوار کے پیچھے لٹکائی جائے۔ باقی نامہ چیز۔ کہا جاتا ہے ”هَنْ يَمْسِينُ خَلْفَهُ“ وہ سب آگے پیچھے آ جا رہی ہیں ”جَعَلَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ خَلْفَهُ“ اس نے دن رات کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا۔ ”قَوْمٌ خَلْفَهُ“ یعنی اختلاف کرنے والے لوگ۔ ”فِي الْبَشَرِ خَلْفَةٌ مِنَ الْمَاءِ“ کنوئیں میں بقیہ پانی ہے۔ الخَلْفَةُ۔ مخالفت۔ بیوقوفی۔ عیب۔ کھانے کا آخری جزء۔

اِخْتِلَافُ الْمَنْظَرِ: زاویہ (ستارے اور زمین کے درمیان) وہ زاویہ جس کا سر ”ک“ ہو اور اس کا قاعدہ زمین کے قطر کا نصف اور ب ہو۔ اس اختلاف کو اختلاف افقی بولتے ہیں۔ الخلیف۔ دو پہاڑوں کے درمیان کاراستہ یا پہاڑی راستہ۔ وعدہ سے پیچھے رہنے والا۔ وعدہ خلاف کرنے والا۔ ج خَلْفٌ وَخَلْفٌ وَخَلْفٌ الخلیف۔ الخلیف: وہ عورت جو بالوں کو پیچھے لٹکالے۔

الْخَلِيفَةُ: جانشین۔ قائم مقام۔ بڑا بادشاہ کہ اس سے اوپر کوئی بادشاہ نہ ہو۔ یہ مذکر ہے۔ کہا جاتا ہے ”هَذَا خَلِيفَةُ أَحْمَرَ“ اور کبھی لفظ کی رعایت سے مؤنث استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں ”خَلِيفَةُ أُخْرَى“ ج خلفاء و خلائف۔ پہلے کے لحاظ سے عدد مذکر لاتے ہیں اور کہتے ہیں ”ثَلَاثَةُ خَلْفَاءَ“ اور دوسرے کے لحاظ سے مذکر مؤنث دونوں لانا جائز ہے۔ تم کو جسے ”ثَلَاثَةُ أَوْ ثَلَاثٌ خَلَائِفٌ“ الخلف۔ بائیں ہتھکا۔ بھینگا۔ کم عقل۔

سَلَابٌ: زسانپ۔ الخِطَافُ: بہت وعدہ خلاف۔ ج مَخَالِيفُ الخِطَافِ: پروا اور اسی سے مَخَالِيفُ الْيَمَنِ ہے۔ المَخْلُفَةُ: بیواگنے کی جگہ۔ راستہ۔ مرحلہ۔ منزل۔

خَلْقُهُ (ن) خَلْفًا وَخَلْفَةً: پیدا کرنا۔ عدم سے وجود میں لانا۔ الكذب: جھوٹ گھڑنا

الادبیم: کائنات سے پہلے اندازہ کرنا۔ الشی: ہموار کرنا۔ چمکانا۔ ملائم کرنا۔

خَلَقَ (س) خَلَقًا وَخَلَقَ (س) خَلْقًا وَخُلُوفَةٌ وَخَلِيفَةٌ: چمکانا نرم ہونا۔ خَلَقَ (ن) يَخْلُقُ (س) يَخْلُقُ (س) خُلُوفَةٌ وَخَلِيفَةٌ: بوسیدہ ہونا۔ خَلَقَ الشَّيْءَ لَهُ: لائق ہونا۔ سزاوار ہونا۔ خَلَقَ الْعِلْمَ: اچھے اخلاق والا ہونا۔

خَلَقَهُ: خلوق (ایک قسم کی خوشبو) لگانا العود: ہموار کر لیا۔ خَلَقَهُ: نرم کرنا۔ خَالِقُهُمْ مَخْلُوفَةٌ: خوش خوشی کے ساتھ معاشرت کرنا۔

الْخَلْنَجُ: ایک درخت جس کے پھول گلابی اور پتے ہارک چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں زینت کے لئے بویا جاتا ہے۔

أَخْلَقَ: الخلوب: بوسیدہ ہونا۔ الشہاب: جوانی کا ختم ہونا۔ الخلوب: بوسیدہ کرنا۔ الخلوب: بوسیدہ کپڑا پہنانا۔ کہا جاتا ہے

”أَخْلَقْتُ لَهُ دِينًا حَسَنًا“ میں نے اس کو اپنے ایسے راز پر مطلع کر دیا جس کے ظاہر ہونے سے عار ہو۔

تَخَلَّقَ: خلوق سے خوشبودار ہونا۔ بَعِثَ خَلْفَهُ: بناوٹ سے اخلاق ظاہر کرنا۔ اور اسی سے ہے ”لَيْسَ التَّخَلُّقُ بِالْأَخْلَاقِ كَالْخَلْقِ“ بناوٹی اخلاقی طبعی عادات جیسے نہیں۔

(وَإِخْتَلَقَ) الكذب: جھوٹ گھڑنا۔ افتراء کرنا۔

إِخْلُوقُ: الخلوب: بوسیدہ ہونا۔ الرسم: زمین کے برابر ہو جانا۔ الفرس: چمکی ہو لیا۔ ویران ہونا۔ اور عسی کے معنی میں امید کے لئے بھی مستعمل ہے۔ کہا جاتا ہے

إِخْلُوقَ لَقْتُ السَّمَاءَ أَنْ تُخَطِرَ“ امید ہے کہ بارش ہو۔ الخلق: سر۔ فطرت۔ لوگ۔ ہر چمکی چیز۔ الخلقۃ: فطرت۔ بیت۔ ج خلق الخلق والخلق: طبعی خصلت۔ طبیعت،

مرؤت۔ عادت۔ ج الخلاق: علم الأخلاق: حکمت عملی کی ایک قسم جس کا نام حکمت تخلیقی ہے۔ الخلق: سر۔ بوسیدہ (مذکر مؤنث) کہا جاتا ہے ”نُوبٌ خَلَقٌ وَجِبَّةٌ خَلَقٌ“ ج الخلاق و خَلْقَانٌ اور کہا جاتا ہے ”نُوبٌ خَلَقٌ وَثِبَاتٌ خَلَقٌ“ الخلق: بادل جس میں بارش کا اثر ہو۔ الخلاق: بھلائی کا اور فصیح۔ الخلاق: چمکانا۔ الخلاق والخلق: ایک قسم کی خوشبو جس کا جزء اعظم زعفران ہے۔ الخلیق: لائق مناسب۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ خَلِيفٌ بِهِ“ وہ اس کے لائق ہے۔ کامل و معتدل اخلاق والا۔ خَلَقٌ وَخَلْفَاءُ الخلیقۃ: طبیعت۔ مخلوق۔ کسوں جو کھودا جا رہا ہو۔ ج خلائق۔

الأخلق: زیادہ لائق۔ چمکانا۔ فقیر۔ مؤنث خَلْفَاءُ الْمُخْتَلِقِ: کامل و معتدل اخلاق والا۔ الْمُخْتَلِقِ: اخلاق کریمانہ رکھنے والا۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ مُخْلَقَةٌ بِذَلِكَ وَ لِذَلِكَ“ وہ اس کے لائق ہے۔ الخلقین: بڑا ایک۔ ج خلائقین۔ اہل (جملۃ) چرنے والے آؤنٹ۔

خَلَا (ن) خَلَوًا وَخَلَاءً: الاناء: خالی ہونا۔ المكان: رہنے والوں سے خالی ہونا۔ الرَّجُلُ: مکان میں اکیلا ہونا۔ علی الشیء: اقتدار کرنا۔ بس کرنا۔ علی فلان: اعتماد کرنا۔ یہ: فریب کرنا۔ الشیء: گزرتا۔ کہا جاتا ہے

”فَعَلَنَّهُ لِحَمْسِ خَلَوْنَ مِنَ الشَّهْرِ“ میں نے اس کو پانچویں تاریخ کو کیا۔ عن الأمر ومنه: بیزار ہونا۔ عن الشیء: بھیجنا۔ بالشیء: منفرد ہونا۔

خَلَا (ن) خَلَوًا وَخَلَاءً: بہ ومعه والیہ: تنہائی میں ملنا۔ کہا جاتا ہے ”خَلَا الرَّجُلُ بِنَفْسِهِ“ منفرد ہونا۔ الخلو: ج خلائق۔

مَحْكَمٌ دَلَالٌ وَبَرَابِئِنٌ سَعِ مَزِينٌ، مَتْنُوْعٌ وَمَنْفَرْدٌ مَوْضُوْعَاتٍ پَرِ مَشْتَمَلٌ مَفْتٌ اَنْ لَائِنٌ مَكْتَبَةٌ

کریمانہ سے جدا نہیں ہوتا۔
 خَمّ الدجاج ڈبہ میں بند کیا جانا۔
 تخمّ ما علی الخوان بوسر خوان کا
 باقی ماندہ کھانا کھانا۔
 إخمّ البیت جھاڑو دینا الشی کاٹنا۔
 الخمصاء بوڑھا کرکٹ کونٹیں کی صفائی میں
 جو نکلے کھانے کا پورا ہو بکھر جائے۔
 الخمّ ڈربہ۔ رج خمّمۃ
 الخمّ خالی باغ۔
 الخمصان مثلثۃ الخاء اولیٰ درجہ کے
 لوگ گھنسا سامان۔ ناکارہ درخت۔
 المخمّمۃ جھاڑو
 الخمیمہ تازہ دودھ۔ تعریف کیا ہوا
 سست قلب (مخوم) حسد و کینہ سے پاک
 صاف دل۔
 الخمیمۃ موتا۔
 خمیح (س) خمّجایہاری یا تھکن کی وجہ
 سے سست ہونا اللحم بند پودار ہونا دینہ
 او خلقفہ فاسد ہونا۔ خراب ہونا فلانا:
 بُرائی سے ذکر کرنا۔
 خمّمم گنگنا۔
 الخمّمخہ ایک سمندری چھوٹا جانور۔
 الخمّمخہ ایک قسم کی کانٹے دار گھاس۔
 خمّمذلتان (وخمّمذلتان) خمّمذاو
 خمّمذاداً النار آگ باقی رہنے ہوئے پٹ
 کا خمّم ہوجانا الخمّمی بخاری تیزی کا کم ہونا۔
 المریض بیہوش طاری ہونا۔ مرنا۔
 أخمّم الرجل نے حرکت ہونا۔ خاموش
 ہونا انفاسہ ہار ڈالنا یا ذلیل کرنا۔ النالیث
 کو بچھانا۔
 الخمّمود آگ بجھنے کے لیے دبانے کی
 جگہ۔
 خمّمذان (ض) خمّمذان چھاپنا الشہادۃ:
 پوشیدہ کرنا الرجل بشراب پلانا العجین
 خمیر ڈالنا فلانا شرم کرنا۔
 خمّم (س) خمّمراً غنہ پوشیدہ ہونا،
 چھپنا غنہ الخبر پوشیدہ رہنا الشی سابقہ

الخلوة تنہائی کی جگہ۔ رج خلوات
 الخلیۃ شہد کی کھبیوں کا چھتہ۔ بڑی کشتی۔
 شیری کی جھاری۔ رج خلایا
 الخلیۃ ج غلایا تمام زندہ کائنات کا بنیادی مادہ۔
 کائنات بسبب ایک خلیہ سے بنتی ہیں اور
 کائنات مرکب مجموعہ غلایا ہوتا ہے۔
 الخلیۃ فارغ غم سے خالی۔ وہ شخص جس
 کی بیوی نہ ہو۔ اور کہا جاتا ہے "انا خلی منہ"
 میں اس سے بری ہوں۔ رج خلیاء و
 خلیون الخلی شہد کی کھبیوں کا چھتہ۔
 الخالی فابکوار۔ کنواری۔ رج اخلاء
 خلی (ض) خلیا۔ النیات کاٹنا۔
 الماشیۃ بنیانوروں کیلئے گھاس کاٹنا۔
 الفرس منہ میں لگام دینا اللجام من
 الفرس: آثارنا الشعر فی المخلاۃ:
 تویرا میں جو ڈالنا القدر: ہانڈی کے نیچے
 ایدھن لگانا ہانڈی میں گوشت ڈالنا۔
 خالی مخلاۃ: ہچھاڑنا۔ فریب دینا۔
 آخلی: المکان زیادہ گھاس والی جگہ ہونا
 الذابۃ گھاس کا چارہ دینا۔
 اخیلی العشب کاٹنا۔
 اخیلی الخلی کٹنا۔
 اخیلی اخیلیاء الرجل دودھ پینے پر
 مداومت کرنا۔
 الخلیور کھڑی اور روئی وغیرہ کی پیدائش میں
 بنیادی مادہ۔
 الخلی ترکھاس۔ رج اخلاء احد (خلاء)
 المخیلی گھاس کاٹنے کا اوزار۔ کھریا۔
 المخیلاء تو برہ۔ رج مخال۔
 المخیلی شیر۔
 خلمن (ض) خمّم البیت جھاڑو دینا
 البسکون صاف کرنا الناقۃ دہنا فلانا:
 تعریف کرنا۔ اور کہا جاتا ہے "ہو یخمّ بناب
 فلان یعنی وہ فلاں کی تعریف کرتا ہے (خمّم)
 و خمّموا و اخیّم اللحم بند پودار ہونا۔
 صفت (خمّم و خمّم و مخّم) اللبس بگڑنا۔
 کہا جاتا ہے "فلان لا یخمّ فلاں اپنے افعال

کسی کام کے لیے فارغ ہونا بالمکان: لازم
 رہنا یا نہ۔ مطمئن ہونا الخزن: غم سے جدا
 ہونا۔ صفت (اخال) رج خلوی اور کہا جاتا ہے
 "افعل کذا و خلائک ذمّ" یعنی تمہیں اس
 کام کے کرنے پر مذمت نہیں۔
 خلی تخلیۃ الامر و غنہ: چھوڑنا
 مکانہ: مرنا سبیلہ: چھوڑنا، آزاد کرنا بین
 المشتري والمبیع: سپرد کرنا بینهما:
 دونوں کو اکٹھا ہونے کی حالت میں چھوڑنا۔
 خلاء مخلاۃ چھوڑ دینا۔
 اخیلی اخلاء: المکان خالی کرنا یا پانا
 المکان خالی ہونا وہ وہ ومعہ: تنہائی میں
 ملنا۔ فلانا معہ: کسی کو کسی کے ساتھ تنہائی
 میں ملنے دینا غنہ: بھجورنا۔
 تخلی تنہائی میں رہنا منہ و غنہ: چھوڑنا
 لذہ: کسی کام کے لیے فارغ ہونا خلیۃ اسپنے
 لیے شہد کا چھتہ تیار کرنا۔
 اخیلی تنہائی میں رہنا۔
 استخیلی: ہ: تنہائی میں ملاقات چاہنا
 بالملک تنہائی میں ملنا المکان خالی ہونا۔
 الخلاء۔ من۔ خالی مکان۔ پانگنہ۔ مکان
 خلاء خالی جگہ جہاں کوئی نہ ہو۔ کہا جاتا ہے
 "بات فی البلد الخلاء" اس نے تمہا شہر
 میں شب پاشی کی۔ و "خلائک افسی
 لخیانک" یعنی تمہارا مکان میں تمہا ہوتا
 تمہاری حیاء کا نگہبان ہے "وانا منہ خلاء"
 میں اس سے بری ہوں۔ مفرد مشیہ جمع مذکر و
 مؤنث سب کیلئے مستعمل ہے۔
 الخلو خالی (مذکر و مؤنث) رج اخلاء اور
 کبھی مؤنث کے لیے خلوا استعمال کرتے
 ہیں۔
 خلا و ما خلا: الیک معنی میں کلمہ اشتہار
 ہے۔ اگر فعلیت کا اعتبار ہو تو مستثنیٰ منصوب ہوگا
 جیسے "جاء اتباع الامیر خلا او ما خلا
 زیندا اور حرف جر ہونے کی صورت میں
 مجرد ہوگا جیسے "خلا زیندا اور خلا سے پہلے
 اگر مصدر یہ ہو تو اس کا فعل ہونا متعین ہے۔

حالات سے بدل جاتا۔
 خمیر العجین: خمیر ڈالنا جھہ: ڈھانپ
 لپٹتہ: گھر میں جے رہتا
 خامر مخامرة: بیچ میں دھوکا دینا۔
 القلب: داخل ہونا الشی الآخر: باہم ملنا
 ہ الداء: بیماری کا اندر تک اثر کرنا پتہ: گھر
 میں جے رہنا: چھنا۔
 آخمر: چھپا ہوا: کینہ رکھنا الشی: چھپاتا
 غافل کرنا العجین: خمیر ڈالنا لامر: پوشیدہ
 کرنا الارض: زمین میں گھنی جھاڑی بہت ہونا
 ہ الشی: تھک دینا۔
 تخمرت و اختمرت: المرأة: اور حنی
 ڈالنا و اختمر العجین: خمیر ہو جانا۔
 اختمر العصیر: شراب بن جانا۔
 الخمر و الخمرۃ: آگوری شراب۔ ہر نشلی
 چیز۔
 الخمر: کینہ۔
 الخمر: لوگوں کی جماعت و بھیڑ۔ گھنی
 جھاڑی۔ تم کہتے ہو "توارى الصيد عنى
 فى خمر الوادى" شکار مجھ سے وادی کی
 گھنی جھاڑی میں چھپ گیا۔
 الخمر: وہ جگہ جہاں گھنی جھاڑی زیادہ ہو۔
 رجل خمر: وہ شخص جس کو نشہ کا شمار لاحق
 ہو۔
 الخمر: شراب کی وجہ سے درد سر
 (والخمر و الخمرۃ) لوگوں کی کثرت و
 ہجوم۔
 الخمر: اور حنی۔ دوپہ۔ پردہ۔ خمرۃ
 و خمر و خمر: کہا جاتا ہے "ما شم
 خمرک؟" یعنی کیا چیز تھ کر لائق ہوئی جس
 نے تھ کو تیری حالت سے بدل دیا۔
 الإختمار: کیسی تبدیلی: یعنی بنیادی مادہ
 دوسرے مادہ میں تبدیل کرنا مثلاً چینی کے شیرہ
 سے گل بنانا۔
 الخمیر و الخمیرة: خمیر۔ الخمیر:
 خمیری روں۔
 الخمرۃ: خمیر کرنے کا برتن۔ شراب کی

تھکت۔ شراب کی تکلیف و دوران سر۔ کجور
 کی چھوٹی چٹائی۔ خمرۃ اللبن: وہ چیز جس کو
 دودھ میں ڈالنے سے جلدی جم جائے۔ ج
 الخمر (والخمرۃ و الخمرۃ) بوجہ خمیر
 پینے۔
 الخمری: من الالوان: سیاہ رنگ جو سرخی
 مائل ہو۔
 الخمر: شراب فروش و (الخمرۃ)
 شراب پینے کی جگہ۔
 الخمیر و المستخمر: بہت شراب پینے
 والا۔
 المخمور: شراب کی وجہ سے مست۔
 خمس (نض) خمسا القوم: پانچواں
 ہونا۔ قوم کے مال کا پانچواں حصہ لینا۔
 المال: پانچواں حصہ لینا الخیل: پانچ لڑیوں
 سے بنا۔
 خمس الشی: پانچ رکن والا بنانا۔ اور اسی
 سے شعراء کے نزدیک خمیس ہے جس کے
 معنی کسی شعر میں تین مصرعے بڑھا کر پانچ
 مصرعوں کا کر دینا ہے۔
 الخمس القود: پانچ ہونا۔
 الخمس و الخمس: پانچواں حصہ۔ ج
 الخمس: کہا جاتا ہے "ضرب الخمسا
 لاسداس" یعنی اس نے مکر و فریب میں
 کوشش کی۔
 خمسا و محمس: پانچ پانچ (یہ خمہ
 خمہ سے معدول ہے) کہا جاتا ہے "حانوا
 خمسا و محمس" وہ پانچ پانچ آئے۔ یہ
 مذکر و مؤنث دونوں کیلئے مستعمل ہیں اور غیر
 منصرف ہیں۔
 الخماسی: پانچ حرفوں والا۔ کہا جاتا ہے
 "جاریۃ خماسیۃ" پنج سالہ لڑکی۔
 الخمسة: پانچ۔ مؤنث کے لیے خمس۔
 خمسون: پچاس۔
 الخمیس و یوم الخمیس: جمعرات۔
 ج الخمسة و الخمساء: الخمیس:
 لشکر۔ اس لیے کہ اس میں پانچ جماعتیں

خست + خند	خمن	خمل
الخنا بة بر اثان۔ برائی۔ الخنا بة و الخنا بة تکبر۔ غرور۔ الخنا بان و الخنا بان ناک کے تھنے۔ خست (س) خستنا۔ الرجل بیخرا ہونا۔ صفت (خست) خستنا (ض) خستنا۔ خستنا کرنا السقاء: مشکیزہ کے سرے کو پھاڑ کر باہر کی طرف موڑ دینا۔ خستہ موڑنا۔ نرم کرنا۔ بیخرا ہانا۔ اخست دوہرا ہونا۔ چکنا۔ تخست و انخست۔ بیخرا ہونا۔ خست مونت کیلئے وصف ہے اور صرف ندایہ کے موقع پر استعمال ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے "یا خست یعنی اے نیکے والی۔" خست الثوب و خستہ کپڑے کی تمہیں ز کہا جاتا ہے "اطو الثوب علی خستہ" کپڑے کو اس کی تہ پر لیٹو۔ واحد (خست) الخست چک۔ الخستی۔ بیخرا۔ خست و خست المخست وہ شخص جس میں بہت زیادہ چک ہو۔ کہا جاتا ہے "رجل مخست و امرأة" مخست۔ بیخرا۔ وہ شخص جس میں چک ہو۔ الخند و الخند۔ بڑی چھڑی۔ ج خند۔ خند خند۔ ناک میں بولنا فی کلامہ لگنا۔ الخند بد خلق۔ الخند رئیس پرانی شراب۔ الخند خست۔ لیم۔ الخند کھائی۔ ج۔ خند و (خند) خند کھائی کھو دنا۔ تخند ذبے شرم دیر ہونا۔ الخند بند لہب۔ سخت۔ پہاڑ کی بلند چوٹی۔ بلخ شاعر۔ بہادر۔ خنی۔ گولو۔ بد زبان۔ خست گھوڑا۔ ج۔ خند۔	خمن (ض) خمن و خمن الشی: تخمینہ کرنا۔ قیمت لگانا۔ اندازہ کرنا۔ الخمن کمام و بے قدر۔ الخمن بد۔ الخمن کمزور نیزہ۔ گھیا درجہ کا آدمی۔ کہا جاتا ہے "ہم خمن الناس وہ گھیا درجہ کے لوگ ہیں۔ الخمن کمزور نیزہ کا چیز۔ خند (ض) خستنا ناک میں رونا یا بولنا یا ہنسا۔ صفت (اخن) خند (ض) خنا۔ المال لینا۔ القوم قوم کے حریم میں داخل ہونا۔ آختہ۔ عقل چھین لینا۔ صفت (مخنون) قیاس کے مطابق (مخن ہونا چاہئے۔ استخنت۔ البند بزدل ہونا۔ الخند خالی کشتی۔ الخند گنگناہٹ۔ ناک کی آواز۔ الخند آسودگی۔ آرام۔ الخند و الخند۔ بونٹوں کا کام۔ ناک کی ایک بیماری۔ پرندوں کے گلے کی ایک بیماری۔ المخند لہا مرد۔ المخند گنگناہٹ و ناک کی آواز۔ ناک۔ گھر کا درمیان۔ صحن۔ واضح راستہ۔ راستہ میں داخل ہونے کی جگہ۔ وادی کی تنگ جگہ۔ کہا جاتا ہے "فلان مخند لفلان فلان چیز فلان کے کھانے کی ہے۔ خست (س) خستنا کام والا ہونا۔ لنگڑا ہونا۔ ہلاک ہونا۔ کمزور ہونا۔ اخست و اخست ہلاک ہونا۔ اخست ہلاک کرنا۔ کمزور کرنا۔ تخت بیکر کرنا اور ناک کے دونوں تھنے بلند کرنا۔ الخست ایک قسم کی بیماری جو ناک میں ہوتی ہے۔ الخند: ناک کا باطنی حصہ۔ پیلوں یا لگیوں کے درمیان کی کشادگی۔ ج۔ خند الخند لہب۔ بیوقوف۔	موج بارنا الفعل بوزوان۔ الخست۔ ہر کٹی یا کڑوی چیز۔ ہر درخت کا تھوڑا پھل۔ ہر بے کائے والا درخت۔ بیلو کا پھل۔ الخست و الخست۔ من اللبن زودہ کی۔ خست (ف) خست و خست و خستنا۔ الضیع بگڑاتے ہوئے چلنا۔ الخست بوج خوامع۔ الخست بگڑاہٹ۔ الخست بھیریا۔ چور۔ ج۔ الخست: الخست و الخست بدکار عورت۔ خمن (ض) خمن۔ ذکرہ اوضوئہ: پوشیدہ و کمزور ہونا (خمن (ض) خمن) السنورم ہونے کے لیے گھڑے وغیرہ میں ڈالنا۔ کہا جاتا ہے "خستہ اللہ اللہ اس کو ہلاکت میں ڈال دے۔ خست چوڑوں کی بیماری والا ہونا۔ اخست کمام و بے قدر کرنا۔ اخست الأرض بہت گھان درختوں والی ہونا۔ اخست القطیفة زونیں دار بنانا۔ اخست۔ الماشیہ: جانوروں کا جھٹی گھاس والی زمین میں چرنا۔ الخست۔ فامین الرجال تمام بے قدر۔ ج خست الخست کپڑے کا زواں۔ (والخست) والخست تھمر مرغ کے پر۔ الخست دار۔ روئیں دار کپڑا۔ الخست۔ راز۔ اندرونی کیفیتیں۔ ج خستات۔ الخست۔ چوڑوں کا درر۔ (والخست) والخست و الخست مالم دوست۔ الخست۔ روئیں دار کپڑے۔ نرم خوراک۔ لہر ابادل۔ واحد خست۔ الخست چادر۔ بہت گھنا درخت۔ بہت درختوں والی پست زمین۔ ج۔ خست المخست۔ روئیں دار کپڑا۔

در میان کا گڑھا۔
حنف (ض) حنفا۔ العیز: دوڑنے میں سر کو سوار کی طرف پھیرنا۔ صفت (مذکر و مؤنث) (حنوف) حنفا۔ حنق (حنوفا) غضبناک ہونا المرأۃ: سینہ پر دو ہتھ مارنا۔ صفت (خائف) المرأۃ: سینہ پر دو ہتھ مارنا۔ حنف (س) حنفا۔ صدر ذرا او ظہور: ایک جانب دوسری کے مخالف پیچھے یا سینہ والا ہونا۔ صفت (حنف) حنفا۔ حنف الخائف نشانات۔ حنفس۔ عن القوم: نفرت کرنا۔ علیحدہ ہو جانا۔
الحنف والحنف والحنف والحنف و الخنف والخنفساء۔ کبریاء۔ ح خنافس۔
والخنفسا شیر۔
خنفساء البطاطس: آلو کو نقصان دہ امریکی سڈھی۔
حنقه (ن) حنقا و حنقا و حنقہ تخنیقا۔ گلا گھوٹنا۔ کہا جاتا ہے "حنقۃ العیرۃ": یعنی اُسے روتے روتے پھندا لگ گیا۔ حنق الاناء: بھرتا۔ حنق السراب: الجبل: پہاڑ کی چوٹی کو قریب قریب چھالینا۔ حنق زید الاربعین: قریب قریب ہونا۔
حنق گلا گھٹنا۔
انحنق: اپنا گلا گھوٹنا۔
الحنق والحنق: گلا گھوٹنا ہوا۔
الحناق: ایک بیماری کا نام جس میں سانس لینا مشکل ہوتا ہے۔
الحناقیۃ: پرندوں اور گھوڑوں کے حلق کی بیماری کا نام۔
الحناق: رسی وغیرہ جو گلا گھونٹنے کے کام میں آئے۔ گردن۔ کہا جاتا ہے "احذہ بحنقہ": اس نے اس کی گردن پکڑ لی۔
الحناق: فالتک راستہ۔ گلے۔ حنق الذئب و حنق النمر و حنق الکلب: گھاسوں کے نام۔

مشرقی، مرغ، زہرہ، عطارد۔
الحنساء: نیل گائے۔ ایک مشہور شاعرہ کا لقب۔
الاحنس والحنوس شیر۔ الاحنس: چچری۔
الحناس شیطان۔
الحنس فریبی۔ جلد گر۔
الحنس لیم۔ کینہ۔
الحنس و لحنسری: وہ شخص جو نقصان کے موقع میں ہوج حساسہ۔
الحناسیو: مصیبتیں۔
الحنشار: ایک قسم کی نباتات۔
الحنوص مؤنث الخنوصہ: سور کا بچہ۔
ح حنائص
الخنصر والخنصر: چنگلی۔ ح حناصر: کہا جاتا ہے۔ "هذا امرٌ تُفقَدُ علیہ الخناصر": یعنی یہ ایسا معاملہ ہے جس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔
حنطہ (ض) حنطا: رخ و نم پہنچانا۔
حنطت: تکبر و غرور کے ساتھ چلنا۔
الحنطیر: بہت بڑھیا۔ جس کی پٹکیں لٹک آئی ہوں۔
الحنطل: بی۔ مصیبت۔ تقار، ٹڈی دل۔
حنع (ف) حنوعا له و الیہ: اکساری و فروتنی کرنا الی اللہ: بغیر عمل کے گڑگڑانا بفلان: بیوفائی کرنا الی الامر الشی: مائل ہونا۔
حنعہ: کپھاڑی سے کاٹا۔
الحنعة: الحاجد له و الیہ: ذلیل و پست کر دینا۔
الحنع: ذلت۔
الحنعة: عار۔ تہمت۔
الحناع و الحنوع: تمہم بدکار۔ بدگمانی میں ڈالتے والا۔ ح حنعة و حنوع: الخنعاۃ: کینہ۔
شعر (حنع) لمہال۔
الخنعة: چھوٹا گڑھا۔ مونچھوں کے

الخنذع خیس۔ لیم۔
حنز (س) حنزا و حنوزا۔ النحم: پرودار ہونا۔ صفت (حنز و حنوزا) الخنزان و الخنزانة: تکبر۔ غرور۔ الخنزان: بندر۔ زور۔
الحنزیر: سور۔ ح حنزیر: الخنازیر: کٹھ مالا۔ حنزیر البحر: مچھلی کی ایک قسم۔
حنزیر الهند: خرگوش کی مانند اس سے چھوٹا ایک جانور جس کی کھال پر مختلف رنگ کے داغ ہوتے ہیں۔ حنزیرة البئر: کنوئیں کی چرخی جس پر پانی نکالتے ہوئے رسی لپیٹتے ہیں۔
الحنزرة: موٹائی۔ پتھروں کے توڑنے کی بڑی کدال۔
حنس (ن ض) حنسا و حنوسا و حناسا: عنہ: پیچھے ہونا۔ علیحدہ ہونا۔ سکرنا۔ کہتے ہیں "حنس الطریق عنہ": یعنی ہم راستہ سے گزر گئے اور اس کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا۔
بین اصحابہ: چھپنا۔
حنسہ (ن ض) حنسا: پیچھے کرنا ابھامہ: سمیٹنا۔ کہا جاتا ہے "اشار باربع و حنس ابھامہ": اس نے چار انگلیوں سے اشارہ کیا اور انگوٹھے کو سمیٹ لیا القول: بڑی بات کہنا الشی عنہ: چھپانا فلانا وہ: غائب کر دینا۔
چھپا دینا۔ صفت حانس۔ ح حنس۔
حنس (س) حنسا: تاک کا چھپنا ہونا اور اس کے سرے کا اٹھا ہوا ہونا۔ صفت (احنس) مؤنث حنساء۔ ح حنس اسم الحنس۔
حنسہ: عنہ: روکنا۔ پیچھے کرنا۔ کہا جاتا ہے "احنست عنہ بعض حنقہ": میں نے اس کے کچھ حصہ کو روک لیا او عار الطریق: دشوار استوں سے آگے بڑھ جانا۔
حنس: بہ: غائب کر دینا۔
الحنس: عنہ: پیچھے ہونا۔ سکرنا۔
الحنس: ہرنیوں کے رہنے کی جگہ۔
ہرنیاں۔ جنگلی گائے۔
الحنس: ستارے یا صرف سیارے۔ یا بقول بعض چند سیارے جن کے نام یہ ہیں۔ زحل،

الخَوْرُ۔ س۔ دو بلندیوں کے درمیان پست زمین۔
 الخَوَارُ۔ س۔ گائے کی آواز۔ بکریوں، بھروں اور تیر کی آواز کے لیے بھی مستعمل ہے۔
 الخَوَارُ۔ بزدل۔ کمزور۔ سست۔ فرس۔
 خَوَارُ العنان: تابعدار تیز رفتار گھوڑا۔
 الخَوَارُ مِنَ الزناد: چمقنا۔
 الخَوْرِي: کاہن۔ ج۔ خوارانہ (دخیل)
 الخَوْرَس: گرجا میں خادموں کے قیام کی جگہ (جدید)
 خَاوَرَه (ن) خَوْرًا۔ روشنی کرنا۔
 خَاسَتْ (ن) خَوْسًا۔ الجيفة: بدبو دار ہونا البضاعه: مندا ہونا خاس العہدو بالعہد: بدعہدی کرنا بالوعدہ: خلاف وعدہ کرنا بفلان: بیوفائی کرنا۔
 خَوْسُ الشئ: کم کرنا۔ گھٹانا الابل: ایک ایک کر کے پانی پر بھیجنا۔
 خَاشَه (ن) خَوْشًا۔ بالرمح: نیزہ مارنا الشئ: لینا الرجل: جوم میں داخل ہونا۔
 خَوْشٌ وَتَخَوَّشُ الشئ: کم کرنا۔ گھٹانا۔ وَتَخَوَّشُ الرَّجُلُ: موناہی کے بعد لاغر ہونا۔
 الخَوْشُ۔ پہلو۔
 الخَوْشَان: ایک قسم کی گھاس جس میں ترشی ہوتی ہے۔ واحد (خَوْشَانَه)
 خَوْصٌ يَخْوَصُ خَوْصًا۔ دھنی ہوئی آنکھ والا ہونا۔ صفت (أَخْوَصٌ) مؤنث خَوْصًا ج خَوْصُ الشَّاةِ: تمام جسم میں سفیدی کے ساتھ ایک سفید اور ایک سیاہ آنکھ والی ہونا۔
 خَوْصٌ۔ پہلے شرفا کا پھر کینوں کا اکرام کرنا التاج: سونے کے پتروں سے مزین کرنا ۵ الشَّيبُ: بڑھاپا شروع ہونا۔ کہا جاتا ہے "خَوْصٌ مَا أَعْطَاكَ" یعنی جو کچھ وہ دے اس کو لے لو اگرچہ تھوڑا ہو۔
 خَاوَصٌ وَتَخَاوَصُ: آنکھوں کو بھیج کر

ہونا۔
 الخَوْخُ۔ شفا۔ واحد (خَوْخَةٌ)
 الخَوْخُه۔ روشن دان۔ پھانک میں چھوٹا دروازہ۔
 الخَوْخَاءُ وَالخَوْخَاةُ وَالخَوْخَاءَةُ۔ بیوقوف۔
 خَوْدٌ الرَّجُلُ: تیز چلنا من الضعام شينا: کچھ حاصل کرنا۔
 تَخَوَّدُ العَصْنُ: جھکنا۔
 الخَوْدُ۔ نازک بدن۔ جوان عورت۔ ج۔ خَوَاتٍ وَخَوْدٌ۔
 خَاوَدَهٌ مُخَاوَدَةٌ۔ الی الشئ: ایک کا دوسرے کے بعد آنا۔ کہا جاتا ہے "خَاوَدُونَا إِلَى المَاءِ" یعنی ہم واپس آ رہے تھے اور وہ لوگ جا رہے تھے۔ خَاوَدَهٌ: بار بار زیارت کیلئے آنا۔ خَاوَدْتَهُ الحُمَى: غیر متعین وقت پر آنا۔ خَاوَدَ عَنهُ۔ علیحدہ ہونا۔
 تَخَاوَرُوا القَوْمُ: باہم عہد و پیمان کرنا۔
 تَخَوَّدُ۔ تمکھانی کرنا۔ تم کہتے ہو "تَخَوَّدْنَا بِالزِّيَارَةِ" اس نے ہم سے بار بار ملاقات کی۔
 الخَوْدَةُ۔ خور۔ ج۔ خَوْدٌ۔
 خَوْدَانُ النَّاسِ: لوگوں کے خادم۔
 خَوَادُ الحُمَى: غیر معین وقت میں بخار آنا۔
 خَارٌ (ن) خَوَارًا۔ البقرة: آواز کرنا۔ (خَوْرًا وَ خَوْرًا (س) خَوْرًا) ست و کمزور ہونا۔ ثونا قُوَّة المریض: کم ہونا۔
 خَوْرٌ۔ کمزور ہونا۔ ذھیلا ہونا الأرض: کثرت بارش کی وجہ سے نرم ہو جانا الرجل: کمزوری کی طرف نسبت کرنا۔
 أَخَارَه۔ مائل کرنا۔ موڑنا۔ پھیرنا۔ تم کہتے ہو "أَخَرْنَا الْإِبِلَ إِلَى مَوْضِعٍ كَذَا" ہم نے اونٹوں کو فلاں مقام کی طرف پھیر دیا۔
 تَخَاوَرَتِ البُيُوتَانُ: بیلوں کا باہم آواز نکالنا۔
 اسْتَخَارَه۔ مہربانی چاہنا المنزل: صاف کرنا۔

الخَوْنَقُ۔ جس کی عادت گلا گھونٹنے کی ہو۔
 المَخْنَقَةُ۔ گلوبند (ایک زیور) وہ چیز جس سے گلا گھونٹا جائے۔ ج۔ مَخَانِقٌ وَ مَخَانِيقٌ۔
 المَخْنَقُ۔ س۔ گلا گھونٹنے میں سی کی جگہ گردن۔ کہا جاتا ہے "غلامٌ مَخْنَقٌ الخَصِرُ" تلی کر کا لڑکا۔
 المَخْنَقُ۔ تنگ جگہ۔
 المَخْنَقُ۔ گھوڑا جس کی پیشانی کی سفیدی رخساروں تک ہو۔
 خَنَا (ن) خَنَوًا وَ خَنِي (س) خَنِي وَ أَخْنِي۔ عَلَيْهِ فِي الكَلَامِ: بدزبانی کرنا أَخْنِي الجَرَادُ: بہت اٹلے دینا المرغی: بہت گھاس والی ہونا۔ أَخْنِي عَلَيْهِ الذَّهْرُ: طویل ہونا۔ ہلاک کرنا۔ ظلم کرنا۔ بیوفائی کرنا اور کہا جاتا ہے "أَخْنِي بِهِ" اس نے اسے چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ بدعہدی کی۔
 الخَنِي۔ بدزبانی۔ خَنِي الذَّهْرُ: مصیبتیں واحد (خَنَاءَةٌ)
 خَابٌ (ن) خَوْبًا۔ محتاج ہونا۔
 الخَوْبَةُ۔ بھوک۔ بغیر چارہ والی زمین یا وہ زمین جس پر بارش نہ ہوئی ہو۔
 خَاتٌ (ن) خَوْتًا وَ خَوْتَانًا۔ الرجل: عمر رسیدہ ہونا۔ عہد توڑنا۔ خلاف وعدگی کرنا المال: کم کرنا (وَإِنْخَاتٌ وَإِنْخَاتٌ) البازِي عَلَى الصَّيْدِ: ٹوٹ پڑنا۔
 خَاتٌ (ن) خَوَاتًا۔ العقاب: عقاب کے بازوؤں میں سر سر اہٹ ہونا۔
 تَخَوَّتْ وَإِنْخَاتٌ المال: کم کرنا الشئ: اچک لینا حَدِيثُ القَوْمِ: سن کر یاد رکھنا الشَّاةِ: فریب دے کر چرانا۔ کہا جاتا ہے "هَمَّ يَخْتَاوُنُ اللَّيْلُ" وہ رات میں رہزنی کرتے ہیں۔
 الخَوَاتُ۔ دلیر مرد۔
 خَوْتُ (س) خَوْتًا۔ البطن: ذھیلا ہونا۔
 کھانے سے بھرا ہوا ہونا۔ صفت (أَخَوْتُ) مؤنث (خَوْنَاءٌ)
 أَخَاخَ إِخَاخَةً۔ العشب: پوشیدہ ہونا۔ کم

نگہبانی کرنا فلائٹ علی اہلبہ: تدریس امور
کرنا۔ انتظام کے لیے کافی ہونا۔

خَالٌ یَخَالُ خَوْلًا: تنہائی کے بعد غلاموں
والا ہونا۔

خَوْلُهُ: الشئی: عطا کرنا۔ بخشش کرنا یا مالک
بنانا۔

أُخُولٌ وَأُخُولٌ: ماموں والا ہونا۔

أَخَالٌ: فیہ خَالًا مِنَ الْخَیْرِ وَآخَالَهُ:
فرست سے بھلائی معلوم کرنا۔

تَخَوَّلَ فِیْهِ خَالًا مِنَ الْخَیْرِ وَتَخَوَّلَ

تَخَوَّلًا وَتَخَوَّلًا: بھلائی معلوم کرنا۔

تَخَوَّلَ خَالًا: ماموں بنانا۔

اسْتَخَوَّلَهُمْ: خادم بنانا۔ استخوَّلَ
وَاسْتَخَالَ فِیْهِمْ: ماموں بنانا۔

الْخَوْلُ: خولی کی جمع۔ غلام۔ لونڈیاں۔ لفظ
واحد ہی جمع کے لیے مستعمل ہے۔ اور کبھی واحد
کے لیے (خانبل) بولتے ہیں۔

الْخَالُ: ماموں۔ جِ اُخْوَالٌ وَآخْوَالَةٌ
وَخَوْلٌ وَخَوْلٌ وَخَوْلَةٌ

الْخَالَةُ: ماں کی بہن۔ موسیٰ۔ جِ خَالَاتُ

تم کہتے ہو۔ ”هُمَا أُنثَاءُ خَالَةَ“ یہ دونوں
ایک دوسرے کے خالہ کے بیٹے ہیں۔ الخال:

خیر کا نشان۔ فوج کا جھنڈا۔ چیز کا مالک۔ تم کہتے
ہو ”أَنَا خَالُ هَذَا الْفَرَسِ“ میں اس گھوڑے

کا مالک ہوں۔

الْخَوْلِيُّ: مال کا بہتر منتظم۔ جِ خَوْلٌ

الْخَائِلُ: فال۔ الخول کا واحد۔ کہا جاتا ہے
”ہو خَائِلٌ مَالٌ“ وہ مال کا منتظم و نگہبان ہے

اور کبھی حذف ہمزہ سے ”خَالٌ مَالٌ“ کہتے
ہیں۔

الْخَوْلَةُ: بہرنی۔

الْأُخُولُ: وہ شخص جس کے بہت سے ماموں
ہوں۔ جِ جُلٌّ (مُخَوْلٌ وَمُخَوْلٌ وَمُخَالٌ)

شریف ماموں والا۔

خَامَتُ (ن) بِحَوْمَانَا: الارض: ناموافق
آب و ہوا والی ہونا۔

اِحَامَ اِحَامَةً: الفرس: تین ناگوں پر کھڑا

الْبُخُوْطُ: نرم ٹہنی یا ہری شاخ۔ جِ خَيْطَانُ
خَافَ (س) خَوْفًا وَخَيْفًا وَخُفَاةً

وَخَيْفَةً وَتَخَوَّفَ: گھبرانا۔ احتیاط کرنا۔
ڈرنا۔ کہا جاتا ہے ”خَافَهُ وَخَافَ مِنْهُ

وَخَافَ عَلَيْهِ“

صَفَتُ (خَائِفٌ) جِ خَوْفٌ وَخَيْفٌ
وَخَيْفٌ وَخَائِفَةٌ: وَتَخَوَّفَ الْحَقُّ:

حق کو مار لینا۔ وَتَخَوَّفَ الشَّيْءُ: تھوڑا تھوڑا
کم کرنا۔ تَخَوَّفَ عَلَيْهِ شَيْئًا: خوف کھانا۔

خَوْفُهُ: ڈرانا۔ الطریق: ایسا کر دینا کہ لوگ
ڈرنے لگیں۔

أَخَافُهُ إِخَافَةً: ڈرانا۔ اخاف الطریق:
گھبراہٹ میں ڈالنا۔

خَاوَفُهُ: ڈرنے میں مقابلہ کرنا۔ کہا جاتا ہے
”خَاوَفْتُهُ فَخَفْتُ“ خَوْفُهُ“ میں نے اس سے

ڈرنے میں مقابلہ کیا تو میں غالب رہا یعنی میں
اس سے زیادہ ڈرنے والا نکلا۔

الْخَوَافُ: شور۔

الْخَافُ: بہت ڈرنے والا۔

الْخَافَةُ: چڑے کا جبہ جس کو شہد نکالنے والا
پہنتا ہے۔ جس کے ذریعہ سے پھلوں کو چنا

جائے۔

الْخَيْفَةُ: ڈرنے والے کی حالت۔ جِ
خَيْفٌ

الْمُخَوَّفُ: خوفناک۔ کہا جاتا ہے ”طَرِيقٌ
مُخَوَّفٌ“ خوفناک راستہ۔

خَوْقٌ (س) خَوْقٌ وَانْخَاقٌ وَتَخَوَّقٌ:
کشاہد ہونا۔ صفت خَوْقٌ (مَوْشَخَوْقَاءُ جِ

خَوْقٌ

أَخَاقُ إِخَافَةً: ملک میں جانا۔

خَوْقُهُ: کشاہد کرنا۔

تَخَوَّقَ: عنده: دور ہونا۔

الْخَوْقُ: بالی کا حلقہ۔

الْخَوْقُ: کھلاگی۔ خارش۔

الْأَخْوَقُ: خارش والا۔ کانا۔

مکان (مُنْخَاقٌ) کشاہد جگہ۔

خَالٌ یَخُولُ خَوْلًا وَخَيْلًا: المَواشِی:

تیز دیکھنا النجوم: مائل بغروب ہونا۔
خَاوِصَةٌ مُخَاوِصَةٌ وَخَاوِصَةُ الْبَیْعِ:

بیچنے میں مقابلہ کرنا۔

أَخْوَصُ: النخل: پتے والا ہونا۔

تَخَوَّصَ: الشئی: تھوڑے ہونے کے
باوجود لے لینا العظیة: تھوڑا تھوڑا کر کے

لینا۔

الْخَوَاصُ: کھجور کے پتوں کا بیچنے والا۔ اور
اس کے عمل کو (الخِیَاصَةُ) کہتے ہیں۔

الْخَوْصُ: کھجور کے پتے۔ واحد (خَوْصَةٌ)
الْخَوْصَاءُ: گرم ہوا جو آنکھوں کو چندھا کر

دے۔ کہا جاتا ہے ”خَرَجُوا فِی الظَّهْرِ
الْخَوْصَاءُ“ وہ دوپہر کی سخت گرمی میں نکلے۔

خَاَصُ (ن) خَوْصًا وَخِیَاصًا: الماء:
داخل ہونا۔ گھٹنا۔ الشراب: ملانا

الغمرات: تختیوں میں کود پڑنا
فی الحدیث: مشغول ہونا الجواد شی

المیدان: کلیں کرنا۔ بالفرس: پانی پر
لے جانا بالسیف: زخم میں تلوار ہلانا۔ کہا

جاتا ہے ”أَنَّهُ یَخْوِصُ الْمَنَیَا“ وہ اپنے آپ
کو ہلاکتوں میں ڈالتا ہے۔ وَهُوَ یَخْوِصُ

اللَّیْلُ وہ رات کو ہولناکیوں کی پروا نہ کرتے
ہوئے گھس پڑتا ہے۔

خَوْصُ: الماء: داخل ہونا۔ گھٹنا۔

خَاوِصٌ مُخَاوِصَةٌ وَأَخَاَصُ

إِخَاَصَةُ الْفَرَسِ: پانی میں داخل کرنا۔

أَخَاَصُوا الْمَاءَ: جانوروں کو پانی میں ڈال
دینا۔

تَخَوَّصَ: بتکلف گھٹنا۔

إِخْتَاَصُ: الماء: داخل ہونا۔ گھٹنا۔

تَخَاوَصَ: القوم فی الحدیث: باہم
مشغول ہونا۔

الْخَوْصَةُ: خِصَاصٌ كَأَسْمَرَةٍ: موتی۔

الْخَوَاصُ: بہت گھٹنے والا۔

الْمَخَاَصَةُ: پانی میں گھٹنے کی جگہ۔ جِ
مَخَاوِصٌ وَمَخَاَصٌ وَمَخَاَصَاتٌ

تَخَوَّطَهُ: وَتَنَافَتْهَا آتَا۔

ہونا۔

الخام۔ روئی کا کپڑا۔ ج اخوام۔ أرض
(خامة) ماقون آب و هوای زمین۔

خانة (ن) خوناً و خيانهً و مخانهً و
خانة. فی كذا: امانت میں خیانت کرنا۔

خانة سيفه: اچٹ جانا۔ خانه الدهر:
آسودگی کو سختی سے بدل دینا۔ خانه رجلاه:

چلنے پر قادر نہ ہونا۔ خان الدلو الرشاء:
ٹوٹ جانا۔ العهد: تُوڑ دینا۔ کہا جاتا ہے

”خانه العهد أو الامانة“ یعنی اس نے عہد یا
امانت میں خیانت کی۔ صفت (خائن) ج

خونان و خانه و خوننة (خونان) جسم میں
لزوری اور نظر میں ضعف ہونا۔

خوننة خیانت کی نسبت کرنا۔
خوننة و خون منه و تخوننة: تھوڑا تھوڑا کر

کے کم کرنا۔ خوننة و تخوننة: بھیبانی کرنا۔
دراسی سے ہے ”کنانت الحمى تتخوننة“

س کو دقت پر بخار آتا ہے۔ تخوننة الدهر:
سودگی کو سختی سے بدل دینا۔

اختانہ: خیانت کرنا المال پر اتنا۔
استخانہ: خیانت کرنے کا ارادہ کرنا۔

الخان. وكان۔ سرائے۔ ج خانان
(دخیل) اور خان ترکوں کے بادشاہ کا لقب

تھا۔ الخائنة. الخائن کا مؤنث۔ الخائنة:
خیانت کرنے والا۔ ”تا“ مبالغہ کے لیے

ہے۔ جیسے زاویہ بہت روایت کرنے والا۔
الخونان و الخوان. دستر خوان۔ عوام اس

سفرہ کہتے ہیں۔ ج اخوننة و خون.
الخونون و الخوان. بہت خیانت کرنے

لا۔ الخوانة. بہت خیانت کرنے والا۔ ”تا“
بالغہ کے لیے ہے۔ ویر۔

خوب الدار تخونخواً: اگر جانا النجوم:
خیر بارش ہوئے غروب ہونا۔

الخو. بھوک۔ کشادہ وادی (والخو) شہر۔
الخوة: کشادہ زمین۔

خوی (ض) خواء. البيت: گرنا۔ خالی
ہونا راسہ: کثرت تکبیر سے خون سے خالی

ہونا (خوی و خواء) بھوکا ہونا الزند: آگ
نہ دینا (خیباً) النجوم: بے بارش کے ہونا۔

ماكل بزوب ہونا (خوی و خویب)
الشیء: اچک لینا۔

خوی (س) خیبا و خویبا و خویباً.
المكان: خالی ہونا۔

خوی تخویبہ: البعير: بیٹھے میں پیٹ کو
زمین سے اُوچا رکھنا الطائر: اڑنے میں بازو

لٹکانا۔ اخوی اخواء. الزند: آگ نہ دینا۔
النجوم: بے بارش کے ہونا الرجل: بھوکا

ہونا ما عند فلان: سب کچھ لے لینا (و
خوت) الماشیة: بہت موٹا ہونا۔

اختوی اختواء. بے عقل ہونا البلد:
عبور کرنا ما عند فلان: سب کچھ لے لینا

الفرس: گلی بچھلی ناگوں کے درمیان نیزہ
مارنا۔

الأخوی. عقل و ہوش رفتہ۔ مؤنث خیبا
و خویباً۔

الخوی و الخواء. کھانے سے پیٹ کا خالی
ہونا۔ دو چیزوں کے درمیان کا خلا۔ خواء

الفرس: گھوڑے کے اگلے پچھلے پیروں کے
درمیان کا فاصلہ۔

الخوی. خالی پیٹ والا۔
الخوی. نرم پوست زمین۔

خاب (ض) خيبة و تخيب. محروم ہونا۔
نامید ہونا۔ کہا جاتا ہے ”خاب سعيہ“ یعنی وہ

نا کامیاب ہو۔ خيبة و آخایہ: محروم کرنا۔
قدح (خیاب) آگ نہ دینے والا چقماق۔

المخيبة. باعث محرومی۔
خات (ض) خینا و خینونا. آواز کرنا۔

خار (ض) خیرا. صاحب خیر ہونا۔
اللہ لك فی الامر: بہتری کرنا۔

خار (ض) خيرة و خيرة و خيرا و
خیر علی غیرہ: فضیلت دینا۔

خار: انتخاب کرنا اور اسی سے ہے ”اللهم
خیر لی“ اے اللہ میرے لیے دو امر میں سے

بہتر کا انتخاب کر۔ خيرة و خایرة. فی الامر و بین
الأمور میں پسند کرنے کے لیے اختیار دینا۔ و

خایرة فی العلم فخرارة: علم میں مسابقت
کرنا اور غالب رہنا۔

تخيرة و اختارة. چن لینا۔ انتخاب کرنا۔
ذخیره کرنا۔

استخار: استخارة: طلب خیر کرنا۔
اللہ: طلب خیر کی دعا کرنا۔

الخیر. ج خیور: بھلائی، نیکی۔ کسی چیز کا
اپنے کمال کو پہنچنا مال ج اختیار و خیار: بہت

نیکی والا۔ اور خیر اسم تفصیل کا صیغہ (اخیر) کا
مخفف ہے اور اس کی مؤنث (خيرة) ہے۔ کہا

جاتا ہے ”فلانة خيرة الناس و خیرهم“
الخیر. شرف۔ بزرگی۔ کرم۔ اصل۔

بيت۔ الخيرة. بہت خیر والی۔ ہر چیز سے بہتر۔ ج
خیرات۔

الخيرة و الخيرة. من الشیء او القوم:
افضل۔

الخيار. پس نمدیگی۔ کہا جاتا ہے ”انث
بالخيار“ یعنی جو چاہو پسند کرو۔ خيار

الشیء: چیز میں کا افضل۔ الخيار: نکروی۔
واحد (خيارة)۔

خيار شنبہ. المتاس۔
الخیرى. ایک قسم کی پھولوں والی نباتات۔

الخیرية. عموگی۔ فضل۔ عثمانی سلطنت کا
ایک پرائسکہ۔

الخیر. فیاض۔ مؤنث خيرة۔
الأخیر. زیادہ اچھا۔ مؤنث خیرى

و خورى ج أخائیر۔
الخیرى و الخورى و الخورى

و الخیرى. بہت زیادہ اچھا۔ کہا جاتا ہے
رجل خیرى۔ الخ۔ یعنی بہت خیر والا۔

المُختار: مع. کہا جاتا ہے "أنت بالمُختار یعنی تم جو چاہو پسند کرو۔
خامس (ض) خَيْسًا اللّحم بَدُوْدًا ہونا
البيع مرد بازاری ہونا۔ مند ہونا الرَّجُلُ:
جھوٹ ہونا۔ ذلیل ہونا الرَّجُلُ او الدابة:
مطیع کرنا۔
خامس (ض) خَيْسًا وَخَيْسَانًا بالعهد:
بد عہدی کرنا بِالْوَعْدِ خلاف وعدگی کرنا۔
خَيْسَةً سدھانا۔ ذلیل کرنا۔ کہا جاتا ہے
"خَيْسُ الْجَمَلِ یعنی اس نے اونٹ کو سوار
ہو کر سدھایا۔ روکنا۔
الخَيْسِ غم۔ گمراہی۔ جھوٹ۔ خیر۔
الخَيْسِ بَجانِ درخت۔ شیر کی جھاڑی۔ ج
أخْيَاسٌ دودھ۔
الخَيْسَةُ شير کے رہنے کی جگہ۔ ج خَيْسِ
المُخْيَسِ. والمُخْيَسِ. چانور کے
سدھانے کی جگہ۔ قید خانہ۔
خاش (ض) خَيْشًا. ما في الوعاء:
نکانا۔
الخَيْسِ کماں کا کھر دراکپڑ۔ ج خَيْوُش
وَأخْيَاشٌ واحد (خَيْشَةٌ کمینہ آدمی۔
الخَيْشَاش کماں کا کھر دراکپڑ بچنے والا۔
خَاصٌ (ض) خَيْصًا کم ہونا۔ صفت
(خانص)
خَيْصٌ (س) خَيْصًا ایک بڑی ایک چھوٹی
آکھ والا ہونا۔ صفت (أخْيَصٌ مَوْنُثٌ
(خَيْصَاءُ)
الخَيْصُ تھوڑی چیز۔ کہا جاتا ہے "بَلْتُ
مِنَهُ خَيْصًا خَائِصًا" میں نے اس سے
تھوڑی چیز حاصل کی۔
الخَيْصِيُّ تھوڑی چیز۔ کہا جاتا ہے "فی
المزعى خَيْصِي مِنَ العُشْبِ" چراگاہ میں
تھوڑی سی گھاس ہے۔
الخَيْصَانُ تھوڑا مال۔
خاط (ض) خَيْطًا. الثوب: سینا۔ صفت
قاعلي (خَائِطٌ وَخَاطٌ وَخَيْطٌ) اور صفت
مفعولي (مَخِيْطٌ وَمَخِيْطٌ) الحَيَّةُ زمين

پر ریٹکنا اور اسی سے ہے "هَذَا مَخِيْطٌ
الحَيَّةُ" یہ ساپ کے ریٹکے کی جگہ ہے۔
خَاطٌ إِلَيْهِ خَيْطَةٌ أَيْ دَفْعًا يَجْلُدِي سَ
مُزْرَجَانًا۔
خَيْطٌ الشَّبُّ فِي رَأْسِهِ بَرُوهَا شروع
ہوتا۔
تَخَيْطٌ. رَأْسُهُ بِالشَّبِّ: بَرُوهَا شروع
ہوتا۔
إِخْطَاطٌ وَإِخْطَى إِلَيْهِ: أَيْ كَيْفِي دَفْعًا
جلدی سے گزر جانا۔
الخَيْطُ ہنس دھاگہ۔ ج خَيْوُطٌ وَخَيْوُطَةٌ
وَ أَخْيَاطٌ مِنَ التَّعَامِ بَتر مرغ کارپوڑ۔
مِنَ الجَرَادِ نِطْرِيوں کادل۔ ج خَيْطَانُ.
الخَيْطُ الأَبْيَضُ صَبْغٌ كَسْفِيْدِي الخَيْطُ
الأَسْوَدُ: رات کی سیاہی۔ الخَيْطُ مِنَ
الرَّقِيْبَةِ: حرام مغز۔ کہا جاتا ہے "جَاحِشٌ
عَنِ خَيْطِ رَقِيْبَتِهِ" اس نے اپنے خون سے
مدافعت کی۔ خَيْطٌ بَاطِلٌ بَرْمَرِي یعنی وہ
چیز جو گرمی کے زمانہ میں دوپہر میں کڑی کے
جالے کی مانند فضا میں اترتی ہوئی معلوم ہوتی
ہے۔
الخَيْطُ وَالخَيْطِيُّ مِنَ التَّعَامِ او
الجَرَادِ بَتر مرغ کارپوڑ۔ نِطْرِيوں کادل۔
الخَيْطَاطَةُ درزی کا پیشہ۔
الخَيْطَاطُ درزی۔
الخَيْطَاطُ وَالسَّخِيْطُ سوئی۔
خَيْفٌ (س) خَيْفًا ایک نیلگوں اور ایک
سرگمیں آکھ والا ہونا۔ صفت (أخْيِفٌ مَوْنُثٌ
خَيْفًا ج خَيْفٌ.
خَيْفٌ عَنِ الفِتَالِ زُوْدًا دالی کرنا۔
القَوْمُ: کسی جگہ میں اترنا۔ خَيْفَتِ المَرْءَةُ
بِأَوْلَادِهَا: خَائِفًا بھائیوں کی ماں ہونا۔
تَخَيْفٌ. الوانَا: مختلف رنگوں والا ہونا۔
الخَيْفُ دامن کوہ میں ہر بلند و پست زمین۔
پانی بہنے کی جگہ سے بلند جگہ۔ تھن کی کھال۔
الخَيْفَةُ چھری۔ شیر کی جھاڑی۔
الخَيْفَاءُ کشادہ تھنوں والی۔ ج خَيْفَاوَاتٌ

وَخَيْفٌ.
الأخْيَافُ مختلف لوگ۔ کہا جاتا ہے "ہم
أخْوَةُ أَخْيَافِ أَوْبِنُو أَخْيَافٌ یعنی ان کی
ماں ایک ہے اور باپ مختلف ہیں۔
الخَيْفَانُ لوگوں کی کثرت۔ مختلف رنگوں
والی ٹڈی۔ ایک قسم کی پہاڑی گھاس۔ واحد
(خَيْفَانَةٌ)
خَالٌ يَخَالُ خَيْلًا وَخَيْلًا وَخَالًا وَخَيْلَةً
وَخَيْلَةً وَخَيْلَانًا وَخَيْلَوَلَةً وَمَخَيْلَةً
وَخَالَةً. الشِّيْ خَيْالٌ کرنا۔ گمان کرنا اور
واحد تَكَلَّمَ مضارع کا صيغَةُ إِخَالٌ وَإِخَالٌ اور
بکسر ہمزہ زیادہ فَصَحٌ ہے۔
خَيْلٌ تَخْيَلًا وَتَخْيَلًا عَلَيْهِ تَهْمَتٌ لَكَانَا
(خَيْلٌ تَخْيَلًا) السَّحَابُ جَرَجْنَا، چمکنا اور
برسنے کے لیے تیار ہونا فِيهِ الخَيْرُ: معلوم
کرنا عَنِ القَوْمِ بَكر و زور بزدل ہونا۔
خَيْلٌ إِلَيْهِ وَلَهُ أَنَّهُ كَذَا: توہم ہونا کہ وہ
ایسا ہے۔
خَائِلَةٌ فخر کرنے میں مقابلہ کرنا۔
خَائِلَتِ السَّحَابَةَ بَارِشٌ كِي أُمِيدًا لَانَا۔
أَخْيَلَتِ السَّمَاءَ بَرَسَ كَيْلِي تيار ہونا۔
النَّاقَةُ: تھنوں میں دودھ والی ہونا۔
(وَإِخَالٌ) القَوْمُ: ایسے بادل کو دیکھنا جس
کے متعلق خیال ہو کہ برسے گا۔ (أَخْيَلٌ وَ
إِخْتَالٌ) المَكَانُ بالنَّبَاتِ: ہرا بھرا ہونا۔
إِخَالٌ عَلَيْهِ الشِّيْ شَوَارِدٌ مشتہر ہونا۔
تَخْيَلَتِ السَّحَابَةُ: بارش کی علامتیں
معلوم ہونا الرَّجُلُ: تکبر کرنا لَهُ أَنَّهُ كَذَا:
توہم ہونا کہ وہ ایسا ہے فِيهِ الخَيْرُ: معلوم کرنا
ہ: فراسٹ سے معلوم کرنا عَلَيْهِ: پسند کرنا
اور فراسٹ سے خیر معلوم کرنا۔
تَخَائِلٌ تَخَائِلًا وَإِخْتَالٌ وَإِخْتِيَالًا. تَكْبِيرٌ
کرنا اور اگڑ کر چلنا۔
إِسْتِخَالٌ. السَّحَابَةُ: ہرستا ہوا خیال کرنا۔
الإخَالُ ہنس۔ بادل جس سے بارش ضروری
ہو۔ بے بارش کا بادل۔ بجلی۔ غرور۔ بڑا پہاڑ۔
جَمْدًا۔ نرم کپڑا۔ تخی و فیاض آدمی۔ مغرور۔

خام یخیم خیمًا و خیمانًا و خیموما
و خیمومة و خیمانًا و خیمومة اقامت کرنا
عنه: بزدل ہونا۔ روگردانی کرنا لقوم فی
القتال: جنگ میں کامیاب نہ ہونا جملہ:
پاؤں اٹھانا۔

خیم: خیمہ لگانا۔ خیمہ میں اقامت کرنا
بالمکان: اقامت کرنا خیمت الکرمة:
خیمہ کی مانند ہونا خیمت البقر: اپنے تھان
پر کھڑے رہنا کویح فی الثوب: کپڑے
میں خوشبو کو بسانا۔

اخام اخامة و اخیم اخیاما الخیمة:
نصب کرنا الفرس: تین ٹانگوں پر کھڑا ہونا۔
تخیم: المکان و بالمکان: جگہ
میں اپنا خیمہ نصب کرنا تختست الزینح
الطیبة بالثوب و فیہ: بھڑک اٹھنا۔

الخیم: طبیعت۔ خصلت۔ تلوار کا جوہر۔
الخام: ہر وہ چیز جس میں ابھی ہاتھ نہ لگا ہو
جیسے ہیرا جو ابھی صاف نہ کیا گیا ہو۔ پتھر جو
تراشانہ گیا ہو۔ چمرا جس کی دباغت نہ ہوئی ہو۔
کپڑا جو ابھی دھویا نہ گیا ہو۔ روٹی کا بنایا ہوا۔ ج
آخوام الخام: مومل۔

الخامة: تروتازہ گھاس۔ ج خام و
خامات:

الخیمة: ڈیرہ۔ ہر وہ مکان جو ایٹھ، پتھر اور
مٹی وغیرہ سے نہ بنا ہو۔ ج خیم و خیمام و
خیمات و خیم: الخیاء: ہودے۔
الخیمام: خیمہ میں رہنے والا الخیمی)
خیمہ بنانے والا یا بیچنے والا۔

المخیم: وہ جگہ جہاں خیمے نصب ہوں۔

گمان و توہم۔ بے بیوی والا۔ کزور و لیا کزور
جسم والا۔ چھوٹا ٹیلہ۔ گھوڑے کی لگام۔ کفن۔
بدن کا تل۔ ج خیلان۔

الخیالة: مغرور عورت۔
الخیل: اس گھوڑوں کا گروہ۔ ج خیلوں
و الخیال: اور مجازاً خیل کا اطلاق سواروں پر
بھی ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے "اتی بخیلہ
و رجلبہ" وہ اپنے سوار اور پیادوں کے ساتھ
آئی۔ الخیل: پیگ۔

الخیلان: ایک دریائی جانور ہے جس کا نصف
حصہ انسان جیسا اور نصف حصہ لچھلی کا سا ہوتا
ہے۔

الخیال: گمان و ہم۔ ج آخیلة (و
الخیالة) وہ صورت جو خواب میں نظر آئے۔
انسانی شکل۔ ڈراوا۔ یعنی وہ چیز جس کو کھیتوں
میں کھڑا کر دیتے ہیں چوپائے اور پرندے اس کو
انسان خیال کرتے ہیں۔

الخائل: مغرور۔ ج خائلہ۔
المخیلة و الخیالة: قوت خیالیہ۔


الأخیل: مؤنث خیلاء۔ ج خیل
و آخائل و (المخیل و المخیول) بدن
میں تل والا۔

الأخیل: ایک منحوس پرندہ کا نام۔
الأخائل: مغرور۔ کہا جاتا ہے رجل
أخائل

الخیال: شہسوار۔ گھوڑے والا۔ ج خیالة۔
الخیلاء: و الخیلاء و الخیلة: تکبر و
غرور و السحابیة (المخیلة و المخیلة
و المخیلة و المخیلة) بادل جس کے
برسنے کی امید ہو للمخیل: خیر سے ڈرانے
والا کلام مخیل: دشوار کلام۔

المخائل: من السحب: بارش سے
ڈرانے والے بادل۔ اور اسی سے نھنظہرت
فیہ مخائل النجابة: اس کے اندر شرافت
کی علامتیں ظاہر ہوئیں۔

أرض (مخیلة و مخیلة)



الدای سینے کی پبلیوں کے ملنے کی جگہ۔ ج
ذآیات
(ابن ذایعہ)
الدایة دای جنائی۔ ج ذایات۔
دب (ض) ذبا و ذببنا ریگنا۔ ہاتھوں یا
پیروں کے بل چلنا۔ کہتے ہیں ”ہو اکتذب
من دب و درج“ وہ زندوں اور مردوں
سے زیادہ جھوٹا ہے الستم فی الجسم او
البلی فی الثوب نیہاری کا جسم میں اور کہتے
کا کپڑے میں سرایت کرنا، اثر کرنا الجذول:
نہر کا جاری ہونا اور کہا جاتا ہے ”دبت
عقاربه“ اس نے تفرقہ اندازی کیلئے چغل
خوری کی۔ دب الشیخ آہستہ چلنا۔
ادب۔ الصبی: ہاتھ بیروں پر چلانا الی
أرضہ جذولاً: نہر جاری کرنا۔ کہا جاتا ہے
”اکتب البلاد“ اس نے ملک کو عدل و
انصاف سے بھر دیا۔ و ”ہو یدب علینا
عقاربه و یحوش علینا افاربه“ یعنی وہ ہم
سے دشمنی کرتا ہے اور تکلیف پہنچاتا ہے۔
الدب ریچھ۔ ج ادباب و ذببہ۔ موت
ذبہ۔ الدب الاکبر و الدب الاصغر:
بنات النعش کے ستاروں کا مجموعہ۔ کہا جاتا
ہے ”رکب ذب فلان او ذبہ فلان“ اس
نے فلان کا طریقہ اختیار کر لیا۔
الدبۃ۔ تیل وغیرہ کا برتن۔ بط کی شکل کا
شیشہ کا برتن۔ بہت ریتیلی جگہ۔ ج دباب۔
منہ کاروں۔ ج دب۔ کہا جاتا ہے ”لیس

گوشت ہونا۔
الذأص موٹاپا۔
ذأظ (ف) ذأظا۔ الإناء: بھرونا
الرجل باوجود شکم ییری کے کھانے پر مجبور
کرنا۔ غصہ دلانا۔ گلا گھونٹنا القرحة: وبا کر
نچوڑنا۔
ذأظرف (ف) ذأظا موٹا ہونا۔
ذألرف (ف) ذالا و ذالا و ذالی سست
چلنا۔ (لہ ذالا و ذالانا تریب دینا۔
ذاء لہ مداء لہ وھو کا دینا۔ تیز چلنے میں
مقابلہ کرنا۔
ذوالۃ نومری کے لئے علم جس ہے۔
الدال والدلیل والدؤل والدألان۔
گیدڑ۔ بھیریا۔ نیولے کی مانند ایک جانور۔
الدؤلول مصیبت۔ ج ذالیل کہا جاتا
ہے ”وقع القوم فی ذؤلول“ لوگ
مصیبت میں پڑ گئے۔
ذأم (ف) ذأما۔ الحایط: سہارا دینا
الرجل نمود کر سوار ہونا۔
تذأمه۔ الماء: ڈھانپ لینا۔ تذأمت
السما: لگا کر بنا۔
تذأمت علیہ الیموم و الامور: بجوم
کرنا۔
الذأم۔ سر ہر وہ چیز جو تمہیں چھپالے۔
الذأماء۔ سمندر۔
دای یذأر ویذای ذأوا و ذایا۔ الذبب
للصید: دھوکے سے شکار کرنا۔

د: الدال بنیادی حروف میں سے آٹھواں
حرف ہے۔ حروف نطعیہ ہے۔ حساب
جمل میں اس کا نمبر (۴) ہے۔
دآب (ف) ذآبا و ذآبا و ذؤوبا۔ فی
العمل: لگاتار جانفشانی سے کرنا۔ صفت
(ذآب و ذؤوب)۔ (ذآبا و ذآبا)
الدایۃ نیہار کتنا زھنکارنا۔
اذابہ اذآبا تھکانا۔ لگاتار کوشش کرنے کا
حاجت مند بنانا۔
الدآب و الذآب۔ بن۔ علات۔ حالت۔
الدآبان رات دن۔
الدآب تھکانا۔
ذآب (ف) ذآنا۔ بوجھل ہونا۔ الثوب:
میلا ہونا۔ الثوب میلا کرنا الطعام: کھانا۔
الذآب سخت کینہ۔
الذآباء۔ باندی۔ لوٹری۔ ج ذآب ابن
ذآباء: بوقرب۔
ذآذا ذآذآ و ذذآذ۔ تیز دوڑنا فی الثوب:
کھوج لگانے کیلئے پیچھے جانا الشی: ڈھانچا۔
حرکت دینا۔ ٹھہراتا القوم: باہم بجوم کرنا۔
تذآذا۔ بلنا۔ ٹھہرنا فی مشیہ: لوکھڑانا۔
عن فریبہ ہم بنا۔
الذآذا و الذآذآ۔ و الذآذآ و الذآذآ۔
من اللیالی: سخت تاریک رات۔ ج
الذآدی۔
الذآر صینی۔ دار چینی۔
ذیض (س) ذاصا۔ ازنا العیون: موٹاپا

فی الدَّارِ ذُبِّي أَوْ ذُبِّي“ یعنی گھر میں کوئی نہیں۔ اس کا استعمال صرف نفی کی صورت میں ہوتا ہے۔

الذَّبُّ۔ زواں۔ بال کی کثرت۔ گائے کا نومولود چھڑا۔

الذَّبَابُ۔ تیز رینگنے والا۔ ناتوانی سے آہستہ چلنے والا۔ مؤنث ذبابة۔

الذَّبَابَةُ۔ ایک آلہ کا نام جس کو محاصرہ میں استعمال کیا کرتے تھے اور اس کے جوف میں داخل ہو کر قلعہ کی دیوار کی جڑ میں پہنچ جاتے تھے اور جوف میں رہتے ہوئے لقب لگاتے تھے۔ ج ذبَابَاتُ الذَّبَابَةِ: ٹیک یعنی مسلح جنگی موٹر۔

الذَّبِيبُ۔ سر رینگنے والا۔ چھوٹا کبڑا جو پانی میں کھیلتا رہتا ہے۔

الذَّبُوبُ وَالذَّبُوبُ۔ موڑی۔ چنچل خور۔ گہرا غار۔ ہر موٹی تازی چیز۔

الذَّابَةُ۔ الداب کا مؤنث۔ ہر رینگنے والا جانور۔ سواری کا جانور۔ بوجھ لادنے کا جانور۔ مذکر و مؤنث دونوں کے لئے مستعمل ہے اور اس میں تاوحدت کی ہے۔ ج ذَوَابٌ۔ (الذَّوْبِيَّةُ)

الذَّبَاءُ۔ کدو۔ واحد (ذَبَابَةٌ)

الذَّبَانُ۔ زواں۔ بالوں کی کثرت۔

الذَّبُّ۔ بہت بالوں والا۔ بہت روئیں والا۔ مؤنث ذَبَاءٌ۔ بہت بالوں والا اُونٹ۔

الْمَذْبُوبُ۔ جاری ہونے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے ”مَذْبُ السَّيْلِ“ سیلاب بہنے کی جگہ۔ و ”مَذْبُ النَّمْلِ“ چوٹیوں کے چلنے کی قطار۔

أَرْضٌ مَذْبِيَّةٌ۔ بہت رینچوں والی زمین۔

ذَبَاهُ (ف) ذَبَاً۔ لامحی سے مارنا الشئ: ساکن ہونا۔

ذَبَاهُ وَذَبَا عَلَيْهِ۔ چھاپنا۔ پوشیدہ کرنا۔

ذَبَحَهُ (ن) ذَبَحًا وَذَبَحَهُ۔ قتل کرنا، مزین کرنا، خوبصورت بنانا لَطِيْلَسَانٌ رِيشِي كِبْرًا كَرْمَرِيْن كَرْنَا۔

واحد (ذَبِيْحَةٌ) و (الذَّبِيْحَةُ) چہرہ۔ کہا جاتا ہے ”فَلَانٌ يَضُوْنُ ذَبِيْحَتَهُ“ فلاں اپنی آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ و ”فَلَانٌ يَبْذُلُ

ذَبِيْحَتَهُ“ فلاں اپنی آبروریزی کرتا ہے۔

”ذَبِيْحَةُ الْكِتَابِ“ کتاب کا دیباچہ۔

الذَّبِيْحَتَانُ۔ دونوں رخسارے۔ ذَبِيْحَةُ الْوُجُوْهِ: چہرہ کی رونق۔ الذَّبِيْحُ: جوان اونٹنی۔

الذَّبِيْحُ۔ ریشی کپڑے کا بیچنے والا۔

السَّدِيْحُ۔ ریشی کپڑے سے مزین کیا ہوا بد شکل۔ ایک بد شکل آبی پرندہ۔ الو۔

ذَبِيْحٌ۔ سر جھکا اور پیٹھ بچھانا۔ ذلیل ہونا۔

فِي بَيْتِهِ: گھر میں جے رہنا۔

ذَبِيْحٌ۔ بمعنی ذَبِيْحٌ۔

ذَبْدَبٌ ذَبْدَبَةٌ۔ الحافر علی الارض: ٹاپ سے آواز لگانا۔

ذَبْرٌ (ن) ذَبْرًا وَذَبْرًا۔ النَّهَارُ أَوْ الصَّيْفُ: گزر جانا۔ ختم ہونا الرَّحْلُ: مرنا۔

پشت پھیرنا۔ بوڑھا ہونا رِيْحٌ: بچھوئی رُخ پر ہو جانا۔ (ذَبْرًا) السَّهْمُ الْهَدَفُ: نشانہ سے ہٹ جانا الْكِتَابُ: نقل کرنا بِالشَّيْءِ: لے جانا: بچھے آنا الْحَدِيْثُ عَنْ فُلَانٍ: کسی کے مرنے کے بعد اس کی بات بیان کرنا۔

ذَبْرٌ۔ بچھوئی ہو اُلگنا۔

ذَبْرٌ (س) ذَبْرًا۔ الْبَعِيْرُ: کجاوہ وغیرہ سے زخمی پیٹھ والا ہونا۔ صفت (ذَبْرٌ)

ذَبْرٌ۔ الامر: غور کرنا۔ انجام سوچنا۔ انظام کرنا الْحَدِيْثُ: دوسرے سے روایت کرنا

عَلِيٌّ هَلَاكُهُ: کسی کی ہلاکت کیلئے حیلہ اور کوشش کرنا۔

ذَابِرٌ مَذَابِرَةٌ وَذَبَارًا۔ مرنا ہ: دشمنی کرنا۔

أَذْبَرُ۔ الْبَعِيْرُ: زخمی پیٹھ والا ہونا۔ أَذْبَرَهُ الْقَتْبُ: پیٹھ زخمی کرنا فُلَانٌ: مرنا۔ بچھوئی ہو اُمیں داخل ہونا عُنُقُهُ: پیٹھ پھیرنا: بچھے کرنا أَذْبَرْتُ الذَّنْبِيْنَ: اقبال کا ختم ہونا۔

الامر: ختم ہونا الرَّحْلُ: بدھ کے دن سفر

کرنا۔

تَدَبَّرَ۔ الامر: انجام سوچنا۔

تَدَابَرُ الْقَوْمِ: باہم دشمنی کرنا۔ اختلاف کرنا اور قطع تعلقات کرنا۔

استدبرہ: پشت دینا۔ اختیار کرنا اور جستجو کرنا الامر: غیر متوقع طور پر نتیجہ کا سامنے آنا۔

الذَّبْرُ۔ سر۔ شہد کی کھپوں یا جھڑوں کا جھنڈ۔ واحد (ذَبْرَةٌ) ج أَذْبُرُ وَذَبُوْرٌ۔ بہت مال۔

موت۔ پہاڑ۔ سمندر میں جزیرہ کی مانند زمین کا ٹکڑا جس پر جوار بچھانا ہوتا ہو۔ کسی چیز کے بچھے۔ تم کہتے ہو ”جَعَلَ كَلَامِي ذَبْرٌ

أَذْبِيْهِ“ اس نے میری بات سے غفلت کی اور متوجہ نہیں ہوا۔

الذَّبْرُ۔ بمعنی الذَّبْرُ۔ بہت مال۔ واحد ہے مفرد اور جمع دونوں کیلئے ہے۔ کہا جاتا ہے

”مَالٌ ذَبْرٌ وَامْوَالٌ ذَبْرٌ“

الذَّبْرُ وَالذَّبْرُ۔ مِنْ كَمَلِ شَيْءٍ: بچھلاہٹ۔

جَذْبَارٌ ذَبْرٌ الصَّلْوَةُ: نماز کا آخر۔ کہا جاتا ہے ”جَاءَ ذَبْرًا الشَّهْرُ وَفِي ذَبْرِهِ وَعَلَى ذَبْرِهِ وَأَذْبَارَ الشَّهْرِ وَفِي أَذْبَارِهِ“ وہ

مہینہ کے آخر میں آیا۔ ذَبْرُ الْبَيْتِ: گھر کا گوشہ۔

الذَّبْرَةُ۔ انجام۔ لڑائی میں شکست۔ قابل کاشت زمین۔ جَذْبَارٌ۔

الذَّبْرُ۔ زخمی پیٹھ والا جانور۔

الذَّبْرَةُ۔ جیت پشت۔ کہا جاتا ہے ”لَيْسَ لِهَذَا الْأَمْرِ قَبِيْلَةٌ وَلَا ذَبْرَةٌ“ یعنی اس معاملہ میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں ہے۔

سود۔ جانور کی پیٹھ کا زخم کجاوہ وغیرہ سے ہو جائے۔ جَذْبَرٌ وَأَذْبَارٌ۔

الذَّبَارُ۔ کھیتوں کی ٹالیاں۔ لڑائیاں۔

شکستیں۔

الذَّبُوْرُ۔ بچھوئی ہوا۔

الذَّبِيْرُ۔ مِنْ الرَّحْلِ: بچھے۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ لَا يَعْرِفُ قَبِيْلَهُ مِنْ ذَبِيْرِهِ“ وہ اپنے آگے بچھے کو نہیں پہچانتا۔ زیادتی، جہالت کے

لئے بطور کنایہ کے بولتے ہیں۔ گناہ۔ کہا جاتا ہے "عَرَفَ قَبِيلَهُ مِنَ ذَبُوبِهِ" اس نے طاعت اور مصیبت میں تمیز کر لی۔
 الذَّبُورُ: شکل و صورت۔ حج ذبایر۔
 الذَّبُورَةُ: پتھروں کو ہموار کرنے کا اوزار۔
 فصیح لفظ "الصافور" ہے۔
 الذَّبْرَانُ: چاند کی ایک منزل کا نام جو برج ثور کے پانچ ستاروں پر مشتمل ہے۔
 الذبیر: فاعل۔ ہر چیز کا آخر۔ اصل۔
 گزرا ہوا۔ جیسے "انفس الذبیر" گزشتہ کل۔
 اور یہ تاکید کے لئے ہے جیسے "رأيتہ بعینی"
 بولتے ہیں۔ نشانہ پر نہ لگنے والا تیر۔ جوئے کے تیروں میں سے ناکامیاب تیر۔ کہا جاتا ہے "ما بقی فی الکنانة غیر الذبیر" ترکش میں سوائے دابر کے کچھ باقی نہ رہا۔ اور کہتے ہیں "قطع اللہ دابره" اللہ ان کی جڑ کو کاٹ دے۔
 الذابرة: الذابیر کا مؤنث۔ نکست۔ بدفالی۔
 نحوست۔ انسان کی اڑی کا پھلا۔ ذبيرة الطیر: پرندے کے پاؤں کا خار۔ حج ذوابر۔
 الذبیری: نماز جو آخر وقت میں ادا کی جائے۔
 الذبیری: وقت ختم ہو جانے کے بعد آنے والا۔ "شَرُّ الرَّأْيِ الذَّبْرِيُّ" یعنی وہ رائے بری ہے جو وقت گزر جانے کے بعد سمجھ میں آئے۔
 و "جاء ذبیرنا" وہ آخر میں آیا۔
 المذابیر: ناکامیاب تیر والا۔
 المُقَابِلُ وَالمَذَابِرُ: نجیب الطرسین۔
 شریف ماں باپ والا۔
 المذبور: زخمی۔ بہت مال والا۔
 دَبْسُ: الشیء: چھپا ہوا الشیء: چھپا العنَبُ: میٹھا ہونا العَصِیرُ المَعْلَى: گاڑھا ہو جانا الرَّجُلُ العَصِیرُ: پکا کر گاڑھا کر دینا۔
 اذْبَسْتُ: الأرض: اُكھوا اكلنا۔
 اذْبَسَ اذْبَسًا: الفرس: سرخ سیاہ ہونا۔ صفت (اذْبَسَ)
 الذَّبْسُ: ہر کالی چیز۔ بہت تعداد۔ کہا جاتا ہے

"مَالٌ دَبْسٌ" بہت مال۔
 الدبیس: پکایا ہوا گاڑھا شیرہ۔
 الذبئاس: شیرہ بنانے والا یا بیچنے والا۔
 الدبیس: شہد۔ کبجہ۔ کاشیرہ۔
 الذبئسة: سیاہی مٹی ہوئی سرخی۔
 الذبئوس وَ الذبئوسُ: آہنی گرز۔ حج ذبایس۔
 دَبْسٌ (ن) دَبْسًا: الشیء: چھلکا اُتارنا الطعام: کھانا۔
 الذبئش: گھر کا سامان۔ ردی سامان۔ مکان (مذبوش) وہ جگہ جہاں کی پیداوار کو ٹڈیوں نے کھالیا ہو۔
 سَبِلٌ (ذباش) ہر چیز کو بہالے جانے والا۔ سلاب۔
 ذَبْعٌ (ف ن ض) ذَبْعًا وَ ذَبَاعًا وَ ذَبَاعَةً: الجلد: کھال کو پکوانا۔
 اذْبَعٌ: کھال کا نرم ہونا اور اس سے رطوبت اور بدبو کا زائل ہونا۔
 الذبوع وَ الذبوعَةُ وَ الذبَاعُ وَ الذبَاعَةُ: چڑھانے کا مسالہ۔
 جلد (ذبیع) پکائی ہوئی کھال۔
 الذبَاعَةُ: چڑھے کی پکائی کا پیشہ۔
 الذبَاعُ: چڑھے کو پکانے والا۔
 المذبغة وَ المذبغة: چڑھانے کی جگہ۔
 چڑھے جو پکانے کے لئے مسالہ میں ڈالے گئے ہوں۔
 ذَبِقٌ (ض) ذَبَقًا: الصائدُ الطیر: لاسہ سے شکار کرنا۔
 ذَبِقٌ (س) ذَبَقًا: به: چٹنا۔
 ذَبَقَةٌ: لاسہ سے شکار کرنا۔
 اذْبَقَهُ: چکاتا۔
 تَذَبَقُ: الطیر: لاسہ سے شکار ہو جانا الشیء: لیس دار ہونا۔
 اذْبَقُ: ایک درخت چھوٹے قد کا جس کے پھول انگوری نما پرندوں کو شکار کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
 الذبِقُ وَ الذبوقُ وَ الذبوقَاءُ: پرندوں

کے شکار کرنے کا لاسہ۔
 دَبِكٌ: ذَبِكٌ يَذْبِكُ (عامی لفظ) الارض: زمین پاؤں وغیرہ مار کر گونج پیدا کرتا ہے۔ علی الارض: زمین پر گرنا۔
 الوُعَاءُ: برتن کو بھرنا۔ دَبِكٌ بمعنی دَبِكٌ الذبیکہ: معروف رقص۔
 دَبِلٌ (ن) دَبِلًا وَ ذَبُولًا: الأرض: کھاد وَ الناءُ الشیء: درست کرنا۔
 دَبِلَهُ (ن ض) دَبِلًا: بالعصا: لگا تار لاشی سے مارنا۔ کہا جاتا ہے "دَبِلْتَهُ الذَّبُولُ" اس پر مصاب بڑے پاس کی ماں نے اسے گم کر دیا۔ (وَ ذَبِلٌ) اللقمة: بڑا لقمہ لینا الشیء: انگلیوں سے جمع کرنا۔
 دَبِلٌ (س) دَبِلًا: موٹا ہونا۔
 الذبیل: س۔ پلگ۔ مصیبت۔ اولاد کی موت۔
 نالاج ذبُولُ:
 الذبيلة: بڑا لقمہ۔ ہر چیز کا ٹکڑا۔ کھاڑی کا سوراخ۔ حج ذبیل وَ ذَبِلٌ:
 الذبيلة وَ الذبيلة: مصیبت۔ پیٹ کی ایک بیماری۔ پیٹ کا پھوڑا۔
 الذبَالُ: کھاد۔
 الذبُولُ: عورت جس کا بچہ مر گیا ہو۔ ہلاکت و مصیبت۔
 الذبُولُ: زسور۔ چھوٹے قد کا گدھا۔
 الذبُولُ مایسی: پلو میسی یعنی نمائندہ حکومت اپنی حکومت کے مفادات کے لئے موزوں طرز عمل اختیار کرے۔
 ذَبِيتُ: الأرض: چھوٹی ٹڈیوں کا کھیتی کو کھا جانا۔ صفت (مذبیة وَ مذبوة)
 اذْبَتِ: الأرض: بکثرت چھوٹی ٹڈیوں والی ہونا۔
 الذبیبی: چھوٹی ٹڈی۔ چوٹی۔ واحد (ذبابة)
 دَبْتُ (ن) دَبْتُ: الصیاءُ: کسی چیز سے شکار کرنا۔ ذئہ: تکلیف دہ مارنا۔ ہٹا دینا۔
 ذَبْتُ (ض) دَبْتُ: السَّمَاءُ: ہلکی بارش ہونا۔

دجل (ن) دجلا جھوٹ بولنا (و دجل) العیبر اونٹ پر قطران ملنا بالمکان: ٹھہرنا۔ مقيم ہونا۔ و (دجل) الشی ڈھانپنا الاناء منونے کے پانی سے مٹ کرنا الارض: گوبر ڈالنا۔

الدجل گوبر۔
الدجل بڑا جھوٹا۔ نام ایک شخص کا جو آخر زمانہ میں ظاہر ہوگا۔ ج دجلون و دجاجة الدجال منونے کا پانی۔

الدجلة ما تھیںوں کا بڑا گروہ جو زمین پر چھا جائے۔

الدجل والدجالة قطران (دیکھئے لفظ القطر)۔

دجل: عراق کا مشہور دریا۔ لفظ کے لحاظ سے مؤنث ہے اور نہر کی تاویل سے مذکر اور کبھی اس پر الف لام بھی داخل ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے "الدجلة"۔

دجم (ن) دجما۔ اللیل: تاریک ہونا۔ دجم (س) و دجم دجما۔ عکین ہونا۔ الدجم من الشیء: قسم۔

الدجم عشق کے بے تائیاں۔ کہا جاتا ہے "أخذنه دجم العشق" اس کو عشق کی بے تائیوں نے گھیر لیا۔

الدجمة کلمہ۔ کہا جاتا ہے "ما سمعت له غدیر (دجیم) لہریں مارنے والا تالاب۔

دجن (ن) دجنا و دجنونا۔ الیوم: بادل بارش والا ہونا اللیل: سیاہ ہونا۔ صفت (أدجن) مؤنث (دجنا) ج دجن۔

دجن (ن) دجنونا۔ بالمکان: اقامت کرنا۔

الحسام وغیرہ: پالتو ہونا۔ صفت (داجن) مؤنث (داجن) و داجنة ج دواجن۔ کہا جاتا ہے "دجنوا فی لؤمہم" کینہ پن ان کی گھٹی میں پڑ گیا۔

أدجن: القوم: بارش میں داخل ہونا۔ السماء: لگاتار برسا المظطر أو الحمی: ہمیشہ رہنا اللیل: تاریک ہونا۔

السماء نبر آلود ہونا۔
تدجیح: ہتھیار بند ہونا۔ اور کہا جاتا ہے "تدجیح فی شکنة" وہ پوری طرح ہتھیار بند ہو گیا۔

الدجاج (ف) مثل لفظ الحاج کے مفرد و جمع ہے) خادم اور بوجھ اٹھانے والوں کیلئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ وہ آہستہ چلتے ہیں۔ ج داجون و داجحة۔

الدجحة سخت تاریکی۔
الدجاج (بسنلیت الدال والفتح اعلى لمرغی۔ مرغ (پالتو جنگلی) الدجاج الہندی ایک بڑا پرندہ ہے جس کو ملک شام میں دجاج حبش اور مصر میں دجاج رومی کہتے ہیں۔

واحد (دجاجة) ج دجج الدجاجة: دھاگے کی انی۔ عیال۔
الدجج سخت تاریکی۔ سیاہ باز۔
الدججی والدججج تاریک رات۔

ج دیا ججج۔
الدججی مرغیوں کا بیچنے والا۔ اسود دججی سخت سیاہ۔

المُدجج والمدججج: پوری طرح سے ہتھیار بند "دججت النساء" سے ماخوذ ہے اور تھپٹا سی پی پر بھی اطلاق کیا جاتا ہے۔
دججج و تدججج: اللیل: تاریک ہونا۔

دجو (س) دجو: حیران ہونا۔ مدہوش ہونا۔ صفت (دجو) و دجون ج دجوری و دجاری۔
داجو مداجوة بھاگنا۔

الدجون: تھوئی۔ وہ کڑی جو تیل چڑھانے کے لئے لگائی جائے۔ واحد (دجونة)
الدجو: ایک وہ چیز جس میں سوراخ دار لوہا لگا ہوا ہوتا ہے اور اس میں سے بونے کے وقت غلے گراتے ہیں۔

الدجو: بسنلیت الدال و انکسر الفصح الدجور: تاریکی۔ خاستری رنگ کی سیاہی ہاں مٹی۔ ج دیا جیر و دیا جیر۔

الدث والدثة والدثات ہکی بارش۔
الدثة معمولی زکام۔
الدثوث جھٹ جانے والا۔

دثون (ن) دثونا۔ الرسم مننے لگانا۔ صفت (دثون) دثون السیف رنگ آلود ہونا الشجر: پتے ٹکانا الثوب: میلا ہونا الرجل بڑھاپے کے آثار نمایاں ہونا۔
دثرف ہلاک کرنا۔ چادر سے ڈھانپنا۔

الطائر گھوسلہ بنانا۔
تدثر و ادثر: بالثوب: نوڑھنا۔ صفت (متدثر) و (مدثر) اس کی اصل متدثر ہے تاکہ دو ال میں ادغام کر دیا گیا ہے۔ و تدثر فورسہ نوکر سوار ہونا۔

اندثر غما: ناپید ہونا۔
ادثر بہت مال جمع کرنا۔
تدثر: الرسم مننے لگانا۔

الدثور: ہلاک ہونے والا۔
الدثور بہت مال دثور بہت مال، کہا جاتا ہے "مال دثور و مالان دثور و أموال دثور" اور کبھی دثور جمع بولتے ہیں۔ رجل، دثور: نافل۔ مرد ہو (دثور) مال: وہ مال کا بہتر منتظم ہے۔

الدثور: میل کچیل۔ اور کہا جاتا ہے عسکر دثور بہت فوج۔
الدثار بدن سے ملے ہوئے کپڑے کے اوپر کا گرم کپڑا۔ سونے والا جس کپڑے کو اوڑھ کر لینے۔

الدثور والدثاری: کھال۔ سست گمان۔
بہت سونے والا۔
الادثور نافل۔

الفرحة: نشر کا مواد بھانا۔
الماء بھرانا۔
الطائر: زرخ میں گھوسلہ بنانا۔ پھد کرنا۔
دج (ض) دجيجا و دججانا: القوم: آہستہ چلنا البیت: چھت ٹپکانا۔ (دججا) البستر: ٹپکانا۔
دججہ: ہتھیار بند کرنا۔ دججیت

داحنة مذاحنة. نما کسی رواداری برتنا۔
اذجوجن. اليوم بارش والا ہونا۔
الذجن. س۔ بہت بارش۔ گھاٹوپ بادل ج
ذجن ودجان و ذجون و اذجان۔ کہا جاتا
ہے "یوم ذجن و یوم ذجن" بہت بارش کا
دن۔ علیٰ هذا القياس. لیلة ذجن و
لیلة ذجن۔
الذجنة. تاریکی۔ ج ذجن و ذجنات۔
والذجنة فی الوان الابل. بدترین سیاہی۔
الذجنة والذجنة والذجنة تاریکی۔
بہت بارش والا گھاٹوپ بادل۔ ج ذجنات۔
کہا جاتا ہے "یوم ذجنة و یوم ذجنة" بہت
بارش کا دن و علیٰ هذا القياس "لیلة
ذجنة و لیلة ذجنة" تاریک رات۔
الاذجن. تاریک۔
لیلة (مذجان) تاریک رات۔
الذاجنة والمذجنة. من السحاب:
بہت بارش والا بادل۔
ذجا (ن) ذجوا و ذجوا. اللیل:
تاریک ہونا۔ صفت (ذاج) مؤنث ذاجیة۔
الثوب: کشادہ ہونا۔
ذاجی مذاحاة: ہ۔ نما کسی رواداری برتنا۔
اذجی اذجاء و تذجی تذجیا و
اذجوجی اذجیجاء۔ اللیل: تاریک
ہونا۔ اذجی اللیل: پردہ لگانا۔
الذجة. قمیص کاٹن۔ تین انگلیاں مع لقمہ
کے۔ ج ذجات و ذجی۔
الذجیة. تاریکی یا بادل کی تاریکی۔ شکاری
کے گھات کی جگہ۔ ج ذجی۔
الذاجی. ما من العیش: آسودگی نعمت۔
ذاجیة: کامل نعمت۔
لیل (ذجی) تاریک رات۔
الذیاجی. تاریکیاں۔
ذح (ن) ذحا. الشئ فی الأرض:
چھا الطعام بطنہ: شکم سیری سے لگ آنا۔
الرجل: گدی پڑو کر دھلیکا لبت فی
نفری: کشادہ کرنا۔

اندح اندحاحا. بطنہ: کشادہ ہونا۔
الذحاح والذححة والذحاح
والذحاحا والذحاح والذحیحة۔
پیت قد۔
ذحوه (ف) ذحوا و ذحورا و
مذحورة. دھکارنا۔ دور کرنا۔ دفع کرنا۔ صفت
قاعلی (ذاحر و ذحور) و صفت مفعولی
(مذحور)
ذحوجه لڑھکانا۔
تذحوج لڑھکانا۔
الذحورجة. گہریلا کی گولی جس کو لڑھکا کر
لے جاتا ہے۔ ج ذحاربع۔
الذحور. سخت و مضبوط۔
الذحورجة. گندم کے درمیان باریک دانہ۔
ذحس (ف) ذحسا. بین القوم: فساد
ذالنا الشئ: بھرتا بھر خلیہ: کریدنا الجزاء:
کھال اتارنے کیلئے کھال میں ہاتھ داخل کرنا۔
الثوب فی الوعاء: کپڑے کو برتن میں
داخل کرنا بالشئ: خفیہ طریقہ سے شراغیزی
کرنا۔
(و اذحس) السنبل: دانوں سے بھرا ہونا۔
ذحست (س) ذحسا. اصبغہ: انگلی کا
سوچنا۔ صفت (مذحوس) اور انگلی کو
مذحوسا کہتے ہیں۔
الذحاس. من البیوت: آدمیوں سے بھرا
ہوا گھر۔
الذحاس والذحاس. ایک زرد رنگ کا کپڑا
جو زمین کے اندر رہتا ہے۔ ج ذحاسات
و ذحاجیس۔
الذاحس والذاحوس. انگلی کے کنارے
پرورم۔
الذیحس. ہر چیز کی کثیر مقدار۔
ذحص (ف) ذحصا. المذبوح
برخلیہ: ایڑیاں رگڑنا لرجل: جلدی کرنا۔
ذحصر (ف) ذحصا و ذحوصا.
الحجة: باطل کرنا۔ ذحصت الحجة:
باطل ہونا الشمس: ڈھلانا۔

دحض (ف) دحضا. مذبوح کی طرح
پاؤں پکنا رجلہ: پھسلنا المطر التلاع:
پھسلنے کی جگہ بتا دینا عن الامر: تفتیش کرنا۔
اذحض. الرجل: پھسلانا الحجة: باطل
کرنا۔
اندحض. البهتان: باطل ہونا۔
الذحض والذحض. من الامكنة:
پھسلنے کی جگہ۔ ج ذحاض۔
المذحضة. پھسلانے والی جگہ۔
ذحقه (ف) ذحقا و اذحقه. دور کرنا۔
دھکارنا۔
اندحق. اپنی جگہ سے نکل پڑنا۔
الذاحق. ما یوقوف۔ غضبناک۔
الذحقیق. دور۔ دور ہونے کی جگہ۔
ذحیق القوم: قوم کا دھکارنا ہونا۔
مذحق. البطن: کشادہ پیٹ والا۔
ذحل (ف) ذحلا. بھاگ کر چھپنا۔ دور
ہونا البئر: کنوئیں کے ایک ٹانگہ میں کھودنا۔
(و اذحل) فی الذحل: لکھوہ میں داخل
ہونا۔
ذحل (س) ذحلا. ڈھیلے پیٹ والا ہونا۔
صفت (ذحل)
ذاحله مذاحله. دھوکا دینا۔ فریب کرنا۔
الذحل والذحل. کھوہ۔ گڑھا جو اوپر سے
تنگ اور نیچے سے کشادہ ہو۔ ج ذخال
و اذخال و اذحل و ذحول و ذخلان۔
الذحله. کنواں۔
الذحل. فریبی، دغا باز۔ موٹا پست قد۔
ڈھیلے پیٹ والا۔
الذحال. ابتاع۔
البئر (الذحول والذحلاء) اوپر سے تنگ
نیچے سے چوڑا کنواں۔
الذحول. وہ لکڑی جو بہن کے شکار کرنے
کیلئے لکڑی کی جائے۔ ج ذحاجیل۔ اور اس
طریقہ سے شکار کرنے والے کو (الذحال)
کہتے ہیں۔
ذحمة (ف) ذحما. زور سے دھکا دینا۔

درخت کے جڑ کی گھاس۔ ایک چھوٹا پرندہ۔ ج
دخاخیل (دُخُل الرُّجُلِ وَدُخِيْلَاهُ
وَدُخِيْلَاهُ) نیت راز۔
دُخَالُ الْأُذُنِ - زیادہ پاؤں چھوٹے پاؤں والا سیاہ
رنگ والا جانور جو کہ آرام کے وقت گھونٹنے کی
شکل میں لپٹ کر بیٹھتا ہے۔

الدُّخَالُ: رُوَيْزِ حُرُكُوْنَ كَاوَقِحْ هُوَ اِيكٍ وَتَمَّتْ
اور ایک مقام میں جس کی وجہ سے دو شعلے
ہوتے ہیں نتیجہ اندھیرا ہوتا ہے۔

الدُّخَالُ: ف. اندر آنے والا۔ اندرونی۔
الدُّخَالَةُ: مؤنث۔ دَاخِلَةُ الْأَرْضِ: زمین
کا نشیبی حصہ الاِزَارُ: ازار (تہ بند) کی
اندرونی سطح الانسان: نیت۔ مذہب۔ راز۔
ج دُوَاخِلُ.

الدُّخَالُ: گھوڑے کا ایال۔ جوڑوں کا آپس
میں داخل ہونا۔

الدُّخِيْلُ: غیر قوم میں داخل ہونے والا۔ ج
دُخْلَاءٌ: عجمی کلمہ جو عربی زبان میں داخل
ہو گیا ہو۔ کہا جاتا ہے "ذَاءُ دُخِيْلٍ" اندرونی
بیماری "هُوَ دُخِيْلُ فَلَانٍ" وہ فلاں کے ہر کام
میں رازدار ہے۔ و دُخِيْلُ الرُّجُلِ: نیت۔

مذہب۔ راز۔
الدُّخِيْلَةُ: مِنَ الشَّيْءِ: چیز کا اندرونی حصہ۔
دُخِيْلَةُ الْمَرْءِ: نیت۔ اندرونی خیال۔

الدُّخِيْلُ: داخل ہونا۔ داخل ہونے کی جگہ۔
کہا جاتا ہے "هُوَ حَسَنُ الدُّخِيْلِ فِي
أُمُورِهِ" وہ اپنے امور کا بہترین منتظم ہے۔

الدُّخِيْلُ: س. لیم۔ کینہ۔ غیر قوم میں
داخل ہونے والا۔

د- د-ت (کینا) باریک پس ہوئی دوئی جو کہ
کیرے مار دوئی کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔

اس کا نام ڈیکورور ڈیفنل۔ ٹریکلورینان۔ اس کا
اکشاف ۱۹۳۳ء کو سویڈری سکارلٹر نے کیا۔

الدُّخُوْلُ: وہ شخص جس کی عقل میں فتور
ہو۔ لاغر۔ عیب دار۔ نَخْلَةٌ مَدْخُوْلَةٌ:

درخت خرما جس کے اندر کا حصہ کھلا ہو گیا
ہو۔ رَجُلٌ (مَدْخَالٌ) مونا گٹھے ہوئے بدن

الدُّخِيْسُ: آپس میں الجھی ہوئی گھاس۔
بہت تعداد۔ کہا جاتا ہے "هُوَ دُخِيْسٌ
اللَّحْمِ" وہ بڑا گوشت ہے۔

كَلَامٌ دُخِيْسٌ: بہت اور الجھی ہوئی گھاس۔
الدُّوَاخِيْسُ وَالدُّخِيْسُ: ویک دان کے
پائے۔

دُخُوْصًا: الجارية: پانچانہ کرنا۔
دُخُلٌ (ن) دُخُوْلًا وَمُدْخَلًا: الدار:

اندر آنا۔ داخل ہونا یہ: اندر لانا۔ داخل کرنا
عَلَيْهِ: زيارت کرنا۔ ملاقات کرنا۔

دُخِلَ: فِي عَقْلِهِ اَوْ جَسَدِهِ وَ (دُخِلَ
(س) دُخْلًا) عَقْلٌ يَأْجِسُ فِي خِرَابِي لِاتِّقِ
ہونا۔ مفت (مَدْخُوْلٌ) عَلَيْهِ اَمْرٌ فَلَانُ:

باطنی طور پر فاسد ہونا۔ (دُخْلَةً) داخل کرنا۔
دَاخِلُهُ مَدْخَلَةٌ الْعَجْبُ: خود پسندی

آنا۔ دَاخِلُهُ فِي أُمُورِهِ: در اندازی کرنا۔
دُخِلَ وَيْنَا:

أَدْخَلَهُ اِدْخَالًا وَمُدْخَلًا: داخل کرنا۔
تَدْخَلُ: داخل ہونا الشئ: آہستہ آہستہ

داخل ہونا۔
تَدْخَلَهُ: مَعْلُومٌ جَاءَ الشَّيْءُ: ایک دوسرے

میں داخل ہونا۔ تَدْخَلَتِ الْأُمُورُ: مشتبہ و
مغسوس ہونا۔

ادْخُلْ وَاَدْخُلْ: داخل ہونا۔
الدُّخُلُ: س. آمدنی۔ مرض۔ عیب۔

تہمت۔ دُخِلَ الرُّجُلُ: نیت۔ مذہب۔ راز۔
الدُّخُلُ: عقلی یا جسمانی خرابی۔ مکر۔ خاندانی

عیب۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو کسی کی جانب
منسوب کرتے ہوں اور فی الحقیقت ان میں سے

نہ ہوں۔
دُخْلَةُ الرُّجُلِ وَدُخْلَتُهُ وَدُخْلَتُهُ: نیت۔

مذہب۔ راز۔ کہا جاتا ہے "هُوَ عَفِيْفٌ
الدُّخْلَةَ" وہ پاک نیت ہے۔ الدُّخْلَةُ: راز۔

اسی سے ہے "فَرَشْتُهُ دُخْلَةُ أَمْرِي" میں
نے اس کے سامنے اپنا راز ظاہر کر دیا۔

الدُّخْلَةُ: مختلف رنگوں کو ملا کر ایک رنگ بنانا۔
الدُّخْلُ: بڑے ڈیل اور گٹھے بدن والا۔

دُخْمَسٌ: اللَّيْلُ: رات کا تاریک ہونا۔
الدُّخْمَسُ وَالدُّخْمَسُ: سیاہ۔ بہت سخت

تاریک۔ کہا جاتا ہے "لَيْلٌ دُخْمَسٌ" بہت
تاریک رات۔ ج دُخْمَسُ:

الدُّخْمَسُ: بہت زیادہ گندم گوں مونا
آوی۔ بہادر۔

دُخْمَلٌ: يَه: زمین پر لڑھکانا۔
دُخَا يَدْخُو وَيَدْخِي دُخُوًا: البَطْنُ: بڑا

ہونا اور بچے کو ٹکنا اور کہا جاتا ہے۔
دُخَا يَدْخُو دُخُوًا - اللَّهُ الْأَرْضِ - زمین کو

بچانا۔
ادْخُوِي اِدْخُوًا: پھیلنا۔

دُخِي يَدْخِي دُخِيًا: الشئ: پھیلانا۔
تَدْخِي تَدْخِيًا: الشئ: پھیلنا۔

ادْخِي: البَطْنُ: سشارہ ہونا۔
الدُّخِيَةُ: بندریا۔

الدُّخِيَةُ: فَرْجٌ كَأَسَدٍ اِرْتَجِدُخَاءُ:
الادْخِي وَالادْخِي وَالادْخُوَةُ
وَالادْخِيَةُ: ریت میں شتر مرغ کے انڈے

دینے کی جگہ۔
الدُّخُ وَالذُّخُ: دھواں۔

دُخْدُخُ: الرُّجُلُ: چھوٹے چھوٹے قدم رکھ
کر تیز چلنا غنہ الشئ: روکنا۔

تَدْخْدُخُ: الرُّجُلُ: ڈگبیر ہونا۔
دُخْرٌ (ف) وَدُخْرٌ (س) دُخْرًا

وَدُخْرًا: ذلیل ہونا۔ حقیر ہونا۔
ادْخْرَةٌ: ذلیل کرنا۔

دُخْسٌ (ف) دُخْسًا: الشئ فی
الرَّمَادِ: چھپا دینا۔ دُخْسٌ فِيهِ: داخل ہونا۔

دُخْسٌ (س) دُخْسًا: الحافِرُ: ورم والا
ہونا۔ مفت (دُخْسُ)

الدُّخْسُ: جوان ریچھ۔ مونا گٹھے بدن والا۔
الدُّخْسُ: جانور کے کھر کاروم۔

الدُّخْسُ: ایک بحری جانور کا نام ہے جس کو
سوس کہتے ہیں۔

عَدَدٌ (دُخْسًا) بہت۔ دُخْعٌ دُخْسًا:
قریب قریب حلقوں والی زرد۔

الْمَذْحَنَةُ. وهو ان تلتك في جنبي.	الْمَذْحَنَةُ. وهو ان تلتك في جنبي.
الدَّخِي. تاريخي.	الدَّخِي. تاريخي.
لَيْلَةُ (دَخِيَاء) تاريخ رات.	لَيْلَةُ (دَخِيَاء) تاريخ رات.
الدَّذُّ كھيل کو۔ اس کا لام کلمہ مثل "غد" کے واؤ محذوف ہے اور کبھی واؤ کو الف سے بدل کر الذذا کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے "ما آنا في ذب ولا الذذ مني" نہ تو میں کھیل کو دو میں ہوں اور نہ یہ میرا کام ہے۔ الذذ: وقت۔ کہا جاتا ہے "مضى ذذ من الذهر" زمانہ کا ایک حصہ گزر گیا۔ الذذن. کھیل کو۔	الدَّذُّ كھيل کو۔ اس کا لام کلمہ مثل "غد" کے واؤ محذوف ہے اور کبھی واؤ کو الف سے بدل کر الذذا کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے "ما آنا في ذب ولا الذذ مني" نہ تو میں کھیل کو دو میں ہوں اور نہ یہ میرا کام ہے۔ الذذ: وقت۔ کہا جاتا ہے "مضى ذذ من الذهر" زمانہ کا ایک حصہ گزر گیا۔ الذذن. کھیل کو۔
الذذان. بے نفع آدمی۔ کند تلوار۔ بہت کانٹے والی تلوار (ضد) الذيدان والذيدان عادت۔	الذذان. بے نفع آدمی۔ کند تلوار۔ بہت کانٹے والی تلوار (ضد) الذيدان والذيدان عادت۔
الذيدب والذيدبان. تمہاں۔ ہراول۔ راہبر۔	الذيدب والذيدبان. تمہاں۔ ہراول۔ راہبر۔
الذيدب والذيدبان: (فارسی لفظ) رقيب جاسوس۔	الذيدب والذيدبان: (فارسی لفظ) رقيب جاسوس۔
الذيدان والذيدان۔ کھیل و کو۔	الذيدان والذيدان۔ کھیل و کو۔
ذَرَّ (ن ض) ذَرًّا الحليب: دودھ زیادہ ہو بلذنيا عنى اهلها: پیداوار زیادہ ہونا۔ الناقه بلبنيها: بہت دودھ دینا۔ کہا جاتا ہے "ذرت حلوبنة" وہ خوش حال ہو گیا۔ البسات: گتے جانا (ذروا) العروق: بہنا السماء بالمطر: برساتا السراج: روشن ہو بلشوق: بازار کا چل پڑنا۔	ذَرَّ (ن ض) ذَرًّا الحليب: دودھ زیادہ ہو بلذنيا عنى اهلها: پیداوار زیادہ ہونا۔ الناقه بلبنيها: بہت دودھ دینا۔ کہا جاتا ہے "ذرت حلوبنة" وہ خوش حال ہو گیا۔ البسات: گتے جانا (ذروا) العروق: بہنا السماء بالمطر: برساتا السراج: روشن ہو بلشوق: بازار کا چل پڑنا۔
العروق: خون سے بھرتا۔	العروق: خون سے بھرتا۔
ذَرَّ (س ض) ذَرًّا وجهه: بیماری کے بعد کھم آنا۔	ذَرَّ (س ض) ذَرًّا وجهه: بیماری کے بعد کھم آنا۔
ذَرَّ (ض) ذَرًّا الفرس: تیز دوڑنا۔	ذَرَّ (ض) ذَرًّا الفرس: تیز دوڑنا۔
أَذَرَّ المغرل: مضبوط پٹلاشی: حرکت دینا۔ الصرب: لگا تار مارنا۔	أَذَرَّ المغرل: مضبوط پٹلاشی: حرکت دینا۔ الصرب: لگا تار مارنا۔
الريح السحاب: تھپڑے مار کر برسنے کے قابل بنا دینا۔ کہا جاتا ہے "أذرت الله لك اخلاف الرزق" اللہ تعالیٰ تمہارے لئے رزق زیادہ کر بلناقہ: بہت دودھ والی ہونا۔ استدر: اللبن: زیادہ استدر: بہنا	الريح السحاب: تھپڑے مار کر برسنے کے قابل بنا دینا۔ کہا جاتا ہے "أذرت الله لك اخلاف الرزق" اللہ تعالیٰ تمہارے لئے رزق زیادہ کر بلناقہ: بہت دودھ والی ہونا۔ استدر: اللبن: زیادہ استدر: بہنا
الريح السحاب: تھپڑے مار کر برسنے کے قابل بنا دینا۔	الريح السحاب: تھپڑے مار کر برسنے کے قابل بنا دینا۔
الذذ. س۔ دودھ۔ دودھ کی زیادتی۔ خون اور کہا جاتا ہے "للذذ ذرة" اس کی خوبی اللہ ہی کے لئے ہے۔ "ولا ذذ ذرة" خدا کرے کہ وہ خوش حال نہ ہو۔	الذذ. س۔ دودھ۔ دودھ کی زیادتی۔ خون اور کہا جاتا ہے "للذذ ذرة" اس کی خوبی اللہ ہی کے لئے ہے۔ "ولا ذذ ذرة" خدا کرے کہ وہ خوش حال نہ ہو۔
الذذ. بڑے موتی۔ واحد (ذذرة) نج ذرر و ذرات.	الذذ. بڑے موتی۔ واحد (ذذرة) نج ذرر و ذرات.
الذذ. ف۔ دودھاری اونٹنی۔ ذرر و ذرر و الذذرة. دودھ۔ دودھ کی زیادتی۔ دودھ کا بہنا۔ خون۔ کوڑا۔ بخور۔ کہا جاتا ہے "مر على ذرتيه" وہ اپنے ارادہ پر ڈنارہا کوئی چیز اس کے لئے مانع نہیں۔	الذذ. ف۔ دودھاری اونٹنی۔ ذرر و ذرر و الذذرة. دودھ۔ دودھ کی زیادتی۔ دودھ کا بہنا۔ خون۔ کوڑا۔ بخور۔ کہا جاتا ہے "مر على ذرتيه" وہ اپنے ارادہ پر ڈنارہا کوئی چیز اس کے لئے مانع نہیں۔
الذذ. الطریق: راستہ کا درمیان۔ ذرر: الریح: ہوا چلنے کی سمت۔ کہا جاتا ہے "هنا على ذرر واحد" ان دونوں کا قصد ایک ہے۔	الذذ. الطریق: راستہ کا درمیان۔ ذرر: الریح: ہوا چلنے کی سمت۔ کہا جاتا ہے "هنا على ذرر واحد" ان دونوں کا قصد ایک ہے۔
الذذ (الذذرى) بتثليث الدال روشن ستارہ فرس ذری: تیز رفتار گھوڑا۔ ذری السيف: تلوار کی چمک۔	الذذ (الذذرى) بتثليث الدال روشن ستارہ فرس ذری: تیز رفتار گھوڑا۔ ذری السيف: تلوار کی چمک۔
الذذرة: عام لوگوں کے نزدیک: طوطا الذرور: بہت دودھ دینے والی اونٹنی۔ حوب ذرور: خوریزنگ۔	الذذرة: عام لوگوں کے نزدیک: طوطا الذرور: بہت دودھ دینے والی اونٹنی۔ حوب ذرور: خوریزنگ۔
الذذير: س۔ روشن چراغ۔ تیز رفتار جانور۔ الذذرة: دودھ کی کثرت۔	الذذير: س۔ روشن چراغ۔ تیز رفتار جانور۔ الذذرة: دودھ کی کثرت۔
الذذار: بہت چبنے والا۔ کہا جاتا ہے "سماة مذراز" موسلا دھار برسنے والا بادل۔ "عین مذراز" بہت آنسو بہانے والی آنکھ۔	الذذار: بہت چبنے والا۔ کہا جاتا ہے "سماة مذراز" موسلا دھار برسنے والا بادل۔ "عین مذراز" بہت آنسو بہانے والی آنکھ۔
ذراء (ف) ذرأ و ذرأة: زور سے دھکا دینا الشئ: السيل عليه: چیزی کے ساتھ آنا۔ کہا جاتا ہے "ذرا الرجل عذب" وہ ہمارے اوپر اچک آ گیا (ذروا) چمکنا النار: روشن ہونا۔	ذراء (ف) ذرأ و ذرأة: زور سے دھکا دینا الشئ: السيل عليه: چیزی کے ساتھ آنا۔ کہا جاتا ہے "ذرا الرجل عذب" وہ ہمارے اوپر اچک آ گیا (ذروا) چمکنا النار: روشن ہونا۔
ذارة مذارة: ایک دوسرے کو دفع کرنا۔ نرمی برتنا۔ مہربانی کرنا۔ فریب دینا۔	ذارة مذارة: ایک دوسرے کو دفع کرنا۔ نرمی برتنا۔ مہربانی کرنا۔ فریب دینا۔
الذخل والذخلل. راز وار۔ ذخلل الرجل: نیت۔ راز۔ امور میں مداخلت کرنے والا۔	الذخل والذخلل. راز وار۔ ذخلل الرجل: نیت۔ راز۔ امور میں مداخلت کرنے والا۔
الذخلل. چربی جو گوشت میں پیوست ہو۔	الذخلل. چربی جو گوشت میں پیوست ہو۔
دخمه (ف) دخما. سختی سے پھانا۔ دخم الجارية: جماع کرنا۔	دخمه (ف) دخما. سختی سے پھانا۔ دخم الجارية: جماع کرنا۔
دخمسه دخمسة. دھوکا دینا۔	دخمسه دخمسة. دھوکا دینا۔
ذخن (س) دخنا. الطعام واللحم وغيرهما: دھوئیں کی بو دینا۔ صفت (ذخن) النار: دھواں اٹھنا۔ بد اخلاق ہونا۔ ذخن (ک) دخنة: دھوئیں کے رنگ کا ہونا۔ صفت (اذخن) مؤنث خفاء۔	ذخن (س) دخنا. الطعام واللحم وغيرهما: دھوئیں کی بو دینا۔ صفت (ذخن) النار: دھواں اٹھنا۔ بد اخلاق ہونا۔ ذخن (ک) دخنة: دھوئیں کے رنگ کا ہونا۔ صفت (اذخن) مؤنث خفاء۔
ذخنت (ن ض) ذخنا و ذخونا و ذخنت و اذخنت و اذخنت النار: دھواں اٹھنا۔	ذخنت (ن ض) ذخنا و ذخونا و ذخنت و اذخنت و اذخنت النار: دھواں اٹھنا۔
اذخن الزرع. دانوں کا سخت ہونا۔	اذخن الزرع. دانوں کا سخت ہونا۔
ذخن الشئ: دھوئی دینا۔	ذخن الشئ: دھوئی دینا۔
تذخن: دھوئیں کی بو دینا۔	تذخن: دھوئیں کی بو دینا۔
الذخن: کنگنی۔ چینا۔ باجر۔	الذخن: کنگنی۔ چینا۔ باجر۔
الذخن. س۔ دھواں۔ کینہ۔ فساد۔ عقلی فتور۔	الذخن. س۔ دھواں۔ کینہ۔ فساد۔ عقلی فتور۔
دین کی کمزوری۔ حسب کا عیب۔ کہا جاتا ہے "لست اصابه على دخن" میں اس سے کمزوری کی صورت میں صلح نہیں کروں گا۔	دین کی کمزوری۔ حسب کا عیب۔ کہا جاتا ہے "لست اصابه على دخن" میں اس سے کمزوری کی صورت میں صلح نہیں کروں گا۔
الذخنة. دھندلا۔ خوشبو جس سے مکانوں کو دھوئی دیتے ہیں۔ ابو دخنة: ایک قسم کا پرندہ۔	الذخنة. دھندلا۔ خوشبو جس سے مکانوں کو دھوئی دیتے ہیں۔ ابو دخنة: ایک قسم کا پرندہ۔
الذخان والذخان. دھواں ج اذخنة و ذواخن و ذواخين. مولدین تمباکو و سگریٹ کو کہتے ہیں۔	الذخان والذخان. دھواں ج اذخنة و ذواخن و ذواخين. مولدین تمباکو و سگریٹ کو کہتے ہیں۔
الذاخنة. روشن دان جس سے دھواں نکلے۔	الذاخنة. روشن دان جس سے دھواں نکلے۔
ذواخن. وہ چیز جس پر دھواں چھا جائے۔ مؤنث خفانة۔	ذواخن. وہ چیز جس پر دھواں چھا جائے۔ مؤنث خفانة۔
المدخن. دھوئیں کی چمک۔	المدخن. دھوئیں کی چمک۔
المدخنة. عود سوز۔ گھنٹی۔ ذواخن۔	المدخنة. عود سوز۔ گھنٹی۔ ذواخن۔

و تَدْرَأُ عَلَيْهِ: فریب دینے کے لئے چھٹا۔ الضیغ واللصیق: رازدستی کرنا۔ کلمات لگانے کی

جس تار تار تدارعاً: القوم: جھگڑے میں بات کو

ایک دوسرے سے روکنا۔ الطريق: تیز رفتاری کے ساتھ۔ اچانک

آجالتاً: تیز سے۔ کچھ اور غیبی کی کئی

مخالفت۔ کہا جاتا ہے "جاء السيل" یعنی تیزی سے اچانک طور پر

آگتري والدری: روشن ستارہ۔ الدراری: مجبول الام بڑے ستارے۔

الدریفة: نشانہ ٹھیک کرنے کا گول دائرہ۔

شکانیہ: ایک کلمہ کے ساتھ لگانے کی جگہ۔ ایسا شخص جو صاحب قوت

و شکت ہو اور دشمن کو ہانے والا ہو۔

درب ہانے کو کہتے ہیں۔ ماہر کار گیر ہونا

بالشی: (س) درت و عاری ہونا۔ شوقین ہونا۔

دریہ: بالشی و قیہ و علیہ: تدرت عادی ہونا۔

تدرت: عادی ہونا۔ تدرت کے وقت مستقر ہونا۔

تدرت: بھل بھانا۔ دشمن کے ملک میں داخل ہونا۔

ذروب: گلی کا کڑا ہوا روازہ۔ پھانک۔ راستہ۔

س۔ لڑائی اور بھی کام لگانا۔

دیری: کہا جاتا ہے

محافل و تجمعات و تدارکات من الجنان والنوق: الذرابة: بدھلایا ہوا۔ لڑائی اور ہر کام میں جرات و

دیر کی تدرت: تجربہ کار۔ سرد گرم چھیدہ۔ من الابل: تیرا ہوا گلیوں میں چلنے کا عادی

الذریاب: ذریب سے خاموش رہنا۔

الذریان والذریان: دروازہ کا محافظ۔

الذریان والذریان: دروازہ کا محافظ۔

الذریان والذریان: دروازہ کا محافظ۔

الذریان والذریان: دروازہ کا محافظ۔

الذریان والذریان: دروازہ کا محافظ۔

الذریان والذریان: دروازہ کا محافظ۔

الذریان والذریان: دروازہ کا محافظ۔

الذریان والذریان: دروازہ کا محافظ۔

الذریان والذریان: دروازہ کا محافظ۔

الذریان والذریان: دروازہ کا محافظ۔

الذریان والذریان: دروازہ کا محافظ۔

الذریان والذریان: دروازہ کا محافظ۔

الذریان والذریان: دروازہ کا محافظ۔

الذریان والذریان: دروازہ کا محافظ۔

الذریان والذریان: دروازہ کا محافظ۔

الذریان والذریان: دروازہ کا محافظ۔

الذریان والذریان: دروازہ کا محافظ۔

خوشبو اور اپنا سامان رکھتی ہیں۔ ج۔ المذرج: جوانی (تیر پورٹ) کا لان۔

الذریان والذریان: دروازہ کا محافظ۔

الذریان والذریان: دروازہ کا محافظ۔

الذریان والذریان: دروازہ کا محافظ۔

الذریان والذریان: دروازہ کا محافظ۔

الذریان والذریان: دروازہ کا محافظ۔

الذریان والذریان: دروازہ کا محافظ۔

الذریان والذریان: دروازہ کا محافظ۔

الذریان والذریان: دروازہ کا محافظ۔

الذریان والذریان: دروازہ کا محافظ۔

الذریان والذریان: دروازہ کا محافظ۔

الذریان والذریان: دروازہ کا محافظ۔

الذریان والذریان: دروازہ کا محافظ۔

الذریان والذریان: دروازہ کا محافظ۔

الذریان والذریان: دروازہ کا محافظ۔

الذریان والذریان: دروازہ کا محافظ۔

الذریان والذریان: دروازہ کا محافظ۔

الذریان والذریان: دروازہ کا محافظ۔

الذریان والذریان: دروازہ کا محافظ۔

المذرج راستہ۔ مسلک۔ اور اسی سے ہے
"امش فی مذرج الحق" حق کے راستہ پر
چلنے والے۔ جیونیوں کے چلنے کی
جگہ۔ کہا جاتا ہے ہواً خفی من مذرج
"النمل" وہ جیونیوں کے راستہ سے زیادہ
پوشیدہ ہے۔ المذرج: لینی ہوئی کتاب یا خط
مذارج۔
المذرج والمذرجہ: لینی ہوئی کتاب یا
خط۔ مذارج۔
المذرج: کھیل کا شیدیم و عظ و تقریر کے لئے
ہال۔ تصویر کشی کا کمرہ۔
السنیما: سینما گھر

المذرجہ: مذارج: افضل یا اعلیٰ تک
پہنچنے کا ذریعہ۔ کہا جاتا ہے "هذا الامر
مذرجة لهذا" یہ اس امر کے لئے ذریعہ
ہے۔ راستہ۔ راستہ کا براہ۔ کاغذ جس میں
کوئی تحریر لکھی جائے یا لینی جائے مذارج
الاکمہ: ٹیلہ کے درمیان کے راستے۔
ارض مذرجة: بہت تیز والی زمین۔
ذرجہ (فکرجا): دغ کرنا۔ ہٹانا۔
ذرج (سکرجا): بوڑھا ہونا۔ صفت مذکر
ومؤنشدرج
المذرجة: یہ مادہ اور روح سے ماخوذ ہے دو
عقیدوں کے استزاج کی طرف اشارہ ہے۔
یعنی خالق اور خلق کے نظریے کی طرف اور یہ
بھی تصور کہ مادی اثرات انسانی کردار پر اثر انداز
ہو سکتے ہیں۔

ذرد (سکرجا): غضبناک ہونا۔ صفت
(ذرد) بے دانتوں کا ہونا۔ صفت (ذرد)
مؤنشداء: چوڑا
ادردہ: دانتوں کا گرانہ۔
الذردی: چھٹ۔
الذرد: پستانوں والے جانور جنکے دانت نہیں
ہوتے ان کی انگلیاں طاقتور ناخنوں والی ہوتی ہیں
جن کے ذریعے زمین میں گڑھا نکال سکتے ہیں
ان میں سے بعض کو لیمفہ اور کمال النمل
بولتے ہیں۔

ذردب الرجل: خوفزدہ آدمی کی مانند پیچھے
دیکھتے ہوئے بھاگنا۔

امراة (ذردب) رات میں آمدورفت رکھنے
والی عورت۔

الذردبیس مصیبت۔ بڑھا۔ بہت بڑھیا۔
محبت کا متر۔

ذردب النسخ او النصی السورة: منہ
میں پھلانا۔

الذردار: ذھول کی آواز۔ ایک بڑا درخت
جس کے پھول زرد اور پتے خاردار ہوتے ہیں۔

الذردر: بچے کے دانت نکلنے کی جگہ۔ ج
ذردار۔

الذردور: بھنور۔
ذرد (سکرجا) دنیا کی نعمتوں اور لذتوں
پر قادر ہونا۔

ذرد (سکرجا) الثوب: کپڑا باریک سینا
لخیاط الذرور: درزی کا سینوں کو باریک
سینا۔

الذرد: ص۔ دنیا کی نعمتیں اور لذتیں۔ دو
کپڑوں کے درمیان کا سینوں۔ مذردور۔
نات الذرور: جوں اور اس کے اٹے۔

الذردی: سلائی کا پیشہ کرنے والا۔ مذردرة
او ذرور بھی کہتے ہیں۔ واصل ذردی اور
عوام ضمہ وال سے درزی کہتے ہیں۔

(اولاد ذردرة) جولہے۔ درزی: نیچے درج
کے لوگ۔ ذردرة: دنیا کی کثیت۔

ذرد (سکرجا) الرسم: ٹٹا۔ صفت
ذرد (سکرجا) الرسم: نشان ٹٹا۔
ذرد (سکرجا) الرسم: نقش مثلاً الثوب: کپڑا

بوسیدہ ہونا۔ الرسم: بوسیدہ کرنا۔ لاقا:
سدھا۔ ذردسا و دراسة) لکتاب او
علمیہ: پڑھنا۔ متوجہ ہونے کے یا کردار جس
لجاریتہ: جماع کرنا۔ ذردسا و دراسة)
لحنطة: گیہوں کو گاہا۔ ذردست المرأة
درسنا و ذردسا) حاضہ ہونا۔

ذردسة و ذردسة) لکتاب: پڑھنا۔
البعین: سدھانا۔

ذردسة و ذردسة) لکتاب: پڑھنا۔
البعین: سدھانا۔

ذردسة و ذردسة) لکتاب: پڑھنا۔
البعین: سدھانا۔

ذردسة و ذردسة) لکتاب: پڑھنا۔
البعین: سدھانا۔

ذردسة و ذردسة) لکتاب: پڑھنا۔
البعین: سدھانا۔

دارسہ مدارسہ و دراسا۔ باہم پڑھنا۔
الذردب: ارتکاب کرنا۔

تذارس الطلبة لکتاب: باہم پڑھنا اور
کہا جاتا ہے تذارس لکتاب و اذارسہ
اس نے کتاب پڑھی۔

الذردس الرسم: مٹلہ خیز: ٹاپید ہونا۔
الذردس الرسم: مٹلہ خیز: ٹاپید ہونا۔

الذردس والذردس والذردس: پڑھنا اور
اوتھ کی دم۔ مذرداس و درسان۔ کثیت
فرق جنہو اذردس: کثیت ذکر۔

الذردسة ریاضت۔ ورزش۔
الذردس حاضہ عورت۔

الذرداس بہت پڑھنے والا۔
المذردسة طلبہ کے تعلیم حاصل کرنے کی
جگہ۔ اور کہا جاتا ہے ہادہ مدرسة النعم
یہ چوپائے کا راستہ ہے۔

المذردس پڑھنے کی کتاب۔ پڑھنے کی جگہ۔
المذرداس توراہ پڑھنے کی جگہ۔

المذردوس: پڑھنا۔ کپڑا۔ طریق
مذردوس: چلتا ہوا راستہ۔ فراش
مذردوس: بچھا ہوا بچھونا۔ جمنوں۔ پاگل۔

ذردص (سکرجا) الناقا: بڑھاپے
کی وجہ سے ٹوٹے ہوئے دانت والی ہونا۔ صفت
(ذردصا)

الذردص والذردص: چوہا، ملی، خرگوش،
سیمی وغیرہ کا بچہ۔ مذرداص و ذردصہ
و ذردصان و ذردص و اذردص۔

الذردص والذردص: تیز رفتار اونٹنی۔
ام اذرداص: بچہ چوہا۔ بلا۔ مصیبت۔

کہا جاتا ہے ذردصوا فی اذرداص
لوگ ہلاکت میں پڑ گئے۔

ابو اذرداص: بیوقوف۔

ذردع (سکرجا) العرس وغیرہ: سیاہ
سر اور سفید جسم والا ہونا۔ صفت اذرع
مؤنشدعاء ذراع

ذردع (فکرجا) الشاة: بکری کے سر
کی جانب سے کھال اٹارنے کی طرف سے اوالید:

ذردع (فکرجا) الشاة: بکری کے سر
کی جانب سے کھال اٹارنے کی طرف سے اوالید:

ذردع (فکرجا) الشاة: بکری کے سر
کی جانب سے کھال اٹارنے کی طرف سے اوالید:

ذردع (فکرجا) الشاة: بکری کے سر
کی جانب سے کھال اٹارنے کی طرف سے اوالید:

داركہ مداركہ و دراك لا حق ہوتا۔
الشیء ایك كودوسرے کے پیچھے کرنا۔
الطعن نیانے تیز ہمارنا۔
تَدَارِكُ القوم خراک اول سے آمانا اور اس
الخطأ بالصواب میں اذراک بولا جاتا ہے

غلطی کی اصلاح کرنا۔ غلطی کے بعد درست کرنا
مافات نبرائی کرنا، درست کرنا۔ کہا جاتا ہے
"تدارك الله برحمته یعنی اللہ کی رحمت
اس کو لاحق ہو۔" و "تدارك القوم اس نے
قوم کی تلافی کی۔"

ادركہ ملنا۔ لاحق ہونا۔
استدرك الشئ بالشیء کسی چیز سے کسی
چیز کو حاصل کرنے کا ارادہ کرنا۔ کہا جاتا ہے
"استدرك النجاة بالفقراء اس نے بھاگ
کرنجات حاصل کرنے کا ارادہ کیا مافات:
تلافی کرنا الخطأ بالصواب غلطی کی اصلاح
کرنا علیہ القول غلطی نکالنا۔

الدرك والذرك لاحق ہونا۔ حصول
حاجت۔ کسی چیز کی انتہائی گہرائی۔ کہا جاتا ہے
"بلغ العواص ذرك البحر تعوط خور
سمندر کی انتہائی گہرائی میں پہنچ گیا۔ اور کہا جاتا
ہے "فرس ذرك الطريدة" بھاگنے ہوئے
جانور کو پالینے والا گھوڑا۔ تادان۔ اور اسی سے
ہے "ما لحقك من ذرك فعلی
تخلصہ جو تادان تمہارے اوپر ہوگا اس کی
ادانگی میرے ذمہ ہے۔

الدركہ درج۔ لیکن درك اور درجہ میں
فرق ہے۔ درك اترنے کی حالت میں اور درجہ
چڑھنے کی حالت میں۔ ج دركات کہا جاتا
ہے "الجهة درجات والناز دركات"

رجال الذرك من عامہ کو کنٹرول کرنے

والی فورس
الإذراك قوت مدرکہ۔

ذراک ہم فعل بمعنی اذرك
الذراک متصل۔ کہا جاتا ہے "سیر ذراک"

متصل سیر۔

الذراک غوب چیز کو پالینے والا۔

دراعی۔
الدراعة ج ذرايع و (المذرة) ج
مذراع: جبہ۔ کوٹ۔ والمذرة عند
اليهود نهار يهود کے پہننے کا کتاں کا ایک
کپڑا۔

ماء (مذرع و مذرع) پانی جس کے
قریب قریب کی چراگاہ چری گئی ہو۔ روضة
مذرة باغ جس کے اردگرد کوکھایا گیا ہو۔
المذرع غیر ایک قسم کا جانور۔
المذرة فواد سے ڈھکا ہوا جنگی جہاز۔
الذرف تھابہ سائبہ۔ جانب۔
الذرفة عند العامة: ذروانہ کا پت۔ فصیح

لفظ (الصفق) ہے۔
ذرفق واذرفق۔ فی سیر تیز چلنا۔
ذرقان ذرقاً۔ فی المشی تیز چلنا۔
ذرقم ذرقاً۔
الذرقس۔ سخت خواہ کوئی چیز ہو۔
الذرقاء بادل۔
الذرقہ چوڑے کی بنی ہوئی ڈھال جس میں
کڑی اور پھاند ہو۔ ج ذرف

الذراق ایک میوہ دار درخت۔ ایک قسم کا
میوہ۔ واحد ذراقۃ۔ شراب۔ (الذراق
والذریق والذریقان۔
الذراقن ذرو آلو۔ شتالو۔
الذورق بغیر ٹوٹی کے دو دستوں والا لوانا۔
ج ذوارق (معرب) الذورق غایب زاہد
لوگوں کی ایک قسم کی ٹوپی۔ اور اسی کی نسبت
سے سینے والے "الذورقون کہلاتے ہیں۔
ذوقل ذرقلة۔ الرجاء تیز گزرنا۔ ناچنا۔

ناز سے چلنا۔
الذرقادیک قسم کا ریشمی کپڑا۔
الذرقم بکار۔ مجال کا نام۔
ذرك۔ المظنونے درپے برستا۔
اذرك الشئ اپنے وقت پر پہنچنا
مچل کا پنا والذرق کے کا باغ ہونا الشئ
لاحق ہونا المسألة تیکھنا بشارتوں کا
بدلیما الشئ ببصرہ دیکھنا۔

گردن بلیا تھ کا جزو اکھاڑنا۔
ذرع۔ الزرع نکھت کا کچھ حصہ کھایا جاتا
الماء پانی کے قریب کی سب چیز کھائی جاتا۔
ذرعہ زرعہ پہناتا المرأة تمہیں پہناتا
گھوٹنا الشئ نکھا کرنا الرجل: چلنے میں
آگے بڑھنا۔

أذرع۔ الشهر آدم سے زیادہ گزرتا (و)
تذرع و اذرع ذرعہ پہننا۔ اذرع و اذرع
اللیل زرات کی تاریکی میں داخل ہونا۔
أذرع بھی چیز میں کسی چیز کو داخل کرنا۔
أذرع الماء پانی کے قریب کی سب چیز
کھائی جاتا۔

انذرع۔ فی السیر آدم سے بڑھنا۔ انذرع
يفعل كذا ذواہا کرنے کا العظم ہڈی کا
گوشت سے جدا ہونا البطن: پیٹ بھرنا۔
القمر من السحاب چاند کا بادل سے
نکلنا۔

الذرع زرعہ۔ مؤنث ہے کبھی مذکر بھی
استعمال کرتے ہیں۔ ج ذروع۔ و اذرع
و ذراع بضم ذریع۔ ذرع المرأة:
عورت کی قمیص یا وہ قمیص جس کو وہ گھریں
پہنتی ہے۔ (مذکر) ج اذراع اور ذرع اس
چھوٹے سے کپڑے کو بھی کہتے ہیں جس کو
چھوٹی لڑکی گھریں پہنتی ہے۔

الذرع من العشب تازہ گھاس۔
الذرع والذرع قمری مینے کی سولہویں،
ستر ہویں، اٹھارہویں راتیں۔ اس لئے کہ ان
راتوں کی ابتداء میں تاریکی اور بقیہ میں چاندنی
رہتی ہے۔
الذراع۔ فایزہ پہننے والا۔

الذراعۃ درخت خرما کی چھال کی مانند۔ ایک
چیز جس کو درخت خرما کے اردگرد لگا دیا جاتا
ہے۔ ج۔ ذرع۔
الذراعۃ مؤنث أذرع من اللیالی زرعہ

رات جس میں صبح کے وقت چاند نکلتا ہے۔ ج
ذرع۔

الذرعیۃ زرعہ کو چھوٹے والا تیز۔ ج

الدَّرْبُكَةُ بِمِثَالِ هَوَىٰ -

الاسْتِذْرَاكُ. سر کلام سابق سے جو وہم پیدا ہوا اس کو دور کرنا۔

رَجُلٌ مُدْرِكَةٌ. تیز اور اک کرنے والا۔ تاہم مبالغہ کے لیے ہے۔

مَذَارِكُ. الشرع: وہ نصوص جن سے ثبوت احکام ہو۔

المُدْرِكَاتُ وَالْمَذَارِكُ. حواس۔

الدَّرْبُكَةُ. اختلاط۔ بھیڑ۔ انہو۔

الدَّرْبُكَةُ. ایک قسم کا باج (مولدہ)

دَرْمٌ (س) دَرْمًا. العَضْوُ: گوشت سے

بڑی کا پوشیدہ ہونا۔ مَعْتٌ (دَرْمٌ وَ دَارِمٌ وَ

دَرِيمٌ وَ اَذْرَمٌ) السَّاقُ: ہموار ہونا۔

الْأَسْنَانُ: گرنا؛ مگرنے کے قریب ہونا۔

البعير: بے دانتوں والا ہونا۔

دَرْمٌ (ض) دَرْمًا وَ دَرْمًا وَ دَرْمَانًا

وَ دَرَامَةٌ. القَنْفُذُ وَالْأَزْبُ وَ حَوْهَمَا:

چھوٹے چھوٹے قدموں سے جلدی چلنا۔ اور

ایسا ہی "دَرْمُ الشَّيْخِ وَالصَّبِيِّ" بھی بولا

جاتا ہے۔

دَرْمٌ. أَظْفَارُهُ: ناخن کاٹنے کے بعد ہموار

کرنا۔

أَذْرَمُ. الصَّبِيُّ: دودھ کے دانت پلانا۔ مَعْتٌ

(أَذْرَمٌ) مَوْثٌ دُرْمَاءُ. الدَّرْمَاءُ:

خرگوش۔ سرخ پتوں والی ایک گھاس۔

دَارِمٌ مَذَارِمَةٌ. گرائی کے ساتھ ساتھ

جلدی چلنا۔

الدَّرْمَةُ. درم کا مَوْث۔ خرگوش۔

دِرْعٌ دَرْمَةٌ. چمکدار نرم زمرہ۔

الدَّرَامُ وَالذَّرَامَةُ. سیبی۔ خرگوش۔

الدَّرَامُ: پست قدم۔ بد رفتار۔ مَوْثٌ دَرَامَةٌ.

الدَّرِيمُ. پُرْغُوشَتٌ. نازک اندام خوبصورت

لڑکا۔

الدَّرْمَاءُ: سرخ پتوں والی انھوری

الدَّرَامَا: (لاطینی) ڈرامہ: یعنی کسی قصہ یا کہانی

کو شخصیات کے روپے پس نقل کرتے ہوئے

ذکر کرنا۔

دِرْعٌ (مُدْرَمَةٌ) چمک دار نرم زمرہ۔

المِذْرَامُ. میل کچیل میں تھمرا ہوا۔ ج مَذَارِيمٌ.

ذَرْمَسٌ. خاموش رہنا الشئی: چھپانا۔

ذَرْمَصٌ دَرْمَصَةٌ. خاکساری کرنا۔ فروختی

کرنا۔

الدَّرْمَقُ وَالذَّرْمَكُ. سفید آٹا۔ میدہ۔

ذَرْمَكٌ. دوڑنا البناء: ہموار و چمکدار بنانا۔

الدَّرْمَكُ نَمٌّ مِثْلِي.

الدَّرْمُوكُ غَالِجِي.

دَرْنٌ دَرْنَا. الثَّوْبُ: میلا ہونا۔

صفت (درن و مِذْرَانٌ) مَوْثٌ دَرْنَةٌ وَ

مِذْرَانٌ.

أَذْرَنُ. الثَّوْبُ: میلا کرنا الثَّوْبُ: میلا

ہونا۔ أَذْرَنَتِ السَّمَانِيَّةُ: پرانی خشک گھاس

چرنا۔

الدَّرْنُ. میل کچیل۔ ج أَذْرَانٌ. أُمُّ دَرْنٌ:

دینا۔

الدَّرْنَانُ. لومڑی۔

الدَّرِينُ. پرانی خشک گھاس جس کو جانور نہ

کھائیں۔ پرانا کپڑا۔ أُمُّ دَرِينٌ: قحط زدہ زمین۔

الدَّرْمُونُوكُ وَالذَّرْبِيكُ. غَالِجِي۔ قالمین۔ ج

ذَرَانِيكٌ.

دَرَةٌ (ف) دَرَهَا. عَلَيْهِمُ: ناگاہ آنا لہم وَ

عَنْهُمْ: مدافعت کرنا۔ دَرَةٌ عَلَيَّ كَذَا: زیادہ

کرنا۔

ذَارِهَاتٌ. الدهر: زمانے کے حواہٹ۔

النَّبْرَةُ. دفع۔ مدافعت۔ کہا جاتا ہے "هُوَ

ذُو نَبْرَةٍ" وہ دشمنوں پر اچانک ٹوٹ پڑنے والا

ہے۔

المِذْرَدُ. سرور۔ قوم کا نمائندہ۔ لِيَذْرَجَ

مَذَارَهُ.

ذَرِهْمَتٌ. النِّجْبَانِي: ورہم کی مانند گول

پتوں والی ہونا۔

إِذْرَهْمَةٌ. بڑی عمر والا ہونا۔ بڑھاپے کی وجہ

سے دانتوں کا گرنا۔ مَعْتٌ (مُدْرَهْمٌ)

البَصْرُ: نگاہ کا دم ہونا۔

الدَّرْهَمُ وَالذَّرْهَمُ وَالذَّرْهَامُ. چاندی کا

سکہ۔ ج ذَرَاهِمٌ (یونانی کلمہ ہے) مولدین کے

نزویک دراہم کا اطلاق مطلقاً فقو پر ہوتا ہے۔

المِذْرَهْمُ. بہت دراہم والا۔

الدَّرْوَيْشُ. راہب۔ عابد۔ زاہد۔ لفظ فارسی

ہے جس کے معنی فقیر کے ہیں۔

ذَرِيٌّ (ض) ذَرِيًّا وَ ذَرِيًّا وَ ذَرِيَّةٌ وَ ذَرِيَّةٌ

وَ ذَرِيَانَا وَ ذَرِيَانَا وَ ذَرِيًّا وَ ذَرِيَّةً. الشَّيْءُ وَ

بِالشَّيْءِ: حیلہ سے جاننا۔ (آخری مصدر، زیادہ

مستعمل ہے)

ذَرِيٌّ (ض) ذَرِيًّا وَ تَدْرِيٌّ وَ أَذْرِيٌّ.

الصَّيْدُ: دھوکا دینا۔ ذَرِيٌّ الرَّاسُ: مذری

سے سر کو کھلانا (دیکھیے مذری)

ذَارِيٌّ مَذَارِقَةٌ۔ ہاہم نرمی کرنا۔ فریب

دینا۔

أَذْرِيٌّ. الرَّجُلُ بَكَدًا: جلتانا۔ آگاہ کرنا۔

کہا جاتا ہے "مَا أَذْرَاكَ وَمَا يَذْرِيكَ" یعنی تم

نہیں جانتے۔

المِذْرِيٌّ وَالْمِذْرَاءُ وَالْمِذْرِيَّةُ. کنگھی۔

باریک سینگ جس سے عورتیں بالوں کو

درست کرتی ہیں۔ ج مِذْرَارٌ وَ مِذْرَارِيٌّ.

ذَرَزَةٌ (ن) ذَرَزًا. پلانا۔ دفع کرنا۔

دَسٌّ (ن) دَسًّا وَ دَسِيْسِيٌّ. الشَّيْءُ

تَحْتَ التُّرَابِ وَفِيهِ: دھنسانا۔ چھپانا۔

كَأَثْرًا. دَسٌّ عَلَيْهِ: حیلہ و مکر کرنا۔ سازش

کرنا۔

دَسَسٌ تَدَسِيْسًا. دھنسانا۔ چھپانا۔ تشدید

مبالغہ کے لیے ہے اور بجائے دَسَسِ کے

دَسِيٌّ کہا جاتا ہے جیسے بجائے تَطْنَنِ کے

تَطْنَنِيٌّ.

تَدَسَسٌ. بِهِ الِىْ اَعْدَانِهِ: حیلہ و مکر کرنا۔

سازش کرنا۔

إِنْدَسٌ. دھنسانا۔ دفن ہونا۔

الدَّسِيْسَةُ. خفیہ سازش و عداوت۔

الدَّسَّاسُ وَالذَّسَّاسَةُ. سرخ رنگ کا زہریلا

سانپ جو مٹی میں چھپا رہتا ہے۔ الدَّسَّاسَةُ:

سانپ کی چھتری۔ اور امثال سے ہے "العُرْقُ

دساس یعنی باپ کی عادتیں بیٹوں تک پہنچتی ہیں۔
الداسوس جاسوس۔

الدیسس وہ شخص جس کو خبر لانے کیلئے بھیجا جائے۔ وہ چیز جو مٹی میں دبا دی جائے۔
گرم راکھ میں بھونی ہوئی چیز۔ ج دسس:

الدیسس: ریاکار لوگ۔
المدس: زخم کی گہرائی تاپنے کا آلہ۔

الدست: حیلہ و فریب۔ مکان کا صدر حصہ۔

المجلس: مجلس۔ ہکیہ۔ کاغذ۔ لباس۔ بیابان۔ ج (دسوت) اور شطرنج کے کھیلنے میں بولتے ہیں

”الدست لئی“ یعنی میں غالب رہا۔ و
”الدست علی“ میں مغلوب ہو گیا۔ اور

عوام دست کا کلمہ دیگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
الدستجہ: دست۔ مٹھا۔ شیشہ کا برابر تن۔

ج دستاج۔
الدستور: مجموعہ قوانین۔ اجازت۔ وزیر۔

وہ کتاب جس میں آئین و قوانین ضبط کئے جائیں۔ وہ رجسٹر جس میں فوجیوں کے نام اور

ان کے وظائف لکھے جائیں۔ ج دستایر
الدستان: فی اصطلاح اصحاب

الموسیقی: بریلو کا نام۔ ج دستایتین
دسره (ن) دسرا: نیزہ مارنا۔ ہٹانا۔ دفع

کرنا۔
السفینة: رستی سے کشتی کے تختوں کو جوڑنا۔
الديسار فی الشی: زور سے گھمانا الشی:

میخ لگانا الجاریة: جماع کرنا۔
الديسار: کھجور کے ریشہ کی مانند ایک چیز جس

سے کشتی کے تختوں کو جوڑتے ہیں۔ میخ ج
دسرو دسرو۔

الدسراء: کشتی۔ ج دسرو۔
الدوسر: گیبوں میں کا ایک تلخ قسم کا دانہ۔

شیر۔ مونا اونٹ۔ و دوسر: نعمان بن منذر
شاہ عراق کی ایک فوج کا نام۔

الدوسر والدوسری: والدوسری
والدوسرائی: مولانا محبوب۔

دس (ف) دسعا: بھرنے کے لئے کرنا
بقینہ: بھرنے کرنا الاناء: بھرنے

العروق: رگ کا گوشت میں چھینا الرجل:
بہت دینا الشی: ہٹانا، دفع کرنا البعیر

جزئہ: چگالی کرنا۔
الدسیعة: بہت بخشش۔ طبیعت۔ بڑا پیالہ۔

وسیع دستر خوان۔ قوت۔ ج دساع
بعیر (دیسع) بہت چگالی کرنے والا اونٹ۔

المدسع: حلق کی نالی۔
دسق (س) دسقا: الحوض: پڑھنا۔

لہاب ہونا۔
أدسق: الاناء: بھرنے۔

الدیسق: بھرا ہوا حوض۔ چاندی کا اونچا۔
صاف چاندی کا زیور۔ لمبا راستہ۔ بڑھا مرد۔

خوبصورتی۔ نور۔ سفیدی۔ سراب کی سفیدی
اور اس کی چمک۔
الدوسک: شیر۔

الدسكرة: بڑا گاؤں۔ گرجا ہموار زمین۔ ایسا
مکان جس میں شراب اور کھیل کود کی چیزیں

ہوں۔ محل کی مانند عمارت جس کے ارد گرد
مکانات ہوں اور ان میں شاطر لوگ جمع ہوتے

ہوں۔ ج دساکو۔
دسم (ن ض) دشما: القارورة: ڈب

لگانا الباب: بند کرنا الجوج: زخم میں ہتی
رکھنا المطر الارض: کچھ کچھ تر کرنا

البعیر: قطران وغیرہ ملنا (دیکھئے قطران)
الانثر: منہ المرأة: جماع کرنا۔

دسم (س) دشما و دسومة: چربی والا
ہونا۔ صفت (دسم و ادسم) مؤنث

(دیسیمہ و دشما) ج دسم و دشم
(دسم و دشم) الشی: میلا ہونا۔ مثیلا

ہونا۔ و دشم الرجل: چمٹا ہٹ کی چیز کھانا۔
دشم: الشی: چربی والا۔ کالا کرنا المطر

الارض: تر کرنا۔
ادس: القارورة: ڈب لگانا

الدسم: کنارہ۔ کسی چیز کی انتہا کہا جاتا ہے
الاعلیٰ دسم الامر: میں کام کے خاتمہ پر

ہوں۔

الدسم: گوشت یا چربی کی چمٹائی۔ چربی کا
میل۔

الدسمة: فاکسٹری (والدسام) ڈب۔
کاگ۔ کہا جاتا ہے ”ماهو الأدسمة“ یعنی

اس میں نفع نہیں۔
الدیسم: ریچھ یا اس کا بچہ۔ لومڑی یا اس کا

بچہ۔ گھاس۔ تاریکی۔ سیاہی۔ کام کا ساتھی۔
مہربان۔

الدیسمة: زور۔
دسا یدسو دسوا و دسی یدسی دسیا۔

کم ہونا الرجل: پوشیدہ ہونا۔
دسی: الرجل: بگاڑنا۔ گمراہ کرنا نفسہ:

گمراہ کرنا۔
دش (ن) دشأ: دشیشہ (ایک قسم کا کھانا)

تیار کرنا الحب: نکتہ کو کچلانا۔
الدشیش: گیبوں کی مانند ایک نکتہ جس کو

مونا مونا پسیا جاتا ہے۔
الدشیشة: ایک قسم کا کھانا جس کا جزء اعظم

کوٹا ہوا گیبوں ہے۔
الدوشق: بڑا مکان۔ مونا اونٹ۔

الدشک: بچھونا۔
دشن (ن) دشنا: الشی: دینا۔

دشن: الشب: پہلی مرتبہ پنہنا۔
المعبد: برکت دینے کے لیے سب سے پہلی

مرتبہ نماز پڑھنا۔
تدشن الشی: لینا۔

الداشن: فا. الداشن من الشیاب: نیا
کپڑا جو ابھی استعمال نہ کیا گیا ہو من الذور: نیا

مکان جس میں ابھی کسی نے سکونت نہ کی ہو۔
دشا (ن) دشوا: لڑائی میں گھس پڑنا۔

دعہ: دھکارنا۔
دعہ (ن) دعأ: سختی سے دھکارنا۔ دھکے

دینا۔
ادع: الرجل: چھوٹے چھوٹے بال بچے والا

ہونا۔
لدعاع: چھوٹے چھوٹے بال بچے۔

الدَّعَاعُ: كجور کے متفرق درخت۔ ایک جنگلی درخت کے دانے۔ پروں والی سیاہ چوئیاں۔ واحد دُعَاعَةٌ۔

دُعْبَةٌ (ف) دُعْبًا وَدُعْبَانَةٌ: دفع کرنا۔ مزاج کرنا۔ خوش طبعی کرنا۔ (دُعْبًا) المرأة: جماع کرنا۔

دَاعِبُهُ مَدَاعِبَةٌ: کھیل کود کرنا۔ خوش طبعی کرنا۔ ہنسی مذاق کرنا۔

تَدَاعَبَ الْقَوْمُ: باہم ہنسی مذاق کرنا۔ تَدَعَبَ عَلَيْهِ: ناز کرنا۔

الدَّعْبُ وَالدَّاعِبُ: کھیل کود ہنسی مذاق کرنے والا۔

الدَّعَابُ وَالدَّعَابَةُ: بہت ہنسی مذاق کرنے والا۔ دُعَابَةٌ میں "تا" مبالغہ کی ہے، تانیث کی نہیں۔

الدَّعَابَةُ: ہنسی مذاق۔ سیاہ چوئی۔ بیوقوفی۔ الأَدْعَبُ: بیوقوف۔ مؤنث دُعْبَاءُ: ج دُعْبٌ۔

الدَّعْبُ: بہت کھیلنے والا۔ اچھا گانے والا۔ نازک بدن نوجوان۔

الدَّعْبُوبُ: سیاہ چوئی۔ ایک قسم کا سیاہ دانہ جو کھایا جاتا ہے۔ راستہ جس پر آمدورفت زیادہ ہو۔ پست قدمرد جس سے ٹھٹھا کیا جائے۔

شادمان۔ محنت۔ بیوقوف۔ لمبا گھوڑا۔ لَيْلَةٌ دُعْبُوبٌ: بڑی رات یا بہت کالی رات۔

الدَّعْبُوثُ وَالدَّعْبُوسُ: بیوقوف۔ کم عقل۔

الدَّعْبِيلُ: مینڈک کے اٹھے (والدَّعْبِيلَةُ) مضبوط اونٹنی۔

دَعَتَ (ف) دَعْتًا: سختی سے ہٹانا۔ دھکے دینا۔

دَعَتَ (ف) دَعْتًا: پاؤں یا ہاتھ وغیرہ سے مٹی پارک کرنا۔ دَعَتَ بِهِ الْأَرْضُ: پلک دینا۔

دَعَتْ: روگلنے کھڑے ہونا۔ سُسْتِي لَاتِحٌ ہونا۔

أَدَعَتْ فِي الشَّرِّ: بُرَائِي میں مبالغہ کرنا۔

الشَّيْءُ: باقی رکھنا۔ چوری کرنا۔

أَبْدَعْتُ الشَّيْءُ: روندانا۔

تَدَعَّثْتُ: صُدُّوْهُمْ: کینز رکھنا۔

الدَّعْثُ: س۔ مرض کی ابتداء۔

الدَّعْثُ: کینز۔ پانی کا بقیہ۔ ج أَدْعَاثٌ وَدَعَاثٌ۔

دَعْفَرٌ: الْحَوْضُ: ڈھانا لارض: روندنا۔ الدَّعْفَرُ: بیوقوف۔

الدَّعْفُورُ: مِنَ الْحَوْضِ: حوض جس کے چاروں طرف شکستہ ہو گیا ہو۔ گڑھا میں النعم: بہت چوپائے۔

دَعَجَتْ (س) دَعَجًا: العَيْنُ: آنکھ کا بہت سیاہ اور بڑی ہونا۔

أَدْعَجَ: بڑی اور بہت سیاہ آنکھوں والا۔ مؤنث دَعَجَاءُ: ج دُعْجٌ. الدَّعْجَاءُ: قمری مہینہ کی اٹھائیسویں رات۔

الدَّعْجَةُ: آنکھ کی سیاہی۔ مع وسعت کے۔ لَيْلٌ أَدْعَجٌ: تاریک رات۔

المَدْعُوجُ: مجنون۔ پاگل۔ دَعْرٌ (س) دَعْرًا: دھواں دینا اور نہ سلگنا۔ بوسیدہ ہونا۔ صفت (دَعْرٌ) الزَّنْدُ: آگ نہ دینا۔ صفت (أَدْعَرٌ)۔

دَعْرٌ (ف) وَدَعْرٌ (س) دَعَارَةٌ: الرَّجُلُ: بدکار ہونا۔

تَدَعَّرَ وَجْهَهُ: چہرہ کا بری طرح سے داغ دار ہونا۔ الرَّجُلُ: شریر ہونا۔ خبیث ہونا۔

الدَّعْرُ وَالدَّعْرَةُ وَالدَّعَارَةُ وَالدَّعَارَةُ: بُرَائِي۔ فسق۔ فساد۔

الدَّعَارَةُ وَالدَّعَارَةُ: بد خلقی۔

الدَّاعِرُ: فَاسِدٌ۔ شریر۔ خبیث۔ ج دُعَارٌ مؤنث۔ دَاعِرَةٌ: الدَّائِرَةُ: درخت خراجو گابھاندہ دیا جاسکے۔ ج مَدَاعِيرٌ۔

الدَّعْرُ: لکڑی کھانے والا کیرا۔ واحد (دَعْرَةٌ) رَجُلٌ (دَعْرٌ وَدَعْرَةٌ) ساتھیوں کے ساتھ خیانت کرنے والا۔

دَعْرٌ (ف) دَعْرًا: ہٹانا۔ دفع کرنا الجَارِيَةُ: جماع کرنا۔

دَعَسَ (ف) دَعْسًا: الشَّيْءُ: روندنا۔

الْوَعَاءُ: بھرا فلانا: دفع کرنا۔

(وَدَعَسَهُ) بِالرُّمْحِ: نیزہ مارنا المرأة: ذلیل و رسوا کرنا۔

دَاعَسَهُ مَدَاعَسَةً: باہم نیزہ بازی کرنا۔

الدَّعْسُ: س۔ نشان۔ طریفق دَعَسُ: بہت نشانوں والا راستہ۔

المَدْعَسُ: امید کی جگہ۔

المَدْعَسُ وَالمَدْعَاسُ: بہت آمدورفت کا راستہ۔ نیزہ۔ ج مَدَاعِيسُ وَ مَدَاعِيسُ: نیزہ مارنے والا۔

دَعَصَهُ (ف) دَعَصًا وَادْعَصَهُ: قتل کرنا۔ دَعَصَهُ بِالرُّمْحِ: نیزہ مارنا۔

دَاعَصَهُ: عزت میں مقابلہ کرنا۔

تَدَعَّصَ: اللُّحْمُ: گل سڑ کر ریزہ ریزہ ہونا۔ الدَّعْصُ: ج دِعْصَةٌ وَادْعَاصٌ وَ (الدَّعْصَةُ ج دَعْصٌ): ریت کا تودہ۔

المَدَاعِصُ: نیزے۔

الدَّعْصَاءُ: نرم زمین جہاں نسبت دوسری جگہوں کے گرمی زیادہ ہو۔

دَعَقَ (ف) دَعَقًا: الطَّرِيقُ: بہت روندنا۔ صفت مفعولی (دَعَقٌ وَدَعَقٌ وَمَدْعُوقٌ)۔

الْفَارَةُ: چاروں طرف لوٹ ڈالنا الماء: جاری کرنا الرَّجُلُ: فوراً مار ڈالنا (وَأَدْعَقَ) الخَيْلُ: ایزرگانا عَلَيْهِمُ الخَيْلُ: کسی قوم پر لوٹ ڈالنے کیلئے گھوڑوں کو لے آنا۔

دَعَقَ (س) دَعَقًا: الطَّرِيقُ: بہت آمدورفت والا ہونا۔

الدَّعْقَةُ: حملہ و جرح۔

الدَّعْقَةُ: اُونٹوں کا گلہ۔ بارش کی بوچھاڑ۔ المَدْعَقُ: پانی پینے کی جگہ۔

دِعْوِيَةُ الطَّيِّبُونَ: ایک چھوٹی چڑیا کا نام۔

خَيْلٌ (مَدَاعِيقٌ) لڑائی میں لوگوں کو کچلنے والے گھوڑے۔

دَعَكَ (ف) دَعَكًا: الثَّوْبُ: ملائم بنانا الخَصْمُ: نرم کرنا الجلدُ: ملنا الشَّيْءُ فِي

الضراب یعنی میں لوٹانا کہا جاتا ہے ”ذَعَكُ بِالْقَوْلِ“ اس نے اس کو سخت دست کہہ کر تکلف پہنچائی۔

ذَعَلَكَ (س) ذَعَكًا یہ قوف ہونا۔ صفت (ذَاعِكَ وَذَاعِكَ) مَوْتٌ (ذَاعِغَةً) کہا جاتا ہے ”فَلَانَ أَحْمَقُ ذَاعِغَةً“ فلاں یہ قوف ہے۔

ذَاعِغَةٌ مَذَاعِغَةٌ سخت جھگڑا کرنا۔ نال مثل کرنا۔

تَذَاعَكَ الْقَوْمُ: ہاہم سخت جھگڑنا۔ تَدَاعَوْا فِي الْخُرْبِ بِلِزَائِي مِّنْ هَاهُمْ زور آزمائی کرنا۔

الذَعْلُكَ سَخْتٌ جَهْلٌ وَالذَعْلُكَ كَمَنَامٍ كَزُورٍ۔ ایک قسم کا پرندہ۔

الذَعِغَةُ رَايَةُ الْبَرَايَةِ۔ المِذْعَكُ وَالمِذَاعِكَ سَخْتٌ وَدُشْنٌ۔

ذَعَلَّضْ (ذَعَلَّضٌ) ذَعْلًا وَهُوَ كَارِيَةٌ۔ ذَاعَلَهُ هَاهُمْ فَرِيْبٌ دِيْنَا۔

الذَاعِلُ فَاسْجَأْتَهُ وَالذَاعِلُ ذَعَلَجٌ ذَعْلَجَةٌ۔ اللُّيْلُ: تَارِيْكٌ هُوَ الشَّيْءُ الْبَسِيْءُ حِيْزُ كَرْمُوْنَ كَالْمَحْلُوِّ هُوَ الرَّجُلُ النَّارِبَارٌ آتَا جَانَا الشَّيْءُ لَمْ يَكُنْ هُوَ الذَّعْلَجُ: جَمْرِي هُوَ الْغَوْنُ۔ ہاہم لپٹی ہوئی نباتات۔ خوبصورت نازک بدن جوان۔

تَارِيْكِي۔ بھیریا۔ گدھا۔ اونٹنی جو ہانکنے سے نہ چلے۔ آنے جانے والے کا نشان قدم۔

ذَعَمَ (ف) ذَعَمًا الشَّيْءُ نَسْهَارًا دِيْنَا۔ يَكُ لَكَ نَاهُ فَهَدِيْنَا۔ قَوِي كَرْنَا۔

ادْعَمُ يَكُ لِيْنَا۔ تَدَاعَمَ الْاَمْرُ فَلَانَ جُؤْمٌ هُوَ

الذَّعْمَةُ جُ ذَعْمٌ وَ (الذَّعْمُ) جُ ذَعْمٌ وَ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔

الذَّعْمَةُ جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔

الذَّعْمَةُ جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔

الذَّعْمَةُ جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔

الذَّعْمَةُ جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔

الذَّعْمَةُ جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔

الذَّعْمَةُ جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔

سہارا لگا ہوا ہو۔ راستہ کا برا حصہ۔ فُوس (أَذْعَمُ وَذُعْمِي) سِينَةٌ مِّنْ شَقِيْدِي وَاللَّاهُوْرُ۔

المُدْعَمُ جَاءَ نَهًا۔ ذَعَمَ الصَّاءُ: بَهْتٌ سِيَاهُ كِيْرُوْنَ وَاللَّاهُوْرُ۔

الذَّعْمُوْنُ صِيَاهُ كِيْرَا جُو تَالِيُوْنَ مِّنْ پَانِي كَمُ هُوَ جَانِي پَر ظَاهِرُ هُوْتِي مِيْنِ اُوْر مَوَامِ اِس كُو (الذَّعْمُ) كِيْتِي مِيْنِ جُ ذَعَامِيصٌ وَذَعَامِيصٌ۔

ذَعَنَ (ف) ذَعَانَةً شَوْخٌ وَبِيَاكٌ هُوَ۔ الذَّعْنُ شَوْخٌ وَبِيَاكٌ جُ ذَعْنَةٌ۔

ذَعَانُ (ن) ذَعَاءٌ وَذُعُوِيٌّ هُوَ اِلَى الْاَمْرِ بِيْئِي رَغِيْبٌ كَرْنَا۔ مَدُّوْطَلْبٌ كَرْنَا هُوَ اِلَى الْاَمْرِ بِيْئِي كَامٌ كِي طَرَفُ لِي جَانَا بِهٖ نَاضِرُ هُوْنِي كُو كِهَانَا۔

ذَعَاهُ فَلَانًا وَبِفَلَانٍ نَامٌ رَهْنًا۔ المِيْتُ: مِيْنُ كَرْنَا (هٖ: ذُعُوَةٌ وَمَذَاعَةٌ) دُعُوْتُ كِهَانِي كِيْلِي بِلَانَا (ذُعَاءٌ) لِي نُوْمَا كَرْنَا عَلَيْهِ نَبْرُوْمَا كَرْنَا اِلَيْهِ بِيْئِي حِيْزُ كِي طَرَفُ بِلَانَا۔

ذَاعَاهُ مَذَاعَاهُ جَهْلًا كَرْنَا۔ ہاہم پھیل کرنا۔ الحَانِطُ كَرْنَا۔

أَذْعَاهُ اِذْعَاءً غَيْرُ بَابِ كِي طَرَفٍ مَنُوسٍ كَرْنَا۔ تَدَعَّتْ تَدْعِيًّا النَّارِحَةُ تُوْحُوْهُ كَرْنِي مِيْنِ آوَا زُو كُو بَلَدٌ كَرْنَا۔

تَدَاعَى: الْعَدُوُّ مَتُوْحُوْهُ هُوَ الْقَوْمُ: اِيْكٌ دُوْسَرِي كُو بِلَانَا۔ تَدَاعَوْا الشَّيْءُ: دُعُوِيٌّ كَرْنَا۔ تَدَاعَيْتِ الْجِيْطَانُ: سَخَلَتُوْهُ وَوِيْرَانُ هُوَا۔

الْقَوْمُ عَلَيْهِ وَغَشِي مِيْنِ مَشْفِقٌ هُوَا۔ اِنْدَعَى اِنْدِعَاءً: لِيْدَعُوْتِيْهٖ جُوَابٌ دِيْنَا۔ اِدْعَى: الشَّيْءُ حِيْنَ يَبْطُلُ كَارُ دُعُوِيٌّ كَرْنَا۔

بِهٖ اِنْبِي طَرَفٍ نَسْبٌ كَرْنَا عَلَيْهِ مَقْدِمَةٌ كَرْنَا اِلَى غَيْرِ اِنْبِيْهٖ: نَابٌ كِي عِلَاوَةً دُوْسَرِي كِي طَرَفٍ مَنُوسٍ هُوَا الشَّيْءُ: تَمْنَا كَرْنَا اِدْعَى فِي الْحَرْبِ: حَرِيْفٌ كِي سَانِي اِنْبَانَا م وَ نَسْبٌ پَرِيْشٌ كَرْنَا۔

الذَّعْمَةُ جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔

الذَّعْمَةُ جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔

الذَّعْمَةُ جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔

الذَّعْمَةُ جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔

الذَّعْمَةُ جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔

الذَّعْمَةُ جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔

الذَّعْمَةُ جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔

الذَّعْمَةُ جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔

الذَّعْمَةُ جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔

اِسْتَدْعَاهُ اِسْتَدْعَاءً: يَكْرَاهُ الشَّيْءُ: طَلْبٌ كَرْنَا۔

الذَّعْمَةُ جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔

الذَّعْمَةُ جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔

الذَّعْمَةُ جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔

الذَّعْمَةُ جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔

الذَّعْمَةُ جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔

الذَّعْمَةُ جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔

الذَّعْمَةُ جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔

الذَّعْمَةُ جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔

الذَّعْمَةُ جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔

الذَّعْمَةُ جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔

الذَّعْمَةُ جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔

الذَّعْمَةُ جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔

الذَّعْمَةُ جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔

الذَّعْمَةُ جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔

الذَّعْمَةُ جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔

الذَّعْمَةُ جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔

الذَّعْمَةُ جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔

الذَّعْمَةُ جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔

الذَّعْمَةُ جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔

الذَّعْمَةُ جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔ (الذَّعْمَةُ) جُ ذَعْمٌ۔

وَعَرَّ الشَّيْءُ فِي الشَّيْءِ: ملانا ہ: بھیج کر مار ڈالنا فی البیت: داخل ہونا۔ علیہ:

اچانک آنا۔

دَغْرًا (دغرا) الرَّجُلُ بَدَلَ قَلْبٍ وَكَيْدًا ہونا۔ صفت (داعرا)

دَغْرًا (دغرا) دَغْرًا وَدَغْرًا: عَلِيْهِمْ:

لوگوں پر اچانک بھیج جانا۔

إِنْدَغْرًا (دغرا) عَلِيْهِمْ: اچانک آنا۔

الدَّاعِرُ وَدَوِيلٌ: حَقِيرٌ غَبِيْثٌ مُسَدِّدٌ۔

الدَّغْرَةُ كَسَى بِحِزِّ كَوَاجِبِكُمْ كَرَلَيْتُمْ۔

الْمَدَغْرَةُ كَمَهْصَانِ كِيْطِكُمْ۔

دَعَشًا (دعش) دَعَشًا وَادْعَشًا: تَارِيْجًا

میں داخل ہونا۔ دَعَشًا عَلِيْهِمْ: اچانک آنا۔

دَاعِشَةٌ: بِيْهِيْزٌ كَرْنَا حَوْلَ الْمَاءِ: نِيَّاسٌ كِي

وَجْهٍ سَ بَانِي كَيْ كَرْدَمَنْدَلَانَا الْمَاءُ: تَجَلْدِي بِيْنَا

فِي الشَّيْءِ كَسَى بِحِزِّ كَوَاجِبِكُمْ كَرَلَيْتُمْ۔

سے کر کے طلب کرنا ظَلْمَةُ اللَّيْلِ نَزَات

كِي تَارِيْجِي مِيں بِيں بِيغِيْر كَسَى سُسْتِي كَيْ چَل پڑنا۔

تَدَاعَشَ الْقَوْمُ (دغوشوا) آپس میں

گتے جانا۔

الدَّعْشُ وَالدَّعْشَةُ وَالدَّعِيشَةُ: تَارِيْجِي۔

دَغِصْرًا (دغصرا) دَغِصًّا: خَوْرَاكٌ يَأْغَمُّ سَ

بھرتا۔

دَاعِصٌ مَدَاعِصَةٌ: فِي الْعَمَلِ: جَلْدِي

کرانا۔

أَدَغِصَّةٌ: عُصَّةٌ سَ بھر دینا۔

أَدَغِصَّةٌ: الْمَوْتُ خَوْرَا مَوْتٌ كَا آنا۔

الدَّاعِصَةُ: كَهْفِي كِي چوٹی۔ عوام اس کو

صَابُوْنَةُ الرَّوْحِيَّةِ کہتے ہیں۔ گٹھا ہو گوشت۔

رَقِيْبٌ: بَانِي: ح ذَوَاعِصٌ۔

الدَّعِصَانُ: غَضَبِيْنَاكٌ۔

دَعَفًا (دعفا) دَعَفًا: الشَّيْءُ: سَخْتِي سَ

کھڑتا۔ دَعَفَهُمُ الْحَوْرُ: مَرِي كَا زِيَادَةٌ ہونا۔

أَبُو الدَّعْفَاءِ: بِيُوْتَفٌ۔

الدَّعْفَلُ: ہاتھی یا بھیرے کا بچہ۔ بہت سے

عِيْشٌ دَعْفَلِيٌّ: آسودہ زندگی۔ عام

دَعْفَلِيٌّ: نَمْرُ سَبْزِ سَالٍ۔ فَرَاغِي كَا سَالٍ۔

دَغْلًا (دغلا) فِيْهِ: مِتْمَمٌ كِي طَرَحٌ

داخل ہونا۔

أَدَغْلٌ: الرَّجُلُ: دَرَحْتُوں كَيْ جَهْدٌ مِيں

داخل ہو کر چھپ جانا الْأَرْضُ: مَتْمَمَانٌ

دَرَحْتُوں وَآلِي ہونا بِيْهِيْزِيْنَا كَر كَيْ اچانک مار

ڈالنا۔ چغل خوری کرنا الشَّيْءُ: نِتَابٌ كُنْ حِيْزٌ مَلَا

دینا۔

الدَّعْلَجُ: أَدْعَالٌ وَدِعْجَالٌ (الدغيلة)

دَرَحْتُوں كَا جَهْدٌ: فَسَادٌ وَتِيَابِي: خَوْفٌ وَهَلَاكَةٌ

كِي جگہ۔

مَكَانٌ (دغیل) مَتْمَمَانٌ دَرَحْتُوں وَآلِي جگہ۔

پوشیدہ۔

الدَّاعِلَةُ: بَاغِيْبِي كِي۔ كَسَى كَيْ عِيُوْبٌ وَخِيَانَةٌ

تَلَاشٌ كَرْنِي وَآلِي لُوْكَ۔

الدَّعَاوِلُ: مِصِيْبَتِيْنِ (جَمْعٌ بِيْغِيْر وَآلِي كَيْ)

الْمَدْعَلُ: وَآلِي كَا دَرَمِيَانِي صَدِّجٌ مَدَاعِلٌ۔

دَعْمَهُمْ وَدَعْمَهُمْ (دعس) دَعْمًا

وَ دَعْمَانًا: الْحَرُّ أَوْ الْبُرْدُ: مَرِي يَأْسُدِي كَا

پڑنا دَعْمٌ أَنْفَهُ: تَوْرَانٌ۔ دَعْمٌ الْإِنَاءُ:

دُخَانِيْنَا۔

أَدْعَمٌ: اللَّهُ فَلَانًا: نِسَاءٌ وَكَرْنَا: ذَلِيلٌ كَرْنَا۔

أَدْعَمَهُمُ الْحَرُّ أَوْ الْبُرْدُ: مَرِي يَأْسُدِي كَا

پڑنا۔

الْفَرَسُ اللَّحَامُ: كَامٌ لَكَانَا: أَدْعَمَةٌ

الشَّيْءُ: مَتْمَمَانٌ كَرْنَا: أَدْعَمُ الرَّجُلُ: مَقْرٌ كُو

بِيغِيْر چبائے ہوئے لگانا۔ (وَأَدْعَمُ) الشَّيْءُ فِي

الشَّيْءِ: اِيْكَ حِيْزٌ كُو دُوسَرِي مِيں دَآخِل كَرْنَا۔

اسی سے صرفیوں كِي اصطلاح ادغام (ایک حرف

دُوسَرِي حَرْفٌ مِيں شَامِل كَرْنَا) ہے۔

إِدْغَامٌ: الْفَرَسُ (أَدْعِمَانًا) بِيْغِيْر جَسْمٍ سَ

مُنْ كَا زِيَادَةٌ سِيَاهِي مَالِكٌ ہونا۔ صفت (أَدْعَمُ)

الدَّعْمُ وَالدَّعْمَةُ: گھوڑے کا رنگ جس کا

مُنْ بَاتِي جَسْمٍ سَ زِيَادَةٌ سِيَاهِي مَالِكٌ ہونا۔

الْأَدْعَمُ: كَالِي نَاكٌ وَالْآلِي نَاكٌ مِيں بولنے والا۔

ح دُعْمٌ۔

الدَّعْمَامُ: حَلَقٌ كَادِرٌ۔

دَعْمَرَةٌ: دَعْمَرَةٌ: عِيْبٌ لَكَانَا: الشَّيْءُ:

مَلَانَا: الرَّجُلُ بَدَلَ قَلْبٍ ہونا۔

الدَّعْمَرِيُّ وَالدَّعْمَرِيُّ: بَرٌّ بِيْجَلِي طے

جَلِي اخلاق والا۔ رَجُلٌ (دَعْمَرٌ) مَرْدٌ

بَدْحُو۔

الدَّعَامُ: قَوْمٌ كَيْ گھٹیا درجہ کے لوگ۔

دَقْفٌ (دق) دَقًّا وَدَقِيْفًا: آہستہ چلنا۔ لَهْ

الْأَمْرُ: تِيَارٌ ہونا۔ مَمْكُنٌ ہونا الطَّائِرُ: پَرٌّ

پھڑ پھڑانا۔

دَقْرَضٌ (دقراض) دَقًّا: الشَّيْءُ: نَجِسٌ أَيْ كَيْفَرْنَا۔

دَقْفٌ وَدَقْفٌ: جَلْدِي كَرْنَا۔ دَقْفٌ

الْحَرِيْجُ وَدَقْفُهُ وَدَقْفٌ عَلِيْهِ: پُورِي طَرَحٌ

سَ فُورًا مَار ڈالنا۔ وَدَقْفُ الرَّجُلِ: وَفٌ

بجانا۔

أَدَقَّتْ إِذْفَافًا: الطَّائِرُ: نِزْرٌ پھڑ پھڑانا۔ أَدَقَّتْ

عَلِيْهِ: الْأُمُورُ: نِيْبَةٌ دَرِيْپَةٌ آنا۔

(وَتَدَافٌ) الْقَوْمُ: نِيْكٌ دُوسَرِي كَيْ بِيْجِي

سوار ہونا۔ اِسْتَدَفٌ: الطَّائِرُ: زَمِيْنٌ كَيْ

قَرِيْبٌ أَرْنَا الْأُمُورُ: رَسَتْ ہونا۔ پورا ہوجانا۔

الرَّجُلُ بِالْمُوسَى: مَسْرَعٌ سَ مَوْتِدَانٌ۔

الدَّفُّ: مَرٌّ: ہر چیز کا پہلو۔ کہا جاتا ہے ”زَمَاهُ

اللَّهُ يَذَاتِ الدَّفِّ“ اللہ اس کو نمونیا میں مبتلا

کرتے۔

(الدَّفُّ) اِيْكَ قَسْمٌ كَيْ بَاجٌ كَا نَامٌ۔ ح

دُفُوْفٌ۔

الدَّفْقَةُ: ہر چیز کا پہلو۔ دَقْنَا الطَّبْلُ: تُوْهُولٌ

كَيْ دُونُوں طَرَفِ كَيْ چڑے۔ چوار (آخِر مَعْنَى

مِيں كَلْمٌ مَوْلَدٌ ہے۔ اس كَيْ لِيْ فَسْحٌ لَفْظٌ

السُّكَّانِ) ہے۔

الدَّافَةُ: دُغْنٌ كِي طَرَفٌ مَارِجٌ كَرْنِي وَآلِي

فُوجٌ۔ لُوْگوں كِي جَمَاعَتٌ جُو اِيْكَ شَہْرٌ سَ

دُوسَرِي شَہْرٍ مِيں مَتْمَمَانٌ ہوتی رہے۔

الدَّقَافُ: وَفٌ: بَجَانَةٌ وَالْآلِي: دَفٌ بِنَانَةٌ وَالْآلِي۔

اقْرَبُ الْمَوَارِدِ مِيں جُوآلٌ لِسَانُ الْعَرَبِ

ہے کہ دَقَافٌ مَالِكٌ دَفٌ كُو مُدَقَّفٌ بِنَانَةٌ

وَآلِي كُو اُوْرٌ مُدَقَّفٌ: بَجَانَةٌ وَآلِي كُو كَقِيْتَةٌ

ہیں۔

الدَّقُوفُ: مِّنَ الطَّيْرِ: كَسَى حِيْزٌ پَرٌّ تُوْتٌ

پڑتے وقت زمین سے قریب ہونے والا پرنہ۔
دَفِيٌّ يَدْفَأُ دَفَاً وَدَفُوعًا وَدَفُوٌّ يَدْفُؤُ
دَفَاعَةً. مِنَ الْبُرْدِ: گرم ہونا۔ گرمی محسوس
 کرنا۔
دَفَاةٌ: گرم کرنا۔
أَدْفَاةٌ: گرم کپڑا پہنانا۔ بہت دینا۔ گرم کرنا
الْحَرِيحُ: نورانہاراؤں القوم: جمع کرنا۔
تَدَفَّأَ وَإِدْفَاً وَاسْتَدْفَأَ: گرم کپڑا پہنانا۔ گرم
 ہونا۔
الدَّفَا: سخت گرمی۔ جِ دَفَاءً. اونٹوں کی
 پیداوار اور جو اس سے نفع حاصل ہو۔
عَطِيه دَفَا الْحَانِطُ: دیوار کی اوٹ۔ کہا جاتا
 ہے ”أَقْعِدَ فِي دَفَاءِ الْحَانِطِ“ وہ دیوار کی
 اوٹ میں بٹھایا گیا۔ گرم کپڑے۔ گرمی حاصل
 کرنے کا سامان۔ تم کہتے ہو ”مَا عَلَيْهِ دَفَاءٌ“
 اس پر گرمی حاصل کرنے کا کوئی سامان نہیں۔
الدَّفَا: سر کندھے کا سینہ کی طرف جھکانا۔
الدَّفَاءُ: گرمی حاصل کرنے کا سامان۔ (کپڑا
 وغیرہ)
الدَّفِيُّ الدَّفِيُّ: گرمی حاصل کرنے والا۔
 گرم کپڑے پہننے والا۔ مؤنث **دَفِيَّةٌ وَدَفِيْنَةٌ.**
الدَّفِيَّةُ مِنَ الْأَرَاضِي: گرم زمین۔
الدَّفَانُ: گرمی حاصل کرنے والا۔ مؤنث
دَفَايُ.
الْأَدْفَا: وہ شخص جس کا کندھا سید کی طرف
 جھکا ہوا ہو۔ مؤنث **دَفَايُ.** الأَدْفَاءُ: مرد خیمہ
 نشین۔
أَرْضٌ (مَدْفَاةٌ) غَرْمٌ زَمِينٌ:
إِبِلٌ (مَدْفِينَةٌ وَمَدْفَاةٌ وَمُدْفِقَةٌ وَمَدْفَاةٌ)
 بہت اون اور چرلی والا اونٹ۔
الدَّفْتَرُ: رجز۔ کاپی۔ رخ قاتر۔
دَفْرَةٌ (ن) دَفْرًا: سینہ میں مار کر ہٹانا۔
دَفِرٌ (س) دَفْرًا وَدَفْرًا: ذلیل ہونا۔
اللَّخْمُ: کیزے پڑنا لشی: بدبودار ہونا۔
صَفْتٌ (دَفِرٌ وَأَدْفَرٌ): مؤنث۔ **دَفِيرَةٌ**
وَدَفْرَاءُ: کھینچنے والے دَفْرَاءُ: لشکر جس سے
 لوہے کے زنگ کی بو آئے۔

أَدْفَرُ. الرَّجُلُ: تیز گندہ بغل ہونا۔

الدَّفِرُ: س۔ بدبو۔

دَفَارٌ: مَبْنِيٌّ عَلَى الْكُفْرِ بَرُوزٌ قَطَامٌ:

لوٹری (یہ کلمہ لوٹری کے لیے گالی کے موقع پر
 کہا جاتا ہے۔ اور اکثر نداء کے موقع پر آتا ہے)

الدَّفْرَانُ: صنوبر کی ایک قسم

دَفَعَهُ (ف) دَفَعًا وَدَفَاعًا وَمَدْفَعًا: ہٹانا۔

دور کرنا۔ **دَفَعَهُ فِي كَذَا:** داخل کرنا۔

إِلَيْهِ الشَّيْءُ: ادا کرنا قول: دلیل سے باطل

کرنا۔ **إِلَى كَذَا:** مجبور کرنا **عَنْ الْأَدَى:**

پہچانا۔ محفوظ کرنا **عَنِ الْمَوْضِعِ:** کوچ کرنا۔

چھوڑنا **إِلَيْهِ:** پہنچنا۔ کہا جاتا ہے ”طَرِيقٌ يَدْفَعُ

إِلَى مَكَانٍ كَذَا“ راستہ جو فلاں جگہ تک پہنچتا

ہے۔

دَفِعَ إِلَى الْمَكَانِ: پہنچانا۔

دَافِعَةٌ مَدْفَعَةٌ وَدِفَاعًا: مزاحمت کرنا **عَنْهُ:**

حمایت کرنا۔ مدد کرنا **عَنْ الْأَدَى:** ہٹانا، دور

کرنا۔ **دَافِعَةٌ عَنْ حَقِّهِ:** نال منول کرنا۔

تَدَفَّعَ السَّيْلُ: زور سے بہنا۔

انْدَفَعَ السَّيْلُ: زور سے بہنا **الْفَرَسُ فِي**

سَيْرِهِ: تیز دوڑنا **الرَّجُلُ فِي الْحَدِيثِ:**

بات چیت میں مشغول ہونا۔ **انْدَفَعَ يَقُولُ:**

کہنے لگنا **انْدَفَعَ الرَّجُلُ:** ہٹنا۔

تَدَفَّعَ الْقَوْمُ: ایک دوسرے کو ہٹانا۔

تَدَفَّعُوا الشَّيْءَ: ہر ایک کا دوسرے کے

ذمہ ڈالنا۔ کہا جاتا ہے ”ضَيْفٌ يَتَدَفَّعُهُ

الْحَيُّ“ مہمان جس کو قبیلہ کے لوگ ایک

دوسرے کے ذمہ ڈالتے ہیں۔

اسْتَدْفَعَ اللَّهُ الشَّرَّ: شر کو ہٹانے کی دعا

کرنا۔

الدَّفْعَةُ: دفع کا اسم مرہ۔

الدَّفْعَةُ: بوجھار۔ برتن یا مشک سے جتنا ایک

مرتبہ گرے۔ **تَدَفَّعَ وَدَفَّعَاتٍ:**

الدَّوْفَاعُ: نشیب زمینیں جہاں سیلاب کا پانی

جمع ہو جائے۔

الدَّفْوَعُ: بہت ہٹانے والے **الدَّوَاب:**

لات مارنے والا۔

الدَّفَاعُ: بہت دفع کرنے والا۔

الدَّفَاعُ: ملک اور اس کی سرحدوں کی حفاظت

بری بجزی اور فضائی ذرائع سے کرنا۔

الدَّفَاعُ: موج یا سیلاب کا زور۔ بہت لوگ۔

کہا جاتا ہے ”جَاءَ فِي دَفَاعٍ مِنَ النَّاسِ“ وہ

بہت لوگوں میں آیا۔

الْمَدْفَعُ: پالی پہننے کی جگہ۔ جِ مَدْفَعٍ:

الْمَدْفَعُ: وہ اوزار و ہتھیار جن کے ساتھ ہم

پہننے جاتے ہیں۔ ان میں سے چند درج ذیل ہیں

مَدْفَعٌ: توپ۔ **مَدْفَعَةٌ مَضَادَّةٌ لِلطَّائِرَاتِ:**

طیارہ شکن توپ۔ **مَدْفَعُ الدَّرِي:** ایتیم بم

پھینکنے کا میز۔ **اَسْلِحٌ قَادِفٌ الصَّوَارِيحِ:** راکٹ

گرانے والا۔

الْمَدْفَعُ: ہٹانے کا اوزار۔ توپ۔ جِ مَدْفَعٍ:

الْمَدْفَعُ: بہت دفع کرنے والا۔

الْمَدْفَعُ: ہر جگہ سے دھتکارا ہوا فقیر۔

دَفَّقَ (ض) دَفَقًا: المَاءُ: زور سے گراتا

اللَّهُ رُوحَهُ: موت دینا **الْكُوْزُ:** گرا کر خالی

کر دینا۔

دَفَّقَ (ن) دَفَقًا وَدَفُوقًا: المَاءُ: گرتا

النَّهْرُ: بھر کر بہنا (جمہور کے نزدیک اس کا

استعمال صرف متعدی ہی کی صورت میں ہوتا

ہے۔)

دَفَّقَ: دَفَقَ کا مبالغہ۔ کہا جاتا ہے ”دَفَّقَتْ

كَفَّاهُ الْعَطَاءُ“ یعنی اس کے دونوں ہاتھوں

نے بہت زیادہ بخشش کی۔

أَدْفَقَ الْكُوْزُ: گرا کر خالی کر دینا۔

تَدَفَّقَ وَاسْتَدَفَّقَ: المَاءُ: گرتا **الدَّابَّةُ:** تیز

دوڑنا۔ کہا جاتا ہے ”فَلَانٌ يَتَدَفَّقُ فِي

الْبَاطِلِ“ فلاں باطل میں بہت کرتا ہے۔

انْدَفَقَ وَاسْتَدَفَّقَ: المَاءُ: گرتا۔

الدَّفْقَةُ: ایک دفعہ۔ یکبارگی۔ کہا جاتا ہے

”جَاءُوا دَفْقَةً“ وہ سب یکبارگی آگئے۔

سَيْلٌ دَفَاقٌ: بہت زیادہ سیلاب جو وادی کے

دونوں کناروں کو بھر دے۔

الْأَدْفَقُ: ٹیڑھا فکر یا بڑھاپے کی وجہ سے

خمیدہ کر۔ **سَيْرٌ أَدْفَقٌ:** تیز چال۔ مؤنث

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<p>”اخذت دِفَه وجلد میں نے قلیل و کثیر حُمَى الدَّقْنِ کا بخار۔ سب لے لیا۔ الدَّفَقَةُ دَقَّاس مَرَّة۔ الدَّفَقَةُ تُوْنَنے کی ہیئت۔ حَسَب۔ چھوٹائی۔ باریکی اور اسی سے ہے ”دِفَةُ الْمَعَانِعِطَانِ کی باریکی۔ الدَّفَقَةُ بَارِيکِ خَاکے۔ مَصَالِحے۔ نَمک۔ رَضِيَا۔ خَرِيصُوْرِي۔ الدَّفَقَةُ پُورہ۔ آنا (وَالدَّفَقَةُ بَارِيکِ خَاکِ جِس کو ہوا اُڑائے۔ دَقَّاقُ الْعِيْدَانِ وَدَقَّقَاهُمْ پھینکا۔ الدَّفِيْقُ بَارِيکِ۔ آنا۔ مُشْکَلِ مُجَالِدِ۔ أَدَقَّةٌ وَاِدْقَاعٌ مُوْنَثٌ دَقِيْقَةٌ۔ تھوڑا۔ رَجِ الدَّقِيْقَةُ دَقِيْقٌ کَا مُوْنَثٌ۔ مُنْثٌ۔ دَرَجِ کَا الدَّقِيْقَةُ دَقِيْقٌ کَا مُوْنَثٌ۔ مُنْثٌ۔ دَرَجِ کَا سَاْمُوْا حَصَّة۔ رَجِ دَقَّاقِيْنِ الدَّقِيْقَةُ: بَرِيَاں۔ کتے ہیں ”حَمَّ دَقِيْقَتُكَ“ مہماری بَرِيَاں کتنی ہیں؟ الدَّقَّاقِيْبِتِ کُوْنَنے والا۔ آنا پھینچنے والا۔ الدَّقَّاقِيْبِتِ کُوْنَنے کَا اُوْزَار۔ المَدَّقُ وَالْمَدَّقُجُ مَدَّقٌ (وَالْمَدَّقَةُ) کُوْنَنے کَا اُوْزَار۔ المَدَّقَةُ مَدَّقِيْبِتِ۔ بَارِيکِ کُوْنَا ہوا گوشت۔ المَدَّقُوْقِي دَق کے بخار والا۔ المَدَّقُوْقِيُوْنُوْنِ کِي اِيکِ دَرْمِيَانِي تَم۔ مُوْنَثِ کَا عَضُوْتِي سَل۔ مُسْتَدَقٌ السَّاعِلِي کَا پَتْلَا حَصَّة۔ مُسْتَدَقٌ کُلِّ شَيْءٍ زِيَادَة بَارِيکِ وَ پَتْلَا حَصَّة۔ دَقَّقُ النَّاسُ شُوْرَ جَانَا۔ الدَّوَابُّ نَمِ کِي آوَا ز سَا لِي دِيْنَا۔ دَقَّقُوْنِ (دَقَّقُوْنِ) دَقُّوا لِحَمِّ سِيْرِ هُوْنَا الْمَكَانُ: سَبْزِ زَارِ هُوْنَا النَّبَاتُ زِيَادَة هُوْنَا۔ الرَّجُلُ حَمِّ زِيَادَة کِي وَجْه سے مُنْثُ کَرْنَا۔ الدَّقْرُ وَالذَّقْرَةُ وَالذَّقِيْرَةُ وَالذَّقْرِيُّ سَر سَبْزِ وَ خُوْبِيُوْرِي بَاغ۔ أَرْضٌ (دَقْرَاعٌ) سَبْزِ وَ نَمَاکِ زَمِيْن۔ الدَّقْرُ الْكَبْرِيُّ جِس پَر اَنگُوْرِ کِي تِيْلِ چُرْحَانِي</p>	<p>المدققون نے کی جگہ۔ الدَّفَقِسُ وَالدَّفَقَسُ كَمِيْنَةُ وَ يُوْتُوْفُ۔ بَجَل۔ مِنِ النَّسَاءِ: يُوْتُوْفُ۔ بَهَارِي جِسْمِ كِي عَوْرَت۔ الدَّفَافَةُ مَسَاْفِر۔ دَقَّوْا وَدَافِيْ مُدَافَاةٌ وَادْفِيْ دَقَّوْا (رَجُلٌ) اِدْقَاءُ۔ الْجَوْنِيْحُ فُوْرًا مَارُ ذَا نَا۔ وَادْفِيْ الطَّبِي لَمَّ سِيْكُوْنِ وَالَا هُوْنَا۔ تَدَافَاةٌ تَلَاوِي كَرْنَا۔ الدَّفَاخِيْدِي كِي۔ الْاَدْفِي حَمِيْد۔ مُوْنَثٌ دَقَّوْا۔ طَانِي أَدْفِي لَمَّ بَارُوْدُوْنِ وَالَا پَر نَمَد۔ نَاقَةٌ دَقَّوْا: لَبِي گَرُوْنِ وَالِي اُوْشِي۔ شَجْرَةٌ دَقَّوْا عُبُوَا رُوْحَت۔ عَقَابٌ دَقَّوْا عُنْبُوْرِي چُوْجِ وَالَا عَقَاب۔ دَقَّقُوْنِ (دَقَّقُوْنِ) دَقَّةٌ بَارِيکِ هُوْنَا۔ چھوٹا ہونا۔ دَقِيْقٌ وَرَشُوْرٌ هُوْنَا۔ دَقَّوْا. الشَّيْءُ فُوْرًا الْمَبَابُ: دَقَّنِ (رَجُلٌ) الشَّيْءَ تَلَاوِي كَرْنَا الشَّيْءَ عَلٰی الشَّيْءِ كَلْمَا نَا الشَّيْءَ تَلَاوِي كَرْنَا الشَّيْءَ عَلٰی الشَّيْءِ اَوْ بِالشَّيْءِ زِيَادَة۔ دَقَّقِ الشَّيْءَ بَارِيکِ كَرْنَا۔ آنا کَرْنَا فِی الْحِسَابِ وَغِيْرَ بَارِيکِ بِنِي سَعَامِ لِيْنَا۔ اِدْقَةٌ اِدْقَاقًا بَارِيکِ كَرْنَا ”الرَّجُلُ ثَمْرِي دِيْنَا۔ كَمَا جَاتَا هُوْنَا“ اَتِيْتَهُ فَمَا اَدْقِي وَلَا اَجَلِي فِي اَسْ كِي بَاسِ آيَا تُوْسُ نَعْنُوْنَا تھوڑا ديانے زيادہ۔ اَدْقِي الرَّجُلُ جَلِّ كِي وَجْه سے معمولی چیز کے چھپنے پڑنا۔ دَقَّقْتَهُ اِدْقَاقًا مَدَافَةً الْحِسَابِ فِی الْحِسَابِ سَبْزِي سَعَامِ جَانَا كَرْنَا۔ اِنْدَقْتُ اِنْدَقَاقًا بَارِيکِ هُوْنَا۔ اِنْدَقْتُ عُنْقَتِي زِيَادَة۔ تَدَاقُ الرَّجُلَانِ زِيَادَة کِي مِيْنِ مُقَابِلَةِ كَرْنَا۔ اِسْتَدَقْتُ اِسْتَدَقَاقًا پَتْلَا وَ بَارِيکِ هُوْنَا۔ اُوْر اِسی سے ہے ”اِسْتَدَقْتُ الْهَلَالَ“ ہلال بَارِيکِ ہے۔ الدَّقُّ بَارِيکِ تھوڑا۔ اُوْر اِسی سے ہے</p>	<p>دفعاء۔ الدَّفَقِيُّ تِيْرٌ حَال۔ كَمَا جَاتَا هُوْنَا ”مَشِي الدَّفَقِيُّ تِيْرٌ حَال۔ كَمَا جَاتَا هُوْنَا (وَالدَّفَقَةُ تِيْرٌ رَقْمًا اُوْشِي يَاهُوْرًا۔ الدَّفَقُ لِقَطْرَانِ (دِيكِنے قَطْرَانِ) زَفْتِ (اِيكِ) دُوَا كَانَامِ كَثِيْر۔ الدَّفَقِيُّ تِيْرٌ۔ اِيكِ بَهَامَتِ كِي زَوْدِيكِ الْفِ الْحَاقِ كَا هُوْنَا اِسی لِي سَ پَر تُوْنِيْنِ آتِي هُوْنَا اُوْر دُوَسْرُوْنِ كِي زَوْدِيكِ تَانِيْثِ كَا اِسی لِي تُوْنِيْنِ نِيْسِ آتِي۔ دَقَّنَا الْمِيْسَتَا هُوْنَا دَقْنِ كُوْرًا دَقْفِيْنِ (رَجُلٌ) الدَّفَقِيُّ تِيْرٌ حَال۔ كَمَا جَاتَا هُوْنَا (وَالدَّفَقَةُ تِيْرٌ الْحَدِيْثِ نَحْمِيْنَا الْاِبْلِيْغِي زُوْرًا الْاِبْلِيْغِي تِيْرٌ دُوْرِيْنَا۔ تَدَقَّنِ وَ اِنْدَقَّقِيْنَا الْاِبْلِيْغِي زُوْرًا۔ اِدْقَنِ الْعَبْدُ تَقَا كِي خُوْفِ سَعَامِ بَهَاگِيَا۔ مَفْتٌ (دَقْفُوْنِ) الشَّيْءَ نَحْمِيْنَا۔ تَدَافُنِ الْقَوْمِ نَحْمِيْنَا۔ دَافِنِ الْاَمْرِيْنِي مُجَالِدِ كَا نَدْرُوْبِي حَصَّة۔ الدَّقْفِيْنِ دَقْنِ كَمَا هُوْنَا رَجِ اِدْقَانِ دَقْفُوْنِ زَمِيْنِ رَجِ دَقْنِ رَجُلٌ دَقْفِيْنَامِ وَبِي قَدْرِ مَرَد۔ دَاءٌ (دَقْفِنِ) وَدَقْفِنِ پُوْشِيْدَة بَهَارِي جِس كِي ظَاهِرِ هُوْبِيْنِي سَعَامِ خَرَابِي بُوْه جَانِي۔ الدَّقْفِيْنَةُ كَلْبًا هُوْنَا كَلْبًا هُوْنَا خَرَابِي رَجِ دَقْفَانِي كَمَا جَاتَا هُوْنَا ”قَلَانٌ يَشِيْرُ الدَّقْفَانِيْنَ كَلْبًا بَرَا عَالِمِ سَعَامِ۔ الدَّقْفِيْنِيْنِ كَمَا هُوْنَا۔ چھپا ہوا۔ رَجِ دَقْفِنِ وَ دَقْفَانِ وَ اِدْقَانِ خُوْرُش۔ رَكِيَّةٌ دَقْفِيْنِ: رَجِنِ شَدِيْدَة كُوْنَا۔ اِمْرَاةٌ دَقْفِيْنِ زُوْشِيْدَة عَوْرَت۔ رَجِ دَقْفِيْنِ۔ دَاءٌ دَقْفِيْنِ زُوْشِيْدَة بَهَارِي جِس كِي ظَاهِرِ هُوْبِيْنِي سَعَامِ خَرَابِي بُوْه جَانِي۔ ”هُوَ دَقْفِيْنِ الْمَرْوَعَةُ“ اُوْر دَقْفِنِ الْمَرْوَعَةُ“ ہو بے مروت ہے۔ الدَّقَانِ۔ مِيْنِ الرَّاكِيْلِي سَعَامِ پَتْلَا ہوا كُوْنَا رَجِ دَقْفِنِ كَمَا جَاتَا هُوْنَا ”مَاءٌ دَقْفَانِ“ پُوْشِيْدَة پَانِي۔ الدَّقْفَانِيْنِ كَشِي كِي حَخْتِ وَاحِدِ (دَقْفَانِ)</p>
---	--	--

جائے۔ واحد دَفْرَانَةٌ۔

الدَّفْرَانَةُ: نجر زمین جو پہاڑوں کے درمیان ہو۔

الدَّفْرَارُ: جاںکھیا۔ ج دَفْرَانِيرُ۔

الدَّفْرَارَةُ: چغل۔ بُرَى عَادَتٌ۔ جھگڑا۔ ج دَفْرَانِيرُ: کہا جاتا ہے "جَاءَ بِالذَّفْرَانِيرِ" وہ بیج قسم کی جھوٹی چیزیں لایا۔ جاںکھیا۔ پانچامہ۔ رَجُلٌ دَفْرَارَةٌ: چغل خور۔ پست قدم۔

دَفَسٌ (ن) دَفَسًا وَدَفُوسًا: فِي الْبِلَادِ: گھس جانا الوتد فِي الْأَرْضِ: گڑ جانا الْبِرْزُ: بھردینا۔

الدَّفْسَةُ: ایک چھوٹا سا جانور ہے۔

دَفَعٌ (س) دَفَعًا: تھوڑے سے گزارہ پر راضی ہونا۔ ذلت اور فقر کی وجہ سے خاک نشین ہونا۔

أَدْفَعُ: محتاج بنادینا۔ ذلیل کرنا۔

أَدْفَعُ بِهِ وَالْيَهُ فِي الشَّيْءِ وَنَحْوَهُ: گالی دینے میں مبالغہ کرنا۔ أَدْفَعُ الرَّجُلُ: مٹی میں ملا ہوا ہونا۔

الدَّفَاعُ: فَا رَجِيده۔ تھوڑی کمائی کا طالب۔ الأَدْفَعُ: مٹی۔ جَوْعٌ أَدْفَعٌ: سخت بھوک۔

الدَّفَاعُ وَالذَّفَاعُ وَالذَّفِيعُ: مٹی (دفعیم) میں سیم زائد ہے) الدَّفِيعَاءُ: مٹی۔ نجر زمین۔

کہا جاتا ہے "رَأَيْتَ الْقَوْمَ" (صَفْعِي دَفْعِي) میں نے قوم کو خاک نشین دیکھا۔

الدَّفِيقُوعُ: سخت بھوک۔ الدَّوْفَعَةُ: فقیری۔ ذلت۔

المُدْفَعُ: زمین پر چلک دینے والا۔ ذلیل۔ بھاگنے والا۔ دَبَلًا: جَوْعٌ مُدْفَعٌ: سخت بھوک جو زمین پر گراوے۔

المِذْفَاعُ: لاپٹی۔ تھوڑے پر راضی ہونے والا۔ ج۔ مَدَافِيعُ۔

دَقَلَهُ (ن) دَقَلًا: منع کرنا۔ باز رکھنا۔ محروم کرنا۔ ناک یا منہ پر مارنا (دُقُولًا) غائب ہونا۔ فِيهِ: داخل ہونا۔

أَذَقَلُ: النَّخْلُ: رومی کھجور والا ہونا۔ الرَّجُلُ: کمزور بچہ والا ہونا الشَّاةُ: دبلی و کمزور ہونا۔ صفت مُذَقِلٌ۔

الذَّقَلُ: رومی کھجور۔ بادبان کا ڈنڈا۔ کہا جاتا ہے "أَرَأَيْكَ أَطْوَلَ مِنَ الذَّقَلِ وَأَنْتَ تَنْشُرُ كَمَلَامِكَ نَفْرَ الذَّقَلِ" میں تم کو دیکھتا ہوں کہ بادبان کے ڈنڈے سے بھی زیادہ لمبے ہو اور منگھور رومی قسم کی کرتے ہو۔

الذَّقَلُ: جسم کی ناتوانی۔ الذَّقَلَةُ وَالذَّقِيلَةُ وَالذَّقِيلَةُ: زبلی پتلی کبری۔ ج دَقَالٌ وَدَقَائِلٌ۔

دَقَمَهُ (ن) دَقَمًا: اپناک سینہ پر مار کر دکھانا۔ دینا۔ دانت توڑنا الرَّيْحُ عَلَيْهِ: ہوا کا آنا۔

دَقِمَ (س) دَقَمًا: اگلے دانتوں کا گرنا۔ صفت دَقَمٌ وَأَدَقَمٌ۔

أَدَقِمَ: فَاہ: اگلے دانتوں کو توڑنا۔

الدَّقِمُ: سخت غم۔ الذَّقِمَةُ: منہ کا گلگلا۔

الدَّقِمُ: نقصان۔ دَقِنَ (ن) دَقِنًا: فِي لِحَى الرَّجُلِ: ٹھڈی پر مکا مارنا۔ دَقِنَهُ: منع کرنا۔ باز رکھنا۔ محروم کرنا۔

ذِكٌ (ن) ذِكًا: الحَانِطُ: دیوار گرا کر زمین کے برابر کرنا الْأَرْضُ: ہموار کرنا التَّرَابُ: مٹی کوٹ کر ہموار کرنا الْبِرْزُ: کونئیں کو مٹی وغیرہ ڈال کر پائنا التَّرَابُ عَلَيَّ: المِيتُ: میت پر مٹی ڈالنا: دھکا دینا

الدَّابَةُ فِي السَّيْرِ: جانور کو تھکانا۔ کہا جاتا ہے "ذُجِبَتِ الحُمَى الرَّجُلُ" بخارانے مرد کو کمزور کر دیا۔

ذُكٌ: مریض ہونا۔ دَعَمَكَ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ: ملانا۔ مخلوط کرنا۔

أَنْدَكٌ: ہموار ہونا الرَّجُلُ: ریت کا تہہ ہونا السِّنَامُ: کوہان کا پیٹھ کے برابر ہونا۔

تَدَاكَ عَلَيْهِ الْقَوْمُ: بھیڑ کرنا۔ الذُّكُ: سر۔ ہموار زمین۔ ہموار جگہ۔ ج۔

دُكُوْكٌ۔

الذُّكُ: ج دِحْكَةٌ وَ (الدِّغَاءُ) ج دِحْغَاءَاتٌ: نرم مٹی کا پیٹھ۔ نرم پہاڑ۔ الذِّغَاءُ: پست کوہان کی اونٹنی۔

الذِّحَّةُ: ازار بند۔ صحیح لفظ الذِّحَّةُ ہے۔ الذِّحَّةُ: ہموار ریگستان۔ بیٹھنے یا کرسی رکھنے کے لیے چبوترہ۔ ج دِحْكَاكٌ۔

الذِّغَانُ: دکان۔ چبوترہ۔ ج دِحْكَاكِيْنٌ۔ الذِّحْحَاكُ: بہت روندنے والا۔ بہت کونٹے والا۔

الأَذْكُ: چوڑی پیٹھ والا چھوٹا گھوڑا۔

بغیر کوہان کا اونٹ۔ اور اس سے اسم (الدِّحْكُ) ہے۔ ج دُكٌ وَدُكُكٌ مَوْنَتٌ دِغَاءٌ: يَوْمٌ أَوْشَهَرُ أَوْ حَوْلُ (دِكِيْكٌ) پورا دن یا مہینہ یا سال۔

المِذْكُ: مضبوط و قوی زمین کو سخت روندنے والا مرد۔ ہموار کرنے کا اور زار۔

أَمَةٌ (مدغثة) کام کرنے میں قوی باندی۔ دَشْكَذَكُ: الحُفْرَةُ: گڑھے کو مٹی سے بھر دینا۔

تَدَشْكَذَكْتُ: الجِبَالُ: گرنا۔ الدَشْكَذَكُ وَالذِّكْدَكُ: ج دَكَاذِكٌ وَ (الدِّشْكَذَاكُ) ج دَكَاذِيْكٌ: سخت زمین۔

دَكَسَ (ن) دَكَسًا: الشَّيْءُ: بھرتا۔ دَكِسَ (س) وَكَسًا: الشَّيْءُ: تہہ ہونا۔

أَدَكَسَ: المَكَانُ: سبزی ظاہر ہونا۔ الذِّكِيْسَةُ: مِنَ النَّاسِ: لوگوں کی جماعت۔

الذِّكَاكِسُ: فَا: چھینک وغیرہ سے بدفالی۔ الذِّكَاكِسُ مِنَ الطَّبَايِءِ: وہ ہرن جو پیچھے سے آئے اور اس سے بدفالی لیا کرتے تھے۔

الذِّكَاكِسُ: أُوْكُهٌ۔ الدَّوْكَسُ: شیر۔ بہت چوپائے اور کبریاں۔ دَكَلٌ (ن ض) دَكَلًا: الطِّينُ: لینے کے لیے ہاتھ سے مٹی جمع کرنا الشَّيْءُ: روندنا۔

دَعَمَلُ: الدَّابَةُ: جانور کو مٹی میں لوٹانا۔ تَدَعَمَلُ: اپنے آپ کو بڑا سمجھنا عَلَيْهِ: ناز کرنا

عنه: دیر کرنا۔

الدکلة: پتلا گارا۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے لوگ۔

الاذکل: سیاہی مائل۔

الذکيل: روندنا ہوا۔

ذکم (ن) ذکما: الشئی: بعض کو بعض پر کوٹنا ہ فی صدرہ: سینہ پر مار کر ہٹانا فہ أو أنفه: منہ یا ناک توڑنا المرأة: جماع کرنا۔

ذکمه: فی الشئی: داخل کرنا ہ فی رأسه: سر میں سیگ سے مارنا۔

تذاکم: القوم: ایک دوسرے کو ہٹانا۔

الذکمة: سیاہی مائل رنگ۔

ذکن (ن) ذکنا و ذکن: المتاع: تہ تیہ رکھنا۔ ذکن الذمغان: دکان لگانا۔

ذکن (س) ذکنا: سیاہی مائل ہونا۔ صفت (اذکن) ہونٹ ذکنا: ج ذکن۔

القوب: میلا و گرد آلود ہونا۔

الذکنة: سیاہی مائل رنگ۔

الذمغان: دکان کا چبوترہ۔ ج ذکا کین (کلمہ فارسیہ ہے)

الذمغانی: دکان والا۔

ذلة (ن) ذلالة و ذلولة و ذلیلی: الی الشیء و علیہ: راستہ دکھانا۔ رہنمائی کرنا۔

(ض) ذلا و ذلالا و ذل (س) ذلالا: تازو نخرہ کرنا المرأة علی زوجها: بناوٹی مخالفت کرنا الرجل: فخر کرنا۔ اپنی داد و دہش کا احسان جتانہ۔

أذل إذلالا: علیہ: محبت پر بھروسہ کرنا۔ اور اسی سے ہے "أذل فامل" اس نے محبت پر بھروسہ کیا اور مول کر دیا۔ ذیری کرنا علی

أقرابه: اُوپر سے دبا لینا البازی علی صیدہ: اُوپر سے جھپٹا مارنا۔ اور کہا جاتا ہے "هو یدل بہ" وہ اس پر بھروسہ کرتا ہے

"أذل بالطریق": پہچانا۔

تذلل: علیہ: گستاخی و جرات کرنا المرأة علی زوجها: بناوٹی مخالفت کرنا۔

أندل: راستہ پانا الماء: گرنا۔

استدل: علیہ: رہنمائی کرنے کو کہنا۔

استدل بكذا علی الامر: دلیل کرنا۔ الدالة: تازو نخرہ۔ جرات و ذیری: کہا جاتا ہے "لہ علیہ ذالة" اس کو اس کے اُوپر تازہ ہے۔

الدل: سر۔ سکون و اطمینان کی حالت۔ اچھی سیرت۔

الدلال: سر۔ تازو نخرہ۔ الدلولة: تاز۔

الدلالة: دلالی کا پیشہ۔ دلال یا رہبر کی آجرت۔

الدلالة: رہنمائی، دلیل، مرشد، سیاحوں کو رہنمائی کرنے والی کتاب، سفر کارڈ، دلیل الخلف: ریاضی کے مسئلہ میں مخالف کے بدلے پر دلیل قائم کرنا۔

الدلال: خریدار اور بیچنے والے کے درمیان کا آدمی۔

الدلیل: ج ادلة و ادلاء و (الدلالة) ج ذلائل: ہر وہ چیز جس سے رہنمائی ہو سکے۔

حجت و دلیل۔ الدلیل: رہنما۔ مرشد۔ الدلة: احسان۔ تازو نخرہ کرنا۔

الاذل: احسان جتانے والا۔ الدلی و الذلیلة: واضح راستہ۔

المیدل: فا۔ اپنے اُوپر اور اپنے سامان پر بھروسہ رکھنے والا۔ المیدل بالشجاعة: ذیر۔

الذلب: چنار کا درخت۔ واحد (ذلبة) الذلبۃ: سیاہی۔

الذالب: چنگاری جو بجھی نہ ہو۔ الذولاب و الذولاب: رہت۔ چرخی پر گھومنے والی چیز۔ ج ذوالب: (دخیل) المذلبۃ: بہت چنار کے درختوں والی زمین۔

الذلبوث: ایک قسم کی گھاس کا نام۔ ذلک (ض) ذلیفا: قریب قریب قدم رکھنا۔

تذلت: الیہ: کسی کے پاس گھس پڑنا۔ اذلت: الرجل: خود سر ہونا۔

أذلت: الشئی: بٹھاننا۔

الدلات: تیز رفتار۔ کہا جاتا ہے "رجل دلات و ناقة دلات" ج ذلک و ذلت

ذلج (ض) ذلوجا: کنوئیں سے پانی نکال کر حوض میں ڈالنا۔ صفت (ذالج) ج ذلج:

أذلج إذلاجاً و أذلج إذلاجاً: القوم: پوری رات یا آخری حصہ میں چلنا۔ اسم (الذلجة و المذلجة)

الذلج و المذلجان و المذلجة: رات کے آخری حصہ کا وقت۔

الذولج: تہ خانہ (و المذلجة) وحشی جانوروں کا بھٹ۔

المذلجة: ککڑی یا چڑے کا بڑا برتن جس میں دودھ لے جایا جائے۔ ڈول۔

المذلج و المذلجة: حوض اور کنوئیں کے درمیان کا راستہ۔

المذلج: آخری رات میں چلنے کا عادی۔ المذلج و أبو مذلج: سی۔

ذلج (ف) ذلوجا: بوجھ کی وجہ سے آہستہ چلنا۔

تذالج: الرجلان الشئی بینہما: کسی چیز کو ککڑی پر اٹھانا۔

الذالج: ج ذلج و ذوالج و (الذلوج) ج ذلج: بہت پانی والا بادل۔

فوس (ذلج) سوار کو نہ تھکانے والا گھوڑا۔ بہت پسینہ والا گھوڑا۔

ذلج (س) ذلجا: موٹا ہونا الإناء: بھر کر بہ پڑنا۔

الذالج: موٹا۔ کہا جاتا ہے بغير ذالج و ایل ذلج و ذوالج۔

الذلوج: موٹا۔ ج ذلج۔ ذلذل ذلذلة: أعضائه أوزاسه: چلنے میں ہلانا۔

تذذلذل: فی منشیہ: لاکھڑا الشئی: لکھتے ہوئے ہلانا۔

الذلذل و الذلذلول: سی۔ الذلذل: بڑا معاملہ۔

الدَّلْدَالُ: اضطراب۔ قوم دلدال:
لڑکھاتی ہوئی چلنے والی قوم۔

ذَلَسَ: البائع: سامان کے عیب کو چھپانا
المُحَدَّث: محدث کا حدیث کی روایت میں
اپنے راوی کا نام نہ لینا بلکہ اس سے اوپر کے
راوی کا نام لینا اور لفظ ایسا اختیار کرنا جس میں
سماع کا احتمال ہو۔
ذالسه مدالسة: فریب دینا، ظلم کرنا۔ کہا
جاتا ہے ”هُوَ لَا يَدَالِسُ وَلَا يُوَالِسُ“ وہ نہ
ظلم کرتا ہے نہ خانت۔

أَذَلَسَ: المَحْمَلُ: موسم گرما کے آخر میں یا
چر لینے کے بعد سرد ہونا۔
تَذَلَسَ: الرجل: چھپنا الطَعَام: تھوڑا
تھوڑا لینا الذائبة: چر اگاہ میں تھوڑی سی گھاس
کو حش کر جانا۔
أَذَلَسَ: الشئ: پوشیدہ ہونا۔
الذلس فریب، دھوکا۔

الذلس نباتات جو موسم گرما کے اخیر میں یا
چر لینے کے بعد سبز ہو جائے۔ ج. ادلاس
(والذلسة: ہار کی)۔
ذَلَصَ (ن): ذلیصا چکنا۔ نرم ہونا۔ صفت
(ذلیص) ج. دلاص و (ذلیص) ج.
ذُلص۔
ذَلِصَتْ (س) ذلاصة: الناقة: بوڑھی

اور گرے ہوئے دانت والی ہونا۔
ذَلَصَ: الشئ: چکدار کرنا۔ کہا جاتا ہے
”ذَلَصَ السَّيْلُ الْحَجَرَ“ سیلاب نے پتھر کو
چکدار بنا دیا الذزع: ملائم کر دینا الحجين:
بال: کھڑنا۔
أَذَلَصَ: الشئ: من یدہ پھسل کر گرنا۔
الشئ من الشئ: کٹنا۔
الذلیص والذلیصة: ہموار زمین۔

الذلاص نرم و چکدار۔ کہا جاتا ہے ”ذزع
ذلاص“ نرم و چکدار زرہ۔
الذلاص نرم، چکا، چکدار۔
ذَلَطَ (ض): ذلطاً: سینہ میں مار کر ہٹانا۔
ذَلَطَ فِي سَبْرِهِ: نیز گزرتا۔

دالظه: مدافعت کرنا۔
أَذَلَطَ: الماء: زور سے بننے لگنا۔
ذَلَعُ (ف): ذلعا وادلع لسانه: زبان

نکالنا۔
ذَلَعُ (ف) (ن): ذلعا وذلوعا واندلع
وإذلع: لسانه: زبان کا منہ سے باہر نکلنا۔
أَذَلَعُ: البطن: پیٹ کا بڑا اور ڈھیلا ہونا
السيف: تلوار کا میان سے باہر نکلنا۔
الذلیع والذلولع: مشادہ راستہ۔ نرم راستہ۔
ج. ذلائع. والذلولع من التوق: اونٹوں
سے آگے رننے والی اونٹنی۔
الذلاع والذلولعة: سمندری سپی کی ایک

قسم۔
المدلع: ناز و نعمت میں پرورش یافتہ۔ اسم
(الذلاعة) اور یہ مولدین کے نزدیک ہے۔
الذلعس والذلعس والذلعوس
والذلعاس والذلاعس: من الجمال:

سدا ہوا اونٹ۔
الذلعان: چکنے والی مٹی۔ (لغت عامیہ ہے)
ذَلَعُ (ض): ذلعا وذلعا وذلوقا وذلینفا
وذلقاناً: بیڑی پڑے ہوئے کی طرح آہستہ
آہستہ چلنا الناقه بحملها: اونٹنی کا بوجھ لے
کر اٹھنا العجیش: فکر کا آگے
بڑھنا۔ صفت (ذالفع) ذلف وذلف.
أَذَلَفَ: له القول: سختی سے گفتگو کرنا

الکبیر: آہستہ چلانا۔
تَذَلَفَ: إليه: چلنا اور نزدیک ہونا۔
أَذَلَفَ: عليه: مٹرنا۔

الذالفع تیر جو نشانہ کے قریب گرے اور
پھر وہاں سے علیحدہ ہو جائے۔
الذلف: بہادری۔
الذلولف: تیز اڑنے والا گدھ۔ مونا اونٹ۔

بہت چکدار درخت خرما۔ ج. ذلف.
الذلیفین: ایک قسم کا تھن والا سمندری جانور
جس کی تھو تھنی چوچ کی شکل کی ہوتی ہے اور
جس کے متعلق مشہور ہے کہ ڈوبنے والے کو
اپنی پیٹھ پر بٹھا کر بچاتی ہے۔ معرب ہے۔ عربی

میں اس کا مرادف الدخس ہے۔
طریق (ذلق و دلفاق) روشن و نمایاں

راستہ۔
ذَلِقَ (ن): ذلقاً واذلق: السيف من
غمده: تلوار کو میان سے سونٹنا۔ ذلق
الباب: دروازہ کو زور سے کھولنا۔
الغارة: ثوب ڈالنا العجیر شقیشفتہ: اونٹ
کا جھاگ نکالنا۔ (ذلقاً وذلوقاً: السيف):
تلوار کا میان سے نکل پڑنا الخیل مہموڑوں کا
بے در بے نکلا۔ صفت (ذلق) واحد (ذالوق)

أَذَلِقَ: الشئ: آبی جگہ سے نکل پڑنا۔
الخیل مہموڑوں کا بہت تیزی کے ساتھ نکل
پڑنا السيف: تلوار کا میان سے نکل پڑنا۔
تَذَلِقَ: السيل عليه: بہت تیزی کے ساتھ

سیلاب کا بہہ پڑنا۔
أَسْتَذَلِقَ: السيف: میان سے نکالنا۔
الذلق: ایک جانور کا نام ہے جو بلی سے چھوٹا

ہوتا ہے اس کا رنگ زرد ہوتا ہے پیٹ اور
گردن میں کچھ سفیدی ہوتی ہے۔ سيف (ذلق
و ذالوق و ذلوق) میان سے آنے سے نکلنے
والی تلوار۔ غارة ذلوق: سخت لوٹ۔

ذلق: بڑھاپے کی وجہ سے ٹوٹے ہوئے
دانتوں والی اونٹنی۔ ج. ذلق.
الذلقم: بڑھاپے کی وجہ سے ٹوٹے ہوئے

دانتوں والی اونٹنی (بیم زائید ہے)۔
ذَلِكُ (ن): ذلکاً: الشئ: بگڑنا۔ ملائم کرنا
ه الذهر: تیر کا پٹا وجہه بالطیب:

خوشبو لگانا الرجل حقه: نظر کرنا غريمه:
قرض خواہ کو مانا (ذلولحاً) الشمس:
ڈوبنے کے قریب ہونا۔ صفت (ذالک)

ذالک مذالکة: الغريم قرض خواہ کو مانا۔
تَذَلِكُ: نہانے کے وقت بدن ملنا۔
بالطیب: خوشبو لگانا۔
الذلك: نرمی۔ کہا جاتا ہے ”فی رخصته
ذلك“ اس کے زانو میں نرمی ہے۔ غروب
آفتاب کا وقت۔

الدلوك لگانے کی خوشبو یاد دواو غیرہ۔
 الذلیک دم شخص جس کو زمانہ نے تجربہ کار بنا
 دیا ہو۔ ج ذلک خاک جس کو ہوا اڑا دے۔
 ایک قسم کی نباتات۔ ذالیک
 المدلوك بڑا معاملہ۔ ج ذالیک
 المدلک والمدلکة۔ پلنے کا اور ہر۔
 المدلوك مفع. البعیر المدلوك: نرم
 گھنے والا اونٹ۔ وہ شخص جو سفر کی وجہ سے
 تجربہ کار ہو گیا ہو۔
 المدلک وہ شخص جو اپنے آپ کو گھٹیا باتوں
 سے بلند نہ رکھے۔
 دلم (س) دلما واذلام اذلیما
 چکدر سیاہ ہونا۔ صفت (اذلم) مونث دلما
 دلمت الشفة: ہونٹ کا ڈھلا ہونا اور لگانا۔
 اذلام اللیل: رات کا بہت تاریک ہونا۔
 اذلم شفته: ہونٹ کا ڈھلا کرنا۔
 الذلم ہاتھی۔
 الذلام سیاہی و سیاہ کہا جاتا ہے "شئی
 ذلام" کالی چیز۔
 الذلماء قمری مہینہ کی تیسوی رات۔
 الاذلم من الالوان کالا۔ کالا سانپ۔ لبا
 کال الذلم مصیبت۔ حوض کے پاس چبوتیوں
 اور چبوتیوں کے جمع ہونے کی جگہ۔ لنگر۔ ز
 تیز۔ تظاہر نہ کی ایک قسم۔ جماعت۔ دشمن۔
 اذلمش اذلمسا۔ اللیل: سخت
 تاریک ہونا۔
 الذلمس والذلمس: سخت تاریکی۔
 مصیبت۔
 الذلمس مصیبت۔
 تذلمص رأسه: سر کا گنجا ہونا۔
 الذلمص والذلمص: چکدر۔
 دلصص: چھتیا۔
 طریق (دلصص): رات۔ ج دلصص
 دلہ (س) دلھا وذلھا وذلھا وتدلھا۔
 غم و عشق وغیرہ سے پرگشت ہونا۔ حیران ہونا۔
 دلہ دلھا عنہ: تسلی پانا۔
 (ف) دلھا عنہ: تسلی پانا۔

دلہ: حیران کرنا۔ مدہوش کرنا۔
 الذالہ والذالہ: غم و عشق وغیرہ کی وجہ
 سے پرگشت و دیوانہ۔ کہا جاتا ہے
 (دلھا)۔
 اس کا خون رائیگاں گیا۔
 المدلغہ: عشق وغیرہ کی وجہ سے بے خود و دل
 رفتہ۔
 دلھت الرجل: جلد آگے بڑھنا۔
 الذلھت والذلاھت والذلھات: پیش
 قدمی کرنے والا۔ دلیر۔ شیر۔
 اذلھم اللیل: رات کا سخت تاریک ہونا۔
 الظلام: گھٹا ٹوپ اندھیر ہونا الرجل:
 بوڑھا ہونا۔
 الذلھم تاریک۔ بھیریا۔ زنگ خوار
 پرندہ۔ عشق کی وجہ سے عقل رفتہ و مدہوش۔
 الذلھام والذلھمس: دلیر۔ بہادر مرد۔
 الذلھمس: بہت تاریک رات۔
 شمدلا (ن) ذلوا وذلئی الذلو: ڈول
 کنوس میں لگانا۔ نکلنے کے لیے کھینچنا۔
 حاجتہ: حاجت طلب کرنا۔ ذلأه: نرمی و
 مہربانی کا سلوک کرنا۔ کہا جاتا ہے
 بفلان الذلک "میں نے تمہارے پاس فلاں کو
 سفارش بنایا۔" ذلأه بغرور: اس نے اس
 کو دھوکے میں ڈالا۔ ذلأه بالذلوی: ڈول
 سے پالی کھینچنا۔
 اس نے اس کو رسی کے ذریعہ چھت سے لگایا۔
 ذلأه نرمی و مہربانی کا سلوک کرنا۔
 اذلی اذلاء: کنوس میں ڈول لگانا۔
 فیہ کسی کے بارے میں بڑی بات کہنا۔
 بقربتہ: قرابت سے وسیلہ پکڑنا۔
 بحجیتہ: دلیل بیان کرنا۔ الیہ بمال: دینا۔
 اذلی الی فلان: کسی کے پاس بھڑالے
 جانا۔
 تذلی: الشمر من الشجر: پھل کا لگانا من
 الخیل بھڑالے سے اترنا۔
 اذلولی اذلیلاء: جلدی کرنا۔
 الذلولی: سر ڈول (مونث ہے) کسی مذکر استعمال

دمت (س) دَمَتَا المَكَانَ وَغَيْرُهُ نَزَمَ
ہونا۔

دَمَتُ المَضْجَعِ نَزَمَ بِمَنَاءِ المَكَانِ نَزَمَ
کرنے لہ الحدیث: ذکر کرنا۔

الدَّمْتُ والدَّمْتُ والدَّمْتُ والدَّمْتُ
نزم ریتلی جگہ۔ نج دِمَاتٍ وَأَدْمَاتٍ اور اسی

سے ہے "رَجَلٌ دَمَتْ الْأَخْلَاقُ" نزم
اخلاق والامرد۔ أَرْضٌ (دَمْنَاءُ) نزم زمیں۔

الدَّمُونَةُ نَزَمَ خَوْفِي
الدَّمَانِيثُ نَزَمَ حَيْرِيں۔ واحد (دَمِيثَةٌ)

الأَدْمُونُثُ. بھو بھیل میں روٹی پکانے کی
جگہ۔

دَمَجَ (ن) دُمُوجًا وَانْدَمَجَ وَادْمَجَ. فِي
الشَّيْءِ: مَضْبُوطٌ كُرَّ جَانًا. دَمَجَ الْأَمْرُ:

درست ہونا۔
دَمَجَهُ فِي الشَّيْءِ: دَاخِلٌ كَرَانًا

دَامَجَهُ دِمَاجًا. عَلَيْهِمْ: مَوَاقِفَتُ كَرَانًا

أَدْمَجَ. الشَّيْءُ فِي التَّوْبِ: كَسِيَ حِزْرًا كُو
کپڑے میں لپیٹنا الحبل: ریشی کو اچھی طرح

بٹھا۔
الكَلَامُ: بِهَيْئِ تَرْبِيْبِ دِيَا الفِرْسِ: ذُوْلًا كَرَانًا

تَدَامَجَ. القَوْمُ عَلَيْهِ: يَأْتِي بِدِرْ كَرَانًا كَتَا
جمع ہونا۔

تَدَمَجَ. فِي نِيَابِهِ: كِزْرُوں مِیں لپیٹنا۔

الدَّامِجُ. فَآ تَارِيكٌ كَمَا جَاتَا فِي "لَيْلِ"
دَامِجٌ تَارِيكُ رَاتِ۔

الدِّمِجُ. رُوْسَتْ۔ نَظِيْرُ۔
الدَّمَجَةُ. طَرِيْقَةُ كَمَا جَاتَا فِي "عَلَى تِلْكَ

الدَّمَجَةِ" اِسْ طَرِيْقَةُ پُرُ۔
الدَّمَاجُ وَالدِّمَاجُ. بِهَيْئِ مَضْبُوطِ سِيْدِهَآ

المُدْمِجُ. بِهَيْئِ تِيْرِكِي حَيْضِرُ۔
الجِدْمَاجَةُ. كِزْرِي۔

دَمَجَ (ف) دَمَحًا. بَلَدٌ هُوَا رَاسَهُ: سِر
تُوْرَانًا كِلَانًا. لَيْلِ (دَامِجِ) مَعْتَدِلُ رَاتِ۔

دَمَرُ (ن) دُمُورًا وَدِمَارًا وَدِمَارَةً.
ہلاک ہونا (دُمُورًا) عَلَيْهِمْ: بَغِيْرَ اِحْآزَاتِ
کے آتایا برے ارادے سے اچانک آنا۔

دَامَرُ. اللَّيْلُ جَاتَا رَهْبَانًا

دَمَرَهُمْ وَدَمَرُ عَلَيْهِمْ. هَلَاكٌ كَرَانًا

تَدَمَرُ. مَلِكٌ شَامٌ كَے اِيَكِ بُوْرَے شَهْرِ كَاتَامُ۔
اِيَكِ قَلْعَةٍ كَاتَامُ۔

التَّدْمَرِيُّ. كَمِيْنَةُ جَنْكَلِي چُوْبَا جِسْ كَے نَاخِنِ
ٹوٹ گئے ہوں اور گوشت سخت ہو۔ کہا جاتا ہے

"مَا فِي الدَّارِ تَدْمَرِيٌّ" گھر میں کوئی نہیں۔
دَمَسَ (ن ض) دَمَسًا وَدُمُوسًا الظَّلَامُ

او اللَّيْلُ: سَخْتٌ سِيَاهٌ هُوَانَا. صَفْتٌ (دَامِسٌ)
المَوْضِعِ نَمَانًا۔

دَمَسَهُ (ن) دَمَسًا وَدَمَسَهُ. ذُهَابَانًا۔
دَفِنَ كَرَانًا. چھپانا۔

دَمَسَ عَلَيْهِ السِّرُّ او النَّخِيْرُ: پُوْشِيْدَه كَرَانًا
بِيْنَهُمْ. اِحْلَآحٌ كَرَانًا۔

دَمَسَتْ (س) دَمَسًا. يَذُوْهُ: كَنْدُكِي سَے
آلودہ ہونا۔

دَامَسَ مُدَامَسَةً. الشَّيْءُ: چھپانا۔ پُوْشِيْدَه
کرنے۔

أَدْمَسَ. اللَّيْلُ: تَارِيكٌ هُوَانَا الشَّيْءُ:
پُوْشِيْدَه كَرَانًا۔

تَدَمَسَ. آلودہ ہونا۔ تھرا۔
اِنْدَمَسَ. تَهْ خَانَه مِیں دَاخِلٌ هُوَانَا۔

الدَّمَسُ. سِرٌّ. صُوْرَتٌ جُوْدُوْرَے دِكْهَالِي
دے۔ کہا جاتا ہے "زَايْتٌ دَمَسًا" مِیں نے

صُوْرَتٌ دِيَكِي۔
الدَّمَسُ. مِْنِ الْأُمُوْرِ: بُوْرَے بُوْرَے أُمُوْرِ۔

كَمَا جَاتَا فِي "جَانِنَا بِأُمُوْرٍ دَمَسٍ" وَهَآرَے
پاس بُوْرَے بُوْرَے أُمُوْرِ لَآيَا۔

الدَّمَسُ وَالدِّمِيسُ. هِرُوْدَه چِز جُوْدُوْهَكَ دِي
جائے۔

الدِّمَاسُ. هِرُوْدَه چِز جُوْتَمُ كُو چھپالے۔
الدَّمَاسُ. كُفَاْرِي كَے چھپنے كِي جگہ۔ نَج

دَوَامِيْسُ.
الدِّمَاسُ وَالدِّمِيسُ. تَهْ خَانَه۔ عَمَلِ

خَانَه۔ قَبْرِ نَج دِيَامِيْسُ وَدَمَامِيْسُ.
لَيْلِ (أَدْمُوْسُ) تَارِيكُ رَاتِ۔

الدِّمَامِيْسُ. كَمِهْرِي جُجْهِيْسِ جِهَانِ رُوْشِنِي نَه
بارش کا دن۔

بہنے۔

الدَّمَسْتُقُ. رُوْمِيُوں كَے كَمَاثِرُ كَالْقَبِ۔ نَج
دَمَاسِقُ۔

دَمَشِقُ. الْأَمُوْرُ: جَلْدِي سَے پُوْرَا كَرَانَا
الشَّيْءُ: آرَاسَتْ كَرَانًا۔

تَدَمَشِقُ. دَمَشِقٌ مِیں آنا۔
دَمَشِقُ. الْبِيْدِيْنُ: دُوْنُوں ہَاتھُوں سَے جَلْدِي

كَام كَرْنِے وَالَا۔
دِمَشِقٌ وَدِمَشِقُ. شَامٌ كَادَارُ الْخِلَآفَةِ۔ نَسْبُ

كَے لِیْے دِمَشَقِيٌّ. نَج دَمَاشِقَةٌ۔
المُدْمَشِقُ. نِيْمُ پختہ ہونا ہوا گوشت۔

دَمَصَ (ن) دَمَصًا. فِي الشَّيْءِ: جَلْدِي
كَرَانًا. دَمَصَتْ الْكَلْبِيَّةُ بِجُرُوْهَا. نَاتِمَامٌ بِجِ

گرا دینا۔
دَمِصَ (س) دَمَصًا. سِر مِیں كَم پَالِ وَالَا

هُوَانَا. بِجُحْلِي حَصَه مِیں بَارِيكِ اور اگلے حَصَه مِیں
مُوْتِي اِبْرُوُوْکِ وَالَا هُوَانَا. صَفْتٌ (أَدْمِصَ)

مُوْتٌ دَمِصًا نَج دَمِصُ۔
دَمَعَتْ (ف) دَمَعًا وَدَمِعَتْ. (س)

دَمَعًا وَدَمِعَانًا وَدَمُوعًا. الْعَيْنُ: آنسو
بہنا۔ دَمِعَ الْاِنَاةُ: بھرا جانا۔

أَدْمَعَ الْاِنَاةُ: لِبَالٍ بھرا دینا۔
اِسْتَدْمَعَ. آنسو بہانا۔

الدَّمْعُ. آنسو۔ واحد (دَمْعَةٌ) نَج دُمُوعٌ
وَأَدْمَعٌ. دَمْعَةُ الْكُرْمِ: شَرَابُ۔

اِمْرَأَةٌ. (دَمْعَةٌ وَدَمِيعٌ) جَلْدِي رُوْنِے وَالِي۔
بِهَتْ آنسوؤں وَالِي عُوْرَتِ۔ نَج دَمْعِيٌّ

وَدَمَائِعُ.
وَرَجُلٌ دَمِيعٌ: جَلْدِي رُوْنِے وَالَا۔ بِهَتْ

آنسوؤں وَالَامِرْدِ نَج دَمِعَاءٌ وَدَمْعِيٌّ.
الدَّمَاعُ. فَآ مَكَانٌ دَامِيعٌ. نَمَّاكٌ جگہ۔

شَحْحَةٌ دَامِعَةٌ: خُوْنٌ بَهَانِے وَالَا زَخْمُ۔
الدَّمَاعُ. پَانِي جُوْدُوْرَتِ كَے كَاتْنِے سَے نِكَلُ۔

آگھ کپالی جُوْرَهَا پَے اِيْمَارِي كِي وَجْهَ سَے نِكَلُ۔
الدَّمَاعُ وَالدَّمُوعُ. بِهَتْ آنسوؤں۔

الدَّمَاعُ: نَمَّاكٌ جگہ۔ يَوْمٌ دَمَاعٌ: خَفِيْفٌ
بارش کا دن۔

دَمِين (س) دَمْنَا النحل: سیاہ و بدبودار

ہونا عَلِيَّة: کینہ رکھنا۔

دَمْنُ البَجِيرِ المَكَانُ: اُونٹ کا میٹھی کرنا

بَابُ فُلَانٍ: کسی کے دروازہ پر پڑھنا فُلَانًا:

اجازت دینا۔

أَدْمَنُ الشَّيْءُ: ہمیشہ کرنا۔ کہا جاتا ہے

”رَجُلٌ مُدْمِنٌ خَمْرًا“ ہمیشہ شراب پینے والا

مرد۔

تَدَمَّنُ المَكَانُ او المَاءُ: جگہ یا پانی کا

میٹھنیں سے پلید ہونا۔

الدَّمْنُ: سر۔ سمجور کے درخت کی بوسیدگی و

سیاہی۔

الدَّمْنُ و الدَّمَانُ: گور۔ کھاد۔ راکھ۔ سمجور

کے درخت کی بوسیدگی۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ

دَمْنٌ مَالٌ“ وہ مال کا تنظیم ہے۔

الدِّمْنَةُ: گھر کے نشانات۔ حوض کا بقیہ پانی۔

کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ۔ ج دَمْنٌ و دِمْنٌ:

و ”خَضْرَاءُ الدِّمْنِ و خَضْرَاءُ الدَّمْنِ“

کوڑے کی سبزی اور یہ دونوں مثال ہیں ان

چیزوں کے لیے جن کا ظاہر اچھا اور باطن

خراب ہو۔ الدِّمْنَةُ: پرانا کینہ۔ کہا جاتا ہے

”فِي قَلْبِهِ دِمْنَةٌ“ اس کے دل میں پرانا کینہ

ہے۔

دَمَّةٌ (س) دَمَّهَا: الرَّمْلُ: ریت کا سخت

گرم ہونا۔

دَمَّهَتْهُ الشَّمْسُ: دھوپ لگنا اور جلانا۔

دَمِيٌّ (س) دَمِيٌّ و دَمِيًّا: الجُرْحُ: خون

دینا۔ صفت (دم)

دَمِيٌّ تَدْمِيَّةٌ و أَدْمِيٌّ اِدْمَاءٌ: الجُرْحُ:

زخم سے خون نکالنا۔ أَدْمِيٌّ الرَّجُلُ: خون

بہانا۔ دَمِيٌّ لِفُلَانٍ: راستہ آسان کرنا۔ قریب

کرنا۔

اِسْتَدْمِيٌّ: مِنْ غَرِيْبِهِ: قرض دار سے نرمی

سے قرض وصول کرنا الرَّجُلُ: ناک سے

خون بہتے وقت سر جھکانا الذَّبِيْحُ: خون لینا۔

الدَّامِيٌّ: فَا: جس کا خون بہ رہا ہو۔

و دَامِي الشَّفَقَةُ: فقیر یا گنے کا حریص۔

مَدَامِيْكُ:

الدَّمَمَكَمَكُ: بہت مضبوط۔ رَحِيٌّ

دَمَمَكَمَكُ: تیز پینے والی چکی۔

دَمَلٌ (ن) دَمَلًا: الدَّمَلُ: پھوڑا اچھا کرنا۔

(دَمَلٌ و دَوَمَلٌ بَيْنَهُم: اصلاح کرنا۔

دَمِلٌ (س) دَمَلًا و اِدْمَلٌ و اِنْدَمَلٌ:

الجُرْحُ: زخم اچھا ہونا۔

دَامَلَهُ: نرمی سے سلوک کرنا۔

تَدَمَلُ المَكَانُ: کھار پڑنا۔

تَدَامَلُ القَوْمُ: باہم صلہ کرنا۔

الدَّمَلُ: سر۔ نرمی۔ کہا جاتا ہے ”عَامَلَهُ

بِالدَّمَلِ“ اس نے اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ

کیا۔

الدَّمَلُ و الدَّمَلُ: پھوڑا۔ واحد (دَمَلَةٌ) ج

دَمَائِلٌ و دَمَائِيلٌ:

الدَّمَالُ: کوڑا کرکٹ جس کو سمندر پھینک

دے۔ سیاہ بدبودار پرانی سمجور۔ میٹھی مٹی وغیرہ

جس کو جانور روند دیں۔ کھاد۔ کہا جاتا ہے۔

”هَذَا دَمَالٌ ذَاكُ“ یہ اس کا مصلح ہے۔

الدَّمَالُ: زمین میں کھا ڈالنے والا۔

دَمَلَجٌ دَمَلَجَةٌ و دَمَلَاخًا: الشَّيْءُ: کسی

چیز کو اچھے طریقے سے ڈھالنا۔

الدَّمَلَجُ و الدَّمَلَجُ: ج دَمَالِجٌ و

(الدَّمَلُوجُ) ج دَمَالِيْجٌ: بازو بند۔ پتلی۔ کہا

جاتا ہے ”الْقِيٌّ عَلَيْهِ دَمَالِيْجُهُ“ اس نے اپنا

بوجھ اس پر ڈال دیا۔ الدَمَالِيْجُ: سخت

زمینیں۔

المُدْمَلَجُ: ہموار راستہ۔

دَمَلَحَهُ: لڑھکانا۔

دَمَلَقَهُ: چکانا و ہموار کرنا۔

حَصْرٌ (دَمَلَقٌ و دَمَلِيقٌ و دَمَالِيقٌ) چکانا

پتھر۔

دَمَلَكُ الشَّيْءُ: چکانا کرنا۔

تَدَمَلَكُ: چکانا ہونا التَّدْيُ: گول ہونا اور

اُھمرا۔

الدَّمَلُوكُ: گول چکانا پتھر۔

دَمَنَ (ن) دَمْنَا: الأَرْضُ: کھا ڈالنا۔

قَدَحٌ (دَمْعَانُ) لباب بھرا ہوا پیالہ۔

الدَّمْعُ: آنسو پینے کی جگہ۔ ج مَدَامِعُ:

الدَّمَاعُ: زرخارہ بر آنسو کا نشان۔

دَمَعَهُ (ف) دَمَعًا: دماغ تک زخمی کرنا۔

صفت مفصول (دَمِيْعٌ و مَدْمُوْعٌ)

ه الشَّمْسُ: دماغ کو تکلیف پہنچانا۔

ه: مغلوب کرنا الحق الباطل: نیت و تابود

کرنا۔ باطل کرنا۔ ناپید کرنا۔

دَمَعٌ: الاطعمَةُ بالدَّمْسِ: چربی ڈالنا۔

أَدَمَعَهُ: اِلَى كَذَا: محتاج بنانا۔ حاجت مند

بنانا۔ أَدَمَعُ الطَّعَامُ: گھٹا الشَّيْءُ: داخل

کرنا۔ شَجَّةٌ (دَامِعَةٌ) دماغ تک پہنچنے والا

زخم۔

الدَّمَاعُ: سر کا بھیجا۔ ج أَدَمِعَةٌ: اُمُّ

الدَّمَاعُ: دماغ کے اوپر کی باریک جھلی۔

دَمَقٌ (ن) دَمُوْقًا: عَلِيَّةٌ: بغیر اجازت کے

داخل ہونا۔

دَمَقٌ (ن ض) دَمَقًا: الشَّيْءُ: چرانا۔

فَاةٌ: رانت توڑنا۔ (وَدَمَقٌ و أَدَمَقُ) الشَّيْءُ

فِي الشَّيْءِ: داخل کرنا۔

اِنْدَمَقُ: عَلِيَّةٌ: بغیر اجازت کے داخل ہونا۔

نکھانا۔

الدَّمَقُ: برف کے ساتھ سخت ہوا۔

الدَّمَاقُ: فَا: (وَالدَّمُوْقُ) مِنَ الرِّجَالِ:

خراب آدمی جس سے کوئی نفع نہ ہو۔

الدَّمِيْقُ: دوسرے میں داخل کیا ہوا۔

المُدْمَقُ: داخل ہونے کی جگہ۔

الدَّمَقْسُ و الدَّمَقَاسُ: سفید ریشم۔ دیا۔

قَوْبٌ (مُدْمَقَسٌ) ریشم کا بنا ہوا کپڑا۔

دَمَكٌ (ن) دَمُوْكًا: الأَرْنَبُ: خرگوش کا

تیز دوڑنا الشَّيْءُ: چکدر اور نرم ہونا۔ (دَمَكًا)

الشَّيْءُ: پینا لِرِشَاءٍ: رسی بنانا۔

الدَّمَائِكَةُ: مصیبت۔ ج دَوَامِكُ:

الدَّمُوْكُ: تیز گزرنے والا۔ کہا جاتا ہے

”رَحِيٌّ دَمُوْكٌ“ تیز پینے والی چکی۔ ج دَمَكٌ:

المذمك. بیلن۔

المذمك. کچی اینٹوں یا پتھروں کا درد۔ ج

رجل (دنعۃ) کے خبر وہ فیض آدمی کہا جاتا ہے۔ "هُوَ مِنْ دَنْعِ النَّاسِ وَه سِنِيه" لوگوں میں سے ہے۔
 دنف (دنف) دنقا المرینض پٹاری کا بڑھ جانا اور قریب المرگ ہونا۔
 الشمس آفتاب کا زبرد ہونا اور ڈوبنے کے قریب ہونا۔ المرض پٹاری کا تیز ہو جانا۔
 الشمس قریب کرنا۔
 الدنف مرض دوائی۔ بیشم کا بیار۔ کہا جاتا ہے "رجل دنف وامرأة دنف وهم دنف" اور کہا جاتا ہے۔ "كادَت الشمس تكُون دنفًا ڈوبنے کے قریب ہے۔
 الدنف مرض لازم واللج اذناف مونت دنفق دنفات۔
 الدنفس بیوقوف عورت۔
 الدنافس بیخو۔
 دنفش زویدہ نگاہ سے دیکھنا۔
 الدنفصہ ملی عورت۔
 دنقوش (دنقوش) دنوقا پارک امورنگانے کا حریص ہونا۔ صفت (دنیق) دنق۔
 دنق الوجہ غم یا مرض سے کمزور ہونا۔
 للموت قریب المرگ ہونا۔ العین کھکھ کا اندر دھنسا جانا۔ الشمس پڑی طرح سے لینا۔
 الشمس آفتاب کا ڈوبنے کے قریب ہونا۔
 الرجلینا الیہ النظر نگاہ تار دیکھنا۔
 الدنفق یہوں میں ایک قسم کا دانہ جس کو اکرا میننا کہتے ہیں۔
 الدائق قافیہ یوقف۔ چور (والدائق) درہم کے چھٹے حصہ کا ایک سکہ۔ ج. ذواق (ذواق) ودوائیکلمہ فارسیہ)
 الدنفشورہ۔
 دنقس زویدہ نگاہ سے دیکھنا۔ بینہ ہنار۔
 دنکس فی بینہ ہنار میں چھپ کے بیٹھنا۔
 اور لوگوں کی ضروریات کے لیے نہ لگانا۔
 دنایدنو دنوا ودناوۃ للشی ومنہ والیمنی چیز کے قریب ہونا۔ صفت (ذان)

دنحون (دنحون) دنحنا۔ الامر کسی کام کو مضبوطی سے کرنا۔
 الدنح عقل مند بولگ۔
 دنح دنوحا و دنح لیل ہونا۔ سر جھکانا۔
 الدنح ہنر انہوں کی ایک عید۔
 الدنح حیات۔
 دنح دنحنا ترانہ ہو کر چلانا۔
 دنح حروقی کرنا۔ ذلیل ہونا۔ سر جھکانا۔ گھر میں رہنا۔
 المندح غصہ کرنے والا۔ وہ شخص جس کے سر میں کہیں پندری اور کہیں پستی ہو۔
 دنندن دنندنۃ الدباب جھنجھٹا الرجل سنگلتنا حول الماعظکر لگانا۔ گھومنا۔
 الدندنۃ سنگلتنا۔ پرانا ہونے کی وجہ سے سیاہ شدہ بولہ۔
 دننر الدننار تذبذب زینار بنانا۔ دننر الوجہ زینار کی طرح روشن و چمکدار ہونا۔
 دننر بہت دینار والا ہونا۔
 الدننار سونے کا ایک برانس سکہ۔ ج. دننار دنننر دننسا و دننساۃ عرَضۃ او ثوبہ او حلقہ فیہ دار ہونا۔ میلا ہونا۔
 صفت (دننن) ادناس و مدانیس۔
 دننساۃ میلا کرنا۔ اور کہا جاتا ہے "دننساۃ سؤء خلقہم" کی بد خلقی نے اس کو عیب دار کر دیا۔
 تدننساۃ ہونا۔
 الدننسن میل کھیل۔ ج. ادناس۔
 المدانسن عیوب گندری جگہیں۔ کہا جاتا ہے "هُوَ یَتَصَوَّن مِنَ الْاَدْناسِ"۔
 والمدانسن سوہ محبوب سے بچتا ہے۔
 دننن دننوعا و دننوعاۃ۔ دننن وہ بے خبر ہونا۔ صفت (دانع) دننن و دننن (دنیق) و دنننۃ)۔
 دننن ذلیل ہونا۔ کمینہ ہونا۔ بھوکا ہونا۔
 خواہش مند ہونا۔
 ادنن صلاء کے طریقہ کی پیروی کرنا۔

الدماۃ۔ الدماحا مونت۔ زخم یا مار جس سے خون بے۔
 الدنجون۔ اس کی اصل دنجون بعض دفعہ لام کلمہ کو حذف کر دیا گیا ہے اور کبھی میم سے بدل لیتے ہیں اور دمجند بولتے ہیں۔
 منشی دمان و دمنیان و دمنوانج دماء و دمی تغیر دمی اور نسبت کے لیے (الدمی و الدموی) دم الاخوان۔
 ایک دوا کا نام۔ الدہلی کہا جاتا ہے "رجل ذو دنجون کا مطالبہ کرنے والا مرد۔
 الدمقون کا کلا۔
 الدمیہ پستل جو خون کی مانند سرخ و منقوش ہو۔ ج. دمی۔
 الدمیاعین و برکت۔
 المدمی بہت سرخ گھوڑا وغیرہ۔ خون لگا ہوا تیر۔
 دنن دنن و دنن۔ الدباب جھنجھٹا (دنن) الرجل سنگلتنا۔ اس طرح بولنا کہ کچھ سمجھ میں نہ آئے۔
 دنن دنن یہ میں جھکاؤ ہونا۔
 صفت (ادننکوت) دننایج دنن بیت ادننیت مکان۔
 ادنن۔ بالمکان اقامت کرنا۔
 الدنن بڑا مدکا جو بغیر زمین کھودے ہوئے نہ رکے۔ ج. دنن۔
 الدننکی ٹوپی۔
 الدننکی ٹوپی کی ماہر ایک کیر۔ ج. دنن دنن (دننک) دننوتۃ و دنناۃ خیس ہونا۔ کمینہ و ذلیل ہونا۔ صفت (دنن) ج. ادنن و دنن۔
 دننن (دننن) دننن الرجل تیرا ہونا۔ صفت (ادننکوت) دننای)۔
 ادنن اونی سواری پر سوار ہونا۔
 دننن ہونا۔
 تدنن کھینک پراسانا۔
 الدننکی عیب۔
 الدنن و الدننۃ و الدننۃ بنت قد۔

ج ذنآة

ذَنِي يَذْنِي ذَنًا وَنَائِيَةً. گھٹیا ہونا۔ روی ہونا۔ صفت (ذنی) ج اذنیاء

ذَنَاهُ تَذْنِيَةً. قریب کرنا۔ ذنی فی الامور: ہر چھوٹے بڑے امر کے پیچھے پڑنا۔ ذانی مُدَانَاةً الْقَيْدُ: بیڑی کو تنگ کر لینا۔ الامرین: قریب قریب کرنا۔

الامر: نزدیک ہونا۔ اذنی اذناء: تنگ زندگی بسر کرنا۔ قریب ہونا۔ قریب کرنا۔ کسی کے قریب کرنا۔ المستور: پردہ لگانا۔

تذنی: تھوڑا تھوڑا قریب ہونا۔ کہا جاتا ہے "بَعِيدٌ يَتَذْنِي خَيْرٌ مِنْ قَرِيبٍ يَتَّبِعُهُ" دور کا آدمی جو تھوڑا تھوڑا قریب ہو اس قریب سے بہتر ہے جو دور ہو۔

تذانی تذانیاً. القوم: ایک دوسرے کے قریب ہونا۔ تذانت ابله: کم ہونا۔ اذنی: قریب ہونا۔

استذناه: قریب ہونے کو کہنا۔ الذناوة: سر قرابت۔ کہا جاتا ہے "بَيْنَهُمَا ذَنَاوَةٌ" ان دونوں کے درمیان قرابت ورشتہ داری ہے۔ الاذنی: ذنی کا اسم تفضیل۔ ج اذان و اذنون. مؤنث ذنیا. ج ذنی. الاذنون: نسب کے لحاظ سے قرہی رشتہ دار لوگ۔

الذنیاء: موجودہ زندگی ج ذنی: نسبت کے لیے ذنیوی و ذنیبوی و ذنیی اور کہا جاتا ہے "هُوَ فِي ذَنِيَا دَانِيَةً" وہ آسودہ زندگی میں ہے جو چاہتا ہے حاصل کر لیتا ہے۔ دھو ابن عم ذنی و ذنیبا و ذنیبا و ذنیبة" وہ چچا کا بیٹا ہے جو نسب میں لاحق ہے۔

المذنی: سیرین الرجال: کمزور۔ ناقۃ (مذن و مذنیة) وضع حمل کے قریب والی اونٹنی۔

ذھنۃ (ف) ذھنًا. دفع کرنا۔ ہٹانا۔ ذھم. البناء: ڈھانا۔

تذھم. ویران ہونا۔ منہدم ہونا۔

ذھذہ و ذھذی. الحجر: لڑھکانا۔

تذھذہ و تذھذی. لڑھکانا۔

الذھذوہ و الذھذوۃ و الذھذیۃ. گھبرایا کی گولی۔

الذھذأ و الذھذاء. چھوٹے چھوٹے اونٹ۔ کہا جاتا ہے "مَا اَذْرَى اَى الذھذاءُ هُوَ" میں نہیں جانتا وہ کون آدمی ہے۔

ذھر (ف) ذھرا. القوم و بالقوم امر مكرؤة: قوم پر امر ناپسندیدہ واقع ہونا۔

الذھر. زمانہ طویل۔ لمبی مدت۔ ذھر الإنسان: انسان کے زندگی گزارنے کا زمانہ۔

دھر عصر کا مرادف ہے۔ مصیبت۔ غایت۔ عادت۔ کہا جاتا ہے "مَا ذَاكَ بَدْهَرِي" یہ میری عادت نہیں "وَمَا ذَهْرِي بِكَذَا" یہ میری عادت و انتہا نہیں۔ غلبہ۔ ج اذھر و ذھور کہا جاتا ہے "لَا آتِيهِ ذَهْرُ الذَاهِرِينَ" میں اس کے پاس کبھی نہیں آؤں گا۔

الذھری. بددین جو عالم کے قدیم و غیر مخلوق ہونے کا قائل ہو۔ الذھریۃ: ایک فرقہ جو عالم کے قدیم ہونے کا قائل تھا۔

الذھری. وہ شخص جس کی عمر طویل ہو اور جس پر ایک زمانہ گزر چکا ہو۔

ذھر (ذاهر و ذھیر) سخت و طویل زمانہ۔

الذھار و المذھرة. غیر معین مدت کے لیے معاملہ کرنا۔

الذھاریو. زمانہ گزشتہ کی ابتداء (اس کے لیے واحد نہیں) مصیبتیں۔ زمانہ کے حوادث۔

کہا جاتا ہے "ذھور ذھاریو" طویل زمانے و "كَانَ ذَاكَ فِي ذَهْرِ الذَّهَارِيو" یہ زمانہ قدیم میں تھا۔

قوم (مذھورون) آفت رسیدہ لوگ۔

ذھس (س) ذھسا. المکان: نرم ہونا کہ جس میں نہ صرف ریت ہی ہونے نہ صرف مٹی۔ صفت (اذھس) مؤنث ذھساء ج ذھس. الادھس: سرخ مائل سیاہی۔

الذھساء: بڑے سرین والی عورت۔

اذھس. القوم: نرم زمین میں چلنا۔

الذھس: نباتات کہ ابھی سبزی غالب نہ ہوئی ہو۔ نرم زمین کہ جس میں نہ صرف ریت ہونے نہ صرف مٹی۔ زمین کہ ابھی اچھی طرح اس پر روئیدگی نہ ہو۔ ج اذھاس۔

ذھسم. الشئی: کسی چیز کو چھپانا۔

ذھش (س) ذھشا و ذھش. متحیر ہونا۔ صفت (ذھش و مذھوش و ذھشان)

ذھشۃ و اذھشۃ. مدہوش کرنا۔

الذھشیم. بہت دیالو فیاض۔ سخی۔ سندر۔ ذھق (ف) ذھقا. الکاس: پیالہ بھرنا۔

الماء: پانی کو تیزی سے گرانالاشئی: توڑنا۔ کاٹنا۔ مارنا۔

اذھق. الکاس: پیالہ بھرنا: جلدی کرنا۔ اذھقت. الحجارۃ: مضبوطی سے ایک دوسرے سے جڑ جانا۔

الذھق. گلجنا۔

الذھاق. من الكنؤوس: بھرا ہوا پیالہ۔ کہا جاتا ہے "کاس ذھاق" چھلکا ہوا پیالہ۔ و "ماء ذھاق" بہت پانی۔

ذھقن. القوم فلاناً: قوم کا کسی کو چودھری بنانا۔

تذھقن. چودھری بنانا۔

الذھقۃ. چودھراہٹ۔

الذھقان و الذھقان. چودھری ج ذھاقنہ و ذھاقین. الذھقان. سوداگر۔

ذھک (ف) ذھکا. الشئی: پیسنا۔ توڑنا۔ الأرض: روندنا۔ المرأة: جماع کرنا۔

الذھکل. سختی بولا۔

الذھلیۃ. آنے سائے تپوں والا بڑے پھولوں والا ایک پودا۔

الذھلیز. ڈوڑھی۔ لمبا تنگ راستہ۔ ج ذھالیز. ابناء الذھالیز: وہ بچے جو راستہ سے اٹھائے جائیں۔

ذھمہ (ف) و ذھمہ (س) ذھما۔ الامر: اچانک آ پڑنا۔

دھوآء۔ الدَّوْبُيْجَلُ۔ ذَاءٌ يَدَاءٌ ذَاءٌ وَذَوْعًا وَذَوْأٌ إِذْوَاءٌ وَإِذَاءٌ وَإِذَاءَةٌ بَيَارٌ هَوْنًا صَفْتٌ (ذَاءٌ وَمُدَى) وَذَوْأٌ مُفْرَضٌ لِاتِّحَاقِ هَوْنًا۔ الدَّاءُ بَيَارِي۔ جِ ذَوْأَةٌ۔ ذَاءٌ الذَّنْبُ: بُھوک۔ ذَاءٌ التَّغْلِبُ بِيَارِي جِسْمِ سِرِّ كَبَالٍ گِر جَاتے ہیں اور اس کو الحاصتہ بھی کہتے ہیں اور اگر کھال بھی گرنے لگے تو اس کو ”ذَاءُ الْحَيَّةِ“ کہتے ہیں۔ ذَاءُ الْفَيْضِ لِيَا كِي بِيَارِي۔ کہتے ہیں ”بِهْ ذَاءُ الطَّبِي“ الذَّبِي بِيَار۔ ذَائِحِينَ) ذَوْجُ قَدَمَتِ كِرْنَا۔ الذَّاجِحَةُ لِنَكْرِ كِ خَدَام۔ چھوٹی حاجتیں۔ کہا جاتا ہے ”مَا تَوَكَّلْتُ حَاجَةَ وَلَا ذَائِحِيئِي نِي چھوٹی نے چھوٹی بڑی کوئی حاجت نہیں چھوڑی۔ اور یا ”ذَائِحَةُ قَوْلٍ مِيں حاجت کا تابع ہے۔ الذَّوْحُ مِصْرٌ لِنَكْرِ جَوَكِ كِسِي مَلِكِ كَاسِرٍ بَرَاهِ هُو۔ ذَائِحِينَ) ذَوْحًا۔ البَطْنُ نَيْتٌ كَ بَھولنا اور لَكْنَا الشَّجَرُ قَوْلًا هَوْنًا صَفْتٌ (ذَائِحَةُ) جِ ذَوَائِحِ۔ ذَوْحٌ۔ المَالُ بَھيرنا البَطْنُ نَيْتٌ كَ بَھولنا اور لَكْنَا۔ تَذَوِّحٌ وَانذَاحٌ۔ البَطْنُ نَيْتٌ كَ بَھولنا اور لَكْنَا۔ انذَاحُ الشَّيْءِ كَبِي جِزِ كَا وَسَبْعَتِ كِ ساتھ پھیلانا۔ الدَّوْحِيَّةُ بِيَارِي بَھولا اور خَت۔ بِيَارِي سَابِيَان۔ جِ ذَوْحِيٌّ اذْوَاحٌ۔ الذَّوْحُ اِمَّا كِن۔ الذَّوْحِيُّ جِزِ كَا مَقْتَضٍ كَهْلُوْنَا رَشْمِ كَا بِنَا هُو نکتن۔ الذَّاحِيَّةُ نِيَا۔ الذَّوْحُ اِحْتِ بِلِنْد۔ ذَائِحِينَ) ذَوْحًا خَلِيلٌ هَوْنًا۔ فِرْوَتِي كِرْنَا البِلَاظَلْبُ هَوْنًا۔ ذَوْحٌ۔ البِلَادُ: وَ (ذَائِحِيَّاتِ رُو مِيں چکر لگانا مَالِبُ هُوَا الرَّجُلُ كَبِي كُو ذَلِيلِ	ذُهْنُ الشَّيْءِ كَبِي جِزِ كَا تِيل۔ جِ اذْهَانًا وِدَهَانًا۔ الذَّهْنَةُ تَهْوِرًا تِيل۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ طَيِّبٌ الذَّهْنَةُ“ جِصْحِي خَوْشِبُوَا لَآ ہے۔ الذَّهْنَاءُ بِيَارِيَان۔ سِرْحَ رَنَكِ كِي اِيكِ گھاس جِس كِ پَتُوں سِے چِرے كُو دِبَاغْتِ دِيسِے ہيں۔ الذَّهَانُ تِيل لگانے والا۔ تِيل بِنِجِنے والا۔ الذَّهَانُ سِرْحَ جِزَا۔ وہ رَوغْنِ جِس كُو دِيوَارِ وغيره پر لگایا جائے۔ پھسلن كِي جگہ۔ الذَّهِينُ كِمِ دُوْدِهْ وَالِي اُو نَشِي۔ تِيل لگانا ہوا۔ كِرْوَر۔ المُذْهِنَانِي كِے مَجْعِ ہونے كِي جگہ۔ تِيل كِي شِيئِي۔ جِ مَذَاهِنِ۔ ذَهْوَرٌ۔ الشَّيْءُ كَبُو مِيں پھيلنا۔ کہا جاتا ہے ”ذَهْوَرُ الكَلَامِ“ ہَا كَامِ كُو اِيكِ دُوسرے كِے چِيچے لَآيا۔ وَ ”ذَهْوَرُ اللِّقْمِ“ نِي لَقْمِ كُو گول كِيا اور نِگَل كِيا۔ ذَهْوَرُ الحَانَطَائِيں نِي دِيوَارِ دِهْ كَا لے كِر گِرَا دِي۔ تَذَهْوَرُ كِرُو مِيں گِرْنَا۔ تَذَهْوَرُ اللَّيْلِ گِر جَرْنَا۔ ذَهْلًا) ذَهْيًا وَذَهْيًا وَذَهْيًا وَذَهْيًا كِي طَرَفِ نَيْتِ كِرْنَا۔ عِيْبُ لگانا۔ مَرْتَبَةُ گھٹانا۔ آفْتِ وَبَلَا پَھوننا۔ ذَهْيٌ (س) ذَهْيًا وَذَهَانَةٌ وَذَهَاءٌ چَالَاكِ ہونا۔ چَالَاكِي سِے كَامِ كِرْنَا۔ صَفْتِ (ذَائِحِ) ذَهَاءُ وَ (ذَوِجِ) ذَاهُونُ۔ ذَاهِيَّةٌ ذَوَائِحِي مِيں تَاہِ مَالِذِ كِي ہے۔ تَمِ كِتَبِے هُو ”رَجُلٌ ذَاهِيَّةٌ وَامْرَأَةٌ ذَاهِيَّةٌ“ چَالَاكِ مَرُو چَالَاكِ عَوْرَتِ۔ تَذَهْيٌ چَالَاكِ ہونا۔ تَذَاهِيَّةٌ كَلْفِ چَالَاكِ بِنَا۔ الذَّهَائِيُّ بِيَارِي۔ ہوشيارِي۔ كِرْوَحِيلِ۔ الذَّهَائِيَّةُ بِيَارِي بَات۔ مَصِيْبَتِ۔ بِيَارِي مَعَامِلِ۔ جِ ذَوَاهِ۔ ذَاهِيَّةٌ ذَهْيًا مَجْتِ مَصِيْبَتِ۔ ذَوَاهِي الذَّهْرِي نَانِ كِ حَوَاثِ۔ الذَّهْيُ مَعْنِي تِيْرُ نَبِي جِ اذْهِيَا	ذَهَمَتِ۔ النَّارُ الْفِئْرُ كِ كَا بَانِي كُو سِيَاہِ كِرْنَا۔ اِذْهَمَ بِنِجِنِ كِرْنَا۔ اِذْهَمَ وَاِذْهَامٌ اِذْهِيْمَانَا۔ الفِرْسُ: گھوڑے كَا سِيَاہِ ہونا۔ الذَّهْمُ بِيَارِي تَحْدَارِ جِ ذُهْمٌ۔ الاذْهَمُ۔ سِيَاہِ نِي نَشَاتِ۔ پَرَانِ نَشَاتِ۔ مَوْنَتِ ذَهْمَالِجِ ذُهْمٌ۔ الاذْهَمُ بِيَارِي۔ جِ اذْهَمُ۔ الذَّهْمُ مَخْلُوقِ۔ کہا جاتا ہے ”اَيُّ الذَّهْمِ هُوَ ذَا الذَّكْرِ كُو كِسِي مَخْلُوقِ ہے۔ الذَّهْمَتِيَايِ۔ الذَّهْمَاءُ۔ الِادْهَمُ مَوْنَتِ۔ بَانِي۔ لُو گُونِ كِي جَمَاعَتِ۔ قَرْمِي مَبِيْنِ كِي اَتِيْسُوِيں رَاتِ۔ اِيكِ چُوڑِي قَسْمِ كِي گھاس جِس سِے چِرے كُو دِبَاغْتِ دِيسِے ہيں۔ حَدِيْقَةُ (ذَهْمَاءِ) وَمَذْهَامَةٌ تَمِرِ سِزِ بَاغِ جِس كِي سِرْبِزِي مَالِ بِيَايِي ہوں۔ الذَّهِيْمِ وَالذَّهِيْمَاءِ وَامُّ الذَّهِيْمِ مَصِيْبَتِ۔ الذَّهِيْمِيُّ تَوَفِ۔ ذَهْمَجِ۔ الشَّيْخُ بِيَارِي پُرے ہونے كِي طَرَحِ چَلْنَا الخِيَارِي طَرَفِ سِے زِيَادِہ كِرْنَا۔ الذَّهْمَجِ الذَّهَامِي جِ بڑے ذِيلِ ذُو لِ كِي جِزِ۔ دُو كُو بَانِ كَا وْنَتِ۔ ذَهْرَانِ) ذَهْنًا وَذَهْنَةٌ۔ الرَّاسُ نَزِيْرُ تِيلِ مَنَا الشَّيْءِ كِرْنَا۔ تِيل لگانا۔ (ذَهْنَةٌ) ذَهْنًا وَذَاهِنَةٌ مَذَاهِنَةٌ وَاِذْهَنَةٌ غَرِيْبِ دِيَا۔ باطنِ كِے خِلَافِ ظَاہِرِ كِرْنَا۔ وَاِذْهَنُ عَلِيْہِ زَمِ كِرْنَا۔ کہا جاتا ہے ”مَا اِذْهَنْتُ اِلَّا عَلِيَّ نَفْسِي كَمِ نِي مَرَفِ اِنِے نَفْسِ پَرِ رَحْمِ كِيا۔ ذَهْنَتِي (ن ض) ذَهَانًا وَذَهَانَةٌ النَّاقَةُ نَشِي كَا كِمِ دُوْدِهْ وَالِي ہونا۔ ذَهْنٌ۔ الشَّيْءُ تِيل لگانا۔ تَر كِرْنَا۔ تَذَهْنٌ وَاِذْهَنُ تِيل لگانا۔ اَلذَّهْنُ ہُوَا اِتِي بَارَشِ جُو زَمِيْنِ كُو تَر كِر دے۔ الذَّهْنُ۔ ذَهْنُ الشَّيْءِ جِصْحِي تَر كِرْنَا كَا اِسْمِ۔
--	--	--

کرنا الوَجُوعُ رَأْسَهُ: درد کا سر کو چکرانا۔
 آدَاخَةُ إِدَاخَةٌ: ذلیل کرنا۔
 الدَّوْحَةُ: سر کا چکر (کلمہ عامیہ ہے فصیح
 دُور و ہڈام ہے)
 لَيْلٌ (دانش) تاریک رات۔
 الدَّوْحَلَةُ وَالدَّوْحَلَةُ: کھجور کے پتوں کی
 زنجیل۔
 دَاذِيدًا دُذُوذًا وَدَوْحُوذًا دُذُوذًا إِدَادَةٌ
 الطَّعَامُ: کھانے میں کیڑا پتہ۔ صفت (مذوذ)
 الدُّوْدَةُ: کیڑا جو دُذُوذًا وَدُذُوذًا
 دُودَةٌ: الفَرَّ: رشیم کا کیڑا۔
 الدُّوَادُ: چھوٹے کیڑے۔ تیز رو مرد۔
 الدُّوَيْدُ: دور کی تغیر (چھوٹا کیڑا)
 الدُّوَادَةُ: جموں لاج الدُّوَادِيَّةُ
 الدِّيْدَاءُ: تیز دوڑ۔
 الدُّوَادَارُ وَالدُّوَيْدَارُ: کاتب۔ منشی۔

(جدید)

دَارَانٌ) دُورًا وَدُورَانًا: گھومنا۔ چکر کھانا
 الذَّهْرُ: اَللِّثَامُ پلٹنا بالشَّيْءِ وَ عَلَيْهِ وَحَوْلَهُ:
 گرد گھومنا۔

ذِيْرٌ: بہ چکرانا۔ سر کا چکر لاق ہونا۔

دُورَةٌ: گول بنا ہونا و بہ: گھمانا۔

دَاوْرَةٌ: مُدَاوْرَةٌ وَدِوَارًا: کسی کے ساتھ

گھومنا عَلَيَّ الْأَمْرُ: کسی کام کو انجام دینا

الْأُمُورُ: کام کو انجام دینے کے لیے غور کرنا۔

إِدَارَةٌ: الشَّيْءُ: گھومنا ہ و بہ: گھمانا

الشَّيْءُ: لِيْنَا الْأَمْرُ: احاطہ کرنا۔

ه عَلَيْهِ: لازم کرنے کا ارادہ کرنا۔

ه عَنْ حَقِيْقَةٍ: حق کو چھوڑ دینے کی خواہش

کرنا۔

أَدِيْرٌ: بہ چکرانا۔ سر کا چکر لاق ہونا۔

تَدُوْرٌ: گول ہونا۔

تَدَيْرٌ: التَّبَعَةُ: کسی جگہ کو مکان بنانا۔

اسْتَدَارَ اسْتِدَارَةٌ: گھومنا الشَّيْءُ: گول ہونا

الشَّيْءُ وَ بہ: گھمانا۔ کہا جاتا ہے "اسْتَدَارَ

بِمَا فِي قَلْبِي" جو کچھ میرے دل میں تھا اس

نے اسے معلوم کر لیا۔

الذَّارُ: گھر۔ مکان۔ رہنے کی جگہ۔ جُ دُورٌ

وَدِيَارٌ أَدُوْرٌ وَأَدُوْرَةٌ وَدِيَارَةٌ

وَأَدُوَارٌ وَدُوْرَاتٌ وَدِيَارَاتٌ وَدُوْرَانٌ

وَدِيُوْرَانٌ (کلمہ مؤنث ہے کبھی مذکر استعمال

کرتے ہیں)۔ الذَّارُ: شہر۔ قبیلہ۔ کہا جاتا ہے

"مَرَّتْ بِنَا دَارَ بَنِي فُلَانٍ" یعنی ہم بنو فلان

کے قبیلہ سے گزرے۔ سال یا زمانہ۔

دَارُ الْقَوَارِ: جنت۔ الدَّارَانُ: دنیا و

آخرت۔ دَارُ الْحَرْبِ: وہ مقام جہاں غیر

الہی قانون رائج ہو۔

الدَّارَةُ: اُترنے کی جگہ۔ قبیلہ۔ پہاڑوں کے

درمیان وسیع زمین۔ حلقہ۔ چاند کا بالہ۔ ج

دَارَاتٌ وَدُوْرٌ

(وَالدِّيْوَرَةُ وَالتَّدْوِيرَةُ) مِنَ الرَّمْلِ: گول

ریتنی جگہ۔ وَدَارَاتُ الْعَرَبِ: عرب کے

شہروں کے مشہور مقامات جو ایک سو دس سے

زائد ہیں۔

الدَّارِيَّةُ: عطر فروش (دارین کی جانب

منسوب ہے جو بحرین میں ایک بندرگاہ ہے اور

جہاں ہندوستان سے منگ آتی تھی۔ ملاح جو

پتواری کا نگہبان ہو۔ چوپائے و مویشی والا۔ کہا جاتا

ہے "مَا فِي الْمَكَانِ (دَارِيٌّ أَوْ دُوْرِيٌّ أَوْ

دِيَارِيٌّ أَوْ دِيُوْرِيٌّ) یعنی کوئی نہیں۔ الدُّوْرِي:

ایک قسم کی چڑیا۔

الدَّارِيَّةُ: ہمیشہ گھر میں رہنے والا (تا مبالغہ

کے لیے ہے)۔

الدُّوْرُ: س۔ حرکت۔ گھوم۔ چکر۔ ج أَدُوْرٌ

دَفْعَةٌ عِنْدَ الْأَطْيَاءِ: بخاری باری۔ عِنْدَ

الْمَوْسِيْقِيِّينَ: دو یا زائد شعروں کا قطعہ۔

عِلْمُ الْأَدُوْرِ: فن موسیقی۔

الدُّوْرَةُ: دار کا اسم مرہ۔

الدُّوَارُ وَالدُّوَارُ: سر کا چکر۔

الدُّوَارُ وَالدُّوَارِي: بہت پھرنے والا۔ کہا

جاتا ہے "الذَّهْرُ: دُوَارٌ وَدُوَارِيٌّ

بِالْإِنْسَانِ" زمانہ انسان کے ساتھ اُلٹنے پلٹنے

والا ہے۔ یعنی طرح طرح کے حوادث سے

دوچار کرتا ہے۔

دُوَارُ الشَّمْسِ: سورج کبھی۔

الدُّوَارُ: ریت کا گول تودہ۔ منزل۔

الدُّوَارَةُ: پرکار۔ اوپر کے ہونٹ کا گڑھا۔

الدُّوَارَةُ وَالدُّوَارَةُ: مِنَ الرَّاسِ: سر کا

گول حصہ۔ دُوَارَةُ البَطْنِ: بکری کا اوچھ۔

الدَّائِرَةُ الْكَبِيْرَةُ يَا الْعَظِيْمَةُ: اس کا قطر کمرہ

کے قطر کے برابر ہو۔

الدَّائِرَةُ الصَّغِيْرَةُ: جس کا قطر کمرہ کے قطر سے

تھوڑا ہو۔

دَائِرَتَانِ مُتَعَامِدَتَانِ: برابر والے دو

دائرے۔ جس کے عمود القطع نظر ہوں۔

دَائِرَةُ السَّمْتِ الْإِغْتِدَالِيَّةُ

وہ جس میں زمین کے دو قطب سورج کی مسافت

برابری پر ہواں وجہ سے زمین پر روشنی نصف

علاقہ پر پڑتی ہے اور باقی نصف پر اندھیرا ہوتا

ہے اس وقت رات دن کے گھٹنے برابر ہوتے

ہیں اور یہ اعتدال سال میں دو دفعہ ہوتا ہے ایک

دفعہ ۲۳/۲۱ ذی الحجہ (مارچ) اس کو اعتدال ربیعی

بولتے ہیں اور دوسری دفعہ ۲۳/۲۲ ایلول یعنی

ستمبر اس کو اعتدال خریفی بولتے ہیں۔

"دَائِرَةُ السَّمْتِ الْقَلْبِيَّةُ"

وہ دائرہ جس میں سورج خط استوا کا کافی فاصلے پر

ہوتا ہے اور چند دن کے لئے ظاہر ہوتا ہے گویا

کہ وہ اپنی جگہ پر قائم ہے اور یہ سال میں دو دفعہ

ہوتا ہے ایک دفعہ ۲۱ حیران یعنی جون۔ اس کا

نام انقلاب صغی ہے۔

دوسری دفعہ ۲۱ کانون اول یعنی ۲۱ دسمبر اس کو

انقلاب شتوی بولتے ہیں۔

الدَّائِرَةُ: جو کسی چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہو۔

حلقہ۔ انسان کے پیشانی کے پاس کی بھنوری۔

گھوڑے کے بدن کی بھنوری۔ ٹکست۔

معیست عِنْدَ الْمُهَنْدِسِيْنَ: سطح مستوی

جس کو ایک گول خطہ احاطہ کئے ہوئے ہو اور

اس گول خطہ کا نام محیط ہے۔

مَرْكَزُ الدَّائِرَةِ: دائرہ کے بیچ کا نقطہ۔ قطر۔

الدَّائِرَةُ: وہ خط مستقیم جو مرکز سے گزرتا ہو

دائرہ کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر دے۔ ج

ذَوَابِرُ کہا جاتا ہے ”ذَارَتْ عَلَيْهِمُ
الدَّوَابِرُ بِمَعْنَى أَنْ يَرْمَصَابُ يَرْصُ
الذَّبِيرُ رَاهِبُونَ كَرِهَتْ كِي كَجِهْ- جِ أَدْبِيرَةٌ
وَذُبُورَةٌ وَأَذْيَابٌ.
الذَّبِيرَانِي وَالذَّبِيرَارُ وَيُرْوَى بِالْأَدْبِيرِ كَارِهَتْ
وَاللَّ-

الإدارة اور اک اسم و مصدر۔
مَذَارُ: الشَّيْءُ: جَسْ بِرُكُونِي جِزِرْ كِهْ كِهَائِي
الأمْرُ: كِسِي كَامْ كَادِرُ وَمَدَارُ-
المُدَارَةُ ذُولُ كِي اِي كِي قَسْمُ-
المُدِيرُ: مُبِيرُ- مُتَقَمُّ- مُوَرَزُ-
ذَوْرَنُ: القَانُونُ وَ نَحْوُهُ: سِتَارُ، سَارِكِي
وغيره کے تارکنا۔ کلمہ فارسیہ اس کا مراد
عربی میں بَصْرٌ وَ بَطْطَبُ-
دَاسُ (ن) دَوَسًا وَ دِيَانَسًا وَ دِيَانَسَةً
الشَّيْءُ نَاوَسُ لَمَّا فَلَانًا: كِسِي كُو ذُو كِلْ كَرْنَا
السِّيْفُ: تَلْوَارُ كُو صِيغَلْ كَرْنَا-

(وَ اَدَاسُ) الزَّرْعُ كِهْ كِهْنَا-
دَاوَسُ: القَوْمُ بَغَضَهُمْ بَغَضًا فِي
القِتَالِ: جِنَكْ مِيں اِي كِ دوسرے کو پاؤں سے
رودندا۔

اِنْدَاسُ پاؤں سے رودنجانا۔
الدِّيَسَةُ كِهْ كِهْنَا جِنَكْ: جِ دِيَسُ وَ دِيَسُ-
الدَّوَاَسَةُ وَ الدَّوِيَسَةُ جَمَاعَتُ-
الدَّوَاَسُ بَهَادِرُ- شِيْرُ-
الدَّوَاَسَةُ نَاكُ-
المَدَاسُ جَوِيْتُ-

المَدَوَسُ وَ المَدَوَسُ: كِهَائِي كَرْنِي كَا
اوزار۔ صِيغَلْ كَرْنِي كَا اَلَمْ- جِ مَدَاوَسُ وَ
مَدَاوِيَسُ-
الدَّوَاَسَةُ جَوِيْلَا بِي كَرْنِي كَا تَانِي كِي كَرُوِي-

چکی یا رہٹ چلانے کے لئے لوہے کا ٹکڑا۔
سَانِكِلْ كَا پِيْدَلُ-
ذَوُشْتُ (س) ذَوُشًا: عَيْنُهُ تِيَارِي سِي
آكِهْ خَرَابُ هُوْنَا- مَفْتُ (أَدُوَشُ) هُوْنْتُ
دُو شَاعِجُ دُو شُ-
ذَوُعَةٌ جِ دُو عُ-

ذَاغُ (ن) ذَوُعًا: القَوْمُ: سَبُّ كُو مَرَضُ
لَا حَقَّ هُوْنَا الطَّعَامُ: سَبَسْتَا هُوْنَا-

ذَاغُهُ الحَرُّ: مَرِي كَا كِسِي جِزِرْ كُو كَا ذُرِيْنَا-
خَرَابُ كَرْنَا-

الدَّوُعَةُ: يُو قُوِي- سَرُوِي-
ذَافُ (ن) ذَوُفًا وَ اَذَافُ: الدَّوَاءُ وَ

نَحْوُهُ: مَلَانَا- مَخْلُوطُ كَرْنَا- پَانِي مِيں كِهْلَانَا اُوْر
گَاڑھا ہونے کے لئے حركت دينا۔ مَفْتُ
(مَدُوْفُ وَ مَدُوْوُفُ وَ ذَا نَفُ)
الدَّوُفَانُ كَا بُوَسُ-
الدَّوُفُصُ تِيَارُ-

ذَاقُ يَدُوْقُ ذَوُفًا وَ ذَوُفًا وَ ذَوُوْقَةً
وَ ذَوَاقَةً: دِيْلَا هُوْنَا- يُو قُوْفُ هُوْنَا- مَفْتُ
(ذَا نَفُ) الطَّعَامُ تِيَكِهْنَا-
أَذَاقُ: القَوْمُ بَهْ اِحَاظُ كَرْنَا-

اِنْدَاقُ اِنْدِيَاقًا: بَطْنُهُ نِيْطُ كَا پَهْوَلْنَا-
الدَّوُوقَةُ وَ الدَّوُفَانِيَّةُ: نَسَارُ- تَبَانِي-
يُو قُوِي-
الدَّوُوقُ: يُو قُوِي-
الدَّوُوقَةُ: تَقِيْرِي ذُوْلَتُ-

ذَاكُ (ن) ذُوْكًا وَ مَدَاكًا: القَوْمُ:
مَضْرَبُ هُوْنَا- جِيصُ مِيں پُرْنَا- بِيَارُ هُوْنَا
الشَّيْءُ كُو ثَا- رَغْرْنَا- پِيْنَا المَرَاةُ جَمَاعُ كَرْنَا
الطَّيْبُ هُو كِهْنَا-
تَدَاوَكُ: القَوْمُ: لَزَائِي جَهْلُ كَرْنِي مِيں بَاهِمُ
تَكُ هُوْنَا-

الدَّوُكَةُ وَ الدَّوُكَةُ: جَهْلُ كَرْنَا- رِيَالِي-
المَدُوْكُ وَ المَدَاكُ: خُشْبُو پِيْنِي كَا پَتْرُ يَادُهُ
پَتْرُ جِسْ پَرُ خُشْبُو پِيْنِي جَانِي-
ذَالَانُ (ذَوْلَانُ) ذَوْلَةٌ: الزَّمَانُ اِي كِي حَالُ سِي
دوسرے حال کی طرف پلٹنا۔ كِهَا جَاتَا بِي
”ذَالَتْ لَهُ الدَّوْلَةُ“ ذَوْلَتُ اس كِيْلِي كَرْنَا
پَلْتُ كِهِي الرُّجُلُ فِي مَشِيْبِي نَاوُجُوْرُ جِجُوْنِي
جِجُوْنِي قَدَمُ كَرْنِي كِي تِيَزُ چِلَانَا بَطْنُهُ نِيْطُ كَا
لَكْنَا الثَّوْبُ بِيْرِي كِي كَا بُو سِيْدُهُ هُوْنَا- پَرَانَا هُوْنَا
(ذَالَةٌ وَ ذَوْلَانُ) مَشْهُورُ هُوْنَا-

ذَاوَلُ مَدَاوَلَةٌ: اللّٰهُ الْاَيَّامُ بِيْنِ النَّاسِ:
اللّٰهُ تَعَالٰی كَا زَمَانِي كُو لُو كُوں كِي دَرْمِيَانُ اَلْكِنَانُ پَلْتَا
كِي كِهِي اِي كِ جَمَاعَتُ كِي لِي بِي هُو كِهِي دوسری
كِي لِي المَاشِي بِيْنِ قَدَمِيْبِي: كِهِي اِي كِ
قَدَمُ پَر كِهْرُ اهُوْنَا اُوْر كِهِي دوسرے پَر-
اَذَالَةٌ: الشَّيْءُ: بَارِي بَارِي اِي كِ كِي
بَعْدُ دوسرے كُو دِيْنَا اللّٰهُ نَبِي فُلَانُ مِيْنِ
عَدُوْهُمْ: غَلِيْبُهُ دِلَانَا- فَرِحَ مَدْرُ كَرْنَا اللّٰهُ زَيْدًا
مِيْنِ عَمِيْرُ وَ جَمُوكُ مَفْتَلُ كَرْنَا-
تَدَاوَلْتُهُ: الْاَيَّامُ: نَاقُوْنُ تَاطِهْ لِيْنَا: بَارِي
بَارِي لِيْنَا- اُوْر اِسِي سِي مَحَاوِرُهُ- ”تَدَاوَلُوْنَا
الشَّيْءُ بِيْنَهُمْ“ اُنْهُوْنِي نِي جِزِرْ كُو بَارِي بَارِي
لِيْنَا-

اِنْدَالُ: بَطْنُهُ تِيَكُ كَرَزُ مِيْنِ تِيَكُ پِيْنِيْنَا-
مَافِي بَطْنِيْبُهُ خَارُجُ هُوْنَا الشَّيْءُ تِيَكِهْنَا-
القَوْدُ: اِي كِ جِگْ سِي دوسری جِگْ مَفْتَلُ هُوْنَا-
اِسْتَدَالُ: الْاَيَّامُ: زَمَانُهُ كُو اِنِي مَوَافِقُ كَرُ
لِيْنَا-

الدَّوْلَةُ: بِيْنِ (وَ الدَّوْلَةُ) اِي كِي جِزِرْ جُو كِهِي
كِسِي كِي لِي بِي اُوْر كِهِي كِسِي كِيْلِي بِي اُوْر اِسِي وَ جِي سِي
بَالُ اُوْر غَلِيْبُ پَر كِهِي اِطْلَاقُ هُو تَابِي- وَ الدَّوْلَةُ
عِنْدَ اَرْبَابِ السِّيَاسَةِ: بَارِشَاهُ وَ وِزْرَاءُ-
حُكُومَتُ- مُوْرَمَنْشُ- رِيَاَسَتُ- جِ ذَوَلُ
وَ ذَوَلُ اُوْر كِهَا جَاتَا بِي ”كَانَتْ لَنَا عَلَيْهِمْ
الدَّوْلَةُ“ اِهْمُ كُو اِنِ پَر غَلِيْبُ حَاصِلُ هُوَا-
”وَ الدَّهْرُ ذَوَلُ“ زَمَانُهُ كُو قَرَارُ نِيْطُ اِي كِ
حَالَتُ پَر نِيْطُ رِهْتَا-
الدَّالَةُ: شِهْرَتُ- جِ ذَالُ-
الدَّوْلَةُ: مَصِيْبَتُ- جِ ذَوَلَاتُ-
اِلَا ذَالَةُ غَلِيْبُهُ: كِهَا جَاتَا بِي ”ذَوَالِيكُ“ بِيْعِنِ
كِي بَعْدُ دِيْگِرِي- مُطَلَبُ يِي بِي كِي اِي فُلَانُ
كَامُ كُو كِي بَعْدُ دِيْگِرِي كَرْنَا- اُوْر اِسِي سِي مُرَادُ
تَاكِيْدُ هُوِي بِي- اُوْر كِهَا جَاتَا بِي ”فَعَلْنَا ذَالِكُ
ذَوَالِيكُ“ اِهْمُ سِي اُسُ كُو بَارِي بَارِي كِيَا-
دَامُ يَدُوْمُ وَ يَدَامُ ذَوْمًا وَ ذَوَامًا
وَ دِيْمُوْمَةً: هِيْمِيْشُ رِهْتَا- مَافِيْتُ رِهْتَا-
الشَّيْءُ: مَشْهُورُ: هُوْمَانَا الدَّلُو: مَهْرُ جَانَا
”دَمِنْتُ تَدُوْمُ“ بِيْعِنِ مَاضِي كُسُورُ الْعِيْنِ اُوْر

مضارع مضموم العین نادر ہے۔ "ماذام" افعال ناقصہ میں سے ہے جیسے "لا یجوزی الاصلاح ماذام فلان حاکمًا" یعنی اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک فلاں شخص حاکم ہے (ذیمًا) السماء: لگاتار برسا۔

ذیم بہ و اذیم بہ سر چکرتا۔
ذومت تذویما الشمس: وسط آسمان میں گھومنا الخمر شاربها: سر چکرا دینا عینہ: حلقہ میں پھرنا الشیء: تر کرنا العمامة: سر کے گرد لینا الطائر: فضا میں چکر لگانا الزعفران فی الماء: سرگزر گھسنا القدر: ٹھنڈے پانی کا چھینا دے کر جوش ٹھنڈا کرنا بالذوامة: لٹو سے کھینا (و ذیمت) السماء: لگاتار برسا۔
داوم: علی الامر: بھنگی کرنا الشیء: مہلت سے کرنا بھنگی طلب کرنا۔

ادام اذامة الشیء: ہمیشہ کرنا الامر: بھنگی کرنا۔ اذامت السماء: لگاتار برسا۔ الذل: بھرنا القدر: ٹھنڈے پانی کا چھینا دے کر جوش ٹھنڈا کرنا۔
تذوم انتظار کرنا۔
استدوام استدامة الشیء: مہلت سے کرنا۔ بھنگی طلب کرنا الطائر: فضا میں چکر لگانا غریمة: نرمی کرنا۔

الدائم: فاماء دائم: ٹھہرا ہوا پانی۔
الدائم: سمندر۔
الدوم: سر ہمیشہ۔ کھجور کی مانند ایک درخت۔ بڑے بڑے درخت۔

الدوام: سر کا چکر۔
الدومان: پرندے کا منڈلانا۔
الذیمة: لگاتار بارش جس میں چمک و گرج نہ ہو۔ ذیم و ذیوم: کہا جاتا ہے "مطر تہم السماء بذیمة ویدیم" آسمان نے ان پر لگاتار بارش کی۔
الدما: بھڑخ جیسا ایک کھلونا۔
الذیما: ایک قسم کا جائے نماز

الذوامة: لٹو۔ ذوام: اللذیوم ہمیشہ۔
المذام والمذامة شراب۔
المذام: لگاتار بارش۔
المذیم: جس کی ناک سے خون جاری ہو۔
المذیم: وہ جگہ جہاں لگاتار بارش ہو۔ کہا جاتا ہے "مکان مذیم وارض مذیمة" لگاتار بارش والی جگہ یا زمین۔

المذوم والمذوم ذولی: لکھیر۔
ذومل ذوملة: بین القوم: اصلاح کرنا۔
ذان یذون ذونا: گھٹیا ہونا۔ کمزور ہونا۔
ذون: الذیوان: ترتیب دینا ۵: ہر جسر میں نام لکھنا۔
اذین: گھٹیا ہونا۔ کمزور ہونا۔

تذون پورے طریقے سے مستغنی ہونا۔
ذون: نیچے۔ کہا جاتا ہے "هو ذونه" وہ اس سے مرتبہ میں کم ہے۔ آگے۔ کہا جاتا ہے "مشی ذونه" وہ اس کے آگے چلا۔ و بعضی غیر۔ کہا جاتا ہے۔ "من ذون ان یفعل" بغیر کرنے کے۔ الذون: گھٹیا۔ حقیر کم مرتبہ جیسے "شیء ذون" گھٹیا چیز۔ اور کبھی شریف کے معنی میں آتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے۔ "حائل القوم ذون فلان" یعنی قوم فلاں کے اور اس کے مطلوب کے درمیان حائل ہو گئی۔
ذونک: اسم فعل بمعنی خذ یعنی لو۔ کہا جاتا ہے "ذونک زیدا" یعنی زید کو پکڑو۔

الذیوان والذیوان: مجموعہ کتب۔ اشعار و قصائد کا مجموعہ۔ رجز جس میں وظیفہ خواروں یا فوجیوں کے نام درج ہوں۔ ذ ذواوین و ذباوین: کچہری۔ کونسل۔
ذوین: دون کی تفسیر۔
ذاون (ذون): ذوہا: متحیر ہونا۔
تذوه الشیء: متغیر ہونا الامر: مشغول ہونا۔ کسی کام میں ہنس پڑنا۔
ذوی: جنگل میں چلنا۔
الذو والذویة: جنگل۔
ذوی (س): ذوی: بیمار ہونا صذرہ: کینہ

رکھنا۔
ذوی (ض): ذویا: لگاتار سالی دینا۔
ذوی تذویة: اللب: دودھ پر باریک جھلی سی جھنا السحاب: گرجنا الصوت: لگاتار سالی دینا۔
ذواوی مذواوة: المریض: بیمار کا علاج کرنا۔

اذوی اذواء: مریض کے ساتھ رہنا۔ ۵:
بیمار ڈالنا۔ کہا جاتا ہے "فلان یدوی ویذوی" فلان بیمار ڈالتا ہے اور علاج کرتا ہے۔
تذواوی: خود اپنا علاج کرنا۔


الذوی: سر۔ بیمار۔ یوقف: اپنی جگہ پر ہمیشہ رہنے والا۔ کہا جاتا ہے "رجل ذوی ورجال ذوی ونساء ذوی" نڈر کومونٹ واحد جمع سب کیلئے لفظ واحد ہی ہے اس لیے کہ اصل میں یہ مصدر ہے۔

الذواة دوات: ج ذوی و ذوی و ذوی و ذویات: انور خریدہ وغیرہ کا چھلکا۔
الذواية والذواية: بھڑی باریک جھلی سی جو دودھ وغیرہ پر ہو جائے۔ الذواية: دانٹوں کی زردی۔

الذوی: مریض۔ خراب پیٹ والا۔
یوقف: اپنی جگہ پر ہمیشہ رہنے والا۔
الذوی: آواز۔ ہوا کی سنناٹ۔ کبھی کی کبھی سنناٹ۔ پرندہ کی پھڑ پھڑاہٹ۔ اور بعضوں کے نزدیک بادل کے گرج کے لیے مخصوص ہے۔ کہا جاتا ہے "مافی الدار ذوی و ذوی و ذوی یعنی گھر میں کوئی نہیں۔

مکان ذوی: صحت کے لیے ناموافق۔
الذیوذ: دوسو کی پڑا ج ذیابند ذیابوذ۔
ذات یدیت ذینا: نرم و آسان ہونا۔
ذینہ نرم کرنا۔ ذینہ الذہر: تجربہ کار بنانا۔ طریق مذیت پالنا راستہ۔
ذاج یدیح ذیجا و ذیجانا: تھوڑا چلنا۔
الذیان: بڑی دل۔
ذاج (ض): ذیخا نرم ہونا۔

<p>(ڈینامیٹ) (DYNAMITE) المَدِينِ غلام۔ بدلہ دیا ہوا۔ وہ شخص جس سے حساب لیا گیا ہو۔ مؤنث مدینۃ۔ کہا جاتا ہے "فَلانَ مَدِينٍ و مَدِينَةٌ" فلاں کیلئے لوطی غلام ہے۔ المَدَانِ قرض دار۔ (المَدِيَانِ) بہت قرض لینے یا دینے والا۔ (مذکر مؤنث) ج مدایین۔ الْمَدِينِيَّةُ: ارسطو کا فلسفہ: ہادی عناصر کا اعتراف نہ کرنا سوائے ان کے جن کا عملی مرکب جسموں کے پھیلاؤ اور ان کے خالص کو محدود کرے۔ دِينَامُوْمِتر: شدت قوت کی پیمائش کا اوزار۔</p>	<p>عزیز ہونا۔ ذلیل ہونا۔ فرماں برداری کرنا۔ تا فرمائی کرنا۔ دَانَ (ض) دِينًا و دِيَانَةً و تَدِينٍ. بالملة الاسلامية: دین اختیار کرنا۔ دِينَةٌ. اپنے دین کے تابع بنانا۔ دِينَةُ الشَّيْءِ: مالک بنانا۔ دَائِنَةٌ مَدَائِنَةٌ. فیصلہ کیلئے لے جانا۔ قرض کا معاملہ کرنا۔ اَدَانَ اِدَانَةً. قرض لینا: قرض دینا۔ تَدِينٍ. قرض لینا۔ تَدَايِنِ القَوْمِ: ایک دوسرے سے قرض لینا۔ قرض سے خرید و فروخت کرنا۔ اَدَانَ اِدْيَانًا و اِسْتَدَانَ اِسْتِدَانَةً. قرض لینا۔ اَدَانَ الشَّيْءِ: ادھار خریدنا۔ الدَّيْنِ. قرض۔ کہا جاتا ہے "قَضَى دَيْنَهُ" یعنی وہ مر گیا۔ ج دُيُونٌ و اُدْيِينِ. الدَّيْنِ. من حساب۔ اسی سے ہے "يَوْمَ الدَّيْنِ" ملکیت۔ قدرت۔ حکم۔ مذہب۔ ملت۔ حالت۔ عادت۔ سیرت۔ تدبیر۔ تا فرمائی۔ گناہ۔ مجبوری۔ پرہیز گاری۔ فرمانبرداری۔ بدلہ۔ قہر و غلبہ۔ ذلت۔ ج اَدْيَانِ. کہا جاتا ہے۔ "قَوْمٌ دَيْنٌ" فرمانبرداری کرنے والے لوگ۔ الدَّيَانَةُ. دینداری۔ تمام وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے تحت میں آئیں۔ ملت و مذہب۔ ج دِيَانَاتِ. الدَّيْنِ. دیندار۔ دین کو مضبوطی سے پکڑنے والا۔ الدَّيْنَةَ. قرض۔ کہا جاتا ہے "بِعْتَهُ دَيْنِيَّةً" میں نے اس کے ہاتھ ادھار بیچا۔ فرمانبرداری۔ عادت۔ الدَّيْنُونَةُ. قضا۔ حساب۔ دینامو: ڈینمو (DYNAMO) بجلی پیدا کرنے والا آلہ الدَّيَانِ. قاضی۔ غلبہ والا۔ حاکم۔ حساب لینے والا۔ بدلہ دینے والا۔ الْمَدِينِيَّةُ: ہائیڈروکلورک ایسڈ H. C. L</p>	<p>دِينِيَّة. ہزم کرنا۔ الدَّيْنِيَّةُ. خوشہ خرم۔ ج دِينِيَّةُ. الدَّيْنَانِ و الدَّيْنَانِ. عادت۔ الدَّيْنِ. راہوں اور نٹوں کے رہنے کی جگہ۔ ج اَدِيْرَةٌ و اَذْيَارٌ و دُيُوْرَةٌ. اور نسبت کے لیے خلاف قیاس (دنیوانی) الدَّيْنَارِ. دیروالا۔ گھر میں رہنے والا۔ الدَّيْنِيَّةُ. گھوڑا جس کے سر سے سلعے بکروم تک سیاہ لکیر ہو۔ دَاَصٌ يَدِيْنُصٌ دِيَصَانًا. ٹیڑھا ہونا عن الطریق: ہٹ جانا۔ دَاَصَتْ الْعَدَّةُ بَيْنَ الْجِلْدِ و اللَّحْمِ: غدو کا دبانے سے ادھر ادھر ہونا۔ دَاَصٌ (ض) دِيَصًا. لڑائی سے بھاگنا۔ کینہ ہونا عن الطریق: ہٹ جانا۔ کتر اجانا۔ اِنْدَاَصٌ. ہاتھ سے پھسل جانا۔ بِالشَّرِّ عَلَيَّ فُلَانٌ: اچانک لانا۔ الدَّائِنِصُ. فاجر۔ ج اَصَاةٌ. کسی چیز کے گرد چکر لگانے والا۔ الدَّيَاَصُ. مضبوط ٹھپے والا۔ الدَّيَاَصُ. غموٹ لگانے کی جگہ۔ دَاَقَهُ يَدِيْنُهُ دِيْقًا. اُكْبِرُ نِي كَيْلِي لِيْزِهَا كِرْنَا. الدِّيْنِكُ. مرغ۔ ج دُيُوْكٌ و اَذْيَاكٌ و دِيْكَةٌ. بِيْضَةُ الدِّيْنِكِ: اس چیز کیلئے مثال کے طور پر بولتے ہیں جو صرف ایک ہی بار ہو۔ الدِّيْنِكُ: بڑا مہربان۔ موسم بہار۔ اَرْضٌ (مَدَاكَةٌ و مَدَاكَةٌ و مَدِيْكَةٌ) بہت مرغوں والی زمین۔ دِيْنِكْسُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ: لوگوں کی ضرورت کے لیے باہر نہ لگانا۔ دَاَنَهُ يَدِيْنُهُ دِيْنَا. قرض دینا۔ صفت قاعلی (دائین) و صفت مفعولی (مذیون) الرَّجُلِ: قرض لینا۔ صفت (دائین) فُلَانًا: بدلہ دینا۔ دَاَنَهُ (ض) دِيْنَا. مالک ہونا۔ غلام بنانا۔ نا پسندیدہ بات پر آسانا۔ ذلیل کرنا۔ حکم دینا۔ خدمت کرنا۔ بھلائی کرنا۔ دَانَ الرَّجُلِ:</p>
--	---	--



ذ: الذال: نواس حرف بنیادی حروف میں سے۔
لثوی حروف سے ہے۔ حساب جمل میں اس
کے نمبر ۵۰۰ ہے۔

ذایہ اسم اشارہ ہے قریب کیلئے۔ شنیہ حالت
رفعی میں ذان۔ اور حالت نصی و جری میں
ذین۔ ج اولاء۔ اور شانہ طریقہ سے ذینا
استعمال کرتے ہیں۔ اور اس پڑھاء تنبیہ داخل
کر کے هذا بولتے ہیں اور جب نہن یا ما
استفہامیہ کے بعد ذایہ ہو تو الیدی کے معنی
میں ہوتا ہے۔ جیسے ”مَاذَا فَعَلْتُ وَمَنْ
ذَائِي الذَّار“ کیا ہے جو تم نے کیا۔ کون ہے جو
گھر میں ہے۔ اور مَا کے ساتھ اسم استفہام
ہوتا ہے۔ جیسے ”لِمَا ذَاتَرُ كُنْتَا“ تو نے ہم کو
کیوں چھوڑ دیا ہے؟

ذاك: اسم اشارہ متوسط کیلئے اور پناہ تنبیہ کے۔
ساتھ هذاك۔ اور تفسیر کی صورت میں ذِيَاك
اور شنیہ حالت رفعی میں ذَانِك اور حالت نصی
درجی ذَيْنِك اور جمع ذِيَاك۔

ذالِك: اسم اشارہ بعد کیلئے۔ شنیہ ذَانِك۔ ج
أُولَيْك اور تصغیر ذِيَاك۔

ذَاب (ف) ذَابَا الشی: جمع کرنا لذایبہ:
جانور کو ہانکنا: خوف دلانا دھکانا۔ مذمت
کرنا الغلام: لڑکے کی زلفیں بنانا۔ ذَابْتَه
الریح: ہر جانب سے آتا الرجل: سخت
آواز نکالنا۔ تیر چلنا۔

ذَبَّ: بھیڑنے سے گھبراتا۔ بکریوں میں
بھیڑنے کا پڑنا۔

ذَبَّ (س) ذَابَا وَذُوبَ (ک) ذَابَةٌ۔
مکاری و خباثت میں بھیڑنے جیسا ہونا۔
بھیڑنے سے ڈرنا۔

أَذَابَ: بھیڑنے سے گھبراتا الارض:
بھیڑیوں والی ہونا ذَابَ (الغلام: لڑکے کی
زلفیں بنانا۔ ذَابَتْ: گھبرا دینا۔

تَذَابَّ: خباثت میں بھیڑنے جیسا ہونا
الشی: کسی چیز کو ہاری سے لینا۔
تَذَابَّتْ وَتَذَابَّتِ الرِّيحُ عَلَيْهِ: کبھی ادھر
سے کبھی ادھر سے آتا۔ تَذَابَّتْ وَتَذَاءَبَتْ
الرِّيحُ: ہر جانب سے چلنا۔ الحجن: گھبرا
دینا۔

تَذَابَّ وَتَذَابَّتِ لِلنَّفَقَةِ: اونٹنی کو دوسری
کے بچے پر مہربان بنانے کیلئے بھیڑنے جیسا بن
کر چھونا۔

اسْتَذَابَ اسْتَذَابَا: بھیڑنے جیسا ہونا۔
الذَّابُ: سر۔ فحش۔

الذَّبُّ: بھیڑنا۔ ج ذَبَّابٌ وَادُّوْبٌ
ذُوبَانٌ۔ ذَاءُ الذَّبِّ: بھوک۔ ذُوبَانٌ
العرب: عرب کے چور و قراء۔

الذَّبَّةُ: مادہ بھیڑنا۔ ایک بیماری جو جانوروں
کے گلے میں ہوتی ہے۔ کچھ پازمین کے دونوں
پہلوؤں کے درمیان کی کشاویگی۔

الذَّبَّانُ: اونٹ کی گردن اور ہونٹ کے
بال۔ اون جو تراش لینے کے بعد باقی رہ جائے۔
الذَّبَابَةُ: پیشانی کے بال۔ تلوار کا علاقہ۔
ذُوبَانَةٌ مَلَّ شَيْءٌ: چوٹی۔ اور اسی سے ہے

”هُوَ ذُوبَانَةٌ قَوْمِهِ“ وہ اپنی قوم کی ناک ہے۔ و
”عَلَوْتُ ذُوبَانَةَ الْجَبَلِ“ میں پہاڑ کی چوٹی پر
چڑھ گیا۔ ذُوبَانَةُ الرَّجُلِ: کچھ کے آخر میں
لغتی ہوئی کھال۔ ذُوبَانَةُ النَّمْلِ: جوتے کا
تسمج ذُوبَانِبٌ۔ اور دھمکی کے وقت بولتے
ہیں ”لَا قَتْلَ فِي ذُوبَانِيكَ“
أَرْضٌ (مَذَابَةٌ) بہت بھیڑیوں والی
سر زمین۔

ذَوْبٌ (س) ذَارًا: غضبناک ہونا عنہ: ڈرنا۔
گھبراتا۔ ناک چڑھانا۔ صفت (ذَائِرٌ وَ ذَائِرٌ)
بِالشَّيْءِ: کسی چیز کا عادی ہونا۔

(و ذَاعَرٌ) عَلَيْهِ: دلیری کرنا۔

ذَوْبٌ وَ ذَائِرٌ مَذَابَةٌ: الْمَرْأَةُ عَلِيٌّ
بِغَلْبَتِهَا: عورت کا شوہر کی نافرمانی کرنا۔
صفت (ذَائِرٌ وَ ذَوْبَةٌ وَ مَذَابِرٌ)

أَذَارُهُ: غضبناک کرنا۔ جرأت دلانا۔ برا بھانتہ
کرنا۔ آسانا۔ اَلْحَى كَذَابًا: مجبور کرنا۔

بِصَاحِبِهِ: ورغلانا۔

ذَافٌ (ف) ذَافَانًا: مرنا۔

ذَافٌ عَلَيَّ الْأَسِيرُ وَ ذَافَهُ (ف) ذَافًا
وَ ذَافًا وَ ذَافَهُ: فوراً ڈرانا۔

أَذَافٌ: دل کا کٹ جانا اور مر جانا۔ موت
(ذُؤَافٌ) تَاغِبَانِي مَوْتٌ۔ سَمُّ ذُؤَافٍ: زہر
قاتل۔

الذَّافَانُ: موت (و الذَّافَانُ وَ الذُّؤَافَانُ
وَ الذَّافَانُ وَ الذَّافَانُ) و ہر قاتل۔

ذَالٌ (ف) ذَالًا وَ ذَالَانًا: آہستہ تازے

چلنا۔

تَدَانُلٌ حَتِيرَانًا۔ چھوڑنا۔

ذُوَالَةٍ۔ بھڑے کا علم جس۔ ج ذُوَالَانٌ وَ ذِيَالَانٌ۔

الذَّالَانُ وَالذُّوَالَانُ۔ بھیر پنا۔ گیدڑ۔
المَذَالُ۔ ہلکا چھلکا تیر۔ذَامَةٌ (ف) ذَامًا۔ عیب لگانا۔ رسوا کرنا۔
حقارت کرنا۔ دھتکارنا۔

أَذَامَةٌ إِذَامًا۔ غلی کڈنا۔ مجبور کرنا۔

الذَّامُ وَالذَّامُ۔ عیب اور امثال عرب میں
سے ہے "قَدْ لَا تَعْدَمُ الْحَسَنَاءُ ذَامًا" یعنیکبھی خوبصورت عورت میں بھی عیب ہوتا
ہے۔ اور کہا جاتا ہے "مَا سَمِعْتُ لَهُ ذَامَةً"

میں نے اس سے ایک کلمہ نہیں سنا۔

ذَبُّ (ن) ذَبًّا۔ غنہ: دفع کرنا۔ حمایت
کرنا۔ذَبُّ (ض) ذَبًا وَ ذَبِيًا وَ ذُبُونًا۔ گرمی یا
پیاس سے خشک ہونا جسْمُهُ: لاغر ہونا۔

النَّبْتُ: پُرمردہ ہونا۔ مرجھانا۔

ذُبُّ: البَعِيرُ أَوْ الرَّحْلُ: مجنون ہونا
الْفَرْسُ: گھوڑے کے نتھے میں کبھی داخل
ہونا۔ صفت (مذْبُوبٌ)ذَبَبٌ تَذْبِيْبًا۔ بہت دفع کرنا شَفْتَةً: ہونٹ
کا پیاں وغیرہ سے خشک ہونا النَّهَارُ: تھوڑا بقی

رہنا۔

أَذَبُ: الْمَكَانُ: بہت کھینوں والی ہونا۔

صفت (مذْبُوبٌ وَ مَذْبُتٌ)
الذَّبُّ: س۔ بہت حرکت کرنے والا۔ جنگلی

تیل۔

الْأَذَبُ: لِبَا۔ جنگلی تیل۔ اُونٹ کی کچلی۔

الذَّبَابُ: کھی۔ ج اَذْبَةٌ وَ ذَبَانٌ ذُبُّ بَهْرُ
اور شہد کی کھی اور چھڑ پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔واحد (ذُبَابَةٌ) ذُبَابٌ الشَّيْفُ: تلوار کی
دھار۔ ذُبَابُ الْعَيْنِ: آنکھ کی پٹی۔ کہا جاتاہے "هُوَ أَعْوُ مِنْ ذُبَابِ الْعَيْنِ" وہ آنکھ کی
پٹی سے زیادہ عزیز ہے۔ الذَّبَابُ: جنوں۔

طاعون۔ بد بختی۔ دائمی برائی۔

الذَّبَابَةُ: ذُبَابٌ كَوَاحِدٍ ذُبَابَةُ الشَّيْءِ:
چیز کا بقیہ۔ عَطَشٌ (مَذْبُتٌ) خست پیاں۔الذَّبَابُ وَالْمَذْبُتُ: اپنی قوم کی بہت حمایت
کرنے والا۔

الذَّبَانُ پیاں سے مرجھایا ہوا۔

المَذْبَةُ: مُور جھل۔ چوری۔ ج مَذْبَاتٌ وَ
مَذَابٌ اور اسی سے ہے "أَذْبَابُهَا مَذَابُهَا"

یعنی جانوروں کی ذم ان کیلئے مُور جھل ہے۔

أَرْضٌ ذُبُوبَةٌ وَ مَذْبُوبَةٌ: بہت کھینوں والی
زمین۔ رَاكِبٌ (مَذْبُتٌ) تمبا جلد باز سوار۔ذَبْحَةٌ (ف) ذُبْحًا وَ ذَبَاخًا پھاڑنا۔ گلا
کاٹنا۔ ذبح کرنا۔ گلا گھونٹنا الدِّنُّ: منگے میں

سوراخ کرنا۔

ذَبَحَ: الْقَوْمُ: ذبح کرنے میں مبالغہ کرنا۔

أَذْبَحَ: مذبح بنانا۔

تَذَابَحُوا: ایک دوسرے کو ذبح کرنا۔

الذَّبْحُ: جو ذبح کیا جائے۔ مقبول۔

الذَّبْحُ وَالذَّبْحُ: ایک قسم کی سانپ کی
چھتری۔الذَّبْحُ: فاداع کرنے کا ایک آلہ جس سے
گردن کے عرض میں داغ لگتے ہیں۔الذَّبَاحُ وَالذَّبَّاحُ وَالذَّبَّاحُ وَ الذَّبِيْحَةُ
وَالذَّبِيْحَةُ وَالذَّبِيْحَةُ: الذَّبِيْحَةُ: حلق کا

درد۔

الذَّبِيْحُ: ذبح کیا ہوا قربانی کے لائق جانور۔
اسْتَلْبَعُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَالْقَبِ:الذَّبِيْحَةُ: ذبح کا موٹ۔ جو عنقریب ذبح کیا
جائے۔ ج ذَبَاتِيْحُ۔

المَذْبِيْحُ: ذبح کرنے کا اوزار۔

المَذْبِيْحُ: ذبح کرنے کی جگہ۔ ج مَذَابِيْحُ
مَذَابِيْحُ الْكُنَائِسِ: گرجا کی قربان گاہ۔ذَبَّابٌ الشَّيْءِ الْمُعْلَقُ فِي الْهَوَاءِ: لنگی
ہوئی چیز کا حرکت کرنا الرَّحْلُ: حیران و سرزدہونا۔ ذَبَّابَةٌ: متردد حیران چھوڑنا۔ ذَبَّابٌ
أَهْلُهُ: حمایت کرنا الخَلْقُ: تکلیف پہنچانا

الشَّيْءِ: حرکت دینا۔ بلانا۔

تَذَبَّابٌ: ہلنا۔ حرکت کرنا۔

الذَّبْبَةُ: س زبان۔ ہوا میں حرکت کرنے
والی چیز۔ وہ چیز جو ہودج پر زینت کے لیےلٹکائی جائے۔ ج ذَبَابٌ۔
الذَّبَابُ: کپڑے کے چھوڑ۔ کپڑے کےچلے حصے۔
المَذْبُوبُ: متردد۔ تھیر۔ پس و پیش کرنے

والا۔

ذَبْرٌ (ن ض) ذَبْرًا: الْكِتَابُ: لکھنا۔ نقطہ
لگانا۔ بغیر رکے ہوئے تیز پڑھنا الشَّيْءُ: جاننااور اچھی طرح سمجھنا۔
ذَبْرٌ (ض) ذَبْرًا وَ ذَبَارَةً: اچھی طرح

دیکھنا۔

الخَبْرُ: سمجھنا الشَّعْرُ: شعر پڑھنا۔

ذَبْرٌ (س) ذَبْرًا: عَدْلِيَّةٌ: غضبناک ہونا۔
ذَبْرٌ: الْكِتَابُ: لکھنا۔ نقطے لگانا۔ بغیر رکے

ہوئے تیز پڑھنا۔

الذَّبْرُ: س۔ کتاب ج ذَبَارُ۔

المَذْبِرُ: قلم۔

ذَبِيلٌ وَ ذَبِيلٌ (ن ك) ذُبُولًا وَ ذَبِيلًا
النَّبَاتُ: نباتات کا پُرمردہ ہونا۔ مرجھانا۔الْفَرْسُ: گھوڑے کا دبلا ہونا لِسَانُهُ أَوْ
شَفْتَتُهُ: زبان یا ہونٹ کا خشک ہونا۔کہا جاتا ہے "ذَبِيلَتُهُ ذُبُولٌ" اسے مصیبت
لاحق ہوئی۔أَذْبَلُ: النَّبَاتُ: پُرمردہ کرنا الْفَرْسُ:
گھوڑے کو دبلا کرنا۔تَذَبَّلُ: فِي الْمَشْيِ: ناز و انداز سے چلنا۔
تَذَبَّلَتِ الْمَرْأَةُ: لاغر بدن ہوتے ہوئےمردوں کی چال چلنا۔
الذَّبَلُ: س۔ کچھوے کی پیچھے کی ہڈی۔ آغاز

جوانی۔

الذَّبِيلُ: پسر گشدگی۔

الذَّبَلَةُ: بیگنی۔ مرجھانے والی گرم ہوا۔
الذَّبَلَةُ: پیاں سے ہونٹوں کا خشک ہونا۔الذَّبَالُ: فَا۔ باریک۔ دبلا۔ ج ذُبُلٌ وَ ذَبِيلٌ
الذَّبَالَةُ: الذَّبَالُ: کاموٹ۔ عَيْنٌ ذَابَلَةٌ:

چشم نیم باز۔ ج ذَوَابِلُ: الذَوَابِلُ: رماح کی

<p>صفت (مُذْرِي) المذْرَع. تھوڑی چیز۔ کہا جاتا ہے "بِخَفْنِي ذَرَّةً مِنْ خَيْرٍ" مجھے توڑی سی نیکی کافی ہے۔ وہ "هُم ذَرَا النَّارِ" وہ لوگ آگ کیلئے پیدا کئے گئے ہیں۔</p>	<p>المذْحور. ذخیرہ رکھنے کی جگہ۔ المذْحور. جوف۔ رگیں۔ انتڑیاں۔ پیٹ کے نچلے حصے۔ ذَرٌّ۔ چھوڑے۔</p>	<p>صفت ہے۔ کہتے ہیں "الرِّمَاحُ الذُّوَابِلُ" یعنی باریک نیزے۔ صفت کو موصوف کے قائم مقام کر کے نفس رماح پر بھی اطلاق کرتے ہیں۔</p>
<p>الذَّرَّةُ. بڑھاپے کی ابتدائی سفیدی جو کنپٹیوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ الذَّرِيُّ. بکھیرا ہوا زَرَعُ ذَرِيٍّ: کھیت جس میں ابھی بیج ڈالا گیا ہو۔</p>	<p>ذَرٌّ (ن) ذَرًّا. المِلْحُ: نمک چھڑکنا۔ الحَبُّ فِي الْأَرْضِ: دانہ بونا الارضُ النَّبَاتِ. اگانا (ذَرًّا وَذُرُورًا) القرن او النَّبَاتِ: اگانا الشمسِ: آفتاب طلوع ہونا اللُّحْمُ: گوشت کھڑنا۔</p>	<p>الذُّبَابَةُ وَالذُّبَابَةُ. بتی۔ ذُّبَابُ. ذَبَّحَ (ن) ذَبْحًا. سفر سے واپس آنا۔ المَاءُ: پینا۔ ذَبَحَهُ (ن) ذَبْحًا. ظلم کرنا۔ صفت (ذَابِل)</p>
<p>ذَرْبٌ (س) ذَرْبًا وَذَرْبَانَةٌ وَذَرْبَانَةٌ السِّنْفُ: تلوار کا تیز ہونا۔ صفت (ذَرْبٌ) ذَرْبُ الذَّرْبِ: زخم کا خراب ہونا الرُّجُلُ: عجز کے بعد فصیح ہونا المِعْدَةُ: بگڑنا۔ درست ہونا۔ (ضد)</p>	<p>ذَرٌّ (س) ذَرًّا وَذُرُورًا. الرُّجُلُ: سر کے اگلے حصے کا سفید ہونا۔ الذَّرُّ: چھوٹی بیوی۔ ذرات۔ واحد (ذَرَّةٌ) نسل۔ الذَّرُورُ: آنکھ یا زخم میں چھڑکنے کی دوا۔ عطر۔ ذَرَّةٌ۔</p>	<p>ذَحَّةٌ ذَحًا. تھپڑ مارنا الحطَبُ: لکڑی چیرنا۔ مچاڑنا الفِلْفِلُ: مریخ کو بنا الجارِيَّة: جماع کرنا۔</p>
<p>ذَرْبٌ (ن) ذَرْبًا وَذَرْبٌ وَذَرْبٌ السِّنْفُ: تلوار تیز کرنا۔ اذْرَبَ الرُّجُلُ: تھک گزارے والا ہونا۔ الذَّرْبُ: سن۔ زبان کی تیزی۔ ناقابل علاج بیماری۔ رنگ۔ مورچہ۔ ذَرْبٌ: بیماری۔ جگر کی ایک بیماری۔ گردن کا غدود۔ رَجُلٌ ذَرْبٌ: تیز زبان مرد۔</p>	<p>الذَّرِيَّةُ. ایک قسم کی خوشبو۔ الذَّرِيُّ. تلوار کی آب و جوہر۔ ذَرِّيَّةٌ. الرُّجُلِ (بشثالث الذال) اولاد و نسل۔ ذَرَارِيٌّ وَذَرِيَّاتٌ. الذَّرَارُ: غضب و غصہ۔ غصہ کی وجہ سے روگردانی۔</p>	<p>ذَحَبَهُ (ف) ذَحْبًا. چھیلنا۔ حرکت دینا۔ ذَحَبَتُهُ الرِّيحُ: ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا المرأة بولدها: جنمنا۔ ذَحَذَحَ. قریب قریب قدم رکھ کر تیز چلنا الرِّيحُ التُّرابُ: خاک اُڑانا۔ الذُّحُلُ. خون کا بدلہ۔ دشمنی۔ کینہ۔ ذُحُولٌ وَادْحَالٌ. تم کہتے ہو "لِي عِنْدَهُمْ ذُحُولٌ" مجھے ان سے کینہ ہے۔</p>
<p>ذَرْبٌ. مویچی کی راہی۔ ذَرْبُ اللِّسَانِ: تیز زبان۔ ذَرْبٌ ذَرْبٌ لِسَانٌ ذَرْبٌ: زبان فصیح۔ فحش گوزبان۔ الذَّرْبَةُ: غدود۔ تیز زبان عورت۔ ذَرْبٌ الذَّرَابُ: زہر۔ الذَّرْبِيُّ: عیب۔ الذَّرْبِيُّ: مصیبت۔ الأذْرَبِيُّ: خلاف قیاس۔ آذر بائجان کی جانب نسبت۔</p>	<p>الذَّرَّةُ وَاحِدُ الذَّرِّ ذَرَاتٌ. بہت چھوٹا حصہ۔ اس کا دوسرا نام جوہر فرد۔ علم کیسا کا پرانا نظریہ تھا کہ ذرہ کے مزید ٹکڑے نہیں ہو سکتے۔ جدید نظریہ کے مطابق اس کے لاکھوں حصے بنائے جا سکتے ہیں۔</p>	<p>ذَحَى (ض) ذَحْيًا. الصُّوفُ: اون کو کوٹنا الرِّيحُ القَوْمُ: کھلی ہوا لنگا۔ المَذْحَاةُ: بغیر درختوں والی زمین۔ ذَحَى (ف) ذَحْرًا. الشَّيْءُ: وقت ضرورت کے لیے چھپا رکھنا۔</p>
<p>ذَرْحٌ (ف) ذَرْحًا وَذَرْحٌ الشَّيْءُ فِي الرِّيحِ: ہوا میں اُڑنا الطَّعَامُ: ذراخ نامی کیزا ذالنا۔ وَذَرْحٌ اللِّينِ: دودھ میں پانی ملانا۔ الزُّعْفَرَانُ فِي المَاءِ: پانی میں تھوڑا سا زعفران ڈالنا۔ الذَّرَّاحُ وَالدُّرُوحُ وَالدَّرْبِيعُ وَالدَّرَّاحُ</p>	<p>الذَّرَّةُ وَاحِدُ الذَّرِّ ذَرَاتٌ. بہت چھوٹا حصہ۔ اس کا دوسرا نام جوہر فرد۔ علم کیسا کا پرانا نظریہ تھا کہ ذرہ کے مزید ٹکڑے نہیں ہو سکتے۔ جدید نظریہ کے مطابق اس کے لاکھوں حصے بنائے جا سکتے ہیں۔</p>	<p>إِذْخَرُوا الشَّيْءَ: وقت ضرورت کے لیے چھپا رکھنا۔ إِذْخَرُوا الشَّيْءَ: وقت ضرورت کے لیے چھپا رکھنا۔ إِذْخَرُوا الشَّيْءَ: وقت ضرورت کے لیے چھپا رکھنا۔ إِذْخَرُوا الشَّيْءَ: وقت ضرورت کے لیے چھپا رکھنا۔</p>
<p>الذَّرَابُ: زہر۔ الذَّرْبِيُّ: عیب۔ الذَّرْبِيُّ: مصیبت۔ الأذْرَبِيُّ: خلاف قیاس۔ آذر بائجان کی جانب نسبت۔ المِذْرَبُ: زبان۔ ذَرْحٌ (ف) ذَرْحًا وَذَرْحٌ الشَّيْءُ فِي الرِّيحِ: ہوا میں اُڑنا الطَّعَامُ: ذراخ نامی کیزا ذالنا۔ وَذَرْحٌ اللِّينِ: دودھ میں پانی ملانا۔ الزُّعْفَرَانُ فِي المَاءِ: پانی میں تھوڑا سا زعفران ڈالنا۔ الذَّرَّاحُ وَالدُّرُوحُ وَالدَّرْبِيعُ وَالدَّرَّاحُ</p>	<p>ذَرًّا (ف) ذَرًّا. اللّٰهُ الخَلْقُ: پیدا کرنا۔ الشَّيْءُ: زیادہ کرنا الارضُ: بونا۔ (و) ذَرِيٌّ (س) ذَرًّا شَعْرَةٌ: سفید ہونا۔ فُلَانٌ: سفید بال والا ہونا۔ صفت (أذْرَأ) مؤنث ذَرَاءٌ۔</p>	<p>الذَّخِيرَةُ: وقت ضرورت کے لیے جو چیز چھپا کر رکھی جائے۔ ذَخَائِرُ: اسی سے ہے ذَخَائِرُ الحَرْبِ اور کہتے ہیں "اعْمَالُ الْمُؤْمِنِينَ ذَخَائِرٌ عِنْدَ اللّٰهِ" مومنین کے اعمال اللہ کے ہاں ذخیرہ ہیں۔</p>
<p>الذَّرَابُ: زہر۔ الذَّرْبِيُّ: عیب۔ الذَّرْبِيُّ: مصیبت۔ الأذْرَبِيُّ: خلاف قیاس۔ آذر بائجان کی جانب نسبت۔ المِذْرَبُ: زبان۔ ذَرْحٌ (ف) ذَرْحًا وَذَرْحٌ الشَّيْءُ فِي الرِّيحِ: ہوا میں اُڑنا الطَّعَامُ: ذراخ نامی کیزا ذالنا۔ وَذَرْحٌ اللِّينِ: دودھ میں پانی ملانا۔ الزُّعْفَرَانُ فِي المَاءِ: پانی میں تھوڑا سا زعفران ڈالنا۔ الذَّرَّاحُ وَالدُّرُوحُ وَالدَّرْبِيعُ وَالدَّرَّاحُ</p>	<p>أذْرَأُ إِذْرَاءً. غضبناک کرنا۔ ذراناہ بالشَّيْءِ: حریص بناناہ الیٰ کذا: مجبور کرنا الذَّمْعُ: بہانا الناقَةُ: گھن میں دودھ اُٹارنا۔</p>	<p>الذَّخِرُ: سب گھاس۔ ایک قسم کی خوشبودار گھاس۔ واصل ذَحْرَةٌ ذَا ذَاخِرٌ۔</p>

وسیلہ ہے۔ اونٹنی جس کے پیچھے شکاری شکار کرنے کے وقت چھتا ہے۔ ذراع

الأذرع: بہت فصیح کہا جاتا ہے "قلنہم اذرع قنا" اس نے ان کو بہت جلدی اور بہت برے طریقے سے قتل کیا۔

المذرع: کھیتی کی زمین اور جنگل و بیابان کے درمیان کے دیہات۔ جانور کی ٹانگ۔ ذراع

مذراع و مدارع: ملنے وہ اونٹ جس کے سینہ پر نیزہ و غیرہ مارا گیا ہو اور اس کی انگلی ٹانگوں پر خون بہہ رہا ہو۔ سبقت کرنے والا گھوڑا۔

من الشران: تیل جس کی پنڈلیوں پر سیاہ داغ ہوں من الناس: جس کی ماں باپ سے زیادہ شریف ہو۔

ذرف (ض) ذرفا و ذرففا و ذروففا و ذرفانا و تذرفا: الذمغ: بہنا۔ صفت

(ذریف و مذروف) العین و معھا: بہانا (ذرفانا) سست چال چلنا۔

ذرف تذرفا و تذرفا و تذرفا: فریب الکر کرنا۔ الشی: خبردار کرنا علی الخمیس: زائد ہونا۔ بڑھ جانا۔

استذرف الشی: قطرے قطرے پکانا الصرع: تیزرو۔

المذراف: آنسو بہنے کی جگہیں۔ کہا جاتا ہے "سألت مذراف عینیہ" واحد مذرف۔ ذرق (ض) ذرقا و اذرق: الطائر: بیٹ کرنا۔ و اذرق المکان:

الذرق: ایک انگریزی زمین پر چھینے والی جو کہ طبعی فوائد میں سے ہے۔

الذرق: بیٹ۔

لین (مذرق) پانی ملا ہو اور وہ۔ ذرقط: الکلام: بولنا۔

ذرا یندرو ذروا و ذری یندرو ذریا و ذری تذریة و اذری اذریا۔

الریح الثراب: اڑانا۔ بمیرتا الحنطہ:

استذرع: بالشی: چھینا اور وسیلہ بنانا۔ الذرع: سن ہاتھ کا پھیلاؤ۔ کہا جاتا ہے "انظرث فلانا ذرعہ" میں نے اس کو طاقت سے زیادہ تکلیف دی۔ و "انظرانی ذرعی" یعنی میرے بدن کو دہلا کر دیا اور میری معاش کو منقطع کر دیا۔ و صفت

بالامر ذرعاً، یعنی میں اس پر قادر نہیں۔ و "هو واسع الذرع" وہ صاحب قدرت ہے۔ و "هو خالی الذرع" یعنی اس کا دل رنج و غم سے خالی ہے و "ذرعہ سگدا" یعنی اس کا طول اتنا ہے۔

الذراع: من الرجل: کہنی سے پیچ کی انگلی تک کا حصہ۔ بازو (مؤنث ہے اور کبھی مذکر استعمال کرتے ہیں) طاقت۔ کہا جاتا ہے "رجل واسع الذراع" مرد صاحب قدرت و "ضاق بالامر ذراعہ" یعنی وہ اس پر قادر نہیں و "هو لك على خيل الذراع" یہ تمہارے لیے تیار و حاضر ہے۔ و "جعلت امرک علی ذراعک" یعنی تمہارا معاملہ میں نے تمہارے اوپر چھوڑ دیا جیسا تمہارا جی چاہے

کرو۔ ذراع اذرع و ذرعان و الذراع من البقر والغنم: گائے اور بکری کا دست من الخیل و الابل: گھوڑے اور اونٹ کی پنڈلی کے پچھلے حصے سے اوپر کا حصہ۔ اولاد ذراع و اولاد الذراع: کتے۔ گدھے۔

الذرع: من امید۔ جنگلی پھنڑا۔ ذرعان۔ الذرع: زبان دراز۔ رات دن چلنے والا۔ اخصی مصاحب والا۔ مؤنث ذرعة ذراع ذرعات الذرعات: تیز کشادہ قدم والیاں۔

الذرعة: وسیلہ۔ ذرع: تیز و کشادہ قدم گھوڑا یا اونٹ۔ الذرع: سفارش کرنے والا۔ تیز رفتار۔ کہا جاتا ہے "موت ذرع" جلدی کی موت۔ و "قتل ذرع" حد سے بڑھا ہوا شنیع قسم کا عمل۔

الذریعة: وسیلہ۔ کہا جاتا ہے "هو ذریعتی الی فلان" وہ فلاں کے پاس میرے لیے

والذروح والذراح والذریعة وا لذر حوح والذرنوح: ایک قسم کا اڑنے والا زبرد دار کیرا۔ مفرد کا استعمال کم ہے جمع ہی استعمال ہوتا ہے۔ تصغیر ذریح آتی ہے۔

الذراع: پانی ملا ہو اور وہ۔ الذریعة: پختہ۔ ٹیلہ۔ ذراع الذریعة: لین أو عسل (مذرع) زیادہ پانی والا دودھ یا شہد۔

ذرع (ف) ذرعاً: الفوب: ذراع سے تاننا۔ کسی کے پیچھے سے ذراع سے گلا گھونٹنا (دیکھئے ذراع) ذرعہ القی: غالب ہونا اور خود بخود آنا۔

ذرع (ف) ذرعاً و ذرع (س) ذرعاً: عند الرجل والیہ: سفارش کرنا۔ ذرعت رجلاً: چلنے سے عاجز ہونا۔

ذرع (ک) ذرعة الفرس: گھوڑے کا کشادہ قدم ہونا۔ صفت (ذریع)

ذرع الرجل: کسی کے پیچھے ہو کر ذراع سے گلا گھونٹنا بالشی: اقرار کرنا فی السباحة: تیرنے میں بازو پھیلاتا فی المشی: چلنے میں بازو ہلانے والی۔ ذراع فی الخش جبری دینے کے لیے بازوؤں کو بلند کرنا۔

ذرع لى شینا من خبره" اس نے مجھے کچھ خبر دی۔ و "ذرعہ نیننا" اس نے اس کو ہمارے درمیان وسیلہ بنایا۔

ذراعہ: باہم مل جانا۔ الرجل: ٹاپ کر بچنا۔ صاحبہ قدرعہ: قدم بڑھانے میں مقابلہ کرنا اور غالب رہنا۔

أذرع الشی: ہاتھ سے قبضہ کرنا ذراعہ من تحت الجبۃ: لٹکانا فی الکلام: بہت گفتگو کرنا۔

تذرع فی الکلام: بہت گفتگو کرنا الشی: ہاتھ سے تاننا الابل الماء: بازوؤں تک پانی میں اڑنا۔ بذریعة: وسیلہ بنانا الشی: ہاتھ ہاتھ بھر کا پھنڈا۔

انذرع: ناگاہ بچنا۔ کشادہ چلنا۔ تذارعت الابل المفازة: طے کرنا۔

الذغور خوفزدہ۔ تہمت اور بُری باتوں سے ڈرنے والی عورت۔

ناقفة (مذغرة پاگل اونٹنی۔

ذغطة (ف) ذغطاً جلدی سے ذبح کرنا۔

موت (ذاعط و ذغوط) جلد آنے والی موت۔

ذغف (ف) ذغفاً زہر قاتل پلانا

الطعام: کھانے میں زہر ملانا۔

ذغف (س) ذغفاً مرنا۔

اذغفاً جلدی مار ڈالنا۔

انذغف ول کا کٹ جانا۔ سانس پھولنا۔

الذغف والذغاف فوراً ہلاک کرنے والا

زہر۔ موت ذغاف: جلدی آنے والی

موت۔ کہا جاتا ہے "حیة ذغف اللعاب"

فوراً ہلاک کرنے والا سانپ۔

الذغقان ہم۔ موت۔

طعام (مذغوف) زہر ملا ہوا کھانا۔

ذغفة (ف) ذغفاً چننا بہ: گھبرا دینا۔

ذاء (ذغاق) مہلک بیماری۔ ماء ذغاق:

سخت کھاری پانی۔

ذعن (س) ذعناً واذعن. لہ: مطیع و

فرمانبردار ہونا۔ فروتنی کرنا۔ اذعن بالحق:

اقرار کرنا۔

المذغان آسانی سے تابع ہونے والا۔

ذع (ن) ذعاً جاریتہ: جماع کرنا۔

ذف (ض) ذفاً و ذففاً و ذفاً علی

الجنیح: فوراً مار ڈالنا فی الامر: جلدی کرنا

(ذفاً) الطاعون فلاناً: ہلاک کرنا۔

ذفف و ذاف و اذف. النجیح و ذاف

علیہ ولہ: فوراً مار ڈالنا۔ و ذفف جہاز

راحلیہ: سواری کے سامان کو ہلاک کرنا۔

ذف (ض) ذففاً و استذف استذافاً

الامر: ممکن ہونا۔

الذف تھوڑی پانی۔

الذفاف: ذف علی الجنیح کا اسم

تھوڑی چیز۔ (والذفاف) زہر قاتل۔ تھوڑا

پانی۔ ذ ذفف و اذفة. الذفاف: ہلاک چلکا

الذغیان جوان بھیرنا۔

المذغابین لگا تار و پیارے۔ کہا جاتا ہے

"رايتہم مذغابین کانتہم عرف

ضغان" میں نے لوگوں کو یکے بعد دیگرے

دیکھا گویا کہ وہ لوگ زہر جو کے ایال ہیں۔

ذعت (ف) ذعناً سخت گلا گھوٹنا۔ خاک

آلود کرنا۔ سختی سے ہٹانا۔

ذعجہ (ف) ذعجاً سختی سے ہٹانا۔

الجاریة: جماع کرنا۔

الذغاع فرتے۔ واحد (ذغاعف)

ذغذع. الشی: پر اگندہ کرنا۔ بھیرنا۔ کہا

جاتا ہے "ذغذعتہ التواب" اس کو

معیبتوں نے جھڑھرایا المسر او الخبر:

قاش کرنا۔ پھیلاتا الریح الشجر: جھڑھرایا

دینا۔

تذغذع بھیرنا۔ پھیلانا۔ پر اگندہ ہونا۔

الذغذاع چغل خور۔ بھید کو نہ چھپانے

والا۔

ذغاذع النخل: کھجور کے ردی درخت۔

کہا جاتا ہے "تفرقوا ذغاذع" وہ لوگ ادھر

ادھر متفرق ہو گئے۔

ذعرة (ف) ذعراً ڈرانا۔ خوفزدہ کرنا۔

گھبراہٹ میں ڈالنا۔

ذعور ڈرنا۔ صفت (مذغور)

ذعور (س) ذعراً دہشت زدہ ہونا۔

اذعور ڈرانا۔

تذعور ڈرنا۔

انذعور ڈرنا۔ گھبرانا۔

الذغور خوف ڈر۔

امر (ذعور) خوفناک معاملہ۔

الذاعور۔ فادرنے والا۔ خمیشت۔

رجل (ذاعور و ذعرة و ذعرة) عیب دار

مرد۔

الزغرة در۔

الذعرة ایک پرندہ جو ہر وقت اپنی ذم کو ہلاتا

رہتا ہے۔

سنة (ذعریة) سخت سال۔

اساون کرنا۔ اذری الشی: گراتا۔ بھیرنا۔

کہا جاتا ہے "أزراه الفرس من ظہرہ" اس کو

گھوڑے نے اپنی پیٹھ سے گرایا۔ اذرت العین

ذمعتها: آنسو بہانا۔ ذری الشاة: اون تراشنا

اور علامت کے لیے کچھ چھوڑ دینا۔

ذرا یذرو ذروا. الشی: ہوا میں اڑ جانا

الطنی: تیز دوڑنا الی فلان: قصد کرنا قوہ:

دانت کرنا۔

تذری غلہ کا بھوسہ سے صاف ہونا۔

المکان أو الجبل: کسی جگہ پر یا پہاڑ پر

چڑھنا۔ کہا جاتا ہے "تذری من یزد

الشمال بصخرة" یعنی اس نے شمالی ہوا کی

ٹھنڈک سے چٹان کی پناہ لی۔

استذری: بہ پناہ لینا بالشجرة: سایہ

لینا۔

الذری گھر کے سامنے کا صحن اور اس کے

اطراف۔ جائے پناہ۔ ہر وہ جگہ جہاں تم چھپ

سکو۔ تم کہتے ہو "اتخذت الخائط ذری

لی" میں نے دیوار کی پناہ لی۔ "و انا فی ذری

فلان" میں فلان کی پناہ و حفاظت میں ہوں۔ و

"هو کونیم الذری" وہ طبعاً کریم ہے۔

الذری: وہ غلہ جس کا اوساون کیا جائے۔ گرا

ہوا آنسو۔

الذراوة: بھوسہ وغیرہ جو اوساون کرتے

وقت گرے۔ وہ چیز جس کو ہوا اڑا لے جائے۔

الذرة والذرة: بلندی۔ بلند جگہ۔ ہر چیز

کا بلند حصہ۔ ذری و ذری:

الذرة: بڑھاپا۔

الذرة: کئی۔

المذری والمذرة: جیلی جس سے گیہوں

کھولتے ہیں۔ ذ مذار۔

المذروان: سر کے دونوں پہلو۔ دونوں

سرین کے کنارے۔ اور اسی سے ہے "جاء

ینفض مذروہ" وہ دھمکی دیتا ہوا آیا۔

مذروا القوس: کمان کے دونوں کنارے۔

تذعنتہ: خوفزدہ کرنا۔

انذعب الماء: لگا تار بہنا۔

الذُّكْرَةُ. شہرت۔ کلباڑی کے سر پر فولاد کا ٹکڑا جو ذُكْرَةُ السَّيْفِ: تلوار کی تیزی۔
الذُّكْرَةُ. ذاکر کا مؤنث۔ قوتِ حافظہ۔

الذُّكْرَةُ. ضرورت کو یاد دلانے والی چیز۔
عند المولدين: سر []۔ پاسپورٹ۔
كَلْبٌ مِّنْ ذِكْرِكُمْ.
رَجُلٌ (ذَكَرَ) اللّٰهُ تَعَالَى كَوْبَةً يَّادِ كَرْنِ
والا۔

الذُّكْرَةُ. مردی۔
المُذَكِّرُ. لڑکے جننے والی عورت۔ يَوْمَ
مُذَكِّرٌ: سخت دہشت کا دن۔ طَرِيقُ
مُذَكِّرٌ: خوفناک راستہ۔ ذَاهِيَةٌ مُذَكِّرَةٌ:
سخت مصیبت۔

المُذَكِّرُ. نعمن السُّيُوفِ: آبدار تلوار۔
طَرِيقٌ مُذَكِّرٌ: خوفناک راستہ۔ يَوْمَ
مُذَكِّرٌ: سخت دہشت کا دن۔

المُذَكِّرَةُ. والمُتَذَكِّرَةُ. مردوں کی
مشابہت کرنے والی عورت۔

المذكار. عورت جس کی عادت لڑکے جننے
کی ہو سزاؤں میں مذکار: سخت ترکاری اگانے
والی زمین۔

ذَكَتْ تَذْكُو ذُكُوًا وَذُكَا وَذُكَاةً
وَاسْتَذَكَّتِ النَّارُ: سخت شعلہ بھڑکانا۔
الشمس: آفتاب کا سخت گرم ہولناکیوں:
لڑائی کا تیز ہونا۔

ذَكِي يَذْكِي وَذَكِي يَذْكِي وَذَكِي
يَذْكُو ذُكَاةً: تیز خاطر ہونا۔ مَفْتُوحٌ ذَكِيٌّ
مُؤَنَّفٌ كَيْدًا ذَكِيًّا.

ذُكَا يَذْكُو ذُكَا وَذُكَاةً الذَّبِيحَةُ: ذَنْقُ
كَرْتِ كَتَاةٍ الْمِسْكِ مَلِكٌ كِيٌّ شَبِيهُ بَهْرُ كَتَاةٍ
مَفْتُوحٌ ذَكِيٌّ

ذَكِيٌّ النَّارُ: آگ بھڑکانا۔ لڑائی
کی آگ بھڑکانا۔ الذَّبِيحَةُ: ذَنْقُ كَرْتِ كَتَاةٍ
بڑی عمر کا اور مونا ہونا۔

أَذْكِي النَّارَ: آگ بھڑکانا۔ روشن کرنا۔
الْحَرْبُ: لڑائی کی آگ بھڑکانا۔ اور کہا جاتا
ہے "أَذْكِي عَلَيْهِ الْعُيُونُ" اس نے اس پر

تَذَكَّرُوا. فِي الْأَمْرِ: کسی کام میں باہم
مشغول ہونا۔ تَذَكَّرُوا الشَّيْءَ: کسی چیز کو یاد
کرنا۔

إِذْكُرُوا إِذْكَرَ وَإِذْكَرَ وَاسْتَذَكَّرَ
الشَّيْءَ: یاد کرنا۔ وَاسْتَذَكَّرَ الشَّيْءَ: پڑھنا۔
حَفِظْ كَرْتَايَا سَتَذْكُرُ الرَّجُلُ: یادداشت کے
لیے کسی کی انگلی میں دھاگا باندھ دینا۔
الذُّكْرُ. سر۔ شہرت۔ کہا جاتا ہے "لَهُ ذُكْرٌ
فِي النَّاسِ" اس کی لوگوں میں شہرت ہے۔

تَعْرِيفٌ وَثَابٌ وَشَرَفٌ وَبِرٌّ كِيٌّ نَمَازٌ وَذُعَا
وَالذُّكْرُ مِنَ الرَّجَالِ: توانا اور مرد۔
مِنَ الْقَوْلِ: بلند و سنجیدہ قول۔ مِنَ الْمَطَرِ:
بڑے قطروں والی بارش۔ ذُكْرُ الْمَيْتِ:
مرنے کے بعد لوگوں کی زبان پر نام باقی رہنا۔

ذِكْرُ الْحَقِّ: چک۔ نَذْكُورُ
الذُّكْرُ. یاد آوری۔ کہا جاتا ہے "وَاجْعَلْهُ
مَعْنَى عَلِيٍّ ذُكْرٌ" اس کو میرے لیے ایسا کر
دے کہ میں نہ بھولوں۔

الذُّكْرُ. یاد آوری۔ کہا جاتا ہے "وَاجْعَلْهُ
مَعْنَى عَلِيٍّ ذُكْرٌ" اس کو میرے لیے ایسا کر
دے کہ میں نہ بھولوں۔

الذُّكْرُ. یاد آوری۔ کہا جاتا ہے "وَاجْعَلْهُ
مَعْنَى عَلِيٍّ ذُكْرٌ" اس کو میرے لیے ایسا کر
دے کہ میں نہ بھولوں۔

الذُّكْرُ. یاد آوری۔ کہا جاتا ہے "وَاجْعَلْهُ
مَعْنَى عَلِيٍّ ذُكْرٌ" اس کو میرے لیے ایسا کر
دے کہ میں نہ بھولوں۔

الذُّكْرُ. یاد آوری۔ کہا جاتا ہے "وَاجْعَلْهُ
مَعْنَى عَلِيٍّ ذُكْرٌ" اس کو میرے لیے ایسا کر
دے کہ میں نہ بھولوں۔

الذُّكْرُ. یاد آوری۔ کہا جاتا ہے "وَاجْعَلْهُ
مَعْنَى عَلِيٍّ ذُكْرٌ" اس کو میرے لیے ایسا کر
دے کہ میں نہ بھولوں۔

الذُّكْرُ. یاد آوری۔ کہا جاتا ہے "وَاجْعَلْهُ
مَعْنَى عَلِيٍّ ذُكْرٌ" اس کو میرے لیے ایسا کر
دے کہ میں نہ بھولوں۔

الذُّكْرُ. یاد آوری۔ کہا جاتا ہے "وَاجْعَلْهُ
مَعْنَى عَلِيٍّ ذُكْرٌ" اس کو میرے لیے ایسا کر
دے کہ میں نہ بھولوں۔

الذُّكْرُ. یاد آوری۔ کہا جاتا ہے "وَاجْعَلْهُ
مَعْنَى عَلِيٍّ ذُكْرٌ" اس کو میرے لیے ایسا کر
دے کہ میں نہ بھولوں۔

تیز۔
الذَّيْفُ وَالْمَذْفَفُ. ہلکا ہلکا تیز۔
ذَفَفْتُ ذَفْفَةً الْجَرِيحَ: مار ڈالنا۔
ذَفَفْتُ: ناز سے چلنا۔

ذَفِرٌ (س) كَذْفَرًا الشَّيْءُ: یو ظاہر ہونا (عام
طور سے بدیوں میں [] ہے) مَفْتُوحٌ ذَفِرٌ وَ
أَذْفَرٌ مَوْسِعٌ ذَفِيرَةٌ وَذَفِرَاءُ النَّبْتُ: زیادہ
ہونا۔

اسْتَذْفَرُ بِالْأَمْرِ: پختہ ارادہ کرنا۔
الذَّفِرُ وَالذَّفِيرَةُ. یو کی تیزی۔ بدیوں۔
الذَّفِرَاءُ. ایک قسم کی بدیوں اور سبزی۔
الذَّفِرِيُّ. کان کے پیچھے کی ہڈی۔ ج

ذَفِيرَاتٌ وَذَفِرَائِي وَذَفَارٌ.
رَوْضَةٌ (مَذْفُورَةٌ) بَاطِنٌ جَسْمٌ فِي ذَفِرَاءِ
سبزی بہت ہو۔

الذَّفِيرَةُ: ایک خوشبودار پودے کا نام۔
ذَفْنُهُ (ن) ذَفْنَا. شھوڑی پر مارنا۔ وَذَفْنٌ
عَلَى يَدِهِ أَوْ عَصَاهُ: شھوڑی کو سہارا دینا۔

ذَفْنُهُ مَذْفَنَةٌ. تنگ کرنا۔
الذَّفْنُ وَالذَّفْنُ. شھوڑی۔ ج ذَفْنَا.
الذَّفْنُ. بہت پوڑھا۔

الذَّفَانَةُ. حلق کے کنارہ پر ابرو اہواختہ۔
الذَّفْنُ. لمبی شھوڑی والا۔ مَوْسِعٌ ذَفْنَاءُ. ج
ذَفْنٌ.

ذَكْرٌ (ن) يَذْكُرُ وَيَذْكُرًا. اللّٰهُ: تسبیح و
تحمید کرنا۔ الشَّيْءَ: دل میں یاد کرنا۔ الْفُلَانُ
حَدِيثًا: ذکر کرنا۔ الْأَمْرُ: اچھی طرح سمجھنا۔
اسْمُ اللّٰهِ: اللّٰهُ کا نام۔ الْبَلِغُ فَلَانٌ كِيٌّ
کے حق کی حفاظت کرنا۔

ذَكْرٌ الْكَلِمَةُ: مذکر استعمال کرنا۔ ذَكْرُهُ
الشَّيْءَ وَذَكْرُهُ بِهِ: یاد دلانا۔ الْقَوْمُ: وعظ و
نصیحت کرنا۔

أَذْكُرُهُ الشَّيْءَ: یاد دلانا۔ الْمَرْأَةُ: لڑکے
جننا۔ مَفْتُوحٌ (مذکر)

ذَاكِرَةٌ مَذَاكِرَةٌ. فِي أَمْرٍ: کسی معاملہ میں
گفتگو کرنا۔

تَذَكَّرَ الشَّيْءَ: یاد کرنا۔

جاسوس بیجے۔

اسْتَذَكَّى اسْتَذَكَّى النَّارُ: آگ بجڑکانا۔
روشن کرنا۔ اسْتَذَكَّتِ النَّارُ: آگ کا تیز
بجڑکانا۔

الدُّكَّاءُ: س۔ تیزی خاطر۔ زود نمی۔
دُكَّاءُ: آفتاب کا اسم علم ہے (غیر منصرف)
کہا جاتا ہے "طَلَعَتْ دُكَّاءُ" آفتاب طلوع
ہو گیا۔ اَلْبَيْنُ دُكَّاءُ: صبح۔

الدُّخْوَةُ وَالذُّخْيَةُ: ایدھن۔ آگ لگانے
کی چیز۔
الْمُدَّكَّاءُ: س۔ انگارو الذمکاء (ذم۔

الْمُدَّكِّي وَالْمُدَّكِّي: مِنَ السَّحَابِ:
بہت بارش والا بادل۔ الْمُدَّكِّي مِنَ
الْبَحْرِ: گھوڑا جس کی عمر پوری اور قوت کامل

ہو چکی ہو۔ ج۔ مَلْمَدًا كِي وَالْمُدَّكِّيَاتِ:
ذُلٌّ (ض) ذُلًّا وَذَلَّةً وَذِلَالَةً وَمَذَلَّةً:
ذیل ہونا۔ خوار ہونا۔ مَفْتَدِ ذَيْلٍ وَذِلَانٍ)

عَذَابُ ذَلِّ وَأَذَلَّةٍ وَذِلَالٍ (ذُلًّا وَذِلًّا)
الْبَعِيرُ: آسانی سے تابع ہونا۔ مَفْعِدُ ذُلُولٍ
عَذَابُ ذَلِّ وَذُلِّ: کہا جاتا ہے "ذَلَّتْ لَهُ
الْقَوَائِي" اسے قوائی کی آمد ہوئی۔

ذَلَّلَهُ وَأَذَلَّهُ وَاسْتَذَلَّهُ: ذیل کرنا۔ ذَلَّلَهُ
وَاسْتَذَلَّهُ: ذیل پانا۔ اَذَلَّ الرَّجُلُ: مستحق
ذلت ہونا۔ ذیل ساتھیوں والا ہونا۔

ذُلِّلَ الْكِرْمُ: گچھے لٹکایا جانا یا برابر کیا جانا
النَّجْلُ: درخت خرما کے خوشوں کو ٹکڑی پر
رکھنا۔

تَذَلَّلَ لَهُ: خاکساری و فروتنی کرنا۔
الذُّلُّ: س۔ مہربانی و نرمی۔ ذُلُّ الطَّرِيقِ:
راستہ کاروند ہوا حصہ۔ تَذَلَّلَ: کہا جاتا ہے

"ذَغُهْ عَلَيَّ أَذْلَالُهُ" اس کو اپنی حالت پر
چھوڑ دو۔ "وَجَاءَ عَلَيَّ أَذْلَالُهُ" وہ اپنے طور
طریقہ پر آیا۔ "وَأَمُوزُ اللَّهُ جَارِيَةَ أَذْلَالِهَا
أَوْ عَلَيَّ أَذْلَالِهَا" اللہ کے امور حسب

مواضع جاری ہیں۔ س۔ اَذْلَالُ النَّاسِ: سب
سے آخری لوگ۔

الذُّلُّ: س۔ تابعداری۔ سہولت۔ نرمی۔

تَوَاضَعُ: کہا جاتا ہے "ذُلٌّ ذَلِيلٌ" ذیل
کرنے والا یا بڑی ذلت۔

الذُّلُّوْلِيُّ: نرم اور اچھے اخلاق والا۔
طَرِيقٌ مُذَلَّلٌ: چلتا ہوا راستہ۔

شَحْوَةٌ (مُذَلَّلَةٌ) درخت جس کو ہر شخص پا
لے۔
ذَلِجٌ (ن) ذَلِجًا الْمَاءُ: گھونٹ گھونٹ
پینا۔

الذَّلَاحُ: پانی ملا ہوا دودھ۔
ذَلَعٌ (ف) ذَلَعًا: پھٹے ہوئے ہونٹ والا
ہونا۔ مَفْعِدُ ذَلَعِ الطَّعَامِ: کھال جارحانہ:
جماع کرنا۔

ذَلَعْتُ (س) ذَلَعًا شَفْتُهُ: ہونٹ کا لٹکانا۔
مَفْعِدُ ذَلَعٍ:
تَذَلَّلَ الشَّيْءُ: ڈھیلا ہونا۔ مضطرب ہونا۔
الذَّلِيلُ وَالذَّلِيلُ: کپڑے کا دامن۔ ج

ذَلَالٌ: کہا جاتا ہے شَمَزٌ ذَلَالٌ لِهَذَا
الْأَمْرِ" اس کام کیلئے اپنے دامن کو سمیٹ لو۔
یعنی مستعد ہو جاؤ۔ ذَلَالٌ النَّاسِ وَ
ذَلِيلٌ لَأَنَّهُمْ" سب سے آخری لوگ۔

ذَلَفٌ (س) ذَلَفًا الْأَنْفُ: ناک چھوئی اور
ہموار ہونا۔
الْأَذْلَفُ: چھوئی اور ہموار ناک والا۔ مَوْنَسٌ
ذَلَفَاءٌ تَلَفٌ:

ذَلَقٌ (ن) ذَلَقًا وَأَذَلَقَ: الطَّائِرُ: بیٹ
کرنا۔ ذَلَقَ اللِّسَانُ: تیز و فصیح ہونا۔ (و)
أَذَلَقَ وَذَلَقَ السَّكِينُ: چھری تیز کرنا۔
ذَلَقَهُ وَأَذَلَقَهُ وَذَلَقَهُ: کمزور و لاغر کرنا۔ ذَلَقَ
الضَّبَّ: بچو کو باہر نکلنے کیلئے سوراخ میں پانی
ڈالنا۔

ذَلَقَ (س) ذَلَقًا السِّنْفُ: السِّنْفُ: تلواریا زبان کا تیز ہونٹ۔ سِرَاجٌ: چراغ روشن
ہو۔ الرَّجُلُ: رنجیدہ ہونا۔
مِنَ الْعَطَشِ: پیاس سے قریب الموت ہونا۔
ذَلَقَ (ك) ذَلَقَةً اللِّسَانُ: فصیح ہونا۔
أَذَلَقَ: تیز زبان ہونا۔

الذُّلِيُّ: س۔ ذَلَقَ الشَّيْءُ وَذَلَقْتُهُ: کسی چیز

کی تیزی۔ ذَلَقَ اللِّسَانَ: زبان کا کنارہ۔
ذَلَقَ السَّهْمُ: تیز کا باریک حصہ۔
الذُّلِيُّ وَالذُّلِيُّ وَالذُّلِيُّ وَالذُّلِيُّ وَالذُّلِيُّ
وَالذُّلِيُّ: مِنَ الْأَلْسِنَةِ: تیز
وَالذُّلِيُّ وَالذُّلِيُّ: تیز زبان ہونا۔
الذُّلِيُّ: تیز زبان ہونا۔

الذُّلِيُّ: تیز زبان ہونا۔
الذُّلِيُّ: تیز زبان ہونا۔
الذُّلِيُّ: تیز زبان ہونا۔

الذُّلِيُّ: تیز زبان ہونا۔
الذُّلِيُّ: تیز زبان ہونا۔
الذُّلِيُّ: تیز زبان ہونا۔

الذُّلِيُّ: تیز زبان ہونا۔
الذُّلِيُّ: تیز زبان ہونا۔
الذُّلِيُّ: تیز زبان ہونا۔

الذُّلِيُّ: تیز زبان ہونا۔
الذُّلِيُّ: تیز زبان ہونا۔
الذُّلِيُّ: تیز زبان ہونا۔

الذُّلِيُّ: تیز زبان ہونا۔
الذُّلِيُّ: تیز زبان ہونا۔
الذُّلِيُّ: تیز زبان ہونا۔

الذُّلِيُّ: تیز زبان ہونا۔
الذُّلِيُّ: تیز زبان ہونا۔
الذُّلِيُّ: تیز زبان ہونا۔

الذُّلِيُّ: تیز زبان ہونا۔
الذُّلِيُّ: تیز زبان ہونا۔
الذُّلِيُّ: تیز زبان ہونا۔

الذُّلِيُّ: تیز زبان ہونا۔
الذُّلِيُّ: تیز زبان ہونا۔
الذُّلِيُّ: تیز زبان ہونا۔

الذُّلِيُّ: تیز زبان ہونا۔
الذُّلِيُّ: تیز زبان ہونا۔
الذُّلِيُّ: تیز زبان ہونا۔

الذُّلِيُّ: تیز زبان ہونا۔
الذُّلِيُّ: تیز زبان ہونا۔
الذُّلِيُّ: تیز زبان ہونا۔

الذُّلِيُّ: تیز زبان ہونا۔
الذُّلِيُّ: تیز زبان ہونا۔
الذُّلِيُّ: تیز زبان ہونا۔

الذُّلِيُّ: تیز زبان ہونا۔
الذُّلِيُّ: تیز زبان ہونا۔
الذُّلِيُّ: تیز زبان ہونا۔

الذُّلِيُّ: تیز زبان ہونا۔
الذُّلِيُّ: تیز زبان ہونا۔
الذُّلِيُّ: تیز زبان ہونا۔

الذُّلِيُّ: تیز زبان ہونا۔
الذُّلِيُّ: تیز زبان ہونا۔
الذُّلِيُّ: تیز زبان ہونا۔

الذُّلِيُّ: تیز زبان ہونا۔
الذُّلِيُّ: تیز زبان ہونا۔
الذُّلِيُّ: تیز زبان ہونا۔

حقات کرنا اور بقول بعض مذموم حالت میں چھوڑنا۔

تَذَامُ: القوم: ایک دوسرے کی بُرائی بیان کرنا۔

تَذَمُّمٌ: منه: تنگ، وعار سمجھنا اور شرم کرنا۔ کہا جاتا ہے "الْبَشِيءُ أَتَذَمُّمٌ مِنَ الْقَوْمِ" میں قوم سے دوسروں کی طرف تعقل ہو جاؤں گا۔ اسْتَذَمُّ: قابلِ مذمت فعل کرنا۔

بہ: پناہ طلب کرنا الی فلان: کسی کے ساتھ ایسا فعل کرنا جس پر وہ اس کی مذمت کرے۔

الذَّمُّ: من بُرائی۔ مذمت۔ ج ذُمُّومٌ: کہا جاتا ہے "أَفْعَلُ كَذَا وَخَلَاكَ ذَمٌّ" ایسا کرو شتمیں اس پر ملامت نہ ہوگی۔ الذَّمُّ: یعنی مذموم، مصدر، یعنی مفعول۔

بَنَرَ (ذَمَّةً) کم پانی والا کنواں۔ زیادہ پانی والا کنواں۔

الذَّمُّ: كَفَالَتُ: بہت زیادہ لاغر۔ ہلاک ہونے والا۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ ذَمٌّ" ہلاک ہونے والا مرد۔

الذِّمَامُ: حق۔ عزت۔ حرمت۔ ج اذِمَّةٌ۔ الذِّمَامَةُ وَالذِّمَامَةُ: كَفَالَتُ۔ الذِّمَامَةُ: بَقِيَّةٌ۔

الذِّمَّةُ: اِلَانٌ۔ عہد۔ ذمہ داری۔ کہا جاتا ہے "فِي ذِمَّتِي كَذَا" یعنی میری ذمہ داری میں۔

ج ذِمٌّ: أَهْلُ الذِّمَّةِ: دارالسلام میں جزیہ دے کر رہنے والے کفار۔ ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کرنے والی قوم۔ کہا جاتا ہے "أَنْتَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ" تو اللہ کی پناہ میں ہے۔

الذِّمْنَى: جزیہ دے کر دارالسلام میں رہنے والا۔

الذِّمْنِمُ: بُرَاءٌ مِنْهُ: پرکھی پھنسی۔ شتم۔ ریخت۔ بد مزہ پانی۔ بَنَرَ ذِمْنِمٌ: کم یا زیادہ پانی والا کنواں (ضد) ج ذِمَامٌ۔

المُذْمُ: فَاءٌ بِحَرَكَةٍ۔ أَمْرٌ مُذْمٌ: عیب دار۔

المُذَمَّةُ: من بُرائی۔ حق و حرمت۔ اور اسی سے ہے "هُوَ يَحْفَظُ مَذَمَّتَهُ" وہ اپنے حق

کی حفاظت کرتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے "قَضِي مَذَمَّتَهُ أَوْ مَذَمَّتَهُ" اس نے مذمت و بُرائی کے خوف سے اس کے ساتھ احسان کیا۔ "وَأَذْهَبَ مَتْنُهُ بِشَيْءٍ" اس کو کچھ دو کہ اس کا حق ہے۔

المُذَمَّمُ: مذموم۔

ذَمًّا (ف) ذَمًّا: الْإِمْرُ عَلَيْهِ: دشوار ہونا۔ ذَمَّمُ: الرَّجُلُ: تمھوڑا عیب دینا۔

ذَمْرُهُ (ن) ذَمْرًا: دھکی دینا۔ ذَمْرَةٌ: عَلَيَّ الْإِمْرُ: ملامت کے ساتھ کسی کام پر برا بیچنے کرنا الْأَمْرُ: گونجا۔ دھاڑنا۔

ذَمْرٌ: الشَّيْءُ: اندازہ کرنا الرَّجُلُ: کسی کے موٹھے کو چھونا۔

تَذَمَّرَ: فُوتٌ شَدِيدَةٌ: چیز پر اپنے آپ کو ملامت کرنا۔ غصبتاگ ہونا۔ کہا جاتا ہے "سَكَانٌ يَتَذَمَّرُ عَلَيَّ رَبِّي" وہ اپنے رب پر بگڑتا تھا

عَلَيَّ فَلَانٌ: بگڑنا اور دھکی دینا۔ (وَتَذَمَّرَ) الْقَوْمُ: ایک دوسرے کو جنگ پر برا بیچنے کرنا۔ ایک دوسرے کو ملامت کرنا۔

الذِّمْرُ وَالذِّمْرُ وَالذِّمْرُ وَالذِّمْرُ: بہادر۔ ج اذِمَارٌ۔

الذِّمَارُ: ہر وہ چیز جس کی حمایت و حفاظت ضروری ہو۔ حرم۔ اپنے لوگ۔ کہا جاتا ہے "هُوَ أَمْنٌ ذِمَارًا مِنْكَ" وہ تم سے زیادہ

حفاظت کرنے والا ہے و "هُوَ حَامِي الذِّمَارِ" وہ قابل نگہداشت چیز کی حمایت و حفاظت کرنے والا ہے۔

ذِمَارٌ: جگہ پر برا بیچنے کرنے کے لیے اسم فعل ہے۔

الذِّمَارَةُ: شجاعت۔ بہادری۔ الذِّمْرِيُّ: تیز طبیعت۔

المُذَمَّرُ: منہ کندها۔ گدن اور اس کا ارد گرد۔ کہا جاتا ہے "نَلَعَ الْأَمْرُ الْمُذَمَّرَ" معاملہ شدت کو پہنچ گیا۔

ذَمَلٌ (ن ض) ذَمَلًا وَ ذُمُولًا وَ ذَمِيلًا وَ ذَمَلَانًا: الْبَعِيرُ: اونٹ کا آہستہ چلانا۔

ذَمَلٌ: الْبَعِيرُ: اونٹ کو آہستہ چلانا۔

نَاقَةٌ (ذُمُولٌ) آہستہ چلنے والی اونٹنی۔ ج ذَمَلٌ

الْأَذْمَلُ: برص والا۔ ذَمَهُ (س) ذَمَّهَا: الْحَرُّ: گرمی سخت ہونا

الرَّجُلُ بِالْحَرِّ: سخت گرمی لگنا۔ ذَمِي (س) ذَمًا وَ ذَمَاءً: لمبنا۔

ذَمِي (ض) ذَمَاءٌ: ذَمَاءٌ: لمبی بیماری والا ہونا۔ قریب الموت ہونا۔ بدبو لگنا (ذَمِيَانًا) جلدی

کرنا اذَمَّتَهُ الرِّيحُ: تَذَمِيهِ ذَمِيًا) تکلیف دینا۔

أَذَمِي: اذَمَاءً: فَلَانًا: مار کر مرنے کے قریب کر دینا۔

اسْتَلَمِي: مَا عِنْدَهُ: جو کچھ کسی کے پاس ہو دھونڈ کر سب کچھ لے لینا۔ الذَّمِي: بدبو۔

الذَّمَاءُ: بَقِيَّةُ رُوحٍ: کہا جاتا ہے "أَطْوَلُ ذَمَاءٌ مِنَ الصَّبِّ" وہ بچو سے زیادہ سخت جان ہے۔ اس وجہ سے کہ بچو کی رُوح بڑی دیر میں نکلتی ہے۔

ذَنْ (ض) ذَنْبًا وَ ذَنْبًا: الْمَخَاطُ: رینٹ بہنا۔ کہا جاتا ہے "إِنَّهُ لِيَذَنْ" یعنی وہ بڑھاپے یا

مرض کی وجہ سے ضعیف ہے۔ و "مَا زَالَ يَذَنْ شَيْءٌ تِلْكَ الْحَاجَةِ حَتَّى ابْتَحَمَهَا" ہمیشہ اس حاجت میں لگا رہا یہاں تک کہ اس کو کامیاب کر لیا۔

ذَنْ (س) ذَنْبًا وَ ذَنْبًا: رینٹ بننے والا ہونا۔

ذَنْ (ض) ذَنْبًا: الْبِرْدُ: سخت سردی ہونا۔

الذَّنُّ: کندگی۔

الْأَذْنُ: وہ شخص جس کے دونوں نشتوں سے رینٹ بہ رہی ہو۔ مؤنث ذَنْبًا ج ذَنْبٌ اور

أَنْفَكَ مِنْكَ وَإِنْ سَكَانَ أَذْنٌ مِثَالُ هَذَا: اس شخص کے حق میں بولتے ہیں جو اپنے ضعف قوم سے بیزار ہو۔

الذَّنَانُ وَالذَّنِينُ: بننے والی رینٹ۔ الذَّنَانَةُ: حاجت۔ کزدر چیز کا بقیہ۔

ذنب (ض) ذنبا و بیچے لگے رہنا۔

ذَنْبُ الْعِمَامَةِ: شملہ لگانا کتاب: تتمہ لگانا الضب: بچو کی ذم پکڑ لینا الجواز: ٹڈی کا اٹنے دینے کے لیے زمین میں ذم چھوٹا الضب: بچو کا سوراخ سے صرف ذم باہر نکالنا۔

أَذْنَبَ الرَّجُلُ: گنہگار ہونا۔

تَذَنَّبَ عَلَيْهِ: زیادتی کرنا الرَّجُلُ: شملہ لگانا الطریق: راستہ اختیار کرنا۔

تَذَانَبَ السَّخَابُ: بادلوں کا ایک دوسرے سے بیچے ہونا۔

اسْتَذْنَبَهُ: بیچے جانا گنہگار پانا یا سمجھنا الامر: کال ہونا۔

الذَّنْبُ گناہ۔ ذَنْبٌ وَجْجٌ ذُنُوبٌ.

الذَّنْبُ مِنَ الْحَيَوَانِ: ذم۔ ذَنْبٌ أَذْنَابُ النَّاسِ: معمولی لوگ۔ ذَنْبُ الْعُقُوبِ: چھو کا ڈنک۔ ذَنْبُ السَّوْطِ:

کوڑے کا کنارہ۔ ذَنْبُ الثَّغْلِبِ وَذَنْبُ الْفَرَسِ وَذَنْبُ الْخَيْلِ: مختلف نباتات کے نام۔ اور کہا جاتا ہے "ضَرْبٌ بِذَنبِهِ" اس نے اقامت کر لی۔ وَرَكِبَ ذَنْبَ الْبَعِيرِ وہ ناقص حصہ پر راضی ہو گیا۔ وَرَكِبَ ذَنْبَ الرِّيحِ وہ آگے بڑھ گیا اور کوئی اس کو نہ پاسکا۔ وَ "بَيْتِي وَبَيْتُهُ ذَنْبُ الضَّبِّ" میرے اور اس کے درمیان دشمنی ہے۔

الذَّنَابُ اونٹ کی ذم ہانڈے کی رسی۔

ذَنْبُ الشَّيْءِ: چیز کا پھیلا حصہ۔ ذَنْبَانِبُ الذَّنَابَةِ: غراب۔ (وَالذَّنَابَةُ وَالذَّنْبَةُ) مِنَ الْوَادِي. وادی کے سینے کی انتہائی جگہ۔

الذَّنْبَةُ: ذم۔ ذَنْبَاتُ النَّاسِ وَذَنْبَانِيَّتُهُمْ: لوگوں میں معمولی اور گھٹیا درجہ کے لوگ۔

الذَّنَابِيُّ: پرندہ کی ذم۔

الذَّنُوبُ مِنَ الْخَيْلِ: لمبی اور زیادہ بالوں کی ذم والا گھوڑا۔ ذَنْبَانِبٌ وَذَنْبٌ وَأَذْنِبَةٌ: الذَّنُوبُ: قبر۔ ذنب کی چمکی کا گوشت۔

صَبَّ (أَذْنَبَ) لَمْ يَذْمُ وَالْمُؤْمَرُ

الذَّنْبِيُّ وَالذَّنْبِيُّ: ذم۔

الْمُذْنَبُ: لمبی ذم۔ پتلا نالہ۔ کہا جاتا ہے

"سَأَلْتُ الْمَذَانِبَ" نالے بہ پڑے (وَالْمُذْنَبَةُ) بچے۔

الْمُذْنَبُ ذم دار۔ اور اسی سے ہے "نَجْمٌ مُذْنَبٌ" ذم دار تارہ۔

الْمُذَانِبُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْخَيْلِ: سب سے آخر میں چلنے والا اونٹ یا گھوڑا۔

نَجْمٌ مُذْنَبٌ: ذم دار ستارہ۔ اس ستارے کا دم کئی سالوں کے بعد ظہور ہوتا ہے۔ ۱۹۱۰ء میں ظاہر ہوا تھا۔ ۱۹۸۸ء میں ظاہر ہوگا۔

ذہ و ذہ: اسم اشارہ مؤنث ہے قریب کے لیے اور اس پر "ہا" تسمیہ داخل کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہذہ و ہذہ۔

ذَهَبَ (ف) ذَهَابًا وَذَهْوًا وَمَذْهَبًا جاتا۔ گزرتا۔ مرنا۔ الامر: ختم ہونا علی الشیء: بھول جانا یہ لے جانا۔ ساتھ جانا۔

جگہ سے ہٹانا اور اسی سے ہے "ذَهَبَتْ بِهِ الْخِيَلُ" اس کو تکیہ لے گیا یعنی اس کو اس کے مرتبہ سے گرا دیا۔

فِي الْمَسْئَلَةِ إِلَى كَذَا: فلاں رائے اختیار کرنا۔

ذَهَبَ (س) ذَهَابًا: سونے کی کان میں بہت سا سونا یا کھیراں ہونا۔

أَذْهَبَ وَذَهَبَ: سونے کی قلعی کرنا۔

صَفَتْ مَفْعُولٌ (ذَهَبَتْ وَمَذْهَبَتْ وَ مَذْهَبَتْ) أَذْهَبَهُ وَأَذْهَبَ بِهِ: لے جانا۔

الذَّهَبُ: سر۔ سونا (کبھی مؤنث بھی بولتے ہیں) جِ ذَهَابٌ وَ ذَهْوٌ وَ ذَهْبَانٌ. ایک ٹکڑے کو (ذَهْبَةٌ) کہتے ہیں۔ الذَّهَبُ: اٹنے کی زردی۔ جِ ذَهَابٌ وَأَذْهَابٌ وَجِ أَذْهَابِي.

الذَّهْبَةُ: لمبی یا بہت بارش۔ جِ ذَهَابٌ وَأَذْهَابٌ وَجِ أَذْهَابِي.

الذَّهْوَبُ: جانے والا۔

الْمَذْهَبُ: سر۔ روش۔ طریقہ۔ اعتقاد۔

اصل۔ جِ مَذَاهِبٌ "بِالْمَذْهَبِ" اس سے فعل بنا ہے یعنی اس نے مذہب اختیار کیا۔ مشہور مذاہب چار ہیں۔ حنفی۔ شافعی۔ حنبلی۔ مالکی۔

الْمُذْهَبَاتُ: زمانہ جاہلیت کے طبقہ ثانیہ کے آٹھ تعلقات کے علاوہ سات قصائد۔

ذَهْرٌ (س) ذَهْرًا: فوہ: کالے دانتوں والا ہونا۔ صفت (أَذْهَرُ) مؤنث ذَهْرَاءُ جِ ذَهْرٌ.

ذَهْلٌ (ف) ذَهْلًا وَ ذَهْوًا: الشیء وَ غَنَةً: بھول جانا۔ غافل ہونا۔

ذَهْلٌ (س) ذَهْوًا: ہکا ہکا ہونا۔ ہوش میں نہ رہنا۔

أَذْهَلَ غَافِلٌ كَرِهًا۔

الذَّهْلُ وَالذَّهْلُ: مِنَ اللَّيْلِ: رات کا ایک حصہ۔

الْمَذْهَلُ: ہکا ہکا ہونے کی جگہ۔

الذَّهْلُولُ: مِنَ الْخَيْلِ أَوْ الرِّجَالِ: عمدہ گھوڑا یا چمکا آدمی۔ جِ ذَهَالِيلٌ.

ذَهْنٌ (ف) ذَهْنًا: الامر: سمجھنا۔ تیزی خاطر میں غالب آنا (وَأَذْهَنُ وَإِسْتَذْهَنُ) الرَّجُلُ عَنِ الْأَمْرِ: فراموش کر دینا۔

ذَهْنٌ (س) ذَهْنًا: الشیء: سمجھنا۔

ذَهْنٌ (ک) ذَهَانَةً: اچھے حافظ والا ہونا۔

ذَهْنٌ ذَهْنٌ كَأَزْكَالٍ هَوَانًا۔

ذَهَانَةً: زیرکی و تیزی خاطر میں مقابلہ کرنا۔

كَمَا جَاءَ فِي "أَنَّ يَذْهَبُ النَّاسُ يُقَاطِبُهُمْ" وہ لوگوں سے ذہانت اور فطانت میں مقابلہ کرتا ہے۔ أَقْرَبُ الْمَوَارِدِ فِي شَرْحِ إِشَارَاتِ كِهْ حَوَالَةٍ هِيَ كِهْ حَلُومٍ حَاصِلٌ كَرْنِي كِهْ لِنَفْسِ كِي اسْتِعْدَادِ كَانَامِ ذَهْنٌ هِيَ أَوْ اسِ اسْتِعْدَادِ كِي جُودَتِ كَانَامِ فِطَانَتِ۔

الذَّهْنُ: سمجھ۔ عقلی قوت۔ حافظہ۔ زیرکی۔ تیزی خاطر۔ چربی۔ قوت اور اسی سے ہے "مَا بَرَجَلِي ذَهْنٌ" میرے عیبر میں چلنے کی قوت نہیں۔ جِ أَذْهَانٌ.

الذَّهْنُ: سمجھ۔ عقلی قوت۔ حافظہ۔ زیرکی۔ تیزی خاطر۔ چربی۔ قوت اور اسی سے ہے "مَا بَرَجَلِي ذَهْنٌ" میرے عیبر میں چلنے کی قوت نہیں۔ جِ أَذْهَانٌ.

الذَّهْنُ: سمجھ۔ عقلی قوت۔ حافظہ۔ زیرکی۔ تیزی خاطر۔ چربی۔ قوت اور اسی سے ہے "مَا بَرَجَلِي ذَهْنٌ" میرے عیبر میں چلنے کی قوت نہیں۔ جِ أَذْهَانٌ.

الذَّهْنُ: سمجھ۔ عقلی قوت۔ حافظہ۔ زیرکی۔ تیزی خاطر۔ چربی۔ قوت اور اسی سے ہے "مَا بَرَجَلِي ذَهْنٌ" میرے عیبر میں چلنے کی قوت نہیں۔ جِ أَذْهَانٌ.

الذَّهْنُ: سمجھ۔ عقلی قوت۔ حافظہ۔ زیرکی۔ تیزی خاطر۔ چربی۔ قوت اور اسی سے ہے "مَا بَرَجَلِي ذَهْنٌ" میرے عیبر میں چلنے کی قوت نہیں۔ جِ أَذْهَانٌ.

الذَّهْنُ: سمجھ۔ عقلی قوت۔ حافظہ۔ زیرکی۔ تیزی خاطر۔ چربی۔ قوت اور اسی سے ہے "مَا بَرَجَلِي ذَهْنٌ" میرے عیبر میں چلنے کی قوت نہیں۔ جِ أَذْهَانٌ.

الذَّهْنُ: سمجھ۔ عقلی قوت۔ حافظہ۔ زیرکی۔ تیزی خاطر۔ چربی۔ قوت اور اسی سے ہے "مَا بَرَجَلِي ذَهْنٌ" میرے عیبر میں چلنے کی قوت نہیں۔ جِ أَذْهَانٌ.

الذَّهْنُ: سمجھ۔ عقلی قوت۔ حافظہ۔ زیرکی۔ تیزی خاطر۔ چربی۔ قوت اور اسی سے ہے "مَا بَرَجَلِي ذَهْنٌ" میرے عیبر میں چلنے کی قوت نہیں۔ جِ أَذْهَانٌ.

الذَّهْنُ: سمجھ۔ عقلی قوت۔ حافظہ۔ زیرکی۔ تیزی خاطر۔ چربی۔ قوت اور اسی سے ہے "مَا بَرَجَلِي ذَهْنٌ" میرے عیبر میں چلنے کی قوت نہیں۔ جِ أَذْهَانٌ.

الذَّهْنُ: سمجھ۔ عقلی قوت۔ حافظہ۔ زیرکی۔ تیزی خاطر۔ چربی۔ قوت اور اسی سے ہے "مَا بَرَجَلِي ذَهْنٌ" میرے عیبر میں چلنے کی قوت نہیں۔ جِ أَذْهَانٌ.

الذَّهْنُ: سمجھ۔ عقلی قوت۔ حافظہ۔ زیرکی۔ تیزی خاطر۔ چربی۔ قوت اور اسی سے ہے "مَا بَرَجَلِي ذَهْنٌ" میرے عیبر میں چلنے کی قوت نہیں۔ جِ أَذْهَانٌ.

الذَّهْنُ: سمجھ۔ عقلی قوت۔ حافظہ۔ زیرکی۔ تیزی خاطر۔ چربی۔ قوت اور اسی سے ہے "مَا بَرَجَلِي ذَهْنٌ" میرے عیبر میں چلنے کی قوت نہیں۔ جِ أَذْهَانٌ.

الذَّهْنُ: سمجھ۔ عقلی قوت۔ حافظہ۔ زیرکی۔ تیزی خاطر۔ چربی۔ قوت اور اسی سے ہے "مَا بَرَجَلِي ذَهْنٌ" میرے عیبر میں چلنے کی قوت نہیں۔ جِ أَذْهَانٌ.

الذَّهْنُ: سمجھ۔ عقلی قوت۔ حافظہ۔ زیرکی۔ تیزی خاطر۔ چربی۔ قوت اور اسی سے ہے "مَا بَرَجَلِي ذَهْنٌ" میرے عیبر میں چلنے کی قوت نہیں۔ جِ أَذْهَانٌ.

الذَّهْنُ: سمجھ۔ عقلی قوت۔ حافظہ۔ زیرکی۔ تیزی خاطر۔ چربی۔ قوت اور اسی سے ہے "مَا بَرَجَلِي ذَهْنٌ" میرے عیبر میں چلنے کی قوت نہیں۔ جِ أَذْهَانٌ.

الذَّهْنُ: سمجھ۔ عقلی قوت۔ حافظہ۔ زیرکی۔ تیزی خاطر۔ چربی۔ قوت اور اسی سے ہے "مَا بَرَجَلِي ذَهْنٌ" میرے عیبر میں چلنے کی قوت نہیں۔ جِ أَذْهَانٌ.

الذَّهْنُ۔ سمجھ۔ زیرکی۔ حج اذھان۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ مِنْ اهل الاذھان“ وہ سمجھ دار لوگوں میں سے ہے۔

رجل ”ذھن و ذھن“ ذکی اور سمجھ دار مرد۔

ذھا (ن) ذھوا۔ تکبر کرنا۔

ذُو۔ صاحب مالک۔ شنیہ ذُوَان۔ حج ذُوُوُن (اس کا اعراب اسے سے ملکہ کا اعراب ہے) کہا جاتا ہے ”وَجَدْتُهُ ذَا صَبَاحٍ“ میں نے اس کو صبح کے وقت پایا ”جاء مِنْ ذِي نَفْسِهِ“ وہ فرمانبرداری کی حالت میں آیا۔ اور فقہاء کے قول ”ذُو الْاِيدِ اَحَقُّ“ کا مطلب یہ ہے کہ قبضہ کرنے والا زیادہ حق دار ہے ”وَكَانَ ذَلِكُ مِنْ ذِي قَبْلِ“ یعنی یہ گزشتہ زمانہ میں تھا۔ ذُوُوُ الْاَزْحَامِ: رشتہ دار۔ اقربا۔ ذُوُوُوُن وَالْاَذْوَاء: یمن کے بادشاہ جن کے نام لفظ ذو سے شروع ہوتے ہیں۔ جیسے ذُوِيَزَن۔

ذُوُوُوُاس۔ ذُوُوُوُرياش۔ وغیرہ۔

ذَات۔ ذُوُ كَا مَوْثِق۔ شنیہ ذُوَاتَان۔ حج ذُوَات (اس کا اور اس کے شنیہ اور حج کا اعراب انہی جیسے مشابہ کلمات کا اعراب جیسا ہوتا ہے) کہا جاتا ہے ”لَقِيْتُهُ ذَاتَ يَوْمٍ اَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ اَوْ ذَاتَ مَرَّةٍ“ میں نے اس سے کسی دن یا کسی رات یا کسی دفعہ ملاقات کی۔

”وَكَانَ ذَلِكُ ذَاتَ الْغُوَيْمِ“ یہ گزشتہ سال تھا۔ ”جَلَسَ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَهِيَ جَانِبُ بَيْتِنا“ وَلَقِيْتُهُ اَوَّلَ ذَاتِ يَدِيْنِ“

میں سب سے پہلے اس سے ملا۔ ذَاتُ الصَّدْرِ: گلہ یا حمید۔ ذَاتُ الْيَمِيْنِ: داہنی جانب۔ ذَاتُ الْبِيْنِ: حال۔ کہا جاتا ہے

”اَصْلَحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ“ تم لوگ اپنی اس حالت کو درست کرو جس پر اتفاق کر سکتے ہو۔

ذَاتُ شَفِيْقَةٍ: گلہ۔ کہا جاتا ہے ”كَتَلَمْتُهُ فَمَا رَدَّ عَلَيَّ ذَاتَ شَفِيْقَةٍ“ میں نے اس سے گفتگو کی اس نے جواب میں ایک کلمہ بھی نہیں کہا۔

ذَاتُ الْيَدِ: ملکیت۔ کہا جاتا ہے ”قُلْتُ ذَاتُ يَدِهِ“ اس کی ملکیت تم ہو گئی اور کہا جاتا

ہے ”الْقَتُّ الدَّجَاجَةُ ذَاتُ بَطْنِيْها“ یعنی

مرغی نے انڈا دیا یا بیٹ کی۔ ذَاتُ الْجَنْبِ عِنْدَ الْاَطْيَاءِ: نمونیا۔ ذَاتُ الرِّئَةِ وَذَاتُ الصَّدْرِ وَذَاتُ الْكَبِدِ: بیماریوں کے نام۔

الذَّاتُ وہ چیز جو جانتے یا خبر دینے کے قابل ہو۔ ذَاتُ الشَّيْءِ: نفس شی۔ عین شی۔ جوہر شی۔ اِسْمُ الشَّيْءِ۔ عِنْدَ النَّحَاةِ: نحویوں کے نزدیک اسم ذات وہ ہے جو کسی ذات سے تعلق رکھتا ہو۔ جیسے مرد۔ شیر وغیرہ اور اس کے مقابلہ اسم معنی ہے جیسے علم، شجاعت، سخاوت وغیرہ۔ الذَّوَاتُ عِنْدَ الْمُؤَلَّدِيْنَ: قوم کے بڑے بڑے لوگ۔

الذَّاتِيْ۔ ذات کی جانب منسوب۔

ذَاب (ن) ذُوِيَانَا وَ ذُوِيَا الْفَلَجِ اَوْ السَّمْنِ: برف یا گھی پگھلانا ذَمْعُهُ: آنسو بہنا السَّمْسُ: آفتاب کا گرم و تیز ہونا الرَّجُلُ: عقل مند کی بعد یہی قوف ہونا۔ شہد کھانے پر مدامت کرنا۔ کہا جاتا ہے ”ذَابَ لِيْ عَلَيْهِ حَقُّ“ میرا حق اس پر ثابت ہوا۔ ”مَا ذَابَ فِي يَدِيْ مِنْ خَبِيْرٍ“ مجھ کو اس سے کچھ بھی قائمہ حاصل نہیں ہوا۔ ”ذَابَ جَسْمُ الرَّجُلِ“ لاغر ہو گیا۔

ذُوْبُ السَّمْنِ: گھی پگھلانا الْغَلَامُ: لڑکے کے گیسو بنانا۔

اَذَابُ اِذَابَةِ السَّمْنِ: گھی پگھلانا حَاجَتُ پوری کرنا لَقَوْمٌ اَمْرُهُمْ: درست کرنا عَلَيَّ الْعَدُوُّ: دشمن پر لوٹ ڈالنا۔

اِسْتَدَابَهُ: پگھلانے کو کہنا۔ شہد مانگنا الشَّيْءُ: باقی رکھنا حَاجَتُهُ: پوری کرنا۔

الذَّابُ: عیب۔

الذَّوْبُ: سر۔ خالص شہد۔ ذُوْبُ الذَّهَبِ: سونے کا پانی یا پگھلا ہوا سونا۔ اور کہا جاتا ہے ”هَذَا الْكَلَامُ ذُوْبُ الرُّوْحِ“ یہ کلام روح کو پگھلانے والا ہے۔

الذَّوْبَةُ: ذَاب کا اسم مرہ کہا جاتا ہے ”ظَهَرَتْ مِنْهُ ذَوْبَةٌ“ اس سے حماقت ظاہر ہوئی۔ مال کا بقیہ جس کو انسان باقی رکھے سفاقت

(ذُوُوُوُبُ) موٹی اونٹنی۔

الذَّوَابُ وَالْاَذْوَابِيَّةُ: مکھن جو ہانڈی میں گھی حاصل کرنے کیلئے پگھلایا جائے۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ اَحْلَى مِنَ الذَّوْبِ بِالْاَذْوَابِيَّةِ“ وہ خالص شہد جو خالص مکھن کے ساتھ ملا ہوا ہو۔

اس سے زیادہ میٹھا ہے۔

المذْذُوْبُ: سونا وغیرہ پگھلانے کی کھال۔

المذْذُوْبِيَّةُ: بچہ۔

ذَا ج (ن) ذُوُوُوُجَا۔ جلدی کرنا الماء: پانی پینا۔

ذَا ح (ن) ذُوُوُوُحَا۔ سخت چال چلنا۔

(وَذُوُوُوُحُ) الْاِبْلِ: اونٹوں کو متفرق و پراگندہ کرنا۔

ذَا دَه (ن) ذُوُوُوُذَا اَوْ ذِيَا دَا۔ دفع کرنا۔ ہٹانا۔ دھکارنا۔ کہا جاتا ہے ”ذَا ذَا الْاِبْلِ عَنِ الْمَاءِ“ اس نے اونٹوں کو پانی سے ہٹا دیا (وَذُوُوُوُذُ) عَنْ حَسْبِهِ: بچانا۔ حمايت کرنا۔

مغسٹر ذَا دَا: ذُوُوُوُذُوُ وَ ذُوُوُوُذَا ذَا دَا: اذاد اذادہ اذُوُوُوُذَا اذُوُوُوُذَا ہٹانے میں مدد دینا۔

الذَّوُوُوَادُ: بہت دفع کرنے والا۔

الْمَذَادُ: چراگاہ۔

المذْذُوْدُ: موسیٰبیوں کا تھان۔ جس سے کسی چیز کو ہٹایا جائے۔ تیل کا سینگ۔ زبان۔

رَجَالُ (مذَاوِدُ وَ مَذَاوِيْدُ) قَاتِلُ مَجْمَعِداشْتِ چیزوں کی حمايت کرنے والے لوگ۔

الذَّوُوُدُ: اونٹ جن کی تعداد تین سے لے کر تیس (۳۰) تک۔ مَوْثِقُ کے لئے اس کا واحد کوئی نہیں یا یہ خود واحد ہے اس کی جمع ازوا ہے۔

ذَا طَه (ن) كُوُوُوَطَا۔ سخت گلہ گھوٹنا۔

الْاِنَاءُ: بھرتا۔

ذُوُوُوُط (س) ذُوُوُوُوُوَطَا۔ چھوٹی چھوٹی ٹھوڑی والا ہونا۔ مَغْسُطُ (اَذُوُوُوُطُ)

الْمَذْرُوْبَةُ: زرد پھیل والی ٹھڑی۔ مَغْذُوُوُوَطُ

الذَّوُوُوُطُ: اونٹنی درجہ کے لوگ۔

ذَا ع (ن) كُوُوُوُعَا۔ مَالَةٌ: سب کچھ پراگندہ

کردینا۔

أَذَاعَ إِذَاعَةً الْقَوْمَ بِمَا فِي الْحَرَضِ: قوم کا سارے پانی پینا الرَّجُلُ بِمَالِهِ: لے جانا۔ ذاق (ن) ذَوْقًا كَشَادَةً قَدِمَ رَحْتَهُ هَوَىٰ جَئَانًا۔

ذاق (ن) ذَوْقًا وَ ذَوْاقًا وَ مَذَاقًا الشَّيْءِ: چکھنا الْعَذَابُ عَذَابٌ بَرَدَانَتْ كَرْنَا الرَّجُلُ وَمَا عِنْدَ الرَّجُلِ: آزمائش کرنا۔ کہا جاتا ہے ”ما ذاق ذَوْاقًا“ اس نے کچھ نہیں چکھا۔

تَذَوَّقَ الشَّيْءُ: تھوڑا تھوڑا چکھنا۔

تَذَاوَقَ الْقَوْمَ الشَّيْءِ: چکھنا۔ کہا جاتا ہے ”تَذَاوَقُوا الرِّمَاحَ“ انہوں نے تیزوں کو سنبھالا۔

اسْتَذَاقَهُ: آزمائش کرنا۔ تجربہ کرنا۔ لَهْ الْأَمْرُ: آسانی سے حاصل ہونا۔ اسی سے ہے ”لَا يَسْتَذِيقُ لِي الشَّعْرِ إِلَّا فِيهِ فَلَانٌ“ میرے لیے شعر کی آمد نہیں ہوتی مگر فلاں کے حق میں۔

الذَّوْقُ وَالذَّائِقَةُ: چکھنے کی قوت۔

الذَّوْقُ وَالذَّوْقُ: طبیعت۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ حَسَنُ الذَّوْقِ لِلشَّعْرِ“ اس کی طبیعت شعر کے لئے زیادہ موزوں ہے الذَّوْقُ: مزہ۔ کہا جاتا ہے ”ذَوْاقُهُ طَيِّبٌ“ اس کا مزہ اچھا ہے۔

المَذَاقُ: مزہ۔ کہا جاتا ہے ”مَذَاقُهُ طَيِّبٌ“ اس کا مزہ اچھا ہے۔ ”وَهُوَ مَرُّ المَذَاقِ“ وہ کڑوے مزہ کا ہے۔

ذَوَى (ض) وَذَوَى (س) ذَوِيًا النِّبَاتِ: نباتات کا پڑھوڑا ہونا۔ اذَوَى اذْوَاءً: پڑھوڑا کرنا۔ الذَوَى: بھری کے چھوٹے بچے۔ الذَّوَاةُ: خربوزہ یا گور وغیرہ کا چھلکا۔ اسم اشارہ مؤنث ہے قریب کے لیے۔

ذَبَّتْ ذَبَّتٌ أَوْ ذَبَّتْ وَ ذَبَّتْ: بات چیت یا فصل کیلئے کنایہ ہے جیسے ”قُلْتُ لَهُ ذَبَّتْ ذَبَّتٌ“ میں نے اس سے ایسا کیا کہ۔ ”فَعَلْتُ

ذَبَّتْ ذَبَّتٌ“ میں نے ایسا کیا اور اسی کے مانند (ذَبَّتٌ ذَبَّتٌ وَ ذَبَّتٌ ذَبَّتٌ) ہیں۔

ذَاجٌ (ض) ذَبَّجِلُ المَاءِ: پانی پینا۔ ذَابِجَةٌ مَذَابِجَةٌ: کسی کے ساتھ ہو کر پینا۔ ذَبَّيْحَتِ النَّخْلَةُ: گامبانہ لگانا۔

أَذَاخَ إِذَاخَةً بِالمَكَانِ: گرد آگرد گھومنا بنی فلان: ذمیل کرنا۔

الذَّبِيخُ: ذبیر بھیریا۔ زیادہ بالوں والا۔ زبجو۔ مؤنث ذَبِيخَةٌ: عمدہ گھوڑا۔ تکبیر۔ ایک سرخ رنگ کا ستارہ۔ ذَابَاخٌ وَ ذُبُوخٌ وَ ذَبِيخَةٌ: دَارَةٌ بِدَارَةٍ ذَبِيرٌ: ناپسند کرنا۔ الذَّبِيرَةُ: مٹی ملا ہوا گوبر۔

ذَاعَ (ض) ذَبَعًا وَ ذُبُوغًا وَ ذَبُوعَةً وَ ذَبَعَانًا: الخَبِرُ: پھیلنا۔ اور کہا جاتا ہے ”ذَاعَ فِي جِلْدِهِ الحَبْرُ“ اس کے جسم میں مٹی پھیل گئی۔

أَذَاعَ إِذَاعَةً الخَبِرُ وَ الخَبْرُ: پھیلانا السَّرُّ بِالسَّرِّ: ظاہر کرنا الْقَوْمَ مَا فِي الحَوْضِ أَوْ بِمَا فِيهِ: سارا پانی لینا بِالشَّيْءِ: لے جانا۔

انذاع الخبیر: پھیلانا۔ راز کی حفاظت نہ کرنے والا۔ ذج المذنباع: تم کہتے ہو ”فلانٌ لئلا سزار مذنباع و لذاسباب مضباع“ فلان بھیدوں کو بہت ظاہر کرنے والا اور اسباب کو بہت ضائع کرنے والا ہے۔

الذَّبِيفَانُ وَ الذَّبِيفَانُ: مہلک زہر۔

ذَالٌ (ض) ذَبَّالًا النُّوبُ: کپڑے کا لبا ہونا۔ دامن دار ہونا الطَّائِرُ: پرندہ کا دم کو کھینچنا یا پھیلانا النَّاقَةُ بِذَنَبِهَا: اونٹنی کا رانوں پر ادھر ادھر مارنا الحَارِيَّةُ: لڑکی کا دامن کھینچنے ہوئے ناز سے چلنا الشَّيْءُ: ادنیٰ ہونا۔

حَالَةٌ: پست و فروتر ہونا فَلَانٌ إِلَى فَلَانٍ: گستاخی کرنا۔ ذَبَّلَ النُّوبُ: کپڑے کا لبا کرنا۔ الحَبَابُ: کتاب کے آخر میں کچھ برساتا۔

أَذَالَ إِذَالَةً وَ أَذْبَلَ أَذْبَالًا النُّوبُ:

دامن والا ہونا الرَّجُلُ نُوبٌ: کپڑے کا دامن بنانا۔ دامن لبا کرنا۔ مَالَةٌ: خرچ کرنا ہ: اہانت کرنا فَرَسَهُ وَ غَلَامَهُ: لاپرواہی کی وجہ سے دبا کرنا۔

المرأة قبياعها: عورت کا برقع کو لگانا۔ المدمع: آسویہانا۔

تذليل الكلاخ: گستاخی کرنا۔ الجارية: لڑکی کا دامن کھینچنے ہوئے ناز سے چلنا الفرس في استنانه: گھوڑے کا دوڑنے میں خوشی سے دم ملانا۔

تذليل حاله: پست و فروتر ہونا۔

الذليل چیز کا آخری حصہ۔ ذيل النوب: دامن۔ ذيل الریح: ریت پر ہوا کے نشانات۔ ذيل الفرس: دم یا دم کا لٹکا ہوا حصہ۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ فِي ذَيْلِ ذَائِلٍ“ وہ بڑی سخت ذلت میں ہے۔ ذال و ذبیل و ذبیل و اذبیل۔

واذبیل۔ اذبیل الناس و ذبیلهم: آخر کے لوگ۔


الذائل فا دامن دار۔ ذرع ذائل او ذائلة: لمبے دامن والی زرہ۔ کہا جاتا ہے ”طال ذبيله“ یعنی اس کا حال اچھا ہو گیا اور مال بڑھ گیا۔ نوب (مذال او مذیل) لمبے دامن کا کپڑا۔

المذالة باندی۔ لوٹری۔ اور مش ہے ”اخبل من مذالة“ باندی سے زیادہ متکبر۔ اس کے لئے کہ اس کی اہانت کی جاتی ہے اور وہ اپنی حماقت سے ناز و انداز سے چلتی ہے۔ ذرع مذالة: لمبے زرہ۔

أرض (مُتَذَبَّلَةٌ) زمین جس پر بگی کی بارش ہو۔

المذئبال لیے دامن والا (مذکر مؤنث) ذامف (ض) ذبما و ذاما۔ عیب لگانا۔ مذمت کرنا۔ صفت (مذنبم و مذنبوم) الذام و الذنب۔ عیب۔ مذمت۔

الذین عیب۔



الطباء: ہرنیوں کا دم ہلانا السحاب او
السراب: بادل یا سراب کا چمکنا الرجل:
پڑھنے یا بولنے میں حرف را زیادہ بولنا۔
رؤس برؤس رؤاسة رؤس ہونا۔

رأس (ض) رؤاسة القوم: سردار قوم
ہونا رؤاسة (ف) رأسا سر پر زخم پہنچانا
السبيل الغناء: سیلاب کا کوڑا کرکٹ جمع
کرنا۔

رؤس دروسر والا ہونا۔

رؤسة سردار بنانا۔

ترأس ورتأس سردار ہونا۔

ارتأسة: گردن پکڑ کر زمین میں جھکا دینا۔
ارتأس النشي: کسی چیز کے سرے پر سوار
ہونا۔

الرأس سر۔ ج رؤس وروؤس و
رؤس و آراس۔ اس کا اطلاق ہر ذی روح
کے لیے ہوتا ہے اور اکثر جانوروں کے
لے لیے جیسے ارتعون رأسا من الغنم۔

الرأس: چیز کی چوٹی۔ سردار قوم۔ رأس
الشہور او العام: مہینے یا سال کا پہلا دن۔
اور کہا جاتا ہے "فعلتہ رأسا" اس نے اس

کام کو ابتداء کیا۔ و"ولدت ثلاثة رأسا
علی رأس" اس عورت نے یکے بعد
دیگر تین بچے دیے۔ و"زمت منک فی

الرأس" تیری رائے میرے حق میں ایسی
بری ہوئی کہ تو میری طرف دیکھتا بھی
نہیں۔ و"هذا قسم برأسه" یہ مستقل ایک

ترأیل القوم: چور بنا علیہ: لوٹ ڈالنا۔
الریئال والریئال شیر۔ بھیریا۔ ج
رأیل ورأیل ورأیلة ورأییل۔
الریئال اکلوتا لاکا۔

الریئنج: صنوبر کا گوند۔
رؤد (ک) رؤذوة الغصن: ٹہنی کا تر
اور بہت نازک ہونا۔ صفت (رؤد)

ترأدت. الریخ: ہوا کا ادھر ادھر چلنا۔
ترأد الرجل: اٹھنے میں کانپنا (وارتأد)

الغلام: خوش عیشی کی وجہ سے لڑکے کے
بدن کا تھلکنا الغصن: جھلکا العنق: گردن
کا پیچیدہ ہونا (ترأد ورتأد) الضحی:
روشنی پھیلنا۔ دن چڑھنا۔

رأدورأید. الضحی: آفتاب چڑھنے اور
روشنی پھیلنے کا وقت۔ والرأد: کان کے
نیچے جڑے کی ابھری ہوئی جڑ۔

الرأدیولاً: کتان کی قسم سے ایک پودا۔
الرؤند. ہم عمر۔ کہا جاتا ہے "هذا رؤندی"
یہ میرا ہم عمر ہے۔ درخت کا پودہ۔ ج
ارأد۔

الرأد والرأدة والرؤدة.
خوبصورت نوجوان عورت۔ الرؤد: نرمی
سہولت۔ کان کے نیچے جڑے کی ابھری
ہوئی جڑ۔

رأرا. تلی پھرانا۔ تیز دیکھنا۔ رأرا بعینیه:
آنکھیں پھرانا۔ صفت مذکر (رأرا) صفت
مؤنث رأرا ورأرة ورأراء ورأراءة

ر: الراء: بنیادی حروف میں سے دسواں
ہے۔ یہ حرف الذوقیہ میں سے ہے۔

حساب جمل میں اس کا نمبر ۲۰۰ ہے۔

رأب (ف) رأبا. الصدع: پھن
درست کرنا۔ مرمت کرنا الشی: جمع کر
کے نرم ہانڈھنا بیئهم: صلح کرنا۔

رأبت الأرض: سبزی کاٹ لینے کے بعد
سرسبز ہونا۔

أرأب إرأبا. الصدع: پھن درست
کرنا۔ پیوند کرنا۔

الرأب. سر۔ پھن۔ شکاف۔ سردار۔ ج
رأب. کہا جاتا ہے "کفی بفلان رأبا
لامرک" فلاں تمہارے امر کو درست
کرنے والا کافی ہے۔ (اس جملہ میں مصدر
بمعنی اسم فاعل ہے)

الرؤبة. کڑی وغیرہ کا کلوا جس سے کسی
چیز کو درست کیا جائے۔ سوراخ بند کرنے
کی چیز۔ گاڑھا دودھ۔ رات کا گزرا ہوا

وقت۔ حاجت۔ ج رأب ورؤبات. کہا
جاتا ہے "هو رأب بینی فلان" وہ بنو
فلاں کے امور کا درست کرنے والا ہے۔

المرباب: کاروں موٹر سائیکلوں وغیرہ کو
درست کرنے کی جگہ (درکشاپ)
الرأب والمرباب. درست کرنے والا۔

رأیل رأیلة. ایک جانب کو جھکتے ہوئے
چلنا گویا کہ ننگے پیر چلنے کی وجہ سے تکلیف
ہے۔

قسم ہے۔ و"أنت على رأس أمرك" تو اپنے کام کے سرے پر ہے۔
 رِئَاسٌ. السَّيْفُ: تلوار کا قبضہ۔
 کہا جاتا ہے "أنت على رأس أمرك" تو اپنے کام کے سرے پر ہے۔
 الرئیس. فإ. حاکم۔ سِرْوَأَسُ.
 الرئیس والرئیس. سردار قوم۔
 چودھری۔ سِرْوَأَسُ.
 الرئیس. محکم سرداری والا۔
 الرؤائس. وادیوں کی بلندیاں۔ اگلے پادل۔ واصرئیسة۔
 الرئاس. سری بیچنے والا۔
 الأراس. بڑے سر والا۔ مؤنث أسماء۔
 الرؤاسی. بڑے سر والا۔
 المراس. من الخیل: وہ گھوڑا جو گھڑ دوڑ میں دوسرے گھوڑوں کے سر کو کاٹے۔
 گھڑ دوڑ میں آگے بڑھنے والا۔
 المرئیس. جگ سے جی چرانے والا۔
 المرؤوس. رعیت، محکوم۔ بڑے سر والا (والرئیس) وہ شخص جس کے سر میں زخم لگا ہو۔
 رَأْفٌ (ف) رَأْفَةٌ وَرُؤْفٌ (ک) رَأْفَةٌ وَرَيْفٌ (س) رَأْفًا وَتَرَأْفٌ. بہ: بہت مہربانی کرنا۔ صفت (رؤوف و رؤوف و رَأْفٌ وَرَيْفٌ وَرَأْفٌ) آپس میں مہربانی کرنا۔
 تَرَأْفُوا. آپس میں مہربانی کرنا۔
 رَأْفَهُ وَاسْتَرَأْفَهُ. مہربان بنانا۔ مہربانی کرنے پر براہیئتہ کرنا۔
 الراف. شراب۔
 اسْتَرَأْفَ. الرأف: شتر مرغ کے بچہ کا قوی و مضبوط ہونا لیبات: لمبی ہونا۔
 الرأل. شتر مرغ کا بچہ۔ مؤنث رَأْلَةٌ. رِئَالٌ وَأَرْؤُلٌ وَرِئَالَانٌ. رِئَالَةٌ. کہا جاتا ہے "حَوْدَرَالَهُ" یعنی وہ گھبرا گیا۔
 الرؤال. گھوڑے کے منہ کے جھاگ۔
 الرئیل والرؤول. دانتوں کے نیچے زائد نکلا ہوا دانت نعاماً (مؤنث لئلة) نیچے والی مادہ

شتر مرغ۔

المؤائل. جلدی کرنے والا۔

رَأْمٌ (ف) رَأْمًا. الخیل: مضبوط بٹنا۔

القدح: درست کرنا۔ مرمت کرنا۔

رِئَمٌ (س) رَأْمًا وَرِئَمَانًا. الجرح: زخم

کا انگور بندھنا الشی: تختہ کرنا۔ اُلْقَتْ

کرنا الناقۃ و لدها: مہربان ہونا۔ صفت

(رأیم و رائمة رؤوم) سِرْوَأَسُ. کہتے

ہیں "هو رؤوم للئیسیم" وہ ذلیل ہے۔

ذلت پر راضی ہو جانے والا ہے۔

أرأم إرأما. الجرح: زخم کو علاج کر کے

لہتھا کرنا الخیل: رسی کو مضبوط بٹنا۔

ه على الأمر: مجبور کرنا الناقۃ: اونٹنی کو

دوسرے کے بچہ پر مہربان بنانا۔

تَرَأْمَةٌ. وَتَرَأْمٌ عَلَيْهِ: مہربان ہونا۔

الرئام. سفید ہرن۔ سِرْوَأَسُ وَرَأْمٌ.

مؤنث رِئَمَةٌ.

الرؤام. لعاب۔

الرؤائم. دیگ دان کے پائے۔

رَأَى بَرَى رَأْيًا وَرُؤْيَةً وَرَأَةً. وَرِئَانًا.

بصارت یا بصیرت سے دیکھنا۔ بَرَى کی

اصل بَرَى ہے اور اصل کا استعمال نادر ہی

ہوتا ہے۔ اور أَمْرًا کا صیغہ ہے۔ کہا جاتا

ہے "یا تَرَى ویاھل تَرَى" یعنی اے

شخص کیا تو گمان کرتا ہے؟ اور مضارع کا

صیغہ گمان کے معنی میں مجہول ہی سنا گیا

ہے۔

رَأَى الشی: دیکھنا۔

رَأَى (ف) رَأْيًا. الرَجُل: پھیمپروے پر

مارنا الرئد: چھماق سے آگ نکالنا۔

الرئد: آگ نکالنا الریة: جھنڈا گاڑنا۔

رَأْيَتَهُ تَرُؤِيَةً. خلاف حقیقت دکھانا۔

رَأْيَتُهُ مَرَاءَةٌ وَرِئَاءٌ. خلاف حقیقت

دکھانا اور رَأْيَتُهُ مَرَاءَةٌ: باہم مشورہ کرنا۔

أَرَأَى أَرَأَاءً. عقل دارے والا ہونا۔

چہرے میں حماقت ظاہر ہونا۔ آئینہ میں

دیکھنا۔ دکھانے کے لیے کام کرنا۔

پھیمپروے کے درد والا ہونا۔ بہت خوش

منظر ہونا۔ دیکھنے کے وقت پلکوں کو ہلانا

الریة: جھنڈا گاڑنا الخامل من غیر

ذوات الحافر والسبع: شخص سے حاملہ

معلوم ہونا۔ صفت (مُرءٌ وَ مَرُؤِيَةٌ)

أَرَاهُ يَرِيَهُ أَرَاءَةً وَأَرَاءً. الشی: دکھانا۔

صفت مذکر (مُر) صفت مؤنث مَرُؤِيَةٌ. کہا

جاتا ہے "أرئی برأیک" مجھے مشورہ دو۔ و

"أرئی اللہ بفلان" اللہ تعالیٰ فلاں کو

عذاب دیں اور اس کے دشمن کو وہ

دکھائیں جس پر وہ خوش ہو۔

تَرَأَى وَتَرَأَى. فِي الْمِرْأَةِ: آئینہ میں

دیکھنا۔ تَرَأَى وَ تَرَأَى لَهُ: دیکھنے کے

درپے ہونا۔ وَتَرَأَى النَّاسُ: ایک

دوسرے کو دیکھنا۔ اور کہا جاتا ہے "تَرَأَيْنَا

فِي الْأَمْرِ" ہم نے معاملہ میں غور کیا۔ و

"تَرَأَى لِأَيِّ فُلَانٍ" وہ فلاں کا ہم خیال

ہو گیا۔ وَتَرَأَى لِي أَنْ الْأَمْرَ كَيْتَ

كَيْتَ" میرے لئے یہ ظاہر ہو گیا کہ

معاملہ ایسا ہے۔ وَتَرَأَيْنَا الْهَيْلَ" ہم

نے چاند دیکھنے کی کوشش کی۔

أَرَأَيْتَ. الْأَمْرُ: غور کرنا۔ شک کرنا۔

سوچنا۔

اسْتَرَأَى. ه: دیدار چاہنا۔ رائے طلب

کرنا۔ کہا جاتا ہے "اسْتَرَأَيْتُهُ وَاسْتَرَأَيْتُهُ"

اسْتَرَأَى بِالْمِرْأَةِ: آئینہ سے دیکھنا۔

الرأی: رائے۔ اعتقاد۔ تم کہتے ہو رائی

کذا" میرا اعتقاد ایسا ہے۔ تدبیر کی

رسائی۔ سِرْوَأَسُ وَرَأَاءُ.

الرئی والرئی والرؤاء والرئی. منظر اور

حسن منظر۔

الرؤیا. خواب سِرْوَأَسُ. کہا جاتا ہے

"جاء حین رُؤیا رُؤیا اورأیا" وہ اس

وقت آیا جبکہ تاریکی خوب ہوئی۔

الرؤیة. آنکھ یا دل سے دیکھنا۔ سِرْوَأَسُ

الرئیة. دیکھنا۔

الرئاء. من حقیقت کے خلاف دکھانا۔ کہا

جاتا ہے "فَعَلَ ذَلِكَ رِنَاءً" اس نے اس کو نمود اور دکھاوے کے لیے کیا۔ اور کہا جاتا ہے "هُم رِنَاءُ الْقَبِّ" وہ لوگ دیکھنے میں تقریباً ہزار ہیں۔ و "قَوْمٌ رِنَاءٌ" ایک دوسرے کے مقابل قوم۔ و "ذَوُرِنَاءٍ" ہمارے گھر ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ التَّزْنِيَةُ بمنظر یا حسن منظر۔ الرِّعَاءُ بہت دیکھنے والا۔

الرِّوْنَةُ پھیرنا۔ ج رِنَاتٌ وَرِنُونَ اور نسبت کے لیے (رِنُونِيٌّ)

رِنِيٌّ۔ القوم قوم کا سردار جس کی رائے سے سب اتفاق کریں۔ الرِنِيُّ بڑا سانپ۔ کپڑا جو خریدار کے سامنے پھیلایا جائے۔ هُوَ (رِنِيٌّ) بگذاؤہ اس کے لائق ہے۔ المِرَاةُ آئینہ۔ ج مِرَاةٌ وَ مِرَاةِائِسٌ سے فعل کا اشتقاق کرتے ہیں جیسے يَتَمَرَّأَى یعنی وہ آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھ رہا ہے (اس کو سیبویہ نے بیان کیا ہے)

المِرَاةُ والمِرَاةُ بمنظر۔ کہا جاتا ہے "هُوَ مِرَاةٌ بگذاؤہ اس کے لائق ہے۔ وَ تَجَزَعَن مَجْهُولُهُ مِرَاةُهُ اس کا ظاہر باطن پر دلالت کرتا ہے و "هُوَ مِرْنِيٌّ مِرَاةٌ وَ مَسْمَعٌ او مِرْمَاةٌ وَ بِمَسْمَعٍ" وہ ایسی جگہ ہے کہ میں اس کو دیکھ سکتا اور اس کی بات سن سکتا ہوں۔

رَبَّن (رَبَّنَا) القوم بلا دست ہونا۔ انتظام کرنا البَغْمَةُ بڑا دہ کرنا الشَّيْءُ جمع کرنا۔ مالک ہونا الامْرُ کبھی کام کو درست کرنا۔

الذَّهْنُ تھیل کو عمدہ خوشبودار بنانا۔ بِالْمَمَّكَانِ: اقامت کرنا (رَبَّنَا وَرَبَّنَا) الرِّوْقُ منک پر گھور کا شیرہ مل دینا تاکہ بو اچھی ہو جائے اور گھی وغیرہ نہ بگڑے۔

(رَبَّنَا وَرَبَّبْ تَرْبِيًّا وَتَرْبِيَّةً وَارْتَبَّ اِزْتَبَاةً) الولد بڑکے کی بالغ ہونے تک پرورش کرنا۔ درجہ بدرجہ کمال کو پہنچانا۔ وَرَبَّبَ الذَّهْنَ تھیل کو عمدہ اور خوشبودار

بنانا۔ اَرْبَّ بِالْمَمَّكَانِ: اقامت کرنا منہ: قَرِيبٌ ہونا۔ کہا جاتا ہے "اَرْبَيْتُ السَّحَابَةَ" جبکہ لگا تار برسے۔ تَرْبَّبَ القوم اکٹھا ہونا۔

الصَّبِيُّ بچے کے بالغ ہونے تک پرورش کرنا۔ تم کہتے ہو "رَأَيْتَهُ يَتَرْبَّبُ اَرْضَكُمْ" میں نے دیکھا کہ وہ تمہاری زمین پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کر رہا تھا۔ اَرْتَبَّ العنبُ انگور کا پکانے سے رُب تیار ہونا۔

الرُّبُّ مصل۔ مالک۔ سردار۔ درست کرنے والا۔ پرورش کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے۔ اور اس کی طرف نسبت کے لیے (رَبِّي وَ رَبَّانِي وَ رُبُّوِيٌّ)

الرَّبَّانِي عارف باللہ۔ عالم۔ الرَّبَّانِي ملاحوں کا چیڑمین الرَّبِّيَّةُ رُب کا مونت۔ دیوی۔ مالک۔ بڑا گھر۔

الرَّبِّيَّةُ بڑی جماعت۔ ایک قسم کا درخت۔ ج اَرْبِيَّةٌ وَرَبَابٌ الرُّبُّ بچلوں کے رس کو پکا کر گاڑھا کیا ہوا شیرہ۔ ج رَبَابٌ وَرُبُوبٌ۔

رَبٌّ وَرَبِيَّةٌ وَرَبِيَّةٌ وَرَبِيَّةٌ جربے حسب سیاق کلام تکثیر و تقلیل کا فائدہ دیتا ہے اور کمرہ پر داخل ہوتا ہے اور زائد کے حکم میں ہوتا ہے اور کمرہ کے لیے شرط ہے کہ موصوف ہو اور جب اس کے آخر

میں "ملاحق ہوتا ہے تو عمل نہیں کرتا اور اس صورت میں فعل اور معرفہ پر بھی مداخل ہوتا ہے جیسے "رَبِيَّةُ الْخَلِيْلِ مُقْبِلٌ وَرَبِيَّةُ اَقْبَلِ الْخَلِيْلِ" اور کبھی اس صورت میں بھی عمل کرتا ہے جیسے "رَبِيَّةٌ صَرَبِيَّةٌ بِسِنْفِ صَفِيْلِ"

الرَّابُّ بویٹلا باپ۔ الرَّابَّةُ بویٹلی ماں۔

الرَّبِّبُ بہت پانی۔ مٹھا پانی۔

الرَّبَّابُ سارنگی کی مانند ایک باجر۔ سفید بادل۔ واحد (رَبَّابِيَّةٌ)

الرَّبَّابُ عہد۔ دوست۔ دس۔ دس آدمیوں کی جماعتیں۔

الرَّبَّابِيَّةُ ارب کا اسم۔ مملکت۔ عہد و پیمان جیسے "مَحَنَتْ اِمْرُنَا اَفْضَتْ اِلَيْكَ رَبَّابِيَّةً"

الرَّبِّيُّ بکری جس نے بچہ جنا ہوا یا جس کا بچہ مر گیا ہو۔ بکری جس نے ابھی بچہ جنا ہو۔ مضبوط گرہ۔ حاجت۔ نعمت۔ احسان۔

الرَّبُّوِيَّةُ وَالرَّبُّوِيَّةُ ارب کا اسم۔

الرَّبَّابُ جماعت۔

الرَّبَّابَانُ ملاحوں کا سردار۔

الرَّبِّيُّبُ وَالرَّبُّوِيَّةُ بویٹلا لڑکا۔ سوتیلا باپ۔ ج اَرْبِيَّةٌ الرَّبِّيُّبُ منک کو بنانے والا اور درست کرنے والا۔

الرَّبِّيَّةُ دایہ۔ سوتیلی لڑکی۔ سوتیلی ماں۔ ج۔ رَبَّابِيَّةٌ۔

الرَّبُّوِيَّةُ پرورش کیا ہوا۔ غلام، بندہ۔

الرَّبُّوِيَّةُ جائے اقامت یا جائے اجتماع۔ تم کہتے ہو "هَذَا مَرْبُّ القوم" یہ قوم کے جمع ہونے کی جگہ ہے۔ لوگوں کا جمع کرنے والا آدمی۔

(الرَّبَّابِيَّةُ) بہت پیداوار والی زمین۔

الرَّبُّوِيَّةُ جس کے اوپر انعام کیا جائے۔

الرَّبَّوِيَّةُ مملکت۔

رَبْلَانٌ زبناچڑھنا۔ بلند ہونا۔

عَلِيٌّ جَبَلٌ بھڑا پر سے جھانکنا فِي الامْرِ: غور و فکر کرنا القَوْمُ و لِلْقَوْمِ دیدبان بننا

الشَّيْءُ بلند کرنا المال بحفاظت کرنا۔

انتظام کرنا۔ لے جانا۔ اور کہا جاتا ہے "اِنِّي اَرْبَانُكَ عَنْ ذَلِكَ" یعنی میں اس کو تمہارے لیے پسند نہیں کرتا۔ "وَمَارَبَاتٌ وَنَادَاتٌ تو میں نے اس کو جانا اور نہ اس کی پرواہ کی۔ وَارَبَابِيَّةً یعنی اس کی حفاظت کرو۔

رَبَاةٌ تَرْبِيَةٌ لے جانا۔

رَبَاةٌ مُرَابَاةٌ چوکننا رہنا۔ بچنا۔ گنہگاری کرنا۔ حفاظت کرنا۔

إِرْتِبَاءٌ إِرْتِبَاءٌ بہم: دیدبان بننا۔

المِرْبَاةُ: دیدبانی کی جگہ پر چڑھنا علی الجبل: پہاڑ پر سے جھانکنا۔ کہا جاتا ہے "إِرْتِبَاءُ الشَّمْسِ مَتَى تَغْرُبُ" یہ دیکھتے رہو کہ آفتاب کب ڈوبتا ہے۔

الرَّبِیُّ والرَّبِیَّةُ: فوج کا دیدبان۔ ج رَبَايَا: کہا جاتا ہے "بَثْوَارِيَا يَاهُمْ" انہوں نے اپنے دیدبانوں کو پھیلا دیا۔

الرْمَبَا والرْمَبَا والمَرْتَبَا: دیدبانی کی جگہ۔ المِرْبَاةُ: میڑھی۔

رَبَّتْ (ن) رَبَّتَا ورَبَّتْ تَرْبِيَتَا: پرورش کرنا۔ رَبَّتْ الصَّبِيُّ: بچے کو سنانے کے لیے تھپکانا۔

رَبَّتْ (س) رَبَّتَا: الشَّيْءُ: بند ہونا۔ رَبَّتَهُ (ن) رَبَّتَا ورَبَّتَهُ: عَنْ كَذَا: منع کرنا۔ روکنا۔ بوجھل کرنا۔

تَرْبَتْ: ٹھہرنا۔ دیر کرنا۔

إِرْتَبَتْ وَإِرْتَبَتْ: القَوْمُ: پرانگندہ ہونا۔ متفرق ہونا مَرْتَبُهُمُ: کمزور ہونا۔ بکھر جانا۔

الرَّبِيثِيُّ: مانع۔ روک۔

الرَّبِیثَةُ: کمر۔ مانع۔ تَرْبَايَاتُ: الرَّبِیثِ والمَرَبِیثُ: زکا ہوا۔

رَبِجٌ (ک) کورَبِجٍ: (س) کورَبَاةٌ: کودن ہونا۔ بلید ہونا۔

تَرْبِجٌ: تھیر ہونا۔ کودن ہونا۔

الارْبِجَانُ: ایک قسم کی نباتات۔

رَبِجٌ (س) رِبْحًا ورَبِجًا ورَبَاخًا: فِي تِجَارَتِهِ: نفع اُٹھانا۔

رَبْحَةٌ: نفع کرانا۔

رَابِحَةٌ مُرَابِحَةٌ وَأَرْبِحَةٌ: عَلَى سِلْعَتِهِ: نفع دینا۔ أَرْبَحَ النَاقَةَ: صُحٌّ اور دوپہر میں دوھنا۔

مال۔

الرَّوْبِحُ: جَ أَرْبَاحٌ (الرَّوْبِحُ والرَّوْبَاحُ) نفع۔ الرَّوْبِحُ: اونٹ جو بیچنے کے لیے لائے جائیں۔ اونٹ کے چھوٹے بچے۔

الرَّوْبَاحُ: شراب۔

الرَّوْبَاحِيُّ: کافر کی ایک قسم۔

الرَّوْبَاحُ والرَّوْبَاحُ: زربند۔ بکری کا بچہ۔ اونٹ کا بچہ۔ نَرْوَابِيحٌ: مَنَعَجٌ (رَبِيحٌ) فائدہ مند تجارت۔

الرَّوْبِخُلُ: بڑے ڈیل ڈول والا۔ مَوْنَتْ رِبْخَلَةٌ: مَوْنَتْ

رَبِيخٌ (س) رَبِيخًا: البعيرُ: اونٹ کا ریت میں مشکل سے چلنا (رَبِيخًا رُبُوخًا رَبَاخًا) المرأةُ: جماع کے وقت شدت شہوت سے عورت کا بے ہوش ہو جانا۔

أَرْبِخُ الرَّمْلُ: تہ بہ ہونا الرَّجُلُ: تختیوں میں جتنا ہونا۔

تَرْوِخُ الرَّجُلُ: سست و ڈھیلا ہونا۔

الرَّبِيخُ: بڑا بالان۔

رَبَذٌ (ن) رُبُوذًا: بالمَكَانِ: اقامت کرنا۔

رَبَذَةٌ (ن) كُونْدًا: دوکنا۔ منع کرنا۔

رَبَذَ الإِبِلَ: اونٹ کو باڑہ میں باندھنا۔

رَبَذَتِ: الشَّاةُ: تھن میں سیاہ سفید داغوں والی ہونا۔ تَرْبَذَ الصَّرْعُ: تھن کا سیاہ سفید داغ والا ہونا۔

تَرْبَذَتِ: السَّمَاءُ: آسمان کا ابر آلود ہونا۔

الرَّجُلُ: تیوری چڑھانا اللُّوْثُ: رنگ بدل جانا۔

إِرْبَذٌ إِرْبَذًا وَإِرْبَادٌ إِرْبِيدًا: خاستری رنگ والا ہونا۔

الرَّبِذُ: س۔ ایک قسم کی نباتات۔

الرَّبِيدُ: تلوار کا جوہر۔

الرَّبِيدُ: خاستری رنگ والا۔ عَامٌ أَرْبَذٌ: قحط والا سال۔ مَوْنَتْ رَبْدَاءُ: الرَّبْدَاءُ: سخت و شدید۔ کہا جاتا ہے "ذَاهِيَةٌ

رَبْدَاءٌ": بلائے بد۔ ج رَبْدٌ: الأَرْبَذُ: ایک قسم کا زہریلا سانپ۔ شیر۔

الرَّبِيدُ: اونٹ وغیرہ کا باڑہ۔ گھروں کے پیچھے کا میدان جو کام آئے۔ کھجور خشک کرنے کی جگہ۔

الرَّبِيدُ: کھجوریں جن پر پانی چھڑکا گیا ہو۔

الرَّبِيدَةُ: دستاویز اور چک وغیرہ رکھنے کا صندوق۔

الرَّبِيدُ: شیر۔

رَبَذٌ (س) رَبَذًا: چلنے یا کام کرنے میں پھر تیرا ہونا۔ صفت (رَبَذٌ) کہا جاتا ہے "هُوَ

رَبَذَ العَنَانَ" وہ تنہا بھاگنے والا ہے۔ مَوْنَتْ رِبْذَةٌ: لِنَهْ رِبْذَةٌ: کم گوشت والا مسوزھا۔

أَرْبَذٌ: الثَّوْبُ او الحَبْلُ: پیر۔ یارسی کو کاٹنا۔

الرَّبِذَةُ والرَّبِذَةُ: چیتھر جس سے سناڑ زیورات کو صاف کرتا ہے۔ کوزے کا پھندنا۔ رنگی ہوئی روئی کا ٹکڑا جس کو اونٹ کے کان یا گردن میں لٹکاتے ہیں۔ اون

جس سے اونٹ کی ماش کی جانی ہے۔ شیشی کا سر بند۔ تَرْبِذٌ ورَبَاذٌ ورَبِذٌ:

الرَّبِذَةُ: بے خبر آدمی۔ ہر پلیدی۔

الرَّبِذِيُّ: مکان کا چلہ۔ کوزہ۔

رَبِزٌ (ک) كِرْبَاةٌ: زیرک ودانا ہونا۔

الرَّبِزُ: مینڈھے کا فرہ ہونا۔

رَبِزٌ: القَرْبَةُ: مشک بھرنے والا۔

إِرْتَبَزَ: الشَّيْءُ: پورا و کال ہونا۔

الرَّبِيزُ: زیرک ودانا۔

رَبَسَةٌ (ن) كِرْبَسًا: بیلڈیہ: ڈبٹر مارنا۔

(وَرَبَسَ) القَرْبَةُ: مشک بھرنے والا۔

أَرْبَسَهُ إِرْبَايَسًا: غضبناک کر دینا۔

إِرْتَبَسَ: العَنْفُوذُ: گچھے کا ایک دوسرے میں گھٹنا۔ ٹھوس ہونا۔

إِرْتَبَسَ إِرْبَسَا: الرَّجُلُ: ملک میں جانا۔ فِي أَمْرِهِ: تصرف کرنا مَرْتَبُهُمُ: کام کے خراب ہو جانے سے لوگوں کا متفرق ہو جانا۔

پاس ہمیشہ قیام رکھنا۔
تَرَابُطُ الْمَاءِ فِي الْمَكَانِ: پانی کا جمع ہو کر ٹھہرا رہنا اور گدلا ہونا۔
الرَّبِطُ قَرَسًا: حفاظت سرحد کے لیے تیار کرنا فی الحَبْلِ: بندھنا اور لگانا۔
الرَّبَاطُ: سر۔ جس سے کسی چیز کو باندھا جائے۔ دل۔ گھوڑا۔ قلعہ یا وہ جگہ جہاں لشکر حفاظت سرحد کے لیے قیام کرے۔
ج۔ رُبُطُ الرِّبَاطِ: فقراء کے لیے مکان موقوف۔ ج رِبَاطَاتٍ: کہا جاتا ہے "قَرُوضُ رِبَاطَةٍ" یعنی وہ مر گیا یا مرض سے تندرست ہو گیا۔

الرِّبَاطُ: فَا. راہب۔ زاہد۔ تارک دنیا فلسفی۔ رِبَاطُ الْحَاشِ: قوی دل غیر خائف۔

الرِّبَاطَةُ: رابطہ کا مؤنث۔ تعلق۔ علاقہ۔
الرِّبِيطُ: بندھا ہوا۔ راہب۔ زاہد۔ فلسفی۔
رَبِيطُ الْحَاشِ: بہادر۔
الرِّبِيطَةُ: باندھے ہوئے جانور۔
خلاف قیاس ذَابَةٌ رِبِيطَةٌ: اور ذَوَاتُ رِبِيطَةٍ: کہا جاتا ہے اور ذابۃ رِبِيطُ بھی کہا جاتا ہے۔

الرِّبَاطُ تَانَتْ كُو بَانْدَهْنِ وَاللَّـ
الرِّبِيطُ بَنْدَهْ هُوَے اور چارہ دیے ہوئے کھوڑے۔ واحد (رَبِيطُ)
الرِّبِيطُ وَالْمَرِيطُ: جانوروں کی باندھنے کا جگہ ج مرَاطِبُ
الرِّبَاطَةُ: آہلیں میں تعلق رکھنے والی جماعت۔ ج مرَاطِبَاتُ

رَبِعٌ (ف) رَبْعًا: توقف کرنا۔ انتظار کرنا۔ کہا جاتا ہے "ارْبَعٌ عَلَيْكَ أَوْ عَلَيَّ نَفْسِكَ" او عَلَيَّ ظَلْعُكَ" یعنی ٹھہرو۔ توقف کرو بالمکان: اقامت کرنا عنده: رکنا۔

عَلَيْهِ: مہربانی کرنا الرَّجُلُ: فراخی سال میں پہنچنا۔ آرائش قوت کیلئے پتھر اٹھانا۔ بَعِثْهُ: راضی رہنا الابل: جو تھے دن پانی پینے آتا۔ رَبَعْتُ عَلَيْهِ الْحُمَى: جو تھے

الرَّبِيطَةُ: رابض کا مؤنث۔ بڑے بڑے کاموں سے عاجز۔ تک چھپنے کے لیے کہا جاتا ہے "ارْبَيْتُهُ رَابِطَةً عَلَيَّ وَجْهَهُ"
الرَّبِيطُ وَالرَّبِيطُ وَالرَّبِيطُ: بیوی۔ بہن۔ ماں۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ رَبِيطٌ عَنِ الْاِسْفَارِ أَوْ عَنِ الْحَاجَاتِ" یعنی سفر میں یا ضرورت کے لیے نہ نکلنے والا مرد۔

الرَّبِيطُ: عمارت کی بنیاد۔ کسی چیز کا وہ حصہ جو زمین سے لگے۔ چیز کا درمیان۔
الرَّبِيطُ: مِنَ الْبَقَرِ: بیٹھی ہوئی گائے کا گلہ۔

الرَّبِيطُ: بکریوں کا باڑہ۔ قوم کے رہنے کی جگہ۔ شہر کا گرد و نواح۔ شہر کی فصیل۔ آنتیں۔ کچادہ کی رستی۔ ہر وہ چیز جس کی پناہ لی جائے یا جس سے آرام حاصل کیا جائے۔ ج آرْبَابُصُ

الرَّبِيطَةُ وَالرَّبِيطَةُ: ضعف کی وجہ سے ٹھہرنے والا یا بہت بیٹھے والا مرد۔
الرَّبِيطَةُ: لاشوں کے ڈھیر کی جگہ۔ لاش۔ بکریوں کا گلہ۔ آدمیوں کا گروہ۔ بکری کے بیٹھے کی ہیٹ۔

الرَّبِيطُ: مِنَ الْقَرَى: آباد گاؤں۔ مِنَ الدُّرُوعِ: کشادہ زرہ مِنَ الشَّحْرَةِ: بڑا درخت۔ ج رُبُصٌ: قَرِيبَةٌ رُبُوصٌ: بڑی مکھ جو اٹھائی نہ جا سکے۔

الرَّبِيطُ: باڑے میں بیٹھی ہوئی بھیریں۔ مع اپنے چرواہوں کے۔ پیٹ میں آنتوں کی جگہ۔

الرَّبِيطُ: جانوروں کے بیٹھے کی جگہ۔ ج مَرَابِضُ (والمَرَبِضُ) پیٹ میں آنتوں کی جگہ۔

رَبِطُهُ (ن ض) رِبِطًا: باندھنا۔ مضبوط کرنا اللہ عَلَيَّ قَلْبِهِ: قوی کرنا۔ صبر دینا۔ (رِبَاطَةٌ) مضبوط دل ہونا۔

رَبِطُ رِبَاطًا وَمَرَابِطَةُ الْأَمْرِ: مداومت کرنا الْحَيْشُ: لشکر کا دشمن کی سرحد کے

الرَّبِيطُ: سر۔ امر مکر۔ ہیٹ۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ بِمَالِ رُبَيْبٍ" وہ بہت مال لایا۔

الرَّبِيطَةُ: سَخْتٌ مَصِيبَتٌ: ج رُبَيْبٌ "جَاءَ بِأَمْوَالٍ رُبَيْبٍ" وہ مصائب لایا۔
الرَّبِيطُ: بہادر۔ مَصِيبَتٌ: دہتر مارا ہوا۔ مَصِيبَتٌ زِدَةٌ: ٹھوس۔ (أُمُّ الرُّبَيْبِ) بڑا سانپ۔ مَصِيبَتُ كَيْفِيَّتٍ:

الرَّبِيطَةُ: میلی کھلی بد ہیئت عورت۔
الرَّبِيطُ: چغندر کی مانند ایک سبزی جس کا مزہ شیریں مائل کھٹا ہوتا ہے۔
الرَّبِيطُ: الشَّجَرُ: پتے دار ہونا اور بقول بعض پھلدار ہونا۔

الرَّبِيطُ: مختلف رنگوں والا۔ مؤنث رِبْشَاءٌ: أَوْضٌ رِبْشَاءٌ: مختلف رنگوں کی بہت گھاس والی زمین۔

الرَّبِيطَةُ: رنگوں کا اختلاف۔
الرَّبِيطُ: نوجوانوں کے ناخنوں کی سفیدی۔ رِبْصٌ (ن) رِبْصًا: بہ کسی کے لیے خیر و شر کا انتظار کرنا۔ بَرَأَى: پہنچانے کیلئے موقع کی تاک میں رہنا۔

الرَّبِيطُ: انتظار کرنا عَنِ الْأَمْرِ: رک جانا فی الْمَكَانِ: ٹھہرنا بِفُلَانٍ: بمعنی رِبْصٌ بِسَلْعَتِهِ: گرانی کا انتظار کرنا۔
الرَّبِيطَةُ: انتظار۔ رنگ برگ۔

رَبِطْتُ (ض) رَبِطًا وَرُبُوصًا وَرَبِطَةً: الدَّابَّةُ: جانور کا ٹھٹھے کے بل بیٹھنا۔ رِبْصٌ الْأَسَدُ عَلَيَّ قَرِيبَتِهِ: او الْقَرْنُ عَلَيَّ قَرِيبَتِهِ: دبوچ کر بیٹھنا۔

رَبِطْتُ (ن ص) رَبِطًا وَرُبُوصًا: فُلَانًا او الْمَكَانَ: پناہ لینا۔

رَبِطْتُ بِالْمَكَانِ: ٹھہرنا الدَّوَابُّ: جانوروں کو بیٹھنے کی جگہ میں روک رکھنا۔
بُو جَمَلٍ كَرَّ: شہاد دینا الشَّمْسُ: آفتاب کا سخت گرم ہونا یہاں تک کہ جانور کو بٹھا دے۔

الرَّبِيطُ: ضعف کی وجہ سے ٹھہرے رہنا۔
الرَّبِيطُ: فَا. (الرَّبِطُ) شِیر۔

دن بخار آتا (رَبُوعًا) الربیع: موسم بہار آتا۔

رَبِيع (ف ن ض) رَبْعًا. الحبل: چار بل کی رسی بنا القوم اپنے آپ کو ملا کر چار یا چالیس کرنا۔ چوتھائی مال لینا۔

رَبِيع القوم: موسم بہار کی بارش پانا اور ایسا ہی زمین کے لئے۔ زمین کی صفت (مَرْبُوعَةٌ) الرَّحْلُ: چوتھے دن بخار آتا۔

رَبِيع البیت او الحوض: مکان یا حوض چوکور بنانا۔ رَبِيعًا. الحمل: بوجھ جس

کھڑی کے ذریعہ اٹھایا جائے اس کو بوجھ کے نیچے داخل کرنا۔ کہا جاتا ہے "رَبِيعَتُهُ" میں نے اس کے ساتھ بوجھ کو کھڑی کے

سہارے سے اونٹ کی پیٹھ پر لادنا۔

أَرْبِعَ: چوتھے سال میں داخل ہونا۔

القوم: چار ہونا۔ موسم بہار میں داخل ہونا۔ موسم بہار کی اقامت گاہ یا سبزہ زار

اور پانی پر وارد ہونا الإبل: پانی پر جانے کے لیے آزاد چھوڑ دینا۔ أَرْبِعَ الرَّحْلُ: بڑھاپے میں بچہ پیدا ہونا۔

أَرْبِعَ الرَّحْلُ: چوتھیا بخار والا ہونا۔

تَرْبِيعَ: فی جُلوسہ: چار زانو ہو کر بیٹھنا۔

(وَأَرْبِعَ) الحمل: اونٹ کا بہار کا سبزہ

چر کے موٹا ہونا بالمکان: فصل بہار میں اقامت کرنا۔ وَأَرْبِعَ الحجر: پتھر اٹھانا۔

اسْتَرْبِعَ: الرمل: ریت کا تہ بننا ہونا۔

الشئ: طاقت رکھنا۔

الرَبِيع: سر گھر۔ گھر کا ارد گرد۔ اترنے کی

جگہ۔ موسم گزارنے کی جگہ۔ لوگوں کی

جماعت۔ لاش۔ رُبِيعَ وَرُبُوعَ وَأَرْبِيعَ

وَأَرْبَاعَ (وَالرَّبِيعِ) میانہ قد۔

الرَّبِيعَ وَالرَّبِيعِ: چوتھائی رُبِيعَ وَأَرْبَاعَ وَرُبُوعَ

الرَّبِيعِ: اونٹنی کا بچہ جو ابتدائی موسم بہار

میں پیدا ہو اور آخر میں پیدا ہو تو اس کو

کو هَبِعَ کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے "هَبِعْتُهُمْ رُبِيعَ وَلَا هَبِعَ: رُبِيعَ وَأَرْبَاعَ وَمُؤْنَثَ رُبِيعَةً"

رُبِيعَاتٍ وَرَبِيعًا.

الرَّبِيعِ: تین دن اونٹوں کو روک کر چوتھے

دن پانی پلانا۔ حُمَى الرَّبِيعِ: چوتھیا بخار۔

الرَّبِيعِ: فاعل۔ چوتھا۔ رَبِيعَ رَبِيعَ: بہت

فراخی اور ارزانی کا موسم بہار۔ إِبِلٌ

رَبِيعَ: چوتھے دن پانی پینے والے اونٹ۔

رَبِيعَ چار چار

کہا جاتا ہے "أَنْوَارُ رُبِيعًا" وہ لوگ چار چار

آئے۔

الرَّبِيعَةُ: میانہ قد (مذکر و مؤنث) رُبِيعَاتٍ وَرَبِيعَاتٍ: عطر فروش کا ڈبہ۔ کہا

جاتا ہے "فَتَحَّحَ الْعَطَارُ رُبِيعَتَهُ" عطر فروش

نے اپنا ڈبہ کھولا۔

الرَّبِيعَ: اچھی حالت۔ کہا جاتا ہے "هَمُّهُمُ

عَلَى رُبِيعِهِمْ" وہ لوگ اپنی اچھی حالت پر

ہیں۔

الرَّبِيعَةُ وَالرَّبِيعَةُ: اچھی حالت۔ کہا جاتا

ہے "لَيْسَ فِيهِمْ مِنْ يَضِطُّ رُبِيعَتَهُ إِلَّا

فُلَانٌ" ان لوگوں میں فلاں کے علاوہ کوئی

اپنی خوشحالی کو برقرار رکھنے والا نہیں۔

سرداری۔ کہا جاتا ہے "لَا يُقِيمُ رُبِيعَةَ

القَوْمِ إِلَّا فُلَانٌ" قوم کی سرداری کو فلاں

ہی برقرار رکھ سکتا ہے۔ و "هُوَ رُبِيعَةُ

قومہ" وہ اپنی قوم کا سردار ہے۔ مملوک

چیز جس سے انسان کی حالت اچھی ہو۔

الرَّبِيعِيَّةُ: سانے کے چار دانٹوں اور

کچلیوں کے درمیان والا دانٹ۔ رُبِيعَاتٍ

الرَّبِيعِيَّةُ: وہ جانور جس کے رباعی دانٹ

گرتے ہوں۔ رُبِيعَ وَرُبِيعَ وَرُبِيعًا وَرُبِيعَاتٍ

رُبِيعَاتٍ: مؤنث رُبِيعَاتٍ رُبِيعَاتٍ: چار سے مرکب۔

الرَّبِيعِ: رُبِيعَ أَرْبَعَةَ وَرَبِيعًا وَأَرْبِعَاءَ: موسم بہار۔ موسم بہار کی بارش۔ موسم بہار کی پیداوار۔ سبز چارہ۔ کہا جاتا ہے "رُبِيعَ رَبِيعَ" فراخی اور ارزانی کا موسم بہار

رُبِيعَ وَأَرْبِعَاءَ وَرُبِيعَانَ: زمین کیلئے پانی کا حصہ رُبِيعَ: چوتھائی۔

الرَّبِيعِيُّ: مِنَ الْمَسَاكِينِ: موسم بہار کی اقامت گاہ۔

الرَّبِيعَةُ: پتھر جو طاقت کی آزمائش کے

لیے اٹھایا جائے۔ باغ۔ لوہے کا خود۔ توشہ

دان۔ خوشبو وغیرہ رکھنے کا برتن۔

الرَّبِيعُ: كزور۔ کینہ۔

الرَّبِيعَةُ: پستہ قد۔ چار زانو بیٹھے والے کی

نشست۔ اونٹ کے بچوں کی ایک بیماری۔

أَرْبَعَةٌ: چار۔ مؤنث أَرْبِيعِ الرِّيحِ

الرَّبِيعِ: بچھوئی۔ پروائی۔ دھکی۔ آرتی

ہو ایس۔

ذَوَاتُ الْأَرْبِيعِ: چارپائے۔

أُمُّ أَرْبِيعٍ وَأَرْبِيعِينَ: ایک قسم کا کیرا۔

الأَرْبِعَاءُ: مثلثة الباء: بدھ کا دن۔ تثنیہ

أَرْبِعَاوَانِ: رُبِيعَاتٍ وَأَرْبِعَاوَاتٍ: قَعْدَ (الأَرْبِعَاءَ وَالْأَرْبِعَاوَى) وہ چار زانو بیٹھا۔

الأَرْبِعَاءُ: ستون خانہ۔

أَرْبِعُونَ: چالیس۔

المَرْبُوعُ: موسم بہار کی بارش (والمَرْبُوعِ) موسم بہار کی اقامت گاہ۔

المَرْبُوعِ: والمَرْبُوعَةُ: کھڑی جو جانور پر بوجھ

لادنے کے لیے استعمال کی جائے۔

المَرْبُوعِ: موسم بہار میں بچہ جننے والی اونٹنی۔

المَرْبُوعِ: چوتھیا بخار والا۔

المَرْبُوعِ: چار ستون والا یا چار ضلعوں والی شکل۔ حاصل ضرب جو کسی عدد کو اسی سے ضرب دے کر حاصل ہو جیسے

$$16 = 4 \times 4 = 4^2$$

المَرْبُوعِ: وہ جگہ جہاں کی سبزی ابتدائی

موسم بہار میں اُگے۔ مال غنیمت کی

چوتھائی جو زمانہ جاہلیت میں سردار لیا کرتا

تھا۔ موسم بہار میں بچہ دینے والی اونٹنی۔

(والمَرْبُوعِ وَالْمَرْبُوعِ) درمیانہ قد۔

الرَّبِيعُ. تہا لوت ڈالنے والا چور۔ مونہ۔
الرَّبَاةُ والرَّبِيعَةُ. گوشت کی زیادتی۔ کہا
جاتا ہے ”صَمْرُ مَعْدِ رَبَّال“ ة وہ موٹائی
کے بعد دیا ہو گیا۔ الرَّبِيعَةُ: تری۔ نعمت۔
فرانجی۔ زندگی۔

الرَّبِيعَال. جس پیچیدہ نباتات۔ شیر۔ ج
رَبَابِيل.

الرَّبِيعَال. بہت موسم خزاں کے نباتات
والی زمین۔

الرَّبِيعَال. ناز و نعم میں پٹی ہوئی موٹی
عورت، موٹی اونٹنی۔

أَرْبَعَةٌ. بیجان دینا۔
قَرَبَانٌ. جہاز کا کپتان ہونا السَّفِينَةُ: کشتی
چلانا۔

الرَّبُونُ او الأربون والأربان. بیجان۔
الرَّبَانُ والرَّبَانِي. جہاز کا کپتان۔ ج

رَبَابِنَةٌ و رَبَابِين. رَبَانٌ كَلُّ شَيْءٍ: ہر چیز
کا بڑا حصہ۔ کہا جاتا ہے ”أَخَذَ رَبَابِنَهُ أَوْ
رَبَابِيَةً“ اس نے سارے لیا۔

رَبَا يَرْبُو رِبَاءً و رُبُوًا. المَالُ: زیادہ
ہونا۔ بڑھنا الرَّبَابِيَّةُ: نیلہ پر چڑھنا۔
(رَبُوًا) القَرَسُ: پھولنا۔ سانس چڑھنا۔
(رَبُوًا و رُبُوًا) الوَلَدُ: لڑکے کا بڑھنا۔ اور
نیز کہا جاتا ہے ”رَبِيْتُ و رَبَيْتُ رِبَاءً
و رِبِيًّا“ میں نے نشوونما پائی۔

رَبِيٌّ رَبِيَّةٌ و رَبِيٌّ. الوَلَدُ: لڑکے کا
پرورش کرنا۔ غذا دینا۔ مہذب بنانا۔ رَبِيٌّ
القَفَّاحُ بالسُّكَّرِ: مرہ ڈالنا۔
رَبِيٌّ مُرَابَاةٌ: سود پر مال دینا۔
الرَّبْجُلُ: بہتر سلوک کرنا۔
أَرْبِي أَرْبَاءً. سود لینا الشَّيْءُ: بڑھانا ہ:
أُمِيدُ (وَأَنَّ عَلَيْهِ فِي كَذَا وَإِرْتَابًا أَرْبَاءً)
زیادہ کرنا۔

الرَّبَا. زیادتی۔ سود۔ بیاج۔ نسبت کے
لیے۔ رِبُوِيٌّ.

الرَّبَا. زیادتی۔ احسان۔ کہا جاتا ہے
”لِفُلَانٍ عَلَيَّ رِبَاءً“ فلاں کا میرے اوپر

میں پھنسا۔

الرَّبِيقَةُ والرَّبِيقَةُ. رسی کا پھندا۔ ج رِبِيقٌ
و رِبَاقٌ و أَرْبَاقٌ. کہا جاتا ہے ”حَلَّ
رَبِيقَتُهُ“ اس نے اس کے رنج و غم کو دور
گر دیا۔ و ”نَفَضُوا الرَّبِيعَالَ وَاكَلُوا
الرَّبَاقَ“ انہوں نے عہد و پیمان توڑ دیئے۔
الرَّبِيقُ. پھندے سے باندھا ہوا یا پھندے
میں پھنسا ہوا۔

الرَّبِيقَةُ. چربی سے ترکی ہوئی روٹی۔
الرَّبِيقُ. بکری باندھنے کی رسی۔
رَبَكُ (ن) رَبَكًا. الشَّيْءُ: ملانا۔
الرَّبِيقَةُ: گارا بنانا: کچڑ میں کرنا۔
رَبَكُ (س) رَبَكًا. پیچیدہ و دشوار معاملہ

میں پھنسا ہوا۔

الرَّبِيقَةُ. چربی سے ترکی ہوئی روٹی۔
الرَّبِيقُ. بکری باندھنے کی رسی۔
رَبَكُ (ن) رَبَكًا. الشَّيْءُ: ملانا۔
الرَّبِيقَةُ: گارا بنانا: کچڑ میں کرنا۔
رَبَكُ (س) رَبَكًا. پیچیدہ و دشوار معاملہ

میں پھنسا ہوا۔

میں پھنسا۔ صفت (رَبَكٌ و رَبِيقٌ)
أَرَبَكُ. فِي الوَحْلِ: کچڑ میں گرنا فی
الأمْرُ: پھنسنے کے رہ جانا فِي كَلَامِهِ:
رَبَكُ رَكُ كَے گھنگو کرنا الصَّيْدُ فِي
الرَّبِيعَةِ: شکار کا جال میں تڑپنا۔ پھڑ پھڑانا
الأمْرُ: معاملہ کا پیچیدہ ہونا۔

أَرَبَكُ أَرَبِكًا. رَأْيُهُ: رائے کا گڑبڑ ہو
جانا الرَّجُلُ عَنِ الأمْرِ: کام سے رک جانا۔
الرَّبِيقَةُ. گارا۔ دودھ ملا ہوا کھن۔ کہا
جاتا ہے ”رَمَاهُ بِرَبِيقَةٍ“ اس نے اس کو
پیچیدہ معاملہ میں پھنسا دیا (و الرَبِيقُ
و الرَبِيقُ) ایک قسم کا کھانا جو پیاز، گھجور
اور گھی ملا کر تیار کرتے ہیں اور کبھی پانی
ڈال کر پیتے ہیں۔

الرَّبِيقُ. کثیر و کشادہ۔
رَبَقَهُ (ن ض) رَبَقًا و رَبَقَةً. پھندے
سے باندھنا فِي الأمْرِ: کام میں ڈالنا۔
و رَبَقَ الكَلَامَ: جھوٹ سے مزین کرنا۔
کہا جاتا ہے ”رَبَقَ الرَّجُلُ أَفْئَاءَ حَبْلِهِ
وَأَرْبَاهُ“ مرد نے اپنے بکری کے بچوں
کیلئے رسی کا پھندا بنایا۔
تَرَبَّقَهُ. لُكَاةٌ. کہا جاتا ہے ”تَرَبَّقْتُ الشَّيْءَ
فِي عُنُقِي“ میں نے چیز کو اپنی گردن میں
لٹکایا۔

الرَّبِيقُ. لُكَاةٌ. کہا جاتا ہے ”تَرَبَّقْتُ الشَّيْءَ
فِي عُنُقِي“ میں نے چیز کو اپنی گردن میں
لٹکایا۔

الرَّبِيقُ. لُكَاةٌ. کہا جاتا ہے ”تَرَبَّقْتُ الشَّيْءَ
فِي عُنُقِي“ میں نے چیز کو اپنی گردن میں
لٹکایا۔

الرَّبِيقُ. لُكَاةٌ. کہا جاتا ہے ”تَرَبَّقْتُ الشَّيْءَ
فِي عُنُقِي“ میں نے چیز کو اپنی گردن میں
لٹکایا۔

الرَّبِيقُ. لُكَاةٌ. کہا جاتا ہے ”تَرَبَّقْتُ الشَّيْءَ
فِي عُنُقِي“ میں نے چیز کو اپنی گردن میں
لٹکایا۔

الرَّبِيقُ. لُكَاةٌ. کہا جاتا ہے ”تَرَبَّقْتُ الشَّيْءَ
فِي عُنُقِي“ میں نے چیز کو اپنی گردن میں
لٹکایا۔

الرَّبِيقُ. لُكَاةٌ. کہا جاتا ہے ”تَرَبَّقْتُ الشَّيْءَ
فِي عُنُقِي“ میں نے چیز کو اپنی گردن میں
لٹکایا۔

الرَّبِيقُ. لُكَاةٌ. کہا جاتا ہے ”تَرَبَّقْتُ الشَّيْءَ
فِي عُنُقِي“ میں نے چیز کو اپنی گردن میں
لٹکایا۔

الرَّبِيقُ. لُكَاةٌ. کہا جاتا ہے ”تَرَبَّقْتُ الشَّيْءَ
فِي عُنُقِي“ میں نے چیز کو اپنی گردن میں
لٹکایا۔

الرَّبِيقُ. لُكَاةٌ. کہا جاتا ہے ”تَرَبَّقْتُ الشَّيْءَ
فِي عُنُقِي“ میں نے چیز کو اپنی گردن میں
لٹکایا۔

الرَّبِيقُ. لُكَاةٌ. کہا جاتا ہے ”تَرَبَّقْتُ الشَّيْءَ
فِي عُنُقِي“ میں نے چیز کو اپنی گردن میں
لٹکایا۔

الرَّبِيقُ. لُكَاةٌ. کہا جاتا ہے ”تَرَبَّقْتُ الشَّيْءَ
فِي عُنُقِي“ میں نے چیز کو اپنی گردن میں
لٹکایا۔

الرَّبِيقُ. لُكَاةٌ. کہا جاتا ہے ”تَرَبَّقْتُ الشَّيْءَ
فِي عُنُقِي“ میں نے چیز کو اپنی گردن میں
لٹکایا۔

الرَّبِيقُ. لُكَاةٌ. کہا جاتا ہے ”تَرَبَّقْتُ الشَّيْءَ
فِي عُنُقِي“ میں نے چیز کو اپنی گردن میں
لٹکایا۔

الرَّبِيقُ. لُكَاةٌ. کہا جاتا ہے ”تَرَبَّقْتُ الشَّيْءَ
فِي عُنُقِي“ میں نے چیز کو اپنی گردن میں
لٹکایا۔

الرَّبِيقُ. لُكَاةٌ. کہا جاتا ہے ”تَرَبَّقْتُ الشَّيْءَ
فِي عُنُقِي“ میں نے چیز کو اپنی گردن میں
لٹکایا۔

الرَّبِيقُ. لُكَاةٌ. کہا جاتا ہے ”تَرَبَّقْتُ الشَّيْءَ
فِي عُنُقِي“ میں نے چیز کو اپنی گردن میں
لٹکایا۔

احسان ہے۔

الرَّابِيَةَ بِنُ رَوَابٍ وَ الرُّبُوعَةَ وَ الرُّبُوعَةَ
وَ الرُّبُوعَةَ بِنُ رُبِي وَ رُبِي بِنِيلَةَ -

الرُّبُوعَةَ عِنْدَ الْحُسَابِ بِسِ لَاهُ -

الرُّبُوعَةَ بِنِي جَمَاعَتِ (مانند دس ہزار کے) بِنُ رُبِي -

الرُّبُوعَةَ بِشَرَاتِ الْاَرْضِ كُنِ اِيكٍ تَمَّ - بِنِي -
الرُّبُوعَةَ وَ الرُّبُوعَةَ بِطَلِيحِ: بِنِيلَةَ -

الرُّبُوعَةَ بِنِي جَمَاعَتِ - جَمَاعَتِ -
بِنُ اَرْبَاءِ الرَّبِ وَ الرُّبُوعَةَ عِنْدَ الْاِطْبَاءِ:

جُوفِ كُنِ سُوْحِنَ - اِيكٍ بِيْمَارِي جُو بِيْمِجُورِي
مِيں ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سانس
لینی دشوار ہوتی ہے۔

الْاَرْبِيَّةُ اَهْلُ خَانَدَانِ - چچا زاد بھائی۔ کہا
جاتا ہے ”جَاءَ فِيْ اَرْبِيَّةٍ قَوْمِهِ“ یعنی وہ

اپنے اہل اور اپنے قبیلہ میں آیا۔ ران کی جز
یاران کے بالائی حصہ اور پیٹ کے درمیان

کا حصہ۔

رَتَّ (ض) رَتْنَا، هَكَانَا - تَتَانَا - صفت
مذکر (أَرَّتْ) وَ صفت مؤنث (رَتَّاءُ وَ رَتِّي)

بِنُ رَتَّ

أَرَّتَهُ اِرْتَانَا، اللّٰهُ: بَهْكَلا كَرْدِيْنَا -

الرَّتَّ سَخْتِ - زِ سُوْر - جَنْجَلِي سُوْر - بِنُ

رَتَّةِ، الرَّتَّ: رِيْسِ - سِرْدَارِ - بِنُ رَتُّوْتِ -

کہا جاتا ہے ”هُوَ مِنْ رَتُّوْتِ النَّاسِ“ وہ
لوگوں کا سردار ہے۔

الرَّتَّةُ بَهْكَلا پِنِ - لَكْتَتِ - زَبَانِ كُنِ بِنِجَلِي

رَتْنَا (ف) رَتُّوْنَا، كَلَا هُوْثَنَا الْعُقْدَةُ: رَهْ

مَضْبُوْبُ كَرْنَا فِي الْمَكَانِ: اِقَامَتِ كَرْنَا

الرُّجُلُ: چَلا جَانَا -

اِرْتَا، رِكْ رِكْ كَر بِنَسَا -

رَتَّبَ (ن) رَتَّبَا وَ رَتُّوْنَا، الشُّيْ: قَامَمُ وَ

ثَابِتُ هُوْنَا - سِيْدَهَا كَهْرَا هُوْنَا - كَهَا جَاتَا هِي

”رَتَّبَ فِي الصَّلُوَّةِ“ وہ نماز میں سیدھا

کھڑا ہوا۔

رَتَّبَةً، ثَابِتُ كَرْنَا - مَرْتَبَةُ كِهَ لَظَا سِي

رَكْنَا -

اِرْتَبَّ سِيْدَهَا كَهْرَا هُوْنَا - باوْجُوْدِ بِي نِيَاْرِي

كِهَ سُوَالِ كَرْنَا الْغَلَامُ الْكَعْبُ: نَصْبُ
كَرْنَا - كَهْرَا كَرْنَا -

تَرْتَبَّ بِرَتِيْبِ وَاْر هُوْنَا - سِيْدَهَا كَهْرَا هُوْنَا -

الرَّتَّبَ سَخْتِ وَ سَخْلِي - بَلَنْدُ زَمِيْنِ، قَرِيْبُ

قَرِيْبُ چَٹَانِيں جِنِ مِيں بَعْضُ بَعْضُ سِي بَلَنْدُ

هُوْنَا - (وَ الرَّتَّبَ) خَضْرُ وَ بِنَصْرُ كِهَ دَرْمِيَانِ

كَافَاْصِلَا - چَھَنَكَلِيَا كِهَ يَاسِ وَ اِلِي الْاَنْكَلِي وَ اِرْتَبَّ كُنِ

اَنْكَلِي كِهَ دَرْمِيَانِ كُنِ جَلَدُ -

الرَّتْبَةَ الْاَنْكَلِيُوْنِ كِهَ دَرْمِيَانِ كَا فَاْصِلَا -

الرَّتْبَةَ مَرْتَبَةُ - بِنُ رَتَّبَ -

التَّرْتَبُ وَ التَّرْتَبُ، قَامَمُ وَ ثَابِتُ جِزْرِ -

بِنِيْجَلِي - مَنِيْ - غَلَامُ جِسْ كِهَ كِيْ كِهَ بَعْدُ

وَ كِيْرِي سِي تِيْنِ مَالِكِ هُوْنَا - كَهَا جَاتَا هِي

”جَاءُوا تَرْتَبًا“ وہ سارے آئے۔

التَّرْتَبَةُ رَاْسَتِ كِهَ مَانَدِ جِسْ پَرِ اَدْمِي

چَلِي۔

الرَّاتِبُ، فَا، عَيْشُ رَاتِبٍ: عَيْشُ دَائِمٍ -

وَ الرَّاتِبُ عِنْدَ الْمُحَدِّثِيْنِ: تَخْوَاهُ -

وَ ظِيْفَةُ - بِنُ رَوَاتِبِ، الرُّوَاتِبُ: سُنَنِ

مُؤَكَّدَةُ -

الْمَرْتَبَةُ دَرَجَةُ - اَعْلَى دَرَجَةُ - بِنُ مَرَاتِبِ

رَتَّجَ (ن) رَتَّجَا، الْبَابُ: دَرُوَاْرُهُ بَنْدُ كَرْنَا

(رَتَّجَانًا) الصَّبِي: بِنِيْ كَا چَلِي كَلْنَا -

رَتَّجَ (س) رَتَّجَا، الْحَطِيْبُ: خَطِيْبُ كَا

تَقْرِيْرِ مِيں بَنْدُ هُو جَانَا -

اِرْتَجَّ، الْبَابُ: دَرُوَاْرُهُ مَضْبُوْبُ بَنْدُ كَرْنَا

التَّلْجُ: بَرَفُ كَا لَكَا تَارُ كَرْنَا -

التَّخْصِبُ: سَاْرِي زَمِيْنِ كُو عَامُ هُوْنَا -

الدَّجَاْحَةُ: مَرْحُفِي كَا اَثْدُوْنِ سِي بَهْرُ جَانَا -

الْبَحْرُ: سَمَنْدَرُ كَا جُوْشُ مَارْنَا -

اِرْتَجَّ وَ اِرْتَجَّجَ وَ اِسْتَرْتَجَّجَ -

الْحَطِيْبُ: خَطِيْبُ - كِيْ تَقْرِيْرِ مِيں بَنْدُ هُو جَانَا -

الرَّتَّجُ وَ الرَّتَّاجُ، الْبَابُ: بَرَا بَنْدُ دَرُوَاْرُهُ

جِسْ مِيں اِيْبُ بِنِيْجَلِي سَا دَرُوَاْرُهُ هُو -

سِيْكَةُ (رَتَّجَ) - سَخْتِي - مَالُ رَتَّجَ: مَالُ جِسْ

كِهَ حَاْصِلُ كَرْنِي كِي كُوْنِي سَمِيْلُ نَدُ هُو -

الرَّتَّاجَةُ چَٹَانِ - بِنُ رَتَّانِيْجِ -

(وَ الْمَرْتَجُ) سَخْتِ رَاْسَتِ - بِنُ سِرْمُوَاتِيْجِ
الْمَرْتَجُ، سَخْتِ رَاْسَتِ - بِنِي - اَمْكَانُ

(مُوتَجُ) بِيْتُ نَاْمَاتِ وَ اِلِي جَلَدُ -

رَتَّجَ (ف) رَتُّوْنَا، الْعَمِيْنُ: بَنْدُ هِي

هُوَ سِي اُنِي كَا پَانِي زِيَاْدَةُ كَرْنِي سِي تَبَلَا هُوْنَا

بِالْمَكَانِ: اِقَامَتِ كَرْنَا مِنْ الْخَيْرِ: بِيْجِي

رَبَّنَا -

رَتَّجَ (ف) رَتَّعَا وَ رَتُّوْعَا وَ رَتَّاعَا -

اَسُوْدَةُ زَنْدُگِي بَسْرُ كَرْنَا - فِي الْمَكَانِ:

اِقَامَتِ كَرْنَا اُوْرِ فَرَاغِي كِهَ سَاْجَهَا كَهَانَا چِيْنَا -

صَفْتِ (رَاتِعَ) بِنُ رُتَّعَ وَ رُتَّعَ وَ رُتَّعَ وَ رُتَّاعَ

وَ رُتُّوْعَ وَ رَاتِعُوْنُ، رَتَّعَ فِي مَالِ فُلَانِ:

دُوْسَرِي كِهَ مَالِ سِي كَهَانِي پِيْنِي مِيں

فَاَنْدَهُ اُتْهَانَا، فِي لَحْمِ فُلَانِ: نَبِيْتُ كَرْنَا -

اِرْتَعَجَ، الْقَوْمُ: سِرْمُوَاتِيْجِي زَمِيْنِ مِيں پِنِيْجَانَا اُوْرِ

چِرَانَا الْاَلْاَرْضُ: چِرْنِي وَ اِنِي كُو اَسُوْدَةُ كَرْنَا

الْعَيْثُ: يَارَشُ كَا چَاْرَهُ كُو اَكَاْنَا -

الدَّوَابُّ: جَانُوْرُوْنِ كُو چِرَانَا -

الرَّتَّعَةُ: سَبْرِي كِي كَثْرَتِ - اُوْرِ اَسِي سِي

هِي ”اَسْمِنِي الْقَيْدُ وَ الرَّتَّعَةُ“ جُھُ كُو قَيْدُ

اُوْرِ اَسُوْدِي كِهَ مَوْنَا رُوِيَا -

الرَّتَّعَ، اَسُوْدَةُ زَنْدُگِي وَ اِلَا جِسْ كُو ہر چِيْزِ

حَاْصِلُ هُو - سَمَلًا رَتَّعَ: چِرْنِي وَ اِنِي كِهَ

لِيْ كَانِي كَهَاَسَ -

الْاِرْتَاعَ، مِنْ النَّاسِ: بِيْتُ لُوْگِ - كَهَا

جَاتَا هِي ”رَاتِيْتُ اِرْتَاعًا مِنْ النَّاسِ“ مِيں

بِنِي بِيْتُ لُوْگوُوْنِ كُو دِيْخَلَا -

الرَّتَّاعَ، سِرْمُوَاتِيْجِي چِرَاگَا مِيں اِسِي اُوْنُوْنِ كُو

لِي جَانِي وَ اِلَا -

الْمُرْتَجُ، اَسُوْدَةُ زَنْدُگِي وَ اِلَا جِسْ كُو ہر چِيْزِ

حَاْصِلُ هُو -

الْمُرْتَجُ، چِرَاگَا -

رَتَّقَ (ن) رَتَّقَا، النُّوبُ: جُوْرَانَا -

الْفَتْقُ: دَرَسَتِ كَرْنَا، كَهَا جَاتَا هِي ”هُوَ

الرَّاتِقُ الْفَاتِقُ“ وہ اصلاح کرنے والا ہے۔

وَ ”رَتَّقَ فَتَقَهُمْ“ اس نے ان کے درمیان

صلح کرا دی الشئی: بند کرنا۔

إِرْتَقَى الشئی: جڑ جانا۔

الرُتَاق: دو کپڑے جن کے کنارے جوڑ دیئے گئے ہوں۔

الرُتَقَّة: اگلیوں کے درمیان کا فاصلہ۔

الرُتُوق: عزت و شرف۔

رَتَكَ (ض ن) رَتَكًا و رَتَكًا و رَتَكَانًا البعير: اونٹ کا چھوٹے چھوٹے قدم سے دوڑنا۔

أَرَتَكَ البعير: اونٹ کو چھوٹے چھوٹے قدم سے دوڑانا۔ أَرَتَكَ الضحك: آہستہ ہنسنا۔

المَرْتَك: مردانگ۔

رَتَل (س) رَتَلًا الشئی: عمدہ نظم و ترتیب سے ہونا۔ صفت (رَتَل)

رَتَل الكلام: اچھی طرح ترتیب دینا۔ القرآن: قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر عمدہ طریقے سے پڑھنا۔

تَرَتَّلَ فِي القَوْل: ٹھہر ٹھہر کے اچھی طرح بولنا۔

الرَتَل: سر عمدہ گفتگو کہا جاتا ہے "كلام رَتَل" خوبی۔ آراستگی۔ ہر چیز کی خوبی۔ تَغَرَّرَتَل: خوبصورت ہموار دانت۔

التَرْتِيل: پڑھنے کے وقت آواز پست کرنا۔ آواز کو عمدہ بنانا۔ مولدین کے نزدیک ترتیل آواز کو پڑھنے یا گانے میں اس طرح بنانا کہ سارے حرف اچھی طرح ادا ہوں۔

الأَرْتَال: اچھی ترتیب والا۔ تلتانے والا۔

الرُتَيْلَاء: کپڑے مکوڑے وغیرہ جیسے کلاڑی، کھٹی وغیرہ۔ نَجْرُتَيْلَاوَات: ایک قسم کی نباتات جس کے پھول سوسن کے پھول کی طرح ہوتے ہیں۔

رَتَمَهُ (ض) رَتَمًا: توڑنا یا کونٹھی بینی فلان: پرورش پانا۔ اور کہا جاتا ہے "هَارَتَمَ بَكَلِمَةٍ" وہ ایک لفظ نہیں بولا۔ (رَتِيمًا) رتم کے دانے کھانے سے بیہوش ہونا۔

سُت ہونا۔

أَرْتَمَ و تَرْتَمَ و أَرْتَمَ: یاد رکھنے کے لیے انگلی پر دھاگا لپیٹنا۔ أَرْتَمْتَ زَيْدًا: یاد آنے کیلئے میں نے زید کی انگلی میں دھاگا باندھ دیا۔

الرَتَم: ایک قسم کا درخت جس کے دانے مسور کی مانند ہوتے ہیں۔ واحد (رَتْمَةٌ) الرَتَم: بھرا ہوا توشہ دان۔ کامل حیاء۔ آہستہ گفتگو۔ راستہ۔

الرَتَام: بوسیدہ۔

الرَتْمَةُ: نَجْرَتَم و رَتَام و (الرَتِيمَةُ) نَجْرَتَام: دھاگا جو کسی مقصد کے یاد رکھنے کے لیے انگلی پر لپیٹ لیا جائے۔

الرَتِيم: آہستہ چال۔ وہ شخص جس کو رتم کے دانے کھانے سے بیہوش طاری ہوئی ہو۔ نَجْرَتَامِي:

بَشَرٌ (نَجْرَتَم و نَجْرَتَم) دائمی فساد۔

رَتَن (ن) رَتْنَا الشَّجْم بالعجین: گندھے ہوئے آنے میں چربی ملانا۔ رَتَاه يَرْتُوهُ رَتْوًا: ڈھیلا کرنا۔ باندھنا۔ القلب: دل کو قوی کرنا۔ الیہ: ملانا۔ الذلّو: ذول کو آہستگی سے کھینچنا۔ (رَتْوًا و رَتْوًا) بَرَابِيه: سر سے اشارہ کرنا۔ الرَجُل: قدم رکھنا۔

رَتِي: فی ذُرْعِه: سُت بازو ہونا۔ الرُتْوَةُ: قدم ز بلند زمین۔ تھوڑا سا وقت۔ حد نظر تک۔ کہا جاتا ہے "بَيْنَنَا و بَيْنَهُمْ رَتْوَةٌ" ہمارے اور ان کے درمیان بہت فاصلہ ہے جو بمقدار حد نظر کے ہے۔

الرَاتِي: دوسروں سے زائد علم والا۔ رَتَّ (ض) رَتَانَةٌ و رَتُونَةٌ النُوب: کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔ صفت (رَتَّ) نَجْرَات:

أَرَّتْ إِرْتَانًا النُوب: کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔ پراٹا کرنا۔ أَرَّتَتْ: زخمی کو میدان جنگ سے لایا جانا۔ صفت (مَرَّتَتْ)

الرَّتْ: سر گھر کا ردی سامان۔ نَجْرَات کہا جاتا ہے "سَلَامٌ غَثَّ رَتَّ" یعنی کھٹیا درجہ کا کلام۔

الأَرَّت: بوسیدہ۔ پراٹا۔

الرَّتِيث: بوسیدہ۔ پراٹا۔ زخمی نیم مردہ۔

الرَّتْد: گھر کا ردی سامان۔ نَجْرَت و رَتَات: کمزور لوگ۔

الرَّتَائِيَّة: سر کھٹکی۔ بوسیدگی۔

رَتْنَا (ف) رَتْنَا اللّٰبِن: دودھ کا دی بنانا۔

كَأَزَا كَرَالِ الشئی بالشئی: ملانا۔ غَضَبُهُ: غصہ کا ٹھنڈا پڑنا۔

أَرْنَا و أَرْتْنَا اللّٰبِن: دودھ کا گاڑھا ہونا۔

أَرْتَنَاقِي رَابِيه: رائے میں گڑبڑی کرنا۔

أَرْتَنًا عَلَيْهِمُ الأَمْر: گڑبڑ ہونا۔ أَرْتَنًا:

الرَّتِيثَةُ: دی بیٹا۔

الرَّتْ و الرَّتَاة: بیوقوفی۔ کم سمجھی۔ کمزور دل۔

الرَّتِيثَةُ: رَتْنَا اللّٰبِن کا اسم۔ دی۔

بِوَقُوْنِي: بیٹھا ہوا ترش دودھ۔

رَجُلٌ (مَرْتُوْدٌ) کمزور دل۔ کم سمجھ۔

رَتَد (ن) رَتَدًا و أَرْتَدَ: المتناع: سامان کو اوپر نیچے رکھنا۔ صفت (رَتِيْدٌ و مَرْتُوْدٌ)

رَتَد (س) رَتَدًا و أَرْتَدَ: الماء: پانی کا گدلا ہونا۔ اور کہا جاتا ہے "أَخْتَفَرُ حَتَّى أَرْتَدَ" اس نے کھودا یہاں تک کہ نمناک مٹی تک پہنچ گیا۔ أَرْتَدَ القَوْمُ: جماعت ہونا۔

الرَتْد و الرَّتْدَةُ: لوگوں کی جماعت جو مقیم ہو سفر نہ کرتی ہو۔

الرَتْد: ترتیب سے تہ بہ تہ رکھا ہوا سامان۔ رَتَدَ السَّبِيح: گھر کا ردی سامان۔

المَرْتَد و المَرْتَد: فیاض و سختی مرد۔

المَرْتَدُ: شیر۔

رَتَط (ن) رَتُوْطًا و أَرْتَط و تَرْتَط: فی قُفُوْدِهِ: نشست میں جھکے رہنا۔

رَتَعَ (س) رَتَعًا: بہت حریص و لالچی

الرُّجْحَةُ سہارا جو کھجور کے درخت کے لیے لگایا جائے۔ شکار کرنے کا پیمانہ۔ ج رُجِبَ۔

الرَّاجِحَةُ انگلی کی جڑ کا جوڑ۔ ج رَوَّاجِبَ۔

الْأَرْجَابُ آنتیں۔ (واحد نبتیں) الْمَرْجَبُ بے خوفناک۔ معظم۔

رُجِحَ (ف ن ض) رُجِحَانًا وَرُجُوحًا. المیزان: جھکا راہی: غالب ہونا۔ ۵: دوسرے سے بوجھل ہونا۔

دوسرے سے زیادہ بردبار ہونا ہ بیڈہ: ہاتھ سے وزن کا اندازہ کرنا (رُجَّاحَةٌ) حلیم و بردبار ہونا۔ بوجھل ہونا۔

رُجِّحَهُ وَرُجِّحَهُ جھکا دینا۔ بوجھل کر دینا۔ رُجِّحَ وَرُجِّحَ لَهٗ: جھکا ہوا دینا۔

رُجِّحَهُ جھکنے میں غالب ہونے کے لیے مقابلہ کرنا۔

تَرَجَّحَ الرَّاحَةُ عِنْدَهُ: غالب و برتر ہونا فی القول: مائل ہونا الشیء: بلنا الْأَرْجُوْحَةُ بہ: جھکانا۔

إِرْتَجَحَ: فی الْأَرْجُوْحَةِ: جھولے میں جھکانا ایل: آہستہ دوڑنے میں بلنا۔

الرُّوْحُجُ مِنَ الْجَفَانِ: بھرے ہوئے بڑے پیالے مِنَ الْكُنَائِبِ: لشکر گراہ۔

الرُّجَّاحَةُ وَالْمَرْجُوْحَةُ (الرُّجَّاحَةُ وَالْمَرْجُوْحَةُ) جھولا۔

الْأَرْجَانِجُ: بیابان۔ آہستہ قدم سے دوڑنے میں اونٹوں کی جنبش۔

إِمْرَأَةٌ (رُجَّاح) بڑے سرین والی عورت۔ رَجَدَ (ن) رَجَادًا: خوشوں کو کھلیان میں لے جانا۔ صفت (رَجَاد)

إِعْرَاجِحَةٌ أَوْ الْبَيَانَةُ الْعُدْدِيَّةُ: (علم جبراً) دو مخالف عدد کا مجموعہ: ۴ + ۱۹۲۶ =

رُجْدَ رَجْدًا وَرُجْدَ وَرُجْدًا: کانپنا۔ رَجَزَ (ن) رَجْزًا: رجز پڑھنا۔ صفت

(رَاجِزٌ وَرَجَّازٌ وَرَجَّازَةٌ) رَجَزَ بہ: کسی کے سامنے رجز پڑھنا۔

الرُّوْءِيُّ۔

رَجَّ (ن) رَجًّا: بلانا۔ حرکت دینا۔

رَجَّةٌ (ن) وَرَجٌّ رَجًّا: بلانا۔ حرکت دینا۔

إِرْتَجَّ: البحر: موج مارنا الكلام: ملتیس ہونا۔

الرُّجَّةُ: حرکت۔ رِجَّةُ الْقَوْمِ: لوگوں کی آواز کا اختلاط۔

رَجَّاجٌ: الغنم او الناس: کمزور و لاغر۔ کہا جاتا ہے ”نِعْجَةٌ رَجَّاجَةٌ“ لاغر بھینر۔ نَاقَةٌ (رَجَّاء) بڑے کوہان والی اونٹنی جس کا کوہان چلنے میں بلے۔

أَرْجَأُ: الأمر: کام کا موخر کرنا۔ أَرْجَأَتِ الْحَامِلُ: وضع حمل کا زمانہ قریب ہونا۔

الصَّائِدُ: شکاری کا کچھ نہ پانا۔

رَجَبٌ (ن) رَجْبًا: منہ: شرم کرنا۔

رَجَبَهُ بِكَلَامٍ سَسِيٍّ: تہمت لگانا (رَجْبًا وَرُجُوبًا) وَرَجَبٌ ڈرنا۔ تعظیم کرنا۔

رَجَبٌ (س) رَجْبًا: منہ: گھبرانا۔ شرم کرنا۔ رَجَبَهُ: ڈرنا۔ تعظیم کرنا۔

رَجَبَهُ: ڈرنا۔ تعظیم کرنا۔ النحلة: درخت خرما میں ٹیک لگا دینا۔ ارد گرد کانٹے لگا دینا۔

اور اسی سے ہے ”أَنَا جُدَيْلُهَا الْمَحْكُوكُ وَعُدَيْتُهَا الْمَرْجَبُ“ اس قول میں

جُدَيْلٌ جَدَلٌ کی اور عُدَيْتُ عَدَقٌ کی تصغیر ہے۔ جدل کے معنی تہ اور عَدَقٌ کے معنی پھل دار درخت خرما۔ محکم جس سے

خارش اونٹ اپنے بدن کو رگڑے اور مَرْجَبٌ جس میں پھل کے بوجھ کی وجہ سے تھوٹی لگا دی گئی ہو۔ رَجَبٌ الرَّجْلُ:

رجب کے مہینے میں جانور ذبح کرنا۔ تَرَجَّبَ: خوفزدہ ہونا۔ بیت زدہ ہونا الرَّجْلُ: ڈرنا۔ تعظیم کرنا۔

رَجَبٌ: قمری سال کا ساتواں مہینہ۔ ج أَرْجَابٌ وَرُجُوبٌ وَرَجَابٌ: کہا جاتا ہے

”أَجَلْتُكَ إِلَى سَبْعَةِ أَرْجَابٍ“ میں نے تجھ کو سات رجب یعنی سات سال تک کی

مہلت دی۔ رَجَبَانِ: ماہ رجب و شعبان۔

ہونا۔ صفت (رُتِع) ج رُتِعُونَ۔

إِرْتَعَنَ إِرْتِعَانًا: المَطَرُ: لگاتار برسا فَلَانٌ: کمزور اور سُت ہونا الشَّعْرُ: بال

کا ٹکنا۔ رَثَمَ (ض) رَثْمًا: الانف: ناک توڑ کر خون آلود کر دینا۔ صفت مفعول (رَثِمَ وَ مَرَثُومٌ)

رَثَمَ (س) رَثْمًا وَإِرْثَمَ: الفرس: ناک کے کنارے پر سفید داغ والا ہونا۔ صفت مذکر (رَثَمَ وَارْثَمَ) صفت مؤنث (رَثْمَةٌ وَرَثْمَاءٌ) ج رَثَمٌ۔

الرَثَمُ وَالرَثْمَةُ: گھوڑے کی ناک کے کنارے کا سفید داغ۔

الرَثْمَةُ: ہلکی بارش۔ ج رَثَامٌ۔ المَرَثِمُ وَالْمِرْثِمُ: ناک۔ ج مَرَاثِمٌ۔

رَثَنٌ تَرَثِنًا: اچھی طرح سے بارش ہونا۔ الرَثَانُ: لگاتار بارش۔

أَرْضٌ (مَرَثُونَةٌ وَ مَرَثُونَةٌ) بارش شدہ زمین۔

رَثَائِرُوتُ رَثَوًا وَرَثِي رَثِيًا وَرَثَاءٌ وَرَثَائِيَةٌ وَمَرَثَاءٌ وَمَرَثِيَّةٌ: رونا اور محاسن شمار کرنا۔ مرثیہ کے اشعار کہنا۔

رَثِي لَهٗ: رحم کرنا۔ رَثِي رَثِيًا رَثِيًا: عَنهُ حَدِيثًا: یاد کرنا۔

رَثِي رَثِيًا رَثِيًا: جوڑوں کے درد والا ہونا۔

رَثِي وَرَثِيًا: المَيِّتُ: رونا اور محاسن شمار کرنا۔

الرَثَائِيَةُ وَالرَثَائِيَةُ: نوحہ کرنے والی عورت۔

الرَثِيَّةُ: جوڑوں کا درد (والرَثِيَّةُ) کمزوری۔ سستی۔ بیوقوفی۔

المَرَثَاءُ وَالْمَرَثِيَّةُ: وہ اشعار وغیرہ جس میں میت کے محاسن بیان کئے جائیں۔

مَرَاثٍ وَ”المَرَاثِي السَّبْعُ“ عرب کے سات مشہور اور منتخب مرثیے۔

رَجُلٌ (مَرَثُوٌّ) کمزور عقل والا مرد۔

تَرَاجَعُ الْقَوْمُ! اپنے اپنے مقامات پر واپس آنا الْقَوْمُ الْكَلَامُ بَيْنَهُمْ: قوم کا آپس میں گفتگو میں الٹ پھیر کرنا۔

اسْتَرَجَعَ مِنْهُ الشَّيْءُ: واپس لینا فی الْمُصِيبَةِ ﴿أَنَا لِلَّهِ وَأَنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ کہنا۔ اَلْحَمَامُ فِي غَنَائِهِ: کوتڑی کا گت کرنا۔

الرَّجْعُ: سرخط کا جواب۔ بارش کے بعد بارش۔ سَخٌ: موسم بہاری سبزی۔ تَالَابٌ: رَجَاعٌ وَرُجْعَانٌ وَرُجْعَانٌ: الرَّجْعُ: لیدِ مِّنَ الْأَرْضِ بَدَيْنِ كَاوَهَصَةٍ جَسٌ مِّنْ سِلَابِ ذُورَتِكَ بَحِيلًا بُوَ مِّنَ الْكُتِفِ: موٹھے کا نچلا حصہ۔ کہا جاتا ہے "كُوَاهُ عِنْدَ رَجْعِ كُتِفِهِ" ہاں کی موٹھے کے نچلے حصے پر اس نے داغ لگایا۔ رَجْعُ الصُّدَى: آواز باز گشت۔

الرَّجْعُ مِنَ الْكَلَامِ: واپس کی ہوئی گفتگو۔ لیدِ: گوبر۔ تالاب۔ موسم بہاری سبزی۔ اونٹ کی جگال۔ ہر واپس کی ہوئی چیز۔ پُرَانَا كِبْرًا: پسینہ۔ مَخْضًا کھانا جو دوبارہ گرم کیا جائے۔ بَعِيْرُ رَجْعٍ: سفر سے تھکا ہوا اونٹ۔ رَجَاعٌ ذَابَةٌ رَجْعٌ أَنْفَارٌ: بار سفر میں لوٹ لوٹ جانے والا چوپایہ۔

الرَّجَاعُ: فاعولت جس کے شوہر کی وفات ہو چلی ہو اور وہ اپنے کنبہ میں چلی گئی ہو۔ رَجَاعٌ: رجوع کا اسم نوع۔ حجت۔ اونٹ چھوٹے چھوٹے معمولی جن کی قیمت سے دوسرے اونٹ خرید کر نفع اٹھائیں۔

الرَّجْعَةُ: واپس۔

وَالرُّجْعَةُ وَالرُّجْعِيُّ وَالرُّجْعَانُ وَالرُّجْعَانُ: لفظ کا جواب۔ الْمَرْجِعُ: لوٹنے کی جگہ موٹھے کا نچلا حصہ۔

الرُّجُوعُ وَالْمَرْجُوعَةُ: لفظ کا جواب۔ گودنے کے نشانات جو دوبارہ تازہ کئے گئے ہوں۔ کہا جاتا ہے "لَيْسَ هَذَا بَالْبَيْعِ مَرَجِعَةً" اس بیچ کی واپسی نہیں۔

اونٹ۔

الرَّمْجَاسُ پانی کی گہرائی ناپنے کا آلہ۔

الرَّمْجُوسَةُ: فساد و گڑبازت۔

رَجَعٌ (ض) رَجُوعًا وَمَرَجَعًا وَمَرَجَعَةٌ: وَرَجْعِي وَرُجْعَانًا: واپس آنا۔

لَوْثٌ (رَجْعًا وَمَرَجَعًا وَمَرَجَعًا) الْكَلَامُ فِيهِ فَاكِدُهُ دِيْنَا: کہا جاتا ہے "مَا هُوَ إِلَّا سَجْعٌ لَيْسَ فِيهِ رَجْعٌ" یہ صرف سَجْعُ ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ الْعُلْفُ فِي الدَّابَّةِ: چارہ کا جانور میں اثر کرنا۔ کہا جاتا ہے "رَجَعُ عَوْدِهِ عَلَيَّ بَذْنَهُ" وہ جس راستہ سے آیا تھا اسی سے واپس گیا الشَّيْءُ عَنْهُ أَوِ الْيَبَةِ: پھیرنا۔ واپس کرنا۔ رد کرنا (رَجُوعًا وَرَجَاعًا) الطَّيْرُ: بگرم جگہ سے سرد جگہ میں جانا۔

رَجَعٌ: فاعولت جس میں آواز کو گھمانا۔ (وَتَرَجَعُ) فِي الْمُصِيبَةِ ﴿أَنَا لِلَّهِ وَأَنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ کہنا رَجَعْتُ الدَّابَّةِ: قدم رکھنا۔ تَرَجَعُ النَّاقَةُ: ایک اونٹنی کی قیمت سے اسی جیسی دوسری خریدنا۔

رَجَعَهُ: فاعولت دوسرے سے معاملہ میں بات چیت کرنا الْكَلَامِ: دوبارہ گفتگو کرنا الرَّجُلُ: اپنی پہلی یا بری عادت کی طرف لوٹ جانا۔

ارْجَعَهُ: رد کرنا۔ پھیرنا الدَّابَّةِ: چوپایہ کا گوبر کرنا۔ النَّاقَةُ: اونٹنی کا لاغر ہونا۔ لاغری کے بعد موٹا ہونا الرَّجُلُ فِي الْمُصِيبَةِ ﴿أَنَا لِلَّهِ وَأَنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ کہنا اللہ بِيَعْتُهُ: نفع کرنا۔

ارْتَجَعَ: النَّاقَةُ: ایک اونٹنی کی قیمت سے اس جیسی دوسری خریدنا۔ ارْتَجَعَ أَلَى الشَّيْءِ: واپس کرنا۔ ارْتَجَعَهُ: واپس کرنا۔ المَرْأَةُ جَلِيَانِيَا: چہرہ پر دوبارہ ڈال لینا۔ ارْتَجَعَ عَلَيَّ الْغَرِيمِ: مطالبہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "نَاعَ حَيْلِهِ فَارْتَجَعَ مِنْهَا رَجْعَةً صَالِحَةً" اس نے اپنے حوڑے کو بچھو ڈیا اور اس کی قیمت کو نفع بخش کام میں خرچ کیا۔

رَجْعَةُ كَمِي كَ سَانُ رَجَزُ پڑھنا۔

رَأَجَزُ: صَاحِبَهُ رَجَزُ پڑھنے میں مقابلہ کرنا۔

تَرَجَزَ رَجَزُ پڑھنا الرَّجُوزُ: لگاتار گزر گزانا السَّحَابُ بَادِلُ كَ پَانِي كَ كَثْرَتِ كِ وَجِهَ سَ آہستہ حرکت کرنا۔

ارْتَجَزَ رَجَزُ پڑھنا الرَّجُوزُ: لگاتار گزر گزانا بَقْلَانٌ: کسی کے متعلق رَجَزُ کے اشعار کہنا الرَّجُوزُ فِي الْقِتَالِ: لڑائی میں رَجَزُ کے اشعار پڑھنا۔

تَرَاجَزَ: الْقَوْمُ رَجَزُ پڑھنے میں باہم مقابلہ کرنا۔

الرُّجْزُ وَالرُّجُوزُ: گندگی۔ غذاب۔ بتوں کی پرستش۔ بت۔ الرَّجْزُ: گناہ۔

الرُّجُوزُ: اوزان شعر میں سے ایک وزن کا نام۔ اونٹوں کے سرین کی ایک بیماری کا نام۔

الرُّجُوزَةُ: عورتوں کے لئے اونٹ پر کی ہوج سے چھوٹی ایک سواری۔ برتن یا کمانج جس میں پتھر ڈال کر بوجھ برابر کرنے کے لئے ایک طرف لگا دیا جاتا ہے۔

الْأَرْجُوزَةُ: جرجر جز کا قصیدہ۔ رَجْزٌ أَرْجِيزُ: الَرَّجُوزُ رَجَزُ كِ بِيَارِي وَالِإِلَا: آواز کرنا السَّمَاءُ: آسمان کا گزر گزانا۔

فَلَانًا عَنِ الْأَمْرِ: بروکنا (وَأَرْجِسُ) پَانِي كِ گہرائی کا اندازہ کرنا۔

رَجَسٌ (س) وَرَجَسٌ (ك) رَجَسًا: بَرَأَا كَمُ كَرَنَا: صَفَتْ (رَجَسٌ) ارْتَجَسَتْ: السَّمَاءُ: كُورُثَنَا: البِنَاءُ: عمارت کے بننے سے آواز سنائی دینا۔

الرَّجْسُ وَالرُّجْسُ وَالرُّجَسُ: گندری، پلیدی۔ الرَّجَسُ: بُرَا كَمَلٌ: بُرَا كَمَلٌ كِ سَرَا: شَيْطَانٌ كَاوَسُوسَا: خَفِيفُ حَرَكَتِ: الرَّجَّاسُ: سمندر۔ کہا جاتا ہے "بَعِيْرُ أَوْسَحَابِ رَجَّاسٍ" بہت تیز آواز والا بادل یا اونٹ۔

بَعِيْرُ رَجُّوسٍ: تیز آواز ٹکالنے والا

المُراجِع. من النساء: عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو اور وہ اپنے ننبہ میں واپس آگئی ہو۔

المرجاع: مہار کا وہ حصہ جو اونٹ کی ناک پر ہوتی ہے اور جعہ و رجوع۔

رجفہ (ن) رجفعا و رجفانا و رجيفا. تیز بلانا۔ بلنا (لازمی و متعدی) الرجل: بہت کانپنا۔ کسی خوف کے لاحق ہونے سے فرار نہ پکڑنا۔ الارض: زمین میں بھونچال ہونا۔

القوم: لڑائی کے لئے تیار ہونا۔ الرغد: گڑگڑانا۔ الامتنان: دانتوں کا گرنا۔

ازجف: لوگوں کو بھڑکانے کے لئے بڑی خبروں کو پھیلانا۔ القوم: بالشیء وفیہ: گھسنا۔ الریح الشجر: ہو اکادریخت کو بلانا۔

ازجفت الارض: زمین میں بھونچال ہونا۔ زلزله ہونا۔

ترجف و ازترجف: بہت زیادہ کانپنا۔ استرجف: رأسہ: حرکت دینا۔ اور کہا جاتا ہے "خرجوا یسترجعون الارض فزعلة" وہ لوگ نکلے اس حال میں کہ انہوں نے زمین میں شجاعت و دلیری کی وجہ سے زلزله ڈال دیا۔

الرجفة: اسم مرۃ۔ زلزله۔ بھونچال۔

الرجاف: فاجوزی والا بخار۔

الرجافة: قیامت کے روز صور کا پہلا نفعہ۔

الرجاف: بہت کانپنے والا۔ سمندر۔ قیامت کا دن۔

الاراجیف: گھوڑی ہوئی گھوٹی خبریں۔ کہتے ہیں "اذا وقعت المخاوف كثرت الاراجيف" جب خوف بڑھ جایا کرتا ہے تو گھوٹی خبریں بہت اڑتی ہیں۔

الترجاف: اضطراب۔ بے قراری۔

رجل (ن) رجلا۔ الفصیل: اونٹ کے بچے کو ماں کا دودھ پینے کیلئے آزاد چھوڑ دینا۔ الشاة: بکری کی نائیں باندھ دینا۔ رجله: نائگ پر مارنا۔

رجل (س) رجلا۔ پیدل چلنا۔ بیکر نائگ والا ہونا۔ الذابۃ: ایک نائگ میں سفیدی والا ہونا۔ الشعور: بال کچھ گھنگریالے ہونا۔

الفصیل: اونٹ کے بچے کا ماں کا دودھ پینے کیلئے آزاد چھوڑنا۔

رجله: قوی کرنا۔ الشعور: گھنگھی کرنا۔

ازجله: مہلت دینا۔ پیدل چلانا۔ الفصیل: اونٹ کے بچے کو ماں کا دودھ پینے کے لئے آزاد چھوڑنا۔

ترجل: سواری سے اتر کر پیدل چلنا۔ المرأۃ: مرد جیسی ہونا۔ الشمس: آفتاب کا بلند ہونا۔

السنو وفي السنو: بغیر کچھ لٹکانے ہوئے کنوئیں میں اترنا۔ الزند: پاؤں کے نیچے رکھنا۔

ازرجل: دلچسپی میں پکانا۔ الشاة: نائیں باندھنا۔ پاؤں سے پکڑنا۔ الزند: پاؤں کے نیچے رکھنا۔ الکلام: نبی البدیہ کہنا۔

برایہ: مفرد ہونا۔ الرجل: پیدل چلنا۔ النهار: دن کا چڑھنا۔ الفرس: درمیان دو رقماڑوں کے آرام لینا۔ کہا جاتا ہے "ازرجل رجلک" اپنی شان کو لازم پکڑ۔

الرجل: پیدل چلنے والا۔ مرد۔ شعور: کچھ گھنگریالے بال۔

الرجل: پیدل چلنے والا۔ مرد۔ شعور: کچھ گھنگریالے بال۔

الرجل: پیدل چلنے والا۔ مرد۔ شعور: کچھ گھنگریالے بال۔

الرجل: پیدل چلنے والا۔ مرد۔ شعور: کچھ گھنگریالے بال۔

الرجل: پیدل چلنے والا۔ مرد۔ شعور: کچھ گھنگریالے بال۔

الرجل: پیدل چلنے والا۔ مرد۔ شعور: کچھ گھنگریالے بال۔

الرجل: پیدل چلنے والا۔ مرد۔ شعور: کچھ گھنگریالے بال۔

الرجل: پیدل چلنے والا۔ مرد۔ شعور: کچھ گھنگریالے بال۔

الرجل: پیدل چلنے والا۔ مرد۔ شعور: کچھ گھنگریالے بال۔

الرجل: پیدل چلنے والا۔ مرد۔ شعور: کچھ گھنگریالے بال۔

جاتا ہے "هو یقدم رجلا و یؤخر اُخوی" یعنی وہ اپنے معاملہ میں متروک ہے جسے ایک قدم اٹھاتا ہے کبھی دوسرا۔

الرجل: مرد۔ پیدل چلنے والا۔ رج رجلا و رجلة و رجلة و راجل و رجالات: کہا جاتا ہے "فلائ رجل فی الرجال" فلاں کال مرد ہے۔

الرجل: من الشعور: کم گھنگریالے بال۔ رج ارجال و رجالی۔

الرجل: پیدل چلنے والا۔ الرجل: من الشعور: کم گھنگریالے بال۔

الرجل: پیدل چلنے والا۔ الرجل: من الشعور: کم گھنگریالے بال۔

الرجل: پیدل چلنے والا۔ رج رجلا و رجلة و رجلة و راجل و رجالات: کہا جاتا ہے "جانت العیالۃ و الرجالة" سوار و پیادے سب آئے۔ و "اعار علیہم بخیلہ و رجلہ" اس نے ان پر اپنے سوار و پیادوں سے لوٹ ڈالی۔ رجل راجل: پیدل چلنے والا۔ مرد۔

الرجل: پیدل چلنے والا۔ الرجل: من الشعور: کم گھنگریالے بال۔

الرجل: پیدل چلنے والا۔ الرجل: من الشعور: کم گھنگریالے بال۔

الرجل: پیدل چلنے والا۔ الرجل: من الشعور: کم گھنگریالے بال۔

الرجل: پیدل چلنے والا۔ الرجل: من الشعور: کم گھنگریالے بال۔

الرجل: پیدل چلنے والا۔ الرجل: من الشعور: کم گھنگریالے بال۔

الرجل: پیدل چلنے والا۔ الرجل: من الشعور: کم گھنگریالے بال۔

الرجل: پیدل چلنے والا۔ الرجل: من الشعور: کم گھنگریالے بال۔

الرجل: پیدل چلنے والا۔ الرجل: من الشعور: کم گھنگریالے بال۔

الرجل: پیدل چلنے والا۔ الرجل: من الشعور: کم گھنگریالے بال۔

الرجل: پیدل چلنے والا۔ الرجل: من الشعور: کم گھنگریالے بال۔

الرجل: پیدل چلنے والا۔ الرجل: من الشعور: کم گھنگریالے بال۔

الرجل: پیدل چلنے والا۔ الرجل: من الشعور: کم گھنگریالے بال۔

الرجل: پیدل چلنے والا۔ الرجل: من الشعور: کم گھنگریالے بال۔

کے متعلق کچھ امید لگانا۔
 رَحْمَى (س) رَحْمًا: کلام سے رک جانا۔
 رَحْمَى عَلَيْهِ: کلام منقطع ہونا۔
 رَحْمَى وَتَرَحْمَى وَارْتَحْمَى: النسيء: امید
 کرتا۔ رَحْمَى وَارْتَحْمَى فَلَانًا: امید لگانا۔
 وَارْتَحْمَى النسيء: خوف کرتا۔
 رَحْمَى الْأَمْرُ: مؤخر کرنا الصيّد: نہ پانا۔
 رَحْمَى الْبِر: کنوئیں کا من بنانا رَحْمَى
 النَّاقَةُ: جننے کے قریب پہنچنا۔
 الرَّجَا وَالرَّجَاء: کنارہ رَجْوَا الْبِر:
 کنوئیں کے دونوں پہلو۔ الرَّجَاء: چھوٹا حمل
 کہ دیکھنے میں تو حمل معلوم ہو مگر واقعہ نہ ہو۔
 الرَّجِيَّةُ: امید کی چیز۔ کہا جاتا ہے "النسيء لِي
 فِي فَلَانٍ رَجِيَّةٌ" فلاں سے مجھے کوئی امید
 نہیں۔
 الْأَرْجِيَّةُ: جو چیز موخر و ملتوی کی جائے۔
 الرَّحَّةُ: سانپ جو کندی مارے ہوئے ہو۔
 الرَّوْحُ: کھر کی چوڑائی۔
 الرَّوْحُ: چوڑے پیالے۔
 الْأَرَاخُ: بھرے گلوے والا۔ مؤنث رَحَاءُ ج
 رُحٌ
 رَحَبٌ (س) رَحْبًا وَرَحْبٌ (ک) رُحْبًا
 وَرَحَابَةٌ: المَكَانُ: جگہ کشادہ ہونا۔ مفت
 (رَحْبٌ وَرَحْبٌ وَرَحَابٌ) اور کہا جاتا ہے
 "رَحْبِكُمْ الْأَمْرُ" یعنی معاملہ تمہارے لئے
 وسیع ہے (اور یہ شاذ ہے)۔
 رَحَبٌ المَكَانُ: کشادہ کرنا یہ مَرَحِبَةٌ
 بہتر طریقہ سے استقبال کرنا۔ خوش آمدید کہنا۔
 مَرَحِبًا کہنا۔
 أَرْحَبُ المَكَانُ: کشادہ ہونا المَكَانُ:
 کشادہ کرنا۔ اور کہا جاتا ہے "أَرْحَبُ يَا وَلَدُ"
 یعنی اے لڑکے بہت جا۔
 تَرَحَّبٌ: کشادہ ہونا۔
 الرَّحْبُ: کشادہ۔ کہا جاتا ہے "مَكَانٌ
 رَحْبٌ وَأَرْضٌ رَحِيَّةٌ" کشادہ جگہ و کشادہ
 زمین۔ "وَرَحْبُ الصُّدْرِ" کشادہ دل۔ و
 "رَحْبُ الْفَهْمِ" زیادہ عقل والا و "رَحْبُ

نشان لگایا جائے۔ بجو کا بھٹ۔ ج رَحْمٌ و
 رَحَامٌ
 الرَّحِيمُ: سنگسار کیا ہوا۔ ملعون۔
 الرَّحَامُ: کنوئیں کی من۔ پتھر یا پتھر کی مانند
 کوئی چیز جس میں رسی باندھ کر کنوئیں کی
 گہرائی معلوم کی جائے۔ نیلے۔ وَاخْرَجْتُمَا
 الْمَرْجَمَ: مِنَ الرَّجَالِ: مضبوط ٹوی مرد۔
 فَرَسٌ مَرْجَمٌ: بہت روندنے والا گھوڑا۔
 حَدِيثٌ (مَرْجَمٌ) نَفَقِي بَاتٍ۔ بات جس کی
 حقیقت معلوم نہ ہو۔
 الْمَرْجَمُ: پتھروں کے پھینکنے کے آلہ۔ مِنْ
 الْأَيْلِ: مضبوط اونٹ۔
 الْمَرْجَمُ: قبیح کلمات۔ کہا جاتا ہے "تَرَامُوا
 بِالْمَرْجَمِ" انہوں نے ایک دوسرے سے
 قبیح کلمات کہے۔
 رَحْنٌ (ن) وَرَحْنٌ (س) وَرَحْنٌ (ک)
 رُجُونًا بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا الْحَيَوَانُ:
 مانوس ہونا۔
 رَحْنٌ (ن) رَحْنًا وَرَحْنٌ وَارْحَنَ
 الدَّيَّانَةُ: چارہ کھانے کیلئے گھر پر روکنا۔ رَحْنٌ
 فَلَانًا: شرم کرنا۔ وَارْحَنَتِ النَّاقَةُ: گھبرا
 ٹھہرنا۔
 ارْتَحَنَ بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا الْوَيْدَةُ:
 پکڑنے سے صاف نہ ہونا اور خراب ہو جانا عَلَي
 الْقَوْمِ أَمْرُهُمْ: گڑبڑ و فاسد ہونا۔
 الرَّجِينُ: مہلک زہر۔
 الرَّجِيَّةُ: جماعت۔
 الْمَرْجُونَةُ: خشک کدو اندر سے خالی جس میں
 عورتیں روٹی رکھتی ہیں۔ کہا جاتا ہے "هَمْ فِي
 مَرْجُونَةٍ" وہ لوگ اقامت کرنے یا کوچ
 کرنے میں متردد ہیں۔
 رَجَاةٌ (ض) رَجِيًّا: ہلنا بِالنَّسِيءِ: دانوں
 سے پکڑنا۔
 أَرْجَاهُ الْأَمْرُ: وقت سے پیچھے ہٹنا۔
 رَجَا (ن) رَجَاءٌ وَرَجْوًا وَرَجَاةٌ
 وَمَرْجَاةٌ وَرَجَاوَةٌ وَرَجَاءَةٌ: پُر امید ہونا
 النَّسِيءِ: امید کرنا۔ خوف کرنا الرَّجُلُ: کسی

الْأَرْجُلُ: مِنَ الدَّوَابِّ: ایک ٹانگ میں
 سفید داغ والا جانور۔ رَجُلٌ أَرْجَلٌ: بڑے
 پاؤں والا مرد۔ مؤنث رَجَلَاءُ ج رَجُلٌ اور
 کہا جاتا ہے "هُوَ أَرْجَلُهُمْ" وہ ان لوگوں میں
 کامل مردا مگی والا ہے۔
 التَّرَجِيلُ: من جانور کے ایک ٹانگ کی
 سفیدی۔
 التَّرَجِيلُ: كَرَفَسٌ (ایک دو اکانام)
 الْمِرْجَلُ: دیکھ۔ کھلی۔ جَوَاجِلُ
 الْمَرْجَلُ: مِنَ النَّسِيءِ وَنَحْوَهُ: کپڑا
 جس پر آدمی کی تصویریں بنی ہوئی ہوں۔
 شَرَابٌ سَبْرِيٌّ هُوَ مَيْكَلٌ۔
 الْمُمْرَجِلُ: مِنَ الشَّيْبِ: کپڑا جس پر دیک
 کی صورت بنی ہوئی ہو۔
 إِمْرَأَةٌ (مَرْجَلٌ) لَرَاكَةَ هِيَ جَنَّةُ وَالِي عَمْرَتِ۔
 رَجْمَةٌ (ن) رَجْمًا: سنگسار کرنا۔ پتھراؤ
 کرنا۔ لعنت کرنا۔ گالی دینا۔ چھوڑنا۔ دھکیلنا۔
 الْقَبْرِ: نشان کے لئے پتھر لگانا۔
 الرَّجْلُ: اَنكَلٌ سے بات کرنا۔ کہا جاتا ہے
 "جَاءَ يَرْجُمُ" وہ تیز بھاگتا ہوا آیا۔
 رَجْمٌ اَنكَلٌ سے بات کرنا۔ کہا جاتا ہے
 "رَجْمٌ بِالْغَيْبِ" اس نے اَنكَلٌ بچے باتیں
 کیں الْقَبْرِ: نشان کے لئے پتھر لگانا۔
 رَا جَمَهُ مَرَا جَمَةً: ایک دوسرے کو پتھراؤ
 کرنا۔ عَنْ قَوْمِهِ: مدافعت کرنا ہ فی
 الْحَرْبِ او الْكَلَامِ او الْعَدُوِّ: لڑائی یا
 گفتگو یا دوڑنے میں سخت مقابلہ کرنا۔
 تَرَا جَمُوا: ایک دوسرے کو پتھرا مارنا۔
 بِالْكَلامِ: ایک دوسرے کو گالی دینا۔
 ارْتَجَمَ النَّسِيءُ: تبتہ ہونا۔
 الرَّجْمُ: من دوست۔ ہم نشین۔ وہ چیز جس
 سے پتھراؤ کریں۔ جَوَاجِمُ: الرَّجْمُ: اَنكَلٌ
 کی گفتگو۔ کہا جاتا ہے "رَجْمًا بِالْغَيْبِ" اَنكَلٌ
 بچے۔ و صَارَ فَلَانٌ رَجْمًا: فلاں حقیقت
 حال سے واقف نہیں۔
 الرَّجْمُ: کتواں۔ تھور۔ قبر۔ جَوَاجِمُ
 الرَّجْمَةِ الرَّجْمَةُ: قبر۔ قبر کا پتھر جو بطور

الباع او الذراع“ فیاض نخی۔
الرُحْبِي: سب سے چوڑی پلی۔
الرُحْبِيَان: بغل سے متصل دونوں طرف کی
پلیاں۔

الرُحْبِيَة والرُحْبِيَة: کشادہ زمین جس میں
بکثرت گھاس ہو اور بہت لوگ آتے ہوں۔
مکانوں کے درمیان کھلی ہوئی جگہ من الذراع:
مکان کا حصہ من الوادی: وادی کے دونوں
جانب پانی بہنے کی جگہ۔ رحاب و رحب
ورحبات ورحب ورحبات۔

الرُحْبِي: بہت کھانے والا۔
الرُحْبِيَان: خوش آمدید۔
رَحَابُ النُجُوم: کشادہ اطراف۔ واحد
رُحْبِيَّة۔

الرُحْبِيَان: کشادگی۔ اور مسافر سے خوش
آمدید کہنے کے موقع پر کہا جاتا ہے ”مَرْحَبًا
بِكَ“ یعنی تم نے کشادگی پائی۔ ”مَرْحَبًا
اللَّهِ وَ مَسْهَلِك“ اللہ تم کو کشادہ اور نرم
زمین میں اتارے۔ ”أَهْلًا وَ مَرْحَبًا“ یعنی
اپنے لوگوں میں نازل ہوئے اور کشادگی پائی اس
لئے مانوس ہو جاؤ۔ وحشت مت کرو۔ اور بدو عا
کے موقع پر کہا جاتا ہے ”لامرْحَبًا بِيك“

رُحْرَح: مراد کی گہرائی کو نہ پہنچنا لَشِي عَنْ
فَلَان: چھپانا الکلام: واضح کلام نہ کرنا۔
تُرْحَرَح: الفرس: گھوڑے کا پیشاب کے
لئے نائلیں پھیلاتا۔

الرُحْرَح والمُرْحَرَح والرُحْرَحَان:
پھیلا ہوا کشادہ۔ اتھلا۔ ٹھوڑی گہرائی والا۔ اور
کہا جاتا ہے ”عَيْشُ رُحْرَحٍ وَرُحْرَحٍ“ یعنی
آسودہ و فراخ زندگی۔

رُحْرَح (ف) رُحْرَحًا وَرُحْرَحًا:
الرُحْبِيَان: کپڑا دھونا۔

رُحْرَحِي: المَحْمُومُ: پسینہ آنا۔
الرُحْرَحِي: الرُحْلِي: رسوا ہونا۔

رُحْرَحِي (رُحْرَحِي) کپڑا جو دھویا جائے یہاں
تک کہ پُرانا ہو جائے۔ الرُحْرَحِي: مَشْك:
پرانا توشہ دان۔

الرُحْرَحِي: پسینہ کی آمد۔
الرُحْرَحِيَة: وہ پانی جو دھونے کے بعد گرے۔
دھوون۔

الرُحْرَحِيَان: بخارات تڑپنے کا پسینہ۔ پسینہ جو
کھال کو شربور کر دے۔

الرُحْرَحِيَان: دھویا ہوا۔
الرُحْرَحِيَان: غسل خانہ۔ ہاتھ پاؤں دھونے
کی جگہ۔ دھوئی کا تختہ جس پر کپڑے پلک کر
دھوتا ہے (عوام اس کو مَبْحِيَاط کہتے ہیں)
پاخانہ۔ مَعْرَاجِيض:

الرُحْرَحِيَان والرُحْرَحِيَان: کوئی چیز جس
میں وضو کیا جائے۔

الرُحْرَحِيَان والرُحْرَحِيَان: شراب۔ الرُحْرَحِيَان:
ایک قسم کی خوشبو۔ حَسْبُ رُحْرَحِيَان: بے
داع حَسْبُكَ رُحْرَحِيَان: خالص مشک۔

رُحْل (ف) رُحْلًا وَرُحْلًا وَرُحْلًا:
عَنِ الْمَكَانِ: ترک وطن کرنا اِلَى
الْمَكَانِ: منتقل ہونا لِيَعْبُرَ: کجاہہ کسنا۔ سوار
ہونا۔ کہا جاتا ہے ”رُحْلًا لَه نَفْسِي“ میں
نے اس کی تکالیف پر صبر کر کے بالسيف: کسی
پر تلوار اٹھانا لِيَلْدُ: پھرنا۔ گھورتا۔

رُحْلَة: کوچ کرنا۔ کوچ کرنے میں کوشش
کِرَالْفُؤْب: نقش و نگار کرنا۔

رُحْلَة: کوچ کرنے میں مدد دینا۔
رُحْل: سواری کے بہت جانور والا ہونا

الدَابَّة: چوپائے کا کمزوری و لاغری کے بعد
مونا و مضبوط ہونا: سواری دینا۔

الرُحْلِي او الناقَة: اونٹ یا اونٹنی کو سواری
کے لئے سدھانا۔

تُرْحَل القَوْمُ عَنِ الْمَكَانِ: منتقل ہونا۔
فلانا: کسی کے ساتھ ناپسندیدگی سے پیش آنا۔

الرُحْلِي عَنِ الْمَكَانِ: منتقل ہونا۔ کوچ
کِرَالْفُؤْب: اونٹ پر کجاہہ کسنا۔ سوار ہونا۔

الرُحْلِي: کسی معاملہ پر غائب ہونا۔
الرُحْلِي: سواری طلب کرنا۔ سواری پر

کجاہہ گھسنے کے لئے کہا لَتَأْسِ نَفْسَهُ: اپنے
آپ کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا۔

الرُحْل: سر کجاہہ۔ منزل۔ قیام گاہ۔ تم کہتے ہو
”عَادَ الْمُسَافِرُ اِلَى رُحْلِهِ“ مسافر اپنی قیام
گاہ پر واپس آیا۔ سامان سفر۔ کہا جاتا ہے ”حَطَّ
رُحْلَهُ وَالْقِي رُحْلَهُ“ اس نے اپنا کجاہہ اتارا

اور سامان ڈال دیا۔ یعنی اس نے اقامت کر لی۔
رُحْلَانِ وَرُحْلِي: الرُحْلَانِ: مقام حیرہ
کے بچے ہونے کا بیچے۔

الرُحْلِيَة: کوچ۔ تم کہتے ہو ”غَدَا رُحْلُنَا“
کل ہمارا کوچ ہے۔ سفر نامہ۔

الرُحْلِيَة: جہت سفر۔ تم کہتے ہو ”دِمَشْقُ
رُحْلُنَا“ ہماری جہت سفر دمشق ہے۔ سفر۔
عَالِم رُحْلَة: ایسا عالم جس کے پاس لوگ کوچ
کر کے آئیں۔ بَعِيْرُ ذُو رُحْلَة وَرُحْلِيَة:
مضبوط و قوی اونٹ۔

الرُحْلِي: سر کوچ۔ اونٹ جس پر کجاہہ کسا
جائے جَمَل رُحْلِي وَ نَاقَة رُحْلِيَة: پلنے
میں قوی اونٹ۔

الرُحْلِي: فَا رُحْلَانِ وَرُحْلِي وَ
رُحْلَانِ:

الرُحْلِي: مِنَ الْاِبِلِ: سواری کے لائق
اونٹ۔ سفر و بار برداری کے لئے مضبوط اونٹ
واو نثی (تا مبالغہ کے لئے ہے) رُحْلِي وَرُحْلِي:
الرُحْلِيَة: بغیر ٹکڑی کے صرف چمڑے کا
زین۔ رُحْلَانِ:

الرُحْلِي: مِنَ الْبَحِيْلِ وَالشَّاءِ: سفید پیٹھ
والا ٹھوڑا یا بکری۔

الرُحْلِي: کجاہے بنانے والا۔ بہت سفر
کرنے والا۔ رُحْلَانِ:

الرُحْلَانِ: بہت سفر کرنے والا۔
الرُحْلِي: بہت منتقل ہونے والا۔
الرُحْلِي: کجاہہ۔

الرُحْلِي: مسافر کے ایک دن کا سفر۔ رُحْلِي:
مَرَاجِلِ:

الرُحْلِي: بہت سواری کے جانور والا۔
(و الرُحْلِي) مِنَ الْجَمَالِ: مضبوط و قوی۔
الرُحْلِي: مِنَ الْاِبِلِ: کجاہہ کسا ہوا اونٹ۔
مِنَ الشَّيْبِ: کجاہہ کے مانند نقش و نگار والا

مِنَ الشَّيْبِ: کجاہہ کے مانند نقش و نگار والا

مِنَ الشَّيْبِ: کجاہہ کے مانند نقش و نگار والا

مِنَ الشَّيْبِ: کجاہہ کے مانند نقش و نگار والا

مِنَ الشَّيْبِ: کجاہہ کے مانند نقش و نگار والا

مِنَ الشَّيْبِ: کجاہہ کے مانند نقش و نگار والا

مِنَ الشَّيْبِ: کجاہہ کے مانند نقش و نگار والا

کپڑا۔
مُرْتَحَل. البعير اوثق کے کوچ کرنے کی جگہ۔
رَحْمَةٌ (س) رَحْمَةٌ وَمَرْحَمَةٌ وَرُحْمًا وَرُحْمًا نَزَمَ دَل هُونًا مَهْرِيَان هُونًا شَفَقَتْ كَرَامًا بَجَشَ دِيَانًا۔
رَحْمَتَان (س) وَرَحْمَتَان (ك) رَحْمًا وَرَحْمًا وَرَحَامَةً وَرَحِمْتِ الْمَرْأَةُ: ولادت کے بعد رحم میں درد والی ہونا۔ صفت (رُحُومٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَاءٌ) رَحْمٌ وَتَرَحَّمَ عَلَيْهِ: کسی کے متعلق "رَحْمَةً اللَّهُ كَبِهَات" تَرَا حَمًا. الْقَوْمُ: ایک دوسرے پر مہربانی کرتا۔
اسْتَرَحَمَهُ مَهْرِيَانِي طَلَب كَرَامًا۔
الرَّحِمُ وَالرَّحِمُ (مَوْثِقٌ) بَجَشَ دَانِي۔
قَرَابَت۔ رِشْتہ داری۔ کہا جاتا ہے "ذُو الرَّحِمِ" یعنی رشتہ دار۔ رَجَ آرَحَامِ۔
الرَّحَامُ بَجَشَ دَانِي كَيْ اِيك مَرَضٍ كَانَام۔
الرَّحْمَةُ وَالرَّحْمِي وَالرَّحْمُ نَزَمَ دَلِي وَ مَهْرِيَانِي جِس كَانْتِيَجِي مَغْفَرَتٍ وَ اِحْسَانٍ هِي۔
الرَّحْمُوتُ بَرِي مَهْرِيَانِي۔
الرَّاحِمُ وَالرَّحُومُ مَهْرِيَانِي كَرْنِي وَالَا۔
الرَّحِيمُ مَهْرِيَانِي كَرْنِي وَالَا۔ جِس پَر مَهْرِيَانِي كِي جَانِي رَجَ رَحْمَاءً. الرَّحِيمُ اللَّهُ تَعَالَى كَيْ اَسْمَانِي حَشِي مِي سِي هِي۔
الرَّحْمَانُ مَهْرِيَانِي كَرْنِي وَالَا۔ يِي اِسْمَانِي حَشِي مِي سِي هِي وَ اُو رِبَارِي تَعَالَى كَيْ لِي لِي مَخْصُوصٍ هِي۔
الرَّحْمَةُ مَهْرِيَانِي رَجَ مَرَّاحِمِ الْمَرَّحِمِ جِس پَر مَهْرِيَانِي كِي جَانِي (وَ الْمَرَّحُومُ) مَوْلِدِيْن كَيْ نَزْدِيكٍ مَتَوَفِي سِي كِنَا يِي هِي۔
رَحَا يَزُحُوْرُ حَوَا وَرَحِي يَزُحِي رَحِيَا وَ تَرَحِي الْحَيَّةُ كَثُرِي اَرَانَا۔ رَحَا الرَّحِي: بچل چلانا۔
الرَّحِي (مَوْثِقٌ) بَجَشَ شَمِيِي رَحَوَانِ وَرَحِيَانِ رَجَ آرَحَاءَ وَآرَحِيَةً وَآرَحَ

وَرَحِي وَرَحِي وَرَحِي وَرَحِي الرَّحِي بِيْمِيْن۔
گھسان کی بچک۔ سردار قوم۔ کہا جاتا ہے "هُوَ رَحِي قَوْمِهِ" وہ اپنی قوم کا سردار ہے۔ دائرہ۔
کہا جاتا ہے "طَحْنَةُ بَارَحَانِي" اس نے اس کو اپنی دائرہ سے بچس دیا۔ بادل۔ وہ قبیلہ جو نہ تو ایسی جگہ سے نئے اور نہ گھاس پانی کی طلب میں جائے۔ رَجَ آرَحَاءَ۔
الرَّحِي بَجَشَ سَارَ۔
الرَّحِي بَجَشَ سَانِ كَارِن۔
رَحْلَان (رَحَا يَزُحُوْرُ حَوَا) رَحَا يَزُحُوْرُ حَوَا سِي رُوْنَدِ كَرُذِيِيْلَا كَرَامًا الشَّرَابُ پَانِي مَلَانَا۔
رَحَا (ش) رَحَا الْعَجِيْنُ بِنْدِي هِي آسِي كَا كِيِيْلَا هُونَا۔
آرَحَ فِي الْأَمْرِ: مبالغہ کرنا الْعَجِيْنُ: بِنْدِي هِي آسِي كَا كِيِيْلَا كَرَامًا۔
رَزَحَ الرَّجُلُ: ذُحِيْلَا هُونَا۔ سِت هُونَا۔
مَرْدُ هُونَا۔
الرَّحِي نَزَمِي سِهُولَت۔
الرَّحُ اِيك خِيَالِي بَرِي جَانُوْر كَانَام۔ (وَ اَحَد) رَحَّةٌ شَطْرُ رَجَ كَيْ اِيك مَهْرِي سِي كَانَام۔ رَجَ رَحَاخٍ وَرَحِيَّةٌ۔
الرَّحَاخُ نَزَمَ گھاس۔ عَيْشُ رَحَاخٍ: آسودہ زندگی۔ رَحَاخُ الْعَيْشِ: زندگی کی فراخی و آسودگی۔ آرَضُ رَحَاخٍ نَزَمَ زِيْمِيْن۔
آرَضُ (رَحَاخٍ) نَزَمَ زِيْمِيْن رَجَ رَحَاخِيِي۔
الرَّحِيْتُ بَرِيْن رَجَ رَحُوْتُ (جَدِيْد) الرَّحُوْرُ وَالرَّحُوْرَاخُ پِتَلَا كَارَا۔
تَرَحَّشُ وَارْتَحَّشُ بَلَانَا مَضْرَبُ هُونَا۔
الرَّحِي شِي اَضْرَابُ حَرَكَت۔
رَحَصَ (ك) رَحَصًا الشِّي: سِتَا هُونَا۔ صفت (رَحِيصٌ رَحَاصَةٌ وَ رَحُوْصَةٌ) نَزَمَ وَ نَازَكُ هُونَا۔ صفت (رَحَصٌ وَرَحِيصٌ) مَوْثِقٌ رَحَاصَةٌ رَجَ رَحَاصِيصُ۔
رَحَصَ السِّعْرُ: بِنْدَا سِتَا كَرَامًا لَه كَثُرَا وَ فِي كَثُرَا: ممانعت کے بعد اجازت دینا۔
آرَحَصَهُ سِتَا كَرَامًا سِتَا پَانِيَا خَرِيْدَانَا۔
تَرَحَّصَ فِي الْأَمْرِ: کسی معاملہ میں

رخصت پر عمل کرنا فِي كَثُرَا اِبْجَازَت دِيَا جَانَا۔
فِي حَقِّهِ اِبْنِي حَقِّ مِي سِي سِي جُو مَمْكِن هُو وَ هِي لِيَا اُو رُوْرَانِي لِيَانَا۔
اِرْتَحَصَهُ سِتَا بَجَشَا يَا سِتَا خَرِيْدَانَا۔
اسْتَرَحَصَ الشِّي: سِتَا بَجَشَا۔
الرَّحِيصَةُ وَالرَّحِيصَةُ تَخْفِيْفُ آسَانِي۔ كَمَا جَانَا بِي "لَك فِي هَذَا الْأَمْرِ رَحِيصَةٌ" اَمُّ كُو اس معاملہ میں آسانی ہے۔ پینے کی باری۔
مَوْتٌ (رَحِيصٌ) طَلَدِي آسِي دَالِي مَوْت۔
رَحِيْنَان (ن) رَحِيْفًا وَرَحِيْفًا (س) رَحِيْفًا وَرَحِيْفًا (ك) رَحِيْفًا وَرَحِيْفًا وَرَحِيْفًا الْعَجِيْنُ: بِنْدِي هِي آسِي كَا كِيِيْلَا هُونَا۔
صفت (رَحِيْفٌ وَرَحِيْفٌ) آرَحِيْفُ الْعَجِيْنُ: بِنْدِي هِي آسِي كَا كِيِيْلَا كَرَامًا پَانِي بَرَحَا نَا۔
الرَّحِيْفُ وَالرَّحِيْفَةُ پِتَلَا كَمَصِن۔ كِيِيْلَا كِنْدَا هُو آتَانَا رَجَ رَحِيْفٍ۔
الرَّحِيْفَةُ وَالرَّحِيْفُ نَزَمَ وَ پِتَلَا بَقِيْر۔
الرَّحِيْلُ وَالرَّحِيْلُ وَالرَّحِيْلَةُ بَجِيْرُ كَا مَادِه بَجَشَ رَجَ آرَحِيْلُ وَرَحِيْلًا وَرَحِيْلًا وَرَحِيْلًا وَرَحِيْلَةً وَرَحِيْلَةً۔
الرَّحِيْلُ بَجَشَ بِيْمِيْر كَيْ مَادِه بَجَشَ وَ اِن الرَّحِيْلُ (ن) رَحِمًا وَرَحِمًا (ك) رَحَامَةً الصَّوْتُ اُو الْكَلَامُ: آوَارِيَا كَفْكَو كَا نَزَم هُونَا۔
صفت (رَحِيْمٌ) الْجَارِيَةُ: نَزَمَ كَفْكَو وَ اَلِي هُونَا۔ صفت (رَحِيْمَةٌ وَرَحِيْمٌ) رَحِمْتِ (ن) رَحِمًا وَرَحِمًا وَرَحْمَةً الدَّجَاجَةُ الْبَيْضُ وَ عَلِي الْبَيْضُ وَ (آرَحِمْتِ) عَلِي الْبَيْضُ: مَرِي كَا اَنْتِي سِتَا۔ صفت (رَاحِمٌ وَ مَرَّحِمٌ وَ مَرَّحِمَةٌ) رَحِمْتِ (ف) (ن) رَحِمًا وَرَحْمَةً وَرَحْمَةَ الْمَرْأَةِ وَ لَدَهَا: بِيْمِيْل كُو كَرَامًا لَا ذُو پِيَار كَرَامًا وَرَحْمَةً مَهْرِيَانِي كَرَامًا۔
رَحِمٌ رَحِمٌ مِي اِيك لَعْت هِي۔
رَحِمٌ تَرَحِيْمًا الشِّي: ذَم كَا ت دِيَانَا۔

اسی سے نحویوں کے نزدیک ترخیم منادی ہے۔
نرم آواز کر دینا۔ الذَّجَاجَةُ: مرفی کو انڈوں
پر بٹھانا۔

الرَّخِمُ: سگدھ۔ واحد (رَخِمَةٌ) ج
رُخْمٍ. نرمی و نچھت۔ گالھا دودھ۔

الرُّخَامُ: سگ مرمر۔ ایک ٹکڑے کو
(رُخَامَةٌ) کہتے ہیں۔

الرُّخَامِيُّ: نرم ہوا۔ ایک قسم کی نباتات۔

الأرْخِمُ: مِنَ الخَيْلِ: گھوڑا جس کا سر سفید
اور تمام بدن سیاہ ہو۔ مؤنث رُخْمَاءُ ج

رُخْمٍ.

التَّرْخُومُ وَالتَّرْخُومُ وَالتَّرْخُومُ: نرم گدھ۔

رَخِي (س) رَخَا وَرَخُوَةٌ وَرَخُو (ك)

رَخَاوَةٌ: نرم ہونا۔ آسان ہونا۔ آسودہ زندگی
والا ہونا صفت (رَخُوٌ وَرَخُوٌ وَرَخُوٌ)

رَخَا (ن) وَرَخِي (ف) وَرَخِي (س)

وَ رَخُو (ك) رَخَاءُ العَيْشِ: زندگی کا
آسودہ ہونا۔ صفت (رَاخٌ وَرَخِيٌّ)

رَاخَاهُ مُرَاخَاةً: دور کرنا۔ جیسے کہتے ہیں

”عَلَّتِ الفِرَارُ يَرَاخِي الأَجَلَ“ میرا خیال

تھا کہ گریز موت کو دور کر دے گا لاشیٰ:

نرم کرنا العُقْدَةُ: گرہ کھولنا۔ کہا جاتا ہے

”رَاخِي خَنَاقَهُ أَوْ رِيَاقَهُ“ یعنی اس نے اسے

مہلت دی۔ رَاخَتِ المَرَاةُ: بچہ جننے کے
قریب ہونا۔

أَرَخِي أَرخَاءً. الشَّيْءُ: نرم کرنا القَرَسُ

وَالقَرَسُ: گھوڑے کی رسی ڈھیلی کرنا۔ کہا

جاتا بِنَارِخِ لَهُ الحَبْلُ“ اس کی رسی ڈھیلی

کردو۔ یعنی اس کو کام کرنے کا موقع دو

السُّنْبُرُ: پردہ لگانا اور کہا جاتا ہے أَرخِي

عِمَامَتَهُ“ یعنی وہ مطمئن و مامون ہوا بیتہ:

جاوڑ کو آزادانہ چلنے دینا مَامُ النَاقَةِ: اونٹنی

کی لگام کو ڈھیلیا چھوڑنا۔

رَخِي الشَّيْءَ بالشَّيْءِ: ملانا۔

تَوَاحِي تَوَاحِيًا. عَنَهُ: دور ہونا۔ پیچھے ہٹنا۔

دیر کرنا۔ کہا جاتا ہے تَوَاحَتِ السَّمَاءُ“

یعنی بارش میں دیر ہوئی تَوَاحِي القَرَسُ:

گھوڑے کا دوڑنے میں سست ہونا۔ کہا جاتا ہے
”أَنَّ فِي الأَمْرِ تَوَاحِيًا“ معاملہ میں وسعت
و گنجائش ہے۔

أَرخِي وَأَسْرَخِي. نرم ہونا۔

أَسْرَخَتْ بِهِ حالَهُ: تنگی اور سختی کے بعد

اس کی حالت اچھی ہو گئی۔

الرُّخَاءُ: سرفراخی زندگی۔

الرُّخَاءُ: نرم ہونا۔

الأرْخِيَّةُ: ہر وہ چیز جو لٹکانی جائے۔ ج

أَرِخِي.

المِرْخَاءُ: تیز دوڑنے والا جانور۔ تَرَخَاخ

(مذکر و مؤنث دونوں کیلئے ہے) کہا جاتا ہے

”فَرَسٌ مِرْخَاءٌ وَأَنَا مِرْخَاءٌ“

رَدَّه (ن) رَدًّا وَ مَرَدًّا وَ مَرْدُوذًا وَ

رَدَّيْتَنِي. عَن كَذَا: پھیرنا۔ واپس کرنا۔

كُونَاذًا فَلَانًا: خطا کار ظہر انا لِيَاب: بھیڑ

دِيخَلِيهِ الشَّيْءُ: پھیر دینا۔ قبول نہ کرنا۔

إِلَيْهِ جَوَابًا: جواب بھیجنے والی بیتہ: لوٹا

دینا اور کہا جاتا ہے ”مَا يَرُدُّ هَذَا عَلَيْكَ

شَيْئًا“ یہ تم کو کچھ نفع نہیں دے گا لاشیٰ:

ایک حالت سے دوسری حالت پر کر دینا جیسے

”فَرَدَّ شَعُورَهُنَّ السُّودَ بَيْضًا“ ان کے

کالے بالوں کو سفید کر دیا۔ رَدَّ القَوْلُ

تَرَدَّدًا: بار بار دہرانا۔

رَدَّه القَوْلُ: بمعنی رَدَّ القَوْلُ (تشدید

کثرت کے لئے ہے)

رَادَهُ. الشَّيْءُ: واپس کر دینا فی الكلام:

بحث کرنا۔

أَرَدَّ. البَحْرُ: جوش میں اَلرَّجُلُ: غصہ

سے پھول جا اَلشَّاءُ: تھن والی ہونا۔ صفت

(مُردِّ)

تَرَدَّدَ: رو ہوئی الأَمْرُ: شک و شبہ میں پڑ

جائیہ: بار بار اَلتَرَادُ فِي الجَوَابِ:

زبان کا لڑکھڑانا۔

تَرَادًا البَيْعُ: بیع فسخ کرنے پر رضامند ہونا۔

تَرَادَ المَاءُ: روک کی وجہ سے پیچھے ہٹنا۔

أَرْتَدَّ الشَّيْءُ: واپس کرنا۔ واپس کرنے کو

کہنا عَلِيٌّ أَرْتَدَّهُ او عَن طَرَفِهِ: لوٹنا عَن
دِينِهِ: دین کو چھوڑنا۔ دین سے پھر جانا۔ عَن
هَيْبَةٍ: بہہ کو لوٹنا اِلَى الصَّوَابِ: صواب
کی جانب لوٹ جانا۔

أَسْرَدَّ. الشَّيْءُ: واپس کرنے کو کہنا

الشَّيْءُ: واپس جانا اِلَى هَيْبَةٍ: بہہ کو لوٹنا۔

الرَّدُّ: سب زبان کی لڑکھڑاہٹ۔ نباتات کی

کثرت۔ کہا جاتا ہے ”صَيْغَةُ كَثِيرَةُ الرَّدِّ“

بہت نباتات والی جائیداد اِسْتَشِي رَدُّ رَدِي چیز۔

أَمْرٌ رَدٌّ: مخالف سنت کام۔ دَرَّهْمٌ رَدٌّ:

کھونا درہم۔ کہا جاتا ہے ”لَا تَغْطِي مِنَ

رُدُودِ الدَّرَاهِمِ“ مجھے کھوئے درہم تم دو۔

الرَّدُّ: چیز کا سہارا۔

الرَّدِيُّ: طلاق دی ہوئی عورت۔

الرَّدَّةُ: رد کا اسم مرہ۔ کچھ جمال کے ساتھ

زشت روئی۔ کہا جاتا ہے فِي وَجْهِهِ رَدَّةٌ“

اس کے چہرہ میں کچھ جمال کے ساتھ بد صورتی

ہے۔

الرَّدَّةُ: ارتداد کا اسم۔ ٹھوڑی کا پچکنا۔ پہاڑ کی

گوٹ۔ بچہ جننے سے پہلے تھن کا بھرنا۔ کہا جاتا

ہے ”شَرِبَتِ الأَيْلُ رَدَّةً“ اونٹ نے

دوسری بار پالی پیا۔

الرَّدَادُ وَالرَّدَادُ: واپسی۔

الرَّدِيدُ: بادل جو برس چکا ہو۔

التَّرْدَادُ: رو۔ ٹکرا۔

الأَرْدُ: نافع تر۔

الرَّادَةُ وَالمَرْدَةُ: فائدہ۔ کہا جاتا ہے

”إِلَّا رَادَةً أَوْ لَمَرْدَةً فِيهِ“ اس میں کوئی فائدہ

نہیں۔

المُرْدُ: فَا مدت تک سفر میں رہنے والا یا

زمانہ دراز تک بغیر بیوی کے رہنے والا۔

غَضَبًا: سوجے ہوئے تھنوں والی اونٹنی۔

اونٹ جس نے پالی بہت پیا ہو۔ تَرَادُ.

المُرْدُ: مِنَ الرِّجَالِ: بہت روڑنے والا۔

بہت حملہ کرنے والا۔

المُرْدُودُ: زمانہ دراز تک بغیر بیوی کے

رہنے والا یا مدت تک سفر میں رہنے والا۔

المَرْدُوذَةُ مردود کا مؤنث۔ استرا۔
المَرْدُودُ جبران و سرگشتہ۔

رَدَا (ف) رَدَاً الحَايِطُ دیوار کو ٹیک لگانا۔

الرَّجُلُ مدد کرنا۔ رَدَاَهُ بِحَجَرٍ پتھر مارنا۔

رَدُوْ (ك) رَدَاةٌ روى ہونا۔ صفت (ردی) ج آردیاء و آردنا۔

أَرَدَأُ بُرَاكًا كَرِنَا بِرِي كِبْرٍ بِجَنَابٍ ه: خراب کرنا۔ بگاڑنا البسْتُ: لگانا الحَايِطُ: دیوار کو

تھم لگانا فَلَانًا: تسکین دینا۔ برقرار رکھنا ہ علی مَانِيَةً بِيَادِهِ كَرِنَا: بڑھانا۔

تَرَادَأُ القَوْمُ باہم مدد کرنا۔ الرَّدِيُّ مددگار۔ مدد۔ ایک جانب کا بیماری

بوجھ جو جانور پر لادیں۔ ج آرزاء۔ تَرَدِيَةٌ نرمی سے پیش آنا۔

الرَّدْبُ راستہ جس کا آخری سرا بند ہو۔ الإزْدَبُ جو میں صاع کا ایک بڑا پیانا۔ سطح

زمین پر بے والی۔ ج آرادب۔ الإزْدِيْبَةُ جو بچہ۔ بڑی امنٹ۔

رَدَح (ف) رَدَحًا ثابت قدم رہنا۔ الشَّيْ بُرْمِيْنُ پر پھیلا کر رابر کرنا۔ (وَأَزْدَح)

البَيْتُ بگاڑنا کا حال لینا۔ رَدَحَ الشَّيْ بُرْمِيْنُ پر پھیلا کر ہموار کرنا۔

الرَّدْحُ س بگاڑنا۔ الرَّدْحُ لمی مدت کہا جاتا ہے "أَقَامَ رَدْحًا

مِنَ الذَّهْرِ" اس نے زمانہ دراز تک اقامت کی۔

الرَّدَا ح بہت بڑا لشکر۔ تاریکی بڑا درخت۔ بڑا پیالہ مِّنَ الكِبَاشِ: بڑی چکل والا دنبہ۔

ج رُدْح الرُّدْحَةُ خیمہ کے پچھلے حصہ کا پردہ۔ کشادگی

رُوحَةُ الصَّانِدِ: پتھر جن کو شکاری اپنے گھر کے ارد گرد کھڑا کر لے۔

الرُّوَا حَةُ والرِّوَا حَةُ بچو کے شکار کے لئے مکان۔

رَدَح (ف) رَدَحًا رَدَاً سر توڑنا۔

رَدَس (ن ض) رَدَسًا القَوْمُ: پتھر مارنا الحَايِطُ: گرانٹا، ڈھانا الرَّجُلُ: ڈھیل کرنا

الأَرْضُ: ہموار کرنا بالشَّيْ: لے جانا الحَجَرُ بِالْحَجَرِ: پتھر سے پتھر توڑنا۔

رَادَسَهُ اِيكٌ دَوْسَرٌ پَرِ پتھر پھینکنا۔ تَرَدَسَ مِّنْ مَّكَانِهِ: گرانٹا۔ المَرْدُوسُ

والمَرْدُوسُ: پتھر توڑنے کا آلہ۔ سر۔ پتھر جو کتو میں پانی معلوم کرنے کیلئے ڈالا جائے۔

رَجُلٌ (رَدُوْسٌ وِرْدُوْسٌ) بہت دفع کرنے والا۔

رَدَع (ل ف) رَدَعًا عَنِ كَذَا: بروکنا، ہٹانا ہ بالشَّيْ: لتھیرنا۔ کہا جاتا ہے "أَخَذَهُ

فَرَدَعٌ بِه الأَرْضُ" اس نے لے کر زمین پر پٹک دیا۔

السَّهْمُ: تیر کے پھل کو بیٹھ جانے کیلئے زمین پر مارنا المَرْأَةُ: جماع کرنا۔

رَدَعٌ رَدَعَةٌ: خاموش ہونا اور چہرے کا رنگ زرد پڑ جانا۔ رَدَعٌ بِه: بچھاڑ جانا۔

رَدَعَهُ بِالزُّعْفَرَانِ بزعفران میں لت پت کرنا۔

تَرَدَعٌ لت پت ہونا۔ تَرَادَعُ القَوْمُ: ایک دوسرے کو باز رکھنا۔

أَرَدَعُ بَارِزًا بِهِنَا بِالطَّيْبِ: خوشبو سے لت پت ہونا السَّهْمُ: تیر کا نشانہ پر لگ کر ٹوٹنا۔

الرَّدْعُ س گردن۔ زعفران۔ جسم میں خوشبو کا اثر۔ کہا جاتا ہے "رَكِبَ فَلَانٌ

رَدْعَهُ" جبکہ روکا جائے اور وہ نہ رکے۔ و "رَكِبَ البَعِيْرُ رَدْعَهُ" جبکہ وہ گر جائے اور

اس کی گردن اس کے جوف میں داخل ہو جائے۔

قَمِيصٌ (رَادِع) قمیص جس میں خوشبو کا اثر ہو۔

الرِّدَا ع کچھڑ پانی۔ الرِّدَا ع جسم میں خوشبو کا اثر۔ مرض کی

واپس۔ الرَّدِيْعُ بچھاڑا ہوا۔ ثَوْبٌ رَدِيْعٌ بزعفران سے رنگا ہوا کپڑا۔ سَهْمٌ (رَدِيْعٌ و مَرْدَعٌ)

تیر جس کا پھل گر گیا ہو۔

المَرْدَعُ: محروم واپس آنے والا۔ کابل۔ پستہ قدر۔ خوشبو کے اثر والا۔

رَدَعْتُ (ف) رَدَعًا السَّمَاءُ: تھوڑی بارش برسانا۔ رَدَعٌ بِه الأَرْضُ: پٹک دینا۔

أَرَدَعُ المَكَانُ: بہت کچھڑ والی ہونا۔ صفت (رَدَعٌ)

أَرْتَدَعُ کچھڑ میں پڑنا۔ الرَّدْعُ والرِّدَا ع: کچھڑ۔ گارا۔

الرَّدْعَةُ والرِّدَا عَةُ: سخت کچھڑ۔ ج رَدَعٌ رَدَعٌ وِرْدَا عٌ وِرْدَا عَاتٌ مَاءٌ رَدَعَةٌ:

کچھڑ ملا ہو پالی۔ الرَّدِيْعُ بچھاڑا ہوا۔ یو توف۔

المَرْدَعَةُ: گلے اور ہنسی کی ہڈی کے درمیان کا حصہ۔ عمدہ پر رونق باغ۔ ج مَرَادِعٌ.

رَدَف (ف) وِرْدَفٌ لَد (س) رَدَفًا: پیچھے ہونا۔ رَدَفٌ وِرْدَفٌ لَه: پیچھے سوار ہونا۔

رَدِيْفٌ بِنَا۔ رَدَفُ الأَمْرِ القَوْمُ: پیش آنا۔ رَادَفَهُ رَدِيْفٌ بِنَا۔ کہا جاتا ہے "دَابَّةٌ لَا

تُرَادِفُ" جانور جو رَدِيْفٌ نہیں سوار کرتا۔ أَرْدَفَ بِيه دَرِيْعٌ ہونا ہ: اپنے پیچھے سوار

کرنا۔ کہا جاتا ہے "دَابَّةٌ لَا تُرْدَفُ" جانور جو رَدِيْفٌ کو نہیں سوار کرتا۔ أَرْدَفَ الشَّيْ و

بِالشَّيْ و عَدِيْبِهِ: کسی چیز کے پیچھے کسی چیز کو کرنا۔ تم کہتے ہو "أَرْدَفْتُ خَيْلًا عَلٰی خَيْلِ

لِي" میں نے اپنے گھوڑے کے پیچھے ایک گھوڑے کو کر لیا۔ أَرْدَفَ لَه: پیچھے آنا الأَمْرُ

القَوْمُ: پیش آنا۔ تَرَادَفًا: ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ ایک

دوسرے کے پیچھے ہونا۔ ایک کا دوسرے کا پیچھے سوار ہونا۔ تَرَادَفَتِ الكَلِمَاتُ: کلمات کا

ہم معنی ہونا۔ أَرْتَدَفَهُ: پیچھے ہونا۔ أَرْتَدَفَ العَدُوُّ: دشمن کو پیچھے سے پکڑنا ہ: اپنے پیچھے سوار

کرنا۔ تَرَدَفَهُ: پیچھے سوار ہونا۔

أَسْتَرَدَفَهُ: پیچھے سوار کرنے کی درخواست

کرنا۔

الرِدْفُ: پیچھے سوار ہونے والا۔ جیروی کرنے والا۔ کام کا نتیجہ۔ ہر چیز کا آخر فی الجاہلیۃ: زمانہ جاہلیت میں بادشاہ کا ہم نشین جو بادشاہ کی داہنی جانب بیٹھتا تھا اور تمام کاموں میں بادشاہ کا ہم نشین سمجھا جاتا تھا اور اگر بادشاہ جنگ میں چلا گیا کرتا تھا تو وہ بادشاہ کی قائم مقامی کرتا تھا اور جب فوج واپس آتی تھی تو مال غنیمت کی چوتھی وصول کیا کرتا تھا۔ ج اِدْفُ الرِدْفُ: نرواق ستارہ کے قریب ایک ستارہ کا نام۔ الرِدْفَانُ: رات دن۔

الرِدْفُ والرِدْفَانُ: جانور کا چوڑ۔

الرِدْفِيفُ: سوار کے پیچھے سوار ہونے والا۔ ج رِدْفِيفُ وِرْدَفَاءُ: نرواق ستارہ کے قریب ایک ستارہ کا نام۔ والرِدْفِيفُ فِي اصطلاح الخنْدِيفِ: وہ فوجی جو آزاد کر دیا جائے اور ضرورت کے وقت بلا لیا جائے۔

الرِدْفِيفَةُ والرِدْفِيفُ: رِوَادِفُ کا واحد ہے اور رِوَادِفُ درخت خرما کے اس پودے کو کہتے ہیں جو درخت خرما ہی پر لگ جائے اور اس کی جڑ زمین میں نہ ہو۔ کوہان کے پیچھے حصہ میں تہ بتہ چربی۔ اگر اگلے حصہ میں ہو تو اس کو رِوَاكِبُ کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے "إِنَّ جَزْوَرَهُمْ لَذَاتُ رِوَاكِبٍ وَرِوَادِفٍ" الرِوَادِفُ: سرین۔ پیچھے رہنے والی قوم۔ الرِوَادِفَةُ: بادشاہ کی قائم مقامی۔

الرِدْفَانِي: مددگار لوگ۔ کہا جاتا ہے "جَاءُوا رِدْفَانِي" وہ لوگ آگے پیچھے آئے۔ رِوَادِفَةُ: آراستہ کرنا۔ خوبصورت بنانا۔ الرِوَادِفُ: خوش شکل لڑکا۔ مونت رِوَادِفَةُ رِدْمُ (ن) رِدْمًا: الثَّلْمَةُ او البَابُ: رخسہ یا دروازہ بند کرنا۔ القَوْسُ: کمان کو کھینچ کر آواز نکالنا۔ العَجِيرُ: چھوٹا۔

رِدْمُ (ن) رِدْمًا: الشَّيْءُ: بہنا۔ السَّحَابُ: ہمیشہ گھرا رہنا۔ الحمِي: ہمیشہ بخار رہنا۔ الشَّجَرَةُ: خشک ہونے کے بعد سبز ہونا۔

رِدْمُ الشَّيْءِ: کسی چیز کے ایک حصہ کو دوسرے کے ساتھ جوڑا جانا۔

أَرْدَمَ: السَّحَابُ: ہمیشہ گھرا رہنا۔ الحمِي عَلَيَّه: ہمیشہ بخار رہنا۔

رِدْمُ النَّوْبِ: بیوند لگانا۔ النَّاقَةُ عَلِي وَلَدَهَا: اونٹنی کا اپنے بچے پر مہربان ہونا۔ تَرْدَمُ نَوْبَه: کپڑے میں بیوند لگانا۔ النَّوْبُ: کپڑے کا بوسیدہ پورا ہونا۔

الْخُصْمَةُ: جھگڑے کا طویل ہونا: ہ درپے ہو کر حقیقت معلوم کرنا۔ النَّاقَةُ عَلِي وَلَدَهَا: اونٹنی کا اپنے بچے پر مہربان ہونا۔ الْقَوْمُ الْأَرْضُ: زمین کی پیداوار کو بار بار کھانا۔ الرِدْمُ: سربو بار کا ملہ۔ کمان کی آواز۔

(وَالرِدْمُ وَالْمَرْدَامُ) ہر وہ چیز جو بے نفع ہو۔

الرِدْمُ: رخسہ کی بندش۔ ج رِدْمُومُ الرِدْمِيفُ: مِنَ النِّيَابِ: برانا پھڑ۔ ج رِدْمُومُ الْأَرْدَمُ: ماہر ملاح۔ ج الْأَرْدَمُونُ.

نَوْبُ (مُرْدَمٌ وَ مُرْتَدَمٌ) پرانا کپڑا بیوند لگا ہوا۔

الْمُرْتَدَمُ: بیوند لگائی ہوئی جگہ۔ زمانہ جاہلیت کے شاعر عتیرہ کے قول "هَلْ غَادَرَ الشُّعْرَاءُ مِنْ مُرْتَدَمٍ" کا مطلب یہ ہے کہ پہلے شعراء نے کیا کوئی جگہ بیوند لگانے کی باقی چھوڑی ہے یعنی سب کچھ کہ گئے ہیں اب کسی شاعر کے لئے کوئی چیز باقی نہیں رہی کہ اس پر کچھ کہہ سکے۔

رِدْنٌ (ض) رِدْنًا: الاشْيَاءُ: تہ تہ رکھنا۔ المِرَاةُ: نکلے پر کاٹا ناز۔ آگ سلگانا۔ رِدْنٌ (س) رِدْنًا: الجِلْدُ: سکرنا۔ رِدْنٌ وَارْدَنُ: القَمِيصُ: آستین لگانا۔ أَرْدَنْتُ الحمِي: بخار کا مدت تک رہنا۔ أَرْتَدَنْتُ المِرَاةُ: نکلنا بنانا۔

الرِدْنُ: آستین کی جز۔ آستین کا کشادہ کنارہ۔ عرب اسی میں در اہم و دنیا تیز رکھا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے محاورہ ہو گیا

"تَقَلَّ رِدْنَهُ" یعنی وہ نالدار ہو گیا۔ ج اِرْدَانُ

الرِدْنُ: سہ تھپار کی جھنکار۔

الرِدْنُ: سوت۔ ریشم۔ ج اِرْدَانُ.

الرَادِنُ: فَا. زعفران۔

احمر (رَادِنِي) سرخ جس میں زردی ملی ہو۔

الارْدِنُ: ایک قسم کا سرخ رنگ کاریشم۔

الرِدْنِي: نیزہ۔ روینہ نامی عورت کی جانب منسوب جو عمدہ نیزہ بنانے میں مشہور تھی۔

المِرْدَنُ: نکلنا۔

المِرْدَنُ: تاریک۔ اندھیرے والا۔ عرق مُرْدَنُ: بدبودار پسینہ۔

خَيْطُ (مِرْدُونٌ) ملایا ہوا ہاگ۔

رِدَّةُ (ف) رِدْدًا: فُلَانًا بِحَجْرٍ: سنگسار کرنا۔ البَيْتُ: بڑا مکان بنانا۔

رِدَّةُ الرَّجُلِ: شجاعت یا سخاوت وغیرہ کی وجہ سے سردار قوم بننا۔

الرِدْهَةُ: پہاڑ یا چٹان کا گڑھا جس میں بارش کا پانی جمع ہو جائے سب سے بڑا گھر۔ گھر کی سب سے کشادہ جگہ۔ ج رِدَّةُ وَرِوَاهُ وَرِدَّةُ.

رِدْيٌ (ض) رِدْيًا وَرِدْيَانًا: الشَّيْءُ: تُوْرَتًا: دھکا دینا۔ بِحَجْرٍ: پتھر مارنا۔ الفَرَسُ: گھوڑے کا اچھلتے ہوئے دوڑنا۔

الجَارِيَةُ: لڑکی کا ایک پاؤں اٹھا کر دوسرے پاؤں سے اچھلتے ہوئے چلنا۔ فِلَانٌ: جانا۔ تم کہتے ہو "مَا أَدْرِي أَيْنَ رِدْيِي" میں نہیں جانتا کہاں گیا فی البئر: کنوئیں میں گرنا۔ فِلَانٌ: بلند پہاڑ سے گرنا۔ عَلِيَّ الحَمْسِيْنَ مِنْ عُمُرِهِ: زائد ہونا۔

رِدْيٌ (س) رِدْيًا: ہلاک ہونا۔ گرنا۔

رِدْيٌ: الرَّجُلُ: ہلاک کرنا۔ چادر اڑھانا۔

ہ فی البئر: کنوئیں میں گرنا۔ مَالَةٌ: زیادہ ہونا۔ عَلِيَّ الحَمْسِيْنَ: زائد ہونا۔ الفَرَسُ: کھانا۔

رَادِي مَرَادًا: الرَّجُلُ: پھسلنا۔ نرمی برتنا۔ عَنِ الْقَوْمِ: کسی قوم کی جانب سے دوسروں پر پتھر اڑھانا۔

تَرْدِي: چادر اڑھانا۔ تَرْدِي فِي البئر:

کنوئیس میں گرنا۔

إِرْتَدَى. چادر اوڑھنا۔ گلے میں تلوار لگانا۔
إِرْتَدَتْ الْجَارِيَةُ: لڑکی کا ایک پاؤں اٹھا کر
دوسرے پاؤں سے اچکتے ہوئے چلنا۔

الرِّدَاءُ. چادر۔ عبا یا جبہ کی مانند اوپر کی
پوشش۔ جمیل۔ تلوار۔ کمان۔ عقل۔ نادانی۔
باعث زینت۔ باعث عیب۔ رِدَاءُ الشَّبَابِ:
الشَّبَابِ: جوانی کی رونق۔ رِدَاءُ الشَّمْسِ:
آفتاب کی روشنی۔ کہا جاتا ہے "هُوَ غَمْرُ
الرِّدَاءِ" وہ فیاض اور بھلائی کرنے والا ہے و
"خَفِيفُ الرِّدَاءِ" وہ کم مقروض اور کم عیال
والا ہے۔ جِ رِذِيَّةٌ.

الرِّدَاءَةُ. بڑی چادر۔

الرِّدَاةُ. چٹان۔ چرڈی۔

الرِّدْيُ. ہلاک ہونے والا۔

المِرْدَاةُ. لڑائی کا پکڑ۔ اور اسی سے ہے
"طَحَنَتْهُ مِرْوَاةٌ طَحُونٌ" لڑائی کے پکڑ
نے اُسے ہیں کر رکھ دیا (والمِرْدَاةُ) بڑی
چادر۔ ازار۔ پتھر توڑنے کا پتھر۔ جِ مِرَادِي:
المِرَادِي: گھوڑے یا اونٹ کی ٹانگیں زمین پر
پاؤں کو ٹپکنے والا گھوڑا۔ المِرَادِي: ہاتھی۔
رَدَّتْ (ن) رَدَاذًا وَأَرَدَّتْ. السَّمَاءُ:
پھوار برساتا۔ وَأَرَدَّتْ الْقِرْبَةَ: بہہ پڑنا۔

الرِّدَاذُ. پھوار۔

رَذُلٌ (ك) رَذِيلٌ (س) رَذَالَةٌ. قابل
حقارت ہونا۔ قبیح ہونا۔ صفت (رَذُلٌ) جِ
أَرْدَالٌ وَ رُدَالٌ وَ رُدُولٌ وَ رُدْلُونٌ
(رَذِيلٌ) جِ رَذَلَاءٌ وَ رِدَالٌ.
رَذَلَةٌ (ن) رَذَلًا وَ أَرَذَلَهُ. حقیر کرنا۔
ناپسند کرنا۔ حقیر سمجھنا۔

أَرَذَلَ. بُرَاكًا مَرَاكِمًا كَسِيْنًا كَمَا سَاحَى هُونَا ه:
حقیر کرنا۔ ناپسند کرنا۔ حقیر سمجھنا۔

الدَّرَاهِمُ: کھونے کر کے واپس کرنا۔

إِسْتَرَذَلَهُ. حقیر سمجھنا۔

الرِّذَالُ. حقیر و کمینہ (و الرِّذَالَةُ) چیز کا
رذی حصہ۔ رِذَالَةٌ كَمَلٌ شَيْءٌ: ہر چیز کا گھٹیا۔
الرِّذِيْلَةُ. نالائقی۔ بُرِي عَادَتٌ. جِ رَذَائِلُ.

الْأَرْدَلُ. اسم تفضیل۔ گھٹیا۔ رذی۔ جِ
أَرَادِلٌ وَأَرْدَلُونَ.

المِرْدَلُ. رذیل ساتھیوں والا یا حقیر جانور
والا۔

رَذَمٌ (ن ض) رَذَمًا وَ رَذَمَانًا وَ رَذَمٌ
(س) رَذَمًا وَأَرَذَمَ. الإنَاءُ: لباب ہو کر
بہنا۔ صفت (رَذَمٌ) وَأَرَذَمَ عَلِيٌّ
الْخَمْسِينَ مِنْ عُمَرَ: زائد ہونا۔

الرِّذَمُ وَ الرِّذَمَانُ. مِنَ النَّاسِ: متفرق
جماعت۔ کہا جاتا ہے "رَأَيْتُ رَذَمًا مِنَ
النَّاسِ" میں نے لوگوں کی متفرق جماعت
دیکھی۔ "وَ كَانَ فِي رَذَمَانٍ مِنَ النَّاسِ" وہ
ایسی جماعت میں تھا جس کے افراد بہت نہیں
تھے۔

الرِّذَامُ وَ الرِّذَمُ. کمزور جس میں مروت نہ ہو۔
الرِّذُومُ. سببے والا۔ لباب پیالہ جس میں سے
گرے۔ جِ رَذَمٌ وَ رَذَمٌ.

الرِّزْمَةُ: التَّوَافِقِيَّةُ (علم هندسہ): چار
سیدھے نقاط جو ایک موافق تقسیم نقطہ پر پینچے۔
أَلَّا تَوَافِقِيَّةً: پہلی قسم کی ضد۔

رِذِيٌّ (س) رِذَاوَةٌ وَأَرِذِيٌّ. بیماری سے
نڈھال ہونا۔ صفت (رِذِيٌّ) رِذَاةٌ. مؤنث
رِذِيَّةٌ.

أَرِذَاهُ. نڈھال کر دینا۔ پھینک دینا۔ صفت
مفعولی (مُرِذِيٌّ)

الرِّوَذِيُّ. بیماری سے نڈھال۔ کمزور۔ لاغر۔
رِزَّتْ (ن ض) رِزًّا. الجِرَادَةُ: مڈی کا
انڈے دینے کیلئے ڈم کو زمین میں چھبونا۔

السَّمَاءُ: گر جانا۔ ہ: نیزہ مارنا البَابُ: دروازہ
میں کنڈی لگانا۔ السَّهْمُ فِي الْحَائِطِ: تیر کو
دیوار میں گاڑنا۔

أَرِزْتُ. الجِرَادَةُ: مڈی کا انڈے دینے کے
لئے ڈم کو زمین میں چھبونا۔

رِزَّزُ. الرِّوَذِيُّ: کاغذ کو چبنا کرنا الامر: کسی
معاہدہ کو درست کرنا۔

إِرْتَزَأَ. السَّهْمُ فِي الْحَائِطِ: تیر کو دیوار میں
گاڑ جانا۔ البَحِيْلُ عِنْدَ الْمَسْتَلَةِ: بخیل کا

سوال کے وقت بخل کرنا۔

الرِّوَزُ. چاول (أَرَزٌ میں ایک لغت ہے)

الرِّوَزُ وَ الرِّوَزِيَّةُ. دور کی آواز۔ پیٹ کی
گڑ گڑاہٹ۔ بادل کی گرج۔ آواز۔

الرِّوَزَةُ. زنجیر کا حلقہ جس میں تالا لگایا جاتا
ہے۔ کنڈا جس کو دیوار یا زمین میں گھوزا وغیرہ
باندھنے کے لئے ٹھونکتے ہیں۔ جِ رِزَاذٌ
وَرِزَاةٌ وَ رِزَزٌ.

الرِّوَزَةُ. پیڑ میں ایک قسم کا درد۔

الرِّوَزَاذُ. سیسہ۔

الرِّوَزَاذُ. چاول کا سوداگر۔

الرِّوَزِيَّةُ. ٹپکی۔ نیزہ کا گھٹنا۔ چھوٹے اگلے۔
لبی آواز والا۔

الرِّوَزِيَّةُ. ایک قسم کی نباتات جو رنگنے کے کام
میں آتی ہے۔ رِزِيْزَةُ الرِّوَعْدِ: گرج کی آواز۔

المُرْوَزُ. مِنَ الطَّعَامِ: چاول سے تیار کیا ہوا
کھانا۔

المُرْوَزَةُ. چاول اگنے کی جگہ یا وہ جگہ جہاں
چاول جمع کئے جائیں یا جہاں چاول بہت ہوں۔

رِزًّا (ف) رِزًّا وَ رِزًّا وَ مِرْوَزَةٌ. الرِّجْلُ
مَالِهٌ: کچھ حاصل کرنا۔ کم کرنا۔ کہا جاتا ہے
"هُوَ يُوَزُّ" یعنی وہ سخی ہے لوگ اس کے فضل

کو حاصل کرتے ہیں وَ رِزِيٌّ (س) رِزًّا وَ
إِرْتِزَاءُ. الرِّجْلُ: بھلائی حاصل کرنا۔

إِرْتِزَاءُ الشَّيْءِ: کم کرنا۔ وَ إِرْتِزَاءُ الشَّيْءِ: کم
ہونا۔

الرِّوَزَاءُ. جِ أَرِزَاءٌ وَ (الرِّوَزِيَّةُ وَ الرِّوَزِيَّةُ)
جِ رِزَايَا: بڑی مصیبت۔

المُرْوَزَاءُ. فِياض سخی۔ جِ مِرْوَزُوْنٌ.

والمُرْوَزُوْنُ: قوم جس کے منتخب لوگ مر
گئے ہوں۔

المُرْوَزَةُ. بڑی مصیبت۔

رِزِيَّةٌ (ن) رِزِيَّةٌ. چھپے رہنا۔

الرِّوَزْبُ. چھبونا۔ بڑے ذیل ڈول والا۔

المِرْوَزِيَّةُ وَ المِرْوَزِيَّةُ. اوبہ کی سلاخ۔ اوبار
کا جھوز۔ جِ مِرْوَازِبُ.

المِرْوَابُ. پرنا۔ بڑی یا لمبی کشتی۔ جِ

رَزْمٌ: النَّيَابُ: کپڑوں کا گھڑی میں باندھنا۔
القَوْمُ: کسی جگہ میں چمت کر رہنا۔
رَأَزَمَ: بَيْنَهُمَا: جمع کرنا فی المطاعم:
بدل بدل کر کھانا کھانا الدار: دو ریکر رہنا۔

أَزَزَمَ: الرِّعْدُ: سخت گرجنا۔ أَرَزَمْتَ
النَّاقَةَ: بَحْجَ كَيْلِے آواز نکالنا۔ کہا جاتا ہے "لَا
أَفْعَلُهُ مَا أَرَزَمْتَ أُمَّ حَائِلٍ" میں اس کام کو
جب تک اونٹنی آواز نکالتی رہے گی نہیں
کروں گا۔

أَرَزَمَ إِرْزِيْمًا: غضبناک ہونا۔

الرِّزْمَةُ: دن میں ایک مرتبہ کھانا۔

الرِّزْمَةُ: مِنَ النَّيَابِ وَغَيْرِهَا: گھڑی۔ ج
رَزْمٌ۔

الرِّزْمَةُ: بَحْجَ كَيْلِے آواز۔ تیر آواز۔ بچ پر مہربان
ہونے کے وقت بغیر منہ کھولے ہوئے صرف
حلق سے نکلنے والی اونٹنی کی آواز اور اسی سے
مثال ہے "لَا خَيْرَ فِي رِزْمَةٍ لَا إِدْرَةَ فِيهَا"
اس اونٹنی کی آواز سے کوئی فائدہ نہیں جس
سے دودھ حاصل نہ ہو۔ اس شخص کے حق میں
بولتے ہیں جو وعدہ کرے اور پورا نہ کرے یا اس
کے حق میں جو چالو سی کرے اور کوئی فائدہ نہ
پہنچائے۔

غَيْثٌ (رِزْمٌ) وہ بارش جس میں بادل کی گرج
ختم نہ ہو۔

الرِّزَامُ: سخت مرد۔ ج رُزْمٌ۔

أَسَدٌ (رِزَامَةٌ وَرِزَامٌ) اپنے شکار پر چڑھ بیٹھنے
والا شیر۔

الرِّزِيمُ: شیر کی گونج۔

الرِّزَامُ وَالمُرْمُ: اپنے شکار پر پکر لگانے
والا اور غرانے والا شیر۔ کہا جاتا ہے "تَرَسْتُهُ
بِالمُرْمِ"
المُرْمُ: گھڑی باندھنے کی چیز جیسے رسی۔
أُمُّ المُرْمِ: بادشاہی یا مطلقا ہوا۔

المُرْمَانُ: دو ستارے جو دونوں شعرئی کے
ساتھ ہوتے ہیں اور ان دونوں کو منجوس سمجھا
کرتے تھے اور کہا کرتے تھے "لَا خَيْرَ فِي
الزَّمانِ مَا طَلَعَ المُرْمَانُ" یعنی اس زمانہ

إِلَيْهِ: آگے بڑھنا الجمَلُ: اونٹ کا بلبلانا۔
دورنما۔ رَزْفُ الأَمْرِ: قریب ہونا۔ أَرَزَفَ
النَّاقَةَ: دُلْکِنِ چلانا۔ أَرَزَفَ القَوْمَ: جندی
سے شکست وغیرہ میں پھنسانا۔

نَاقَةٌ (رِزْوَفٌ) کشادہ قدم، تیز رفتار اونٹنی۔
رِزَافَاتُ: البَلْدُ: شہر کے قریب کی
جگہیں۔

رِزْقَانٌ (رِزْقًا) روزی پیمانہ۔ کہا جاتا ہے
"رِزْقُهُ اللد الغنی" اللہ سے تو انگری دے۔
رِزْقٌ: روزی پیمانہ۔ خوش نصیب ہونا۔

أَرَزَقَهُ: روزی مانگنا الجُنْدُ: روزی لینا۔

أَسْتَرِزَقَهُ: روزی مانگنا۔

الرِّزْقُ: روزی۔ ج أَرَزَقَ: بارش۔

الرِّزْقُ الحَسَنُ: بغیر منت و مشقت کے
حاصل ہونے والی روزی (والرِّزْقَةُ) ج
رِزَقَاتُ: سپاہیوں کی رسد۔ کہا جاتا ہے
"أَخَذْتُ رِزْقَةَ: هذا الشَّهْرِ او هذا
العام" میں نے اس مہینے یا اس سال کی رسد
لے لی۔

الرِّزَاقِيُّ: کزور۔ ایک قسم کا لمبا سفید انگور۔
شراب۔

الرِّزَاقِيَّةُ: کتاں کے سفید کپڑے۔ شراب۔
الرِّزَاقُ: روزی دینے والا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء
حسنى میں سے ہے (صرف باری تعالیٰ پر اطلاق
ہوتا ہے)

المُرْتَقِ: تنہا جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔
المُرْتَقَةُ: وہ لوگ جنہوں نے اپنی رسد
حاصل کر لی ہو۔

المُرْمُزُوقُ: خوش نصیب۔

رَزْمٌ (ن) رِزْمًا: الشَّيْءُ: جمع کر کے
باندھنا بالشَّيْءِ: پکڑنا علی عَدْوَةٍ: دشمن پر
غالب ہونا اور چڑھ بیٹھنا الرِّجْلُ: مرنا الأُمُّ
بہ: چننا۔

رِزْمٌ (ض ن) رِزْوَمَا وَرِزْمًا: البعيرُ.
اونٹ کا لاغری کی وجہ سے اٹھ نہ سکا۔ صفت
(رِزْمٌ) ج رِزَامٌ (رِزْمَةٌ) الشَّيْءُ: سرد
ہوتا۔

مِرْزَابٌ: فارسیوں کا ریکس۔ ج مِرْزَابَةٌ و
(المِرْزَابَةُ) فارسیوں کی سرداری۔

رِزْحٌ (ف) رِزْحًا وَرِزْوَحًا وَرِزْحًا:
الجمَلُ: لاغری یا ٹھکن کی وجہ سے گر جانا۔
صفت (رِزْحٌ) ج رِزْحُ الرِّجْلِ: کزوری
کی وجہ سے ہاتھ کی چیز چھوٹ جانا الرِّجْلُ
بالرِّمُوحِ: نیزہ مارنا (وَأَرِزْحُ) العنب:
گرے ہوئے انگور اٹھانا رِزْحَتْ
وَتَرِزْحَتْ) حالہ بُر حال ہونا۔

رِزْحٌ: النَّاقَةُ: اونٹنی کو لاغر کرنا۔

أَبِلٌ (رِزْحًا) وَرِزْحًا وَرِزْحًا وَرِزْحًا
لاغر و کزور اونٹ۔

المِرْمُزُحُ: ہموار زمین۔

المِرْمُزُحُ وَالمِرْمُزْحَةُ: انگور کی تیل کو زمین
سے اٹھانے کیلئے لکڑی۔ ج سِرَازِحُ:
المِرْمُزُحُ: آواز۔

المِرْمُزُحُ: مِنَ الأَبِلِ: بہت ہی لاغر اونٹ
جو بولنے کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو۔ ج مِرْمُزِيحُ:
رِزْحَةُ (ف) رِزْحًا: بالرِّمُوحِ: نیزہ
چھبونا۔

الرِّزْدُقُ: لوگوں کی صف۔ درخت خرما کی
نظار (جدید)

الرِّزْدَاقُ: دیہات اور اس کے ارد گرد کی
زمینیں۔ ج رِزْدَاقَاتُ وَرِزْدَاقِيْنُ:

أَرَزَغَ: المَاءُ: پانی کم ہونا المَكَاذُ: بہت
نچروالی جگہ ہونا المُحْتَفِرُ: کھودنے والے کا

سناک مٹی تک پہنچنا المَطَرُ الأَرْضُ: بارش
ازمین کو تر کر دینا الرِّجْلُ: عیب سے آلودہ

رنا فی فُلَانٍ: بہت تکلیف پہنچانا، حقارت
رنا، عیب لگانا، طعن و تشنیع کرنا۔

رَأَزَغَهُ: کشتی کرنا اور فریب دینا۔

أَسْتَرِزَغَهُ: کزور سمجھنا۔

الرِّزْعَةُ: پتلا گارا۔ کچھ۔ ج رِزْعٌ رِزَاعٌ:
الرِّزْعُ: تری۔

الرِّزْعُ وَالرِّزَاعُ: کچھ میں پھنسانا ہوا۔

رِزْفٌ (ض) رِزْفًا وَرِزْفًا وَرِزْفًا

ہوتا۔
 الرَسْدَقُ والرُّسْدَاقُ بمعنی الرُّزْدَقِ
 والرُّزْدَاقِ.
 رَسَعُ (ف) رَسَعًا العَصُو: خراب اور
 ڈھیلا ہونا غینہ: چٹے ہوئے پونے والی ہونا
 الصَّبِي: بچہ کو نظر بد سے بچانے کے لئے
 ہاتھ یا پیر میں مہرہ باندھنا۔
 رَسِعُ (س) رَسَعًا خراب پوٹوں والا ہونا۔
 صفت (أرسع) غينته: خراب پوٹوں والی
 ہونا۔ صفت (رَسَعَاء) یہ الشی: چمٹنا۔
 رَسَعُ خراب گوشہ چشم والا ہونا۔ کسی مقام پر
 جم کے رہنا الشی: چپکانا السَّبِي: ایک تمہ
 کو پھاڑ کر اس میں دوسرے تمہ کو داخل کرنا
 الصَّبِي: بچہ کو نظر بد سے بچانے کے لئے
 ہاتھ یا پیر میں مہرہ باندھنا۔
 الرِّسَاعَةُ ج رَسَاعٍ: تلوار کی پرستے کے
 نچلے حصے میں گندھے ہوئے تھے۔
 الرُّسُوعُ کمان کے وسط میں گندھے ہوئے
 تھے۔
 الرُّسْبِعُ چپکایا ہوا۔ ایک تمہ میں داخل کیا
 ہوا دوسرا تمہ۔
 رَسَعَانُ رَسَعًا العَجِيرُ اگلی ٹانگوں کے
 گٹے میں رستی باندھنا۔
 رَسَعُ المَطْرُ: مخنثے تک برسنا العِش:)
 وسیع کرنا الکلام: دو قسم کی باتوں کو ایک میں
 ملانا۔
 رَسَعُهُ بگٹا پڑ کے بچھاڑ دینا۔
 اِرْتَسَعُ عَلَى عِيَالِهِ: نفقہ میں وسعت
 کرنا۔
 الرُّسْعُ والرُّسْعُ گٹا۔ پھینچا۔ ج اِرْسَاعُ
 وَارْسَعُ.
 الرِّسْعُ مِنَ العَيْشِ بمشادہ زندگی۔ من
 الطَّعَامِ بہت خوراک۔
 الرُّسَاعُ دہرستی جس کو جانور کی اگلی ٹانگ
 کے گٹے میں باندھ کر کھونٹے وغیرہ میں باندھ
 دیتے ہیں۔
 الدَّرْسَعُ مِنَ الآرَاءِ: کمزور و نادرست

چیز کی ابتداء۔ بخار کی ابتداء۔ کہا جاتا ہے "بہ
 رَسٌ حَمِي" اسے بخار کی ابتداء ہے۔ رَسٌ
 الحَبِّ: آغازِ محبت۔ بقیہ محبت۔ اثرِ محبت۔
 کہا جاتا ہے "بَلَّغْنِي رَسٌ مِنَ الخَبْرِ" مجھے
 خبر کا کچھ حصہ پہنچا۔
 الرِّسَّةُ مضبوط ستون۔
 الرِّسَّةُ وَالرُّسُوسَةُ بُولِي۔
 الرُّسَيْسُ بس۔ ثابت۔ عاقل۔ غیر صحیح خبر۔
 رَيْحٌ رَسِيْسٌ بزم ہوا۔ رَسِيْسُ الحَمِي:
 بخار کی ابتداء۔ رَسِيْسُ الحَبِّ: آغازِ
 محبت۔ بقیہ محبت۔ اثرِ محبت۔
 الرُّسِي: ٹیلہ۔ بڑی بوند کی بارش۔
 رَسَبٌ وَرَسَبٌ (ن وک) رَسُوبًا و
 رَسَبًا الشی فی المَاءِ: تہ نشین ہونا
 العَيْنُ: آنکھ اندر کودھنسا جانا۔
 اِرْسَبَةُ بچے اُتارنا۔
 الرِّاسِبُ والرُّسُوبُ. مِنَ الرِّجَالِ:
 ملیم۔ بردبار۔ ثابت قدم۔
 الرُّسْبُ والرُّسْبُ والرُّسُوبُ و
 المَرْسَبُ. مِنَ السَّيْفِ: اندر کو گھس
 جانے والی تلوار۔
 الرُّوَابِيبُ نیاپ کی وجہ سے زرخیز مٹی کا بہہ
 کر دیاؤں اور سمندروں میں گرتا۔
 الرُّوَسْبُ بلا۔ مصیبت۔
 رَسِيْعُ (س) رَسَعًا دلچسپ اور دلی
 ران والا ہونا۔ صفت مذکر (أرْسَعُ) صفت
 مؤنث (رَسَعَاء) ج رَسَعٌ. اِمْرَاةٌ
 رَسَعَاءٌ بد صورت عورت۔
 اِرْسَحُهُ لاغر کرنا۔
 رَسَعُ (ن) رَسُوعًا گڑ جانا۔ کہا جاتا ہے
 "رَسَعُ الخَبْرِ فِي الصَّحِيفَةِ" روشنائی
 کتاب میں جم گئی۔ "وَرَسَعُ العِلْمِ فِي
 القَلْبِ" علم دل میں جاگزیں ہو گیا۔ و فَلَانٌ
 رَسِيْعٌ فِي العِلْمِ فلاں مضبوط علم والا ہے
 الغَدِيْرُ: تالاب کا پانی بچھ اتر گیا۔
 اِرْسَحُهُ گاڑ دینا، ثابت کرنا، مضبوط کرنا۔
 تَرَسَعُ فِي التَّقْيِ: پرہیزگاری میں راح

میں خیر نہیں جب مر زمان طلوع ہوں۔
 رَزَنًا (ن) رَزْنًا الشی: تاتھ سے اٹھا کر
 وزن کا اندازہ کرنا بِالْمَكَانِ: قامت کرنا۔
 رَزَنًا (ک) رَزَانَةٌ سنجیدہ ہونا۔ باوقار ہونا۔
 بھاری بھر کم ہونا۔ بوجھل ہونا۔ صفت مذکر
 (رَزِيْنٌ) صفت مؤنث (رَزَانٌ) رَزِيْنَةٌ نہیں
 بولا جاتا۔
 رَزَانٌ. الرُّجُلُ دُوسْتٌ ہونا۔ ساتھ اُترنا۔
 تَرَاوَنًا ایک دوسرے کے مقابل ہونا۔
 تَرَوَزٌ. فِي الْأَمْرِ اَوْفَى مَجْلِسِهِ: سنجیدہ و
 صاف رائے ہونا۔
 الرُّوْزَنُ والرُّوْزَنُ بلند جگہ جس میں پانی رُک
 جائے۔ ج رُزْنٌ وَرِزَانٌ وَارْزَانٌ. الرُّوْزَنُ:
 کنارہ۔
 الرُّوْزَنَةُ پانی جمع ہونے کی جگہ۔ ج رِزَانٌ.
 الْأَرْزَنُ سخت لکڑی کا ایک درخت جس کی
 لکڑی سے لاشی بناتے ہیں۔
 الرُّوْزِيْنُ ساکن۔ پختہ رائے والا۔ کہا جاتا ہے
 "هُوَ رَزِيْنٌ الرَّايِ"
 الرُّوْزَنَةُ روشن دان۔ ج رَوَاوِزِنٌ.
 رَزَى (ض) رَزِيًّا. فُلَانًا: احسان قبول
 کرنا۔
 اِرْزَى اِرْزَاءً. اِلَيْهِ وَارْزَى اِلَيْهِ ظَهْرُهُ:
 سہارا لینا۔ پناہ لینا۔
 رَسٌ (ن) رَسًا البِنْرُ: کنواں کھودنا
 الشی: دھنسا لہ الخَبْرِ: بیان کرنا
 المَيِّتِ: بیت کو دفن کرنا خَبْرُهُم: معلوم
 کرنے کی کوشش کرنا۔ بَيْنَهُمُ: صلح کرنا۔
 فَاوْذَالَنَا (ضد) رَسًا وَرَسِيْسًا وَارْسٌ)
 السَّقْمُ فِي جَسَدِهِ: بیماری کا لازم ہو کر ٹھہر
 جانا۔
 رَأْسُهُ مُرَأْسَةٌ. بِالْأَمْرِ: کسی کام کی کسی کے
 ساتھ ابتداء کرنا۔
 تَرَأْسَ القَوْمِ الخَبْرَ نازدارانہ کہنا۔
 اِرْتَسَسَ الخَبْرَ فِي النَّاسِ: پھیلانا۔ ظاہر
 ہونا۔
 الرُّسُّ بمر۔ پرانا کنواں۔ علامت۔ معدن ہر

راے۔

رَسْف (ن ض) رَسْفًا وَرَسِيفًا وَرَسْفَانًا پاؤں بندھے ہوئے کی طرح چلنا۔

أَرَسَفَ الدَّابَّةُ: بندھے ہوئے پاؤں والے جانور کو ہانکنا۔

أَرَسَفَ الشَّيْءُ: بلند ہونا۔

رَسِبَ (س) رَسَلًا وَرَسَالَةً الشَّعْرُ: بالوں کا سیاہ لٹکا ہوا ہونا العَجِيزُ: اونٹ کا نرم

چال والا ہونا۔

رَسَلَ فِي القِرَاءَةِ: خوش آوازی سے پڑھنا۔ آہستہ آہستہ درستی کے ساتھ پڑھنا

الفَصْلَانِ: اونٹ کے بچوں کو دودھ پلانا۔

رَأَسَلَهُ فِي وَعَلِيٍّ وَبِالْأَمْرِ: خط و کتابت کرنا۔ رَأَسَلَهُ العِنَاءُ: کانے میں مقابلہ کرنا۔

أَرَسَلَهُ: بھیجنا۔ چھوڑنا۔ أَرَسَلَ القَوْلُ: بلا

قَدِرُونَ فَلَانًا عَلَيْهِ: مسلط کرنا۔ أَرَسَلَ بِهِ

إِلَيْهِ: پیغام کے ساتھ بھیجنا۔ قولہ مثلاً: اپنے

قول کو ضرب المثل بنانا۔

تَوَسَّلَ زَيْدٌ كَرَمًا: آہستگی کرنا۔ رسول ہونے

کا دعویٰ کرنا۔ فِي الرُّكُوبِ: اپنی ٹانگوں پر

کپڑے ڈال کر جانور کی پیٹھ پر پھیلاتا۔ فِي

القَفُودِ: ارد گرد اور ٹانگوں پر کپڑے ڈال کر

چار انویٹھنا۔

تَوَسَّلَ القَوْمُ بِنَاهِمِ خَطِّ وَكُتَابَتِ كَرَمًا:

استرسیل۔ الشعور: بالوں کا سیدھا ہونا۔

كَانَ الشَّيْءُ نَزَمَ هَوْنًا إِلَيْهِ: بے تکلفی برتاؤ فی

الكَلَامِ: گفتگو میں وسعت کرنا۔

الرَّسْلُ مِنَ السَّيْرِ: نرم چال۔ مِنَ الشَّعْرِ: لٹکے ہوئے بال۔ مِنَ الإِبِلِ: نرم

چال والا اونٹ۔

الرَّسْلُ نَزَمَ: نرمی۔ آسوگی۔ دودھ۔ گھوڑے

کے بازو کا کنارہ۔ جِ رَسَالٍ الرِّسَالُ: اونٹ کی ٹانگیں (الرَّسْلُ وَرِسْلَةُ)

آہستگی، نرمی۔ کہا جاتا ہے: "عَلَى رَسْلِكَ يَا

جُلُّ" یعنی اے شخص آہستہ باوقار رہ۔

لِرِسْلَةِ: جماعت۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ وَرِسْلَةُ" یعنی وہ گروہ گروہ آئے۔

الرَّسْلُ: جماعت۔ گروہ۔ رِيْوُزُ جِ أَرَسَالَ:

الرَّسُولِيُّ مِمَّنْ كَيْتَمُوكِ كَيْتَمُوكِ كَرَمِي

رسول یعنی یوب کی طرف سے صادر کردہ

فرمودات۔

الرَّسْلَةُ: کامل اور اسی سے ہے "رَجُلٌ فِيهِ

رَسْلَةٌ نَاقَةٌ رَسْلَةٌ" نرم چال والی اونٹنی۔ کہا

جاتا ہے "هُمْ فِي رَسْلَةِ مِنَ العَيْشِ" وہ

لوگ نرمی و آسوگی میں ہیں۔ الرِّسْلَةُ: وہ

عورت جس کی پنڈلیوں پر بہت اور لمبے لمبے

بال ہوں۔

الرِّسَالَةُ وَرِسَالَةُ: پیغام۔ پیغامبری۔ خَطِّ جِ رَسَائِلُ وَرَسَالَاتُ:

الرَّسُولُ: بھیجا ہوا۔ پیغام بر۔ پیغامبری۔ تیر

اندازی وغیرہ میں جو تمہارا موافق ہو۔ جِ رَسُلٌ

وَرَسُلٌ وَأَرَسَلُ وَرَسَلَاءُ: الرُّسُلُ:

چھوٹی بچی جو ابھی اڑھی نہ ڈالتی ہو۔

الرِّسِيلُ: بھیجا ہوا۔ پیغام بر۔ پیغامبری۔

پیغام بھیجنے والا۔ تیر اندازی وغیرہ میں جو تمہارا

موافق ہو۔ گھوڑ دوڑ میں دوڑنے والا گھوڑ۔

كشاده۔ سائڈ۔ بیٹھا پائی۔ جِ أَرَسَلُ وَرَسُلٌ

وَرَسَلَاءُ:

الرِّسِيلَةُ: الرِّسْلَةُ کی تصغیر۔ کہا جاتا ہے

"القَى الكَلَامَ عَلَيَّ رَسِيلَاتِهِ" یعنی اس

نے بے التفاتی کی۔

الرِّسْلَةُ لِمَا بَدَأَ جِ سِينَةَ تَمَّكَ وَاقِعٌ هُوَ جِ

مُرْسَلَاتُ: المُرْسَلَاتُ ہوا میں یا فرشتے یا

گھوڑے۔

الرِّسَالُ: چھوٹا تیر۔ پیغامبر۔ نَاقَةٌ

مِرْسَالٌ نَزَمَ رَقَارًا وَثَمِيًّا جِ مَرَسِيْلٌ:

رَسِيْلٌ (ن) رَسْمًا: المَطَرُ الدِّيَارُ تَمَّا كَرَمًا

زمین سے ملا ہوا نشان باقی رکھنا۔ لَهْ كَذَا: حکم

دینا۔ عَلَيَّ كَذَا: لکھنا

الکتاب: لکھنا۔ نَحْوَهُ: دوڑتے ہوئے جانا

هَ الاسْتَفْقُ: گر جا کا کوئی عہدہ دینا۔ ام

"الرَّسَامَةُ"۔

رَسْمٌ (ص) رَسِيْمًا: العَجِيزُ نَاقٌ كَانَتْ

چھوڑنا۔ تیر چلنا۔ صَفَتٌ (رَسْمٌ)

رَسْمٌ: الثُّوبُ: دھاری دار بنا (وَأَرَسَمَ)

النَّاقَةُ: چلا کر پاؤں کے نشان ڈالنا۔

تَوَسَّمَ: الدَّارُ: گھر کے نشانات وغیرہ غور

سے دیکھنا الشَّيْءُ: یاد کرنا البَانِي وَالحَافِيوُ:

عمارت بنانے یا کھودنے کیلئے زمین دیکھنا۔

أَرَسَمَ: الأمرُ: فرمانبرداری کرنا۔ کہا جاتا

ہے "رَسَمَ لَهُ كَذَا فَأَرَسَمَهُ" اس نے اس

کو فلاں حکم دیا اور وہ بجالایا لِلَّهِ تعالیٰ: تکبیر

کہنا اور دعا کرنا الرَّجُلُ: گر جا کے کسی عہدہ پر

پہنچنا۔

الرِّسْمُ: سر۔ گھر کے مٹے ہوئے نشانات۔

مٹی میں دبا ہوا کنواں۔ کسی چیز کا خاکہ۔

علامت۔ غیر واقعی جیسے شاعر کے قول میں

"أَرَى وَذَكْمٌ" رَسْمًا وَوُدَى حَقِيْقَةً میں

تمہاری دوستی کو غیر واقعی اور اپنی دوستی کو واقعی

سمجھتا ہوں۔ جِ رَسْمٌ وَأَرَسَمَ: معاملہ

عِنْدَ أَهْلِ الحَيَاةِ: عیس۔

الرِّسْمُ مَنظَرٌ كَشِيٌّ: حقیقت کے خلاف ڈرامہ

وغیرہ۔

الرِّوَايِمُ: قا۔ بہتا ہوا پانی۔

الرِّسْمُ: رِقَارٌ كِ خَوِيٌّ:

الرِّوَايِمُ: جِ رِوَايِمٌ وَ (الرِّوَايِمُ) جِ

رِوَايِمٌ: نمبر۔ مکے وغیرہ پر (قوم) مہر کرنے

کی چیز۔ کھدی ہوئی کڑی جس سے نلکے کے

ڈھیر پر قوم مہر کی جائے۔ الرِّوَايِمُ:

علامت۔ نشان۔ مصیبت۔ الرِّوَايِمُ: زمین

پر پاؤں کے نشان ڈال کر چلنے والے اونٹ۔

واحد (رِوَايِمٌ وَرِوَايِمَةٌ)

الرِّوَايِمُ: بن لکھا ہوا۔ سر کلر۔ جِ مَرَايِمٌ

وَ مَرَايِمٌ:

الرِّسَامُ: نقش کرنے والا۔ نقشہ بنانے والا۔

الرِّسْمَانُ وَ المَرَسْمُ: زمین پر نشان ڈالنے

ہوئے اونٹ کی چال۔

رَسْرَانٌ (ض) رَسْنًا وَأَرَسَنَ: الدَّابَّةُ:

جانور کے سر میں رسی ڈالنا۔ رَسْنٌ

وَأَرَسَنَ: الدَّابَّةُ: جانور کو چرنے کیلئے آزاد

جِنِّے کے وقت آلاش چائنا الناقۃ ولدها: بمعنی رَشَحْتَهُ الْغَيْثُ النَّبَاتُ: بارش کا نباتات کو بڑھانا۔

تَرَشَّحَ. وَلَدُ النَّاقَةِ: ماں کے ساتھ چلنے کے لائق ہونا الطَّيْبَةُ: جِنِّے کے وقت آلاش چائنا الماء: پتھروں سے پینا۔

الرَّجُلُ لِأَخِي: لائق ہونا۔ اہل ہونا۔

اسْتَرَشَّحَ. النَّبَاتُ: بلند ہونا۔ بڑھنا النبات: چرانے کیلئے بڑھنے کا انتظار کرنا۔

الرُّشْحُ: بس۔ پینہ۔

الرَّوْاشِحُ: فاپتھروں سے نکلنے والا پانی۔

مِنَ الْعَصَلَانِ: چلنے میں قوی۔ پہاڑ جس کا نچلا حصہ تر ہو۔ زمین پر ریگنے والا کیرا۔ ج رَوَاشِحُ.

الرُّوشِیحُ: پینہ۔ ایک قسم کی نباتات۔

المَرَّاحُ والمَرَّاشِحَةُ: زین کے نیچے کا خوگیر۔

الأرْشِحُ: بہت ذہین۔ ذکی۔ کہا جاتا ہے "ہو أرْشِحُ فَوَادًا" وہ تیز خاطر ہے۔

رَشْدَانٌ (رَشْدًا ورَشَادًا ورَشْدًا) رَشْدًا ہدایت پانا۔ راہ راست پر چلنا امرؤ: ہدایت یافتہ ہونا۔

رَشْدَةٌ ورَشْدَةٌ. إِلَى كَذَا وَعَلَيْهِ وَلَهُ: ہدایت کرنا۔ رَشْدَةُ الْقَاضِي: سیدھے راستے پر چلنا۔

اسْتَرَشَّدَ. لِأَمْرِهِ نِهَاةً: سیدھے راستے پر چلنا۔

ہدایت طلب کرنا۔

الرُّشْدُ: بس۔ ہدایت۔ راہ راست پر ہونا۔

الرُّشْدَةُ والرُّشْدَةُ: حلال زادہ۔

الرُّشْدِيُّ: ہدایت۔

الرُّشْدِيُّ: سیدھے راستے پر چلنے والا۔ ہدایت یافتہ۔ ہدایت کرنے والا۔

الرُّشَادُ والرُّشْدُ: ایک قسم کی نباتات۔

الرُّشَادَةُ: چٹان۔ مٹھی بھر کا پتھر۔ ج رَشَاءُ.

المَدَّاشِدُ: سیدھے و متوسط راستے (جمع ہے واحد نہیں)

رَشَّ (ن) رَشًا ورَشَاشًا. الماء: پانی چھڑکنا السَّمَاءُ: آسمان کا بھوار برسانا الشَّيْءُ: دھوا۔

أَرَشَتِ. السَّمَاءُ: آسمان کا بھوار برسانا الطَّعْنَةُ: کشادہ زخم ہونے سے خون پھیل کر نکلنا الشَّوَاءُ: بھونے ہوئے گوشت سے چربی نیکنا الفَرَسُ: گھوڑے کو دوڑا کر پینہ لانا۔

تَرَشَّشَ. عَلَيْهِ الماءُ: متفرق چھینے پڑنا۔

بہنا۔

الرُّشَّ: بس۔ بھوار۔ ج رَشَّاسٌ: تکلیف دہ مار۔

الرَّشَّاشُ: پانی خون وغیرہ کا چھیننا۔

المَرَّشَةُ: پانی وغیرہ چھڑکنے کا آلہ۔

رَشَّ (ف) رَشًا. الطَّيْبُ: ہرن کا قوی ہو کر ماں کے ساتھ چلنا الطَّيْبَةُ: ہرن کا جنا۔

الرَّشَّاءُ: ہرن کا بچہ یا وہ جو چلنے لگے۔ ج ارشَاءُ.

الرُّشْبَةُ: مغز سے خالی ناریل جس سے پانی نکالیں۔

المَرَّاشِبُ: مٹی جس سے منکوں کا منہ بند کر دیں۔

رَشَّحَ (ف) رَشَّحًا ورَشَّحَانًا ورَشَّحَتْهُ ورَشَّحَتْهُ. الإِنَاءُ: برتن کا پینا۔ رَسَا

الجَسَدُ: بدن کا پینہ والا ہونا ورَشَّحَ الطَّيْبُ: ہرن کا اچھلنا۔ کودنا۔ کہا جاتا ہے "لَمْ يَرَشَّحْ لَهُ: بَشِي" اس نے اس کو کچھ نہیں دیا۔

رَشَّحَتِ النَّاقَةُ وَلَدَهَا رَشَّحًا ورَشَّحَتْهُ ورَشَّحَتْهُ. اوٹنی کا اپنے بچے کی دم کی جڑ کو اپنے سر سے رگڑنا اور آگے بڑھانا اور خود ٹھہر ٹھہر کر جانا تاکہ بچے اس سے لاحق رہے۔ صفت (رَاشِحٌ مُرَشِّحٌ و مُرَشِّحٌ)

رَشَّحَ: پینہ سے تر ہونا۔

رَشَّحَ. المَالُ: بہتر انتظام کرنا الوَلَدُ: پرورش کرنا اور کام کے لائق بنانا اور اسی سے ہے "هُوَ يَرَشَّحُ لَوْلَايَةِ الْعَهْدِ" وہ ولی عہدی کیلئے تیار کیا جا رہا ہے الطَّيْبَةُ وَلَدَهَا:

چھوڑ دینا۔ اور اسی سے ہے "زَمْيٌ بَرَسِيْبُهُ عَلِيٌّ غَارِبُهُ" اس نے اس کے کندھے پر اس کی رستی ڈال دی یعنی اسے بالکل آزاد چھوڑ دیا۔

أَرَسَنَ المَهْمَرُ: بچھیری کا تابع ہونا۔ گردن میں رستی ڈالنے کے لئے سر دے دینا۔ الرِّسَنُ: جانور کے گلے میں ڈالنے کی رستی۔ ج أَرَسَانٌ ورَأْسِنُ.

المَرْبِيبُ والمَرْمِيسُ: مِنَ الدَّابَّةِ: رستی ڈالنے کی جگہ۔ ج مَرَابِيسٌ نَاكٌ.

رَسَا يَرْسُو رَسْوًا ورَسُوًّا. ٹھہرنا۔ ثابت ہونا۔ استوار ہونا۔ صفت مذکر (راس) صفت مؤنث (راسية) ج رَوَاسٍ ورَأْسِيَاتٍ.

رَسَتِ السَّفِينَةُ: لنگر انداز ہونا۔ رَسَابِيْنُ القَوْمُ: صلح کرانا عَنْهُ حَدِيثًا: کسی سے روایت کرنا۔ لَهُ الْحَدِيثُ: کسی کے سامنے کچھ حصہ بیان کرنا الصَّوْمُ: روزے کی نیت کرنا۔

رَاسِيٌّ: ہیرا کی میں مقابلہ کرنا۔

أَرَسِيٌّ إِرْسَاءً. الشَّيْءُ: ٹھہرنا۔ ثابت ہونا۔ استوار ہونا السَّفِينَةُ: کشتی کو لنگر انداز کرنا الوَتْدَةُ فِي الأَرْضِ: کھونٹے کو زمین میں گاڑنا۔

الرَّسْوُ: خمر کا ایک حصہ۔

الرَّوَّاسِيُّ: فاپتھروں کا ایک حصہ پر رہنے والی بڑی دیگ۔

الرَّوَّاسِيُّ: مضبوط پہاڑ۔

الرَّسِيٌّ: ثابت۔ خیمہ کے درمیان کا تھم۔

المَرْسِيُّ: بندرگاہ۔ ج مَرَّاسٍ.

المَرْسِيُّ: سب باری تعالیٰ کے قول "يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا" کے معنی یہ ہیں کہ "لوگ آپ (ﷺ) سے دریافت کرتے ہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی؟"

المَرْسَاةُ: کشتی کا لنگر۔ ج مَرَّاسٍ. کہا جاتا ہے "أَلْقَى مَرَّاسِيْهِ" یعنی اس نے اقامت کی "وَأَلْقَتِ السَّحَابُ مَرَّاسِيْهَا" بادل جم کر برسنا۔

الرَّاشِقُ: فَا. بن بلاء مہمان۔ کاریگر کے شاگرد کا وظیفہ جس کو عوام کے نزدیک "الحلوان" بھی کہا جاتا ہے۔
الرَّوْشَنُ: روشن دان۔ رخ روشن۔
رَشَاهُ (ن) رَشَوًا: رشوت دینا۔
رَاشِي مَرَاشَاهُ: فلان! رشوت دینا۔ مدد کرنا۔

أَرَشِي: الدلو: ڈول میں رتی لگانا
الشجر: درخت کا لمبی ٹہنیوں کا ہونا القوم
فی ذمہ: کسی کے خون میں شریک ہونا
أَرَشُوا بِسِلَاحِهِمْ فِيهِ: کسی کے مقابلہ کے لئے اپنے ہتھیاروں کو درست کرنا۔
تَرَشِي: الرجل: باہم نرمی برتنا۔
إِرْتَشِي: رشوت لینا مِنْهُ رَشْوَةٌ: رشوت لینا۔

إِسْتَرَشِي: فِي حُكْمِهِ: رشوت مانگنا
الفصيل: اونٹ کے بچے کا دودھ پینے کی خواہش کرنا مَا فِي الضرع: تھن سے دودھ نکالنا۔

الرَّشْوَةُ وَالرَّشْوَةُ وَالرَّشْوَةُ: رشوت۔
رَشِي وَرَشِي: الرشاء: رسی۔ ڈول کی رسی۔ ج اَرَشِيہ کہا جاتا ہے "اتبع الذلور رشانها" ڈول کے پیچھے رسی بھی کرو۔ اس موقع پر مثال کے طور پر بولتے ہیں جب ایک کو دوسرے کے ساتھ کرانا ہو۔ وارشية النبات: نباتات کی بیلیں۔

الرَّشَاةُ: ایک قسم کی نباتات۔ ج۔ رَشَا: الرشيش: اونٹ کا بچہ۔
الرشاء: ڈول کی رسی۔
رَصَّ (ن) رَصًا: الشئ: ایک کو دوسرے سے چمکانا۔ جَوْرًا الدجاجة: بیضتھا: مرغی کا انڈوں کو بیٹھے کیلئے چوچ سے درست کرنا۔

رَصَّصَهُ: ایک کو دوسرے سے چمکانا۔ جَوْرًا: مضبوط کرنا۔ سیسہ کی قلعی کرنا الرجل: سوال کرنے میں اصرار کرنا۔

سیدھا تیر پھینکانا۔ کہا جاتا ہے "أَرَشَقْنِي مَقْصِدِي" اس نے میرے مقصد کی طرف چلنے میں میرا مقابلہ کیا و "مَا أَرَشَقَ هَذِهِ الْقَوْمُ" یہ کمان کس قدر تیز تیر پھینکنے والی ہے۔

الرَّشَقُ: تیز تیر پھینکنے والی کمان۔ رَشِيقُ كِي جمع۔
الرَّشِقُ وَالرَّشِيقُ: قلم کی چرچاہٹ۔ تم کہتے ہو "سَمِعْتُ رَشَقَ قَلَمِهِ" میں نے اس کے قلم کے چلنے کی آواز سنی۔ الرَّشِقُ: تیر اندازی ج اَرَشَقُ

الأَرَشِقُ: سیدھا کھڑا۔ کہا جاتا ہے "جِيذَ أَرَشَقُ" کھڑی گردن۔
الرَّوْشِيقُ: نازک اندام خوبصورت۔
مِنَ اللَّفْظِ أَوْ الْخَطِّ: پاکیزہ و نفیس لفظ یا خط۔

رَشَمَ (ن) رَشْمًا: بِنْدَرِ الحنطة: گیہوں کے کھلیان پر قومہ مہر کرنا۔ (وَرَشَمَ) لکھنا۔
رَشَمَ (س) رَشْمًا: کھانے کی بوسو گھٹنا اور خواہش کرنا۔ صفت (أَرَشَمَ)

أَرَشَمَ: الشجر: درخت کا پتے والا ہونا۔
الأرض: سبزی ٹکنا شروع ہونا الرَّيْقُ: بجلی چمکانا۔ الماشية: ابتدائی سبزی چرنا۔
(وَأَرَشَمَ) الإناء: برتن پر قومہ مہر کرنا۔
الرَّشْمُ: ابتدائی سبزی۔ بجو کی منہ کی سیاہی (وَالرَّشْمُ) زمین پر بارش کا اثر۔ ہر چیز کا اثر۔
الأَرَشْمُ: داندرا۔ کتا چونکہ اس کے نتھنوں کے درمیان سیاہی ہوتی ہے) مِنَ الغيث: تھوڑی بارش۔ عَامَ أَرَشَمَ: سال کہ جس میں ارزانی و فراخی اچھی طرح نہ ہو۔

الرَّوْشَمُ وَالرَّوْشُومُ: غلہ کے انبار پر قومہ مہر کرنے کی منقوش تختی۔
الرَّوْشَمَةُ: بجو کے منہ کی سیاہی۔

رَشَنَ (ن) رَشْنًا وَرَشُونًا: بن بلائے مہمان بنا الكلب في الإناء: کتے کا برتن میں سر ڈالنا۔
الرَّشَنُ وَالرَّشْنُ: پانی نکلنے کا دہانہ۔

أَم (رأشد) چوبہیا۔
رَشْرَشَ رَشْرَشَةً الشئ: ڈھیلا ہونا۔
البعير: اونٹ کا اچھی طرح بیٹھے کیلئے سینہ سے زمین رگڑنا۔

تَرَشْرَشَ الماء: بہنا۔ جُزْبٌ أَوْ عَظْمٌ (رَشْرَشَ وَرَشْرَاشَ) نرم روٹی یا بڈی۔
رَشَفَ (م ن) رَشَفًا وَرَشِيمًا وَتَرَشَفًا وَرَشَفَ (س) رَشَفًا وَرَشَفَانًا الماء وَنَحْوَهُ: چوسنا الإناء: پی کر خالی کرنا۔

رَشَفَ وَأَرَشَفَ وَتَرَشَفَ وَإِرْتَشَفَ الماء: خوب چوسنا۔
الرَّشَفُ وَالرَّشْفُ: حوض کا بقیہ تھوڑا پانی۔ کہا جاتا ہے "حَوْضُ رَشَفٍ" بے پانی کا حوض۔

الرَّشَافُ: بہت چوسنے والا۔
المَرَشَفُ: پانی چوسنے کا آلہ۔ ج مَرَانِفُ المَرَشِيفُ: ہونٹ۔
رَشَفَهُ (ن) رَشَفًا: بالنهم: تیر مارنا۔
بِصْرِهِ: گھور کے دیکھنا ہ بلسانہ: طعن و تضحیح کرنا اور اسی سے ہے "أَيَاكَ وَرَشَفَاتِ اللسان" زبان کی طعنہ زنی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔

رَشَقَ (ك) رَشَاقَةً: الغلام: خوبصورت لہ والا ہونا۔ چابک دست ہونا۔ پھر تیلنا ہونا۔
صفت (رَشِيقُ) ج رَشَقُ: رَشَاقَةً مَرَاشَقَةً: امر چمکانا۔ ایک دوسرے کو تیر مارنا۔

تَرَشَقَ القوم: باہم تیر اندازی کرنا اور کہا جاتا ہے "تَرَشَقُوا بِالسِّبْتِہِمُ وَتَرَشَقُوا بِوَعِيہِمُ" انہوں نے اپنی زبانوں سے طعن و تضحیح کی اور اپنی آنکھوں سے گھور گھور کر دیکھا۔

تَرَشَقَ فِي الأمر: تیز ہونا۔
أَرَشَقَ: النظر اليہ: تیز نظر سے دیکھنا۔
القوم بِبِصْرِهِ: نگاہ ڈالنا الظنبيہ: برہنی کا گردن چمپلا کر تیز نظر سے دیکھنا الراہی:

تَرَصَّعَ: جِزَاؤُ هَوَانَا - شَاهَاں هَوَانَا - كَام وَغِيْرَه مِيں چِسْت هَوَانَا -	الرَّصَدُ: رَاسْتَه - تَهْوِزِي بَارَش - تَهْوِزِي گھاس - نَجْ اَرَصَاد: گھات ميں بيٹھے والے لوگ (واحد جمع مذکر مؤنث سب کے لئے اور کبھی جمع کیلئے رَصَاد بولتے ہیں)	تَرَصَّصَ وَارْتَصَّصَ: بَاهِم چِٹَا - جِزَا - الرَّصَاصُ: سِيْسَه - قَلْبِي - وَاحِد (رَصَاصَتَه) الرَّصَاصِيُّ: سِيْسَه كِه رَنگ كا - الرَّصِصُ: دَانْتوں كِي پِيو سَنگِي - الرَّصِصِيُّ: اِيك دوسرے كِه سَا تَه جِزَا هَوَا - مُؤنْث رَصِصِيَّةٌ - نَجْ رَصَاصِيصُ: كِه جَا تَا سَجَا: رَصَّصْتُ عَلَيَّ الْقَبْرِ الرَّصَاصِيصُ قَبْرِ پَر پَتْمَر تَه لگائے گئے - الرَّصِصِيُّ: اِنْدوں كا ذِيْرَه - عَوْرَت كِه مُنَه كا قَنَاب - الرَّارِصُ: قَرِيْب قَرِيْب دَانْتوں وَالا - مُؤنْث رَصَاصَاءُ: نَجْ رُصُصٌ: فَخَذْرُ رَصَاصَاءُ: اِيك دوسرے سِي لِي هُوِي رَا ن - الرَّارِصُوعَةُ: خِرِيْذَه كِي مَانْد لِي لُو پِي - الرَّصَاصِيَّةُ: بَجَل - جَارِي چِشْمَه كِه اَرْدَرُو كِه پَتْمَر - بُنْيَان (مَوْضُوعِيصُ) مَضْبُوط عَمَارَت - الرَّصِيبُ: اَكْثَت شَهَادَت اور سَبْح والِي اَنگِي كِي جِزَا كَا فَاصِلَه -
الرَّصَاعُ: بَهْت جَمَاع كَرْنَه وَالا - الرَّصِيعُ: لُو - هَرُو لَكْزِي جِس سِي كِي چِيز كُو چُوڑَا كَرِيں - الرَّصِغُ: بِنْدُو سِت - بِنَا - الرَّصِيعُ: بَعْمَقُ الرِّسَاعُ: رَصِفٌ (ن) رَصْفًا: الْحِجَارَةُ: پَتْمَروں كُو تَرْتِيْب سِي جُوڑَا اَلْمَصَلِكُ قَدَمِيَه او بِيْن قَدَمِيَه: نَمَازِي كَا قَدَموں كُو قَرِيْب قَرِيْب كَرْنَا يَا اِيك كُو دوسرے سِي مَلَانَا اور كِهَا جَا تَا سَجَا: هَذَا الرَّاصِفُ لَا يَرِصِفُ بَلْ: يِه كَام تَهْمَارَه الرَّاصِفُ لِي نِيْس - رُصِفٌ (ك) رَصَافَةً: الْعَمَلُ: مَضْبُوط هَوَانَا - رَصِفْتُ (س) رَصْفًا وَ رُصِفْتُ رَصْفًا اَسْنَانُه: دَانْتوں كَا تَرْتِيْب وارو: هَمَوَار هَوَانَا - اَرَصِفُ: شَرَاب وَغِيْرَه مِيں پِيھَاڑِي چِشْمَه كَا پَالِي مَلَانَا - تَرَصَّفْتُ وَتَرَصَّفْتُ وَارْتَصَّفْتُ الْحِجَارَةُ: پَتْمَروں كَا تَرْتِيْب وار مَلَانَا - الرَّصْفُ فِي الْقَوْمِ: تَرْتِيْب سِي اِيك دوسرے سِي ل كَر كَر هَوَانَا اَسْنَانُه: دَانْتوں كَا تَرْتِيْب وار هَوَانَا - الرَّصْفُ: پَالِي بِيْنِي كِي جِگَه مِيں اِيك دوسرے كِه سَا تَه جِزے هُونِي پَتْمَر - وَاحِد (رَصْفَةٌ) الرَّصْفَتَانِ: گھنٹوں كِي بَدِيوں كِه پَتْمَر - الرَّصْفُ: پَالِي كَا بِنْد - مَاءُ الرَّصْفِ: پِيھَاڑِي كَا صَاف پَالِي جُو چِٹَان پَر كَرے - الرَّصَافُ: پَتْمَا جُو چِز مِيں تِيْر كِه پَهْل كِه دَاخِل هُونِي كِي جِگَه سِي او پَر لگَا جَا تَا سَجَا -	الرَّصِيدُ: گھات ميں رهنے والا - الرَّصِيدُ: رَاسْتَه وَ الْمَرْصِدُ: گھات - نَجْ مَرَاصِيدُ وَ مَرَاصِيدُ: مَرَاصِيدُ الْحَيَاتِ: سَا پِيوں كِه چِپْپِي كِي چِيھِيں - اَرُصُ (مَوْصِدَةٌ) تَهْوِزِي سِي گھاس والِي زَمِيْن - رَضْرُصُ: الْبِنَاءُ: عَمَارَت مَضْبُوط بِنَا تَا فَا فِي الْمَكَانِ: تَهْمَر تَا رَهْنَا - الرَّوْصَاةُ: سَخْت زَمِيْن - جَارِي چِشْمَه كِه اَرْدَرُو كِه پَتْمَر - رَصَعَةٌ (ف) رَصْعًا: بِيْدَه: تَهْمَر مَارْنَا بِالرَّمْحِ: سَخْت نِيْزَه مَارْنَا - رَصَعُ السِّنَانِ فِي الْمَطْفُونِ: زور سِي بَهَالَا مَار كَر گھَسَا دِيْنَا الْحَبُّ: دَانَه كُو دو پَتْمَروں كِه دَر مِيَان كُو شَا (رَضُوعًا) اِقَامَت كَرْنَا - رَصِعٌ (س) رَصْعًا: بِالشَّيْءِ: چِپْكِنَا بِالطَّيْبِ: مِهَك اَلْمَرْأَةُ رَصَاعًا: جَمَاع كَرْنَا - رَصَعُ الشَّيْءِ: اِنْدَازَه كَرْنَا اور بِنَا - كِهَا جَا تَا هِي "رَصَعُ الطَّائِرِ عَشَّةٌ بِالْقَضَانِ" پَر نِنْدَه سِي اِسِي كِه هُو سِي لُو كُو اِنْدَازَه كَر كِه تِيْمِيوں سِي نَمَا - لَذَهَبَ بِالْجَوَاهِرِ: سُونِي مِيں جَوَاهِر بِيٹھَا - كِهَا جَا تَا هِي "تَاجُ مَرَصِعُ" بِالْجَوَاهِرِ: جَوَاهِر كَا جِزَا هُوَا تَا جِ الْعَقْدَةُ بِالْجَوَاهِرِ: هَار مِيں جَوَاهِر پَر دُونَا - رَصَعَةٌ بِالرَّمْحِ: سَخْت نِيْزَه مَارْنَا - الرَّصْعُ الْحَبُّ: دَانَه كُو دو پَتْمَروں كِه دَر مِيَان كُو شَا يِه: چِپْكِنَا اَسْنَانُه: دَانْتوں كَا پِيو سِتَه وَ قَرِيْب قَرِيْب هَوَانَا -	
رُصِحَ (س) رَصْحًا: قَرِيْب قَرِيْب سَرِيْن صَفْت (أَرْصَحُ) مُؤنْث صَحَاءُ رَصِحَ فِي الْأَمْرِ: بَعْمَقُ رَسَخُ رَصَدَهُ (ن) رَصْدًا وَرَصَدًا: اِنْتِظَار كَرْنَا - گھات ميں بِيٹھْنَا - رُصِدَ الْمَكَانُ: بُو چَهَاڑ پڑْنَا - صَفْت (مَوْضُودُ) نِهَكِيَا بِي كَرْنَا - رَا صَدَه - أَرَصَدَ الرَّقِيبَ: گھات ميں رَاسْتَه پَر كَهْرَا كَرْنَا لَه شِيْئًا: تِيَار كَرْنَا - مِيَا كَرْنَا لَه خِيْرًا اَوْ شَرًا: بَدَلَه دِيْنَا الْحِسَابُ: نِيْس كَرْنَا - ظَاهِر كَرْنَا - شَار كَرْنَا - الرَّارِصِدَةُ وَتَرَصَدَةُ: اَمِيْد لگَا نَا - تَرَصَدَلَه: گھات ميں بِيٹھْنَا - تَرَا صَدَ الرَّجَالانِ: اِيك دوسرے كِه گھات ميں بِيٹھْنَا - الرَّارِصِدُ: فَا - تَهْمَبَان - شِيْر - گھات ميں بِيٹھِنِي وَالا - نَجْ رَصْدٌ وَرَصْدٌ -		

گھوڑے کا پشما۔ پہلو کی ہڈیاں۔ جِ رَضَفٍ و رَضَفٍ۔
 الرَضِيفُ: نظیر۔ دوست۔ عَمَلٌ رَضِيفٌ: مضبوط کام اور مولدین کے نزدیک رَضِيفٌ کا اطلاق پتھروں کے فرش کیے ہوئے راستہ پر ہوتا ہے۔
 الرِّصَافَةُ: پشما جو چمڑ میں تیر کے پھل کے داخل ہونے کی جگہ سے اوپر لگایا جاتا ہے۔ اطراف شہر کا سبزہ زار اور عموماً اس کا اطلاق بغداد کے ایک مقام پر ہوتا ہے۔
 الرِّصُوْفَةُ: ثابت قدمی۔
 المِرْصَافَةُ: تھوڑا۔
 المُرْتَصِفُ: شیر۔ رَجُلٌ مُرْتَصِفٌ: الا انسان: قریب قریب آنتوں والا مرد۔
 رَضِنَ (ن) رَضْنَا الامر: پورا کرنا۔ مضبوط کرنا الدابة: داخل لگانا بلسانہ: گالی دینا۔

رَضَنَ (ک) رَضَانَةً: العقلِ وَغَيْرَهُ: سنجیدہ ہونا۔ مضبوط ہونا۔ ثابت قدم ہونا۔ صفت (رَضِيْنٌ)
 رَضِنَ الشَّيْءُ مَعْرِفَةً: خوب اچھی طرح سمجھنا اور کہا جاتا ہے ”رَضِنْتُ لِي هَذَا الخبز“ میرے لئے اس خیر کی معرفت کرو۔
 الرَضِنَةُ: مضبوط کرنا۔ مکمل کرنا۔
 الرَضِنَ: ایک قسم کی نباتات۔
 الرَضِيْنُ: اپنے ساتھی کی ضرورت کیلئے اصرار کرنے والا۔ درد مند۔ دردناک۔
 المِرْوَضِنُ: جانوروں کو دنان گانے کا لوہا۔
 رَضَا (ن) رَضَوْنَا الشَّيْءُ: مضبوط کرنا۔ استوار کرنا۔
 اَرْضَى بِالْمَكَانِ: جم کے رہنا۔
 رَضَهُ (ن) رَضًا: کوٹنا۔ دانا۔
 رَضَضَ الشَّيْءُ: اچھی طرح کوٹنا۔ دانا۔
 تَرْضَضُ كَوْنًا جَانًا: دلا جانا۔
 اَرْضَسْتُ وَبُوِجَلُ هُوَانًا: تیز دوڑنا فی الارض: جانا۔ التَّبَعُ العَرَقُ: پسینہ بہانا۔
 ارْتَضَى الشَّيْءُ: ٹوٹنا۔

الارضُ: جم کر بیٹھے والا۔
 الرضيضُ والمرضوضُ: کوٹنا ہوا۔
 الرضاضُ: ریزے۔ چورہ۔
 المرضة والمرضة والمرضحة والمرضحة والمرضحة: کھانسی نکال کر دودھ میں بھلوئی ہوتی سمجھو۔
 المرضة: کوٹنے والے کا آلہ۔
 رَضَبٌ (ن) رَضَبًا وَاَرْضَبٌ: المطرُ: زور سے بارش ہونا سماءُ: آسمان کا برساتنا (رَضَبٌ وَتَرْضَبُ) الرقيق: تھوک چوندا۔
 الراضبُ: فاء من المطر: زور سے برسنے والی بارش۔
 الرضابُ: چوسا ہوا تھوک۔ شہد کا لعاب اور جھاگ۔ مشک کے ریزے۔ برف اور شکر وغیرہ کے ٹکڑے۔ اولے۔ ماء رَضَابٍ: میٹھاپانی۔
 المرأضب والمرأضيب: خوش مزہ تھوک۔

رَضَحَ (ف) رَضَحًا: النوى او الحصى: کھلی یا ٹکڑی ٹوڑنا رأسه بالحجر: پکڑنا۔
 تَرْضَحُ الحصى: ٹکڑی کا ٹوٹنا۔ الخبز: روٹی کا چور کرنا۔
 تَرْضَحُوا بالنشاب: ایک دوسرے پر تیر اندازی کرنا۔
 ارْتَضَحَ من الامر: عذر کرنا۔
 الرضحُ: من۔ تھوڑا عطیہ۔ کہا جاتا ہے ”بَلِقْنَا رَضَحَ مِنَ الخبز“ ہم کو تھوڑی خیر ملی۔
 الرضحُ: ٹکڑی۔
 الرضیحُ: ٹوٹی ہوئی کھلی۔
 الرضیحُ: کھلی جو توڑتے وقت پتھر کے پیچے سے چمک جائے۔ کہا جاتا ہے ”رَضَعَتْ رَضْحَةً مِنَ المطر“ یعنی تھوڑی سی بارش ہوئی۔
 الرضحُ: راضحیوں کے ٹوڑنے کا پتھر۔
 الرضحُ: راضحیوں کے ٹوڑنے کا پتھر۔
 رَضَحَ (ف) رَضَحًا: النوى او الحصى: کھلی یا ٹکڑی ٹوڑنا اور کہا جاتا ہے

”رَضَحَ لَهُ مِنْ مَالِهِ رَضْحًا“ یعنی اس نے اس کو بہت میں سے تھوڑا سا دیا کیوں: باہم سینگ مارنا اور عوام کہتے ہیں ”رَضَحَ لَهُ“ یعنی اس نے اس کے لئے فروتنی کی۔ و”رَضَحَ لِلْحَقِّ“ اس نے حق کا یقین کیا۔
 رَضَخَهُ: ایک دوسرے کو پتھر مارنا الشئ: بادل ناخواستہ دینا مِنْهُ شَيْئًا: پانا۔ حاصل کرنا۔
 ارْضَخَ لِلرَّجُلِ: بہت میں سے تھوڑا دینا۔
 تَرْضَخُ القوم بالبحارَةِ: باہم پتھروا کرنا۔
 تَرْضَخُ الحصى: ٹکڑی کا ٹوٹنا۔ الخبز: روٹی کا ٹوٹنا۔ الخبز: کھلی یا ٹکڑی ٹوڑنا۔
 الرضخُ: من۔ تھوڑا عطیہ۔ سنی ہوئی غیر یقینی خبر۔
 الرضخُ: ٹوڑی ہوئی کھلی۔
 الرضخَةُ والرَضَاخَةُ: تھوڑا عطیہ۔
 المرصاخُ: مرصاخ: مرصاخ (المرصاخة) پتھر جس سے یا جس پر ٹوڑا جائے۔
 رَضَدَ (ن) رَضَدًا: المتاع: سامان کو ترتیب سے رکھنا۔
 ارْتَضَدَ المتاع: سامان ترتیب سے رکھنا۔
 رَضَعُ (س) وَرَضَعُ (ف من) رَضَعًا وَرَضَعًا وَرَضَعًا وَرَضَعًا وَرَضَعًا وَرَضَعًا وَرَضَعًا وَرَضَعًا: الوالدُ امه: ماں کا دودھ پینا۔ صفت (رَضِيعٌ)
 رَضِعَ (ک) رَضَاعَةً: لیم ہونا۔ کمینہ ہونا۔ صفت (رَضِيعٌ)
 رَضَعَهُ رَضَاعًا وَرَضَاعَةً: رضاعی بھائی کے ساتھ دودھ پینا انہ۔ والی پلائی کو دینا الطفلُ: سچے کا پنی حاملہ ماں کا دودھ پینا۔
 ارْضَعَهُ دودھ پلانا۔ ارْضَعَتِ المرأةُ: دودھ پینے پچے والی ہونا۔ صفت (رَضِيعٌ) اس کلمہ میں تعلات تائبہ لاحق ہیں ہوتی اس وجہ سے یہ کہ طبقہ اثاث ہی کیلئے مخصوص ہے اور جب بچہ پستان کو منہ میں لے لے تو اس

ہونا۔ راضی ہونا۔ صفت (راض) ج
رَضُونُ و رَضَاةٌ و رَضٌ ج رَضُونٌ و
(رضی) ج اَرْضِيَاءُ و رَضَاةٌ۔
رضی۔ الشیءُ رَضِيٌّ بِهِ و فِيهِ: پسند
کرنا۔ قناعت کرنا۔ صفت مفعولی (مَرْضِيٌّ و
مَرْضُونٌ) کہا جاتا ہے "رضی اللہ عن فلان
و رضی عنہ" یعنی اللہ اس کے اعمال کو قبول
کرتے اور اس سے خوش رہے۔ "رضیت
مَعِيْشَةً" اس کی زندگی پسندیدہ ہے۔

راضی رَضَاءٌ و مِرْضَاةٌ۔ الرِّجْلُ
رضامندی طلب کرنا۔ پسندیدگی میں مقابلہ
کرنا۔

أَرْضِيٌّ و رَضِيٌّ۔ الرِّجْلُ: رضامند کرنا۔
خوش کرنے کے لائق دینا۔

تَرْضِيٌّ۔ الرِّجْلُ: رضامندی طلب کرنا۔
تَرْضَايِيٌّ۔ الْقَوْمُ الشَّيْءُ: قوم میں سے ہر
ایک کا کسی چیز کو پسند کرنا۔

إِرْتَضَاءٌ لِحَدْمَتِهِ او لَصَحْبَتِهِ: پسند
کرنا۔

اِسْتَرْضَادٌ: رضامندی طلب کرنا۔ و
اِسْتَرْضِيْتَهُ کسی سے یہ کہنا کہ مجھے رضامند
کرو۔

رَجُلٌ و امْرَأَةٌ (رضی) پسندیدہ مرد یا
عورت (چونکہ یہ مصدر بمعنی مفعول ہے اس
لئے مفرد مشنہ جمع مذکر مؤنث سب کیلئے یہی
ہے)

عَيْشَةٌ (راضیة) پسندیدہ و اچھی زندگی (اس
میں استاد مجازی ہے)

رَضَوِيٌّ۔ مدینہ طیبہ او رینج کے درمیان
ایک پہاڑ کا نام اور نہت کے لئے رَضَوِيٌّ۔
الرضاء: خوشنودی۔

الرضوة: خوشنودی۔ کہا جاتا ہے "ما
فَعَلْتُ ذَلِكَ اِلَّا عَن رَضْوَتِهِ" میں نے اس
کو اس کی رضامندی سے کیا۔

الرضیٰ عَاشِقٌ۔ دہلا۔ چھریا۔
ارطُّ اِرْطَاظًا۔ بیوقوف ہونا۔ چلانا۔ شور
چانا۔ فی مَقْعَدِهِ: جم کے بیٹھنا۔

"شَرِيْتُ الرَضِيْفَةَ" میں نے گرم پتھر ڈال
کر گرم کیا ہوا دودھ پیا۔ الرَضِيْفُ
والمَرَضُوْفُ: گرم پتھر پر بھنا ہوا گوشت۔
الرَضِيْفَةُ و المَرَضُوْفَةُ: اوجھ جس کی دھو
کر سفر میں اپنے ساتھ رکھتے تھے اور جب ہانڈی
نہیں ہوتی تھی تو گوشت کے ٹکڑے کا ٹکڑا اسی
اوجھ میں بھر دیتے تھے اور پھر پتھر گرم کر کے
اس کو بھی اسی اوجھ میں ڈال دیتے تھے تاکہ اس
کی گرمی سے گوشت پک جائے۔

المِرْضَاةُ: داغ کرنے کا آلہ۔
مُطْفِئَةٌ (الرَضْفُ): ایسی سخت مصیبت جو
پچھلی مصیبتوں کو بھلا دے۔ چربی جو پھل کر
پتھر کی گرمی بھلا دے۔ بہت زہر بلا سانپ جس
کے زہر سے پتھر کی گرمی کم ہو جائے جبکہ وہ اس
پر سے گزرے۔

أَرْضَكُ: عَيْنِيَّة: آنکھوں کو بند کرنا اور
کھولنا۔

رَضَمَ (ض) رَضْمًا: الأَرْضُ: زمین کو
جو توتا البَيْتُ: گھر کو بڑے بڑے پتھروں سے
بنانا۔ صفت مفعولی (رَضِيْمٌ و مَرْضُوْمٌ)

المَتَاعُ: سامان کو تہ بہ رکھنا۔ الشَّيْءُ:
تُوْزَنُ عَلَيْهِ الصَّخْرُ: ذَالنا (رَضْمًا
و رَضْمَانًا) فِي المَشْيِ: سست چلنا۔

قَرِيْبٌ قَرِيْبٌ قَدَمٌ رُكْحٌ كَرْدُوْنَا بِالْمَكَانِ:
اقامت کرنا۔

اِرْتَضَمَ: المَتَاعُ: سامان تہ بہ ہونا۔
الرَضْمُ و الرَضْمُ و الرَضَامُ: بڑے بڑے
پتھر جو عمارت میں اوپر تلے رکھے جائیں۔ رَضْمٌ
كَاوَادٌ (رَضْمَةٌ)

الرَضَامُ: ایک قسم کی گھاس۔ ہر چیز کا قلیل
حصہ۔

رَضَاهُ يَرْضُوهُ رَضْوًا: پسندیدگی میں
غالب ہونا۔ کہا جاتا ہے "راضیانی
فَرْضُوْتُهُ" اس نے مجھ سے پسندیدگی میں
مقابلہ کیا اور میں غالب رہا۔

رَضِيٌّ (س) رَضِيٌّ و رَضُوْنَا و
رَضُوْنَا و مَرْضَاةٌ: عَنهُ و عَلَيْهِ: خوش

وقت صفت (مَرْضَعَةٌ) ہوگی۔ ج
مَرْضَعَاتٌ و مَرْضَاعٌ)
اِسْتَرْضَعَ: دانی پلانی طلب کرنا یا دودھ پلانے
کو کہنا۔ کہا جاتا ہے "اِسْتَرْضَعْتُ المَرَاةَ
و لَدِيَّ"، عورت سے میں نے اپنے بچے کو دودھ
پلانے کو کہا۔

الرَضْعُ: کیننگی۔ کھجور کے چھوٹے چھوٹے
پودے۔ واحد (رَضْعَةٌ)
الرَضِيعُ: فا۔ دودھ والی۔ کینڈ۔ بچل۔
لوگوں سے سوال کرنے والا۔

الرَضِيعَةُ: راضع کا مؤنث۔ الرَضِيعَتَانِ بچے
کے اگلے دو دانت۔ ج رَوَاضِعُ۔

الرَضِيعُ: ج رَضَعَاءُ و الرَضِيعُ ج
رَضِعٌ: دودھ پیتا بچہ۔ کینڈ۔ رَضِيعَةٌ:
تمہارا رضاعی بھائی اور وہ تمہارا رضاعی بھائی
ہوگا اس لئے مراضع کے معنی میں ہے۔

الرَضَاعَةُ: بس۔ بچھوئی اور دکھنی ہواؤں کے
درمیان کی ہوا۔ (و الرَضَاعَةُ) اِرْضَاعٌ كَا
اسم۔

الرَضُوْعَةُ: اپنے بچے کو دودھ پلانے والی
عورت۔
الرَضَاعُ: بہت دودھ پلانے والے۔ کینڈ۔

المَرْضَاعُ: کینڈ۔
رَضْفَةٌ (ض) رَضْفًا: داغ لگانا۔ رَضْفٌ
اللبنِ: دودھ کو گرم پتھر پر گرم کرنا اللحمِ:
گوشت کو گرم پتھر پر بھونا۔

رَضْفَةٌ: سخت غصہ ناک کر دینا۔
الرَضْفُ: گرم پتھر۔ واحد (رَضْفَةٌ) کہا جاتا
ہے "هُوَ عَلِيٌّ الرَضْفُ" یعنی وہ رنجیدہ
ہے۔ الرَضْفُ: بلی ہوئی انگلیوں کی مالتھا گھٹنے

کی ہڈیاں اور امثال میں سے ہے "حَدُّ مِنْ
الرَضْفَةِ مَا عَلَيَّهَا" یعنی بچل آدمی سے جو
کچھ تھوڑا سا لے ہی لے لو۔

الرَضْفَةُ: گرم پتھر۔ گرم پتھر سے کیا ہوا
داغ۔ ج رَضْفٌ و رَضْفَاتٌ۔
الرَضِيْفُ: گرم پتھر (و الرَضِيْفَةُ) گرم
پتھر ڈال کر گرم کیا ہوا دودھ اور اسی سے ہے

الرَّطْبَةُ: گھاس نما پودہ تین پتوں والا۔ بخششی رنگ پھولوں والا جنگل میں اور زراعت کیا جاتا ہے۔
 المرطبة: کھارن کنوئیں کے درمیان بیٹھا کنواں۔
 المرطاب: درجہ حرارت اور ہوا کا دباؤ معلوم کرنے کا آلہ دوسرا نام میزان رطوبت ہے۔
 الرطاب: بروزن نظام: عورتوں کے لئے ایک گالی۔
 المرطبان: اچار مرہ جمع کرنے کے لئے برتن۔ (عامی لفظ ہے)
 الرطن: کمزور بال وغیرہ۔
 الرطازات: خرافات۔
 الرطس: (نض) طمس۔ تھپڑ مارنا۔
 الرطست: غلبہ الحجازہ: پتھروں کا تہ ہونا۔
 رطع (ف) رطعا: الجارية: جماع کرنا۔
 الرطع: زکام۔
 الرطل (ن) الرطلا: السی ہاتھ میں اٹھا کر وزن معلوم کرنا الرطل: دوڑنا۔
 الرطل: السعیر: تیل لگا کر نرم کرنا اور کھینچ کرنا۔
 الرطی: رطل پیانہ سے وزن کرنا (وازل) الرطیل: ڈھیلے لکھے ہوئے کانوں والا ہونا۔
 الرطل: رطل سے بیچنا۔
 الرطل والرطل: بارہ اوقیہ کا ایک وزن۔
 الرطلا: رطلا: الرطل من الرجال: بیوقوف۔ سست۔ کمزور بڑھلا لاغر اندام۔
 الرطلا: قریب البلوغ لڑکا۔ سب رفتار گھوڑی۔
 الرطلاء: رطلا کی تھیف ہے۔
 المرطل: من الرجال: نرم۔ لہلہ۔
 الرطمة (ن) الرطما: کچھڑ میں گرانا۔ پیچیدہ اور مشکل کام میں پھنسانا۔
 الرطم: الرطم فی فعودہ: جم کے بیٹھنا۔
 الرطم الرطل: خاموش رہنا۔
 الرطم: البعیر: اونٹ کو قبض کی بیماری ہونا۔

استرطه: بیوقوف سمجھنا۔
 الرطیط: شور۔ جج۔ بیوقوفی۔ بیوقوف۔ ج رطاط۔
 الرطانط: بیوقوف (جمع ہی ہے اس کے لئے واحد نہیں)
 رطاً (ف) رطاً القوم: قوم کو ناپسندیدہ امر میں پھنسا دینا بلسلجہ: پاخانہ کرنا
 المرأة: جماع کرنا۔
 استرطاً الرجل: بیوقوف ہونا الرجل:
 بیوقوف سمجھنا۔
 الرطاً: بیوقوفی۔
 الرطی: بیوقوف۔ رطاء مؤنثوطة: و رطاء۔
 رطب (ن) رطابة البسور پختہ ہونا۔ بر کھجور کا رطب ہونا۔
 رطب (ن) رطبا و رطوبنا: اللذابة: جانور کو تازہ چارہ کھلانا۔
 رطب (س) ورطب (ک) رطوبتہ: و رطابة: تر ہونا۔ نمناک ہونا۔ نازک ہونا۔
 رطب البسور: پختہ ہونا۔
 رطب و ازطب: الثوب و نحوه: تر کرنا۔
 رطب و ازطب البسور: پختہ ہونا۔ رطب القوم: پختہ کھجور کھلانا۔ و ازطبت الارض: زمین کا بہت پختہ کھجور والی ہونا۔
 ازطب النخل: کھجور کے پکنے کا وقت آنا۔
 ازطب القوم: پختہ کھجوروں کے درخت خرما کا ناک ہونا۔
 رطب: تر ہونا اور اسی سے ہے "ترطب لسانی بذکرک" تمہاری یاد سے میری زبان تر ہے۔
 الرطب والرطب: تر۔ نرم و نازک شہنی یا پروغیرہ۔ کہا جاتا ہے "عیش رطیب" خوش حال زندگی۔
 الرطب والرطب: سبز چارہ۔
 الرطب: پختہ تازہ کھجور۔ واحد (رطب) ج رطاب و ازطاب۔

بادل۔ ایک قسم کی مچھلی جس کے چھوٹے سے کچھنی طاری ہو جاتی ہے اور اس کو "سَمَكَةُ الرَّعْدِ" بھی کہتے ہیں۔

الرَّعْدَةُ: بہت بولنے والا۔

الرَّاعِدَةُ: گرجنے والا بادل حَصَلَفٌ تَحْتَ الرَّاعِدَةِ: اس شخص کے لئے بطور مثال کے کہتے ہیں جو بہت بک بک کرے اور ڈریک مارے اور اس سے کچھ خیر حاصل نہ ہو۔

رَوَاعِدُ ذَاتِ الرِّوَاعِدِ: مصیبت۔

رَعْدٌ: سوال کرنے میں اصرار کرنا۔

تَرَعَّدُ: کچھنی ہونا۔

الرَّعِيدَةُ: بہت کالپنے والا۔

رَعْدِيَّةٌ: نرم و نازک نباتات۔

رَعْدِيَّةٌ: بہت گرجنا۔

رَعْدِيَّةٌ: پانی کا سطح زمین پر لہریں مارنا۔

رَعْدِيَّةٌ: گھوڑے پر سوار ہونے کے لئے سوار ہونا۔

رَعْدِيَّةٌ: آگاہ۔

رَعْدِيَّةٌ: بچے کا بڑھنا و جوان ہونا۔

رَعْدِيَّةٌ: پانی یا سراب کا متلاطم ہونا۔

رَعْدِيَّةٌ: دانت کا ہلنا۔

رَعْدِيَّةٌ: اچھے قد اور اچھی جوانی والا۔

رَعْدِيَّةٌ: بادل کا گرجنا۔

رَعْدِيَّةٌ: بادل کا گرجنا۔

رَعْدِيَّةٌ: بادل کا گرجنا۔

رَعْدِيَّةٌ: بادل کا گرجنا۔

رَعْدِيَّةٌ: بادل کا گرجنا۔

رَعْدِيَّةٌ: بادل کا گرجنا۔

رَعْدِيَّةٌ: بادل کا گرجنا۔

رَعْدِيَّةٌ: بادل کا گرجنا۔

رَعْدِيَّةٌ: بادل کا گرجنا۔

رَعْدِيَّةٌ: بادل کا گرجنا۔

رَعْدِيَّةٌ: بادل کا گرجنا۔

رَعْدِيَّةٌ: بادل کا گرجنا۔

رَعْدِيَّةٌ: بادل کا گرجنا۔

رَعْدِيَّةٌ: بادل کا گرجنا۔

رَعْدِيَّةٌ: بادل کا گرجنا۔

رَعْدِيَّةٌ: بادل کا گرجنا۔

رَعْدِيَّةٌ: بادل کا گرجنا۔

رَعْدِيَّةٌ: بادل کا گرجنا۔

رَعْدِيَّةٌ: بادل کا گرجنا۔

رَعْدِيَّةٌ: بادل کا گرجنا۔

رَعْدِيَّةٌ: بادل کا گرجنا۔

رَعْدِيَّةٌ: بادل کا گرجنا۔

رَعْدِيَّةٌ: بادل کا گرجنا۔

انار کی کٹی۔

الرَّعِيَّةُ وَالرَّعِيَّةُ: بادل۔ مرغ کی کٹی امرغ کی والی۔

الرَّعِيَّةُ: بکری جس کے کانوں کے کنارے کٹے ہوئے لک رہے ہوں۔

الرَّعِيَّةُ: پتھر جس پر کھڑے ہو کر پانی کھینچیں یا وہ پتھر جس کو کٹواں کھودتے وقت کٹوئیں میں ڈال دیں تاکہ آئندہ اسی پر بیٹھ کر کٹوئیں کو صاف کریں۔

الرَّعِيَّةُ: (ف) رَعِيَّةٌ وَرَعِيَّةٌ وَرَعِيَّةٌ: بکری کا لگاتار چمکانا۔

الرَّعِيَّةُ: (س) رَعِيَّةٌ الْمَالِ: او اعْدُو: بہت ہونا۔

الرَّعِيَّةُ: (ف) رَعِيَّةٌ وَرَعِيَّةٌ وَرَعِيَّةٌ: بکری کا لگاتار چمکانا۔

الرَّعِيَّةُ: (س) رَعِيَّةٌ الْمَالِ: او اعْدُو: بہت ہونا۔

الرَّعِيَّةُ: (ف) رَعِيَّةٌ وَرَعِيَّةٌ وَرَعِيَّةٌ: بکری کا لگاتار چمکانا۔

الرَّعِيَّةُ: (س) رَعِيَّةٌ الْمَالِ: او اعْدُو: بہت ہونا۔

الرَّعِيَّةُ: (ف) رَعِيَّةٌ وَرَعِيَّةٌ وَرَعِيَّةٌ: بکری کا لگاتار چمکانا۔

الرَّعِيَّةُ: (س) رَعِيَّةٌ الْمَالِ: او اعْدُو: بہت ہونا۔

الرَّعِيَّةُ: (ف) رَعِيَّةٌ وَرَعِيَّةٌ وَرَعِيَّةٌ: بکری کا لگاتار چمکانا۔

الرَّعِيَّةُ: (س) رَعِيَّةٌ الْمَالِ: او اعْدُو: بہت ہونا۔

الرَّعِيَّةُ: (ف) رَعِيَّةٌ وَرَعِيَّةٌ وَرَعِيَّةٌ: بکری کا لگاتار چمکانا۔

الرَّعِيَّةُ: (س) رَعِيَّةٌ الْمَالِ: او اعْدُو: بہت ہونا۔

الرَّعِيَّةُ: (ف) رَعِيَّةٌ وَرَعِيَّةٌ وَرَعِيَّةٌ: بکری کا لگاتار چمکانا۔

الرَّعِيَّةُ: (س) رَعِيَّةٌ الْمَالِ: او اعْدُو: بہت ہونا۔

الرَّعِيَّةُ: (ف) رَعِيَّةٌ وَرَعِيَّةٌ وَرَعِيَّةٌ: بکری کا لگاتار چمکانا۔

الرَّعِيَّةُ: (س) رَعِيَّةٌ الْمَالِ: او اعْدُو: بہت ہونا۔

الرَّعِيَّةُ: (ف) رَعِيَّةٌ وَرَعِيَّةٌ وَرَعِيَّةٌ: بکری کا لگاتار چمکانا۔

الرَّعِيَّةُ: (س) رَعِيَّةٌ الْمَالِ: او اعْدُو: بہت ہونا۔

الرَّعِيَّةُ: (ف) رَعِيَّةٌ وَرَعِيَّةٌ وَرَعِيَّةٌ: بکری کا لگاتار چمکانا۔

الرَّعِيَّةُ: (س) رَعِيَّةٌ الْمَالِ: او اعْدُو: بہت ہونا۔

الرَّعِيَّةُ: (ف) رَعِيَّةٌ وَرَعِيَّةٌ وَرَعِيَّةٌ: بکری کا لگاتار چمکانا۔

الرَّعِيَّةُ: (س) رَعِيَّةٌ الْمَالِ: او اعْدُو: بہت ہونا۔

الرَّعِيَّةُ: (ف) رَعِيَّةٌ وَرَعِيَّةٌ وَرَعِيَّةٌ: بکری کا لگاتار چمکانا۔

الرَّعِيَّةُ: (س) رَعِيَّةٌ الْمَالِ: او اعْدُو: بہت ہونا۔

الرَّعِيَّةُ: (ف) رَعِيَّةٌ وَرَعِيَّةٌ وَرَعِيَّةٌ: بکری کا لگاتار چمکانا۔

الرَّعِيَّةُ: (س) رَعِيَّةٌ الْمَالِ: او اعْدُو: بہت ہونا۔

الرَّعِيَّةُ: (ف) رَعِيَّةٌ وَرَعِيَّةٌ وَرَعِيَّةٌ: بکری کا لگاتار چمکانا۔

الرَّعِيَّةُ: (س) رَعِيَّةٌ الْمَالِ: او اعْدُو: بہت ہونا۔

الرَّعِيَّةُ: (ف) رَعِيَّةٌ وَرَعِيَّةٌ وَرَعِيَّةٌ: بکری کا لگاتار چمکانا۔

الرَّعِيَّةُ: (س) رَعِيَّةٌ الْمَالِ: او اعْدُو: بہت ہونا۔

الرَّعِيَّةُ: (ف) رَعِيَّةٌ وَرَعِيَّةٌ وَرَعِيَّةٌ: بکری کا لگاتار چمکانا۔

الرَّعِيَّةُ: (س) رَعِيَّةٌ الْمَالِ: او اعْدُو: بہت ہونا۔

الرَّعِيَّةُ: (ف) رَعِيَّةٌ وَرَعِيَّةٌ وَرَعِيَّةٌ: بکری کا لگاتار چمکانا۔

الرَّعِيَّةُ: (س) رَعِيَّةٌ الْمَالِ: او اعْدُو: بہت ہونا۔

الرَّعِيَّةُ: (ف) رَعِيَّةٌ وَرَعِيَّةٌ وَرَعِيَّةٌ: بکری کا لگاتار چمکانا۔

الرَّعِيَّةُ: (س) رَعِيَّةٌ الْمَالِ: او اعْدُو: بہت ہونا۔

الرَّعِيَّةُ: (ف) رَعِيَّةٌ وَرَعِيَّةٌ وَرَعِيَّةٌ: بکری کا لگاتار چمکانا۔

الرَّعِيَّةُ: (س) رَعِيَّةٌ الْمَالِ: او اعْدُو: بہت ہونا۔

الرَّعِيَّةُ: (ف) رَعِيَّةٌ وَرَعِيَّةٌ وَرَعِيَّةٌ: بکری کا لگاتار چمکانا۔

رَعِيَّةٌ الْعَيْنِ وَرَعِيَّةٌ الْعَيْنِ: بزدل جو ہر چیز کو دیکھ کر خائف ہو جائے۔

رَعِيَّةٌ: بزدل۔

الرَّعَابُ: جادو کرنے والا۔

الرَّعَابُ: مہی نثر بولنے والا۔

الرَّعَابَةُ: لوگوں کو بہت ڈرانے والا۔

الرَّعَابُ: بزدل۔

الرَّعَابُ: مہی نثر بولنے والا۔

الرَّعَابُ: بزدل۔

الرَّعَابُ: مہی نثر بولنے والا۔

الرَّعَابُ: بزدل۔

الرَّعَابُ: مہی نثر بولنے والا۔

الرَّعَابُ: بزدل۔

الرَّعَابُ: مہی نثر بولنے والا۔

الرَّعَابُ: بزدل۔

الرَّعَابُ: مہی نثر بولنے والا۔

الرَّعَابُ: بزدل۔

الرَّعَابُ: مہی نثر بولنے والا۔

الرَّعَابُ: بزدل۔

الرَّعَابُ: مہی نثر بولنے والا۔

الرَّعَابُ: بزدل۔

الرَّعَابُ: مہی نثر بولنے والا۔

الرَّعَابُ: بزدل۔

الرَّعَابُ: مہی نثر بولنے والا۔

الرَّعَابُ: بزدل۔

الرَّعَابُ: مہی نثر بولنے والا۔

الرَّعَابُ: بزدل۔

الرَّعَابُ: مہی نثر بولنے والا۔

الرَّعَابُ: بزدل۔

الرَّعَابُ: مہی نثر بولنے والا۔

الرَّعَابُ: بزدل۔

الرَّعَابُ: مہی نثر بولنے والا۔

الرَّعَابُ: بزدل۔

الرَّعَابُ: مہی نثر بولنے والا۔

الرَّعَابُ: بزدل۔

الرَّعَابُ: مہی نثر بولنے والا۔

الرَّعَابُ: بزدل۔

الرَّعَابُ: مہی نثر بولنے والا۔

الرَّعَابُ: بزدل۔

الرَّعَابُ: مہی نثر بولنے والا۔

الرَّعَابُ: بزدل۔

الرَّعَابُ: مہی نثر بولنے والا۔

الرَّعَابُ: بزدل۔

الرَّعَابُ: مہی نثر بولنے والا۔

أَرْعَشَهُ وَرَعَّشَهُ. كَيْفَا دِيْنَا - لِرَزَا دِيْنَا - عَاجِر كَرْنَا -
الرَّعِشُ وَالرَّعِشِيُّش. بَزْدَل - جِلْد بَاز -
الرَّوْعِشَةُ. جِلْد بَازِي -
الرُّعَاشُ. مَرَضٌ كِي وَجْهَ سَ كَچْپِيَا -
نَاقَةُ (رُعُوش) بِرَاحِپَ كِي وَجْهَ سَ مَر -
بَلَانِ وَالِي اَو نَثِي -
الرُّعِشَاءُ. مِّنَ النَّعَامِ: تِيْزَر قَارِ شَر مَرغ -
مِنَ النَّوْقِ: تِيْزَر قَارِي كِي وَجْهَ سَ جِھو مَنِي -
وَالِي اَو نَثِي -
الرُّعُوشُ وَالرُّعُوشُ. اِيك تَسْم كَا سَفِيْد -
كَبُو تَر جَوْضَا ئِ آسَانِي مِيں چَكَر لَگَا تَا ہے -
الرُّعُوشُن. كَاچْنِے وَالَا - بَزْدَل - جِلْدِي كَرْنِے -
وَالَا -
رَعَصَ (ف) رَعَصًا وَارْعَصَ الشَّيْءُ:
حَرَكْتُ دِيْنَا - بَلَانَا - كَچْپِيَا عَلَيْہِ جِلْدُہُ: كَھَال -
كَا پَچْر كَرْنَا -
تَرَعَصَ وَارْتَعَصَ عَلَيْهِ جِلْدُہُ: كَھَال كَا -
پَچْر كَرْنَا الْجِدِي: كَبْرِي كَے سَچَّ كَا خُوشِي مِيں -
اَكْر اُچْھَلَا -
رَعَطَ (ف) رَعَطًا السَّهْمُ: پِيكَا ن لَگَا نَے -
كِي جِلْدَ بَنَانَا - پِيكَا ن كِي جِلْدَ تُوْر دِيْنَا -
رَعَطَ عَنْ كَذَا: سَسْتُ كَر دِيْنَا - جِلْدِي -
كِرَا نَا لَو تَد: اُكْھِيْر نَے كَے لَئِے بَلَانَا -
أَرَعَطَ السَّهْمُ: پِيكَا ن لَگَا نَے كِي جِلْدَ بَنَانَا -
فَلَانَا: سَسْتُ كَر دِيْنَا -
الرُّعَطُ. تِيْر مِيں پِيكَا ن لَگَا نَے كِي جِلْدَ - ج
أَرَعَطَا. كَھَا جَاتَا ہے "كَسْرَ عَلَيْہِ أَرَعَطَا
النَّبَال" يَئِنِي وَہَا سَ پَر بَہْت غَضِيْنا كَ ہوا اس
لَئِے كَ شِدْتِ غَضَبِ مِيں آدِي تِيْر كُور مِيں مِيں
گَھَسَا تَا ہے يِہَاں تِك كَ پِيكَا ن لُوثَ جَاتَا ہے -
رَعَفَ (ف) رَعَفًا الفَرَسُ الخَيْلُ:
آگے بڑھ جاتا -
رَعَفَ (س) رَعَفًا الدَّمُ: كَسِيْر پُھو نَا -
(وَرَعَفَ ف) رَعَفًا وَرَعَفًا
الرُّجُلُ: كَسِيْر وَالَا ہونَا - كَھَا جَاتَا ہے "رَعَفَ
بِہ النَّبَاب" يَئِنِي وَہَا چَا نِك دَاخِل ہوا -

أَرْعَفَهُ. جِلْدِي كِرَا نَا لِقُرْبَہُ: مَلِك كُولِبَاب
بَھَر بَا القَلَمُ: قَلَم مِيں زِيَادَہ رُوشَانِي لَگَا نَا -
أَرْتَعَفَ وَاسْتَرَعَفَ. آگے بڑھنا -
وَاسْتَرَعَفَتِ الحَصِي رَحْلَہُ: كَنكِر پُورِيں كَا
پِيْر كُورُونِ اَلُوْد رُو دِيْنَا -
الرُّعْفُ. مَن يَزِہَا رَنَے كِي پَھَر نِي -
الرُّعَافُ. كَسِيْر - بَہْت بَارش -
الرُّعَافُ. بَہْت كَسِيْر وَالَا - بَہْت آگے بڑھنَے
وَالَا -
الرُّعَافِي. بَہْت دِيْنِے وَالَا - (رُعَافُ
بِمَعْنِي كَثِيْر بَارش سَ مَآخُز ہے) -
الرُّعَافُ. فَا. نَظْھِے كَا كَنَارَہ - پَھَاڑ كِي چُو نِي
گُھُوْرُوں سَ آگے بڑھنَے وَالَا گُھُوْرَا ج
رَوَاعِفُ.
الرُّوَاعِفُ. نِيْرَے -
الرُّعُوفُ وَالرُّوَاعُوفُ وَالرُّوَاعُوفَةُ وَ
الأُرْعُوفَةُ. مِّنَ النَّبَرِ: كُنُوْنِيں كَا پَچْر جِسَ پَر
كُھَرُے ہُو كِرَا نِي كَچْپِيَاں -
الرُّعُوفُ. كَلْبِي بَارش -
الرُّمَاعِفُ. نَاك اُور اس كَا رُوْدُ رُوْدُ كَھَا جَاتَا
ہے "فَعَلْتُهُ عَلَي الرُّعْمِ مِّن مَّرَاعِفِہُ" يَئِنِي
مِيں نَے اس كُورَاں سَ مَرَا نَے كَے خَلَا ف كِيَا -
الرُّمُسْتَرَعَفُ. مِّنَ الخَيْلِ: آگے رَہنَے
وَالَا گُھُوْرَا -
رَعَقَ (ف) رُعَاقًا وَرَعِيقًا. بَطْنُ
الدَّابَّةِ: جَانُور كَے پِيْٹ سَ دُوْر نَے مِيں آواز
لَگَا نَا -
رَعَلَ (ف) رَعَلًا الشَّيْءُ: كَشَاہ - پَھَاڑ نَا -
فَلَانَا: سَخْت نِيْرَہَا رَنَا -
رَعَلَ (س) رَعَلًا. بِيُو قُوف ہونَا -
النَّبَاتُ: لَبِي اُور لَگْھِي ہُو نِي شَاخُوں وَالِي ہونَا -
مَفْت (أَرَعَلَ)
رَعَلَ الكَرْمُ: اُگُور كِي كُو نِيْلِيں پُھو نَا -
أَرَعَلَهُ. سَخْت نِيْرَہَا رَنَا -
اسْتَرَعَلَتِ العَنَمُ: كَبْرِيُوں كَا آگے پِيچْھَے
قَطَار مِيں چَلْنَا - اسْتَرَعَلَ الرَّجُلُ: جَنگ مِيں
آگے آگے چَلْنَا -

الْأَرَعُلُ. بِيُو قُوف - مَوْضِعٌ خَلَاءٌ رَعُجُلٌ
لَبِي اُور لَگْھِي ہُو نِي شَاخ وَالِي نَابَاتَا - ضَرْبُ
أَرَعُلُ: گُوشْت كُوكَاٹ كَر لَگَا دِيْنِے وَالِي تَلُوَار
كِي ضَرْب -
الرُّوْعُلُ. پَھَاڑ كِي نَکَل ہُو نِي نُوک - رَعُلٌ
الرُّجُلُ: كَچْرَے -
الرُّوْعُلُ. شَھِدِي نَز كَھِي -
الرُّوْعَالُ. رِيْنٹ - نَاك كِي رُطُوبَت -
الرُّوْعَالَةُ. بِيُو قُوفِي -
الرُّوْعَلَةُ. شَر مَرغ - كَبْرِي يَا اُو نَثِي كَے كَا ن
كَے پِيچْھَل ھَے كُوكَاٹ كَر لَگَا ہوا كَلَا - عِيَال -
تُھُوْرَے گُھُوْرُوں كَا يَا گَا نِيُوں كَا گِلْد - رَعَالُ وَ
أَرَعَالُ وَارَاعِيْلُ. كَھَا جَاتَا ہے "أَقْبَلْتُ
الخَيْلَ رَعَالًا وَارَاعِيْلًا" أَرَاعِيْلُ الرِّيَاحُ
أَوْ السَّحَابُ: اِبْتِدَائِي ہوا نِيں يَا دُل -
الرُّوْعَلَةُ. اُگُور وَغِيْرَہ كِي كُو نِيْل - ج رَعُلُ
رِيحَانُ وَآس وَغِيْرَہ كَا بَنَانَا جَاتَا ج -
الرُّوْعِيْلُ. آگے آگے رَہنَے وَالِي جَمَاعَت
(گُھُوْرُوں يَا آد مِيُوں يَا پَر نَدُوں كِي) ج رَعَالُ
الرُّوْعِيْلُ. شَمِيْر بَرَا ل -
الرُّوْعِيْلُ. عَمَدَہَا ل -
الرُّمُسْتَرَعِلُ. گِلْدَ سَ لَگَا ہوا جَانُور - گِلْدَ
يَا ن - اُو نٹ وَالَا -
رَعَمَ (ن) رَعَمًا الشَّيْءُ: گَھَہِيَانِي كَرْنَا -
الرُّمُسْمُ. آقْطَاب كَے غُرُوب كَا اِنْتِظَار
كَرْنَا -
رَعَمْتُ (ف) وَرَعَمْتُ (ك) رَعَامَةٌ وَ
أَرَعَمْتُ. الشَّاةُ: بَہْت دَبْلِي ہونَا اُور نَاك
سَ رُطُوبَت بَہنَا - مَفْت (رَعُومُ)
رَعَمَ الشَّاةُ: كَبْرِي كِي نَاك كِي رُطُوبَت
صَاف كَرْنَا -
الرُّرَعَامُ. نَگَاہ كِي تِيْزِي -
الرُّرَعَامُ. رِيْنٹ - نَاك كِي رُطُوبَت - ج
أَرَعَمَةُ.
الرُّرَعَامَةُ وَالرُّرَعَامِي. اِيك تَسْم كَا دَر خَت -
الرُّرَعَامِي. گَھَر كِي زِيَادِي -
الرُّرَعْمُ. چَر بِي - اُم رَعْمُ: بَجُو -

الرُعُومُ. نفس۔
الرُعُومُ نازک بدن عورت۔

رَعْنٌ (ن) رَعْنًا وِرْعِنٌ (س) رَعْنًا و رَعْنٌ (ک) رُعُونَةٌ بیوقوف ہونا۔ ڈھیلا ہونا۔ گفتگو میں ٹپس والا ہونا۔ ہتھ (اُرْعِن) رَعْنَتُهُ (ن) رَعْنًا الشَّمْسُ دھوپ لگنے سے بیہوش طاری ہونا۔

الرَعْنُ۔ سر پہاڑ کی چوٹی۔ اونچا پہاڑ۔ ج رَعَانٌ و رُعُونٌ۔ چوٹی والا پہاڑ۔ اونچی چوٹی والا۔ الرَعُونُ تیز یا بہت حرکت کرنے والا۔ رات کی تاریکی۔

رَعًا یُرْعُو رَعًا وِرْعُوَةً وِرْعُوَةً و رُعُوَةً رُعُوَةً کسی سے رجوع کرنا۔ اسم (الرُعُوٰی والرُعِیَا)

اِرْعُوٰی اِرْعُوًا۔ مِنَ الْجَهْلِ۔ رکنہ باز رہنا۔ صفت (مُرْعُو) رجوع کرنا۔

رَعِیٌ یُرْعِی رَعِیًا وِرْعَیَةً وِمُرْعِی المَاشِیَةِ الْکَلْبِہ۔ جانور کا گھاس چرنا المَاشِیَةِ۔ جانور کو گھاس چرانا النُجُومِ: ستاروں کے غروب کا انتظار کرنا الْأَمِیرِ رَعِیَّةً رَعَیًا: امیر کا انتظام مملکت کرنا عَلَیْہِ حُرْمَتِہ: پاس عزت کرنا الْأَمْرِ: حفاظت کرنا۔

رَاعِیٌ مُرَاعَاةً النُجُومِ: ستاروں کے غروب کا انتظار کرنا الْأَمْرِ: حفاظت کرنا۔ اِنجَامِ پُرْعُورِ کرنا الرَّجُلِ: کسی کے حق کو نگاہ رکھنا۔ رَاعِبٌ الْأَرْضِ: بہت چراگاہ والی ہونا۔

رَاعِیَّتُهُ سَمِعِی: توجہ کرنا۔ کان لگانا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ لَا یُرَاعِیَ الِیَّ قَوْلِ اِحِدٍ" وہ کسی بات کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ الْحَمَارُ الْحَمْرُ: گدھے کا گدھوں کے ساتھ چرنا۔

اُرْعِی المَاشِیَةِ: جانور کو چرانا الْمَکَانَ: چراگاہ بنانا عَلَیْہِ شَفِیْقَتٌ: مہربانی کرنا۔

اِرْعِیَّتِہ سَمِعِی: بات سنانا اُرْعِبِ الْأَرْضِ: بہت چراگاہ والی ہونا اللہ

المَاشِیَةِ: چری اگانا۔

رَعَاہُ تَرَعِیَةً: کسی سے "رَعَاہُ اللہ" کہنا۔ اِرْتَعَتُ و تَرَعَتُ المَاشِیَةِ: جانور کا چرنا۔

اِسْتَرَعِی اِسْتِرْعَاءً المَاشِیَةِ: چرانے کے لیے کہنا ہ مَاشِیَتِہ: رکھوالی لینے کہنا اور

اسی سے مثال ہے "مَنْ اِسْتَرَعِی الذَّنْبَ فَقَدْ ظَلَمَ" جس نے جھڑپے سے رکھوالی کیلئے کہا۔ اس نے ظلم کیا۔ اس شخص کی لئے بولتے ہیں جو خان کو کسی چیز کا امین بنائے ہ

السَّمْعُ توجہ کرنے کو کہنا ہ الشیء کسی چیز کی حفاظت کرنے کے لیے کہنا۔ الرَعِیَّةُ: چرائی۔

الرُعِیَا و الرُعُوٰی و الرَعِیَا و الرِعُوٰی: حفاظت۔

الرُعِی: سر کہا جاتا ہے "رَعِیًا لک" یعنی تمہاری حفاظت ہو۔

الرِعِی: گھاس۔ ج اِرْعَاءُ رِعِی الحِمَامِ و الْاِبِلِ: دو گھاسوں کے نام۔ الرِعِیَّةُ: چرنے والا جانور۔ جانور جو چرانے جائیں۔ قوم۔ کسی حاکم کے ماتحت عام لوگ۔ ج رَعَانِیَا: رَعِیَّةُ الْمَلِکِ و رعایا: تابع فرمان لوگ۔

الرِعَاوِی و الرِعَاوِی: لوگوں کے ارد گرد چرنے والے مویشی۔

الرِعَاوِیَّةُ: عوام کے مویشی۔ الْأَرْعَاوِیہ: شامی مویشی۔

الرَاعِی: فاعل بہت الفت کرنے والا حاکم قوم۔

رَاعِی المَاشِیَةِ: چرواہا۔ مویشی کا نگہبان۔ ج رَعَاةً و رَعِیَانٌ و رَعَاءٌ و رَعَاءٌ مَوْتٌ رَاعِیَةً ج رَوَاعٍ: رَاعِیَةُ الشَّیْبِ و رَوَاعِیہ: بڑھاپے کی ابتداء۔ رَاعِیُ الْجُوَزَاءِ و رِعِیُ التَّعَامِ: دو ستاروں کے نام۔ رَاعِیُ الْبُسْتَانِ و رَاعِیَةُ الْاَتَنِ: نڈیوں کی ایک قسم۔ رَاعِیَةُ الرَّاسِ: جوں۔

الرَمْرَعِی: سر گھاس۔ ج مَرَاعٍ (و المَرْعَاةُ) چراگاہ۔

الرَمْرَعِی: جو چرا جائے۔ جس کی حفاظت کی جائے۔

رَعِبٌ (س) رَعِبًا و رُعِبًا و رَعِیَةً: فیہ: چاہنا۔ خواہش کرنا۔ عَنہ: اعراض کرنا۔ مَنہ: پھیرنا۔ بے التفاتی کرنا۔ چھوڑ دینا۔

بہ عن غیہ ہ: دوسرے پر نصیلت دینا۔

رَعِبٌ (س) رَعِبًا و رُعِبًا و رَعِیَةً رَعِیَةً و رَعِیًا و رَعِیًا و رَعِیًا و رَعِیًا: خوراری و عاجزی ظاہر کرنا۔ خوراری و ذلت سے مانگنا۔

رَعِبٌ (ک) رَعِبًا و رُعِبًا و رَعِیَةً: بہت کھانا ہونا الرودی: فرس و کشادہ ہونا۔

رَعِبَةٌ و اِرْعِبَةٌ: فی الشیء: رغبت دلانا۔ رَعِبَةٌ: مرغوب چیز دینا۔ کہا جاتا ہے "اِرْعَبِ اللہ فذکر اللہ تعالیٰ تمہارے مرتبہ کو بلند کرے۔

اِرْتَعِبٌ: فیہ: خواہش کرنا۔ چاہنا۔ تَرَاعَبُ الرادی: کشادہ ہونا۔ الناس فی الخیر: خواہش کرنا۔ رغبت کرنا۔ الرَعِبُ: مرغوب۔

الرُعْبُ و اِرْعَابٌ: مِنَ الْأَرْضِ: بارش کو بہت جذب کرنے والی زمین۔

طَرِیْقٌ (رَعِبٌ): کشادہ راستہ۔ ج رَعِبٌ الرَعِیْبُ: بہت کھانا۔ کہا جاتا ہے "حَوْضٌ رَعِیْبٌ و مَدْقَاةٌ رَعِیْبٌ" کشادہ حوض و مشک۔ حَمَلٌ رَعِیْبٌ: بھاری بوجھ اور کہا جاتا ہے "فَرَسٌ رَعِیْبٌ الْخَطْوَةَ" کشادہ قدم والا گھوڑا۔ ج رَعَابٌ

الرَعُوبُ: خواہش کرنے والا۔ رغبت کرنے والا۔

الرَعِیْبَةُ: رَنِیْبٌ کا مؤنث۔ امر مرغوب۔ بہت عطیہ۔ ج غَائِبٌ

رَعَتْ (ف) رَعْنًا: الرَوْلِدُ اُمُّہ: ماں کا دودھ پینا ہ: لگاتار تیرے مارنا الْقَوْمُ فَلَانًا: سوال کر کے سار مال ختم کر دینا۔

رُعَتْ: کسی سے بہت سوال کیا جانا اور اس کی وجہ سے سار مال ختم ہونا۔ پستان کی رگوں میں

درد ہونا۔

أَرْغَشْتُ الْمَرْأَةَ: والی پلائی ہونا۔
وَلَدَهَا: دودھ پلانا۔ صفت اَرْغُوتٌ
وَرَعُوتَةٌ وَ مَرْعُتٌ: اَرْغَشَهُ: پستان کی
رگوں میں نیزہ مارنا۔ بار بار نیزہ مارنا۔
أَرْعَشْتُ الْوَلَدَ أُمَّهُ: بچے کا اپنی ماں کا دودھ
پینا۔

الرُّغْشَاءُ: پستان کی وہ رگیں جن سے دودھ
نکلتا ہے۔

الرُّمْعَةُ: انگلی میں انگوٹھی کی جگہ۔

رَعْدٌ (س) رَعْدًا وَرَعْدًا (ک) رَعَادَةٌ
عَيْشُهُ: آسودہ و خوش حال ہونا۔ عیش کی
صفت (رَعْدٌ وَرَعْدٌ وَرَعِيدٌ)

أَرْعَدَ الْقَوْمَ: آسودہ زندگی والی ہونا
مُؤَاشِيهِمْ: جانوروں کے چرنے کے لیے
آزاد چھوڑنا اللَّهُ عَيْشُهُ: آسودہ بنانا۔

أَرْعَادٌ رَأَى فِي مَرْتَدٍ هُوَ اللَّيْسُ: دودھ
کا کچھ کچھ گاڑھا ہونا۔

اسْتَرْعَدَ الْعَيْشَ: آسودہ زندگی پانا۔ قَوْمٌ
(رَعْدٌ) وَ نِسَاءٌ رَعْدٌ: آسودہ زندگی والی
قوم۔ اور یہ رَعَادُكَ جمع ہے جیسے خادم کی
جمع خَدَمٌ۔

الرَّعِيدَةُ: ایک قسم کا کھانا جو جوش دیے
ہوئے دودھ میں آنا ڈال کر تیار کیا جاتا ہے۔

الرُّمْعَةُ: باغ۔

رَعْسَةٌ (ف) رَعْسًا وَرَعْسَةً: اللہ مالا
وولدًا: بہت دینا۔

اسْتَرْعَسَهُ: نرم سمجھنا۔

الرُّعْسُ: نعت دبرکت۔ نحو: رَجُوعُ رَعْسًا
الرُّعْسُ: من الْعَيْشِ: فِرَاحٌ زَنْدُكِيٌّ۔

الرُّعْسُ: مبارک۔

الرُّعْسُ: طَرَعُوسٌ كَامُونَةٌ۔ کثرت
سے بچنے والی عورت۔

رَغَشَ (ف) رَغْشًا: عَلَيْهِ شُورٌ مَجَانًا۔

رَغَفَ (ف) رَغْفًا: الْعَجِيْنُ كُنْدَسِيٌّ
ہوئے آنے کا پیر ہونا البعير: اونٹ کے منہ
میں کسی چیز کا ڈالنا۔

أَرْغَفَ: چلنے میں جلدی کرنا إِلَيْهِ: تیز نظر
سے دیکھنا۔

الرَّغِيْفُ: گندھے ہوئے آنے کا پیر۔
چپائی آروٹی۔ رَغٌ أَرْغَفَةٌ وَرَغْفٌ وَرَغْفٌ
رُغْفَانٌ وَ تَرَاغِيْفٌ۔

وَجْهٌ (مُرْغَفٌ) خَسْتٌ چہرہ۔
رَغْلٌ (ف) رَغْلًا: الْوَلَدُ أُمَّهُ: بچے کا اپنی
ماں کا دودھ پینا۔

أَرْغَلَ الرَّجُلُ: غَطِيٌّ كَرَمًا: گمراہ ہونا إِلَيْهِ:
ماکل ہونا الرُّغْ: کھیتی کے خوشوں میں اچھا
دانہ بیٹھنا الشئ: بے موقع رکھنا۔

الْحَدِيْ أُمُّ: بکری کے بچے کا اپنی ماں کا
دودھ پینا الْمَكَانَ: رَغْلٌ نَامِيٌّ لَهَا: آگاتا
الماء: بہت گراتا۔

الرُّغْلُ: ایک قسم کی کڑوی گھاس۔ رَجُوعٌ
أَرْغَالٌ۔

الرُّغُولُ: اپنی ماں کا دودھ پینے والا بکری کا
بچہ۔ کہا جاتا ہے "هُوَ رَمٌّ رَغُولٌ" وہ ہر چیز کو
غیرت سمجھتا ہے اور چٹ کر جاتا ہے۔

الأَرْغُلُ: من الْعَيْشِ: فِرَاحٌ زَنْدُكِيٌّ۔

الرَّغْلَةُ: بکری۔ بھیر کا بچہ۔

رَعْمَةٌ (ف) رَعْمًا: مَقْلُوبٌ وَ مَجْبُورٌ كَرَمًا۔
رَعْمٌ الشئ: ناپسند کرنا۔

رَعْمٌ (س) وَرَعْمٌ (ن) رَعْمًا وَرَعْمًا
أَنفَهُ لِلَّهِ: ذَلِيلٌ هُوَ: فَرُوتِيٌّ كَرَمًا۔ صفت

(رَاعِمٌ) الْأَنْفِ: رَجُوعٌ الْأَنْوْفُ
وَ رَعْمَةٌ: نَاطِقٌ كَرَمًا۔

رَعْمَةٌ: ذَلِيلٌ كَرَمًا: رَعْمًا رَعْمًا كَرَمًا۔

أَنفَهُ: خَاكٌ آلُودٌ كَرَمًا۔ کہا جاتا ہے "رَعْمٌ
اللَّهُ أَنفَهُ" یعنی اللہ اس کو ذلیل کرے فَلَانٌ
أَنفَهُ: فَرُوتِيٌّ كَرَمًا۔

أَرْعَمَهُ: ذَلِيلٌ كَرَمًا: نَارِاضٌ كَرَمًا: نَاطِقٌ بَدِيهٍ
كَمٍ پَرَاكِسَانًا: دَالٌّ خَاكٌ آلُودٌ كَرَمًا: أَرْعَمٌ
أَهْلُهُ: اپنے اہل کو ناپسندیدگی سے چھوڑنا

اللَّقْمَةُ: من فِيهِ لِقْمَةٌ: كَوْمُنَةٌ سَمِيٌّ فِي مِثْلِ ذَالِنَا
اللَّهُ أَنفَهُ: ذَلِيلٌ كَرَمًا: أَرْعَمَتِ الْعَمَمُ: أَوْ
الطَّبَاءُ: بکری بھیر یا برن کی ناک سے پانی

تاما۔

رغشا۔

رَاعِمَةٌ: باہم غضبناک ہونا۔ ایک دوسرے کو
چھوڑنا۔ دشمنی کرنا۔ غصہ سے علیحدہ ہونا

تَرَعَمْتُ: عَلَيْهِ: غضبناک ہونا۔ تَرَعَمْتُ
الرَّجُلَ: کسی کے مزاج کے خلاف کام کرنا۔

الرَّعْمُ وَ الرَّعْمُ وَ الرَّعْمُ: نَاطِقٌ بَدِيهٍ۔
مَجْبُورِيٌّ ذَلْتُ: مَمِيٌّ۔ کہا جاتا ہے "أَتَى عَلِيٌّ
رَعْمَهُ" وہ باوجود اس کی ناپسندیدگی کے آیا۔

الرَّاعِمُ: فَاءٌ رَاعِمٌ الْأَنْفِ: ذَلِيلٌ رَجُوعٌ
رَعْمٌ الْأَنْوْفُ
الرَّعَامُ: مَمِيٌّ يَأْتِي مَلِيٌّ هُوَ رِيْتٌ۔

الرُّغَامُ: رِيْنَةٌ: رَجُوعَةٌ۔
الرُّغَامَةُ: حَاجَةٌ: مَطْلُوبٌ۔ کہا جاتا ہے
"لِي عِنْدَ فَلَانٍ رُّغَامَةٌ" مجھے فلاں کے پاس
ضرورت ہے۔

الرُّغَمَاءُ: مِنَ الشَّيْءِ نَاكٌ كَعَنَارَةٍ پَرِ
سَفِيْدِيٍّ وَ الْيَا بَسْمَ كَعَرْمِكِ كَعَمَالٍ رَنْكٌ
وَ الْيَا بَكْرِيٌّ۔

الرُّمْعَةُ: مِنَ الشَّيْءِ نَاكٌ كَعَنَارَةٍ پَرِ
سَفِيْدِيٍّ وَ الْيَا بَسْمَ كَعَرْمِكِ كَعَمَالٍ رَنْكٌ
وَ الْيَا بَكْرِيٌّ۔

الرُّمْعَةُ: مِنَ الشَّيْءِ نَاكٌ كَعَنَارَةٍ پَرِ
سَفِيْدِيٍّ وَ الْيَا بَسْمَ كَعَرْمِكِ كَعَمَالٍ رَنْكٌ
وَ الْيَا بَكْرِيٌّ۔

الرُّمْعَةُ: مِنَ الشَّيْءِ نَاكٌ كَعَنَارَةٍ پَرِ
سَفِيْدِيٍّ وَ الْيَا بَسْمَ كَعَرْمِكِ كَعَمَالٍ رَنْكٌ
وَ الْيَا بَكْرِيٌّ۔

رَغَمًا: مَمِيٌّ يَأْتِي مَلِيٌّ هُوَ رِيْتٌ۔
رَغَمًا: مَمِيٌّ يَأْتِي مَلِيٌّ هُوَ رِيْتٌ۔
رَغَمًا: مَمِيٌّ يَأْتِي مَلِيٌّ هُوَ رِيْتٌ۔

رَغَمًا: مَمِيٌّ يَأْتِي مَلِيٌّ هُوَ رِيْتٌ۔
رَغَمًا: مَمِيٌّ يَأْتِي مَلِيٌّ هُوَ رِيْتٌ۔
رَغَمًا: مَمِيٌّ يَأْتِي مَلِيٌّ هُوَ رِيْتٌ۔

رَغَمًا: مَمِيٌّ يَأْتِي مَلِيٌّ هُوَ رِيْتٌ۔
رَغَمًا: مَمِيٌّ يَأْتِي مَلِيٌّ هُوَ رِيْتٌ۔
رَغَمًا: مَمِيٌّ يَأْتِي مَلِيٌّ هُوَ رِيْتٌ۔

رَغَمًا: مَمِيٌّ يَأْتِي مَلِيٌّ هُوَ رِيْتٌ۔
رَغَمًا: مَمِيٌّ يَأْتِي مَلِيٌّ هُوَ رِيْتٌ۔
رَغَمًا: مَمِيٌّ يَأْتِي مَلِيٌّ هُوَ رِيْتٌ۔

رَغَمًا: مَمِيٌّ يَأْتِي مَلِيٌّ هُوَ رِيْتٌ۔
رَغَمًا: مَمِيٌّ يَأْتِي مَلِيٌّ هُوَ رِيْتٌ۔
رَغَمًا: مَمِيٌّ يَأْتِي مَلِيٌّ هُوَ رِيْتٌ۔

رَغَمًا: مَمِيٌّ يَأْتِي مَلِيٌّ هُوَ رِيْتٌ۔
رَغَمًا: مَمِيٌّ يَأْتِي مَلِيٌّ هُوَ رِيْتٌ۔
رَغَمًا: مَمِيٌّ يَأْتِي مَلِيٌّ هُوَ رِيْتٌ۔

رَغَمًا: مَمِيٌّ يَأْتِي مَلِيٌّ هُوَ رِيْتٌ۔
رَغَمًا: مَمِيٌّ يَأْتِي مَلِيٌّ هُوَ رِيْتٌ۔
رَغَمًا: مَمِيٌّ يَأْتِي مَلِيٌّ هُوَ رِيْتٌ۔

رَغَمًا: مَمِيٌّ يَأْتِي مَلِيٌّ هُوَ رِيْتٌ۔
رَغَمًا: مَمِيٌّ يَأْتِي مَلِيٌّ هُوَ رِيْتٌ۔
رَغَمًا: مَمِيٌّ يَأْتِي مَلِيٌّ هُوَ رِيْتٌ۔

ہونا العظم زیزہ زیزہ ہونا۔
 الجبل ریش کا کٹ جانا۔
 الرقت بھوسہ۔ ہر چیز کو توڑنے والا۔
 الرقات چورہ۔ زیزہ۔ ہر وہ چیز جو ٹوٹ
 جائے اور بوسیدہ ہو جائے۔
 رقت (ن ش) رقتا ورقت (س) رقتا
 وارقت۔ فی کلامہ بخش گونئی کرنا۔
 الرقت من گندی گفتگو۔ جماع۔
 رقتہ نبی شادی والے کو مبارکباد دینا۔
 رقت عیش راقح ناز و نعمت کی آسودہ
 زندگی۔
 الرقوق مصیبتیں۔
 رقت (ن ش) رقتا او ارقدہ دینا۔ مد
 دینا۔ رقت الحناط: سہارا دینا۔ رقت
 الدابة و علیہا و ارقد لہا چوپایہ کیلئے
 پالانا۔
 رقتہ درد دینا۔
 رقتہ تعظیم کرنا۔ سردار بنانا۔
 تراقت القوم باہم مدد کرنا۔
 ارققت الممالک ملی کرنا۔ حاصل کرنا۔
 استرققت عظیمہ طلب کرنا۔ مدد طلب کرنا۔
 الرقت۔ حصہ بڑا پیمانہ۔ کہا جاتا ہے "ارقیق
 رقتہ اهل کا انتقال ہو گیا۔
 الرقت ہر وہ چیز جو دوسرے کے ساتھ بڑھا
 دی جائے تاکہ اس کیلئے سہارا ہو جائے۔
 عظیمہ۔ بڑا پیمانہ۔ ج ارقاد در فود۔
 الرقتہ لوگوں کی جماعت۔ ج رقت۔
 الرقت۔ فلاح شاہ کی غیبت میں اس کا قائم
 مقام۔ ج رقت۔
 الرقت النورایہ دلہ و فرات۔
 الرقتہ پیل کے اوپر چھت کی لکڑی۔ عوام
 اسے "رقتہ کہتے ہیں۔ ج رواقف۔
 الرقتہ قدخم کی پٹی۔ زین۔ زین یا کجاہ کے
 سہارے کی چیز۔
 ناقۃ (رفو) ایک دفعہ کے دوھنے میں پیالہ
 بھرنے والی اونٹنی۔ ج رقت۔
 المرقف والمرفق۔ ج مرقف۔

اُرتنا۔
 اُرت ارقفا۔ الطائر پرندہ کا دونوں بازو
 پھیلانا۔
 الرقت من اگنی۔ لکڑی وغیرہ جس کے
 دونوں کنارے دیوار میں لگا کر گھر کا سامان رکھ
 دیں۔ ریت کی پارک ٹوک۔ مویشی کا گلہ یا
 پردوں کی ڈار۔ بکریوں کا باڑہ۔ ملائم کپڑا۔ ج
 رقف و رقف۔
 الرقت اونٹوں کا گلہ۔ بردن کا پینا۔ کہا جاتا
 ہے "اخذتہ الحمی رقتا" اس کو روزانہ
 بخار آیا۔
 الرقت والرقتہ بھوسہ و بھوسہ کا چورہ۔
 الرقت بھوسہ کا چورہ۔
 الرقیف من۔ چھت۔ فراخ سالی فتی
 رقیف الاخلاق اچھے اخلاق والا جوان۔
 الرقت اسم مبالغہ۔ کہا جاتا ہے "تغیر
 رقت شفیق و شفاف دانت۔
 رقت (ن ش) رقتا الثوب کپڑے کو روت کرنا۔
 مرمت کرنا۔ خوف سے تسکین دینا۔ مدد دینا
 بیہم: صلح کرنا۔ السفینۃ کشتی کو کنارہ پر
 لانا۔
 رقتہ رقتہ و ترفینا مبارک یاد دینا اور
 "بالرفاء و البینین" کہنا۔ (بالرفاء
 و البینین بھاری کرنے والے کیلئے دعا ہے کہ
 تم دونوں میں اتفاق و اتحاد رہے اور تمہارے
 بیٹے پیدا ہوں۔
 ارقا۔ الیہ قریب ہونا اور پناہ لینا۔
 الشئ الیہ قریب کرنا الرجل کبھی
 کرتا۔
 السفینۃ کشتی کا کنارہ سے قریب ہونا۔
 ارقا و رقاہد رات کرنا۔ مدد کرنا۔
 الرقاہد اتفاق۔
 الرقاہد فخر۔
 المرقا والمرفا۔ من البحر بندر گاہ۔ ج
 مرقا۔
 رقت (ن ش) رقتا الشئ توڑنا کوٹنا
 چورہ کرنا (وارقت و رقت توڑنا چورہ

رقت (ن ش) رقتہ البعیر او النعام او
 الضبع بلانا۔ چمنا الصبی بہت رونا۔
 الرقت زور سے گرجنا۔
 رقت (ن ش) رقتا و رقتہ و رقتہ
 ارقا۔ اللبن و نحوہ دودھ پر جھاگ
 آنا۔ کہا جاتا ہے "ارقتی الرجل و ارقدہ"
 مرد غضب کی وجہ سے چمچا اور اس نے دھمکی
 دی۔ "و ارقتہ فما ارقی و لا ارقی" میں
 اس کے پاس آیا تو اس نے نہ تو بکری دی نہ
 اونٹنی کو لیل کرنا۔ مفلوب کرنا۔ و رقتی
 فلانا غضبناک کرنا۔
 ارقی۔ اللبن دودھ سے جھاگ اُتار لینا
 الرقتہ جھاگ پینا۔
 الرقتہ و الرقتہ و الرقتہ ج رقتی
 و رقتی و (الرقتہ و الرقتہ و الرقتہ
 و الرقتہ و الرقتہ) من اللبن۔
 دودھ کا جھاگ۔
 الرقتہ اونٹنی۔ کہتے ہیں "مائلہ ثاغیہ
 و لا رقتہ" تو اس کے پاس بکری ہے نہ
 اونٹنی۔
 المرقا بقلبر۔
 المرقی۔ من الکلام بہم گفتگو۔
 رقت (ن ش) رقتہ کھانا خدمت
 کرنا۔ بھالائی و احسان کرنا۔ ہر قسم کی خدمت
 کرنے میں کوشش کرنا الناس بہ گھیر لینا
 بہ اکرام و تعظیم کرنا۔ کہا جاتا ہے "ذہب
 من کان یحفہ و یرقہ لہ شخص چلا گیا جو
 اس پر نوازش و مہربانی کرتا تھا۔
 البیت گھر میں اگنی بنانا الی کذا غرض
 ہونا۔ رقت عینہ پھرنے کا (البرقی بجلي کا
 چمکنا شفقینہ ہونے کا چوسنا۔
 اللبن ہر روز دودھ پینا ثوبہ دوسرا کپڑا لگا
 کر نیچے سے کشاہ کرنا۔
 الدابة بھوسہ کھلانا۔
 رقت (ن ش) رقتا و رقتہ و ارقدہ
 النبات لہلہانا۔ رقت العین پھرنے کا۔
 رقت البرقی بجلي چمکنا۔ رقت لوندہ چمک

رَجُلٌ قَبِيضَةٌ رُقِيصَةٌ بَقِيضٌ كَرْنٌ وَالْأُورُ
جھوڑ دینے والا مرد۔

الرُّفُوضُ متفرق گھاس۔ رُفُوضُ
النَّاسِ: لوگوں کے گروہ۔ رُفُوضُ
الْأَرْضِ: زمین جو کسی کی ملکیت میں نہ ہو۔
زمین جو حیمی ہونے کے بعد جھوڑی گئی
ہو۔

الرَّقِیضُ جھوڑا ہوا۔ پینہ۔ ٹوٹا ہوا تیزہ۔
الرَّقِیضُ وَالْمَرْفُوضُ جھوڑا ہوا۔
الْمَرْفُوضُ مِنَ الْوَادِي: سیلاب بننے کی
جگہ۔ مَرَفُوضٌ۔

رَفَعُ (ف) رَفَعًا الشَّيْءَ أَثْمَانًا فَلَانَا
عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْمَجْلِسِ: آگے بڑھانا
الكَلِمَةُ: لُزُجٌ كِي عَلَامَاتٍ لِكَانَ الشَّيْءِ لِيَنَا
الشَّيْءِ فِي خَزَانَتِهِ: چھپانا الْجَمَلُ فِي
السَّبْرِ: چلنے میں جلدی کرنا الْقَوْمُ: بگلوں
میں گھستے چلے جانا الْجَمَلُ: تیز چلانا
الْحَدِيثُ: پہلے قائل تک سند پہنچانا۔

(رَفَعًا وَرَفَاعًا وَرَفَاعَةً) الْقَوْمُ الزَّرْعُ:
کاننے کے بعد کھلیان میں لے جانا (رَفَعًا
وَرَفَعَانًا) زَيْدًا إِلَى الْحَاكِمِ: فیصلہ کرانے
کے لیے جانا إِلَى السُّلْطَانِ: پیش کرنا۔
قَرِيبٌ كَرْنَا: کہا جاتا ہے "هَذَا أَمْرٌ يَرْفَعُ
الرَّاسَ" یہ ایسا امر ہے جو سر کو بلند کر دیتا ہے
یعنی باعث مجدد و بزرگی ہے۔ و "فَلَانٌ لَا
يَرْفَعُ الْعِضَاءَ عَنْ عَاتِقِهِ" یعنی وہ بہت سسر
کرتا ہے۔

رَفَعُ (ك) رَفَعَةً وَرَفَاعَةً: عالی مرتبہ
ہونا۔ صَفَتْ (رَفِيعٌ) وَرَفِعَ رَفَاعَةً: بلند
آواز والا ہونا الْقَوْبُ: باریک ہونا۔ صَفَتْ
(رَفِيعٌ)

رَفَعُ لَهُ الشَّيْءَ دُورًا: دیکھنا۔
رَفَعَةً بَلَدًا كَرْنَا: رَفَعُ الْقَوْمُ: لڑائی سے دور
کرنا۔

رَفَاعَةً: الْحَاكِمُ: قَطْعُ تَطَلُّقٍ كَرْنَا: بیہم
کے لئے حاضر کرنا ہ۔
رَحِمَ كَرْنَا۔

والے کے پاس ڈالنے والا۔

الرَّقِيشُ: بیچہ۔ کشتی کا چپو۔
الْمِرْقِشَةُ: بیچہ۔

رَقِصُ: تَرَقَّصُوا الْمَاءَ بَارِي بَارِي يَأْتِي
آتَا: ہر ایک آنے والے کو (رَقِصْنٌ) کہتے
ہیں۔ کہا جاتا ہے "هُوَ رَقِیصٌ" وہ تمہارا پانی
پینے میں سامھی ہے۔

الرَّقِصُ: السَّعْرُ بھاد گراں ہونا۔
الرَّقِصَةُ: پانی پینے کی باری۔

رَقِصُ (ن ض) رَقِصًا وَرَقِصًا: الشَّيْءُ
بِصَبْكَانَا جھوڑا۔ صَفَتْ رَافِضٌ ج رَافِضُونَ
وَرَقِصَهُ وَرَفِاضٌ (وَأَرْفَضُ) الْإِبِلَ:
چراگاہ میں متفرق کر دینا۔ رَقِصٌ وَرَفِضٌ
الْوَادِي: بکشاہ ہونا۔

رَقِصْتُ (ن) رَقِصًا: الْإِبِلَ: جروا ہے
کی نگاہ کے سامنے تنہا تنہا چرنا۔
تَرَقِصُ: بکھرنا۔ متفرق ہونا۔ ثَوْنَا الدَّمَغُ:
آنسو بہانا اور بکھرنا۔

الرَّقِصُ: الدَّمَغُ: آنسو بہنا وِثْمَانَا الْجُرْحُ:
زخم سے چھپ بہنا الشَّيْءُ: متفرق ہو کر جانا
اور اسی سے ہے "الرَّقِصُ النَّاسُ عَنْهُ" لوگ
متفرق ہو کر چلے گئے الْوَجْعُ: درد کا زائل
ہونا۔

اسْتَرَفِضُ: الْوَادِي: بکشاہ ہونا۔

الرَّقِضُ: مِمَّنْ رَفِضٌ وَ (الرَّقِضُ) ج
أَرَفِضُ: اُونٹنیوں یا ہرنیوں کا متفرق گلد۔ کہا
جاتا ہے "نِعَامٌ رَفِضٌ" تھوڑے متفرق شتر
مرغ۔ چیز کا گھرا ہوا حصہ۔ تھوڑی چیز۔ کہا جاتا
ہے "فِي الْقَرْيَةِ رَقِصٌ مِنْ مَاءٍ" سنگ میں
تھوڑا سا پانی ہے۔

الرَّفِضَةُ: جنگ وغیرہ میں اپنے قائد و رہنما
کو جھوڑ دینے والی جماعت۔ ج رَوَافِضُ: اور
اسی سے ہے "لَا خَيْرَ فِي الرَوَافِضِ"
الرَّفِضَةُ: شیعوں کی ایک جماعت اور نسبت
کے لیے "رَفِضِي"
الرَّفِضُ: پریشان راستے۔

الرَّفِضُ: مِنَ الشَّيْءِ: کھڑے۔ ریڑے۔

الْمَرْفُودُ بَزَائِيَالِه: ج مَرَايِدُ.
الْمَرْفُودُ: بکریاں جن کا دودھ جائے یا گرمی
میں کبھی ختم نہ ہو۔

الْمَرْفُودُ يَأْتِي كَرًا
رَقِيفُ الطَّائِرِ: پرندے کا پھڑ پھڑانا
الشَّيْءُ: آواز کرنا۔

الرَّقِيفُ: لکڑی وغیرہ جس کے دونوں
کنارے دیوار میں لگا کر گھر کا سامان اس پر رکھ
دیں۔ خیمہ کا دامن۔ زرہ کے کنارے زرہ کا لکٹا
ہوا حصہ۔ درخت وغیرہ کی لٹکی ہوئی شاخیں۔
ہر چیز جو زائد ہونے سے موزرڈی جائے۔
فَرَشَ: بچھوٹا۔ تکیہ۔ باریک ریشی کپڑا کپڑے
کی ایک جٹ جس کو پردہ یا خیمہ کے نچلے حصہ
میں سیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے "صَرَبْتُ الرِّيحَ
رَقِيفًا فَسَطَّاطًا" ہوانے خیمہ کے دامن
کو ادھر ادھر کر دیا۔ رَقِيفُ الدَّرْعِ: زرہ کا
وہ حصہ جس کو خود سے باندھ کر پیٹھ پر ڈال لیتے
ہیں۔ ج رَقِيفٌ۔

الرَّقِيفُ: الْوَادِي: بکشاہ ہونا۔
رَقِصْتُ (ن) رَقِصًا: الْإِبِلَ: جروا ہے
کی نگاہ کے سامنے تنہا تنہا چرنا۔
تَرَقِصُ: بکھرنا۔ متفرق ہونا۔ ثَوْنَا الدَّمَغُ:
آنسو بہانا اور بکھرنا۔

الرَّقِيفُ: الدَّمَغُ: آنسو بہنا وِثْمَانَا الْجُرْحُ:
زخم سے چھپ بہنا الشَّيْءُ: متفرق ہو کر جانا
اور اسی سے ہے "الرَّقِصُ النَّاسُ عَنْهُ" لوگ
متفرق ہو کر چلے گئے الْوَجْعُ: درد کا زائل
ہونا۔

رَفِيسَةٌ (ن ض) رَفِيسًا وَرَفِيسًا: سینہ پر
مارنا الْعَبِيرُ: اونٹ کے پاؤں باندھنا اللِّحْمُ
و نَحْوَهُ: گوشت کا قبیہ کرنا۔

الرَّفِيسُ: اونٹ کے پاؤں باندھنے کی رتی۔
الرَّفِيسَةُ: سینہ پر لٹا مارنا۔
نَافَةٌ (رَفُوسٌ) دوتلی مارنے والی اونٹنی۔

رَقِشٌ (ن) رَقِشًا: کھانے پینے میں قائمہ
اُثْمَانًا: خوب کھانا پینا الْقَمِصُ: گیموں کو بیچنے
سے اٹھا کر لے جانا الشَّيْءُ: کوٹنا (رُقُوشًا)
فِي الْأَمْرِ: بکشاہ ہونا۔

رَقِشٌ (س) رَقِشًا: چوڑے کانوں والا
ہونا۔ صَفَتْ (أَرْقِشٌ) مَوْنٌ رَفِشًا: ج
رَفِشٌ۔

رَقِشٌ: لِحْيَتُهُ: داڑھی میں لٹکھا کرنا۔
الرَّقِشُ: گیموں کو بیچنے سے اٹھا اٹھا کر مارنے

تَرْفَعُ برتری ظاہر کرنا۔ کہا جاتا ہے
”تَرْفَعَتْ بِنِي هَمَّتِي عَنْ كَذَا“ ہمیری
ہمت نے مجھ کو اس سے برتر بنا دیا ہے الشَّيْءُ
او الرَّجُلُ بلند کرنا۔

ترافعاً ایک دوسرے کو بلند کرنا
الخصمان إلى الحاكِمِ فیصلہ کے لیے
جانا۔

ارْتَفَعَ بلند ہونا السَّعْرُ بھاؤ گراں ہونا
النَّهَارُ دِنٌ کا چڑھنا دراز ہونا۔

مَنْ نَبَّهَهُمُ الْخَصَامُ دشمنی زائل ہونا۔
الشَّيْءُ بلند ہونا۔

اسْتَرْفَعَ الشَّيْءُ اٹھانے کو کہنا الخَوَانُ
دستر خوان خالی ہونا اور اٹھانے کا وقت آنا۔

الرَّفَاعُ فَا بَرِّقَ رَافِعٌ چمکنے والی بجلی۔
الرَّفِيعَةُ بے بلندی و مرتبہ۔

الرَّفَاعُ وَالرَّفَاعُ بھکتی میں دانے کا موٹا
ہونا۔ کئی ہوئی بھکتی کا گلھیاں میں لے جانا۔

الرَّفَاعَةُ وَالْمَخْلُوعَاتُ (فارسی کلمہ) : بوجھ اٹھانے
کا اوزار۔ کریں۔ پتھر توڑنے کا آلہ ہماری اشیاء
تولنے کا آلہ جس کا دوسرا نام القبان بھی ہیں
قہنجی جس کو المَقْصَصُ بھی بولتے ہیں۔ دہستانہ
جس کو المَلْفُطُ بولتے ہیں۔ چھٹی جس کو
الْكِسَارُ کہتے ہیں۔

الرَّفَاعَةُ وَالرَّفَاعَةُ وَالرَّفَاعَةُ مِنَ
الصَّوْتِ آواز کی بلندی و شدت۔ الرَّفَاعَةُ
وَالرَّفَاعَةُ بگدی جس کو عورتیں اپنے سرین
پر بڑا معلوم ہونے کیلئے باندھتی ہیں۔

الرَّفِيعَةُ حاکم کے سامنے پیش کیا ہوا معاملہ۔

الرَّفُوعُ بے ایک قسم کی تیز دوڑ مِنَ
الْكَلَامِ بلند گفتگو۔ وَالْحَدِيثُ الرَّفُوعُ
عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ وہ حدیث جس کی سند نبی
کریم ﷺ تک متصل ہو۔

الرِّفَاعُ غراب مساحت کے نزدیک بلندی
شلت یا اضلاع والی یا مخروطی شکل میں دو
قاعدوں کے درمیان ایک عمود (علم مسند
والوں کے نزدیک) کسی ستارے کا بلند ہونا
(فلکیات میں) وہ زاویہ جو کہ افق اور زمین و

کو کب کے درمیان واقع ہونے والے سیدھے
مخط کے درمیان ہو۔

الرَّفُوعُ بلند کرنے کا آلہ۔

الرَّفَاعُ وَالرَّفَاعُ عِنْدَ الْمَسْبُوحِينَ
مسبحیوں کے روزہ سے پہلے کچھ مقررہ دن۔

الرَّفَاعُ (رَفَعُ) رَفَاعَةٌ العَيْشُ کشادہ آسودہ
ہونا۔ صفت (رَفَعُ وَرَفِيعٌ وَارْفَعُ)

ارْفَعُ لَهُ المَعَاشِ آسودہ و کشادہ بنانا۔
تَرْفَعُ آسودگی میں زندگی بسر کرنا۔

جماع کے لیے عورت کی دونوں رانوں کے
درمیان بیٹھنا۔

الرَّفْعُ بَجِ ارْفَعُ رَفَاعٌ وادی کی بہت
بری جگہ۔ بہت خاک والی زمین۔ کہا جاتا ہے

”جَاءَ بِمَالٍ كَرَفَعِ التُّرَابِ“ یعنی وہ بہت
زیادہ مال لایا۔ گوشہ بَجِ ارْفَاعٌ وَرَفُوعٌ

جسم میں میل جمع ہونے کی جگہ۔ جوار کا
بھوسہ۔

ارْفَاعُ النَّاسِ نااہل و کمینے لوگ۔

(الرَّفْعُ وَالرَّفَاعَةُ وَالرَّفَاعِيَةُ) آسودہ
زندگی کسلس رفع نرم چونے کا گارہ۔

الرَّفْعُ نَاحِنٌ کا میل۔
الرَّفْعُ بَعْلٌ۔ اندام نہانی کا ارد گرد۔ اور اسی

سے ہے ”اِذَا تَنَقَّي الرَّفْعَانِ وَجِبَّ
الغسل یعنی جب دونوں شرمگاہ مل جائیں تو

غسل واجب ہو جاتا ہے۔
الرَّفْعُ نَاحِنٌ کا میل۔

الرَّفَاعُ بَجِ رَانَ وَبَعْلٌ (جمع ہے اور اس کا
واحد نہیں)۔

الرَّفُوعُ غُجْجٌ اندام نہانی والی عورت جس
سے کوئی جماع نہ کر سکے۔

رَفْعَانٌ رَفْعَانٌ پھینچنا۔ مدد کرنا۔ کہنی پر
مارنا النَاقَةُ اُونٹنی کے بازو کو باندھنا۔

العَمَلُ مضبوطی سے کرنا۔

رَفْقٌ وَرَفُوعٌ (رَفَقٌ) رَفْقًا
وَمَرْفَقًا وَمَرْفَقًا وَمَرْفَقًا به ولہ و
عَلَيْهِ مہربانی کا برتاؤ کرنا۔

رَفْقٌ (رَفَقٌ) رَفْقًا العَبِيرُ پہلو سے مڑی

ہوئی کہنی والا ہونا۔ صفت (ارْفَعُ)

رَفْعٌ (رَفَعُ) رَفَاعَةٌ الرَّجُلُ ساتھی ہونا۔
رَافِعٌ رَفِيعٌ ہونا۔ ساتھی ہونا۔ کہا جاتا ہے

”رَافِعَةٌ فِي السَّفَرِ“ وہ سفر میں اس کے
ساتھ رہا۔

ارْفَعُ مہربانی کا برتاؤ کرنا۔ نفع پہنچانا۔

تَرْفَعُ بہ مہربانی کا برتاؤ کرنا۔

عَلَيْهِ مہربان بنا۔

تَرَفَّقُ الرَّجُلَانِ ایک دوسرے کا ساتھی
ہونا۔

ارْتَفَعَ کہنی یا تکیہ پر ٹیک لگانا۔ مدد طلب
کرنا۔ الاناء بھرجانا القَوْمُ سفر میں باہم

ساتھی ہونا۔ بہ نفع اٹھانا۔

استرفعه مہربانی طلب کرنا۔ نفع رسائی
طلب کرنا۔

تَمَرَّفَقٌ بکلیے لینا۔

الرَّفُوعُ بے نرم برتاؤ۔ مہربانی۔ ہر وہ چیز جس
سے مدد لی جائے۔

الرَّفُوعُ بے نرم۔ آسان۔ کہا جاتا ہے ”ہذا
أَمْرٌ رَافِعٌ الْيَقِيَّةُ“ سہل الحصول معاملہ ہے۔

الرَّفُوعُ شھن میں دودھ کی نالیوں میں خرابی۔
نَاقَةٌ (رَفِيعَةٌ وَرَفِيعَةٌ) اُونٹنی جس کے شھن

کے اندر دودھ کی نالیوں میں خرابی ہو۔

الرَّفِيعَةُ وَالرَّفِيعَةُ وَالرَّفِيعَةُ
ساتھیوں کی جماعت۔ بَجِ رِفَاقٌ وَرَفِيقٌ وَرَفِيقٌ
وَأَرْفَاقٌ۔

الرَّفَاعَةُ لطف و مہربانی۔ بہتر سلوک۔

الرَّفَاعُ اُونٹنی کے بازو باندھنے کی رسی۔ بَجِ
رَفْقٌ۔

الرَّفِيقُ ساتھی۔ مہربان۔ بَجِ رَفِيعَةٌ۔

الرَّفِيقُ وَالرَّفِيقُ کہنی۔ ہر وہ چیز جس سے
سہارا لیا جائے۔ بَجِ مَرَفِقٌ۔

الرَّفِيقُ ہر وہ چیز جس سے نفع اٹھایا جائے
اور اسی سے ہے ”مَرَفِقُ الدَّارِ“ یعنی گھر کے

مناخ جیسے کوالا یا باورچی خانہ یا باخانہ وغیرہ۔
و ”مَرَفِقُ المِلَادِ“ شہر کے مناخ جن سے

سارے باشندے مستفید ہوں۔

المِرْفَقَةُ: چھوٹا تکیہ جس پر سوتے ہوئے رخسار رکھتے ہیں۔

المِرْفَقُ المُرْتَفِقُ: تکیہ لگانے کی جگہ۔

المُرْتَفِقُ: بھرا ہوا ثابت۔

رَفَلٌ (ن) رَفَلًا وَرَفُولًا وَرَفَلَانًا: دامن

گھینٹے ہوئے ناز سے چلنا۔ ہاتھ ہلاتے ہوئے چلنا۔ صفت مذکر (رَفَلٌ)

صفت مؤنث رَفَلَةٌ

رَفَلٌ (ن) رَفَلًا وَرَفَلٌ (س) رَفَلًا: بد نما

لباس پہننا۔ بے ڈھنگے طریقے سے کام کرنا۔

صفت مذکر (أَرْفَلٌ وَرَفَلٌ) و صفت مؤنث رَفَلَاءُ

أَرْفَلٌ: دامن گھیننا۔ ناز سے چلنا۔

ثَبَابَةٌ: کپڑوں کو لٹکانا۔ کہا جاتا ہے "أَرْفَلٌ

رَفَلُهُ" اس نے دامن لٹکایا۔

رَفَلَةٌ: تعظیم کرنا۔ سردار بنانا۔ مالک بنانا۔

ذیل کرنا۔ الأَذَارُ: ازار لٹکانا اور ناز سے چلنا۔

تَرْفَلٌ: تکبر کی وجہ سے ناز سے چلنا۔

تَرْفَلٌ: غلبہ، رئیس و سردار بننا۔

الرِّفْلُ: دامن۔

الرِّفْلُ: من البَنُو: کونسی کی تہ کا تھوڑا

پانی۔

الرِّفْلُ: بے دامن والا۔ لمبی ڈم والا گھوڑا۔

بہت گوشت والا۔ کشادہ کپڑا۔

عَيشٌ رَفْلٌ: کشادہ زندگی۔

الرِّفَالُ: من الشُّعْرُ: لمبے بال۔

المِرْفَالُ: من الرجال والنساء: دامن

گھینٹے ہوئے ناز سے چلنے والا یا چلنے والی۔

الرِّفَانُ: آہستہ آہستہ قطروں والی بارش۔

رَفَةٌ (ف) رَفْهًُا وَرَفْهًُا وَرَفْهًُا: خوش

حال ہونا۔ صفت (رَافِہ و رَفْہَان)

رَفْہَتِ الأَبْلُ: حسب مرضی روزانہ پانی پر

آہ صفت (رَافِہ) ج رَوَافِہ

رَفْہ (ک) رَفَاهًا وَرَفَاهِيَةً وَرَفَاهَةً

العَيشُ: زندگی کا خوش گوار و آسودہ ہونا۔

صفت (رَافِہ و رَفِہ)

رَفْہ وَاَرَفْہ: الرَّجُلُ: آسودہ خوشحال بنانا۔

رَفْہ عَنهُ: مہلت دینا۔ بار غم لگنا۔ کشادگی

کرنا۔ أَرَفْہ وَاَرَفْہ الرَّاجِحُ: الأَبْلُ: حسب

مرضی آنے دینا۔ أَرَفْہَتِ الأَبْلُ: اونٹ کا

پانی کے قریب رہنا۔ أَرَفْہ القَوْمُ: قوم کے

لمویشی کا حسب مرضی روزانہ پانی پر آنا۔

رَفْہ عَنهُ: تنگی و رنج دور کیا جانا۔

أَرَفْہ وَاَتَرَفْہ وَاَسْتَرَفْہ: آرام لینا۔

الرَّفْہ: س۔ چھوٹے چھوٹے کھجور کے

درخت۔

الرَّفْہة: رحمت و مہربانی۔

هُوَ (رَافِہ) بِہ: وہ اس پر مہربان ہے۔

الرَّفْہِيَّةُ: فراخی، عیش، آرزائی۔

الرَّفْہ: خشک گھاس اور اسی سے مشل ہے

"أَغْنَى مِنَ النَّفْہِ عَنِ الرَّفْہِ"

رَفَا (ن) رَفَوًا: التَّوْبُ: کپڑے پر رنو

کرنا۔ درست کرنا۔ صفت (رَافٍ) ج رَفَاةٌ

اور صفت مفعولی (مَرْفُو) ۵: ڈر دور کرنا۔

فاقد دور کرنا۔

رَفِي تَرْفِيَةً: العَرِيْسُ: شادی شدہ کو دعا

دینا اور "بالرَفَاءِ والنِّسِن" کہنا۔

رَافِي رَفَاءً وَمُرَافَاةً: الرَّجُلُ: موافقت

کرنا۔

أَرَفِي: اليَّة: پناہ لینا۔

تَرَافِي: القَوْمُ عَلَى الأمرِ: باہم موافق

ہونا۔

الرِّفَاءُ: اتفاق و موافقت۔

الأَرَفِيُّ: ڈھیلے پن کے ساتھ لمبے کانوں

والا۔ مؤنث رَفَوَاءُ ج رَفُو

الأَرَفِيُّ: ہرن کا دودھ یا مطلقا دودھ۔

رَقٌّ (ض) رَقَّةً: پتلا ہونا لہ: رحم کرنا

وَجْہہ: شرم کرنا الرَّجُلُ: بُرے حال والا

اور کم مال والا ہونا۔ کہا جاتا ہے "رَقَّتْ

عِظَامُهُ" یعنی بوڑھا ہو گیا۔

رَقٌّ (ض) رَقًا: العَبْدُ: غلام بننا یا غلام

رہنا۔

رَقَّقَهُ: پتلا کرنا۔ رَقَّقَ اللَّفْظُ: نرمی سے

پڑھنا الکلام: خوبصورتی سے گفتگو کرنا۔

مَشِيَّةٌ: آہستہ چلنا مَابَيْنَ القَوْمِ: فساد

ڈالنا۔

أَرَقٌ: الشَّيْءُ: پتلا کرنا الوَاعِظُ قَلْبَهُ: دل

کو نرم کرنا الرَّجُلُ: کم مال والا ہونا۔

العَنْبُ: انگور کا پتلے چھلکا اور زیادہ شیرہ والا

ہونا العَبْدُ: غلام کا مالک ہونا۔

تَرَفَّقَ: الشَّيْءُ: پتلا ہونا لہ: رحم کھانا۔ ترس

کھانا۔

اسْتَرَفَّقَ: الشَّيْءُ: پتلا ہونا العَبْدُ: غلام کا

مالک ہونا اللَّيْلُ: رات کا اکثر حصہ گزر جانا

الْمَاءُ: پیاب ہو جانا۔

الرِّقُّ: س۔ غلامی۔ پتلی چیز۔ پتلی کھال۔ جس

پر لکھا جائے۔ سفید کاغذ کا تختہ۔ درخت کے

پتے یا جانوروں کے لمبے آسانی سے حاصل

ہونے والی ٹہنیاں۔

الرِّقُّ: لکھنے کے لیے پتلی کھال۔ سفید کاغذ کا

تختہ۔ پتلا۔ مگر چمچ کے مشابہ ایک آبی جانور۔

بڑا لہر چھوڑ ج رَفُوقٌ

الرِّقُّ وَالرِّقُّ وَالرِّقُّ: ترم و کشادہ زمین۔

الرِّقُّ: سندر یا وادی کا پتلا پانی۔

الرِّقُّ: کمزوری۔ باریکی۔ کھانے کا پتلا پن۔

الرِّقَّةُ: زمین جو پانی سے بھر جائے اور پھر

خشک ہو جائے۔ ج رَفَاقٌ: الرِّقَّةُ: ایک شہر کا

نام۔ الرِّقَاتَانُ: دو شہر ہیں جن کے نام رَقَّة

و رَافِقَہ ہیں اور یہ باب تغلیب سے ہے۔

الرِّقَّةُ: رحمت۔ مہربانی۔ شرم۔ باریکی۔ رَقَّة

العَيشُ: زندگی کی آسودگی۔ رَقَّة الجانِبُ:

ضعف و کمزوری سے کنایہ ہے۔

الرِّقَاقُ: بیابان۔ ہموار نرم زمین یا وہ زمین

جس پر سے پانی خشک ہو چکا ہو۔

الرِّقَاقُ: پتلا۔ پتلی روٹی۔ واحد (الرِّقَاقَةُ)

نرم مٹی والی کشادہ زمین یا وہ زمین جس پر سے

پانی خشک ہو چکا ہو۔

الرِّقِيقُ: پتلا۔ ج اَرَفَاءُ مؤنث رَقِيقَةٌ: ج

رَفَاقٌ: کہا جاتا ہے "هُوَ رَفِيقُ المعَانِي" وہ

لطیف معانی والا ہے۔ و "عَيشٌ رَفِيقٌ

الْحَوَاشِي" یعنی خوش حالی اور آسودگی والی

زندگی۔ و "رجل رقیق الحال" سمہال والا مرد ہو "لفظ رقیق" یعنی آسان و خوشگوار لفظ۔ الرقیق: غلام۔ (واحد و جمع دونوں کے لئے) کہا جاتا ہے۔ عبد رقیق و عبید رقیق

اور کبھی ارقاء جمع ہوتے ہیں اور باندی کے لیے رقیق اور رقیقہ دونوں کا استعمال ہے۔ رقیق الأنف: ناک کا نرم حصہ۔ الرقیقان: ناک کے تینوں کے کنارے۔

مراق: البطن۔ پیٹ کا نرم و پتلّا حصہ۔ المرقق: چوڑی پتل روئی۔ المرقاق: بیلن۔

المسترق: چیز کا نرم حصہ۔ رقا (ف) رقا ورفوئا۔ الذمغ أو الدم: آنسویا خون کا خشک ہونا۔ منقطع ہونا۔ رقا بینہم: صلح کرنا۔ فادوالنا فی الدرجة: چھٹا۔ کہا جاتا ہے "ارقا علی صلعتک" ارق علی ظلمتک میں ایک لفت ہے۔ یعنی

اپنے اوپر نرمی کرو اور استطاعت سے زیادہ بوجھ مت لا دو۔ ارقا الدم أو الذمغ: خشک کرنا۔

الرقو: خون بند کرنے والی چیز۔ قوم کے درمیان صلح کرنے والا۔ المرقاة والمرقاة: سیرھی زینہ۔

الرقاء: فساد۔ رقبہ (ن) رقبونا ورفوئا ورقابة ورفاننا ورقبة ورقبة۔ جمہائی کرنا، انتظار کرنا، ڈرنا، التعم: ستاروں کی دیکھ بھال کرنا ۵: گلے میں رتی ڈالنا۔ راقبہ: جمہائی کرنا۔ راقب اللہ فی امرہ:

خوف کرنا۔ ارقبہ: الدار: بشرط رقیق زندگی بھر کے لئے دینا (دیکھو لفظ رقیق) ارقبہ الرقیق: کسی کے لیے رقیق کرنا (دیکھو لفظ رقیق) ترقبہ وارتقبہ: انتظار کرنا۔ ارتقب الرقیق: چھٹا۔

تراقبا: ایک دوسرے کی جمہائی کرنا۔ الرقب: گردن کی حوتائی۔

الرقیب: کسی کو مکان وغیرہ اس شرط پر دینا کہ اگر میں تم سے پہلے مر جاؤں تو یہ مکان تمہارے لیے ہے اور تم مر گئے تو پھر میں واپس لے لوں گا۔

الرقبة: احتیاط۔ بجاؤ۔ جمہائی۔ خوف۔ ڈر۔ گھبراہٹ۔ کہا جاتا ہے "ورث مالا عن رقبہ" جبکہ مال آباء و اجداد سے حاصل نہ کیا ہو۔ ایسے ہی کہا جاتا ہے "ورث منجدنا عن رقبہ" جبکہ آباؤ اجداد صاحب مجھ نہ ہوں۔

الرقبة: گردن یا پس گردن۔ رقب و رقبات و رقب و ارقب۔ الرقبہ: مملوک کے لئے۔ وہ سخت اور سرکش لوگ ہیں۔ الرقبہ: چیتے کے شکار کے لیے گڑھا جیسے زہیہ شیر کے لئے۔

الارقب: مؤنث رقباء۔ و (الرقبان والرقبانی) مؤنث گردن والا۔ الارقب: شہر پر

الرقوب: میراث کے لیے اپنے شوہر کی موت کا انتظار کرنے والی عورت۔ وہ عورت جس کا بچہ مر گیا ہو یا وہ جس کا بچہ زندہ نہ رہتا ہو۔ الرقوب من الشیوخ والارامل: وہ لوگ جن کی کوئی کمائی نہ ہو اور نہ وہ کمائی کرنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ ام الرقوب: مصیبت۔

الرقیب: ج رقباء: جمہائی۔ محافظ۔ منتظر پس ماندگان۔ پچازاد بھائی جوئے کے تیروں میں سے تیرا تیر۔ ایک ستارہ کا نام۔ رقیب الجیش: دیدبان۔ ج رقب و رقیبات:

ایک غیبی قسم کا زہر بلا سانسپ۔ کہا جاتا ہے "هو رقیب نفسه" وہ اپنے اعمال کا خود ہی نقاد ہے۔ کسی کو کچھ کہنے کا موقع نہیں دیتا۔ نیز "الرقیب" اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے۔

الرقابة: مالک کی غیبت میں مال کی نگرانی کرنے والا خادم۔ المرقب والمرقبہ: نگرانی کرنے کی اونچی

جگہ ج مراقب۔

المراقب: دور بین۔

رقح: مائلہ: بہتر انتظام کرنا۔

ترقح: لعیالہ: کمائی کرنا۔

ارتقح: زیادہ ہونا۔

الرقاحة: کمائی تجارت۔ کہا جاتا ہے "هو راقحة) اھلبہ" وہ اپنے اہل و عیال کیلئے کمائی کرنے والا ہے۔

الرقاحی: سوداگر۔

رقد (ن) رقدًا ورفودًا ورقادًا: سونا۔ صفت (راقد) ج رقدود و رقد: السوف:

بازار کا مندا پڑنا الحو: گرمی کہ ہونا۔ عن الامر: کام سے غافل ہونا عن ضیفہ: مہمان کی خبر گیری نہ کرنا الثوب: پرانا ہونا۔

ارقد: سلانا ارقد بالمکان: اقامت کرنا۔

تراقد: سوتا ہوا ظاہر کرنا القوم علی فلان

قوم کا کسی کے خلاف مدد دینا۔

ارقد ارقدا: جلدی کرنا۔

استرقد: نیند کا غالب ہونا۔

الرقدة: نیند۔ کہا جاتا ہے "أصابنا رقدة

من الحو" یعنی ہمارے اوپر دس دن کے برابر

گرمی پڑی۔

الرقدة والیرفود: بہت سونے والا۔

الرقد: ہمیشہ سونے والا۔ کہا جاتا ہے "امرأة رفود الضحی" چاشت تک سونے

والی۔ یعنی آسودہ حال عورت۔

الرقدان: بکری کے بچے وغیرہ کی اچھل کود۔

الراقود: بڑا مکان۔ ج رواقید: ایک قسم کی

چھوٹی پھلی۔ ایک قسم کا پیمانہ۔

الترقیق: ایک قسم کی چال۔ ترقیق

النیض: نیچے نکالنے کے لیے مرئی کے نیچے

اٹھ رہتا۔

المرفد: خواب گاہ۔ ج مراقد۔

المرفد: خواب آوردوا واضح راستہ۔

رقرق: الماء: چھوڑنا العین: آنسو بہانا

الخممر: پانی ملانا الطیب فی الثوب:

خوشبو لگانا۔

ترقع البلاد: شہروں میں ارزانی و فراخی میں کمائی کرنا۔ کہا جاتا ہے ”عما (لترقع) بہ“ ولہ، یعنی اس نے اس کی پروا نہیں کی۔
استرقع الثوب: قابل مرمت ہونا۔
الرقع: سر۔ حقد میں کے نزدیک ساتواں آسمان۔

الرقعة: نشانہ میں تیر کی آواز۔
الرقعة: تحریر کا پرزہ۔ کپڑے کا پوند۔ رُقعة الشطرنج: شطرنج کا تختہ۔ رُقعة الغرض: جس پر نشانہ لگایا جائے۔ رُقعة الأرض: زمین کا ایک ٹکڑا۔ رُقعة الشیء: چیز کا اصل وہ جو ہر۔ ج رقع ورقاع: کہا جاتا ہے ”فی هذا الحمل رُقعة من الحرب“ اس اونٹ میں خارش کی ابتداء ہے۔

الرقعاء: ارقع کا مؤنث۔ بقرة رقعاء: مختلف رنگوں والی گائے۔
الرقیع: آسمان یا قدماء کی اصطلاح میں پہلا آسمان۔ ج ارقعة۔
جوع (بوقوع) سخت بھوک۔
المترقع: کپڑے میں پوند کی جگہ اور کہا جاتا ہے ”لا اری فیہ مترقعا“ میں اس کے اندر کوئی موقع گالی یا جو کایا کوئی موقع اصلاح کا نہیں دیکھتا ہوں۔

أرقل: دوڑنا۔ بویہ چلنا۔ المفاضة: بیابان کو طے کرنا۔ أرقلت النخلة: درخت خرما کا لہا ہونا۔
الرقلة: کھجور کا لہا درخت۔ ج رقال و رقل۔
الرافول: کھجور کے درخت پر چڑنے کی رت۔ سیسی۔
المراقل والمزقل والمزقلة: من الابل: بیڑا۔ ارقاؤن۔ ج مراقیل ومراقیل ومزقلات۔

رقم (ن) رقمًا ورقمًا: لکھنا۔ الكتاب: اعراب و نقطے لگانا۔ رقم الثوب: کپڑے کو دھاری دار بنانا۔ البعیر: اونٹ۔ بر داغ لگانا الخبز: زروئی پر نقش ڈالنا اور ”فلان یرقم الخبز“

رقم (ن) رقمًا ورقمًا: لکھنا۔ الكتاب: اعراب و نقطے لگانا۔ رقم الثوب: کپڑے کو دھاری دار بنانا۔ البعیر: اونٹ۔ بر داغ لگانا الخبز: زروئی پر نقش ڈالنا اور ”فلان یرقم الخبز“

رقم (ن) رقمًا ورقمًا: لکھنا۔ الكتاب: اعراب و نقطے لگانا۔ رقم الثوب: کپڑے کو دھاری دار بنانا۔ البعیر: اونٹ۔ بر داغ لگانا الخبز: زروئی پر نقش ڈالنا اور ”فلان یرقم الخبز“

کے ذریعے ناچے۔ ہر جسم جو کہ اپنے محور کے ارد گرد اپنے بوجھ کی وجہ سے گھومے۔

الرقاص: بہت ناچنے والا۔ اور اسی سے ہے رِقاص الساعی (گھڑی کا پندولم)

الرقاصۃ: رقص کا مؤنث۔ عربوں کے ایک کھیل کا نام۔ باوجود بارش کے پیداوار نہ اگانے والی زمین۔

شعر (مرفص) دو جمل لانے والا شعر۔
قلاۃ (مرفصۃ) بیابان جو چلنے والے کو دوڑنے پر ابھارے۔

رقط (س) رقطا: سیاہ پر سفید نقطے یا سفید پر سیاہ داغ والا ہونا۔
رقط: علی الثوب: روشنائی وغیرہ چھڑک کر داغ ڈالنا۔

ترقط ترقطًا وارقط ارقطًا وازقاط ارقطًا: سیاہ پر سفید داغ والا ہونا۔ صفت (ازقط) مؤنث رقطاء ج رقط الارقط:

چیتا۔
الرقطہ: سیاہ پر سفید یا سفید پر سیاہ داغ۔
الرقطاء: نند و نساد۔
الرقطاء: زیبا کٹی پودا۔

رقع (ن) رقعًا: الثوب: کپڑے پر پوند لگانا۔ الغرض بسنہمہ: نشانہ پرمانا۔ ذنبہ بالسوط: دم پر کوڑے سے مارنا۔ فی السیر: نیز چلنا۔ الرجل: جو کرنا۔ الشیخ: اُنھے کے لیے ہتھیلیوں کا ایک لگانا۔
رقع (ک) رقعًا: بیوقوف و بے حیاء ہونا۔ صفت (رقع و ارفع و مرقعان)
رقع ترقیعًا: الثوب: کپڑے پر پوند لگانا اور اسی سے ہے ”رقع ذنباه باخوتہ“ اس نے اپنی دنیا کی اصلاح آخرت سے کی۔ و ”هو صاحب ترقیع و توصیل“ اس شخص کے حق میں بولتے ہیں جو اپنی باتوں میں تک مرج لگایا کرتا ہوں۔

راقع: الخمر ہمیشہ شراب پینا۔
أرقع: الثوب: کپڑے کا پوند کے قابل ہونا۔ الرجل: حماقت کا کام کرنا۔

الرقاص وہ پتل جو کہ لڑکائی جائے اور دھاگہ

الرقاص وہ پتل جو کہ لڑکائی جائے اور دھاگہ

ترقوق الماء: آہستہ آہستہ پینا۔ چکنا۔ آتا جانا۔ العین: آنسو پھانا۔ الدمع: آنسو کا آنکھ میں چکر کھانا۔ الشمس: آفتاب کا گھومتا ہوا معلوم ہونا۔

الرفراق: وہ جو چکے۔ آئے جائے۔ من الدمع: آنسو جو آنکھوں ہی میں پھر رہا ہو۔ من السحاب: آنے جانے والا بادل۔

الرفراق: سفید ریادادی کا رقیق پانی۔ باریک کپڑا۔ بہت آبدار تلوار۔
رقن (ن) رقا: چپنا۔ العرق: پھلانا۔
الرفاز ناچنے والا۔
رقشہ (ن) رقشا: نقش کرنا۔ الكلام:

لکھنا۔ سجانا۔
رقش: الكلام: لکھنا۔ سجانا۔ گھڑنا۔
الصحيفة: سطرین کرنا۔ الرجل: سحاب کرنا۔
الرجل: بچل خوری کرنا۔
ترقش مزین ہونا۔
ارتقش: حسن زینت ظاہر کرنا۔ الجیش:

لڑائی میں گتہ جانا۔
الارقش: سفید و سیاہ پتیوں والا۔ مؤنث رقصاء۔
الرقش والرقشة: ایک قسم کا رنگ جس میں شلالا پین اور سیاہی ہو۔
الرقشاء: من الحیات: جتی دار سانپ۔

ایک قسم کا کپڑا۔ اونٹ کے متی کے وقت کے جھاگ۔
رقص (ن) رقصًا: ناچنا۔ اضطراب کرنا۔
النبيذ: جوش مارنا۔ فی الكلام: جلدی جلدی بولنا (رقصًا و رقصًا و رقصانًا) الجمل:

اونٹ کا دوڑنا۔
رقصه و ارقصه: نچانا۔ کہا جاتا ہے۔
”ارقص القوم فی سیرہم“ جبکہ وہ اپنی چال میں کبھی بلند ہوں اور کبھی پست۔
ارقص: السبع: بھاؤ گراں ہونا۔
ترقص: الشیء: جلدی جلدی پست و بلند ہونا۔

الرقاص وہ پتل جو کہ لڑکائی جائے اور دھاگہ

الرقاص وہ پتل جو کہ لڑکائی جائے اور دھاگہ

الرقاص وہ پتل جو کہ لڑکائی جائے اور دھاگہ

علی المَاءِ“ اس شخص کے حق میں بولتے ہیں جو کاموں میں حاذق و ماہر ہو۔

الرقم۔ سر۔ وھاری دار نقش یا دھاری دار چادر کی ایک قسم۔ مہرج اراقم و رقوم الارقام الھندیۃ۔ ہندسے۔

الرقم الرقم و بنت الرقم مصیبت۔ کہا جاتا ہے ”جاء بالرقم او بالرقیم“ یعنی وہ بہت مصیبت لایا۔ و ”جاء بالرقم الرقماء“ وہ بہت بڑی مصیبت لایا۔

الرقمة۔ باغ۔ وادی کا پہلو۔ وادی میں پانی جمع ہونے کی جگہ۔ خبازی۔ کہا جاتا ہے ”ما وجدت فی الارض الارقمة من کلاء“ میں نے زمین میں صرف تھوڑی سی گھاس پائی۔

الرقمة ایک قسم کی نباتات۔

الرقیم۔ کتاب۔ لکھا ہوا۔

الارقم۔ ایک خبیث قسم کا سانپ۔ جتی دار سانپ۔ ج اراقم۔ اس کی مادہ کو رقام نہیں رقتشاء کہتے ہیں۔ الارقم۔ قلم۔

الرقم و الرقمة۔ جتی دار سانپ کا رنگ۔ المرقم۔ قلم۔ نقش کرنے کا آلہ۔ داغ لگانے کا آلہ۔ ج مرقم۔

المرقوم۔ سن۔ کتاب مرقوم: واضح کھی ہوئی کتاب۔ نور مرقوم القوائم: ناگوں میں سیاہ دھاری یا داغوں والا تیل۔ أرض مرقومة: تھوڑی گھاس والی زمین۔

رقت (ن) رقتا۔ الجارية: لڑکی کا مہندی لگانا۔

رقنة۔ نقش و نگار کرنے۔ لکھنا۔ رقتن الكتاب: مزین کرنا۔ سجانا۔ قریب قریب بطری لکھنا۔

الخط: نقطے لگانا (ارقتن) بحیثہ: داغی پر خضاب لگانا۔

ارقتن و ترقتن ارتقتن و استرقتن خضاب لگایا ہوا ہوتا۔

الرقین و المرقون۔ لکھا ہوا۔ الرقان و الرقون و الارقان۔ مہندی یا

زعفران۔

الرقن۔ مردار خوار پرند کا نڈا۔

الرقو و الرقوة۔ گول و بلند ریت کا نڈا۔

رقی (س) رقیاً و رقیاً۔ الجبل و فیہ والیہ: پہاڑ پر چڑھنا۔ کہا جاتا ہے ”ارق علی ظلعک“ یعنی اپنی طاقت کے مطابق چڑھو اور اپنے نفس پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔

رقی (ض) رقیاً و رقیماً و رقیماً۔ ہ و علیہ: نفع یا نقصان کے لیے متر کرنا۔

رقاة ترقیة۔ بلند کرنا۔ چڑھانا۔

ارتقی ارتقاء و ترقی ترقیاً۔ الجبل و فیہ والیہ: پہاڑ پر چڑھنا فی السلم: سیڑھی کے ڈنڈوں پر چڑھنا بہ الامر: اتنا کہ

پہنچنا کہا جاتا ہے ”ما زال فلان یترقی بہ الامر حتی بلغ غایتہ“ فلاں کے لیے معاملہ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ اتنا کہ پہنچ گیا۔ و ترقی الرجل: ہنسی کی بڑی پرمانا۔

ترقی: امرهم إلى الفساد۔ معاملہ میں لگاتار فساد کا ہونا۔

استرقاہ۔ منتر کرنے کو کہنا۔ کسی کے لیے منتر کرنے والے کو طلب کرنا۔

الرقیة منتر۔ افسوس۔ تعویذ۔ ج رقی و رقیات و رقیات۔

الراقی۔ فا۔ منتر کرنے والا۔ ج رقاہ و راقون مؤنث راقیة ج رواق اور کہا جاتا ہے ”رجل راقیة“ مثل رجل رادیة کے۔

تا بانفہ کیلئے ہے، تائیس کی نہیں۔ الرقاء۔ ماہر منتر کرنے والا۔ پہاڑوں پر بہت چڑھنے والا۔

المرقتی۔ چڑھنے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے ”لقد ارتقتت مرتقی صعباً“ میں دشوار مقام پر چڑھا۔

الترقوة۔ ہنسی کی بڑی۔ ج ترقی المرقی و المرقاہ و المرقاہ۔ سیڑھی کا پایہ۔ ج ترقی۔

رکب (ض) رکباً و رکبة و رکاکة۔ ضعیف

و کمزور ہونا۔ اسی قول سے ہے ”اقطعه من حیث رکب“ اس کو جہاں سے کمزور ہے کات دو الرجل کم علم یا کم عقل ہونا۔

رکب (ن) رکباً۔ الشی: بعض کو بعض پر بھانا۔ کہا جاتا ہے ”رکب الامر فی عنقه“ اس نے کام اپنے ذمہ لازم کیا الشی بیدہ: ہاتھ سے دبا کر موٹائی معلوم کرنا۔

رکبک و ازکب۔ السحاب: ہلکی بارش برسانا۔ ارك الحق فلاناً: غالب ہونا۔

ارکت و رککت الارض: ہلکی بارش برسا۔

ارتکب۔ مضطرب ہونا۔ ہلنا۔ فی الامر: جک کرنا۔

استرکبہ۔ کمزور سمجھنا یا کمزور پانا۔

الرك و الزکب۔ ج۔ رکاک و ارتکاک و (الرکبة و الرکیکة) ہلکی بارش۔ أرض رکب: ہلکی بارش والی زمین۔ الرکب: لاغر۔

الرکاک و الارکب۔ کمزور عقل۔ کمزور رائے۔

الرکیک۔ ج رکاک و رککة: کمزور عقل یا کمزور رائے۔ ڈھیلا ڈھالا کم ہمت۔ الرکیک من الکلام: پھس پھسی گفتگو۔ رجل رکب العلم: کم علم مرد۔ ثوب رکبک السنج: بھدرا بنہ ہوا کپڑا۔

الرکاکة کمزور عقل۔ کہا جاتا ہے ”رجل رکاکة و امرأة رکاکة“ ج رکاک۔ الرکوکة۔ کمزوری۔

رکب (س) رکباً و مرکباً۔ الدابة و علی الدابة: چڑھنا۔ سوار ہونا۔ السحر و ریائی سفر کرنا۔ طریق: راستہ پر چلنا۔

اثرہ: پتھا کرنا۔ ہواہ: مطیع خواہشات ہونا۔ رائسہ: بغیر سوچے سمجھے کسی کام کو کر گزرنے

الذنب ارتکاب کرنا۔ الخطر: اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا۔ رکبہ الدین: مقروض ہونا۔

رکب (س) رکباً۔ بڑے زانو والا ہونا۔

رکبہ (ن) رکباً۔ زانو پر مانا۔

تجھت بیٹھنا الشمس بالکل سر پر آکر ٹھہر جانا۔ کہا جاتا ہے ”رکحت رینحہم“ یعنی ان کی حکومت جانی رہی۔

الرائد۔ فاطمہ اہول
الرائد۔ فاطمہ اہول
الرائد۔ فاطمہ اہول
الرائد۔ فاطمہ اہول

المرائد ٹھہرنے کی جگہیں۔

رکح الشیء بکروز ہونا الریح بزل
ہونا۔ کہا جاتا ہے ”یہ رکح شے“ وہ ہر چیز میں کمزور ہے۔

رکح (نض) رکح الریح و نحوہ
زمین میں گاڑنا۔ دن کرنا العرق۔ برگ کا حرکت کرنا۔

رکح الریح۔ گاڑنا۔

رکح المغد دھات والا ہونا۔

الریح بان پانا۔

رکح العرق۔ برگ کا حرکت کرنا۔

الشیء اپنی جگہ میں برقرار رہنا علی

العصاء۔ لاشیء پر سہارا لینا۔

الریح۔ دھیمی آواز۔ آہٹ۔ دانا و فیاض

آدی۔

الرائد صاحب وقار و سنجیدہ آدمی

الریح۔ حزم۔ حکمت۔ ثابت عقل۔ کہا جاتا

ہے ”کلّمہ فما رأیت لہ ریحاً“ میں نے

اس سے گفتگو کی تو اس کے اندر میں نے عقل کا

کچھ حصہ نہیں دیکھا۔ الریح۔ چاندی یا

سونے کا بڑا ٹکڑا۔ مجبور کا درخت جو جڑ سے اٹھڑ

لیا جائے۔

الریح۔ زمین کے اندر دفن کئے ہوئے

جوہر۔ ج رکح رائد

الریح۔ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کی پیدا کی

ہوئی دھاتیں۔ واحد (رکح) ج رکح رائد

ورکح رائد

الریح۔ دائرہ کا وسطی نقطہ کہ جس سے

دائرہ تک جتنے خط نکلیں باہم برابر ہوں۔ رہنے

کی جگہ۔ ج مراکز۔ مراکز الأسنان

دانت نکلنے کی جگہیں۔

الرائد۔ فاسور۔ ج رکح رائد

و رکح و رکح و رکح و رکح

مؤث رکح رائد پھاڑکی چوٹی۔

الرائد۔ فاطمہ اہول

الرائد۔ فاطمہ اہول

الرائد۔ فاطمہ اہول

الرائد۔ فاطمہ اہول

الرائد۔ فاطمہ اہول

الرائد۔ فاطمہ اہول

الرائد۔ فاطمہ اہول

الرائد۔ فاطمہ اہول

الرائد۔ فاطمہ اہول

الرائد۔ فاطمہ اہول

الرائد۔ فاطمہ اہول

الرائد۔ فاطمہ اہول

الرائد۔ فاطمہ اہول

الرائد۔ فاطمہ اہول

الرائد۔ فاطمہ اہول

الرائد۔ فاطمہ اہول

الرائد۔ فاطمہ اہول

الرائد۔ فاطمہ اہول

الرائد۔ فاطمہ اہول

الرائد۔ فاطمہ اہول

الرائد۔ فاطمہ اہول

الرائد۔ فاطمہ اہول

الرائد۔ فاطمہ اہول

الرائد۔ فاطمہ اہول

الرائد۔ فاطمہ اہول

الرائد۔ فاطمہ اہول

الرائد۔ فاطمہ اہول

الرائد۔ فاطمہ اہول

الرائد۔ فاطمہ اہول

الرائد۔ فاطمہ اہول

الرائد۔ فاطمہ اہول

الرائد۔ فاطمہ اہول

الرائد۔ فاطمہ اہول

الرائد۔ فاطمہ اہول

رکب زانویں درد والا ہونا۔

رکب الشیء ترکیب دینا۔ بعض کو بعض

پر رکھنا۔ الفرس سوار کرنا۔

رکب ساری دینا المہر ساری کے

قابل ہونا۔

رکب ترکیب پانا۔

رکب سوار ہونا الذنب گناہ کر بیٹھنا

الامر ولیری سے گھس پڑنا۔

الذین قرض زیادہ لینا۔

رکب الامر تہمت ہونا۔

رکب اونٹ یا گھوڑوں کے سوار۔ یہ اسم

جمع ہے اور بقول بعض جمع۔ ج رکب و

رکب

الرکبۃ ”رکب الذابۃ“ کا اسم۔ سوار

ہونے کی ایک قسم۔ کہا جاتا ہے ”هو حسن

الرکبۃ“ وہ اچھی طرح سوار ہونے والا ہے۔

الرکبۃ زانو گھٹنا۔ ج رکب و رکب

ورکب کہا جاتا ہے ”هذا امر

اضطکث فیہ الرکب“ یہ ایسا معاملہ ہے

جس میں گھٹنے ایک دوسرے سے رگڑ کھاتے

ہیں۔ رکبۃ الذجاجة و رکبۃ الرامی:

دوستاروں کے نام۔

الریح زین کا وہ لٹکا ہوا حصہ جس میں سوار

اپنا پیر ڈالتا ہے۔ ج رکب۔ الرکب:

سواری کے اونٹ اس کا واحد راجلہ ہے۔ ج

رکب و رکب و رکب و رکب

السحاب ہوا میں۔

الرکب بہت سوار ہونے والا۔

(والرکبۃ) سواری کا اونٹ۔ سواری۔ ج

رکب طریق رکب چلتا ہوا راستہ۔

الرکب بہت سوار ہونے والا۔ مؤث

رکبۃ

المربکات واحد مرکبہ مختلف شکلوں کی

سامان والی (راہٹ) گاڑیاں خواہ گھوڑوں

گدھوں کے ذریعے چلیں یا بجلی تیل وغیرہ کے

ساتھ۔

الرکب کا بوس۔

تَرَكَكُمْ وَإِزْتَكَمَ الشَّيْءُ: ڈھیر لگنا۔ کہا جاتا ہے "تَرَكَكُمْ لَحْمٌ فَلَانَ" یعنی فلاں مونا ہو گیا۔

الرُّكْمُ: تہ بتہ بادل۔
الرُّكْمَةُ: کچھ کا ڈھیر۔ الرُّكَامُ: تہ بتہ بادل یا ریت وغیرہ کا ڈھیر۔ قَطِيعٌ رُكَامٌ: بڑا روپڑا۔

الرُّكَيْمَةُ (الذَّرِيَّةُ) ایسی موادی پیدا کرنے کا آلہ۔

الرُّكْمُ: بجلی بھرنے کا آلہ۔
مُرْتَكِمٌ: الطَّرِيقُ: شاہراہ۔

الرُّكْمُ: مِسْحَابٌ مَرَكُومٌ: تہ بتہ بادل۔ نَاقَةٌ مَرَكُومَةٌ: موٹی اونٹنی۔

رَكْنٌ (ن) اور رَكْنٌ (س) کو رُكْنًا: اَلِيَّةٌ: مائل ہونا۔ آرام لینا۔ اعتماد و بھروسہ کرنا۔

رَكْنٌ (ک) رَكْنَانَةٌ وَرُكُونَةٌ: صاحب وقار و سنجیدہ و ثابت قدم بنانا۔

أَرَكْنَ: اَلِيَّةٌ: بھروسہ کرنا۔
تَرَكَنَ: مضبوط و صاحب وقار ہونا۔

الرُّكْنُ: باعث تقویت۔ عزت و قوت و غلبہ۔ برا معاملہ میں الشَّيْءُ: جز۔ ہر چیز کا قوی کنارہ۔ کہا جاتا ہے فَلَانَ رَكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ قَوْمِهِ" فلاں اپنی قوم کے اشراف میں ایک شریف ہے۔ رَكْنُ الرَّجُلِ: آدمی کی قوم۔

رَكَانٌ وَرَكْنٌ: الأَرْكَانُ: اجسامِ بسطہ جن سے مادیت کی ترکیب ہوتی ہے اور قدماء کے نزدیک وہ چار ہیں۔ آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔

الرُّكْنُ: چوہا۔ جنگلی چوہا۔

أَرْكَانُ الْحَرْبِ: فوجی قیادت کے قائدین۔ وہ جگہ جہاں فوجی قائدین رہائش پذیر ہوں۔

الرُّكْبَانُ: ثابت قدم۔ سنجیدہ۔ باوقار۔

الرُّكْبَانُ مِنَ الْجِبَالِ: بلند اطراف والا پہاڑ۔

الرُّكْبَانُ: چوہا۔ جنگلی چوہا۔

الرُّكْبَانُ: رئیس۔ بڑا کسان۔ رُكْبَانَةٌ (کلمہ یونانی ہے)۔

الرُّكْبَانُ: کپڑے وغیرہ دھونے کا تہ۔

الرُّكْحَةُ: حرکت۔ دھکا۔

الرُّكْحُوضُ: تیز دوڑنے والا۔ قَوْسٌ رُكْحُوضٌ: جلدی تیز بھینکنے والی کمان۔

الرُّكْحَانُ: بہت دوڑنے والا۔
الرُّكْحَانُ: آگ لگانے کی چیز۔

الرُّكْحُوسُ: کمان کا گوشہ۔ رَج مَرَاكِحُ مَرَاكِحِ الْحَوْضِ: حوض کے کنارے۔

الرُّكْحُوسَةُ: کمان کا گوشہ۔ گھوڑا جو زمین پر اپنی ٹانگوں کو مارے۔ قَوْسٌ (مُرْكُضَةٌ) جلدی تیز بھینکنے والی کمان۔

رُكْعٌ (ف) رُكْعًا وَرُكُوعًا: سر جھکانا۔

پشت۔ تم کرنا اَلِي اللهُ: اللہ کے سامنے پست ہونا۔ الرَّجُلُ: تو اگر میری کے بعد محتاج ہونا۔

اوندھا ہونا یا پھلنا۔

رُكْعَةٌ وَرُكُوعَةٌ: جھکنا۔
الرُّكْبَاعُ: فا۔ سر جھکانے والا۔ ج۔

رُكْعٌ وَرُكُوعٌ: زمین کا گڑھا۔
الرُّكْعَةُ وَالرُّكُوعَةُ: زمین کا گڑھا۔

الرُّكْعَةُ: رُكْعٌ کا اسمِ مرثہ۔
رُكْعَةٌ (ن) رُكْعًا وَرُكُوعًا: لات مارنا۔ ایز لگانا۔ کہا جاتا ہے "رُكْعُ الْفَرَسِ" اس نے گھوڑے کو دوڑانے کے لیے ایز لگائی۔

رُكْعَتُ الْخَيْلِ الْأَرْضِ: زمین پر سم مارنا۔
رُكْعٌ: صَاحِبَةٌ: ایک دوسرے کو لات مارنا۔

تَرَكَلَ الْقَوْمُ: باہم لات مارنا۔
تَرَكَلَ الْحَافِرُ بِالْمِسْحَاةِ وَغَلَبَهَا: پاؤں سے زمین میں دھسنا۔ تَرَكَلَتْ الْأَرْضُ: کھروں سے کھدنا۔

الرُّكْلُ: گندنا۔ (الرُّكْلُ) گندنا فروش۔
الرُّكْلَةُ: رُكْلٌ کا اسمِ مرثہ۔ ساگ کا گٹھا۔

الرُّكْلُ: راستہ۔ چالور کو ایز لگنے کی جگہ۔ ج۔ مَرَاكِلٌ: تم کہتے ہو "فَرَسٌ نَهْدُ الْمَرَاكِلِ" بڑے پہلوؤں والا گھوڑا۔

الرُّكْلُ: سوار کا پیر۔ مَرَاكِلٌ: رُكْمٌ (ن) رُكْمًا: الشَّيْءُ: تہ بتہ کرنا۔ ڈھیر لگانا۔

رُكْسٌ (ن) رُكْسًا: الشَّيْءُ: اَلِيَّةٌ: ڈھیر لگانا۔
الرُّكْسُ: اونٹ پر رکاس باندھنا (دیکھئے لفظ رُكْسٌ)۔

أَرُكْسَةً: اوندھا کرنا الشَّيْءُ: پہلی حالت پر لونارینا الثُّوبُ فِي الصَّبِغِ: کپڑے کو دوبارہ رنگ میں ڈالنا البَجَارِيَّةُ: پستان ابھرنا شروع ہونا۔

تَرَكَسَ الشُّعْرُ: بالوں کا تہ بتہ ہونا۔
إِزْتَكَسَ: اوندھا ہونا۔ دوبارہ جٹلائے مصیبت ہونا۔ بھیڑ کرنا۔ فِي مَكَانِهِ: اقامت کرنا۔ ٹھہرنا۔

الرُّكْسُ: پلیدی۔ گندگی مِنَ النَّاسِ: جماعت۔ گرنے کے بعد مرمت کی ہوئی عمارت۔ پل۔

الرُّكْسُ: وہ تیل جو کھلیان کے وسط میں ہو اور دوسرے تیل اس کے بعد ہوں۔

الرُّكْسُ: رسی جو اونٹ کی مہار میں باندھ کر زانو میں باندھ دیں۔

الرُّكْسَةُ وَالرُّكْسَةُ: جو چیز زمین میں گاڑی جائے۔ جیسے بیج اکیل وغیرہ۔

الرُّكْسُ: اوندھا کیا ہوا کمزور۔

رُكْعٌ رُكْعًا: دوڑنا۔ پاؤں ہلانا: دفع کرنا الْفَرَسَ بِرُجْلِيهِ: گھوڑے کو ایز لگانا الطَّائِرُ بِجَنَاحِيهِ: پرندہ کا جلدی سے پڑ پڑ پڑانا مَنَّةٌ: جلدی سے بھاگنا۔

النُّجُومُ: ستاروں کا چلنا الْقَوْسُ: تیر اندازی کرنا الْأَرْضُ وَالثُّوبُ: پیر سے ملنا۔

رُكْعٌ: الْفَرَسُ: دوڑایا جانا۔ صفت (مَرَكُوضٌ)۔

رُكْعَةٌ مَرَاكِحَةٌ: گھوڑا دوڑانے میں مقابلہ کرنا۔

تَرَكَضَ الْقَوْمُ: باہم دوڑانا۔

إِزْتَكَضَ: ہلنا۔ مضطرب ہونا الْجَيْنِيُّنُ: پیٹ میں حرکت کرنا الرَّجُلُ فِي أَمْرِهِ: اپنے معاملہ میں تصرف کرنا خَيْلُهُمْ اَلِيَّةٌ: دوڑانا الْقَوْمُ فِي الْمَيْدَانِ: دوڑنے میں مقابلہ کرنا۔

مَرَمَاتٍ. الْأَخْبَارِ: جَمْعُ نَجْرِيں۔

رَمَتَهُ (ن) رَمَتْهُ: دَرَسَتْ كَرَانَا ہاتھ سے پونچھا۔ چَرَانَا۔ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ: مَلَانَا۔ مَخْلُوطٌ كَرَانَا۔

رَمِيَتْ (س) رَمَتْهُ: أَلْبَعِيْرُ: رَمِيَتْ وَرَجَّتْ كَے پتوں کے کھانے سے پیار ہونا۔ أَمْرُهُمْ: گڈمڈ ہونا۔ مَخْلُوطٌ ہونا۔

رَمَتْ: عَلَيَّ المَائِيْتَةُ: زَائِدٌ ہونا۔ (و) أَرَمْتُ (الحَالِبُ فِي الضَّرْعِ: تَحَنُّنٌ مِیں کچھ دودھ چھوڑ دینا۔

أَرَمْتُ وَاسْتَرَمْتُ: فِي مَائِهِ: بَاتِيَ رَكْحَانَا۔ أَرَمْتُ الشَّيْءُ: نَزَمْتُ كَرَانَا۔

الرُّمْتُ: غَضَاكُ مَشَابِهٌ أَيْكُ دَرَسَتْ كَانَامُ۔ أَيْكُ قِسْمُ كِي شُورُو تَلْحَاسُ جَسُ كُو لَوْنُ چَرْتے ہیں۔ پَرَانے پُڑوں والو اَرَمْدُ۔ كُرُو پُڑیٹھ والا۔

الرُّمْتُ: تَحَنُّنٌ كَ بَقِيْعَةِ دُوْدُھ۔ دَرِيَا كَ عُبُورِ كَرْنے كَ لِيے كُڑیوں كا تَحَنُّنُ۔ زِيَادَتِي۔

فَضِيْلَتُ: كَمَا جَاتَا بِے "لَفْلَانِ عَلَيَّ فُلَانِ رَمَتْ" فُلَانُ كُو فُلَانِ پَر فَضِيْلَتُ ہے۔ پَرَانِي رَسْتِي۔ جِ أَرَمَاتُ وَ رَمَاتُ: اُوْر كَمَا جَاتَا بِے "حَبْلُ أَرَمَاتُ" پَرَانِي رَسْتِي۔

الرُّمُفَةُ: رُھونے كَ بَعْدُ تَحَنُّنٌ كَ بَقِيْعَةِ دُوْدُھ۔ الرُّمُفَةُ وَ المَرْمُفَةُ: رَمِيَتْ كُھاس اگا نے والي زَمِيْنُ۔

الرُّمَائَةُ: مَادَةٌ تَبْلُ كَانَتْ۔ رَمَحٌ (ن) رَمَحًا: الطَّائِرُ: پَرْنَدہ كَا مَبِيْتُ كَرَانَا۔

رَمَحٌ: الكَاتِبُ: كَلَفَنے كَ بَعْدُ خَرَابُ كَرَانَا۔ رَمَحٌ: فَارُ: پَرْنَدہ جَسُ كُو جَالِ مِیں باندھ دیتے ہیں تاكہ اس كَ ذَرِيْعَةٍ سَے شَكَارِي پَرْنَدوں كا شَكَار كَرِيں يَالُو كَ اُس كَ پَرْنَدہ باندھ دیتے ہیں تاكہ اس كَ ذَرِيْعَةٍ سَے باز كا شَكَار كَرِيں۔

الرَّمَاجُ: نِيْرے كِي گَرِيں اُوْر پُوْرے۔ رَمَحٌ (ف) رَمَحًا: نِيْرَةٌ مَارَانَا: رَمَحَتُهُ الدَّابَّةُ: جَانُوْر كَالَا ت مَارَانَا: رَمَحَ البَرَقُ: بَجَلِي كَا آهَسْتَهُ آهَسْتَهُ چَكْنَا۔

رَامَعُوا: بَاہَمُ نِيْرَةٍ بَارِي كَرَانَا۔ رَمَمَ: البِنَاءُ: عِمَارَتُ كِي مَرْمَتُ كَرَانَا۔ دَرَسْتُ كَرَانَا۔ قَرَمَمَ: الشَّيْءُ: كَيْسِي چِيْر كِي اَصْلَاحُ دُوْرَسْتِي كَے دَر پے ہونا۔ الْعَظْمُ: بَرِي سَے گوشت چھڑا لِيْنَا۔ اِرَمْتُ: البِهِيْمَةُ: چُوبَاے كا ٹھِيْیوں كُو مُنَدُ سَے پُكڑ كَر كھانا۔ اِرَمْتُ مَا عَلَيَّ الخَوَالِكُ كَمَا كَر دَسْتِ خَوَانُ كَا سَبُّ كَچھ صَاف كَر دِيْنَا۔ اِسْتَرَمْتُ: البِنَاءُ: عِمَارَتُ كَا قَابِلُ مَرْمَتُ ہونا۔ الرُّجُلُ: كَيْسِي چِيْر كِي دَرَسْتِي كَیْلے بَانَا۔ الرُّمُّ: مَجھے اِس سَے چَارہ نِيْیں لِيْتِي پے مِيْرے لے زُرُوْرِي ہے۔ وَ "مَائِهِ حَمٌّ وَ لَأَرَمٌ" لِيْنِ اِس كَ پاس كَچھ نِيْیں۔

الرُّمُّ: نَمْنَاكُ مِثْلِي: گُوْدُ كَمَا جَاتَا بِے "جَاءَ بِالطَّبْعِ. وَ الرُّمُّ" وَہے رِي وَ جَرِي چِيْرِيں يَابَشَكُ وَ تَر چِيْرِيں يَامِثِي وَ پَانِي يَابَسْتُ مَالُ لے كَر آيَا۔ الرُّمُّ: عَمٌّ۔ جَمَاعَتُ۔ الرَّمَاءُ: مِْن البِعَاجِ: سَفِيْدُ بھِيْر۔ الرُّمَّةُ: پَرَانِي رَسْتِي كَا كُكُرُو: جِ رَمَمٌ اُوْر كَمَا جَاتَا بِے "أَعْطَاهُ الشَّيْءُ بِرَمِيْتِهِ" اِس نے اس كُو سَبُّ كَچھ دے دِيَا۔

الرُّمَّةُ: پَرَانِي رَسْتِي كَا كُكُرُو۔ پَر دَر چِيْرِيں۔ بُو سِيْدہ بَرِي۔ جِ رَمَمٌ دَر مَامُ۔ الرُّمَامَةُ: مِْن الجَوَارِي: بَہْتَرُ كَار پَر دَر اَزُو مَابَر لُڑ كِي۔ جِ رَمَمٌ۔ حَبْلُ (رَمَامٌ وَ اَرَمَامٌ وَ رَمَمٌ) پَرَانِي بُو سِيْدہ رَسْتِي۔ الرُّمِيْمُ وَ الرُّمَامُ: بُو سِيْدہ۔ الرُّمَامَةُ: بِقَدْرُ زُرُوْرَتُ گَرَارہ۔ كَمَا جَاتَا بِے "اِكْتَفَى بِالرُّمَامَةِ" اِس نے بِقَدْرُ زُرُوْرَتُ گَرَارہ پَر كَلَمَاتِي كِي۔ المَرْمُومَةُ وَ المَرْمُومَةُ: كُھَرُوَارُ جَانُوْر كَا ہونٹ۔ المَرَمَاتُ: مَصِيْبَتِيں۔ رَمًا (ف) رَمًا وَ رَمُوْعًا: بِالْمَمْكَانِ: اِقَامْتُ كَرَانَا الخَبِيْرُ: گَمَانُ كَرَانَا اُوْر اِنْدازہ كَرَانَا (وَ اَرَمًا) عَلَيَّ المَائِيْتَةُ: زَائِدٌ ہونا۔ اَرَمًا إِلَيْهِ: قَرِيْبٌ ہونا۔

جِ مَرَامِيْنُ۔ المَرْمَكَنُ: بَرُوَاتھن۔ نَاقَةٌ مَرْمَعَةٌ: بُوْرے تَحَنُّنُ وَ اِلِيْ اُوْثُنِي۔ رَمَكَا (ن) رَمَكُوا: الأَرْضُ كُھُوْدَانَا۔ الخَوْضُ: حَوْضٌ كُو بِنَا كَر تِيَارُ كَرَانَا الأَمْرُ: دَرَسْتُ كَرَانَا الشَّيْءُ: بَانْدھنا الأَمْرُ: مَوْخَرُ كَرَانَا الحَمْلُ عَلَيَّ البَعِيْرُ: بُو جُو دُو چَنْد لَادَنَا بِالْمَمْكَانِ: اِقَامْتُ كَرَانَا عَلَيَّ فُلَانِ پَرَانِي بِيَانُ كَرَانَا۔ اِرَكِي اِرَكَاءُ: الأَرْضُ: كُھُوْدَانَا۔ الخَوْضُ: حَوْضٌ كُو تِيَارُ كَرَانَا الأَمْرُ: مَوْخَرُ كَرَانَا۔

عَلَيْهِ پَرَانِي بِيَانُ كَرَانَا إِلَيْهِ: پَنَادُ لِيْنَا۔ لَهُمْ خُنْدًا: كَيْسِي كَ لِيے فَوْجُ تِيَارُ كَرَانَا۔ رَاكِي: عَلَيَّ الأَمْرُ: كَيْسِي مَعَامَلُ پَر بھَر دَسُو اِعْتَادُ كَرَانَا۔ تَوَكَّلِي وَ اِرْتَكِي: عَلَيْهِ: كَيْسِي پَر بھَر دَسُو كَرَانَا اِعْتَادُ كَرَانَا۔

الرُّكُوَّةُ: بِنْتَلِيْتُ الرِّاءَ: چھوْٹِي ڈُوْگی۔ وَہے بَرْتَنُ جُو اُگُوْر وَ غِيْرہ نَچُوْر تے وَ قَتُ جَمْعُ ہونے كَیْلے نَچُوْر كَرِيں۔ الرُّكُوَّةُ: جَمْعُ گَلِ جِ رَكَاءُ وَ رَكَوَاتُ۔

الرُّكِيَّةُ: پَانِي وَ الاَكْوَابُ: جِ رَكَايَا وَ رَكَيٌّ۔ المَرْمُوكِي وَ المَرْمَاكِي: بِمِشْرُ رَسْتِي وَ اِلَا۔ المَرْمُوكُو: كُنُوْيسُ كَا چُو بِيْجہ۔ بَرُو اَحْضُ۔ الرُّكِي: ضَعِيْفٌ وَ سَوسُتُ۔

رَمٌ (ن ض) رَمًا وَ مَرْمَةً: البِنَاءُ اُوْ بَعِيْنِهِ: تِيَارُ كُو دِيْكُنَا اُوْر اسے ہَمُوَارُ كَرَانَا البِهِيْمَةُ: چُوبَاے كا كُكُرُو یوں كُو مُنَدُ سَے پُكڑنا اُوْر كَمَا جَاتَا بِے الشَّيْءُ: كھانا الشَّيْءُ: كھانا۔

رَمٌ (ض ن) رَمَةً وَ رَمًا وَ رَمِيْمًا: الْعَظْمُ بَرِي كَا بُو سِيْدہ ہونا۔ صَفْتُ (رَمِيْمٌ) جِ اَرَمًا: رَمَ الحَبْلُ: رَسْتِي كَا نُوثُ۔ اَرَمَ: الْعَظْمُ: بُو سِيْدہ ہونا۔ رُ مَغْرُ ہونا۔ اَرَمَ اِلَيَّ اللُّهُو: كَبھيل كِي طَرَفُ مَالِكُ ہونا۔ القَوْمُ: خَامُوشُ ہونا۔

مَحْكَمٌ دَلَالٌ وَ بَرَابِيْنٌ سَے مَزِيْنٌ، مَتَنُوْعٌ وَ مَفْرُوْدُ مَوْضُوْعَاتُ پَر مَشْتَمَلُ مَفْتُ اَنْ لَاتْنُ مَكْتَبِيْہ

تَرَامِحُ الْقَوْمِ: ایک دوسرے کو تیزہ مارنا۔
الرَّمْحُ: نیزہ۔ جِ رَمَاحٍ وَأَرْمَاحٍ: کہا جاتا ہے "كَمَسُوا وَابْتَنَهُمْ رَمَحًا" یعنی ان کے درمیان شرف و فساد واقع ہو گیا۔ و "رُؤِينَا يَوْمَ كَيْطَلُ الرَّمْحِ" یعنی ہم ایسے دن میں پھنس گئے جو لہبا تھا اور تنگ تھا۔ و "هُم عَلَى بَنِي فُلَانٍ كَرُمِحٌ وَاجِدٌ" وہ لوگ بنی فلان کے خلاف مانند جماعت واحدہ کے ہیں۔
"وَإِخْدَاتِ الْإِنْبُلِ رَمَاجِيهَا" یعنی اونٹیاں موٹی ہو گئیں یا دودھ دینے لگیں اور ان وجوہ سے انہوں نے اپنے آپ کو زخ ہونے سے بچا لیا۔ الرَّمْحُ: فقر و فاقہ۔

الرَّمَاحُ: نیزہ والا (اس معنی میں فاعل ذی کذا ہے اور اس کے لیے فعل نہیں)
نَوْرٌ رَامِحٌ: سیگوں والا تیل۔ السَّمَاكُ الرَامِحُ: ایک ستارہ کا نام۔

الرَّمَاحُ: نیزہ ساز۔ نیزہ لینے والا۔ جِ رَمَاحَةٍ: والرَمَاحَةُ مِنَ الْقَيْسِيِّ: زور سے نیزہ چھینکنے والی کمان۔

الرَمَاحَةُ: نیزہ سازی۔
ذَابَةٌ (رَمَاحَةٌ وَرَمُوخٌ) بہت کاٹنے والا جانور۔

أَرْمَحَ: الرَّجُلُ: نرم و تابع ہونا۔
أَرْمَحَتِ الدَّابَّةُ: چوپائے کے دانت نکلنا۔
موتنا ہونا۔

الرَّمِخُ: بہت سے درخت جو آپس میں گتھے ہوئے ہوں۔

رَمَدٌ (ض) رَمَدًا وَرِمَادَةً: سردی سے ہلاک ہونا۔ (ن ض) (رَمَدًا) الْقَوْمُ: قوم پر پہنچ کر ہلاک کر دینا۔

رَمَدَتِ (س) رَمَدًا: الْعَيْنُ: آنکھ دکھنا
الرَّجُلُ: آشوب چشم والا ہونا۔ رَمَدَ عَيْشُ الْقَوْمِ: ہلاک ہونا۔

رَمَدَ الشَّيْءُ: راکھ میں ڈالنا۔ رَمَدَتِ النَّاقَةُ: تھن والی ہونا۔

أَرَمَدَ: حجتان ہونا الْقَوْمُ: قحط و خشک سالی میں پڑنا۔ قوم کے مویشیوں کا ہلاک ہونا۔

الْعَيْنُ: جملائے آشوب چشم کرنا۔ أَرَمَدَهُ رَاكِهِ جِيسًا كَرَدِيًا: ہلاک کر دینا۔

إِرْمَدٌ: الشَّيْءُ: خاستری رنگ کا ہونا۔
الْعَيْنُ: آنکھ دکھنا فُلَانٌ: شتر مرغ کی طرح دوڑنا۔

الرَّمَدُ: آشوب چشم۔ آنکھ کا دکھنا۔ ہر وہ چیز جو آنکھ کے لیے تکلیف دہ ہو۔

الرَّمِيدُ: آشوب چشم والا مِنَ الْمِيَاهِ: متغیر پانی مِنَ الْيَبَابِ: میلا پھیلا کپڑا۔ مَوْنُثٌ رَمِيدَةٌ:

الْأَرْمَدُ: آشوب چشم والا۔ خاستری رنگ کا۔ ثَوْبٌ أَرْمَدٌ: میلا پھیلا کپڑا۔ مَوْنُثٌ رَمْدَاءُ: الرَّمْدَاءُ: شتر مرغ۔ جِ رَمْدًا:

الرَّمَادُ: راکھ۔ جِ أَرْمَدَةً اور عرب کا قول "هُوَ يَنْفُخُ فِي رَمَادٍ" مثال ہے اور اس شخص کے حق میں بولتے ہیں جو بے فائدہ کام کرے۔

الرَّمَادَةُ: ہلاکت۔
الرَّمْدَةُ: تھوڑی سی چیز۔
الرَّمْدَةُ: خاستری رنگ۔

الرَّمَادِيُّ: خاستری رنگ کا۔
الرَّمِيدَاءُ وَالْأَرْمِدَاءُ: خاستر۔ راکھ۔
الرَّمِيدُ وَالْمَرْمِيدُ: آشوب چشم والا۔
الرَّمِيدُ: گرم راکھ میں جھونا ہوا۔

رَمَزَ (ن ض) رَمَزًا: الْبَيْتُ: اشارہ کرنا۔
ہ بگذا: برا بھانتہ کرنا الْقَرْبَةَ: مشک بھرتا۔

رَمَزَ (ن) رَمَزَانًا: الظُّبِيُّ: ہرن کا چھلانگ مارنا غَمَمَهُ: ایک چرواہے سے ناراض ہو کر بکریوں کو دوسرے کے سپرد کرنا۔

رَمَزَ (ك) رَمَازَةً: بہت حرکت کرنا۔
عظمتد ہونا۔ بزرگ و شریف ہونا۔

تَرَمَزَ وَارْتَمَزَ: تیار ہونا مِنَ الضَّرْبَةِ: مار سے تھملا اُنْضَا الْقَوْمُ: اُنْضَى کے لیے یا خصوصت کے لیے اپنی جگہ ہی پر کھلانا۔

إِرْمَازٌ إِرْمَازًا: الرَّجُلُ: جگہ سے ہٹنا۔
جگہ سے چھٹے رہنا (ضد) نَفِضٌ ہونا۔ متحرک ہونا۔

تَرَامَزَ: الْقَوْمُ: ہر ایک کا دوسرے کی جانب اشارہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "ذَحَلَتْ عَلَيْهِمُ فَتَعَاْمَزُوا أَوْ تَرَامَزُوا" میں ان کے پاس گیا تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو اشارے کرنے لگے۔

الرَّمَزُ وَالرُّمُزُ وَالرَّمَزُ: اشارہ۔ جِ رَمُوزٍ: الرَّمِيْزُ: مکرّم و معظّم۔ اصيل۔ عقلمند۔ بہت حرکت کرنے والا۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ رَمِيْزٌ الْفُرَادِ": تنگ دل مرد۔

الرَّمَازَةُ: دہر۔ زانیہ۔ رند۔ بڑا لشکر۔
الرَّمَايِزُ: مِنَ الْإِبِلِ: پوری قوت والا اونٹ اِبِلٌ (مَرَامِيْزٌ) بہت حرکت کرنے والا اونٹ۔

الرَّمِيْزَةُ: شَعْرِي مَسْلُكٌ جَوْكَه اشاروں کے ساتھ چیزوں اور ان کے ہم جنس کے درمیان تشبیہ دیتے ہیں۔

الرَّمَاوِزُ: سمندر۔ اس۔ سموند۔ جِ رَوَامِيْزُ: الرَّمِيْزُ: چٹری۔

رَمَسَهُ (ض ن) رَمَسًا: ذُصَانِيًا: دفن کرنا۔
الْحَبِيْزُ: چھپانا۔ الْقَبْرِ: قبر پر مٹی ہموار کرنا۔
د بِالْحَجْرِ: کسی پر چتر پھینکنا۔ صفت مفعول (رَمَسَ وَرَمَسَ)

أَرَمَسَ: الصَّمِيْتُ: دفن کرنا۔
أَرَمَسَ: فِي الْمَاءِ: پانی میں ڈوبنا۔
الرَّمَسُ: سر قبر جو سطح زمین سے بلند نہ ہو۔
قبر کی مٹی۔ پست آواز۔ جِ رَمُوسٌ وَارْمَاسُ:

الرَّمَاوِاسُ: رات میں اُڑنے والے پندے۔ ہر جانور جو رات کو نکلے۔ واحد (رَامَسٌ)

(وَالرَّمَايَسَاتُ): نشانات کو مٹا دینے والی ہوائیں۔

الرَّمَاوِسُ: قبر۔ جِ رَوَامِيْسُ: الرَّمَرْمَسُ: قبر کی جگہ۔

رَمَسَ (ن ض) رَمَسًا: الشَّيْءُ: انگلیوں سے پکڑنا۔ رَمَسَتِ الْغَنَمُ: بکریوں کا تھوڑا چرنا ہ بِالْحَجْرِ: کسی کو چتر مارنا۔ ہ بِيْدِهِ:

ہاتھ سے چھونا۔

الرَّمْشُ: الشَّجَرُ: درخت پر پتے آنا۔
چھلدار ہونا الرَّجُلُ: کمزوری و سستی سے کسی چیز کی طرف بہت دیکھنا فی الذم: تھوڑے آنسو بہانا۔

الرَّمْشُ: پلکوں کی سرخی سیلان آب کے ساتھ۔ پلک کے بالوں کا آپس میں پست جانا۔
الرَّمْشُ: نوجوانوں کے ناخن کی سفیدی۔
الرَّمْشُ: سر۔ پھولوں کا دستہ۔ رَمَشُ العین: پلک۔

الأرْمَشُ: خوبصورت بناوٹ والا۔ مؤنث
رَمَشَاءُ: جِ رَمَشٍ (والمَرْمَشِ) چندھی آنکھوں والا۔ الأرْمَشُ: مختلف رنگوں والا۔
أرْمَضُ (رَمَشَاءُ) بہت گھاس والی زمین۔
شُكَّ بے گھاس کی زمین (ضد)
المَرْمَاشُ: دیکھتے وقت آنکھوں کو بہت پھرانے والا۔ جِ مَرْمَاشٍ۔

رَمَضَ (ن) رَمَضًا: اللّٰهُ مُصَيَّبُهُ: مصیبت کو وضع کرنا۔ دور کرنا لِيُنْهَمُّ: صلوات
الشَّيْءُ: نُؤَلِّئُ الْيَدَ: کسی طرف پست نگاہ سے دیکھنا الدَّجَاجَةُ: بیٹ کرنا۔ صفت
(رَمُوضُ) السَّبَاعُ: بچہ جننا۔ کہا جاتا ہے
"قَبَّحَ اللّٰهُ أُمَّا رَمَضَتْ بِهِ" برا کرے اللہ
اس ماں کے لیے جس نے اس کو جننا۔

رَمَضَتْ (س) رَمَضًا: عَيْنُهُ: کچھڑ بہنا۔
صفت مذکر (أرْمَضُ) صفت مؤنث
(رَمَضَاءُ) جِ رَمَضٍ: رَمَضُ الرَّجُلِ:
کچھڑ بہتی ہوئی آنکھوں والا ہونا۔
الرَّمَضُ: سر۔ آنکھ کا کچھڑ۔

رَمَضَ (س) رَمَضًا: البهارة: دن کا سخت گرم ہونا الشمس: ریت وغیرہ پر سخت دھوپ پڑنا الرَّجُلُ: گرم زمین سے پاؤں جانا۔

الطَّائِرُ: پیاس کی تیزی سے پرندہ کے جوف کا گرم ہونا عَيْنُهُ: گرم ہو کر جل اٹھنا للأمر:
غصہ سے جل اٹھنا۔

رَمَضَ (ن ض) رَمَضًا: الضَّلُّ: باریک

ہونے کیلئے دو ہموار پتھروں کے درمیان رکھ

کر کوٹنا (ورَمَضَ ورمَضَ) الغنم: گرم زمین میں چرانا۔ ورمَضَ الصَّوْمُ: روزہ کی نیت کرنا۔ رمَضَ الرَّجُلُ: کچھ انتظار کر کے چلا جانا۔ ورمَضَ الشَّيْءُ: جلانا۔ أرْمَضَ الرَّجُلُ: تکلیف پہنچانا۔ دکھ دینا۔ أرْمَضَ الحَرُّ القَوْمَ: گرمی تیز ہونے سے تکلیف پہنچانا الأمرُ فلانًا: غصہ سے جلانا۔

تَرْمَضُ الصَّيْدَ: سخت گرم جگہ میں شکار کرنا۔ تَرْمَضَتْ نَفْسُهُ: جی مٹلانا۔

أرْمَضَ مِنَ الحُزْنِ: غم سے جل اٹھنا لِفُلَانٍ: کسی کے لیے غمگین ہونا كَيْدُهُ: خراب ہونا لِفَرَسٍ بِهِ: کودنا۔

الرَّمَضُ: سر۔ گرمی کی جلن۔ خریف سے پہلے کی بارش جو گرم زمین پر ہو۔

الرَّمَضِيُّ: مِنَ السَّحَابِ وَالمَطَرِ: گرمی کے آخر اور خریف کی ابتدا کی بارش یا بادل۔

رَمَضَانَ: قمری مہینوں کا نواں مہینہ۔ جِ رَمَضَانَات و رَمَاضِينَ و أرْمِضَاءُ و أرْمِضَةٌ۔

الرَّمِضَاءُ: گرمی کی تیزی۔ دھوپ کی تیزی کی وجہ سے گرم زمین۔

الرَّمَاضَةُ: ہر چیز کی تیزی۔
الرَّمِضُ و الرَّمِضَةُ: مِنَ النِّصَالِ: تیز بھالا۔

رَمِطَةٌ (ض) رَمِطًا: عیب لگانا۔ طعن و تشنیع کرنا۔

رَمَعُ (ف) رَمَعَانًا: أَنْفُهُ: غصہ یا دھاپے کی وجہ سے کانپنا۔ صفت (رَمَعٌ) عَيْنُهُ بالذمُّوع: آنسو بہانا بیدہ: ہاتھ سے اشارہ کرنا رَأْسُهُ: سر بلانا۔ رَمَعَتْ المَرْأَةُ بِالصَّبِيِّ: عورت کا بچہ جننا (رَمَعًا ورمَعَانًا) الرَّجُلُ: تیز چلانا۔

رَمَعُ و أرْمَعُ: السَّافِيُّ: شراب پلانے والے کی پیٹھ یا پیٹ میں درد ہونا۔

رَمَعَتْ المَرْأَةُ بِالصَّبِيِّ: عورت کا بچہ جننا۔

تَرْمَعُ: غصہ سے کانپنا۔

الرَّمَاعُ: فَا: سر کو جھکا کر اٹھانے والا۔
الرَّمُوعَةُ: كَلْبًا: کہا جاتا ہے "رَمُوعَةٌ مِنَ نَبْتٍ" گھاس کا ایک قطعہ۔

الرَّمَاعَةُ: دبر۔ بچہ کا تالو جو حرکت کرتا رہتا ہے۔

الرِّبْمَعُ: پھر کی۔ سفید چمکتی ہوئی کنکریاں جو توڑنے سے ٹوٹ جاتیں۔ جِ الرِّبْمَعُ: کہا جاتا ہے "نَرَكْتُهُ يَفْتُ الرِّبْمَعُ" میں نے اس کو کنکریاں توڑتے ہوئے چھوڑا۔ یعنی وہ مغموں و شکستہ دل تھا۔

الرَّمُوعَةُ: بِيَابَانٍ: کہا جاتا ہے "أَنِّي بِمُرْمَعَاتِ الإخْبَارِ" وہ جھوٹی خبریں لایا۔
الرَّمَاعُ: ساقی کی پیٹھ کا درد جس کی وجہ سے وہ پلانے کے پاپیت کا درد جس سے چہرہ زرد پڑ جائے۔

رَمَعُ (ف) رَمَعًا: الشَّيْءُ: چڑے وغیرہ کو ہاتھوں سے ملانا۔

رَمَعُ رَأْسُهُ: سر پر تیل لگانا الكلام: گفتگو میں نمک مرچ لگانا الطعام: سالن سے تر کرنا۔

رَمَقَهُ (ن) رَمَقًا: چمکتی ہوئی نگاہ ڈالنا۔ دیر تک دیکھنا۔

رَمَقَ: دیر تک دیکھنا الكلام: گھڑانا۔ باطل سے آراستہ کرنا العمل: اچھی طرح نہ کرناہ بالذمُّوع: کسی کی آخری سانس کو کسی چیز کے ذریعہ بجالینا۔

رَمَقَ مَرَامِقَهُ: العمل: اچھی طرح نہ کرنا الرَّجُلُ: شر سے بچنے کے لیے سلوک کرنا۔ کہا جاتا ہے "هَذِهِ النِّحْلَةُ تَرَامِقُ بِعُوقٍ" یعنی یہ درخت خرمانہ بڑھتا ہے نہ ہی مرجھاتا ہے۔

تَرَمَّقَ: الماء و اللبن: تھوڑا تھوڑا پینا۔

أرْمَقَ و أرْمَاقًا: الشَّيْءُ: کمزور ہونا۔ پتلا ہونا۔ أرْمَاقُ الرَّجُلِ: دلے پن سے ہلاک ہونا۔ أرْمَقُ الطَّرِيقُ: راستہ کا دراز ہونا۔

عَيْشٌ (رَمَقٌ ورمَاقٌ) تک زندگی۔

الرماق: نفاق و دشمنی کی وجہ سے ترجمی نظر سے دیکھنا۔

الرمق: بقیہ زندگی۔ من العیش: تھوڑا

گزارہ جو زندگی کے آخری سانس کو باقی رکھے۔

رج ارضاق: الرمق: کبڑوں کا گلہ (رمد

فارسی کا معرب)

الرمقة والزماق والرماق: من العیش:

تھوڑا گزارہ جو زندگی کو باقی رکھے۔ قوت لا

بیوت۔

الرامق والرُمُوق: فقیر۔ حاسد۔ رج رُمُق:

رَجُلٌ (رُمُق) کمزور مرد۔

الرُمُوق والرُمُوق: العیش: بھی گزارہ

واللہ۔

الرماق: بد خلق۔ تھوڑی محبت والا۔

الیرمُوق: کمزور نظر والا۔

حبل (أرماق) کمزور رشتی۔

رَمَك (ن) رُمُوكا: بالمکان: اقامت

کرنا الابل علی الماء: اونٹوں کا پانی پر قیام

کرنا نام پھرنا۔

أرماکہ: بالمکان: ٹھہرانا۔ قیام کرنا۔

إرماک إرماکاکا: دہلا پٹلا ہونا۔ البعیر

اؤنٹ کا خاستری رنگ کا ہونا۔ صفت مذکر

(ارماک) و صفت مؤنث رماکہ رج رَمَك

استرماک. القوم: حسب میں عیب دار

ہونا۔

الرماک والرماک: ایک قسم کی خوشبو۔

الرماکہ: گھوڑی یا ترکی گھوڑی جو نسل

بڑھانے کے لیے رکھی جائے۔ رج رَمَك

وَرَمَاك ورمکات ورماک رجل رَمَاك:

کمزور مرد۔

الرماکہ: اونٹوں میں خاستری رنگ۔

رَمَل (ن) رَمَلًا: الطعام: کھانے میں

ریت ملانا النسیج: پارک بننا السریز:

جو اہر وغیرہ سے آراستہ کرتا۔ الثوب بالدم:

کپڑے کو خون سے تھیننا۔ آودہ کرتا۔ (رَمَلًا

و رَمَلَانًا ورمولا) کندھوں کو ہلاتے ہوئے

دوڑنا۔

رَمَلت. المرأة من زوجها عورت کا

بہو ہونا النسیج: پارک بننا الكلام کلام کو

مکھیا قرار دینا الخط: خشک ہونے کے لئے

ریت ڈالنا الثوب بالدم: کپڑے کا خون سے

تھیننا۔

أرمل. القوم: توشہ ختم ہونا۔ محتاج ہونا۔

زَادَهُم: توشہ ختم کرنا المرأة: بہو ہونا۔

الحبل: رستی دراز کرنا السهم بالدم: تیر

کاخون سے آودہ ہونا النسیج: پارک بننا۔

ترمَلت. المرأة: عورت کا بہو ہونا۔

ترمَل وارتَمَل. بالدم: خون سے آودہ

ہونا۔

الرَمَل: ریت۔ رَمَلَةٌ اس سے خاص ہے ج

رَمال وَاَرَمَل عَلِم الرَمَل: ایک علم ہے

جس میں ریت پر لکیریں کھینچ کر آئندہ کے

احوال کو معلوم کرتے ہیں۔ ام رمال: بیو۔

الرَمَل: تھوڑی بارش۔ زیادتی۔ گائے کی

ناگوں میں بدن کے رنگ کے مخالف

دھاریاں۔ علم عروض میں ایک بحر کا نام۔ فن

موسیقی کا ایک راگ۔

الرَمَلَة: زمین کا ٹکڑا جس پر ریت ہو۔

الرَمَلَة: کالی دھاری رج رمل وَاَرَمَل.

الأرمل. مسکین۔ مرد جس کی بیوی نہ ہو۔

مرد جس کی بیوی مر گئی ہو۔ رنڈو۔ رج ارامل

و اراملة مؤنث الرَمَلَة: عام أرمل. کم

بارش والا سال۔

الأرملَة: ضعیف و محتاج لوگ۔

سَنَة (رَمَلَاء) کم بارش والا سال۔ نَعَجَة

رَمَلَاء: بھیڑ جس کی ناکھیں سیاہ اور بقیہ جسم

سفید ہو۔

الرَمَال: ریت پیچنے والا۔

الرَمُومَل: چھوٹی بیڑی۔

الرَمُومَل والرَمُومَل: شیر۔

الرَمَان: اٹار۔ اٹار کا درخت۔ واحد (رَمَانَة)

الرَمَانَة: ناف اور اس کا ارد گرد۔

الرَمُونَة: اٹار گنے کی جگہ۔

رَمَة (س) رَمَهَا: اليوم: دن کا سخت گرم

ہونا۔

رَمِي (ض) رَمِيًا ورمایة. الشئ و

بالشئ: پھینکا۔ کہا جاتا ہے "رَمِي السهم

عَنْ أَوْ عَلَى القوس" تیر کو کمان سے پھینکا

المكان: کسی جگہ کا قصد کرنا الله لهُ: مد

کرنا۔ رَمَاهُ باكذا: عیب لگانا۔ تہمت لگانا۔

اور کہا جاتا ہے "رَمِي بِخَبْلِهِ عَلَى غَارِبِهِ"

اس نے اس کی رستی اس کے کاندھے پر رکھ دی

یعنی اسے آزاد چھوڑ دیا۔ "رَمِي عَلَى

الخمسين" زائد ہونا المال: بہت ہونا۔

رَمِي بِهِ عَلَى البلد: حاکم دہا بنانا۔

أرَمِي أرَمَاء. الشئ من يده: پھینکانا۔

ه عَنْ فَرَسِهِ: گھوڑے سے گرد پنا۔ أرَمِي

عَلَى الخمسين: زائد ہونا۔ أرَمَت بِهِ

البلاد: وطن سے دور کر دینا۔

رَامَاهُ مَرَامًا ورماء وقرماء: ایک

دوسرے کو دفع کرنا۔ ایک دوسرے پر تیر

پھینکانا۔ رامی عن قومہ: تیر اندازی کرنا۔

تَرَامِي تَرَامِيًا. القوم: بعض کا بعض پر تیز

اندازی کرنا اور پتھر اڑ کرنا الامر: تاخیر ہونا۔

السحاب: بعض کا بعض سے مل جانا۔

تَرَامَت بِهِ البلاد: وطن سے دور کر دینا۔

تَرَامِي الشئ لگاتار ہونا۔ کہا جاتا ہے "ما

زَالَ الشَّرُّ بترامی بينهم" شر ان کے

درمیان لگاتار ہوتا رہا۔ "وترامی امره الى

الظفر او الخد لان" اس کا معاملہ کامیابی یا

ناکامی کی طرف پہنچ گیا۔

أرَمِي أرَمَاء. پھینکا جانا۔ کہا جاتا ہے

"رَمَاهُ فَرَمِيًا" اس نے اسے پھینکا وہ پھینکا

گیا الصيْد: شکار پر تیر مارنا۔ أرَمَت بِهِ

البلاد: وطن سے دور کر دینا۔ أرَمِيًا: ایک

کا دوسرے پر تیر پھینکانا۔

تَرَمِي: تیر پھینکانا اور شکار کرنا۔

الرَمِي: پتھر پھینکنے کی آواز۔

الرَمَاء: زیادتی۔ رپوں۔ سود۔

الرَمِيَة: زیادتی "فِي هَذَا رَمِيَة عَمَّا قَبِل

لِي" جو کچھ مجھ سے کہا گیا ہے اس سے اس میں

الْمَرْغَةِ لِكُلِّ قَوْمٍ مَقْتَعَةً“ ارزانی اور فرسخی سال میں ہر قوم کے لیے آسودگی ہے۔
رَنَفُ الرَّجُلِ: تیز چلنے والا۔ اُونٹ کا سر ہلاتے ہوئے چلنے والے کا ذہنیہا: اُونٹ کی سھکن کی وجہ سے کان ڈھیلنا کرنا۔
الرَّائِفُ: مِنْ كُلِّ شَيْءٍ: ہر ایک چیز کا کنارہ۔

الرَّائِفَةُ: ناک کا کنارہ۔ کان کی نرم ہڈی کا کنارہ۔ چونکہ وہ حصہ جو پھینے میں زمین سے گئے ہیں الحکم: آستین کا کنارہ۔ رَجُ الرَّائِفِ اور کہا جاتا ہے ”عَلُوَ الرَّائِفِ الْأَكَامُ“ وہ ٹیلوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے۔
رَنَقٌ (ن) وَنَقًا وَرَنُوقًا وَرَنِقٌ (س) نَقًا. المَاءُ: پانی کا گدلا ہونا۔ صفحہ ذوق رَنِقٌ وَرَنِقٌ (ر) رَنَقٌ. المَاءُ: پانی کا گدلا کرنا۔ پانی صاف کرنا۔

القَوْمُ بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔ ٹھہرنا۔
الطَّائِرُ: پرندہ کا بغیر اڑنے کے پر پھڑ پھڑانا۔
النُّومُ فِي عَيْنَيْهِ: آنکھوں میں نیند بھر آنا۔
جَنَاحُ الطَّائِرِ: بازو ٹوٹنے سے پرندہ کا گرنا۔
عَيْنَاهُ: بھوک وغیرہ سے نگاہ کا پت ہونا۔
جَسْمُهُ أَوْ رَأْيُهُ: کمزور ہونا۔ فلسفینہ: کشتی کا پانی جگہ پر گھومنا۔ جِل: حیران ہونا۔

الْمَنِيَّةُ مِنْهُ: موت قریب ہونا اور کہا جاتا ہے رَنَقٌ وَلَا تَعْجَلْ“ یعنی ٹھہرنا و انتظار کرو۔
جلدی مت کرالینظر الیہ: در تک دیکھنا۔
أَرْنَقُ المَاءُ: پانی گدلا کرنا۔
رَنَقٌ: حیران ہونا۔
الرَّنَقُ: س۔ جھوٹ۔

الرَّنَقَاءُ: مِنَ الطَّيْرِ: اٹلے سینے والا پرندہ۔ عوام اس کو فرقہ کہتے ہیں۔
الرَّنَقَاءُ: تخر زمین۔
الرَّنَقَةُ: کچھ ملا ہوا پانی۔ حوض کا بقیہ گدلا پانی۔
رَنَقَانِقٌ (یہ رناتاق کا مقلوب ہے)

الْأَرْزَبُ: خرگوش۔ (یہ بزدلی کے لیے ضرب المثل ہے) ایک قسم کا زبور۔
رَجُ الرَّائِبِ (و الرزب) چھوٹی دم کا ایک قسم کا جنگلی چوہا۔
الرَّزْبَةُ: رزب کا واحد۔ ناک کا پائے ”جَدْعٌ فَلَانٌ أَرْزَبَةٌ فَلَانٌ“ فلاں نے فلاں کی ناک کاٹ لی یعنی اہانت کی۔
رَجُ الرَّائِبِ: نسیج (مُؤَزَّبٌ وَ مَزْبٌ) خرگوش کے بال ملا کر بنا ہوا۔

أَرْضٌ (مُزْبَةٌ وَ مَزْبَةٌ وَ مَزْبَةٌ) بہت خرگوش والی زمین۔
رَنَحَهُ تَرْنِيحًا: کمزور کرنا۔
الرَّوْنِخُ لِعُضْنٍ: جھکانا۔ کہا جاتا ہے ”صُرْنِيحُهُ حَتَّى رَنَحْتُهُ“ میں نے اس کو مارا یہاں تک کہ اس پر بیہوشی طاری ہو گئی۔

رَنَحٌ عَلَيْهِ: غشی طاری ہونا۔ فرار یا خوف یا غم کی وجہ سے سست و کمزور ہو کر جھک پڑنا۔
رَنَحٌ وَ رَنَحٌ: نشہ وغیرہ کی وجہ سے جھکانا۔
عَلَيْهِ: فخر و برتری ظاہر کرنا۔ کہا جاتا ہے تَرْنَحٌ بِالْكَلَامِ عَلَيَّ جَهْلًا“ اس نے جہالت کی وجہ سے میرے اوپر فخر کا اظہار کیا۔
الرَّوْنِخُ: چکر۔ دوران سفر۔
الرَّوْنِخَةُ: جہاز کا گلا حصہ۔

رَنَخٌ (ن) رَنَخًا: سست ہونا۔
رَنَخَهُ: خوار و ذلیل ہونا۔
تَرْنَخٌ: خوار و ذلیل ہونا۔ کسی چیز سے لگ جانا۔
الرَّوْنِدُ: ایک قسم کی خوشبودار جنگلی گھاس جو اس کے مشابہ ہوتی ہے۔ گجور کی پتیوں سے بنی ہوئی چھوٹی کون۔

الرَّوْنِزُ: چاول۔
رَنَعٌ (ف) رَنُوعًا: دبلا و لاغر ہونا۔
رَنَعٌ: رنگ کا ستیر ہونا۔
رَنَعٌ: راسہ: حرکت دینا۔
الرَّوْنِغَةُ: کھیل کود کی آواز۔ وسعت باغ۔
ارزانی و فراخ سالی۔ کہا جاتا ہے رَنَعٌ فِي

زیادتی ہے۔ ”هُوَ صَاحِبُ رَمِيَّةٍ“ وہ باتوں میں زیادتی کرنے والا ہے۔ رمی کا اسم مرہ اور عرب کا قول رَمِيَّةٌ مِنْ غَيْرِ رَامٍ“ مثال ہے اس شخص کے حق میں بولتے ہیں جو غلط کار ہو اور اتفاقاً کوئی صحیح کام کرے۔
الرَّوْمِيُّ: فَا. رَمَاةٌ وَ رَامُونَ. ایک ستارہ کا نام۔

الرَّوْمِيُّ أَوْ قَبْ سِيَامٍ: بھگ۔
الرَّوْمِيُّ: سخت بارش برسانے والا بادل۔
أَرْمَاءٌ وَ أَرْمِيَّةٌ وَ رَمَايَا: الرَّمِيَّةُ: شکار جس پر تیر پھینکا جائے۔
رَمَايَا: المَرْمِيُّ: تیر پھینکنے کا آلہ۔
الرَّمِيَّةُ: چھوٹا کمزور تیر۔

الرَّمِيَّةُ: مصدر ميمي۔ تیر پھینکنے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے ”هَذَا الْكَلَامُ بَعِيدُ الرَّمَايَةِ“ یہ کلام دور رس ہے۔ ”وَمَا أَعْبَدُ مَرْمِيًّا هَمِيَّةً“ اس کی ہمت کا میدان کتنا وسیع ہے۔
”وَلَهُ هِمَّةٌ قَصِيَّةٌ الرَّمِيَّةُ“ اس کی ہمت دور تک پہنچنے والی ہے۔

رَنٌ (ض) رَيْنًا وَ أَرَنٌ: رونے میں آواز بلند کرنا۔ فریاد کرنا۔
رَنَتْ وَ أَرَنْتُ القَوْسُ: آواز کرنا۔
وَ أَرَنٌ وَ اسْتَرَنٌ لِكَذَا: کھیل کود کرنا۔
رَنَقٌ القَوْسُ: آواز گدلا کرنا۔
تَرْنِيَّةٌ: چننا۔

الرَّنَّةُ: آواز مطلقاً یا مکان وغیرہ کی آواز کے لئے خاص ہے۔
الرَّوْنِيْنُ: آواز مطلقاً۔
الرَّنَقُ: تھوڑا پانی۔ ایک جانور جو گرمی کے زمانہ میں مڑتا ہے۔
قَوْسٌ (مُزْبَةٌ وَ مَزْبَانٌ) بہت آواز کرنے والی مکان۔

الرَّنَقِيُّ: تمام مخلوق۔ ماہ جمادی الاخریٰ کا نام اس معنی میں اس پر الف لام نہیں آتا۔
رَنًا (ف) رَنًا: آواز کرنا۔
مَشِيئَةٌ: گرا ہوا چلنا۔

الروثوق جھک دک۔ خوبصورتی۔

التروثوق والتروثوق والتروثوقاء مہرول
کا کچھ۔ سیلاب کے پینے کی جگہ جبکہ پانی خشک ہو
چکا ہو۔

الرثمة ایک مچھلی کا نام

رثم (س) رثمًا ورثم و ترثم خوش
آوازی سے گانا۔

الرثم والرثمة ایک قسم کی نباتات۔

الرثم گانے والی عورتیں۔ خوش الحانی سے
گانے والیاں۔ ہوشیار لوٹریاں۔ اور کہا جاتا ہے

”عود رثم“ یعنی والا برہ۔

رثان (ن) رثوا ورثا۔ اللہ وہ جسکی
باندھ کر دیکھنا الرجل مشغولی قلب کے
ساتھ طرب اور کھیل کود میں ہونا (وترانی)
عنه بخلت برثا۔

رثی ترثیۃ گانا اللہ مشتاق ہونا۔

(وارثی) الحسن فلاناً: تعجب میں ڈالنا
اور دیکھنے پر براہمختہ کرنا۔ آرنہ الی الطاعة:
کسی کو طاعت پر متوجہ کرنا اور اس کا طاعت پر
مداومت کرنا۔

رثاہہ سلوک کرنا۔ مقابلہ کرنا جیسے ”لہ
شرف یزانی الکواکب“ یعنی اسے ایسی
شرافت حاصل ہے جو لوگوں کی نظر کو اپنی
طرف متوجہ کرنے میں ستاروں سے مقابلہ
رتی ہے۔

ترثی محبوب کی طرف لگا تار دیکھنا۔

الرثاس۔ وہ چیز جس کی طرف خوبصورت
ہونے کی وجہ سے دیر تک دیکھیں۔

الرثاء خوبصورتی۔

الرثاء یعنی آواز طرب۔

الرثاء والرثویل پسند و خوبصورت چیز کی
طرف دیر تک دیکھنے والا۔ کہا جاتا ہے ”ہو
رثو الامانی“ وہ بہت سی آرزوؤں کی توقع
کرتا ہے۔

رہب (س) رھبۃ ورھبنا ورھبنا ورھبنا
ورھبانا ورھبانا خوف کرنا۔ کہا جاتا ہے
”لم ازھب بک“

رہب الحمل اٹھنے لگنا پھر کمزوری کی

وجہ سے بیٹھ جانا۔ رھبت الناقة سفر کی وجہ
سے تھکنا۔ صفت مذکر مؤنث (رہب بن)

رہاب

ازھب تھکے ہوئے اونٹ پر سوار ہونا۔

آستین لمبی کرنا۔ کہا جاتا ہے ”ازھب عنه
الناس باسہ ونجدتہ“ یعنی اس کے دہرہ
اور دلیری نے لوگوں کو ڈرنے پر براہمختہ کیا۔

ترھب راہب بندہ دھمکی دینا۔

استرھبہ خوف دلانا۔

الرھب نیزہ کا باریک پھل۔ من الابل:
سفر کی وجہ سے تھکا ہوا اونٹ یا اونٹنی۔ ج

رہاب

الرھب آستین۔

الرھبۃ والرھبی والرھبی والرھباء:
ڈر خوف۔

الرھبانۃ والرھبانۃ دینا اور لدا لدا دینا
سے بے تعلق۔

الراہب فا۔ شیر۔ گرجاؤں کا گوشہ نشین۔

ج رھبان مؤنث راہبۃ راہبات و
رؤاہب۔ الراہبۃ ڈراولی حالت۔

الرھبان۔ بہت زیادہ خوف کرنے والا۔ ج

رھابین وراہبۃ و رھبانون۔ مؤنث
رھبانۃ رھبانان۔

الرھبان راہب۔ ج رھابین مؤنث

رھبانۃ۔ رھبانان۔

الرھبوت والرھبوتی بہت ڈر۔ شدید
خوف۔

الارھابی عوام کو خوفزدہ کرنے والا حاکم۔

الحکم الارھابی خوفزدہ کرنے کا حکم

الرھبۃ راہبوں کا طریقہ اختیار کرنا۔

المراہب خوفناکیاں۔

الرھیب والممرھوب خوفناک۔ شیر۔

رھیل غیر مفہوم کلام کرنا۔

ترھیل تیز چال چلنا۔

الرھیل مبہم کلام۔ غیر مفہوم کلام۔

الرھیلۃ تیز چال۔

ازھج غبار۔ ارنانا بین القوم بعض کو
بعض پر بھڑکانا السماء آسمان کا برسنے لگنا۔

الروہج والروہج اڑایا ہوا غبار۔ والروہج
قندہ وفساد شور و شغب۔ بغیر پانی کے بادل۔

واحد (رھبۃ)

الروہجۃ ایک قسم کی چال۔

رھد لاف رھدایا باریک پینٹا۔

رھد سخت نادانی و حماقت کرنا۔

رھادۃ العیش زندگی کی آسودگی۔

الرھوڈیۃ مہربانی و نرمی۔

الرھید نرم و نازک۔ ارزاں۔

الرھیدۃ نرم و نازک عورت۔ الرھیدۃ:

ایک قسم کا کھانا جو کونے ہوئے گیہوں اور دودھ

سے تیار ہوتا ہے۔

امر (مڑھوڈ) غیر محکم کام۔ اور کہا جاتا ہے

”ترثنہم مڑھوڈین“ یعنی میں نے ان کو

اس حال میں چھوڑا کہ وہ کسی امر کا عزم نہیں

رکھتے تھے۔

الرھدل بیوقوف۔ کمزور۔

الرھدن والرھدن والرھدن بزدل۔

بیوقوف۔ چیز کی مانند ایک پرندہ کا نام۔ ج

رھدان ورھادۃ۔

الرھدون جموٹا۔

رھرہ ورھرہۃ۔ ماہذتہ جو دو سخاوت سے

دستر خوان پھیلاتا۔

ترجرہ السراب۔ سراب کا متواتر چمکنا

جسٹہ جسم کا آسودگی کی وجہ سے سفید و نرم

و نازک ہونا۔

الرھرہۃ۔ سر۔ چہرہ کی بشارت۔ بشرہ کی چمک

دک۔

جسہ (رھرہ ورھرہ اور وھوہوہ) سرخ

سفید نازک بدن۔ طست رھرہ ورھرہ:

تھوڑی گہرائی کا طست۔ وماء رھرہ

ورھرہ صاف پانی۔

رھ (ف) رھرا ورھراناً۔ المباحص:

جماع کرنے والے کا حرکت کرنا۔

ارثبیر۔ لاملیر خوشی سے جموٹا۔

رہس (ف) رھسا۔ الشیء سخت روندا۔ بہت باہل کرنا۔
 ترھس۔ الشیء ہلنا۔ ادھر ادھر ہونا۔
 ارتھس۔ القوم: بھیڑ کرنا۔ ارتھست
 رجلا الذابۃ: رزگ کھانا الوادی: بھر جانا
 الجراد: بڑبڑ ہونا۔
 ارتھش۔ الرجل: کامیاء القوم: قوم کے
 درمیان لڑائی واقع ہونا القوم: نرم وسست
 ہونا القوم: گھوڑے کا کھانا۔
 ترھش۔ الرجل: کریم وحی ہونا۔ النافۃ
 اونٹنی کا بہت دودھ والی ہونا۔
 الرھش۔ جانوروں کا اگلی ٹانگوں کا آپس میں
 رگڑ کھانا۔
 الرھیش۔ من التراب: گرتی ہوئی مٹی جو
 نہ رکے۔ کمزور۔ باریک۔ کم گوشت والا۔
 باریک پیکان۔ پتلا تیر۔ نافقہ رھیشۃ۔ بہت
 دودھ والی اونٹنی۔
 الرھشان۔ بازوں کے باطن کی دورگیں۔
 الرھشۃ۔ کرم۔ حیا۔
 الرواہش۔ جھلی کے ظاہر کی رگیں۔ جانور
 کے بازوں کے اندر کی رگیں۔ واحد (رہش)
 وراہشۃ)
 رھص (ف) رھصا۔ الشیء سخت چوڑنا
 الصید: شکار کو سست کر دینا۔ طامت
 کرنا۔ جلدی کرنا الحانط: دیوار کا پہلا روہ
 رکھنا القوم: کھروڑھی کرنا۔
 رھص (س) یوزھص رھصا۔ القوم
 گھوڑے کا زخمی کھروڑا ہونا۔
 ارھص۔ الحانط: دیوار کا پہلا روہ رکھنا
 الشیء بنیاد رکھنا۔ ثابت کرنا۔ بھلائی کا شیخ
 بنانا القوم: گھوڑے کے کھروڑھی کرنا۔
 رھص۔ غویمہ: قرض داری گھرائی کرنا۔
 تراھصت۔ الصخور: چٹانوں کا آپس میں
 جتنا۔
 الرھص۔ من الحانط: دیوار کا پہلا روہ۔
 مٹی جس سے دیوار بنائی جائے۔
 الرھاص۔ مٹی آگاہ بنانے والا۔

الرھصۃ۔ گھوڑے کے سم کا زخم۔
 الرھیص۔ من الخیل: سم کے زخم والا۔
 رھف رھیص: اونٹ کا کھر جس کو پھر گ
 گیا ہو۔ اسد رھیص: شیر جو اپنی جگہ سے
 لٹکتا ہو۔
 البرواھص۔ من الحجارۃ: سم کو زخمی
 کرنے والا پتھر۔ مضبوط جی ہوئی چٹانیں۔ واحد
 (راھصۃ)
 المورھصۃ۔ مرتبہ۔ درجہ۔ ج مرواھص۔
 رھط۔ (ف) رھطاً اللقمۃ: بڑا لقمہ
 لینا۔ کہا جاتا ہے "ھو یرھط" وہ بہت کھاتا
 ہے۔
 رھطاً بہت کھانا اللقمۃ: بڑا لقمہ لینا
 الرجل: سواری کی پیچ پر جم کے بیٹھنا۔ گھر
 سے نہ لگانا۔
 ارتھط۔ القوم: اکٹھا ہونا۔
 الرھط والرھط۔ آدمی کی قوم اور قبیلہ تین
 سے دس تک کا گروہ جس میں کوئی عورت نہ ہو
 اور اس لفظ کا واحد نہیں۔ ج رھط و ارھاط
 و جج ارھیط و ارھاط اور جب رھط کی
 جانب عدد کی اضافت ہوتی ہے تو اس سے مراد
 اشخاص و افراد ہوتے ہیں جیسے "عشرۃ
 رھطاً" یعنی بیس شخص۔ اور کہا جاتا ہے
 "نحن ذور رھط" ہم اکٹھے ہیں۔ الرھط
 دشمن۔
 الرھاط۔ گھر کا سامان۔
 الرھطۃ والرھطاء والرھطاء۔ من
 جحرۃ الیربوع: جنگلی چوہے کا وہ سوراخ
 جس سے وہ مٹی باہر نکالتا ہے۔ ج رھاطی
 التروھوط بہت کھانے والا۔
 رھف (ف) رھفا۔ السیف: تلوار کو
 باریک کرنا۔
 رھف (ک) رھفا۔ رھفا باریک و پتلا
 ہونا۔ صفت (رھیف)
 ارھف۔ السیف: تلوار کی دھار پتلی کرنا۔
 ارھف بالکلاہ: فی البدیہہ کہنا۔
 الرھیف۔ پتلا۔ پتلی کی ہوئی دھار والی چیز۔

المورھف۔ من سیف مورھف: تیز پتلی
 دھار کی ہوئی تلوار۔ فرس مورھف: دلے
 پیٹ اور قریب قریب پسلیوں والا گھوڑا۔
 خصر مورھف: پتلی کمر مورھف الجسم:
 ڈبلا پتلا۔ رجل (مورھوف) البدن: پتلے
 جسم والا مرد۔

رھق (س) رھقا۔ بیوقوف ہونا۔ صفت
 (رھق) ہلکا ہونا۔ ظلم کرنا۔ برائیوں کا مرتکب
 ہونا۔ جھوٹ بولنا۔ جلدی کرنا السفر:
 قریب ہونا۔ وقت آنا۔ کہا جاتا ہے "رھقت
 الکیلاب الصید" یعنی کتے شکار پر جانچنے۔
 رھقہ۔ برائی کی تہمت لگانا۔

راھق۔ الغلام: جوانی کے قریب پہنچنا۔
 صفت (مراھق) کہا جاتا ہے "صلی الصلوۃ
 مراھقا" اس نے وقت ختم ہونے کے قریب
 نماز پڑھی۔

ارھقہ۔ ظلماً۔ جتلائے ظلم کرنا۔ اثماً:
 گناہ پر برا بھینٹ کرنا۔ غسراً: تکلیف دینا۔
 ہ: پالینڈ فوق الطاقۃ کام پر آسنا۔
 الصلوۃ: آخر وقت تک مؤخر کرنا۔

ریدا ان یصلیٰ: نماز پڑھنے کی جلدی کرنا۔
 کہا جاتا ہے "لا ترھقنی لا ارھقک اللہ"
 تو میرے اوپار سختی نہ ڈال اللہ تیرے اوپر سختی
 نہیں ڈالے گا۔

الرھق۔ من گناہ و تہمت۔ سبی عقل۔
 جہالت۔ فوق الطاقۃ کام پر برا بھینٹ کرنا۔
 الرھقی۔ ایک قسم کی ڈور۔ کہا جاتا ہے "ھو
 یعدوا الرھقی"

الرهاق والرھاق۔ مقدار۔ تقریباً کہا جاتا
 ہے "کانوا رھاق مانۃ" وہ لوگ سو کے
 قریب تھے۔

الرھیق۔ شراب۔
 الرھیقان۔ زعفران۔
 المورھق۔ قتل کرنے کے لیے گرفتار۔ جنگی
 میں ڈالا ہوا۔

المورھق۔ من خفیف العقل و جاہل۔ بدی و
 شرارت سے متہم۔ فیاض۔

میں روکی جائے۔ المرتھن بالامورکام میں پھنسا ہوا کہا جاتا ہے "کُل امرء بالموت مرتھن یعنی ہر انسان موت کے ساتھ مقید ہے۔ الامور (مروہونہ) باوقاتہا نام اپنے وقت پر واقع ہوتے ہیں۔
 الرهنامج والرهنامج ملاحج کے لیے بحری راستہ کا قیش (راہ نامہ مارعرب) رہن (رہن) رھوازی کرنا۔ نرم چال چلنا۔ کہا جاتا ہے "جانت الخیل رھوا کھوڑے نرم چال سے آئے۔" "أرہ علی نفسک" اپنے اوپر نرمی کرو الخیر ذریعہ کا ساکن ہونا بین رجليہ کھولنا الطائر نرنده کا بازو پھیلانا۔
 رھى مرأهآة. الرجل قریب ہونا۔ اکٹھا ہونا۔ باہم حماقت کرنا۔
 أرھى أرهآء مشاہدہ جگہ بابا۔ رہو پرندہ کے کھانے پر مدد امت کرنا لهم الطعام ہمیشہ تیار رکھنا علی نفسه نرمی کرنا۔ کہا جاتا ہے "أرہ علی نفسک" اپنے اوپر نرمی کرو "أرھى لك الشئ تمہارے لیے یہ چیز ممکن ہے و "أرھيته لك" میں نے تم کو اس پر قدرت دی۔
 تراحى القوم باہم نرمی برتنا۔
 إرتھى القوم باہم مخلط ہونا۔ رہیہ تیار کرنا۔ (دیکھئے لفظ رھى)
 الرھون سارس یا اس کے مشابہ ایک پرندہ ج رھاء (والرھوة کورگوں کی جماعت۔ بلندی پست جگہ۔ بنو رھو چوڑے منہ کا کتواں۔
 ثوب رھو ہاریک کپڑا۔ غارة رھو لگاتار لوٹ۔ اور کہا جاتا ہے "الناس رھو مابين المدينة والجبل لوگ شہر اور پہاڑ کے درمیان لگاتار آ رہے ہیں۔
 الرھاء. من الأمان كشاده جگہ۔
 من كل شئ ہر چیز کا ہوا حصہ۔
 الراھى. من العيش آسودہ زندگی۔
 الراھية. الراھى کا موٹ۔ شہید کی مہی۔

رکھنا۔ ارھن فلان نرور کرنا۔ پیشگی دینا۔
 فى السلعة نمران کرنا لضيقة الطعام والشراب نمران کے لیے ہمیشہ کھانا پانی تیار رکھنا۔
 أرهن الميت القبر نیت کو قبر میں رکھنا۔
 تراهن. القوم نہیں میں شرط لگانا۔
 إرتھن. الشئ منہ غروی لینا بالامور۔
 کسی معاہدہ میں مقید ہونا۔
 استرھنه. الشئ غروی طلب کرنا۔
 الراهن قال۔ تیار۔ ہمیشہ رہنے والا۔ محکم و مضبوط۔ کہا جاتا ہے "هذه حجة رھينة"
 یہ مضبوط دلیل ہے۔ ہمیشہ رہنے والی خوراک وغیرہ۔ لاغر، ڈبلا۔
 الراهنه کھوڑے کی ناف اور اس کا ارد گرد۔
 الرهن نس۔ گروی۔ کسی چیز کا روکنا۔ گروی رکھی ہوئی چیز۔ ج رھان و رھون و رھین و رھن کہا جاتا ہے "إنى لك رهن بكذا"
 میں تمہارے لیے اس کا ضامن ہوں۔
 هذا (رهن) مال نہ مال کے برابر ہے۔
 شئ مروہونہ سے لیے بولتے ہیں کہ وہ مال جو لیا جا رہا ہے اس کے برابر ہے۔
 الرهان۔ خیل الرھان شرط لگانے کے گھوڑے اور "ھما کفوسى رھان" دو ہم رتبہ چیز کے بارے میں بطور مثال کے بولتے ہیں۔
 الرھین گروی رکھا ہوا۔ کسی چیز کے بدلے میں روکی ہوئی چیز۔ کہا جاتا ہے "أنا رھین باعمالی" میں اپنے کاموں میں پھنسا ہوا ہوں۔
 الرھينة غروی رکھی ہوئی چیز۔ کہا جاتا ہے "أنا رھينة بكذا" میں اس میں پھنسا ہوا ہوں یا میں اس کا ضامن ہوں۔ "کُل نفس بما کسبت رھينة" ہر ایک نفس اپنے کمائے ہوئے کے ساتھ گروی ہے۔ و "الخلق رھان الموت مخلوق موت کے ساتھ مجبوس ہے۔
 الموتھن۔ ہر وہ چیز جو کسی چیز کے بدلے

رھلک (رھلک) رھکا۔ الشئ ہاریک پینا۔
 مفت مغولی (رھیک و مرھوک)
 بالمکان اقامت کرنا۔
 أرتهک علی میں سٹ ہونا۔
 الرھک۔ نرم نیک کام۔
 الرھکة نروری۔
 الرھکة والرھکة. من الرجال
 أو الابل نرور و نواتواں۔
 رھلوس (رھلا ڈھیلے اور پھولے ہوئے گوشت والا ہونا۔ مفت (رھل) کہا جاتا ہے "فلان فيه رھل" فلاں میں آس کے ساتھ ڈھیلے ہیں۔
 رھله وأرھله. النوم نیند کا سٹ و ڈھیلہ کرنا۔
 ترھل وھیل ہونا۔
 الرھل شبنم کے مشابہ پتلا پتلا پاول۔
 المترھل. عند الأطباء ڈھیلے بدن والا۔
 أرھمت. السماء نرم بارش برسنا۔
 الرھمة نرم لگاتار بارش۔ ج رھم و رھام۔
 الرھام والرھوم ذلی بکری۔
 الرھام غیر شکاری پرندہ۔ بڑی تعداد۔
 الأزھم زیادہ فرخانی وارزانی والا۔
 المرھم مرہم۔ ج مرھم مکان (مرھوم کہ جگہ جہاں ہلکی بارش ہوئی ہو۔
 رھمس رھمسہ باہم رازی کا تیس کرنا۔
 لغرابی کی تعریض کرنا۔
 رھن (رھن) رھنا۔ الشئ فلاناً و عند فلان گرو کرنا۔ الشئ ہمیشہ رہنا اور اسی سے ہے "نعمة الله رھينة" اللہ کی نعمت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ الشئ ہمیشہ رکھنا۔
 بالمکان اقامت کرنا (رھونا کوبلا ہونا۔
 مفت (رھن)
 رھنه رھانا و مرھنة علی الخیل۔
 دوڑانے کیلئے شرط لگانا علی کذا شرط ٹھہرانا۔ أرھنه الشئ کسی کے پاس گرو

کنارہ۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ يَضْرِبُ بِلِسَانِهِ رَوْثَةَ اِنْفِه" فلاں اپنی ناک کے کنارے تک زبان کو لے جاتا ہے۔ کنایہ ہے زبان دراز ہونے سے۔ چونچ۔

الْمَرَاثِ وَالْمَرْوَاتِ. لِيَدَّ كَالْمَرْجِ. رَأح (ن) رَوْحًا وَرَوَاحًا. الْأَمْرُ: جلدی ہونا السَّلْعَةُ: رائج ہونا الذَّرَاهِمُ:

رواج پکڑنا الطَّعَامُ: کھانا تیار ہونا۔ کہا جاتا ہے "أَخْضُرْنَا مَارَاحَ" جو کچھ میسر ہو اس کو ہمارے لئے حاضر کرو۔ راجحت الرِّيحُ: ہوا کا نام معلوم ست سے چانا۔

رَوْحُ الشَّيْءِ وَبِهِ جَلْدِي كَرْنَا السَّلْعَةَ وَالذَّرَاهِمُ: رائج کرنا فَلَانٌ كَلَامُهُ: مزین وجمہم کرنا۔

تَرَوَّجُ: حوض کے گرد گرد گھومنا۔ صفت (رَوَّاج) الرُّوَجَةُ: جلدی۔

رَأح (ن) رَوَاحًا. شام کے وقت آنا یا جانا کام کرنا اور بغیر وقت کی تخصیص کے مطلقاً جانے کے معنی میں مستعمل ہے۔

(رَوَّاحًا وَرَوَّاحًا) الْقَوْمُ وَالْيَهْمُ وَعِنْدَهُمْ: شام کے وقت کسی کے پاس جانا (مطلقاً) جانا۔

(رَوَّاحًا يَوْمًا): تیز ہوا والا ہونا۔ رَأح يَرْوِجُ رَيْحًا. الشَّيْءُ: بومحسوس کرنا۔ رَأح يَرِاحُ رَيْحًا. اليَوْمُ: تیز ہوا والا ہونا

الْبَيْتُ: ہوا دار ہونا۔ کہا جاتا ہے "اَفْتَحَ الْبَابَ حَتَّى يَرِاحَ الْبَيْتُ" دروازہ کھولو تاکہ گھر ہوا دار رہے الرِّيحُ الشَّيْءُ: ہوا لگانا۔

القَوْمُ الرِّيحُ: ہوا میں داخل ہونا۔ رَأح يَرِاحُ رَاحَةً. لِلْمَعْرُوفِ: بھلائی کو خوشی سے کرنے کے لیے جلدی کرنا۔

يَدُهُ لِلْأَمْرِ: سبک ہونا الشَّجْرُ: نئے پتے نکالنا الشَّيْءُ: بومحسوس کرنا۔ کہا جاتا ہے "رَأح مِنْكَ مَعْرُوفًا" اس نے تم سے بھلائی حاصل کی۔

رَأح يَرِاحُ رَوَاحًا وَرَاحًا وَرَاحَةً وَ

میں کوئی شبہ نہ ہو۔ نیز مشتہر امور (ضد) الرَّابِ: اندازہ کہا جاتا ہے "هَلَّا رَأبٌ كَذَا" یہ اس کے مقدار کا ہے۔

الرَّوْبُ: جہاں ہوا دودھ۔ کھن نکلا ہوا دودھ ا دی۔ کہا جاتا ہے "مَا عِنْدَهُ شَوْبٌ وَلَا رَوْبٌ" اس کے پاس نہ تو شہد ہے نہ جہا ہوا دودھ اور حدیث میں ہے "لَا شَوْبٌ

وَلَا رَوْبٌ فِي الشَّرَاءِ" خرید و فروخت میں دھوکا، فریب اور گڑ بڑ نہیں ہونی چاہئے۔

الرُّوْبَةُ وَالرُّوْبَةُ: جان (یعنی چھاپہ جو وہی جانے کے لیے دودھ میں ڈالا جائے ا دودھ کا بقیر)۔

الرُّوْبَةُ: حاجت اور اسی سے ہے "فَلَانٌ لَا يَقُومُ بِرُوْبَةِ أَهْلِهِ" فلاں اپنے لوگوں کی حاجت کیلئے مستعد نہیں۔ مدار زندگی۔

محتاجی۔ حیرانی۔ زیادہ پینے سے کسل مندی۔ الرُّوْبَةُ مِنَ اللَّحْمِ: گوشت کا ٹکڑا مین اللَّيْلِ: رات کا ایک حصہ۔

الرُّوْبُ: مرد کی عقل۔ تم کہتے ہو "هُوَ يَحْدِثُنِي وَأَنَا إِذْ ذَاكَ غُلَامٌ لَيْسَتْ لَهُ رُوْبَةٌ" وہ مجھ سے بات کر رہا تھا اور میں اس وقت ایسا لڑکا تھا جس کے لیے عقل نہ ہو۔

الْأَرْوَبُ: حیران۔ سست۔ اونگھ یا شکر سیر کی وجہ سے کسل مند۔

الرُّوْبِيُّ: وہ لوگ جو چلنے کی وجہ سے سست ہو گئے ہوں۔ قوم رُوْبِي: سست طبیعت کے لوگ وہ لوگ جنہوں نے وہی پیا ہوا اور

سست ہو گئے ہوں۔ واحد (رَأْبٌ وَرَوْبَانٌ) المَرْوَبُ: دودھ جانے کا برتن۔

سِقَاءٌ (مَرْوَبٌ) معکیزہ جس میں دودھ جمایا گیا ہو۔

الرُّوْبِيَّةُ: ایک درخت کا نام۔ رَأثُ (ن) رَوَّثًا. الْفَرَسُ: لید کرنا۔ الرُّوْثُ: لید۔ رِجْ أَرْوَاتُ.

الرُّوْثَةُ: روٹ کا واحد۔ ناک کے سرے کا

الرُّوْبَةُ: ایک قسم کا کھانا جو خوشہ کو ہاتھوں سے مل کر کھانا جاتا ہے اور دودھ ڈال کر تیار کیا جاتا ہے۔

الرُّوْبَانُ: پست زمین۔ ترکی گھوڑے کو بھی رُھوان کہتے ہیں جبکہ چلنے میں نرم پیٹھ کا ہو (معرب)

الأَرْهَاءُ: اطراف و جوانب۔ المَرْوِيُّ: مین الخیل: تیز رفتار گھوڑا جو دیکھنے میں تیز نہ ہو اور مقابلہ کے وقت ہاتھ نہ لگے۔ رِج المَرْوَاهِي:

رُھوْكُ: الرُّجُلُ: چلنے میں ڈھیلے جوڑوں والا ہونا الْقَوْمُ: مضطرب ہونا۔

الرُّهْوَكُ: موٹا (بکری کا پیچ یا ہرن) شَبَابُ رُھوْكُ: نازک بدن جوان۔

رُھِيًا: کمزور اور سست ہونا۔ فاسد الرأی ہونا۔ محنت یا بڑھاپے کی وجہ سے کسی کی آنکھوں کا اندر کھس جانا السَّحَابُ: برسنے کے لیے تیار ہونا۔

تَرُھِيًا: مضطرب ہو کر حرکت کرنا فی أَمْرِهِ: کام میں کامی کرنا یا کبھی ارادہ کرنا کبھی چھوڑنا السَّحَابُ: برسنے کے لیے تیار ہونا۔

رَوَّأ تَرَوِينًا وَتَرَوِينَةً: فی الأمرِ: کام کے انجام میں غورو فکر کرنا۔

الرُّوْبِيَّةُ وَالرُّوْبِيَّةُ: غورو فکر۔ الإِرْتِيَاءُ: سوچ بچار غورو فکر کرنا۔

الرَّاءُ: حروف سنی کا ایک حرف۔ سمندر کا جھاگ۔ ایک درخت کا نام۔ واحد (رَأَّةُ)

رَأْبُ (ن) رَوْبًا وَرَوْبَانًا. اللَّيْنُ: چمکا۔ صفت (رَأْبٌ) کہا جاتا ہے "رَأْبٌ دَمَةٌ" اس کی ہلاکت کا وقت قریب آ گیا الرُّجُلُ:

متحیر ہونا۔ جھوٹ بولنا۔ عقل میں فتور ہونا۔ سست ہونا۔ نیند ا بھوک یا اونگھ کی وجہ سے

متوالا جیسا ہونا۔ رَوْبَتِ: الدَابَّةُ: جانور کا تھکانا۔ رَوْبٌ وَأَرَأْبُ: اللَّيْنُ: وہی چمکانا۔ الرُّوْبُ: فاجہا ہوا دودھ ا دی۔ الرُّوْبُ مِنَ الْأُمُورِ: صاف معاملات جن

رِيَاحَةٌ وَرُوؤُخًا وَارِيحَةً لِلْأَمْرِ بَشِي
 کام کیلئے خوشی کے ساتھ متوجہ ہو۔
 رَاحَتْ تَرَاخَ رَاحَةً. الْإِبِلُ أَوْنُوثٌ كَا
 شام کے وقت واپس آنا۔ ریح ہو الگنا۔ صفت
 مَرُوخٌ مَرِيحٌ.
 روح بروح رواحاً کشادہ ہو۔
 رَوَّحَ. الْقَوْمُ قَوْمٌ كَمَا يَسْتَمُوعُ الْوَقْتِ
 چانا الرجل آرام دینا۔
 الْإِبِلُ شَامٌ كَمَا يَسْتَمُوعُ الْوَقْتِ فِي
 واپس لانا بِالْجَمَاعَةِ: تَرَاوَحَ كَمَا يَسْتَمُوعُ
 قلبہ کسی کے دل کو بیدار کر دینا۔
 الدَّهْنُ تَبَلُّجٌ كَمَا يَسْتَمُوعُ الْوَقْتِ
 عَلَيْهِ بِالْمَرُوحَةِ يَبْطِئُ جَمَلًا.
 آراح إِرَاحَةً. الْقَوْمُ يَوْمًا فِي رَاحَةٍ هُوَ
 آرام پہنچانا عَلَى فُلَانٍ حَقَّةً: وَابْسِ كَمَا
 الْإِبِلُ بَارَهُ كَمَا يَسْتَمُوعُ الْوَقْتِ فِي
 الْمَعْرُوفِ: يَهْلِكُ كَمَا يَسْتَمُوعُ الْوَقْتِ فِي
 يَوْمًا مَحْسُورًا كَمَا يَسْتَمُوعُ الْوَقْتِ فِي
 کابدردار ہونا۔
 الرَّجُلُ سَأَسَ لِيْنَا شَامٌ كَمَا يَسْتَمُوعُ
 داخل ہونا۔ مرنا۔ کہا جاتا ہے "أَرَاخَ فَارَاخَ"
 اس نے مر کر آرام پہنچایا۔
 أَرُوخَ. الْمَاءُ يَأْتِي كَمَا يَسْتَمُوعُ الْوَقْتِ فِي
 محسوس کرنا عَلَيْهِ حَقَّةً: وَابْسِ كَمَا
 رَاوَحَ. بَيْنَ الْعَمَلَيْنِ بَارِي بَارِي مَشْغُولٌ
 ہونا بَيْنَ رَجُلَيْنِ: بَارِي بَارِي كَمَا يَسْتَمُوعُ
 پر کھڑا ہونا۔
 تَرَوَّحَ شَامٌ كَمَا يَسْتَمُوعُ الْوَقْتِ فِي
 الْقَوْمِ قَوْمٌ كَمَا يَسْتَمُوعُ الْوَقْتِ فِي
 الشَّجَرِ: نَمَتْ كَمَا يَسْتَمُوعُ الْوَقْتِ فِي
 طَوِيلٌ هُوَ الْمَاءُ: يَأْتِي كَمَا يَسْتَمُوعُ
 بِالْمَرُوحَةِ يَبْطِئُ جَمَلًا.
 الشَّيْءُ يَبْطِئُ كَمَا يَسْتَمُوعُ الْوَقْتِ فِي
 تَرَاوَحَ. الرَّجُلَانِ الْأَمْرُ: بَارِي بَارِي
 کرنا۔ اور اسی سے یہ قول ہے "أَنَّ يَدِيهِ
 تَرَاوَحَانَ بِالْمَعْرُوفِ" اس کے دونوں
 ہاتھ باری باری بھلائی کو کرتے ہیں۔

إِرْتَاخٌ خَوْشٌ هُوَ اللَّهُ لَهُ بِرَحْمَتِهِ
 مصیبت سے چھڑانا۔ کہا جاتا ہے "هُمَا يَبْر
 تَوْحَانٌ عَمَلًا" وہ دونوں نوبت نوبت
 کرتے ہیں۔
 اِسْتِرَاخٌ اِسْتِرَاخَةٌ أَرَامٌ يَأْتِي: الْيَهُودُ
 پانا۔
 اِسْتِرَوَّحَ اِسْتِرَوَّاحًا. أَرَامٌ يَأْتِي: الشَّيْءُ
 سَوَّكَمًا الْغَضْنَ: مَبْنِيٌّ كَمَا يَسْتَمُوعُ الْوَقْتِ فِي
 شَكَارًا كَمَا يَسْتَمُوعُ الْوَقْتِ فِي
 سَرَسِزْ كَمَا يَسْتَمُوعُ الْوَقْتِ فِي
 الرَّاحِ: سَرَسِزْ كَمَا يَسْتَمُوعُ الْوَقْتِ فِي
 رَاخٌ: نَخْتٌ هُوَ الْوَاكِدَانُ.
 الرَّاحَةُ: سَرَسِزْ أَرَامٌ كَمَا يَسْتَمُوعُ الْوَقْتِ فِي
 تَهْلِيلِي: مَعْنَى كَفِّ دَسْتِ: كَمَا يَسْتَمُوعُ
 "تَرَوَّحَتْ عَلَى انْقِيَاءِ مِنَ الرَّاحَةِ" مَعْنَى
 اس کو ایسی حالت میں چھوڑا کہ اس کے پاس کچھ
 نہیں تھا۔ کپڑے کی تہ۔ کہا جاتا ہے "أَطْوَى
 الْغُوبَ عَلَى رَاخَتِهِ" کپڑے کو اس کی تہ پر
 لپیٹو۔ ج رَاخَاتٍ: لَيْلَةٌ رَاخَةٌ: تَبِيضٌ هُوَ الْوَالِي
 رات۔
 الرَّوْحُ: أَرَامٌ نَزَمَ هُوَ: اِنصاف جو شکایت
 کرنے والے کو آرام پہنچائے۔ مدد۔ خوشی۔
 رحمت و مہربانی۔ یوم روح: عمدہ و خوشگوار
 دن۔ سہانہ دن۔
 الرَّوْحَةُ: وَرَاخٌ كَمَا يَسْتَمُوعُ الْوَقْتِ فِي
 لَيْلَةٌ رُوْحَةٌ: سَهْلَانِي رَاتٍ.
 الرَّوْحُ: جَانٌ (بَدَنٌ كَمَا يَسْتَمُوعُ الْوَقْتِ فِي) كَمَا يَسْتَمُوعُ
 ہے "هُوَ خَفِيفُ الرَّوْحِ" یعنی وہ لطیف و
 پاکیزہ ہے۔ وحی۔ حکم خداوندی۔ امر الہی۔
 قرآن۔ پیغام خداوندی۔ جبرئیل۔ الرَّوْحُ
 الْأَعْظَمُ: اللَّهُ تَعَالَى: رُوْحُ الْقُدُسِ
 عیسائیوں کے نزدیک اِتَّخَذَ مَثَلًا كَمَا يَسْتَمُوعُ الْوَقْتِ فِي
 الرَّوْحُ الْأَمِينُ: حَضْرَتُ جِبْرِئِيلُ نَسَبًا كَيْلِي
 (رُوْحَانِي) ج أَرُوْحًا: اِسْتَمُوعُ الْوَقْتِ فِي
 نزدیک معذنیات کی ایک قسم۔ جیسے پارہ پر
 اطلاق ہوتا ہے۔ نیز دواؤں کے ست و جواہر پر
 بولا جاتا ہے۔ الْأَرُوْحُ الْخَبِيْثَةُ: شَيْطَانٌ.

الرُّوْحُ دُونُ مَا كُنُوْنَ كَمَا يَسْتَمُوعُ الْوَقْتِ فِي
 وسخت۔
 الرَّوْحُ: شَامٌ يَأْتِي: اِسْتَمُوعُ الْوَقْتِ فِي
 تک۔ اس کے مقابلہ میں صبح ہے۔ کہا جاتا
 ہے "خَرَجُوا بِرُوْحٍ مِنَ الْعَيْشِ" وہ شام
 کی ابتداء میں نکلے۔ و "أَفْعَلُ ذَلِكَ فِي سَرَاخِ
 ورواح" میں صبح شام اس کو کرتا ہوں
 (وَالرُّوْحَةُ وَالرُّوْحَةُ وَالرُّوْحَةُ) خوشی
 جو یقین حاصل ہونے سے پیدا ہو۔
 الرِّيحُ: هُوَ (مَوْثٌ) ج أَرِيَاخٌ وَ أَرُوْحٌ
 وریح وریح وریح وریح وریح وریح۔
 اچھی چیز۔ رحمت۔ مدد۔ غلبہ و قوت اور ہوا میں
 چار ہیں۔ الْجُنُوبُ: وَكُنَى: الشَّمَالُ:
 آتزی۔ اِنصاف۔ پُرُوَالِي: الدُّنْيَا:
 پچھوالی۔
 الرِّيحَةُ: هُوَ الْوَالِي.
 الرِّيحَانُ: هَرَبٌ كَمَا يَسْتَمُوعُ الْوَقْتِ فِي
 روزی۔ فرزند۔ ج رِيَاخِينُ
 الرِّيحَانُ: مَعْدَتُهُ.
 الرِّيحُ مِنَ الْأَيَّامِ: تَبِيضٌ يَأْتِي هُوَ الْوَالِي:
 الرَّاحَةُ: رَاخٌ كَمَا يَسْتَمُوعُ الْوَقْتِ فِي
 وروایح الرُّوْحَاتِ: شَامٌ كَمَا يَسْتَمُوعُ الْوَقْتِ فِي
 یا بادل۔ کہا جاتا ہے "مَالَهُ سَرَاخَةٌ وَلَا
 رَاخَةٌ" یعنی اس کے پاس موشی میں سے کچھ
 نہیں۔
 الْأَرُوْحُ: مَا كُنُوْنَ كَمَا يَسْتَمُوعُ الْوَقْتِ فِي
 مَوْثٌ (رُوْحًا) ج رُوْحٌ (وَالْأَرِيْحُ)
 کشادہ۔
 الْأَرِيْحِيُّ: كَشَادَةٌ اخْلَاقًا وَاللَّاحِ
 الْأَرِيْحَةُ: وَهِيَ خَصْلَتٌ جَوَانِسَانٌ كَمَا يَسْتَمُوعُ الْوَقْتِ فِي
 اور فیاضی کرنے سے مسرور کرنا ہے۔
 التَّرَاوِيْحُ: تَرَوِيْحٌ كَمَا يَسْتَمُوعُ الْوَقْتِ فِي
 بیٹھنے کے ہیں۔ پھر اس بیٹھنے پر اطلاق ہونے لگا
 جو رمضان کی راتوں میں چار رکعت پڑھ لینے
 کے بعد آرام حاصل کرنے کے لیے بیٹھتے
 ہیں۔ پھر چار رکعت ہی کو ترویج کہنے لگے اور
 تراویح کا اطلاق پوری میں رکعت نماز پر بھی

ہوتا ہے جن کو رمضان میں پڑھتے ہیں۔
 المراح۔ روانہ ہونے یا واپس آنے کی جگہ۔
 المروح۔ اونٹ یا گائے یا بکری کا باڑہ۔
 المروج والمربوع۔ برہ وہ چیز جس کو ہوا
 گے۔ یوم مروح۔ آہٹھی ہوا اولاد۔
 المروح والمروحة۔ بکھرا ہوا مروح۔
 المروحة۔ بیابان۔ مروح۔
 المروح۔ دھن مروح۔ خوشبو دار
 تیل۔
 المستراح۔ پختہ۔
 راد یروڈ روڈا وریادا۔ الشی۔ طلب
 کرنا الارض۔ قیام کے لیے چراگاہ دیا یا وغیرہ
 کی دیکھ بھال کرنا قومہ مرغی او منزلہ
 قوم کے لیے چراگاہ یا منزلہ کی تلاش کرنے کی
 کوشش کرنا۔
 راد یروڈ روڈانا وریادا۔ کسی چیز کی
 تلاش میں گھومنا اور آنا جانا۔ رادب الاکل
 اونٹوں کا چراگاہ میں آگے پیچھے آنا جانا۔
 رادب روڈا وروڈانا الموقہ۔
 پروسیوں کے باں اکثر آنا جانا المویخ۔ بواکا
 نرم چلنا الماشیہ۔ مویشیوں کا چرنا۔
 راوڈہ مرواڈہ وروادا۔ چاہنا۔ راوڈہ
 عن و علی نفسہ۔ فریب دینا۔ بُرائی کی
 ترغیب دینا۔ پھلانا علی کذا۔ ارادہ کرنا۔
 روڈہ۔ طلب و جستجو کرنا۔
 اراد ارادہ۔ چاہنا۔ خواہش کرنا۔ راعب ہونا
 ہ۔ علی الامر۔ پھلانا۔
 ازوڈ ازوآدا و مروادا و مروڈا و
 روڈنا و روڈیاء و روڈیڈیہ۔ فی السیر۔
 آہٹگی ہے چلنا۔ نرم چلنا۔
 ازناد ارنیادا۔ الشی۔ طلب کرنا۔
 استراد۔ فرمانبردار ہونا۔ لامر اللہ۔ حکم
 اللہ کی جانب لوٹ آنا اور جھک جانا۔
 اللذابیہ۔ جانور کا چرنا الرجل۔ چل پھر کر
 روزی طلب کرنا۔
 الرائد۔ فا رادۃ وروڈاڈ ورائدوڈ۔
 جاسوس۔ وہ شخص جس کو لوگوں نے چارہ پانی کی

تلاش میں بھیجا ہو۔ بچی کا دستہ ورائد العین
 آنکھ کا ٹکڑا۔ کہا جاتا ہے "هو رائد الوساد"
 وہ غم کے لاحق ہونے کی وجہ سے غیر مطمئن
 ہے۔
 الراد۔ بمعنی البرائد۔
 الریڈ۔ طلب۔ تلاش۔
 الرادۃ والراندۃ والرؤادۃ۔ پروسیوں
 کے گھروں میں بہت پھرنے والی عورت۔
 الروڈ۔ ریح (رود ورائدۃ) نرم چلنے
 والی ہوا۔ کہا جاتا ہے "الشمس علی الروڈۃ"
 یعنی آہستہ چلو۔
 الروادان زواور۔
 جنگی جہازوں کی آمد رفت اور ان کو روکنے کی
 معلومات دینے والا آلہ۔
 الرادیکسالی۔ ایسے مذہب کی طرف نسبت
 والا جو کہ مکمل سیاسی اصلاحات کا مطالبہ کرتے
 ہیں۔
 روید۔ ازوڈ کا مصدر مضارع ہے۔ کہا جاتا ہے
 "رویدنا" یعنی آہستہ۔ و "رویدک زیدنا" و
 "روید زید" یعنی زید کو مہلت دی۔
 و "ساروا سیرا رویدنا" و "ساروا
 رویدنا" یعنی وہ لوگ نرمی و آہستگی سے چلے۔
 الأزوڈ۔ کام میں آہستگی کرنے والا۔ اور کہتے
 ہیں "الدھر ازوڈ ذو غیر" یعنی زمانہ اپنا کام
 سکون کے ساتھ کرتا ہے جس کی پیر بھی نہیں
 ہوتی۔ و "الدھر ازوڈ مستبذ" یعنی زمانہ
 معاملات میں نرم ہے اور غالب ہے۔
 المرود۔ سرمہ کی سلاخی۔ لگام کے حلقہ کا
 لوہا۔ چرخ کا ڈنڈا جس پر چرخ گھومتی ہے۔
 کھونچ مراد۔
 المراد والمستراد۔ چراگاہ میں اونٹوں
 کے آنے جانے کی جگہ۔ مستراد۔ الرجل۔
 آمدورفت کی جگہ۔
 المراروید۔ جانوروں کے باندھنے کی جگہ میں
 آنے جانے والی۔
 الروند والروند والروند۔ ریوند چینی۔
 ایک دو اک نام۔

راذ (ن) روزا۔ المحجر۔ چتر اٹھا کروڑن
 کا اندازہ کرنا الرجل۔ آزمانا الدینار وینار کا
 وزن معلوم کرنے کے لیے تو نانا۔
 الاراضی۔ زمین کے پاس قیام کرنا اور اسے
 قابل کاشت بنانا۔ ما عنده۔ طلب کرنا۔
 چاہنا۔ صفت (رائز) ج رازۃ۔
 روزا۔ الکلام او الروای۔ آہستہ آہستہ غور
 کرنا۔
 رازاۃ۔ آزمائش کرنا۔
 الرازی۔ منسوب بہ شہر سے۔
 الرونیوی۔ بڑی چادر۔
 الراز۔ معاروں کا سردار۔ ج رازۃ اور اس
 کی اصل رائز ہے۔ مثل شاک و شانک
 کے۔
 الریازۃ۔ معاری۔
 المرارۃ والھرازۃ۔ وزن۔ مقدار۔
 المراران۔ دونوں پستان۔
 الرورنامۃ۔ روزنامچہ۔ کینڈر۔ جنتری (کلمہ
 فارسی ہے روزوار نامہ سے مرکب ہے)
 راس یروس روسا۔ متکبرانہ چلنا۔ بہت
 کھانا السیل الغناء۔ سیلاب کا کوڑا کرکٹ بہا
 لے جانا۔
 استراس۔ کھانا طلب کرنا۔
 الروس۔ س۔ مرد۔ کہا جاتا ہے "انہ روس
 سو" وہ برا آدمی ہے۔ عیب۔ بہت کھانا۔
 روانس۔ الاودیۃ۔ وادیوں کے بلند حصے۔
 روائس السحاب۔ اگلے پادل۔
 راش یروش روشا۔ بہت کھانا۔
 المررض۔ کمزور کرنا۔
 الراش۔ من الجمال او الرماح۔ کمزور
 اونٹ یا تیز۔ یہ رانش کا مخفف ہے۔ مؤنث
 راشۃ۔
 الروش۔ سبکی عقل۔
 الاروش۔ سبکی عقل والا۔ مؤنث روشاء۔
 راص (ن) روضا۔ بیوقوفی کے بعد عقل
 مند ہونا۔
 راض یروض روضا وریاضۃ و

ریاضاً المہر بچھیرے کو سدھانا۔ صفت
(رائض) راضۃ ورواض وروض و
رائضون اور صفت مفعول (مروض)
مؤنث مروضة۔

روض المہر بچھیرے کو خوب سدھانا
الرجل باغوں میں رہنا المطر الأرض
بارش کی مانند بنانا۔
روضۃ علی الامر کسی کو کسی کام پر بہلا
پھسلا کر لگانا۔

ارض اراضۃ سیراب ہونا۔
القوم سیراب کرنا المكان بکثرت
باغات ہونا اللہ الأرض مرزار بنانا۔
باغات بنانا الحوض حوض کی تہ کا پانی سے
ڈھلکانا۔

ارض المكان بکثرت سرسبزگی و
باغات والی ہونا الأرض من المطر زمین
کا بارش سے تر ہونا۔

قروض القوم فی الامر کسی معاملہ
میں باہم مناظرہ کرنا فی البيع والشراء
آپس میں خرید و فروخت میں جھگڑنا۔

ارتاض المہر بچھیرے کا سدھ جانا۔ کہا
جاتا ہے "ارتاضت القوا فی الصعبۃ
للشاعر" یعنی شاعر کی مشکل کوئی کی آمد
ہوئی۔

استراض استراضۃ المكان جگہ کی
سرخ کا پانی سے ڈھلکانا۔ کشادہ ہونا۔ النفس
خوش ہونا المكان بکثرت باغات والی ہونا۔
الروض۔ بارش۔ وہ زمین جو مختلف قسم کے
نباتات سے سر بڑھو۔

الروضۃ بارش۔ روض و ریاض و
روضات و روضان روضات
الجنات باغوں کے بہترین حصے۔
الروضۃ حوض کا بقیہ پانی۔ کہا جاتا ہے "فی
الحوض روضۃ من الماء" حوض میں
ھوڑا پانی ہے جس نے زمین کو چھایا ہے۔

الریضۃ الروضۃ میں ایک لغت۔
سہ ماہی ورزش۔ بڑی حالت کو
الریاضۃ۔

اجنبی حالت سے بدلنا۔ اخلاق نفسانی کی
تہذیب۔ عبادت اور حقائق ایمانی میں غور و فکر
کرتا۔

العلم الریاضی و علم الریاضیات علم
حساب۔ الجبر اور جیومیٹری وغیرہ علوم۔
الریض وہ جانور جس کو سدھایا جانا شروع کیا
گیا ہو۔ مذکر مؤنث اس میں برابر ہیں۔ "امر
ریض" غیر محکم کام۔

الریضۃ بارش۔
المراض نرم نشیں زمین میں سخت جگہ جو
پانی کو روک لے۔ ج مرایض و مراضات۔
ارض (مستروضة) عمدہ نباتات اگانے
والی زمین۔ نباتات مستروضة نباتات جو
بڑھنے اور لے ہونے میں اتنا کو پہنچ گئی ہو۔

راط یروط و یربط روطا وربطاً
بالمكان پناہ ڈھونڈنے والے کی مانند ہونا۔

راع یروع روعاً ورووعاً منہ
گھبرانا۔ صفت (رائع وروغ) فی یدی
کذا قائمہ دینا۔ راعۃ الامر گھبرا دینا۔
تعجب میں ڈالنا۔

راع یروع و یروع رواعاً لوثاً واپس
ہونا۔

رفع فلان گھبرانا۔ ڈرنا۔
اراعہ ورووعہ گھبرا دینا۔ ڈرنا۔ تعجب میں
ڈالنا۔

روغ (س) روعاً اروع ہونا۔ (دیکھئے لفظ
اروع)
اروع اروعاً الراعی الغنم۔ چرواہے کا
بکریوں کو ڈالنا۔

ارتاع ورتوع منہ یولہ ڈرنا۔ ارتاع
للتخبیر۔ جبری وجہ سے خوش ہونا۔
الرتوع۔ خوف۔ ڈر۔ لڑائی۔

الرتوعۃ۔ ذر۔ حسن وجمال کا حصہ۔
الرتوعۃ۔ دل کا سیاہ نقطہ اور قبول بعض دل
الرتوع۔ ذر کی جگہ۔ ذہن۔ عقل۔ کہا جاتا ہے
"افرع روعک" اپنے دل کو مطمئن رکھو۔

الرتوع۔ اروع۔ اروع (دیکھئے لفظ اروع)

الاروع۔ حسن یا بہادری وغیرہ سے تعجب
میں ڈالنے والا۔ ہوشیار۔ ذکی۔ ج روع
واروع مؤنث روعاً۔ قلب اروع
جلدی گھبرا جانے والا دل۔

فلان (رواع) القلب ہوشیار۔ ذکی۔
الرواع۔ حسن یا بہادری وغیرہ سے تعجب
میں ڈالنے والا۔ ج۔ رائعون و روع مؤنث
رواعۃ۔ ج رواع و روع۔ کلام رواع
خوشگوار کلام۔

رواعۃ الشیب بڑھاپے کی ابتداء میں
رواعۃ النهار او الصبح دن یا چاشت
کے وقت کا بڑھنا۔

المروع خوفزدہ۔ درست الہام پانے والا۔
راع (ن) روعاً ورووعاً الصید شکار
کا ادھر ادھر جانا الرجل عن الطريق کمرو
فریب سے راستے سے لٹرا لٹرا کر چلنا۔

العی کذا چپکے سے کسی جانب مائل ہو جانا۔
عنی بالضرب مارنے کیلئے ٹوٹ پڑنا۔
روع اللقمۃ فی الدسم لقمہ کو اچھی
طرح چھٹائی میں الٹ پلٹ کر تر کرنا۔

راوعہ مرووعۃ خشکی لڑنا۔ فریب دینا۔
راوعہ علی الامر پھسلانا اور غلانا۔

راوع القوم کمرو فریب سے ایک دوسرے
کو طلب کرنا۔

اراعہ اراعۃ وارتاعہ ارتباعاً کمرو
فریب سے طلب کرنا۔ کہا جاتا ہے "مازلت
اربع حاجۃ لی" میں ہمیشہ اپنی حاجت کو
طلب کرتا رہا اور کہا جاتا ہے "ارتاع العقاب
الصید" عقاب شکار کا پیچھا کرنے میں ادھر
اُدھر جاتا رہا۔ اراعہ علی الامر وعن امر
پھسلا بہلا کر طلب کرنا اراع الرجل
دینا۔

تروع الحمام گدھے کا خاک میں لوٹنا۔
سرتیراروعاً ایک دوسرے کو فریب دینا۔ باہم
سکتی کرنا۔

الرواع۔ فا طریق طریقہ
الرواع والرواعیۃ۔

الرواغ بہت فریب و نکر کرنے والا۔
لومڑی۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ نَعْلَبُ رَوَاغٌ“ و
”هُم نَعْلَبُ رَوَاغَةً“ وہ یا وہ لوگ فریب
دینے والی لومڑی کا مانند ہیں۔

الروباغ سرسبز۔
راف یزاف۔ راف یزاف میں ایک لغت
ہے۔

الرووف بكون الطینان۔
الرووفة رحمت۔
راق یزوف روقا۔ الشراب صاف ہونا
علیہ فضیلت و خوبی میں بڑھ جانا۔
راقہ روقا و روقانا۔ الشیء تعجب میں
ڈالنا۔ پسند آنا۔ خوش کرنا۔

روق یزوف روقا اوپر کے دو لمبے دانٹوں
والا ہونا۔ صفت (ازوق) ہونٹ روقاع
روق۔

روق۔ الشراب صاف کرنا۔ روق
بصاعته سامان بیچ کر عمدہ سامان خریدنا
(روق و ازوق ازواق) اللیل تاریکی
پھیلانا۔

روق۔ الیبت بنامان بنایا جانا۔
زواقہ مرواقہ کسی کے برآمدہ کے مقابل
برآمدہ بنانا۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ مُرَاقٍ“ اس
کا برآمدہ میرے برآمدہ کے مقابل ہے۔
ازاق ازاقہ۔ الماء بہانا ذمہ بخون
گرا۔ کناہی قتل کرنے سے۔

الرائق فاج۔ روق و روقہ۔
الروق۔ سیگ من الیبت سامان
برآمدہ من الشبَاب جوئی کی رونق و ابتداء
من الخیل خوبصورت گھوڑا من اللیل
رات کا ایک حصہ۔ من الماء و نحوہ:
صاف۔ روق الفرس نیزہ جو گھوڑے کے
کانوں کے درمیان میں رکھا ہوا ہو۔ اس
صورت میں گھوڑے کو ”ازوق“ کہتے ہیں۔
الروق جالس نجت۔ چیز کی زیادتی۔ بارش۔
عمر۔ پردہ۔ بزاخیمہ۔ جماعت۔ کہا جاتا ہے ”اد
اہیة ذات روقین“ یعنی بڑی مصیبت و

”رمی بازواقہ علی الدابة یعنی وہ سوار
ہوا و” ألقى بازواقہ عن الدابة یعنی وہ
دایہ سے اتر پڑا۔ و” ألقى ازواقہ یعنی وہ
تیز دوڑا۔ نیز بمعنی الطینان کے ساتھ اقامت
کی۔ و” ضرب روقہ بمنزل کذا“ وہ
فلاں منزل پر اتر آ اور اُس نے خیمہ لگایا۔
و” ألقى عليك ازواقہ و شرأ شرہ اس
موقع پر بولتے ہیں جب یہ کہا ہو کہ تم فلاں
سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ و” ألفت
السحابہ ازواقہا ہول نے اپنا ہانہ کھول
دیا۔

الرواق والرواق۔ برآمدہ۔ سامان۔
چھت سے لے کر نیچے تک کا پردہ۔ ج ازوقہ
و رواقات و روق۔ رواق العین ابرو۔
رواق اللیل رات کا ابتدائی حصہ۔
الراؤوق چھنا۔ برتن جس میں شراب
صاف کی جائے۔ پیالہ۔

ریق۔ الشبَاب جوئی کی رونق و ابتداء اور کہا
جاتا ہے ”كُنْتُ فِي رَيْقٍ زَمَانِي“ میں اپنے
زمانہ کی ابتداء میں تھا۔ و ریق كَلُّ شَيْءٍ
چیز کا افضل حصہ۔

الروق اوپر کے دو دانٹوں کا لمبا ہونا (اور یہ
عیب ہے)

الروقة بہترین حسن و جمال۔
الروقة رائق کی حج۔ بہتر لوگ۔ کہا جاتا
ہے ”عُلَمَاءُ رُوقَةٍ“ خوبصورت لڑکے اور
بہنیں مگر ہونٹ واحد اور جمع کے لیے مستعمل
ہے۔ کہا جاتا ہے ”غلام روقہ جارية روقہ
و جوار روقہ“
الازوق۔ سیگ والا۔ اوپر کے دو بڑھے
ہوئے دانٹوں والا۔

المرووق صاف کیا ہوا۔ نتھارا ہوا۔ بیبت
مرووق سامنے پردہ لگا ہوا مکان۔
الروکة والروکاء بڑا لوی آواز۔
رؤل۔ الفرس گھوڑے کی رال بہنا۔ رؤل
الخیمز حج سے روئی کو اچھی طرح تر کرنا۔
الرؤال گھوڑے کی رال۔ ج رؤویل۔

المروول بہت رال والا۔
رہان (رہان) رومًا و مرامًا۔ الشیء بارادہ
کرنا۔ صفت (رہانم) روم و روم۔
رؤم۔ ٹھہرنا۔ فلانا و بہ خواہش دلانا
رایہ ایک چیز کے بعد ایک چیز کا ارادہ کرنا۔
ترووم۔ بہ بھٹھا کرنا۔

الرام ایک درخت کا نام۔
الرامة جو بڑا۔ ایک دیہاتی موضع کا نام۔
اشعار میں اکثر اس کا استعمال تشبیہ سے ہوتا
ہے۔

الروم والروم کان کی لو۔
الروم والازوام بحر متوسط کے شمال کے
رہنے والے لوگ۔ واحد (رومی) نصرا نیوں کا
ایک گروہ۔ بحر الروم بحر متوسط جس کو
بحر اریض بھی کہتے ہیں۔

رؤمة و رؤمیة قدیم اور مشہور شہر کا نام جو
اٹلی کا دارالسلطنت ہے۔ نسبت کے لیے
رؤمائی۔

الرومی خالی کشی کا بادبان۔
الروقة سریش جس سے تیر کا پر جوڑا جاتا
ہے۔

الرومنطقیة أو الرومناسیة۔
ادبی نظریہ جس میں شعور اور خیال عقل پر
غالب ہوتا ہے اور انفرادی تسلط ہوتا ہے۔

الممرام مقصد۔ مطلب۔ ج ممرامات۔
رآن یزوف رونا۔ الامر سخت ہونا۔
رانت اللیلہ سخت خونناک ہونا۔
الرون سخت۔ ج رؤون۔

رؤنة۔ الشیء چیز کا بڑا حصہ۔ چیز کی تختی۔ کہا
جاتا ہے ”كشفت الله عنك رؤنة هذا
الامر“ اللہ تعالیٰ تم سے اس معاملہ کی تختی کو
دور کر رہا۔

الارؤنان سخت۔ دشوار (الارؤنان و
الارؤناتی) ہر چیز کی تختی (مثلاً سردی)
گرمی خوشی غمی شور وغیرہ کی مؤنث
ارؤنانہ و ارؤناتیہ۔
مروون۔ بہ مغلوب۔

الرّوئد والرّوند والرّواند:

ایک پودا جس کے پتے چوڑے ہوتے ہیں طبی فائدہ میں معرہ کو طاقتم اور اخراج مادہ ہے۔

رأه (ن) رؤها ورؤاها. الماء: پانی کا سطح زمین پر بہرانا۔

روى (ض) رواية. الحديث: نقل

کرتا۔ بیان کرتا۔ صفت راو: ج رؤاة و

رأذون الحبل: رستی بنا الرجل: اونٹ پر

رستی سے کجاہ باندھنا القوم: قوم کے لیے پانی

لائا۔

روى (س) رىاً وریاً وروى. من

الماء: سیراب ہونا۔ صفت (ریان) مؤنث

ریاً. ج درواء الشجر: سرسبز ہونا۔

روى تزویة: سفر میں پانی ساتھ لے جانا

الشعر: شعر کی روایت کرنے پر آمادہ کرنا

النبات: نباتات کو پانی دینا۔ روى فى

الامر: غور و فکر کرنا۔

تزوی تزویاً: سیراب ہونا۔ غور و فکر کرنا

الحديث: نقل کرتا۔ بیان کرتا القوم: سفر

میں پانی ساتھ لے جانا۔ تزوت مفاصلة:

جوڑوں کا معتدل و مضبوط ہونا۔

إرتوى: ارتواء من الماء: سیراب ہونا۔

الحبل: رستی کا بٹ جانا۔ مفاصلة: جوڑوں

کا معتدل و مضبوط ہونا۔

الروى: سیرابی۔ ایک درخت کا نام۔ خوش

مالی و زیادتی نعمت۔

الروى: سیراب کرنے والا بہت پانی۔

الروى: سرسبز (اس کی اصل روى ہے یا کو

واو سے بدل دیا گیا ہے)۔

الروى: عمدہ خوشبو۔ عین (ریة) بہت پانی

والا چشمہ اور کہا جاتا ہے "من این ریتکم"

کہاں سے تمہاری لاتے ہو۔

الریة: روى کا اسم نوع۔ پیچھو۔ ریة

البحر: سمندر کے حیوانات میں سے ایک قسم

ہے۔

الروى: من الشرب: پوری سیرابی۔ کہا

جاتا ہے "شربت شرباً روياً" میں نے

خوب سیراب ہو کر پیا۔ ماء روى: اور اور

سیراب کرنے والا پانی اور ایسا ہی کہا جاتا ہے

"مخاض روية" الروى سخت بارش والا

بادل۔ تندرست و صحیح العقل۔ پلانے والا۔

تایفہ کا حرف۔

الروية: الروى کا مؤنث۔ امور میں غور و

فکر۔ حاجت۔ قرض وغیرہ کا قبضہ۔

الریان: سیراب۔ سرسبز ٹہنی وغیرہ۔ مؤنث

ریاً. ج درواء. وخنہ ریان: پر گوشت چروہ

اور کہا جاتا ہے "فلائن ریان من العلم وهم

درواء منہ" فلاں یا وہ لوگ بہت علم والے

ہیں۔

الرواء: ج ازویة (المروى) ج مروا و

مرواى: جانور پر بوجھ باندھنے کی رستی۔

الرواء: خوشگوار پانی۔ سیراب کرنے والا۔

بہت پانی۔

الرواء: خوشنمائی۔ چہرہ کی رونق۔ کہا جاتا ہے

"زجل له رواء" مرد کے اس کے چہرہ پر

رونق ہے۔

الرواية: حدیث یا اشعار کو نقل کرنے والا تا

مبالغہ کے لیے ہے۔ ج دروانا: جانور جس پر

پانی لاد کر لایا جائے۔ پانی کی پکھال۔

الازویة والازویة: پہاڑی بکری۔ مذکر و

مؤنث دونوں کے لیے مستعمل ہے۔ ج

ازاوی وازاوی ازوی.

یوم (التزویة) ماہ ذی الحجہ کی آٹھویں تاریخ۔

اس وجہ سے کہ اس تاریخ میں عرفات میں

جانے کے لیے اونٹوں کو پانی پلایا کرتے تھے یا یہ

وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے اس تاریخ میں

اپنے خواب کے معاملہ میں غور و فکر کیا تھا۔

رأه یرویه ریاً. شک یا تہمت میں ڈالنا۔

کسی سے کوئی ناپسند بات دیکھنا۔ کہا جاتا ہے

"فلائن لا یرویه احد بسى" فلاں کو کوئی

کسی چیز سے قلق میں نہیں ڈال سکتا۔

أراه إراہة. شک میں ڈالنا۔ قابل شک

ہونا۔ بے قرار کرنا الرجل أو الامر: قابل

شک ہونا۔ کہا جاتا ہے "أراه منہ امر" یعنی

اس نے اس کے ساتھ بدگمانی کی اور تہمت کا

یقین نہیں کیا۔

تویب تریباً. منہ: خوف کرنا ڈرنا۔ یہ کسی

سے کوئی شک کی چیز دیکھنا۔

إرتاب ارتیاباً. من الشى: شک کرنا

بفلان: تہمت لگانا۔

استرتاب استرتابة. شک میں پڑنا۔ یہ کسی

سے کوئی شک کی چیز دیکھنا۔

الریب: تہمت۔ شک۔ حاجت۔

ریب المنون گردش زمانہ۔

الریبة: شک و تہمت۔ بے قراری۔ بے گلی۔

بجربیب.

امر (ریاب) ڈرانے والا معاملہ۔

راث یرث ریثاً و تریث. تاخیر کرنا دیر

کرتا۔

ریث: تھکانا۔ کہا جاتا ہے "ریث عما کان

علیه" یعنی جس معاملہ میں وہ تھا اس میں

کو تاہی کی لشی: نرم کرنا۔

أراه إراة. دیر کرنا۔

استرتاه استرتاة. دیر کرنے والا پانا۔ دیر

کرنے والا سمجھنا۔

الریث: مقدار۔ مہلت۔ کہا جاتا ہے "وقف

(ریثما) صلینا" جب تک ہم نے نماز پڑھی

وہ ٹھہرا۔" و "ما قعدت عنده الاریث

أعقد شسعى" میں اس کے پاس تمہ

باندھنے کی مقدار بیٹھا۔ یہاں لفظ ریث بغیر ما

کے اور فعل مضارع بغیر ان کے مستعمل ہے

جیسے کہ یرید یفعل بجائے یرید ان یفعل

کے ہے۔

الریث سست۔ دیر کرنے والا۔ رجل

(مریث) العینین: کمزور نظر والا۔

راخ یریخ ریخاً و ریخانا وریوخا.

ڈبل ہونا۔ ڈھیلنا ہونا۔

ریخہ: کمزور کرنا۔

المریخ: سیگ کے اندر کی نرم چھوٹی ہڈی۔

ج امریخة.

الریث: پہاڑ کا باہر کو نکلا ہوا کنارہ۔ ج زینود.

ريح (ريذة وراذة وريذانة) نرم ہو۔
ريز: القوم: ارزانی و فراخ سالی میں پہنچنا۔
ريز: القوم: موٹاپا غالب ہونا۔ ريژت
البلاد: ارزانی و فراخ سالی والے ہونا۔ ريژ
القوم: ارزانی و فراخ سالی میں پہنچنا۔
الريز: رال جو بچے کے منہ سے نکلے۔ (الريز
والريز والراز) ہڈی کا مغز جو لاغری کی وجہ
سے پھل چکا ہو۔
الرائوة زانو کی ہڈی کا مغز۔
راس يريش ريشا و ريساننا متكرانه
چال چلنا الشئ: کسی چیز کی پوری حفاظت کرنا
القوم: برتر ہونا غالب ہونا۔
الريش سردار قوم۔

رأس يريش ريشا مال و متاع جمع کرنا ہ
كلانا: پہنانا۔ مدد کرنا۔ غنی بنانا یہ مالا دینا
من حالہ درست کرنا۔ کہا جاتا ہے "فلاق
لا يريش ولا يبري" مغلان نہ نقصان پہنچاتا
سے نہ فائدہ۔ و "لا ترش علي" میری
گفتگو میں دخل مت دو۔ (و ارش و ريش
السهم: پر لگانا۔ ريش السهم فلاقنا:
کمزور کرنا۔

ارشاش: السهم: تیر میں پر لگانا (و ترش)
خوش حال ہونا۔

الريش پرندوں کے پر۔ پرندوں کے لئے
زيست اور حفاظت کا ذریعہ ہیں۔

ان کی (پروں کی) پانچ اقسام ہیں۔

(۱) القوادم (۲) المناكب (۳) لحوافي
(۴) الاباهر (۵) الكلى.

الريش پرندے کے پر۔ واحد (ريشة) جمع
ريشاش و آريشاش. الريش: لباسِ فاخرہ۔
متاع خانہ۔ مال۔ سرسبزی۔ معاش۔

الراش پرندے کے پر۔ جمع آريشاش. جملة
راش: کمزور اونٹ۔ رجل راش: بالدار
مرد۔ رمح راش: کمزور نیزہ۔ طير راش:
پرندہ جس کے پر نکل آئے ہوں۔ مؤنث
راشنة كلا (ريش و ريش) بہت تپوں
والی گھاس۔

الريش: کان یا چہرہ پر بکثرت بال۔
الريشاش: من النوق: کانوں پر بکثرت بال
والى اونٹنی۔

الريشاش: عہ لباس و سامان۔ سرسبزی۔
معاش۔ مال۔

الريشاش تیروں پر لگانے والا۔
الريشاش: رشوت لینے والے اور رشوت
دینے والے کا بچولیا۔ پردار تیر۔

الاريش: کانوں یا چہرہ پر بہت بال والا۔
مؤنث ريشاء: ريش و رجل اريش:
مال و لباس والا مرد۔

المريش والمريش: من السهم: پر
لگایا ہوا تیر۔ والمريش المريش: پروں کے
نقش والی چادر۔ المريش: بہت بالوں والا
کم گوشت والا۔ کمزور پیچ والا۔

المريش من الرجال: سر میں شاہی اعزاز
کا پر لگانے والا۔

الريشة: ایک پاٹ کی چادر۔ ہر کپڑا جو چادر کی
مانند ہو۔ کفن۔ جمع ريش و ريشاط.

الريشة: ایک پاٹ کی چادر۔

راع يورع ريعا و ريوعا و ريعا و
ريعانا. الشئ: نشوونما پانا۔ زائد ہونا

الزرع: کھیتی کا بڑھنا (ريعان). السراب:
سراب کا بھی ظاہر ہونا کبھی ناپید ہونا منہ ڈرنا

غنه و اليه واپس آنا۔ کہا جاتا ہے "هربت
الابل فصاح بها الراعى فراعث اليه"

اونٹ بھاگ پڑے اور چرواہے نے آواز دی تو
سب اس کے پاس واپس آگئے۔ و "فلاق لا

يورع لكلامك" مغلان تیری بات نہیں مانتا۔
ريع: القوم: جمع ہونا الطعام: بڑھانا اور

زیادہ ہونا الطعام بڑھانا اور زیادہ کرنا۔

اراع اراعته. الزرع: کھیتی کا بڑھنا اللہ
الزرع: کھیتی کو بڑھانا القوم: بڑھی ہوئی

کھیتی والی ہونا الابل: اونٹوں کا بہت بچوں
والے ہونا۔

تربيع: ٹھہرنا۔ بے قرار ہونا۔ حیران ہونا
الماء: بہنا السراب: سراب کا کبھی ظاہر

ہونا کبھی ناپید ہونا القوم اکٹھا ہونا۔
يذاه: بالجوذ: غیاضی کرنا۔

استراغ: استراغ: حیران ہونا يذاه:
بالجوذ: غیاضی کرنا۔

الرابع: سر۔ سراب کی اضطرابی کیفیت۔
خوف: من شئ: ہر چیز کا اول و افضل۔

من الضحى: چاشت کے وقت کی روشنی و
چمک من الدرع وامن و آستین کی زیادتی۔

الرابع: ہر چیز کی زیادتی اور کہا جاتا ہے (ليس
له ربيع اس کے لیے پیداوار نہیں۔

الرابع: بلند ٹیلہ۔ بلند جگہ۔ پہاڑ کا کشادہ
راستہ۔ وادی کی بلندی سے پانی بہنے کی جگہ۔

عيسايون کا گرجا۔ کبوتروں کا برج۔ جمع ربيع
وزروع و ازياع.

الريعة: بلند زمین۔ اکٹھی جماعت۔

الريعان: من شئ: ہر چیز کا اول و
افضل أرض (مريعة) سرسبزی والی زمین۔

مطر (مريع) سرسبزی لانے والی بارش۔
ناقعة (ريعانة و مرياع) جلدی اور بہت

دودھ والی اونٹنی۔

راع يورع ريعا بھگانا۔

ريع تريعنا. الشئ: کبھی میں تر ہونا۔

تريعت. الشئ: کبھی میں تر کرنا۔

الرابع: گردوغبار۔ مٹی۔

المريع: خاک آلود۔

راف يورف ريفا و اريف ازيافا و

تريف. سبزہ زار زمین آنا۔ رافت

الماشية: سبزہ چرنا۔

رايف مراففة للظنة: تہمت کے قریب
ہونا۔

اراف ارافة و اريف ازيافا. المكان:
سبزہ زار ہونا۔

الراف: شراب۔

الريف: سبزہ زار۔ پانی کے قریب کی زمین۔

جمع ازياف و زيوف. الريف: کھانے پینے

میں وسعت۔ مکان (ريف) سرسبز جگہ۔

مؤنث ريقة

الرئی خوش منظر۔ کہا جاتا ہے ”لَفْلَان رِئِ حَسَنٌ“ فلاں خوش منظر ہے۔ عین (رئۃ) بہت پانی والا چشمہ۔

الرئیم۔ س۔ زیادتی۔ تم کہتے ہو ”فی ہذا العذیل رئیم علی الآخر“ اس گھری میں دوسری سے زیادتی ہے۔ چھوٹی پہاڑی۔ قبر۔ قبر کا درمیان۔ تاریکی پھلنے تک دن کا آخری حصہ۔ وقت کا لمبا عرصہ۔ سیرھی۔ ذبح شدہ جانور کی ہڈی جو تقسیم کے بعد بیچ جائے اور قصائی کو دیدی جائے۔ (والرئیم) خالص سفید اونٹنی۔

رَانَ یَرِئِن رَئِنًا وَرُؤُونًا الشَّیْ فَلَآنًا وَ عَلَیْہِ وَبہ: غالب ہونا۔ تم کہتے ہو ”رَانَ هُوَاةٌ عَلَی قَلْبِہِ“ اس کی خواہشات اس کے دل پر غالب آگئیں۔ رَانَتْ نَفْسُہُ: جی ملتا۔ رَانَ المَوْتُ عَلَیْہِ وَبہ: موت کا آجانا۔

رَئِن: بہ: لایچل مشکل میں پڑنا۔ مرنا۔ غم میں مبتلا ہونا۔

رَانَ اِرَانَةَ القَوْمِ: ہلاک شدہ مویشی والی ہونا۔ صفت (مؤننون)

الرَّان: موزہ کی طرح جوتا۔

الرئین: میل کچیل۔

الرئینۃ: شراب۔ ریئینات۔

رَجُلٌ (مؤنن) عَلَیْہِ: شخص جس کے مال مویشی ہلاک ہو گئے ہوں۔

رَاةٌ یَرِئِنہُ رَئِنًا: الرجل: آنا جانا۔ آمد و رفت کرنا۔

رَئِیۃٌ تَرِئِنُہَا: آمد و رفت کرنا۔

تَرِیۃٌ: السَّرَابُ: سراب کا کبھی نمایاں کبھی ناپید ہونا۔

أَرِئِی اِرِئِیًا: الرِئِیۃ: جھنڈا گلانا۔ جھنڈا نصب کرنا۔

رَئِی: الرِئِیۃ: جھنڈا بنانا۔

الرِئِیۃ: علامت جو پہچان سے لیے لگائی جائے۔ جھنڈا اور اس کی کنیت ”أُمُّ العَرَبِ“ ہے اور یہ لوا سے بڑا ہوتا ہے۔ جزایات وراثی۔

الرئی: مملکت ایران میں ایک شہر کا نام۔ نسبت کے لیے (الرازی)

رَاقٌ یَرِئِقُ رَئِیًا. المَاءُ عَلَی وَجْہِ الْأَرْضِ: سطح زمین پر پانی کا بہنا الشئی: چمکنا۔

السَّرَابُ: سراب کا چمکنا اور نمایاں ہونا۔

رَئِیًا وَرُؤُوفًا) بِنَفْسِہِ: جان و بنا۔

رَئِیۃٌ: السَّرَابُ: نہار منہ پلانا۔

أَرِاقٌ أَرِاقًا. المَاءُ: گرانا۔

تَرِیۃٌ: السَّرَابُ: سراب کا چمکنا اور نمایاں ہونا۔

الرئیق: س۔ باطل۔ پانی۔ خُبِز رَئِیق: بغیر سالن کے خشک روٹی (والرئیق والرئیوق) مین کھل شئی: ہر چیز کا اول و افضل۔

الرئیق: ج. ازیاق وریاق و (الرئیقة) تھوک۔ کہا جاتا ہے ”انہی علی الرئیق“ میں نہار منہ ہوں و ”شربت علی الرئیق و علی رئیق النفس أو رئیقة النفس“ میں نے نہار منہ پیا۔ الرئیق: قوت۔ بقیہ جان۔

الرئیق: فا. خالص۔ نہار منہ والا مقل۔

خُبِز رَئِیق: بغیر سالن کے خشک روٹی۔

الماء الرئیق: وہ پانی جو نہار منہ پیا جائے۔

الرئیق: نہار منہ والا۔

رَالَ یَرِئِل رَئِیًا. الصَّیۃُ: سچے کے منہ سے لعاب بہنا۔ رال بہنا۔


الرئیال: رال۔ منہ کا لعاب۔ چاندی کا ایک بڑا سکہ (اس کے معنی کے لحاظ سے دخیل ہے)

رَامَ یَرِئِم رَئِمًا. حَمَلُ البَیۃِ: بوجھ کا جھک پڑنا المکان و منہ: دور ہونا۔ علیحدہ ہونا بالمکان: اقامت کرنا عنہ: ہٹ جانا اور کہا جاتا ہے ”مَا رَامَ یَفْعَلُ کَذَا“ وہ ہمیشہ ایسا کرتا رہا اور یہ کان جیسا عمل کرتا ہے جیسے ”اِذَا رُمْتُ مِمَّنْ لَا یَرِئِمُ مُتِیۡمًا“ بمعنی لَا یَزَالُ مُتِیۡمًا. (رَئِمًا وَرَئِمَانًا) الجُرُوحُ: زخم کا انگوڑا ہنھنا۔

رَئِم: بہ: چھوڑ دیا جانا۔

رَئِمٌ تَرِئِمُ بِالْمَکَانَ: اقامت کرنا۔

عَلِی کَذَا: بڑھنا السحابۃ: بادل کا ہمیشہ گھرارہنا۔



الموت (الزوام) مکروہ موت۔ جلدی کی موت۔

الزئیم۔ آکھ۔ حسب۔ کہا جاتا ہے "طعنوا فی زئیمہ" لوگوں نے اس کی حسب کے متعلق طعن و تفتیح کی۔

الزئیم۔ بہت خوفزدہ۔

الزؤامة۔ حاجت۔ بہت کھانا پینا۔ ہوا۔ سخت آواز۔ کلمہ۔ کہا جاتا ہے "مَا یُعْصِبُهُ زَأْمَةٌ" وہ اس کے ایک کلمہ کی بھی مخالفت نہیں کرتا۔ الزؤامة من الطعام کھانے کا ذخیرہ جو کافی ہو۔

الزؤان۔ ایک قسم کا دانہ جو عموماً گیہوں کے کھیت میں اُتتا ہے اور گیہوں کے مشابہ میگر اس سے کچھ چھوٹا ہوتا ہے اور اس کے کھانے سے نیند بہت آتی ہے۔ واحد (زؤانة)

زأی (ف) زأیا۔ تکبر کرنا۔

أزأی۔ فلاناً بظنہ: پیٹ بھر جانے کی وجہ سے حرکت پر قادر نہ ہونا۔

زَبَّ (ض) زَبَّبا۔ چہرے اور کانوں پر بہت بال ہونا الشمس: آفتاب کا ڈوبنے کے قریب ہونا۔

زَبَّ (ن) زَبَّبا۔ القویة: مشک بھرنا الحفل: بوجھ اٹھانا۔

زَبَّبت الشمس: آفتاب کا ڈوبنے کے قریب ہونا العیب: انگریز خشک کرنا۔

الرجل: زیادہ بولنے سے جھاگ آنا۔ کہا جاتا ہے "تکلم فلان حتی زب فمه" فلان

الزؤارة۔ زأر کا اسم مرہ۔ جنگل جھاڑی۔ باغ۔ من الإبل والغنم: اونٹوں اور بکریوں کا گنجان ریوڑ۔

زأراً۔ سر اور دم اٹھا کر تیز چلنا: خوف دلانا الشی: ہلانا حرکت دینا۔

تزأراً۔ ڈر کر چھینا۔ اپنے دونوں پہلوؤں کو ہلاتے ہوئے چلنا منہ: ڈر کر خاکساری کرنا الشی: ہلانا۔

زأط (ف) زأطاً۔ بہت شور مچانا۔

زأفہ (ف) زأفاً۔ جلدی کرنا۔

أزأف إذا فاعل علیہ: اودھ مری کو مار ڈالنا۔ أزأفہ نطنہ: بوجھل کرنا کہ چل نہ سکے۔

الزؤاف۔ جلدی کرنا۔ موت زؤاف: جلدی کی موت۔

زأك (ف) زأكانا۔ ناز سے چلنا۔

تزأك تزأوکا۔ منہ: شرم کرنا۔

زأم (ف) زأما وزؤاما۔ جلدی مرنا۔ خوب ڈٹ کے کھانا: گھبرا دینا۔

ه البرؤد: کیکپا دینا کی کلمہ: ایسی بات کہنا جس کا حق یا باطل ہونا معلوم نہ ہو اور کہا جاتا ہے "ما زأم بحرف" یعنی اس نے کچھ نہیں کہا۔

زئیم زأما وزئیم (س) زأما و إزوام۔ بہت گھبرانا۔ زئیم بفلان: چلانا۔ آواز دینا۔

زأمة تزئیما۔ گھبراہٹ میں ڈالنا۔

أزأمة۔ علی الامر: کسی کام پر مجبور کرنا۔ الجرح: زخم کا اچھے ہونے تک علاج کرنا۔

ز الزای: بنیادی حروف میں سے گیارواں حرف ہے اور حروف اسلیہ (زبان کی نوک سے نکلنے والے) میں سے ہے۔ حسب جمل میں اس کا نمبر (۷) ہے۔

زأب (ف) زأبا۔ ڈگڈگ کے پنا الدھر بہ: زمانہ کا لنا الماشیة: مویشی بانگنا۔ بحملہ: بوجھ کھینچنا (واذأب إزداباً القویة) مشک اٹھا کر تیز دوڑنا۔

زأبر۔ الثوب: کپڑے کا رول والا ہونا۔ الثوب: کپڑے سے رول نکالنا۔

الزؤبر۔ الزؤبر۔ کپڑے کا رول۔ کہا جاتا ہے "ذہبت الأيام بنضارتہ و نفقت زؤبرہ" زمانہ اس کی رونق کو لے گیا اور اس کے روئیں کو جھاڑ دیا۔ یعنی اس کا زمانہ پرانا ہو گیا۔

زأبق۔ الشی: پارہ کی قلعی کرنا۔ الزؤبق۔ الزؤبق۔ پارہ۔

زأج (ف) زأجا۔ بینہم: بھڑکانا۔ آسانا۔ ایک کو دوسرے پر مسلط کرنا۔

زأدة (ف) زأدا وزأدا وزؤدا۔ گھبرا دینا۔

الزؤد۔ الزؤد۔ گھبراہٹ۔ لیلة (مزؤودة) خوف و گھبراہٹ کی رات۔

زأر (ف ض) وزؤبر (س) زؤبراً وزأراً وتزأراً وزأراً و تزأراً۔ الاسد: شیر کا چنگھاڑنا۔ صفت (زؤبر و زؤبر و مزؤبر)

الفحل: آواز کو گڑگڑانا۔

نے گفتگو کی یہاں تک کہ اس کے منہ سے جھاگ آئے لگا۔

أَزْبُ إِزْبَانًا. العنب: انگور خشک کرنا الشمس: دُوبنے کے قریب ہونا۔
تَوَزَّبَ. العنب: انگور خشک ہونا۔
الرَّجُلُ: عَصَّةٌ سے بھر جانا فِي الْكَلَامِ: زیادہ بولنے سے جھاگ لگانا۔

إِزْدَبْتُ. إِزْدَبَانًا الْقَرْيَةَ: خشک کا بھر جانا۔
الزَّب: س۔ بالوں کی زیادتی و لمبائی۔

الزِّيَابَةُ: ایک قسم کا بڑا چوہا جو بہر اہوتا ہے اور چوری میں اس کی مثال دیا کرتے ہیں اور کہتے

ہیں ”السُّوقُ مِنَ زِيَابَةٍ“
الزَّبِيْبُ: خشک انگور یا انجیر بیچنے والے کو ”زِّيَابٌ“ کہتے ہیں۔ ساپ کے منہ کا زہر۔
الزِّيْبِيَّةُ: زبیب کا واحد۔ ایک قسم کا زخم جو ہاتھ میں ہوتا ہے۔ منہ کے جھاگ۔

الزَّبِيْسَانُ ساپ یا کتے کی آنکھ کے اوپر دو سیاہ نقطے۔ اور اسی وجہ سے ساپ کو ”ذَاتُ الزَّبِيْسِيْنِ“ کہتے ہیں۔

الْأَزْبُ: چہرے اور کانوں پر بہت بال والا۔
مَوْثُ زَبَاءٍ. عَامٌ أَزْبٌ: سر سبز اور زیادہ پیداوار والا سال۔ امثلہ عرب میں ہے ”مُحَلٌّ أَزْبٌ نَفُوْرٌ“ یعنی چہرے پر بالوں والا اونٹ

بدکے والا ہوتا ہے اس وجہ سے کہ بالوں کی زیادتی کے سبب سے اپنی دیکھی ہوئی چیز کو کچھ اور خیال کرتا ہے اور بد کرتا ہے۔

ذَاهِيَةٌ زَبَاءٌ: بڑی مصیبت۔
الزَّبِيْبِيُّ: خشک انگور بیچنے والا۔ جھگولے ہوئے

خشک انگور۔ خشک انگور کی شراب۔
المُزْبُ والمُزْبِيبُ: فَا بَہت مال والا۔

الزَّبِيْلُ: پستہ قد۔
زَبْدَانٌ: زَبْدًا: کھن کھانا السِّقَاءُ: خشک میں کھن نکلنے کے لئے بلوانا۔

زَبْدٌ (ض) زَبْدًا: السُّوْفِيُّ: ستویش کھن ملانا لہٰذا کھن دینا۔

زَبْدٌ: اللَّيْنُ: دودھ کے اوپر کھن آنا۔
شِدْقُهُ: جِزْرٌ سے جھاگ لگانا الْفَطْنُ:

روئی و حفا۔

أَزْبَدَ: الْبَحْرُ أَوْ الْقَدْرُ أَوْ الْقَمْعُ: سندر یا ہانڈی یا منہ سے جھاگ لگانا۔ کہا جاتا ہے ”أَزْعَى الرَّجُلُ وَأَزْبَدَ“ یعنی اس کا عظیم و غضب جوش میں آگیا اور اس نے دھمکی دی۔
الشُّيْ: بہت سفید ہونا السَّدْرُ وَنَحْوُهُ: شگونہ لگانا۔

تَرَبَّدَ: الشَّدْقُ: جِزْرٌ سے جھاگ لگانا۔
الرَّجُلُ: غَضَبِنَاک ہونا اور دھمکی دینا۔
الزَّبْدَةُ: کھن لینا الشُّيْ: خلاصہ لینا۔

خلاصہ نکالنا۔ لگانا البِجْبِيْنُ: قسم کھانے میں جلدی کرنا۔

الزَّبْدَةُ وَالزَّبْدُ: کھن۔ جِ زَبْدٌ وَزَبْدَةٌ الشُّيْ: چیز کا عمدہ و افضل حصہ اور اِخْتَلَطَ زَبْدُهُ بِخَاثِرِهِ ایسے موقع پر بولتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے معاملہ میں متحیر ہو جائے۔

الزَّبْدُ: داود و ہش۔
الزَّبْدُ: جِ أَزْبَادٌ (و الزَّبْدَةُ) جِ زَبْدٌ: جھاگ۔ میل۔ اور اسی سے مثل ہے ”صَرَخَ الْمَخْضُضُ عَنِ الزَّبْدِ“ خالص جھاگ سے علیحدہ ہو گیا۔ اس موقع پر بولتے ہیں جبکہ خبر منظون کے بعد سچی بات معلوم ہو۔

الزَّبَادُ: ایک قسم کی خوشبو جو ایک جانور سے حاصل کی جاتی ہے اور یہ جانور لی کی مانند اس سے کچھ بڑا ہوتا ہے اور اس جانور کو بھی الزَّبَادُ و سَنُوْرُ الزَّبَادِ اور قَطُّ الزَّبَادِ کہا جاتا ہے۔

الزَّبَادُ: ایک قسم کی نباتات۔ زَبَادُ اللَّيْنِ: غیر سفید چیز اور اسی سے مثل ہے ”اِخْتَلَطَ الْخَاثِرُ بِالزَّبَادِ“ یعنی عمدہ روئی سے مل گیا۔

الزَّبْدِيَّةُ: مٹی کا نیالہ۔ جِ زَبَادِيٌّ: الجَزْبِدُ: کھن نکلنے کا آلہ۔ جِ مَزَابِدُ: المَزْبِدُ: فَا جھاگ پھینکنے والا۔ بَحْرُ مَزْبِدٌ: جھاگ پھینکنے والا سندر۔

المَزْبِدُ: کھن والا۔
زَبْرَةٌ (ن ض) زَبْرًا: عَنِ الْأَمْرِ: کام سے منع کرنا۔ روکنا السَّنَائِلُ: جھڑکنا الرَّجُلُ: پتھر مارنا الْبِنَاءُ: عمارت کو ایک کے اوپر ایک

بنانا عَلَيْهِ: صبر کرنا (و زَبْرٌ وَ إِزْدَبْرٌ) الْكِنَابُ: کھنا۔

زَبْرٌ (ك) زَبْرَةٌ: بڑے جسم کا ہونا۔ صفت (زَبْرِيٌّ)

أَزْبَرُ: الرَّجُلُ: دلیر ہونا۔ بڑے جسم کا ہونا۔ الْكَبِيْشُ: موٹا کرنا۔

إِزْبًا رَازِبِنَازًا: الْكَلْبُ: کتے کے بال کھڑے کرنا الشُّغْرُ: بال کھڑے ہونا۔ الرَّجُلُ: آمادہ شہادت ہونا الْبِنَائِثُ وَ الْوَبْرُ: نباتات یا اونٹ کے بالوں کا آگنا۔

الزَّبْرُ: س۔ عقل۔ قوی۔ مضبوط۔ پتھر۔ تحریر۔ کلام۔

الزَّبْرُ: کتب۔ جِ زَبْرٌ: عقل۔ کہا جاتا ہے ”مَالُهُ زَبْرٌ“ اس کو عقل نہیں۔

أَخَذَهُ (بِزَبْرِهِ أَوْ بِزَبْرِهِ) یعنی اس نے اس کو پورا لے لیا۔
الزَّبْرُ: بہت قوی۔
الزَّبْرَةُ: لوبے کا بڑا ٹکڑا۔ کاندھا اور بیچھ ایال (شیر و غیرہ کی) ٹائی۔ جِ زَبْرٌ وَ زَبْرٌ: الزَّبْرُ: فرشتہ۔ گروہ۔ کتاب۔ جِ زَبْرٌ: حضرت داؤد کی کتاب۔

الزَّبْرُ: لکھی ہوئی چیز۔ قوی مرد۔ مصیبت۔ ظریف۔ ہوشیار مرد۔ پتھر۔
الْأَزْبُرُ: بڑے کندھوں والا۔ ایذارسان۔
مَوْثُ زَبْرَاءٍ: جِ زَبْرٌ: التَّزْبِيرَةُ: زَبْرٌ كَامِدٌ۔ تحریر۔ کتابت۔
المَزْبُرُ: قلم۔
المُزْبِرُ: بڑے کندھے والا۔
أَرْضٌ مُزْبِرَةٌ: بہت بھڑوں والی زمین۔
أَسَدٌ مُزْبِرَانِيٌّ: بہت ایال والا شیر۔
بَنَرٌ (مُزْبِرَةٌ): پتھروں سے سن بنایا ہوا کتوں۔
زَبْرُجٌ: الشُّيْ: خوبصورت بنانا۔ مزین کرنا۔ آراستہ کرنا۔
الزَّبْرُجُ: نقش و نگار کی زینت۔ ہر خوبصورت چیز۔ سونا۔ سرخ پتلا بال۔ جِ زَبْرَاجٌ:

الزبجد. زمرد کے مشابہ ایک قیمتی پتھر ج
زبارج.

زبط (ض) زبطا و زبیطا. البط: كز
كزانا.

الزباطة والزباطة. بط
توزیع. بدخلق ہونا۔ غضبناک ہونا۔ جھگڑا
ہونا۔

الزبیع. عُصَّةٌ وَرَجْمٌ وَرَجْمٌ
الزبوع. حقیر۔ پست قدر۔

الزبوعة. بگولہ۔ اس کو امّ زبوعة اور ابو
زبوعة بھی کہا جاتا ہے۔ ج زوابع.
الزوابع: مصیبتیں۔

الزباعة. چرمی موزے یا چوڑے کی نوک۔
زبغور. الزبغوری: بدخلق۔ سخت۔ چہرے

اور ابرو پر زیادہ بالوں والا۔ مادہ مگر چھ اور بقول
بعض ایک جانور ہے جو اپنے سینگوں پر ہاتھی کو
اٹھالیتا ہے۔

الزبغوری. لے پر والا تیر۔

زبق (ض) زبقا. شعرة: بال اکھیرنا ہ فی
السجن: قید کرنا۔ تنگی ڈالنا ہ فی الشی:

داخل کرنا الشی بالشی: مخلوط کرنا۔ ملانا
القفل: تالا کھولنا المرأة بولدھا: پھینک
دینا۔

الزبق فی البیت: گھر میں داخل ہونا۔

فی الحیالة: جال میں پھنسا۔ چھپنا۔

الزبوقة. من البیت: مکان کا گوشہ۔

الزبوق. بیوقوف جو اپنی حماقت کی وجہ سے

اپنی داڑھی کے بال نوچے۔

المزبوقة والزبوقة. من اللحن: انوکھی

ہوئی داڑھی۔

زبل (ض) زبلا و زبل. الأرض: زمین

میں کھاد ڈالنا (وإذبل الشی: اٹھانا۔

الزابل والزابل. پست قدر۔

الزبال والزبال. وہ چیز جس کو بیوقوفی منہ

میں اٹھا کر لے جائے۔ کہا جاتا ہے "ما
أصاب منه زبالا" اس نے اس سے کچھ
نہیں پایا۔

الزبل والزبلۃ والزبیل. گوبر۔ کھاد۔

الزبیل والزبیل. خشک کدوا ندر سے خالی

جس میں عورتیں روٹی وغیرہ رکھتی ہیں۔

الزبلۃ. لقمہ۔

الزبالۃ. تھوڑا پانی۔ کہا جاتا ہے "ما فی

البنو زبالۃ" کنوئیں میں تھوڑا پانی نہیں ہے۔

الزبیل. ج زبل و زبلان و (الزبیل) ج

زبابیل و (الزبیل) و الزبیل ج

زبابیل. ٹوکرا۔ برتن۔ توشہ دان۔

المزبلۃ والمزبلۃ. کوڑا خانہ۔ ج مزابل۔

زبنۃ (ض) زبنا. نفع کرنا۔ نگر لگانا۔ علیحدہ

کرنا۔ زبنت الناقۃ: اونٹنی کا دوہنے کے

وقت زانو سے مارنا۔ کہا جاتا ہے "زبن عننا

مغزوفۃ" اس نے ہم سے بہتر سلوک کو

روک لیا۔ زبن الشجر: درخت پر پھل پھینچنا۔

ازبن. بیتہ عن الطریق: راستہ سے ہٹ

کر علیحدہ مکان بنانا۔

زابنۃ مزابنۃ. ایک دوسرے کو ہٹانا۔ ایک

دوسرے سے نکرانا۔ درخت پر پھل پھینچنا۔

توابن. القوم: ایک دوسرے کو ہٹانا۔

الزبن. القوم: علیحدہ ہونا۔ کنارہ پر ہونا۔

توبنۃ. زبردستی غلبہ کرنا۔

استزبنۃ. غالب ہونا۔

الزبن. من بیت زبن: گھروں سے علیحدہ

گھر۔ مقام زبن: تنگ مقام جہاں کھڑے نہ

ہو سکیں۔

الزبن. الزبن. بہت دفع کرنے والا۔

زبننا. الناقۃ: اونٹنی کی دونوں ٹانگیں۔

الزبن. پیشاب، پانچخانہ کو روکنے والا۔

الزبنۃ. سخت۔ جن و انسان میں سے

سرکش۔ سیاہی ج زبانیۃ۔

الزبانیۃ. عند العرب: سیاہی۔ ان
فرشتوں کو بھی کہتے ہیں جو گنہگاروں کو ہانک کر
جہنم کی طرف لے جائیں گے۔

الزبون. من النوق: دوہنے کے وقت
بہت زانو مارنے والی اونٹنی۔ حرب زبون:

سخت لڑائی۔ الزبون: بیوقوف غبی (اس معنی

میں فصیح نہیں)

الزبونة والزبونة. گردن اور کہا جاتا ہے

"فیہ زبونة" اس میں تکبر ہے۔

زبانی. العقرب: بچھو کا ڈنک۔

زبانیا. العقرب: بچھو کے سر کی جانب وہ

دونوں حصے جو آگڑے کے مانند ہوتے ہیں۔

المزابنۃ. من اندازہ سے بیخ کرنا۔

زبی (ض) زبیا و ازوسی ہ: اٹھانا یا کٹنا۔

زباہ بشر: تہمت لگانا۔

ازباہ ازباہ: اٹھانا۔

زبی. فلانا: ہانکنا اللحم: شکار کے گڑھے

میں گوشت بکھیرنا۔

زبی و تزبی. الزبۃ: شکار کا گڑھا کھودنا۔

تزی فی الزبۃ: شکار کیلئے گڑھے میں چھپنا۔

تزی تزیابا: تکبر کرنا۔

الزبۃ. درندوں کے شکار کا گڑھا۔ پستہ جس

پر پانی نہ چڑھے۔ ج زبی. کہا جاتا ہے

السبل الزبی: یعنی معاملہ بہت سخت ہو گیا۔

الاذبی. جلدی۔ نشاط۔ ایک قسم کی چال۔

برائی۔ بڑا معاملہ۔ ج ازابی۔

زج (ن) زجنا. دوڑنا ہ: کسی کو نیزے کے

پچھلے سرے کے لوہے سے مارنا۔ زجہ

بالرمح: کسی کو نیزہ مارنا بالشی: کوئی چیز

پھینکنا۔

زج (ض) زججا و ازوج. حاجیہ۔ لمبی

اور پارک ابرو والا ہونا۔ صفت (ازج) مونث

زجاء ج زج (ایسی بھوں کو بھی ازج کہتے

ہیں)۔

زجج. الحاجب: ابرو کو لمبی اور پارک بنانا

الموضع: درست و ہموار کرنا۔ کہا جاتا ہے

"نفر خشبۃ ثم زجج موضع النفر" اس
نے لکڑی کو کھودا پھر کھدی ہوئی جگہ کو ہموار
کیا۔

ازج. الرمح: نیزے کا پچھلا حصہ لگانا۔

نیزے کا پچھلا حصہ لگانا۔

الزج. نیزے کا پچھلا ہوا (اس کے مقابلہ میں

اور کالوہستان ہے) مثل ہے "جعل الزج" قدّام اللسان" یعنی اس نے اون کی اوعلیٰ پر فضیلت دی۔ کہنی کی نوک۔ تیر کا پھل۔ ج زجاج وازجہ و زججہ اور کبھی البرجاج کو رماح کے معنی میں بھی مجازاً استعمال کرتے ہیں۔

الزجاج والزجاج والزجاج۔ شیشہ (زجاجہ زجاجہ زجاجہ) شیشہ کا کلوڑ۔ شیشہ کا برتن۔ حشیشۃ الزجاج۔ ایک قسم کی گھاس جس سے شیشہ صاف کیا جاتا ہے۔

الزجاجی۔ شیشہ بچنے والا۔ الزجاج۔ شیشہ بنانے والا۔ الزجاجۃ۔ شیشہ گری کا پیشہ۔ الزوج۔ پھل لگے ہوئے چھوٹے تیزے۔ سدھائے ہوئے گدھے۔

الأزج۔ لمبی پنڈلیوں والا۔ لمبے لمبے قدم والا شتر مرغ۔ مؤنث زجاء ج زجّ۔ المزجّ۔ چھوٹا نیزہ۔ رُمح (مُزجّ) مچھلا لوبا لگا ہوا نیزہ۔

المزجّۃ۔ وہ چیز جس سے ابرو کو پارک اور لمبی کریں۔ الزجّیۃ۔ کلمت۔ کہا جاتا ہے "ما سمعت منہ زجّیۃ" میں نے اس سے ایک کلمہ نہیں سنا۔

زجرۃ (ن) زجراً۔ عن کذا۔ روکتا۔ منع کرنا۔ ڈانٹنا۔ چلا کر دھتکارنا الرینح السحاب۔ ہوا کا بادلوں کو اٹھا کر لانا الکلب وبالکلب۔ کہتے کو ڈانٹنا۔ دھتکارنا الطیور۔ شگون لینے کیلئے پرندہ کو اڑانا۔ (اگر دہنی جانب سے پرندہ اڑتا تو اچھا شگون لیتے تھے ورنہ برا) زجر الرجل۔ کہانت کرنا۔ کہتے ہیں "زجرت ان یکنون کذاً وکذاً" یعنی میں نے ایسا ہونے سے ڈرایا تھا۔

إذجوه۔ منع کرنا اور دھتکارنا۔ چلا کر دھتکارنا (وانزجر) رک جانا۔ تزاجر۔ القوم عن الشر۔ ایک دوسرے

کو زبانی سے منع کرنا۔ الزجر۔ س۔ (والزجر) ایک قسم کی بڑی مچھلی۔ ج زجور۔ الزاجر۔ فا زاجر الانسان۔ ضمیر۔ ابو زاجر۔ کوڑ۔ الزجار۔ بہت ڈانٹنے والا۔ ناقة (زجور) اونٹنی جو بغیر ڈانٹے ہوئے دودھ نہ دے۔

المزجر۔ ڈانٹنے کی جگہ (والمزجورۃ) ڈانٹنے والی چیز۔ کہا جاتا ہے "ذکر اللہ مزجورۃ للشیطان" اللہ کا ذکر شیطان کے ڈانٹنے کا وسیلہ ہے۔

زجل (ن) زجلاً۔ وہ بہ تیر مارنا۔ دفع کرنا ہا بالرمح۔ نیزہ مارنا الحمام۔ کبوتر کو دور جانے کے لیے روانہ کرنا۔ ایسے کبوتر کو حمام الزاجل یا حمام الزجال کہتے ہیں۔

زجل (س) زجلاً۔ خوش بھلا۔ گانا۔ شور و فریاد کرنا۔ صفت (زجل وزاجل) القوم۔ کھیل کود کرنا۔

الزجل۔ شعر کی ایک قسم۔ سحاب ذو زجل۔ گر بنے والا بادل۔ زجل الجن۔ جنوں کی گنگناہٹ۔

الزجلۃ۔ لوگوں کا شور۔ ج زجالات۔ الزجلۃ۔ لوگوں کی جماعت۔ ہر چیز کا کلوڑ۔ دونوں آنکھوں کے درمیان کی کھال۔ حالت۔ ج زجل۔

مسافۃ (زجوں) دور کی مسافت۔ الزاجل والزاجل۔ حلقہ کی مانند لکڑی جو رسی کے سرے پر باندھے ہیں۔ نیزے کے نچلے حصے کے لوہے کا حلقہ۔ فوج کا سردار۔ ج زواجل۔ الزجالۃ۔ چھوٹے نیزے سے مارنے والے لوگ۔

المزجل والمزجال۔ چھوٹا نیزہ۔ المزجل۔ کبوتر کی رواگی کی جگہ۔ ناقة (زجلاء) تیز رفتار اونٹنی۔

زجم (ن) زجماً۔ آہستہ بولنا۔ آہستہ بات سنانا۔ کہا جاتا ہے "سکت فما زجم بحرف" وہ خاموش رہا ایک حرف نہیں بولا۔ الزجم۔ ایک قسم کا پرندہ۔

الزجمۃ والزجمۃ۔ آہستہ بات۔ کہا جاتا ہے "لم اسمع لہ زجمۃ" میں نے اس سے ایک بات بھی نہیں سنی۔ وهو لا یخالقہ بزجمۃ۔ وہ اس کی ایک کلمہ کی بھی مخالفت نہیں کرتا۔ الزجمۃ۔ رطوبتیں جو بچے کے ساتھ شکم مارے تھکیں۔

فوس (زجوم) کمزور آواز والی کمان۔ الزحیۃ۔ نرم و خفی آواز۔ اس کا استعمال نفی میں ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے "ما سمعت لہ زحیۃ" میں نے اس سے ایک کلمہ نہیں سنا۔

زجا (ن) زجواً وزجیۃ تزجیۃ وازجیۃ ازجاء وازدجی۔ ہانکنا۔ کہا جاتا ہے "کتیف تزجیۃ ایا ملک" تم اپنا زمانہ کس طرح بسر کرتے ہو؟ و "زجی فلان حاجتی" فلاں نے میری حاجت کے حصول کو آسان کر دیا۔ ازجی الامر۔ مؤخر کرنا۔ ازجی الدرہم۔ درہم کا راج کرنا۔

زجا (ن) زجواً وزجواً وازجاء۔ الامر۔ کامیاب ہونا۔ آسان ہونا الخراج۔ خراج کا آسانی سے جمع ہونا فلان۔ لمی منقطع ہونا۔

تزجی تزجیا۔ بالشی۔ اکتفا کرنا۔ قاعدت کرنا۔ المزجی۔ تھوڑی چیز۔ ردی چیز۔ مؤنث مزجاة۔

الازجی۔ اسم تفصیل۔ کہا جاتا ہے "فلان ازجی من فلان یبھذا الامر" یعنی فلاں شخص اس کام کو فلاں سے زیادہ نافذ کرنے والا ہے۔

المزجی۔ کمزور جس کو کاموں میں رغبت دلانے کی ضرورت ہے۔ زحہ (ن) زحاً۔ دفع کرنا یا ہٹانا جلدی سے کھینچنا عن مکانہ۔ علیحدہ کرنا۔

مسافة (زحوف) دور کی مسافت۔
 الزحليل تیز۔ علیحدہ رہنے والا
 (والزحلول) تنگ پھسلنے کی جگہ۔
 الزحلول ہلکے پھلکے جسم والا۔
 المنزل وہ جگہ جہاں کہیں سے علیحدہ ہو کر
 جائیں۔ زحل کا مصدر میمی۔ کہا جاتا ہے
 "اذا لم یکن عن شفرة السیف
 منزل" جبکہ تلوار کی دھار سے علیحدہ ہونے
 کی جگہ نہ ہو۔
 زحلف الشیء A لڑھکانا۔ علیحدہ کرنا
 الإیاء برتن کو بھرنے۔ زحلف فی
 الکلام: جلدی جلدی بولنا۔
 تزحلف لڑھکانا علیحدہ ہونا۔
 تزحلفت الشمس آفتاب کا مائل
 بغروب ہونا۔ دوپہر میں ڈھلنا۔
 الزحلوقة چکنی ڈھلوان جگہ جس پر لڑھکا
 جائے۔ زحالف وزحالف
 الزحالف چھوٹے چھوٹے کیڑے جو چوٹی
 کے مشابہ ہوتے ہیں۔
 زحلق و زحلق و تزحلق و تزحلق
 والزحلوقة والزحلوقة بمعنی
 زحلف و تزحلف والزحلوقة۔
 الزحلوقة لیے تختے کا جھولا جس کے دونوں
 جانب بیڑھ کر جمولیں۔
 زحمة (ف) زحما و زحاما۔ تنگی کرنا۔
 بھیڑ کرنا۔
 زاحمة تنگی کرنا۔ زاحم الخمسین
 قریب ہونا۔
 ازدم و تزاحم القوم: ایک دوسرے پر
 تنگی کرنا۔ ایک دوسرے کو دھکیلنا۔
 الامواج: موجوں کا آپس میں ٹکرانا۔
 الزحم: سب بھیڑ کرنے والے لوگ۔
 الزحمة: بھیڑ۔ تنگی۔
 الزحام: سب یوم الزحام: قیامت کا
 دن۔
 المزحم: بہت بھیڑ کرنے والا۔
 مزاحم: ہاتھی۔

الزحف: سب بڑا لشکر جو دشمن کی طرف
 جائے۔ زحوف
 الزحفة: قریب قریب کا سفر کرنے والا۔ جو
 دور نہ جائے۔
 الزحاف: فی الغروض: علم عروض کی
 اصطلاح میں وہ تغیر جو سب خیف یا ثقیل کے
 دوسرے حرف میں واقع ہو۔
 الزحاف: گھسنے والا۔ مؤنث زحافة۔
 الزحافات من حیوان: ریگنے والے
 جانور۔
 المزحف: گھسنے کی جگہ۔ مزاحف
 مزاحف الحیات: سانپوں کے ریگنے کی
 جگہ۔ مزاحف السحاب: قطرہ گرنے کی
 جگہ۔
 بعیور (مزحاف) اونٹ جس کو تھک جانے
 کی عادت ہو۔ مزاحف و مزاحیف
 زحک (ف) زحکا۔ بالمکان: اقامت
 کرنا۔ قریب ہوئے۔ بعید ہو البعیر
 اونٹ کا تھکانا۔
 ازحک: تھکے ہوئے جانور والا ہونا۔
 زاحک: عن نفسه: دور کرنا۔
 تزاحک: القوم: ایک دوسرے سے بعید
 ہونا۔ ایک دوسرے سے قریب ہونا (ضد)
 زحل (ف) زحولا۔ عن مکانہ: زائل
 ہونا۔ دور ہونا۔ علیحدہ ہونا۔ صفت (زحل
 و زحل)
 زحل (ف) زحلا۔ تھکانا۔
 ازحله الیہ: پناہ لینا۔
 ازحله و زحله: دور کرنا۔
 تزحل: عن مکانہ: علیحدہ ہونا۔ دور ہونا۔
 زحل: ایک سیارہ کا نام جس کو بلندی اور بعد
 کے لیے بطور مثال کے بیان کرتے ہیں
 و زحل زحل: کام سے علیحدہ رہنے والا خواہ
 اہم کام ہو یا بڑا۔
 الزحلة: کاموں سے علیحدہ رہنے والا۔
 قریب قریب کا سفر کرنے والا۔ اپنے سوراخ
 میں دم کی طرف سے داخل ہونے والا جانور۔

زحب (ف) زحبا و زحوبا الیہ
 نزدیک ہونا۔
 زحر (ف) زحیرا و زحارا
 و زحارة: بچپن میں مبتلا ہونا۔ عمل یا سختی کی
 وجہ سے آہ بھرتا نہ حوت بہ امہ: جننا۔
 زحورہ بالرمح: سر پر نیزہ مارنا۔
 زحور: مبتلائے بچپن ہونا۔
 زحور: بچپن میں مبتلا ہونا۔
 زاحورہ: دشمنی کرنا۔
 تزحور: بچپن میں مبتلا ہوئے امہ: جننا۔
 الزحار و الزحیر: بچپن۔
 الزحر و الزحار و الزحوران: بخیل اس
 وجہ سے کہ وہ سوال کے وقت آہ بھرتا ہے۔
 زحزحہ: عن مکانہ: دور کرنا۔ ہٹانا۔
 تزحزح: دور ہونا۔ ہٹنا۔
 الزحزح: دوری۔ کہا جاتا ہے "ھو
 بزحزح منہ" وہ اس سے دوری ہے۔
 الزحزح: دور۔
 زحف (ف) زحفا و زحفانا و زحوفاً
 آہستہ آہستہ زانو یا سر پر گھسنا۔
 جاتا ہے "زحف العسکر الی العدو"
 لشکر دشمن کی طرف گیا گویا کثرت کی وجہ سے
 گھٹ کر چلا الشیء A آہستہ آہستہ کھینچنا۔
 البعیر: اونٹ کا تھکانا۔ صفت مذکر۔
 زاحف و زاحفة: تامباہ کیلئے ہے۔ صفت
 مؤنث۔ زاحفة و زاحف و (زحوف)
 زحف السہم: تیر کا نشانہ دے دے گرتا
 پھر گھٹ کر نشانہ کو لگتا۔ صفت (زاحف) ج
 زواحف۔
 ازحف: اپنے انتہائی مطلوب پر پہنچنے کی
 السفر: تھکا دینا البعیر: اونٹ کا تھکانا
 الرجل: تھکے ہوئے اونٹ یا گھوڑے والا
 ہونا۔ ازحف بنو فلان: بڑا لشکر بننا۔
 زاحفناہم: ایک دوسری کی طرف گھسنا۔
 تزحف و ازححف: الیہ: چلنا۔
 تزاحف: القوم فی الحرب: بعض کا
 بعض کی طرف جانا اور قریب ہونا۔

زخمر. القربة: مٹک بھرتا۔
 زحن (ف) زحنا۔ دیر کرنا ہ عین
 المكان: دور کرنا۔
 تزحن۔ دیر کرنا۔ سٹھنا عن مکانہ: بلنا
 علی الشئ و غنة: ناپسندیدگی کے باوجود
 کرنا۔
 رجل زحن۔ پستہ قدم۔ مؤنث زحنة۔
 الزحنة: سخت گرمی۔ مع ساز و سامان کے
 قافلہ۔ کہا جاتا ہے "لهم زحنة" ان لوگوں
 کے لیے دیر کا کام ہے۔ "وله زحنة بغد"
 جب کہ سفر کا ارادہ کرے اور کوئی کام نکل آئے
 جس سے تاخیر ہو جائے۔
 الزحنة: واوی کاموڑ۔
 زح (ن) زحنا غفیناک ہونا بالابل:
 اونٹوں کو تیز چلانا ہ: گڑھے میں دھکیلنا
 المرأة: جماع کرنا۔
 زح (ن) زحنا وزحینھا: الجمور:
 چنگاری کا تیز چمکانا۔
 الزح۔ س۔ کینہ۔ غصہ۔ غضب۔
 الزحہ: کینہ۔ غصہ۔ غضب (والمزحہ
 والمزحہ: بیوی۔
 زخوخ۔ المرأة: جماع کرنا۔
 زخو (ف) زخوا و زخوزا و تزخارا:
 البحر: دریا کا چرھنا اور موج مارنا الوادی:
 بسی اور پانی سے بھری ہوئی ہونا النبات:
 نباتات کا لہنا ہونا القوم: جنگ یا روانگی جنگ
 کیلئے پر جوش ہونا الحزب او القدر: جوش
 مارنا ہ: بھرتا۔ موٹا کرنا۔ آراستہ کرنا۔ خوش
 کرنا بما عنده: فخر کرنا۔
 زاخرة: فخر کرنے میں مقابلہ کرنا۔ کہا جاتا
 ہے "زاخرة فزخرة" ماس نے اس سے فخر
 کرنے میں مقابلہ کیا اور غالب رہا۔
 تزخو البحر او الوادی: دریا یا واوی کا
 چرھنا اور موج مارنا۔
 تزخور۔ بما عنده: فخر کرنا۔
 الزاخو۔ فا: کریم۔ شاداں۔ بھرا ہوا۔
 چھلکے والا من الشرف بلند عزت۔

زواخو۔ الوادی: واوی کی گھاس۔
 الزخار۔ زخو کا اسم مبالغہ۔
 نبات (زخور و زخاری و زخوری) لبنا
 و عجمان پودہ۔ زخارٹی النبات: پودہ کی
 تروتازگی جبکہ عجمان ہو اور غلو ف نکل آئے۔ کہا
 جاتا ہے "فذا أخذت الارض زخاريتها"
 جبکہ زمین کی نباتات لمی و طویل ہو جائے۔
 کلام زخوری: شکبر اندھکی آمیز گفتگو۔
 الزخوری: لبنا۔
 زخرفة: خوبصورت بنانا۔ آراستہ کرنا۔ مزین
 کرنا الكلام: جموت سے آراستہ کرنا۔
 تزخرف۔ الرجل: مزین ہونا۔
 الزخرف: سونا۔ چیزی خوبصورتی۔
 زخرف الكلام: جموت سے آراستہ کی
 ہوئی گفتگو۔ زخرف الارض: زمین کے
 سبزی کے رنگ۔ ج زخارف۔ الزخارف:
 کشتیاں۔ پانی پر اڑنے والے کیتڑے۔
 زخارف الماء: پانی کے راستے۔
 زخف (ف) زخفا و زخيفا: تکبر کرنا۔
 زخف۔ فی القول: بہت بولنا۔
 تزخف۔ مزین ہونا۔ آراستہ ہونا۔
 خوبصورت بننا۔
 المزخف: فخر کرنے والا تکبر۔
 زخمه (ف) زحما: سخت سے بنانا۔
 زخم (س) زحما و ازخم: اللخم:
 گوشت کا بدبودار ہونا۔ صفت (زخم)
 ازخم: الحمل بوجہ اٹھانا۔
 الزخمة: بدبودار گوشت۔
 الزخماء: بدبودار عورت۔
 الزذب۔ ص۔ ج اذاب۔
 زذر لوثنا۔ (صدر میں ایک لغت ہے)
 اذذر لوثنا۔ (صدر میں ایک لغت ہے)
 الاذذران: دونوں مونڈھے۔ کہا جاتا ہے
 "جاء يضرب اذدرية" یعنی وہ خالی ہاتھ
 آیا۔
 اذدرم۔ لگنا۔
 اذوف۔ اللیل: تاریک ہونا (انسدق میں

<p>الازرق کے ساتھی تھے اور مخالفین کو قتل کرنا اور ان کی عورتوں کو قید کرنا جائز سمجھتے تھے۔ واحد (الازرقی)</p> <p>المزراق چھوٹا نیزہ من الابعور چیچے کی طرف بوجھ ڈالنے والا اونٹ۔ ج مزراق۔</p> <p>زرقف وازرقف جلدی کرنا۔</p> <p>زرقل زرقلة لی بحقی حق دینا۔</p> <p>الشعراون کو جھارتا۔</p> <p>الزرقم بہت نیلگوں آنکھ والا (مذکر و مؤنث) ج زراقم۔</p> <p>الزراقم بہت سے سانپ۔</p> <p>زرلئس) زرکلب خلق ہونا۔</p> <p>زرطش) زرما و زرمة وازرمکنا۔</p> <p>کہتے ہیں "زرمت بہ امانس کی مانے اس کو جتا۔ و زرمة الدهور نانا نے اس سے خیر منقطع کر دیا۔</p> <p>زر(م) زرما الشی منقطع ہونا۔</p> <p>ازدرمہ گنا۔</p> <p>ازرام غصناک ہونا۔ سکرنا۔</p> <p>الزرمہ بیل تھوڑے جھٹے والا۔ بخیل۔ نمک۔ حال۔</p> <p>الازرم منقطع۔ لی۔</p> <p>الزرمہ تھوڑے جھٹے والا۔ ذلیل۔</p> <p>الزرموج ہوتا۔</p> <p>زررق زرقفة الارض چھوٹی نہر سے پانی دینا۔ کنویں پر زرقوق گانا۔ دیکھنے "زرنوق" فلانا اللباس کسی کو لباس پہنانا۔</p> <p>توررق بالنیاب کپڑے پہنانا الرجل چھوٹی نہر سے اجرت پر آب نشی کرنا۔</p> <p>الزرقوقان چھوٹی نہر۔ جگی کا دست۔</p> <p>الزرقوقان کنویں کے من پر کے دو کھبے جس میں چرخی گئی ہوئی ہوتی ہے۔</p> <p>الزرققة۔ زیادتی۔ حسن کامل۔</p> <p>الزرقیق ہر تال۔</p> <p>زری(ش) زریا و زریا و زریا و زریا و مزریة و مزرة و آزری و تزری۔ علیہ عملہ کسی کام پر عتاب کرنا۔ میب گانا۔</p>	<p>بارنا الرجل بصره غمورا الناقاة الرجل او نخی کا کجاوہ چیچے کی جانب ڈال دینا۔</p> <p>زرقس) زرقا الرجل نڈھا ہونا۔</p> <p>عینہ نیلگوں ہونا الشی نیلگوں ہونا۔ آسانی رنگ کا ہونا۔</p> <p>ازرقت۔ عینہ نحوی آنکھ کا پھرنا اور سفیدی کا ظاہر ہونا الناقاة حملها ونخی کا کجاوہ کو چیچے کی جانب ڈال دینا۔</p> <p>ازرق ازرقا وازراق ازرقا قلیگوں ہونا عینہ نحوی۔ یعنی ازرقت عینہ۔</p> <p>الزرق چیچے ہنا۔ چت لیٹنا۔ السهم آر پار ہونا۔</p> <p>الزرق و الزرقاة آسانی رنگ۔ نیلگوں۔</p> <p>الزرق کھر کے کچھ اوپر کی سفیدی۔</p> <p>الزرقاة بقوید کا مہرہ۔</p> <p>الزرق ایک شکاری پرندہ۔ ج زراق</p> <p>گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی۔ تیز نظر والا۔</p> <p>الازرق نیلگوں۔ مؤنث زرقاء ج زرق۔ الازرق بلا۔ نصل ازرق چکیلا تیر کا پھل۔ ماء ازرق ضاف پانی۔ عذو ازرقی خت دشمن (اور یہ اس وجہ سے کہ رومیوں اور دہلیوں کی آنکھیں نیلگوں ہوتی ہیں اور ان میں اور عربوں میں سخت دشمنی تھی۔ اس وجہ سے ہر سخت دشمن کو عذو ازرق کہنے لگے) اور چونکہ نیزے اور بھالے میں بھی نیلگوں ہوتی ہے اس لیے ان پر بھی زرق کا اطلاق کرتے ہیں۔</p> <p>الزرقاء ازرق کا مؤنث۔ ج زرق شراب۔ آسان۔</p> <p>الزریق و ابو زریق چریا سے کچھ بڑا ایک پرندہ۔</p> <p>الزریقا بدودہ اور زیتون کے تیل میں ترکیب ہوا شید۔ ایک جانور جو بلی کے مشابہ ہوتا ہے مگر اس کی ٹانگیں چھوٹی اور جسم لمبا ہوتا ہے۔</p> <p>الزرقاة و العائمة تسمیها الزرقاة: پچکاری (عوام سے زاروق کہتے ہیں)۔</p> <p>الازرقاة خار جیوں کا ایک ررہ جو نافع بن</p>	<p>زرقون) زرقاودنا فی الکلام زیادتی کرنا۔ جھوٹ بولنا۔ (زرقوفا و زرقیفا) العویب ہونا۔ دیر لگانا۔ جلدی کرنا (ضد زرقولس) زرقا الجرح خرم کا جھتا ہونے کے بعد تازہ ہونا۔</p> <p>زرقفة علیحدہ کرنا۔ دور کرنا الشی زیادتی کرنا فی الکلام کلام میں زیادتی کرنا اور جھوٹ بولنا القوہ جدا کرنا الرمخ فیہ نیزہ بھونکنا۔ کہا جاتا ہے "زرق علی السستین" وہ ساتھ سے بڑھ گیا۔</p> <p>ازرق آگے بڑھنا۔ جلدی کرنا۔</p> <p>الجرح خرم کا جھتا ہونے کے بعد تازہ ہونا۔</p> <p>الناقاة ونخی کو آسانا۔ تیز کرنا الرجل زرافہ جانور خریدنا (دیکھئے لفظ زرافہ)</p> <p>انزرف۔ القرم گھاس پانی کی تلاش میں جانا الریح بزرگانا الشی آبر ہونا۔</p> <p>الزرافة و الزرافة و الزرافة و الزرافة ایک جانور کا نام جو اونٹ کے برابر ہوتا ہے اور اس کی اگلی ٹانگیں لمبی اور پھجلی چھوٹی ہوتی ہیں اور اس کی گردن گھوڑے کی مانند اور کھال چیتے کی مانند ہوتی ہے اور اس کے دو چھوٹے چھوٹے سینک بھی ہوتے ہیں۔ ج زرافی زرافی زرافات۔ زرافات۔</p> <p>الزرافة بہت چھوٹا۔</p> <p>الزرافة و الزرافة س یا میں آدمیوں کا گروہ۔ ج زرافا سہ را می سے ہے۔ "طائو ایہ زرافات و وخذانا"</p> <p>الزرافة و الزرافة جگہ جہاں کھیت کیلئے پانی نکالا جائے۔ ج زرافات زرافات۔</p> <p>المزراف و الزروق و الزروف۔ من النوق تیز رفتار اونٹنی۔</p> <p>زرقن۔ شعریاوں کو زنجیر کی طرح بنانا۔</p> <p>الزرقین چھوٹی زنجیر۔ ج زرقافین۔</p> <p>زرقی(ضن) زرقا الطائر پرندہ کا بیٹ کرنا۔ زرقت عینہ نحوی۔ دیکھیں۔</p> <p>زرق الطائر پرندہ کو چھوٹے نیزے سے</p>
--	--	---

ازری بالامنو: سستی کرنا۔ ازری بہ
 وازراہ: عیب لگانا۔ حق گھٹانا۔
 زازاہ مزاراة: ایک دوسرے کو عتاب کرنا۔
 ازدری واستزری: ہ۔ حقیر سمجھنا۔
 الزری: ناکارہ۔ ذلیل۔
 المیزراء: لوگوں کو عیب لگانے والا۔
 زط (ن) زطاً: الذباب: مکھی کا جھنڈنا۔
 الزط: جات (ہندوستان کی ایک قوم) واحد
 زطی
 زعب (ف) زعباً: برتن کو بھرنا
 القربة: منک بھری ہوئی اٹھانا۔
 القربة: پانی گرانہ السیل: سیلاب کا وادی کو
 بھر دینا الوادی: وادی کا بھر جانا الشی: کاشا
 لہ من المال:
 زعباً وزعبۃً وزعبۃً: مال کا کچھ حصہ دینا
 المرأة: جماع کرنا۔
 زعب (ف) زعباً: الغراب: کائیں
 کائیں کرنا۔
 تزعب: غضبناک ہونا۔ شادماں ہونا۔
 فی اکلہ و شربہ: بہت کھانا پینا۔ القوم
 المال: قوم کا مال میں سے اپنا پنا حصہ لینا۔
 ازوعب: الشی: کات لینا۔
 الزعبۃ والزعبة والزعب: مال کا ایک
 حصہ۔
 الازعب: پستہ قدمینہ۔ موٹا۔ مؤنث زعباء
 ز زعب:
 سئل (زاعب وزعوب) وادی کو بھرنے
 والا سیلاب۔
 الزاعب: اچھا رہبر۔
 زعيب: النخل: شہد کی مکھیوں کی
 جھنڈنا۔
 الزعوب: پستہ قدمینہ۔
 زعيق: القوم: پریشان و متفرق کرنا۔
 الشی: جدا جدا کرنا۔
 تزعيق: الشی من یدی: بکھر جانا اور
 متفرق ہو جانا۔
 زعبل: بڑے پیٹ اور تپلی گردن والا۔ بڑا

سانپ۔ گرگٹ۔ ڈول۔ روٹی کا پودہ۔ ج
 زعابل۔
 زعجہ (ف): زعجاً وازعج: بے قرار
 کرنا۔ ہٹانا۔ دھکانا۔ زرعج الرجل:
 چلانا۔
 ازعجه الى المعصية: گناہ پر ابھارنا۔
 ازعج: بے قرار ہونا۔ ہٹنا۔
 الزعج: بے قراری۔
 المزعاج: ایک جگہ پر نہ ٹھہرنے والی
 عورت۔
 زعر (س) زعراً و زعراً و ازعراً:
 شعرةً أو ریشةً: کم اور بھڑے ہوئے بال یا
 پروالا ہونا۔ زعر الرجل: بے خیر ہونا۔
 الزعارة والزعارة: بد خوئی و تند مزاجی۔
 الزعر والازعر: کم اور متفرق بالوں والا۔
 موضع زعر وازعر: کم پیداوار والی جگہ۔
 مؤنث زعرة وزعراء:
 الزعرة: ہمیشہ مضطرب اور خوفزدہ رہنے والا
 ایک پرندہ۔
 الازعر: چور، سرکش، چھیننے والا۔ مؤنث
 زعرة و زعراء: زعر و زعران۔
 الزعران: نوجوان لوگ۔
 الزعروف: ایک درخت جس کا پھل سرخ
 رنگ کا اور کھلی گول بڑی ہوتی ہے جس کی وجہ
 سے مغز کم ہوتا ہے۔ واحد (زعورۃ) رجل
 زعور: بد خلق بے خیر مرد۔ ج زعاریر:
 الزعاریر: گوبر وغیرہ جو اون میں لگ جائے
 اور جم جائے۔
 بخر (زعرف) بہت پانی والا سمندر۔
 زعزعہ زعزعۃً سخت حرکت دینا۔
 الابل فی السیر: ہلکانا۔
 تززعزع: ہلکانا۔
 الزعزعۃ: س۔ ج زعازع: الزعازع:
 زمانہ کے مصائب۔
 زعزع (زعزع و زعزع و زعزع)
 وزعازع و زعزعان) آندھی۔ ہوا کا
 طوفان جوئی زعزع: تیز دوز۔

بخر (زعرفة) بہت پانی والا سمندر۔
 زعظ (ف) زعظاً: گناہوں کا ہمارا
 گدھے کا رنگنا۔
 الزعظ: فاموت زعظاً: جلدی کی
 موت۔
 زعفہ (ف) زعفاً وازعفہ وازدعفہ:
 فوراً مار ڈالنا۔ زعف الجریح وازعف
 علیہ: زخمی کو فوراً مار ڈالنا۔ زعف
 الحدیث: زیادہ کرنا اور جھوٹ بولنا۔
 سم (زعاف) زہر قاتل۔
 موت (مزعف) فوراً ہلاک کرنے والی
 موت۔
 سیف مزعف: فوراً ہلاک کرنے والی
 تلوار۔
 الزعوف: ہلاکت کی جگہیں۔
 الزعوفۃ: پتھر جس کو کونکوں کی تہ میں ڈال
 دیں اور اس پر پتھر کرکچرا وغیرہ صاف کریں۔
 زعفرۃ: زعفران سے رنگنا الطعام: کھانے
 میں زعفران ڈالنا۔
 تزعفر: زعفران سے خوشبو دار ہونا۔
 زعفران سے رنگا ہوا ہونا۔
 الزعفران: زعفران۔ کبیر۔ ج زعفر:
 زعفران الحدید: لوہے کا رنگ۔
 زعفق: الزعاقق: بخیل۔ بد خلق۔ ج
 زعاقق:
 زعق (ف) زعقاً: چلانا، چھٹنا، ہ و زعق
 بہ ڈرنا بالدابۃ: تیز چلا کر ہلکانا۔
 الریح: النراب: ہوا کا مٹی کو اڑانا ہ
 العقرب: بچھو کا ڈنسا القدر: ہانڈی میں بہت
 نمک ڈالنا۔
 زعق (ک) زعاقۃ: الماء: پانی کا بے حد
 کھاری ہونا۔
 زعق (س) زعقاً: شادماں ہونا (و زعق
 وازعق) الرجل: رات میں ڈرنا۔
 الزعق الفرس: آگے بڑھنا۔ تیز چلنا۔
 ازعقہ: ڈرنا۔ خوف دلانا السیر: چلنے میں
 جلدی کرنا القدر: ہانڈی میں بہت نمک

کیا۔ الزعامة زعم اسم مرآة۔ ج زعمات کہا جاتا ہے۔ "هذا ولا زعمتك او زعماتك" یعنی یہی صحیح ہے اور میں تمہارا گمان نہیں خیال کرتا ہوں۔ الزعمی جھوٹا۔ سچ۔ ضد۔ الزعامة۔ س۔ شرف۔ سرداری۔ ہتھیار۔ زرع۔ بھرمال یا کثر مال۔ گائے۔ الزعوم۔ جھنگلوں میں عاجز۔ چربی دار عورت۔ کم چربی والی عورت (ضد) الزعوم۔ جھنگلوں میں عاجز۔ الزعیم۔ ضامن۔ کفیل۔ سردار۔ رئیس۔ ج زعماء۔ المزعم۔ لہجہ لالچ کی جگہ۔ کہا جاتا ہے "هذا امر مزعم" یعنی یہ امر غیر موثوق ہے کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ وہ مزاعم۔ یہ ایسا امر ہے جس میں جھگڑے ہیں۔ المزعمامة۔ سائب۔ زعفت۔ المائسطة الغرؤس۔ مشاط کا دہن کو آراستہ کرتا ہے۔ الزعيفة والزعيفة۔ پتہ قدم دیا عورت۔ ہر چیز کا ایک حصہ۔ جسم کے اطراف مانند ہاتھ پیر کے۔ رومی۔ قبیلہ کا ایک کلوا جو علیحدہ ہوا دوسرے کے ساتھ مل جائے۔ کپڑے کا ٹکڑا یا ٹخا پھینا ہوا حصہ۔ مصیبت۔ ج زعائف الثر عائف۔ چھپلی کے پر۔ ہر وہ جماعت جن کی کوئی ایک اصل نہ ہو۔ زعایز عوز عوا۔ منصف ہونا۔ عادل ہونا۔ زغب (س) زغباً وزغب وزغاب الصبى أو الفروخ۔ بچے یا چوزہ کارداں ٹکٹا۔ صفت (زغب) ازغب۔ البکرم۔ آگور کی تیل میں پتے نکلنے لگنا۔ الزغب۔ پردوں یا بالوں کے رونیں۔ واحد (زغبہ) الزغبی والزغبیة۔ جھوٹے رونیں۔ کہا جاتا ہے "ما اصبت منه زغباً" میں نے اس سے رونیں کے برابر بھی کچھ حاصل نہیں کیا۔

الازغب۔ رونیں دار۔ مؤنث زغباء۔ ج زغب۔ تھکا چوزہ۔ الزغبہ۔ ٹھکری۔ الزغبی۔ پتہ قدم نکلنے۔ زغبر۔ الثوب زوئیں دار ہونا۔ الزغبر والزغبر والزغبر زرواں۔ کہا جاتا ہے "أخذ الشی بزغبرہ" اس نے ساری چیزیں لیں۔ الزغبرہ۔ عند العامة زرواں۔ کلمہ محرف ہے صحیح لفظ الزغب ہے۔ الزغید۔ مکھن۔ زغید (ف) زغداً۔ السقاء۔ مشک نچوڑنا فلانا۔ کلا دہانا البعیر۔ اونٹ کا سخت بلبلانا النہر۔ دریا کا چھٹنا۔ موج مارنا۔ بالكلام۔ کہنا۔ بھڑکانا۔ ازغدت۔ المرأة ولدھا۔ عورت کا بچہ کو دودھ پلانا۔ الزغید۔ الزغیدة۔ مکھن جو مشک کو دبانے ہے اس کے منہ سے نکلے۔ نھر (زغاد) بہت پانی والا چڑھا ہوا دریا۔ المزغید۔ غضبناک۔ زغو (ف) زغواً۔ الشی۔ چھین لینا۔ زبردستی لینا الشی۔ بکثرت ہونا البحر۔ چڑھنا۔ موج مارتا۔ الزغو۔ من کل شی زیادتی۔ افراط۔ الزغار۔ تینچواں۔ زغوب۔ ہنسا۔ الزغوب۔ بہت پانی۔ بٹو زغوب و زغوبیة۔ بہت پانی والا توال۔ زغود زغودة۔ البعیر۔ اونٹ کا اپنے حلق میں آواز کو لواتے ہوئے بلبلانا۔ زغوغ۔ الکلام۔ رکب۔ گفتگو کرنا۔ الشی۔ چھپانا بالرجلی۔ تمسخر کرنا۔ ٹھنھا کرنا۔ الزغوغ۔ سبک و چست آدمی۔ حسب و نسب میں مطعون۔

ڈالنا۔ الزعق رات میں ڈرنے والا۔ شادماں جو کچھ گھبرایا بھی ہو۔ الزعقة۔ ج۔ ج۔ الزعاق۔ بہت کھاری پانی جو پیانا جا سکے۔ الزعوقہ۔ زعاق کا اسم۔ الزعاق۔ من الخیل۔ بہت اور تیز چلنے والا۔ گھوڑا پیچھے پیچھے چلاتے ہوئے جانوروں کو دانتے والا۔ الزعیق۔ خو فزدہ۔ المزعق۔ زمین کھودنے کا اوزار۔ زعل (س) زعلاً۔ شادماں ہونا۔ من المرض وغیرہ۔ تک دلی و مضطرب ہونا۔ ازعله۔ شادماں کرنا۔ من مکانہ۔ ہٹانا۔ تزعل۔ شادماں ہونا۔ الزعل والزعلان والازعیل۔ شادماں۔ الزعل۔ بھوک سے بلبلانے والا۔ زعم (ف) زعماً وزعماً وزعماً۔ مزعماً۔ سچ یا جھوٹ کہنا اور اکثر مشکوک یا ایسی چیزوں میں جس کے جھوٹ ہونے کا یقین ہو استعمال کیا جاتا ہے (زعامة) علی القوم۔ سردار بننا۔ زعم (ف) زعماً۔ بالمال۔ کفیل ہونا۔ ضامن ہونا اللین۔ دودھ مزیدار ہونے لگنا۔ زعم (س) زعماً۔ فیہ۔ لالچ کرنا۔ ازعم۔ الامر۔ ممکن ہونا اللین۔ دودھ مزیدار ہونے لگنا۔ فیہ۔ فرمانبردار ہونا یا تابع ہونا علی القوم۔ سردار بننا۔ الارض۔ سبزی کا پھوٹا۔ کھانا۔ الزعمۃ المال۔ مال کا ضامن بنانا۔ زاعمہ۔ بھڑکانا۔ تزعمہ۔ جھوٹی باتیں بیان کرنا۔ تزاعم۔ القوم علی الامر۔ ایک دوسرے کی بدد کرتا۔ باہم غیر موثق باتیں کرنا۔ الزعم۔ من الشواء۔ بہت چربی والا جس سے بھوننے ہوئے چربی آگ پر پڑے۔

الزُّغْرُغُ. پستہ قد خمیر۔ ایک پرندہ۔
الزُّغْرُغِيَّةُ. عجم میں سے بعض لوگوں کی
زبان۔

الزُّغْرُغِيَّةُ. ایک قسم کا کھانا جو گھی اور آٹے
سے تیار کیا جاتا ہے۔

زَعْفُ (ف) زَعْفًا. پانی بہت ہونا۔
فِي حَدِيثِهِ: بہت بولنا اور جھوٹ بولنا۔ کہا
جاتا ہے ”زَعْفٌ كَلَامًا كَثِيرًا“ و ”عَفٌّ
لَنَا مَالًا كَثِيرًا“ اس نے بہت بھوسا کی اور
اس نے ہم کو بہت مال دیا ہ بالرمح: نیزہ
مارنا۔

إِذْ عَفَّ. سارالے لینا۔
الزُّعْفُ. سر۔ کشادہ اور لمبی زرہ۔ بادل جو
برس چکا ہو اور ابھی گھرا ہوا ہو۔

يَرْعُ (زَعْفُ) کشادہ، مضبوط اچھے حلقوں
والی زرہ اور کہا جاتا ہے ”ذُرُوعٌ زَعْفٌ
وَزَعْفٌ وَأَزْعَافٌ وَزُعُوفٌ“
الزُّعْفُ. چھپلیاں۔ درخت کی کمزور
شاخیں۔

الزُّعَافُ. بہت بولنے والا۔
الزُّعْفَةُ وَالزُّعْفَةُ. کشادہ یا مضبوط زرہ۔
الْمِرْزَعُفُ. حریص۔ بہت خواہش مند۔
زَعْفَلٌ زَعْفَلَةٌ. جھوٹ بولنا۔
زَعْلٌ (ف) زَعْلًا. پانی بار بار گرنا
الشَّرَابُ: کلی کرنا الصَّبِيُّ أُمَّةٌ: بچہ کا دودھ
پینا۔

أَزْغَلٌ. المَاءُ: گرانا الأُمَّمُ وَلَدَهَا: بچہ کو
دودھ پلانا الطَّائِرُ فَرْخُهُ: پرندہ کا بچہ کوچوگا
دینا الشَّرَابُ: کلی کرنا۔

الزُّغْلُ. دھوکا دھونا۔
الزُّغْلِيُّ. دھوکا دینے والا۔
الزُّغْلَةُ. کلی کا پانی جو منہ سے پھینکا جائے۔
ایک مرتبہ پانی گرانے کی مقدار۔

الزُّغْلُولُ. بچہ۔ ہلکا پھلکا جلد باز مرد۔ ج
زَعَالِيلُ.

تَزَعَمَ. الجَمَلُ: اونٹ کا جھاگ کو اپنے
جزروں میں پھرانا اور اسی سے ہے ”تَزَعَمَ

الرَّجُلُ“ یعنی اس نے غضبناک ہو کر گفتگو
کی۔

الزُّعُومُ وَالزُّعْمُومُ: گفتگو کرنے میں عاجز
دور ماندہ۔

زَفْتُ (ض) زَفًا وَزُفُوفًا تيز دوڑنا الرِّيحُ:
ہوا کا چلنا زَفًا وَزُهَيْفًا الطَّائِرُ: پرندہ کا پر
پھیلا کر اترنا۔

زَفْتُ (ن) زَفًا وَرَفَافًا. العُرُوسُ إِلَى
زَوْجِهَا: دلہن کو شوہر کے پاس بھیجنا
البُرْقُ: چمکانا۔

أَزَفْتُ. العُرُوسُ إِلَى زَوْجِهَا: دلہن کو
شوہر کے پاس بھیجنا الرَّجُلُ: تیز دوڑنا ہ: تیز
دوڑنا۔

إِذْ ذَفَّ. الجَمَلُ: بوجھ اٹھانا العُرُوسُ:
دلہن کو شوہر کے پاس بھیجنا۔

إِسْتَرْفَهُ. السَّيْلُ: سیلاب کا بہالے جانا۔
ه السَّيْرُ: سبک بنانا۔
الزَّفْتُ: چھوٹے چھوٹے پر۔

الزُّفُّ. پرندہ کے زوکین کا ایک پر ایک چمکا
ہوا ہونا۔

الزُّفَّةُ. زَفْتُ كَأَسْمَرَةٍ. کہا جاتا ہے ”جَنَّتُهُ
زَفَّةٌ أَوْ زَفْتَيْنِ“ میں اس کے پاس ایک باریادو
بار آیا۔

الزُّفَّةُ. گروہ۔
الْأَزْفُ. تیز رفتار۔ باریک پروں والا۔

الزُّفِيفُ وَالزُّفَانُ وَالزُّفَافُ. سبک تیز
رفتار۔

الزُّفُوفُ. شتر مرغٌ مِنَ النَّوْقِ: عمدہ چال
والی تیز رفتار اونٹنی۔ قَوْسٌ زَفُوفٌ: آواز
دینے والی کمان۔

المِرْزَقَةُ. پاگلی۔
زَفْتُ (ن) زَفْتًا. الإِنَاءُ: بھرنا الرَّجُلُ:
غیظ میں ڈالنا۔ مَنَعُ كَرَانًا دھکانا۔ تھکانا۔ کہا
جاتا ہے ”زَفْتُ الْحَدِيثُ فِي أُذُنِ

الْإِصْمَ“ اس نے بہرے کے کان میں بات
ٹھونس دی۔

زَفَّتُ. السَّفِينَةُ: کشتی پر زفت ملنا۔

الزَّفْتُ. تار کول جیسی ایک چیز جس کو کشتی
وغیرہ پر ملا کرتے تھے۔

زَفَدَ (ن) زَفْدًا. الإِنَاءُ: برتن بھرنا۔
قَرَسَهُ شَعِيرًا: گھوڑے کو بہت جوکھلاتا۔
إِزْدَفْتُ. المَالُ: سارالے لینا۔

زَفَرْتُ (ض) زَفْرًا وَزَفِيرًا. النَّارُ: آگ
سے بھرنے میں آواز نکالنا الأَرْضُ: نباتات
اگانا۔ زَفَرُ الرَّجُلُ: لمبی لمبی سانس لینا۔
الْحِمَارُ: گدھے کا رینگنا شروع کرنا۔ وَزَفَرُ
الشَّيْءِ زَفْرًا: اٹھانا المَاءُ: پانی بھینچنا۔

إِزْدَفَرُ. الشَّيْءُ: سارالے لینا۔
الزَّفَرُ. بھاری بوجھ۔ مشک۔ مسافر کا سامان۔
جماعت یا دستہ فوج۔ ج آذفار۔

الزَّفَرُ. درخت کے نیچے لگانے کی تھوٹی۔
الزَّفَرُ شير۔ بہادر۔ سمندر۔ بہت پانی والا
دریا۔ سختی۔ سردار۔ مشک کے اٹھانے کیلئے
مضبوط آدمی۔ بہت عطیہ۔ دستہ فوج۔

الزَّفِيرُ. س۔ مصیبت۔ گدھے کی آواز کی
ابتداء اور انتہا کو الشَّهيقُ کہتے ہیں۔

الزُّفْرَةُ وَالزُّفْرَةُ. لمبی سانس۔ گرم سانس۔
زَفْرَةُ الدَّابَّةِ زَفْرَتُهَا: جانور کا پھولا ہوا پہلو۔
الزُّفْرَةُ زَفَرُ الرَّجُلِ أَوْ الْحِمَارِ كَأَسْمَرِ ج
زَفْرَاتُ. بھی ضرورت شعری کی بنا پر فا کو
ساکن کر کے زَفْرَاتُ کہتے ہیں۔ فَوْسٌ
(أَزْفَرُ) بڑے پہلوؤں والا گھوڑا۔ ج زَفْرُ.

الزُّفْرَةُ. جماعت۔ دستہ فوج۔ مصیبت۔ تیر
کے پر کے علاوہ یا پیکان کی جانب دو ٹمٹ سے

کم۔ کندھا اور اس کے گردا گرد۔ کمان۔ بڑا
سردار۔ زَفْرَةُ الرَّجُلِ: مرد کے اقارب و
انصار۔ زَفْرَةُ البِنَاءِ: عمارت کا قہم۔ ج

زَوَافِرُ الزُّوْافِرِ: پسلیاں۔ کہا جاتا ہے
”فَوْسٌ شِدْبَةُ الزُّوْافِرِ“ مضبوط پسلیوں والا
گھوڑا۔ پانی لانے والی لوٹھیاں۔ انکور کی تیل
اٹھانے کی ٹی۔ زَوَافِرُ المَجْعَدِ: بزرگی کے

اسباب۔

المُزْفَرُ وَالْمُزْدَفَرُ. لمبی سانس۔ سانس
لینے کی جگہ۔

المزفوفور: من الذوات: مضبوط جوڑوں والا جانور۔

زَفْوَف: الرَجُلُ: تیز چلنا۔ عمدہ چال چلنا الطائر: پر پھیلا کر اترنا الريح الحشيش: ہوا کا گھاس کو حرکت دینا اور اس سے سائیں سائیں کی آواز نکالنا المزحجب: سواری کے چلنے سے آواز سنائی دینا۔

زَقَن (ض) زَقْنَا: ناپچا۔ سخت دھکا دینا اور لات مارنا۔ کہا جاتا ہے "ذَنُوتٌ مِنْهُ فَرَقْنِي" میں اس سے قریب ہوا اس نے مجھے دھکا دیا۔

الزفن: چھت کے اوپر کا سامان۔ الناقۃ (الزافنة والزفون) لتکزی اونٹنی۔

الزقان: ناپچنے والا۔ الاذقنة: حرکت۔ رَجُلٌ اِذْقَنَةٌ: متحرک مرد۔

الزيفون: ایک درخت جس کے پھول سفید ہوتے ہیں اور اس میں پھل نہیں آتا۔ ناقۃ زيفون: تیز رفتار اونٹنی۔

زَفِي يَزْفِي زَفِيًا و زَفِيَانًا زَفَتِ القوس: آواز دینا الريح السحاب والتراب: ہوا کا بال یا مٹی کو اترنا الرجل بنفسية: جان دینا۔

أزفي الشيء: ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا اور اسی سے ہے "أزفیت العروس" جبکہ میکہ سے دہن کو سرال لے جائیں۔

الزافي: سبک تیز رفتار۔ الزفیان: سن۔ ہلکا پن۔ ہلکا۔ ناقۃ زفیان: تیز رفتار اونٹنی۔

المنزفي والمنزفي والمنزفي: ڈر یا ہول زَق (ن) زَقًا: الطائر: پرندہ کا بیٹ کرنا۔ فرسخ: چوڑے کوچوڑا دینا الحشيش: مینڈھے کی کھال اتارنا۔ الجلد: بال کاٹنا۔

الزق: منک۔ زَقِ الحَدَاد: بولہ کی بھیٹی۔

نِجَ اَزَقاق و زَقاق و زَقاق و اَزُق.

الزق شراب: نِجَ زَقَقَة.

الزققة: چوڑے کوچوڑا دینے والی فاختا میں۔ چھوٹے بچوں کو تیار کرنے والے۔

الزقاق: گلی۔ منک راستہ (مذکر و مؤنث) جِ اَزَقَه و زَقَان. الزقان و بحر الزقاق: جبر التری آبنائے۔

الزقة و الزفق: پن ڈبی نامی ایک پرندہ۔ الزقاق: منک بنانے والا۔

زَقَب (ن) زَقَبًا: الجُرُودُ فِي الحَجَرِ: چوہے کا سوراخ میں داخل ہونا۔ و زَقَبه فِي الحَجَرِ: داخل کرنا (لازم و متعدی)

زَقَبُ المِکَاءِ: آواز کرنا (مکاء ایک پرندہ ہے)

اِنزَقَب: الجُرُودُ فِي الحَجَرِ: چوہے کا سوراخ میں داخل ہونا۔

الزَقَب: منک راستہ۔ نزدیکی۔ کہا جاتا ہے "زَمِنَةٌ مِنْ زَقَبٍ" میں نے اس کو نزدیک سے تیر مارا۔

زَقَع (ف) زَقَعًا و زَقَاعًا: القِرْدُ: بندر کا آواز کرنا۔

الزقر: شکر۔ (الصفرة) میں ایک لغت ہے۔

الزقور: دوزخ (السقر) میں ایک لغت ہے۔

زَقِرَق زَقِرَقَةً و زَقِرَاقًا: الطائر: پرندہ کا بیٹ کرنا۔ چھپھانا فرسخ: چوڑے کوچوڑا دینا الصبي: بچہ کو کدانا الرجل: آہستہ ہنسنا۔ ہلکا ہونا۔

الزقراق: آہستہ چلنے والا۔ ایک قسم کی چوہی ٹیال۔

زَقَع (ف) زَقَعًا و زَقَاعًا: الذئب: مرغ کا ککڑوں کوں کرنا الحمام: گدھے کا زور سے گوز کرنا۔

زَقَف (ن) زَقَفًا و تَرَقَف و اِرْدَقَف الشيء: جھین لینا یا جلدی سے اچک لینا۔ اور اسی سے ہے "تَرَقَفَ الکفرة بالصولجان" وہ گیند کو بے سے جلدی سے لے گیا۔ تَرَقَف و اِرْدَقَف اللقمة: لقمہ نکالنا۔

الزقفة: ہر وہ چیز جو گل لی جائے۔ ہر وہ چیز جو ہاتھ میں لی جائے۔

زَوَقَل: العمامة: سر کے دونوں جانب

کناروں کو لگانا۔

زَوَاقِلُ: العمامة: عمامہ کے نیچے سے نکلے ہوئے بال۔

الزقل و الزواقيل: چور۔ لیرے۔

الزقيلة: منک گلی۔

زَقَمَهُ (ن) زَقَمًا و اِرْدَقَمَهُ: نکالنا۔

اِرْدَقَمَهُ الشيء: نکالنا۔

زَقَمَهُ: تھوہر کھلانا۔

تَرَقَمَ: لقمہ کرنا۔ نکالنا۔ تھوہر کھلانا۔ اللبیب: دودھ بہت پینا۔

الزقوم: جنم کے ایک درخت کا نام۔ تھوہر مہلک خوراک۔ ایک جنگلی گھاس جس کا پھول چنبیلی کی مانند ہوتا ہے۔

الزقمة: زقم کا اسم مرہ۔ طاعون۔

زَقَن (ن ض) زَقْنَا: الجمل: بوجھ اٹھانا۔

اَزَقَنَهُ: اٹھانے میں مدد دینا۔

زَقَا يَزِقُو زَقَوًا و زَقَاءً و زَقِيًا و زَقِيًّا و زَقَوًا و زَقِيًا (ض) زَقِيًا: الطائر: پرندہ کا

چھپھانا۔ صفت مذکر (زاق) جِ زَوَاق.

صفت مؤنث (زاقية) جِ زَوَاق الصبي:

بچہ کا بہت رونا۔

اَزَقَاه: رلانا۔

الزقبة: روپے پیسوں کا ڈھیر۔

الزقبة: حج۔

زَكَ (ن) زَمًا و زَمًّا و زَمِكًا و زَمِكِيًا

الشيخ: دوڑنے یا چلنے میں کمزوری کی وجہ سے قریب قریب قدم رکھنا۔ (زكًا)

الغلام: دوڑنا القربة: منک بھرتا بسلسلہ:

بیٹ کرنا۔ زَمَحَهُ الماء: آمودہ کرنا علی

فلان: غضب ناک ہونا۔

زُكُّ الرجل: بوڑھا ہونا۔ بیماری کی وجہ سے کمزور ہونا۔

أَزَكَ عَلَى الامر: اصرار کرنا برابہ: خود رائے ہونا۔

تَرَمَحَكَ: ساز و سامان لینا یا ہتھیار اٹھانا۔

اِرْدَكَ الزرع: سیراب ہونا۔

الزك: فاختہ کا چوڑے۔

عن الحق او الصواب: پھر جانا غمورہ:
 گزر جانا (زَلَّ زَلِيلًا وَزُلُولًا) جلدی گزرتا۔
 زَلَّ زُلُولًا: البذرہم: کم وزن ہونا۔ صفت
 (زَالٌ) ج زَوَالٌ: کہا جاتا ہے "ذَرَاهِمُ
 زَوَالٌ" کم وزن والے درہم۔
 زَلَّ (س) زَلَلًا: بیکے سرین والا ہونا۔ صفت
 (أَزَلَّ) مؤنث زَلَاءٌ: ج زَلٌّ
 أَزَلَّهُ: پھسلانا۔ لغزش کرانا۔ کہا جاتا ہے "أَزَلَّ
 إِلَيْهِ نِعْمَةً" اس نے اس کے ساتھ بہتر
 سلوک کیا اور نعمت دی۔ و "أَزَلَّ إِلَيْهِ مِنْ
 حَقِّهِ شَيْئًا" اس نے اس کو اپنے حق میں سے
 کچھ دیا۔ "أَزَلَّهُ إِلَى الْقَوْمِ" اس نے اس کو
 قوم کے سامنے پیش کیا۔
 اسْتَزَلَّهُ: پھسلانا۔ لغزش کرانا۔
 الزَّلُّ: پھسلنے کی جگہ (مذکر و مؤنث) کہا جاتا
 ہے "مَكَانٌ زَلٌّ وَأَرْضٌ زَلٌّ"
 الزَّلُّل: سہ گناہ کا ارتکاب۔ کہا جاتا ہے
 "اسْتَغْفِرُ اللَّهُ مِنْ زَلَّلِي" میں اللہ سے اپنے
 ارتکاب گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔
 پھسلنے کی جگہ (مذکر و مؤنث) کہا جاتا ہے "فِي
 مِيزَانِهِ زَلَّلٌ" اس کے ترازو میں نقصان ہے۔
 الزَّلَّةُ: زَلٌّ کا اسم مرتبہ گناہ۔
 گناہ۔ ویسر۔ دلہن۔ خوراک جو دوست یا رشتہ
 دار کے دستر خوان سے اٹھایا جائے۔ ج
 زَلَاتٌ
 الزَّلَّةُ: چھیلے پتھر واحد زَلٌّ
 الزَّلَّةُ: احسان۔ دہم۔
 مَاءٌ (زَلَالٌ وَزَلُولٌ وَزَلِيلٌ وَزَلَاوِلٌ)
 صاف نیساخو ٹھوڑا پانی۔ الزَّلَالُ: بہت پھسلنے
 والا۔
 الْأَزَلُّ: تیز رفتار۔ بیکے سرینوں والا۔ مؤنث
 زَلَاءٌ قَوْصٌ زَلَاءٌ: کمان جس سے تیر جلد
 نکل جائے۔
 المَزَلَّةُ والمَزَلَّةُ: پھسلنے کی جگہ۔ ج مَزَالٌ
 المَزَلُّلُ: فا بہت بھلائی کرنے والا۔
 زَلْبٌ (س) زَلْبًا: بہ بلازم رہنا۔ چھپنا رہنا۔
 جدانہ ہونا۔

مِنْهُ عَذَابٌ كَسَى كِي دُخْمِي كَا عِلْمٌ هُوَ (زُكُونًا)
 إِلَيْهِ: پناہ لینا۔ مل جل جانا۔
 زُكِّنَ: گمان کرنا عَلَيهِ: مشتہر کرنا۔
 زُكِّنَتْهُ: ایک دوسرے کے قریب ہونا۔ کہا
 جاتا ہے "هَذَا الْجَيْشُ يُزَاكِنُ
 الْأَلْفِينَ" یہ لشکر دوبرار کے قریب ہے ہ:
 قریب وہم نشین ہونا۔
 أَزُكِّنُهُ: الأمر: جانا۔ سمجھانا الشئ: صحیح
 گمان کرنا۔
 الزُّكَاةُ والزُّكَاةِيَّةُ: صحیح گمان۔
 زُجِّلَ (زُكِّنَ) سمجھدار مرد۔
 زُجِّلَ (زُكِّنَ) اچھی یادداشت والا مرد۔
 زُكَاةٌ يَزُكُوُ زُكَاةً وَزُكُوًا وَزُكِيٌّ (س)
 زُكِيٌّ: الزَّرْعُ: بڑھنا الرَّجُلُ: نیک و
 صالح ہونا۔ خوش عیش ہونا۔ زکی ہونا
 الْأَرْضُ: عمدہ ہونا۔ کہا جاتا ہے "هَذَا لَا يَزُ
 كُوُكَ" یہ تمہارے لائق نہیں۔
 زُكِيٌّ: بڑھنا۔ زائد ہونا۔ بیاسا ہونا۔
 هُ اللَّهُ: نشوونما کرنا۔ پاک کرنا۔ صالح بنانا۔
 زُكُوَةُ لِيْنَا: زُكِيٌّ لَهُ: زُكُوَةُ اِدَا كَرْنَا نَفْسَهُ:
 خود ستائی کرنا۔
 أَزُكِيٌّ: الزَّرْعُ: بڑھنا هُ اللَّهُ: نشوونما
 کرنا۔
 تَزُكِيٌّ: صدقہ ادا کرنا۔ زکی ہونا الشئ:
 بڑھنا۔ زیادہ ہونا۔
 الزُّكَاةُ: جنت عدد۔ کہا جاتا ہے "أَحْسَنُ هَذَا
 أَمْ زُكَاةٌ" یہ طاق ہے یا جنت۔
 الزُّكَاةُ: چیز کا عمدہ حصہ۔ زُكُوَةُ: صدقہ۔
 پاکیزگی۔ ج زُكَاةٌ وَزُكُوَاتٌ
 التُّزْكِيَّةُ: زُكِيٌّ کا مصدر۔
 الزُّكَاةُ: فا عمدہ نشوونما پانے والا۔ ج
 زُكَاةٌ
 الزُّكِيٌّ: اچھی نشوونما پانے والا۔ ج أَزُكِيَاءُ
 مؤنث زُكِيَّةٌ: کہا جاتا ہے "أَرْضٌ زُكِيَّةٌ"
 عمدہ تر تیز زمین۔
 زَلٌّ (س) زَلًّا وَزَلَلًا وَزُلُولًا وَزَلِيلًا
 وَمَزَلَّةٌ وَزَلِيلِيٌّ وَزَلِيلًا: پھسل کر کرنا

الزُّكْمَةُ: ہتھیار۔
 الزُّكْمَةُ: غم و غصہ۔
 زُكْمَاءُ (ف) زُكْمًا: مارنا زُكْمًا: الدَّرَاهِمُ:
 نقد دنیا جلدی نقد دنیا زُكْمًا: حَقُّهُ: پورا کرنا
 إِلَيْهِ: پناہ لینا۔
 إِذْ ذُكِمَا: حَقُّهُ مِنْهُ: حق وصول کرنا۔
 رَجُلٌ (زُكْمًا وَزُكْمًا) النَّقْدُ:
 جلدی نقد دینے والا۔
 المَزُكْمَا: جائے پناہ۔
 زُكِبَ (ن) زُكْبًا وَزُكُونًا: الإِنَاءُ:
 برتن کو بھرنا المَرْأَةُ: عورت کا ایک ہی مرد
 میں بچہ کو جننا المَرْأَةُ: جماع کرنا۔
 بُنْزُكِبَ: البَحْرُ: سمندر کے پانی کا پست
 زمین میں یا گڑھے میں داخل ہونا۔
 الزُّكْمِيَّةُ: لڑکا۔ لطفہ۔
 زُكْتٌ (ن) زُكْمًا وَأَزُكَّتْ وَزُكَّتْ:
 الإِنَاءُ: برتن کو بھرنا۔
 أَزُكَّتِ: المَرْأَةُ: بَغْلَامٌ: لڑکے کو جننا۔
 المَزُكْمُونُ: انڈوں سے بھری ہوئی مٹی۔
 بھرا ہوا ٹمکن۔
 زُكْمَرٌ (ن) زُكْمَرًا وَزُكْمَرًا: الإِنَاءُ: برتن کو
 بھرنا۔
 زُكْمَرٌ وَتَزُكْمَرٌ: الإِنَاءُ: برتن کو بھر جانا۔
 الزُّكْمَرَةُ: شراب وغیرہ کیلے چڑے کا برتن۔
 ج زُكْمَرٌ
 زُكْمَةُ (ن) زُكْمًا وَأَزُكْمُهُ: جتلائے
 زُكَامٌ کرنا القَرْبِيَّةُ: بھگ بھرنا۔ زُكْمَتْ بِهِ
 أَمُّهُ: جننا۔
 زُكِمَ: زُكَامٌ بَرْدٌ ہونا۔ صفت (مَزُكْمُوْمٌ)
 الزُّكْمَةُ: زُكَامٌ۔ اولاد کہا جاتا ہے "لِفُلَانٍ
 زُكْمَةُ سُوءٍ" فلان کی اولاد غیر صالح ہے۔
 الزُّكْمَةُ: اجنب۔ آخری بچہ۔ کہا جاتا ہے "هُوَ
 زُكْمَةُ وَوَلَدٌ إِلَيْهِ" وہ اپنے باپ کا آخری بچہ
 ہے۔
 زُكِنَ (س) زُكْمًا: الأمر: تاز جانا۔
 سمجھنا گمان کرنا۔ کہا جاتا ہے "زُكِنَتْ أَنَّهُ
 جُلُّ سُوءٍ" میں نے جانا کہ وہ برا آدمی ہے

رأسه: سر پھاڑنا۔ تم کہتے ہو "زلزلت له من مالي زلزلة" میں نے اپنے مال میں سے ایک حصہ دیا۔

زلزلت (س) زلعا و زلوعا و تزلزلت قدمه: قدم کے ظاہر یا باطن کا پھینکا کھنڈہ: اوپر سے پھینکا الجوخ: خراب ہونا۔ تزلزلت ريشه: پر کا گر جانا۔

زلزلت (ن) زلوعا الشمس: آفتاب طلوع ہونا النار: آگ کا بلند ہونا۔

زلزلت في الشيء: کسی چیز کا لالچ دلانا۔

زلزلت الشيء: ترتیب سے چھیننا۔

زلزلت الشيء: کسی کا حق کاٹ لینا الشجرة: درخت کاٹنا۔

الزلزلة: خراب شدہ زخم۔

الزلزل: پھینچی ہوئی ایڑیوں والا۔

الزلزل: چھوٹی کوزیوں کی ایک قسم۔

الزلزل: پھینچے ہوئے بیروں والا۔

الزلزل: السحاب: گہرا گھرننا۔

سبب (مزلزلت) بڑا سیلاب۔

زلزل (ن) زلوعا النجم: ستارہ طلوع ہونا النار: آگ کا بلند ہونا۔

تزلزلت رجله: پھینکا۔ (جید لغت تزلزلت ہے)

الزلزل: الفرج: چوڑے کے پر نکلنا۔

الشعر: موٹے کے بعد آگنا۔

زلزل (ن) زلعا و زلفا و زلفا و تزلزلت و ازذلزلت: آگے

زلزل (ن) زلعا و زلفا و زلفا و تزلزلت: آگے کرنا۔ زلف في الكلام: زیادہ کرنا۔

الزلزل: نزدیک کرنا الاشياء: جمع کرنا الدليل القوم: رہبر کا قوم کو آگے بڑھنے پر براہمختہ کرنا۔

الزلزل: سامان خانہ۔

الزلزل: سبک ظریف۔ سکی۔ جنگ و بدی۔

الزلزل (ف) زلعا الشيء: فریب سے چھیننا۔

الزلزل: جلا الماء من البئر: پانی نکالنا۔

زلزلته: علیحدہ کرنا۔

تزلزلت وازلزلت: علیحدہ ہونا۔

الزلزل: پھول (السلحفاة کی تحریف ہے)

الزلزل: ہلکا ہلکا مرد۔

الزلزل: پھلکا چھالی۔ لگن۔

زلزل (س) زلعا: موٹا ہونا۔

زلزل (ض) زلخانا و زلخانا: الرجل: چلنے میں آگے ہونا رجله: پھینکانا۔

زلزل (ض ن) زلخا فلانا بالرفع: بھولنا رأسه: زخمی کرنا۔

زلزلته: چکانا و ہموار کرنا۔

الزلزل الباب: دروازہ کو مزلاج سے بند کر دینا۔ (دیکھئے مزلاج)

تزلزل: پھینکانا۔

مكان (زلزل و زلزل) پھینکنے کی جگہ۔

الزلزل: تیز رفتار۔ بنو زلزل: کنواں جس کے من پر پھینکنے ہو۔

الزلزل: بچوں کے پھینکنے کی جگہ۔

زلزل زلذبة اللقمة: لقمہ نکلنا۔

زلزل (س) زلزلا: بے قرار ہونا۔

الزلزل والزلزل: سامان خانہ۔ آنے کا راستہ۔

زلزل زلزلة و زلزلا و زلزلا و زلزلا اللہ الارض: بھونچال لانا: ڈرانا خوف دلانا الابل: اونٹ کو سختی سے ہانکنا۔

تزلزلت الارض: بھونچال ہونا۔

نفسه: موت کے وقت جان کا گھومرو میں بولنا۔

الزلزلة: سر بھونچان۔ ج زلازل۔

الزلزل: سختیاں۔ ہولناک چیزیں۔

الزلزل: ماہر چینی۔ نقاری۔ غلام زلزل: ہلکا پھلکا لاکا۔

الزلزل: سامان خانہ۔

الزلزل: سبک ظریف۔ سکی۔ جنگ و بدی۔

الزلزل (ف) زلعا الشيء: فریب سے چھیننا۔

الزلزل: جلا الماء من البئر: پانی نکالنا۔

الزلزلة: لقمہ۔ تیر۔

الزلزلة: چلیں۔

زلزل (ض) زلجا و زلجنا و زلجانا: تیزی سے چلنا۔

زلزل (ن) زلجا و اززلج: الباب: دروازہ کو مزلاج سے بند کرنا (دیکھئے مزلاج)

زلزل (ن) زلجانا: فلانا: آگے ہونا۔

زلزل (س) زلوعا و تزلزل: پھینکانا۔ اور اسی سے مززلج ہے۔ ان سواروں کو کہتے ہیں جن میں پیسے نہیں ہوتے اور برف پر پھسلتی ہیں آج

مززلج: زلزل الكلام من فيه: بات کا منہ سے نکل پڑنا الماء عن الحجرة: پانی کا حلق سے پیٹ میں آ جانا۔

زلزل الكلام: لوگوں میں مشہور کرنا۔

عيشه: تھوڑی سی چیز پر زندگی بسر کرنا۔

تزلزل الشيء: پھینکانا۔ کہا جاتا ہے "تزلزل السهم عن القوس" تیر کمان سے پھسل گیا۔ السید: نینچنے پر اصرار کرنا۔

مكان (زلزل و زلزل و زلزل) پھینکنے کی جگہ۔ الزلزل: فاس: مصیبتوں سے نجات پانے والا۔ بہت پینے والا سهم زلزل: تیر جو زمین پر پھسلنا ہوا جائے۔

الزلزل: تیز رفتار۔ سهم زلزل: کمان سے پھینکنے والا تیر۔ قدح زلزل: ہاتھ سے پھسل جانے والا پیالہ۔ عقبة زلزل: دور دراز لمبی کھالی۔

الزلزل: چکنی چٹانیں۔

ناقعة (زلجی و زلیجہ) تیز رفتار اونٹنی۔

الزلزل و الیزلاج و المزلاج: ایک قسم کا تالاجو بغیر چکی کے چل جاتا ہے۔

المززلج: کم پھیل۔ قوم میں اجنبی آدمی۔ بے مروت۔ ہر چیز کا گھٹیا۔

زلزل (ف) زلعا و تزلزل: چھیننا۔

الزلزل: باطل۔ کہا جاتا ہے "مززلج" امر باطل۔

الزلزل: بڑے کشادہ پیالے۔

تزلزل: عنقه: پھینکانا۔

زَامٌ مُرَامَةٌ. تکبیر کرنا۔ زَامَمْتُ فَلَانًا: مقابلہ کرنا۔

اَزْمَمْتُ بِمَدِّهِنَا۔

اَزْدَمْتُ. تکبیر سے سر بلند کرنا۔ اَلذَّنْبُ السَّخِلَةُ: بھیڑیے کا بکری کے بچے کو سر بلند کر کے لے جانا۔

اَلزَّمَامُ. جس سے کوئی چیز باندھی جائے۔ مہار۔ باگ۔ کھیل۔ لگام۔ حِ اَزْمَةُ. زَمَامُ النَعْلُ جوڑے کا تسمہ۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ زَمَامُ قَوْمِهِ“ وہ اپنی قوم کا سردار و چودھری ہے۔ و ”هُوَ زَمَامُ الْأَمْرِ“ یعنی اس پر کام کا دار و مدار ہے و ”الْفَوْا فِي يَدِهِ زَمَامُ الْأَمْرِ“ لوگوں نے اپنا معاملہ اس کے ہاتھ میں دے دیا کہ جس طرح چاہے فیصلہ کرے۔ و ”هُوَ عَلِيُّ زَمَامِ أَمْرِهِ“ وہ اپنے کام کے پورا ہونے کے قریب ہے۔ و ”هُوَ يَصْرِفُ أَزْمَةَ الْأُمُورِ“ وہ جس طرح چاہتا ہے امور میں تصرف کرتا ہے۔

اَلزَّامُ. فَا رَجُلٌ زَامٌ. گھبرانے والا مرد۔ حِ زَمَمْتُ کہا جاتا ہے۔ ”ذَارِيٌّ مِنْ ذَارِهِ (زَمَمْتُ)“ میرا گھر اس کے گھر کے قریب ہے۔ و ”أَمْرُ الْقَوْمِ زَمَمٌ“ قوم کے معاملے قریب قریب ہیں۔ و وجہی زَمَمْتُ نَيْبَةَ مِيرَاچِہرہ اس کے گھر کے مقابل ہے۔ اَلزَّمَامُ. اونچی گھاس۔

اَلزَّمِيمُ. مینے کے آخر کا چاند۔ زَمَمْتُ (ك) زَمَاتَةٌ وَ تَرَمَّتْ. شجیہ و صاحب وقار ہونا۔ صفت (زَمِيمٌ) حِ زَمَمْتُ (و) (زَمِيمٌ) زَمَمْتُ (س) زَمَمْتُ. گلا گھوٹنا۔ زَمَمْتُ (ن) زَمَمْتُ. القَرْبَةُ: مشک بھرنا۔ عَلَيهِمْ: بغیر بلائے ہوئے آکر کھانا۔ زَمَمْتُ (س) زَمَمْتُ. غضبناک ہونا۔ صفت (زَمَمْتُ) کہا جاتا ہے۔ اَحَدَهُ (بِرِ اَمَجِهِ) یعنی اس نے سارا لے لیا۔

اَلزَّمَجُ. عقاب سے چھوٹا ایک سرخ رنگ کا شکاری پرندہ۔ حِ زَمَامِيحُ. زَمَمْتُ الْمَاءِ:

گھمانا اور کناروں سے پکڑنا العطاء: کم دینا العذاء: بڑی خوراک دینا۔

اَزْدَلَمْتُ. الشَّىْ كَانَا۔ جڑ سے کاٹنا۔

اَزْلَمْتُ اَزْلَمَامًا. الشَّىْ سیدھا کھڑا ہونا القَوْمُ: جلدی کوچ کرنا۔ اَزْلَامَتِ الصُّحْبَى: چاشت کے وقت کاروشن ہونا۔

اَلزَّلْمُ. گھریا اس کا پچھلا۔ بے پر کا تیر۔ حِ اَزْلَامُ. قال نکالنے کا تیر۔ اَلزَّلْمُ: ایک قسم کی بوٹی جس کے پھل پھول نہیں ہوتے اور اس کی جڑیں زمین کے بہت اندر اور گرہ دار ہوتی ہیں جس میں جوڑے تخم ہوتے ہیں اور عوام کے نزدیک خب العزیز کے نام سے مشہور ہے۔

اَلزَّلْمَةُ وَ اَلزَّلْمَةُ وَ اَلزَّلْمَةُ. بیت و قد۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ الْعَبْدُ زَلْمَةٌ“ وہ غلام کے مشابہ ہے۔

اَلزَّلْمَةُ. بکری کے کان کا کتا ہوا ٹکڑا جو ٹکتا رہے۔

اَلزَّلْمَةُ. اَلْاَبْرِيْقُ عِنْدَ الْعَامَةِ: بوٹی۔ فصیح لفظ بلبیل ہے۔

اَلزَّلْمُ. پستہ قد۔ سبک دچست۔ ظریف اَلزَّلْمُ وَ اَلزَّلِيمُ. مِنَ السِّهَامِ: عمدہ بنا ہوا تیر۔

اَلزَّلْمُ وَ اَلْاَزْلَمُ. کٹے ہوئے کان والا۔ اَلزَّلْمَاءُ. اَلْاَزْلَمُ كَامُونْتُ۔ مادہ شکر۔ پہاڑی بکری۔ عمدہ بنایا ہوا تیر۔

زَمَمْتُ (ن) زَمَمْتُ. باندھنا القَرْبَةُ: مشک بھرنا۔ زَمَمْتُ اَلْبَعِيْرُ بَانْفِہ: ناک میں تکلیف کی وجہ سے سر اٹھانا الرَّجُلُ بِرَأْسِہ: سر بلند کرنا بَانْفِہ: تکبیر و گردن کشی کرنا القَوْمُ: رفتار میں قوم سے آگے بڑھنا (و زَمَمْتُ) اَلْحِمَالُ: اونٹ کے کھیل ڈالنا۔ زَمَمْتُ النَعْلُ: جوڑے میں تسمہ لگانا اَلذَّنْبُ السَّخِلَةُ: بھیڑیے کا بکری کے بچے کو سر اونچا کر کے لے جانا۔

زَمَمْتُ (ن) زَمَمْتُ. القَرْبَةُ: مشک کا بھرنا نَابُ اَلْبَعِيْرُ: اونٹ کے دانت ٹکٹا۔ (زَمِيمًا) اَلزَّلْمُ: بھڑکا: جھنجھٹانا۔ اَزْمَمْتُ. النَعْلُ: جوڑے میں تسمہ لگانا۔

زَلْفَاتٌ اور يقول بعض الزلف بمعنى رات دن ملنے کے اوقات۔

اَلزَّلْفَةُ. بھرا ہوا حوض۔ پچی۔ کپڑے دھونے کا طشت۔ بڑا پیالہ۔ چھتا پتھر۔ سخت یا جھاڑودی ہوئی زمین۔ ہا۔ حِ زَلْفُ الْعَقْبَةِ (اَلزَّلْفُ) و دروزر گھائی۔

اَلزَّلْفَةُ. آبادی جو میانان اور کشت زار کے درمیان ہو۔ حِ مَزَالِفُ. مَزَالِفُ: کوچ کرنے کی جگہیں۔ واحد مَزْلَفَةٌ۔

زَلْفَتُ. (س) وَ زَلْفَتُ (ن) زَلْفًا. اَلْقَدَمُ: قدم پھسلنا۔ بِمَكَانِہ: طول ہو کر علیحدہ ہونا۔

زَلْفَةُ (ض) زَلْفًا وَ زَلْفَهُ وَ اَزْلَفَهُ. بھسلانا عَنِ مَكَانِہ: دور کرنا۔ علیحدہ کرنا رَأْسَهُ سر موٹنا۔ زَلْفُ الْمَوْضِعِ: بھسلنے والی جگہ بنانا زَلْفُ بَدْنِہ: بدن پر تیل لگانا۔ اَزْلَفَهُ وَ زَلْفَهُ بِنَصْرِہ: غصہ کی وجہ سے تیز نظر سے دیکھنا۔

اَزْلَفْتُ اَلْفَرَسَ: گھوڑی کا تمام بچہ گرائنا۔ تَزَلَّفُ. اس طرح ہنسانور ناکہ چہرے کی رونق بڑھ جائے۔

اَلزَّلْفُ وَ اَلزَّلْفُ وَ اَلزَّلْفُ وَ اَلزَّلْفَةُ. بھسلن کی جگہ۔ اَزْضُ زَلْفِي: چھتی سپاٹ زمین جس میں کچھ نہ ہو۔

اَلزَّلْفُ. وہ شخص جس کو جماع کرنے میں دخول سے پہلے انزال ہو جائے۔

اَلزَّلْفَةُ. چھتی چٹان۔ آئینہ۔ نَافَةُ (زَلْفُوق) تیز رفتار اونٹنی۔ عَقْبَةُ زَلْفُوق: دور دراز گھائی۔

اَلزَّلْفِيُّ. تمام گرا ہوا بچہ۔ اَلزَّلْفِيُّ. ایک قسم کا شتالو۔ واحد زَلْفِيَّةُ۔ اَلمِزْلَاقُ. ایک قسم کا تالا جو بغیر تلی کے کھل جاتا ہے۔ تمام بچہ گرانے والی گھوڑی۔

اَلمِزْلَاقُ وَ اَلمِزْلَاقَةُ. بھسلن کی جگہ۔ اَلزَّلْفُوقُ. کلا۔

زَلَمْتُ (ن) زَلَمْتُ. خطا کرنا اَلْاِنَاءُ: برتن بھرنا اَلْاِنَاءُ: ناک کاٹنا العطاء: کم دینا۔ زَلَمْتُ. نرم کرنا۔ ہموار کرنا اَلرُّوحَى: چکی کو

ایک آبی پرندہ جو صرف پھلی کھاتا ہے۔

الزُمِجِي: پرندہ کی دم کی جڑ۔

زَمِجَةُ الظَّلِيمِ: شتر مرغ کی چوچ۔

المُزْمِج: غضبناک۔

زَمَجْرُ زَمَجْرَةٍ: شور مچانا (وَقَزَمَجْر)

الأسد: شیر کا پتھلاڑا۔

إِزْمَجْرًا: آواز کرنا۔

الزَمَجْرَةُ: سبب بصری۔ زَمَجْرَةٌ كُحْلٌ

شئ: ہر چیز کی آواز۔ جَزَمَجْرًا وَمَزْمَجِيرًا

الزَمَجُ: الزَمَجُ: کینہ۔ پست قدم۔

بد صورت۔ کالے رنگ کا۔ بد صورت و شریر۔

الزَامِع: پھوڑا۔

زَمَعَ (ف) زَمْعًا: تکبر کرنا۔ صفت

(زَامِع) جَزَمْعًا

عَقِبَةُ (زَمَعَ و زَمُوخ) دور دراز و سخت

گھائی۔

زَمَجْرُ: النَّمْرُ: چیتے کا غصہ سے دھاڑنا۔

(العُشْبُ): شگوفہ والا ہونا اور بڑھنا۔

(وَأِزْمَجْرًا) الصَّوْتُ: آواز کا تیز ہونا۔

تَزَمَجْرًا: النَّمْرُ: چیتے کا غضبناک ہونا اور

دھاڑنا۔

الزَمَجْرُ: بڑی بانسری۔ بہت گنجان درخت۔

زَجَلٌ زَمَجْرًا: عالی مرتبہ مرد

(والزَمَجْرِيُّ) کھوکھلی ہڈی۔

الزَمَجْرَةُ: زانیہ عورت۔ زَمَجْرَةٌ

الشَّيْبَابُ: بھرپور جوانی الشَّجْوُ: درخت کا

گنجان ہونا۔

الزَمَجِيرُ: تھوڑا۔

زَمْرٌ (ض ن) زَمْرًا و زَمِيرًا: بانسری بجانا

بالحدیث: بات پھیلانا (زَمْرًا) القَرْبَةُ:

مَنك بمرنا فَلَانًا بَفَلَانٍ: آسانا۔ بھڑکانا (زَمْرًا)

(ض) زَمْرَانًا) الظَّنِّي: ہرن کا بھاگنا۔ بدگنا

(زَمْرًا) النَّعَامُ: شتر مرغ کا آواز کرنا۔

زَمْرٌ (س) زَمْرًا: کم ہالوں والا ہونا۔ بے

مروت ہونا الشَّافَةُ: کم اون والی ہونا۔

زَمْرًا: بانسری بجانا القَرْبَةُ: منک بھڑکانا۔

إِزْمَارًا: غصہ سے سرخ آنکھوں والا ہونا۔

إِسْتَزَمَرَ: الرَّجُلُ عِنْدَ الْهَوَانِ: ذلت کی

وجہ سے متقبض ہونا۔

الزَمْرُ: سبب (والزَمْرُ) آواز۔ جَزَمْرًا

الزَمْرُ: بانسری بجانے والا۔ غِنَاءُ زَمْرًا: عمدہ

گانا۔ کم ہالوں یا کم اون والا۔ کم مروت والا۔

مَوْتٌ زَمْرَةٌ عَظِيمَةٌ زَمْرَةٌ: تھوڑی داد و

دش۔

الزَمَارُ: سبب شتر مرغ کی آواز۔

الزَمِيرُ: سخت و درشت۔

الزَمِيرُ: سبب پست قدم۔ جَزَمَارًا (وَالزَمِيرُ)

خوبصورت لڑکا۔ غِنَاءُ زَمِيرًا: عمدہ گانا۔

الزَمِيرُ وَالزَمِيرُ: ایک قسم کی پھلی جس کی

پیٹھ پر کھڑے کانٹے ہوتے ہیں۔

الزَمَارُ: بانسری بجانے والا۔

الزَمَارَةُ: بانسری۔ زَمَارَةُ الزَامِعِ: ایک

قسم کی نباتات۔

الزَمْرَةُ: گروہ۔ جماعت۔ جَزَمْرًا

الزَمْرُ: گروہ خوبصورت لڑکا۔

الزَمَارَةُ وَالزَمْرَةُ: کم مروتی۔

الزَمَارَةُ: بانسری بجانے کا پیشہ۔

الزَمَارُ: بانسری (الزَمْرُ وَالزَمْرُ)

گیت۔ جَزَمَارِيرًا: مَزَامِيرًا: مَزَامِيرًا: حضرت

داؤد کی دعا اور اس کے مجموعہ کا نام زَمْرُورٌ ہے۔

الزَمْرُودُ وَالزَمْرُودُ: ایک سبز رنگ کا پیش

قیمت پتھر۔ واحد (زَمْرُودَةٌ)

زَمْرُورٌ: الوعاء: برتن کو اچھی طرح سے

بھرنے کے لئے ہلانا۔

زَمْرَمٌ زَمْرَمَةً: الشَّيْءُ: دور سے گنگناہٹ

سنائی دینا النَّارُ: آگ کے بھڑکنے میں آواز

لَكُنَّا الْمُغْنِي: سُر سے گانا۔

الغُلُوجُ: کچی کافروں کا کھانے کے وقت

حلق یا قنٹھوں سے آواز نکالنا اور ایک کا دوسرے

کے مفہوم کو سمجھنا زَمْرَمَةٌ: بھڑکی ہوئی چیز

کو جمع کرنا الشَّيْءُ: حفاظت کرنا۔

تَزَمْرَمٌ: الجَمَلُ: بھیدانا۔ تَزَمْرَمَتْ بِهِ

شَفْتَاهُ: حرکت کرنا۔

مَاءٌ (زَمْرَمٌ و زَمْرَمٌ و زَمْرَمٌ) (وَمَزْمَرًا)

بہت پانی۔ کچھ کھاری پانی۔ زَمْرَمٌ: کعبہ معظمہ

حرسہ اللہ کے نزدیک ایک کونین کا نام۔

الزَمْرَمَةُ: سبب بادل کی گرج۔ آگ کے

بھڑکنے کی آواز۔ شیر کی گوج۔ جَزَمْرَمًا

الزَمْرَمَةُ: اونٹوں یا آدمیوں کا گروہ۔ جَزَمْرَمًا

زَمْرَمًا و زَمْرَمًا

الزَمْرُومُ وَالزَمْرُومُ وَالزَمْرِيمُ: مین

الابلی: عمدہ اونٹوں کی جماعت۔ اونٹوں کا

گلد۔ جَزَمْرَمِيمًا

زَمْعٌ (س) زَمْعًا: منہ: سرگشتہ و حیران

ہونا۔ گھبرانا۔

زَمْعٌ (ف) زَمْعًا و زَمْعَانًا: الازنب:

خزگوش کا تیز چلنا۔ آہستہ آہستہ چلنا۔

أَزْمَعٌ و زَمْعٌ: الأَمْرُ و عَلِيَّةٌ و بِهِ: ثابت

قدم رہنا۔ پختہ ارادہ کرنا۔ وَأَزْمَعُ الكَوْمُ:

انگور کی شاخوں کا گروہ دار ہونا۔ زَمْعٌ

الزَمْرُورُ: بھڑکا بھجھکانا۔ أَزْمَعَتِ الازنب:

خزگوش کا ہلکا پھلکا اور تیز دوڑنا۔

الزَمْعُ: سبب چھوٹی تنگ نالیوں۔ کینے و رذیل

لوگ۔ کہا جاتا ہے "هُوَ مِنَ الرَّعَاعِ

وَالزَمْعُ" وہ پست اور لونی لوگوں میں سے

ہے۔ انگور کی شاخ کی گروہ آہستہ سیلاب۔ انگلی

کی مقدار متعاد سے زائد بے قراری۔ کسی کام

کے سوچنے کے وقت کی ٹپکھی جَزَمْعًا

(وَالزَمْعُ) پختہ ارادہ۔

الزَمْعَةُ: کھلا۔ کہا جاتا ہے "أَرْضٌ فِيهَا

زَمْعَةٌ مِنَ النَّبْتِ" زمین کہ اس میں گھاس کا

ایک کھلا ہے۔

الزَمْعَةُ: جَزَمْعًا و زَمْعًا: بکری یا ہرن کی

ٹانگ میں پھیلی جانب کے لگے ہوئے بال۔

جَزَمْعًا: چھوٹا ٹیلہ۔

الزَمْعِيُّ: خسیں۔ جلدی غصہ میں آجانے

والا۔

الزَمْعُ: بے ڈنک کی بھڑ۔ وہ شخص جو اپنی

ضروریات میں چست نہ ہو۔

الزَمَاعَةُ: دیر۔

الزَمِيعُ: پختہ ارادہ والا بہادر۔ عمدہ رائے

والا-ج زَمَعَاء (وَالزَّمُوع) جلد باز۔
 الْأَزْمَعُ جلاک مرد۔ مکروہ بات۔ ج
 أَرَمَعَ زَجَلُ أَرَمَعَ: زاندا نقل والا مرد۔
 الْمَزْمِعُ جلاک ثابت قدم پختہ ارادہ والا۔
 زَمَقَ (ن س) زَمَقًا الْقَفْلُ: تالا کھولنا۔
 اللخية: دالھی نوچنا۔ صفت مفعولی۔
 (زَمِيْقَةٌ وَزَمُوْقَةٌ) کہا جاتا ہے "مما اغنى
 عنه (زَمَقَةٌ) یعنی اس نے کچھ فائدہ نہیں دیا۔
 زَمَكَ (ن) زَمَكًا: چپ رہنا (وَزَمَكَ)
 الْقَرْيَةَ: مٹک بھرنا۔ زَمَكُهُ عَلَيَّ: بھڑکا
 بھڑکا کر غصہ دلانا۔
 إِزْمَاكَ: سخت غضبناک ہونا۔
 الزَمَكَ: سخت غصہ۔ کسی چیز کا آپس میں گٹھ
 جانا۔
 الزَمَكَةُ: مِنَ الرِّجَالِ: جلدی غضبناک
 ہونے والا۔ بیوقوف۔ پستہ قدر۔ ج
 الزَمَكُونُ:
 الزَمِيكِيُّ وَالزَمِيكُ: پرندہ کی دم یا اس کی
 جڑ۔
 زَمَلٌ (ن ض) زَمَالًا الْأَعْرُجُ: لنگڑے کا
 ایک جانب جھکے ہوئے دوڑنا۔
 زَمَلَتْ (ن) زَمَلًا وَزَمَلًا وَزَمَالًا وَ
 زَمَلَانًا الدَابَّةُ: نشاط کی وجہ سے لنگڑاتے
 ہوئے چلنا (زَمُولًا) الْقَوْسُ: کمان سے
 آواز لگانا (زَمَلًا) الرَّفِيقُ: اپنے پیچھے سوار
 کرنا الرَّجُلُ: بیرونی کرنا الشَّيْءُ: لادنا۔
 زَمَلُ الشَّيْءِ: چھپانا الشَّيْءُ بِشَوْبِهِ اَوْفَى
 فَوْبِهِ: لپٹنا۔
 زَمَلُ الرَّفِيقِ: محل میں ایک جانب سوار
 کرنا۔
 تَزَمَلٌ وَإِزْمَلٌ وَإِزْدَمَلٌ بِشَوْبِهِ: لپٹنا۔
 إِزْدَمَلُ الْجَمَلِ: ایک دفعہ میں لادنا۔
 الرَّؤْمَلُ: جانور پر پیچھے سوار ہونے والا ساتھی
 بوجھ۔
 الزَّمَلُ وَالزَّمَلَةُ وَالْأَزْمَلَةُ: عیال۔ بال
 بچے۔
 الزَّمَلُ وَالزَّمَلُ وَالزَّمِيلُ وَالزَّمِيلَةُ

وَالزَّمَلُ وَالزَّمَالُ وَالزَّمَالَةُ وَالزَّمِيلُ
 وَالزَّمِيلَةُ: کمزور۔ بزدل۔
 الزَّمِيلَةُ: ساتھی لوگ۔ جماعت۔ گروہ۔
 الزَّمِيلَةُ: الزَّمَالُ کا مؤنث۔ بار برداری کا
 جانور۔ ج زَوَامِلُ۔
 الزَّمِيلُ: جانور پر پیچھے سوار ہونے والا
 ساتھی۔ آج کل کی زبان میں پیشہ میں شریک
 کے لئے مستعمل ہے۔
 الْأَزْمَلُ: مخلوط آواز۔ ج أَرَامِلُ أَرَامِيلُ
 تمام۔ سارا۔ کہا جاتا ہے "أَخَذَ الشَّيْءُ بِأَزْمَلِهِ
 وَبِأَزْمَلِهِ" اس نے چیز کو تمام لے لیا۔
 الْأَزْمَلُ: بزدل۔ کمزور۔
 الْأَزْمَلَةُ: کمان کی آواز۔ تمام سارا۔ کہا جاتا
 ہے "أَخَذَهُ بِأَزْمَلَتِهِ" اس نے ساری چیز لے
 لی اور کہا جاتا ہے "لَهُ عِيَالٌ أَزْمَلَةٌ" اس کے
 بہت بال بچے ہیں۔
 الْأَزْمُوْلَةُ وَالْإِزْمُوْلَةُ: آواز کرنے والا
 پہاڑی بکر لیاہرن وغیرہ۔
 الْإِزْمِيلُ: راہی۔ چھینی۔ ہتھوڑا۔ مضبوط
 مرد۔ کمزور مرد۔ (ضد)
 الْمُزْمَلُ وَالْمُزْمَلُ: کپڑوں میں لپٹنے والا۔
 الْمُزْمَلَةُ: الْمُزْمَلُ کا مؤنث۔ پانی سرد کرنے
 کا گھڑیامٹکا۔
 زَمِنَ (س) زَمَنًا وَزَمَنَةً: لچا ہونا۔
 أَرَمِنَ: الشَّيْءُ: دیر تک باقی رہنا ہ اللہ:
 لےنے پنے میں مبتلا کرنا بِالْمَكَانِ: مدت تک
 اقامت کرنا۔ کہا جاتا ہے "أَرَمِنَ عَنِّي
 عَطَاؤُكَ"
 الزَّمِنُ: ج أَرَمَانٌ وَأَرَمِنٌ (وَالزَّمَانُ) ج
 أَرَمِنَةٌ (وَالزَّمِنَةُ) وقت۔ أَرَمِنَةُ السَّنَةِ:
 سال کی چاروں فصلیں۔ بہار۔ گرگی۔
 برسات۔ جاڑ۔ زَمِنٌ (زَمِنٌ) سخت زمانہ۔
 الزَّمَانَةُ: آفت۔ لچا پنے۔ قوتوں کی بے
 حسی۔ محبت۔
 الزَّمِينُ: ج زَمُونٌ (وَالزَّمِينُ) ج زَمِينِي
 وَ زَمِنَةٌ: لچا۔ کہا جاتا ہے "فَلَمَّا زَمِنَ
 الرَّغْبَةَ" فلاں کمزور خواہش والا ہے۔

عَامِلَةٌ (مُزَامِنَةٌ) اس نے اس سے کچھ وقت
 کے لئے معاملہ کیا۔
 الْمُزْمِنُ: فَا. مَرَضٌ مُزْمِنٌ: پرانا مرض۔
 زَمَنَ (س) زَمَنًا: الْحَرُّ: گرمی تیز ہونا۔
 الرَّجُلُ بِالْحَرِّ: گرمی تیز لگانا۔
 زَمَهَتْ (س) زَمَهًا: الشَّمْسُ: الرَّجُلُ:
 تیز دھوپ لگانا۔
 زَمَهَرَتِ الْعَيْنُ: آنکھ کا غصہ سے سرخ
 ہونا۔
 إِزْمَهَرُ: الْيَوْمُ: سخت سردی والا ہونا۔
 الْوَجْهُ: چہرہ کا بگڑنا الْكَوَاكِبُ: ستاروں
 کا چمکنا الْعَيْنُ: آنکھ کا غصہ سے سرخ ہونا۔
 الزَّمَهْرِيُّ: سخت سردی۔
 الْمُزْمَهْرُ: سخت غضبناک۔ ہٹنے والا۔
 إِزْمَهَلُ: الْمَطَرُ: برسا الشَّلْجُ: برف کا
 پھلنے کے بعد بہنا۔
 زَمِنَ (ن) زَمَنًا: غَضَبُهُ: پٹھے کا خشک ہونا۔
 الرَّجُلُ: ڈھیلے جوڑوں والا ہونا زَمَنَهُ
 وَأَزَمَنَهُ: بِخَيْرٍ أَوْ شَرٍّ: نیک یا بدگمان کرنا
 بِكَذَا: تہمت لگانا۔
 زَمِنَ الرَّجُلُ: بِمِشْمَاشٍ كَمَا:
 الزَّمِنُ: مَاش۔
 الزَّمِنُ: تھک۔ مَاءٌ زَمِنٌ: تھوڑا پانی۔ ظِلُّ
 (زَمَانٌ) تھوڑا سایہ۔
 حَنْطَةٌ (زَمَنَةٌ) گیبوں جس کو بارش کے علاوہ
 پانی دیا گیا ہو۔
 الزَّمِينُ: یا خاندان یا پیشاب روکنے والا۔
 أَبُو زَمَنَةَ: گھوڑ۔
 زَمَانًا (ف) زَمَانًا وَزَمَانًا: الْيَهُ: پناہ لینا فِی
 الْجَبَلِ: پہاڑ پر چڑھنا الظِّلُّ: سایہ کا سناٹا
 الرَّجُلُ: خوش ہونا۔ جلدی کرنا۔ زمین سے
 چمٹا ہونے زَمَانًا: پیشاب روکنا۔
 بَوْلُهُ زَمَانًا: پیشاب روکنا۔
 زَمَانًا عَلَيْهِ: ٹھگی کرنا۔
 إِزْمَانًا إِزْمَانًا: مجبور کرنا۔ چڑھانا۔ باز رکھنا۔
 الزَّمَانُ: پستہ قدر۔ پیشاب یا خاندان روکنے والا۔
 تھک۔ قبر۔

الزنجى. چھوٹی مکھ۔

زَنْب (س) زَنْبًا. موٹا ہونا۔

الْأزْنِب. موٹاپے قد۔

الزنجب. بزدل۔ ایک خوشبودار خوش منظر

درخت۔

الزائىبى. آہستہ چال۔

زَنْبَابَةُ. العُقْرَب: چھو کا ٹک۔

تَزْنِبُ. عَلَيْهِ: تکبر کرنا۔ ترش روی کرنا۔

الزنجير. شیر۔

الزنجور. بھڑ۔ ایک درخت جو چنار کی مانند

ہوتا ہے۔

الزنجيرى. بھاری بھر کم مرد۔ بڑی کشتی۔ کہا

جاتا ہے سَفِينَةُ زَنْبِيرِيَّةٌ

الذئبَارُؤْمَيْسُ والى كعسى

أَرْضٌ (مَنْوَرَةٌ) بہت بھڑوں والی زمین۔

الزنجيرك. گھڑی کا اسپرنگ (یہ کلمہ فارسی

ہے) اس کے مقابلہ میں ”النابض“ کا کلمہ

وضع کیا گیا ہے۔

الزنباعة. چرمی موزے یا جوتے کی نوک۔

الزنجى. سوس سفید یا سفید چینی۔ واحد

زَنْبَقَةٌ. چینی کا تیل۔ ہانسی۔ ج زنايق اُمّ

زَنْبِق. شراب۔

الزنجيل. پتہ قدمرد۔

تَزْنَبُ. تازے چلانا۔

الزنجرة. تنگی۔ عورت۔

زَنْج (س) زَنْجًا. پیاس سے آنسو کا

سکڑنا۔

زَنْجَةٌ بُرَائِيَا بھلائی کا بدلہ دینا۔

تَزْنَج. عَلَيْهِ دُست درازی کرنا۔

الزنج. والوزنج. جیشی واحد (زنجی) ج

زَنْوَج.

الزواج بدلہ۔

الزنجب والوزنجبان کبرند۔

الزنجبة بگدی جس کو عورتیں اپنے سر میں پر

پیرا معلوم ہونے کیلئے پاندھتی ہیں۔

الزنجبيل. سوٹھ۔ شراب۔

زَنْجَرٌ اُكْمُوْطُے کے ناخن کو اگھٹت شہادت

کے ناخن سے مارنا۔

الزنجار. تانے کارنگ۔

الزنجير والوزنجيرة. سیدی جو جوانوں

کے ناخن پر ہوتی ہے۔ الوزنجير: ناخن کا کٹنا

ہواصہ۔ زنجیر۔ اس سے فعل کا اشتقاق کرتے

ہیں اور کہتے ہیں (زَنْجُوهُ فَتَزْنَجُو) یعنی اس

نے اسے قید کیا اور وہ قید ہو گیا اور عوام کہتے

ہیں۔ جَنْزِيرٌ وَجَنْزِرَةٌ.

الوزنجف والوزنجفرف. شکر۔

الوزنجيل. کمزور و سست بدن والا مرد۔

زَنْجَعُ (ف) زَنْجًا. تعریف کرنا۔ دفع

کرنا۔ معاملہ میں تنگی کرنا۔

زَنْجَعُ. ایک دوسرے کی تعریف کرنا۔

زَنْجٌ وَتَزْنَجُ. الماء: بار بار پانی پینا و تَزْنَجُ

الوزجلى: کھل کر گھنگو کرنا۔ اپنے آپ کو

مرتبہ سے زیادہ ظاہر کرنا۔ کسی معاملہ یا فرض

میں تنگی برتنا۔

الزنج. بدلہ۔

زَنْج (ف) زَنْجًا. الدهن: تیل کا بگڑنا۔

خراب ہونا۔ صفت (زنج)

زَنْج (ن ض) زَنْوَجًا. القواد: چھڑی کا

چھٹنا۔

زَنْجَعُ. ایک دوسرے کو پھٹانا۔

تَزْنَجُ. تکبر کرنا۔ کھل کر گھنگو کرنا۔

ابيل (زَنْجَعُ) پیاس کی وجہ سے سٹھے ہوئے

پھینٹ والے اونٹ۔

زَنْجُو. بِمَنْحُوْرِهِ: خزانے لینا۔

زَنْدَلَن (ض) زَنْدًا. الاناء: برتن کو بھرنا۔

النار: چھتاق سے آگ نکالنا۔

زَنْدَلَس (س). زَنْدًا. الرجل: نیا سا ہونا۔

زَنْدَجُوْطُ بولنا۔ چھتاق سے آگ نکالنا۔

السقاء: مکھ بھرنا فى الامر: تنگ دل

ہونا عَلَى اَهْلِهِ: سختی برتنا۔ کہا جاتا ہے ”مَا

يُزْنِدُكَ اَحَدٌ عَلَيْهِ“ یعنی تمہارے لئے کوئی

زیادہ نہیں کرے گا۔

اَزْنَدُ. الشئ: زیادہ ہونا۔ کہا جاتا ہے ”مَا

يُزْنِدُكَ اَحَدٌ عَلَيْهِ“ یعنی تمہارے لئے کوئی

زیادہ نہیں کرے گا لَوْجُلٌ فِى وَجْعِهِ: مرد کا

اپنی بیماری میں دوبارہ مبتلا ہو جانا۔

تَزْنَدُ. غضبناک ہونا۔ جواب نہ دے سکتا۔ تم

کہتے ہو ”سَأَلْتُهُ مَسْئَلَةً فَتَزْنَدُ“ میں نے اس

سے ایک مسئلہ پوچھا اور وہ جواب نہیں دے

سکا۔

فِى الْاَمْرِ كَذَا: تنگ دل ہونا۔

الزوند. سر ہاتھ کا گٹھا۔ چھتاق کی اوپر والی

لکڑی یا پتھر اور نچلے کو (الزوندة) اور دونوں کو

(الزندان) کہتے ہیں۔ ج زناد وازند

وازناد

اور کہا جاتا ہے ”فَلَانٌ وَاِرى الزند“ فلاں

کامیاب ہے۔ و ”فَلَانٌ كَتَبِى الزند“ فلاں تا

کامیاب ہے و ”هُمَا كَزَنْدِيْنِ“ وہ دونوں

مساوی ہیں، اس کا استعمال عوماندانت و دست

میں ہوتا ہے اور ان دونوں آدمیوں کیلئے بھی

بولتے ہیں جن کی وجہ سے حاجت پوری ہو اور

جو تمہاری مدد کرے اس کیلئے کہتے ہو ”وَدَتْ

بِكَ زِنَادِي“ یعنی تمہاری وجہ سے میری

حاجت پوری ہوئی۔

المزوند. تنگ۔ بخیل۔ منہ بولا ہونا۔ کم چوڑا

کپڑا۔ سطاء مزوند: تھوڑی بخشش۔

تَوْنَدُق. بے دین ہونا۔ دو خدا ماننا۔ باطنی کافر

ہونا۔ صفت زَنْدِيْق. ج زَنْدِاقَةٌ وَزَنْدِاقِي.

الزوندقة. ظاہری ایمان و باطنی کفر۔ رَجُلٌ

(زَنْدُقِي وَزَنْدِاقِي) بہت بخیل۔

زَنْوَن (ن) زَنْوًا. الاناء: برتن بھرنا۔

الغلام: لڑکے کو جینیو پھٹانا۔

زَنْرُ. اِلَى بَعْضِيْهِ گھوم کر دیکھنا۔

تَزَنْرُ. جینیو پھٹانا الشئ: ناریک ہونا۔

الزَنْوَار. ج زَنْوَانِيْرُ وَ (الزَنْوَارَةُ) جینیو۔

الزَنْوَانِيْرُ چھوٹی کنگریاں۔

الزَنْوَالِنَحْتُ ایک درخت کا نام۔

زَنْف (س) زَنْفًا وَتَوْنَفُ. غضبناک

ہونا۔

زَنْوَوَان (ض) زَنْفًا وَرَنْقُ. الفرس:

گھوڑے کا نچلے جڑے کے نیچے تمہ لگانا۔

البغل: حجر کی ٹانگوں میں پائے بند باندھنا۔
(وَزَقَّ وَأَزَقَّ، عَلَى أَوْلَادِهِ: اولاد پر نطقہ میں بھگی کرنا۔)

الزئق: نیزے کی نوک۔ گھوڑے کا چھلا جزا جہاں تسمہ باندھتے ہیں۔ جَزْزُوق۔
الزئقة: بھگی۔

الزئاق: گھوڑے کے نچلے جڑے کے نیچے کا تسمہ۔ حجر کا پائے بند۔ گوبند۔ عورتوں کا ایک زبور۔ جَزْزُوق۔

الزئاقہ: گھوڑے کے جڑے کے نیچے کے تسمہ کا حلقہ۔

الزئيق: درست۔ مضبوط۔ کہا جاتا ہے "زَأَى زَيْقٌ" درست رائے۔

المزئوق: تیر بند پیشاب والا۔
الزئوك (علم کیمیا) توتیا۔

زئم: لَهُ الْخِصْمُ: کسی کو وکیل خصوصت بنا کر بھیجنا۔

الزئمة: کان کا وہ حصہ جو کات دیا جائے اور لگتا رہے۔ حلق کے نیچے کا لگتا ہوا گوشت۔

علامت زئمتنا الأذن: کان کی لوکے قریب اُچھرا ہوا حصہ۔ کہا جاتا ہے "فِي كَلَامِهِ زَائِمَةٌ خَيْرٌ وَأَزَائِمَةٌ شَرٌّ" یعنی اس کے کلام میں خیر یا شر کی علامت ہے۔

الزئم: مِنَ الْجَمَالِ: اونٹ جس کے کان کا کچھ حصہ کات دیا جائے اور وہ لگتا رہے۔ مؤنث زئمة۔

الأزئم: مِنَ الْجَمَالِ: بمعنی الزئم۔ مؤنث زئماء۔ جَزْزُوق۔

الزئام: مصیبت۔

الزئيم: كَيْفَ مِنْهُ يُولَايِلَا (وَالْمُزَيَّمَةُ) اجنبی آدمی جو قوم میں داخل ہو جائے اور قوم کے لوگ اس کے حاجت مند نہ ہوں۔

نَاقَةُ (مَزَيَّمَةٌ) اونٹنی جس کے کان کا کچھ حصہ کات کر لگتا ہوا چھوڑ دیا جائے۔

زَنَا (ن) زَنَوًا: بھگ ہونا۔ صفت (زَيٌّ) زَيٌّ تَزْيِيَةٌ عَلَيْهِ: بھگی کرنا۔

زَيٌّ (ض) زَيٌّ وَزَيٌّ وَزَانِيٌ مُزَانَاةٌ

وَزَيَّاءٌ: زنا کرنا۔ صفت (زَانٍ) جَزْزَانَةٌ۔ صفت مؤنث زَائِيَةٌ جَزْزَوَانٌ۔

زَيٌّ ۵: زنا کی نسبت کرنا یا زانی کہا۔
أَزَيُّ إِزْيَاءٌ: زنا کرنے پر اکسانا۔

الزَيَّاءِيَةُ: زنا کرنے والا۔ (تاسما لعلیٰ ہے۔)
الزَيَّاءَةُ: بہت زنا کرنے والی۔ بندریہ۔

الزَيَّوِيَةُ: مرد کا آخری بچہ۔
زَه: کلمہ استحسان بمعنی خوب اور کبھی تحکم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے بُرَّائِي کرنے والے کے لیے کہا جائے "أَحْسَنَتْ"

زَهْدٌ وَ زَهْدٌ (س ف) وَزَهْدٌ (ك) زُهْدًا وَ زَهَادَةً: فِي الشَّيْءِ وَ عَنَهُ: بے رغبتی کر کے چھوڑ دینا اور اسی سے ہے "زَهْدٌ فِي الدُّنْيَا" اس نے دنیا سے منہ موڑ کر اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لیا۔ صفت فاعلی (زَاهِدٌ) و صفت مفعولی (مَزْهُودٌ) فِيهِ وَ عَنَهُ۔

زَهْدٌ زَهْدًا: النَخْلَةُ: سمجھور کے درخت پر پھلوں کا اندازہ کرنا۔

زَهْدَةٌ: فِي الشَّيْءِ وَ عَنَهُ: بے رغبت کرنا۔ (زَهْدٌ وَأَزْهَدٌ) النَحْلُ: سمجھور کے درخت پر پھلوں کا اندازہ کرنا۔

تَزَهَّدَ: عبادت کے لیے دنیا کو چھوڑ دینا۔
تَزَاهَدَ: الْقَوْمُ فَلَانًا: حقارت کرنا۔

إِذْهَدَ: الشَّيْءُ: کم سمجھنا۔ کہا جاتا ہے "نَحَلْ (زَهْدٌ) مَا يَكْفِيكَ" جتنا تم کو کافی ہو اس کو لے لو۔

الزُهْدُ وَالزَّهَادَةُ: حقارت کی وجہ سے بے رغبتی۔

الزُهْدُ: زَكْوَةٌ: جَزْزَاهِدٌ۔

أَرْضٌ (زَهَادٌ) زَمِينٌ جو بہت پانی برسنے سے بے۔

الزُهْدُ: فَاءُ: آخرت کی محبت کی وجہ سے دنیا سے بے رغبتی۔ بھگ۔ جَزْزُوق۔ زُهْدٌ وَ زَهَادٌ وَ زَاهِدُونَ۔

الزُهَيْدُ: کم حقیر۔ مؤنث زَهَيْدَةٌ: کہا جاتا ہے "هُوَ زَهَيْدٌ الْخَلْقِ" وہ بھگ ہوئے۔

"هُوَ زَهَيْدٌ الْعَيْنِ" وہ میرے چشم سے۔ تھوڑے پر قناعت کرتا ہے۔ "وَأِدْ زَهَيْدٌ" کم پائی کو لینے والی وادی۔ جَزْزُهْدَانٌ۔

الزُهَيْدُ: بہت بے رغبتی کرنے والا۔

زَهْرٌ (ف) زَهْوَرًا: السِّرَاجُ او الْقَمَرُ او الْوُجْهُ: چمکتا روشن ہونا۔ الشَّيْءُ: صاف رنگ والی ہونا۔ الزَّهْدُ: چھتا ہے آگ روشن ہونا۔ کہا جاتا ہے "زَهْرَتْ بِكَ زَيْدِي أَوْ نَارِي" تمہاری وجہ سے مجھے قوت حاصل ہوئی اور میں معزز ہوا۔

زَهْرٌ (س) زَهْرًا: او زَهْرٌ (ك) زُهْوَرَةٌ: الرَّجُلُ: خوبصورت و بارونق ہونا۔
أَزْهَرُ: النَّبَاتُ: کلی دکھانا۔ ناز۔ آگ روشن کرنا۔
إِذْهَرُ: روشن ہونا۔ چمکدار ہونا۔
بِالْأَمْرِ: نگہداشت کرنا۔ دل میں رکھنا۔ کہا جاتا ہے "إِذْهَرُ بِهِذَا فَإِنَّ لَهُ شَانًا" اس کی حفاظت کرو اس لیے کہ اس کیلئے ایک خاص شان ہے۔
إِزْهَرُوا زَهَارًا: النَّبَاتُ: کلی لانا۔ ٹھونڈا ہونا۔
تَوَازَهَرُوا: السِّرَاجُ وَ نَخْوَةٌ: چراغ وغیرہ کا روشن ہونا۔
الزَّهْرُ وَالزَّهْرُ: کلی۔ ٹھونڈا۔ واحد (زَهْرَةٌ) وَ زَهْرَةٌ (زَهْرَةٌ الدُّنْيَا: دنیا کی رونق و خوبی۔ جَزْزُ أَزْهَرُ وَأَزْهَارُ وَ زُهْوَرُ: جَزْزُ أَزْهَرُ وَأَزْهَابِيرُ: زَهْرُ النَّوْدِ: تاش۔
الزَّهْرُ وَالزَّهْرَةُ: حاجت۔ کہا جاتا ہے "قَضَيْتُ مِنْهُ زَهْوِيٌّ وَ زَهْوِيٌّ" اس سے میں نے اپنی حاجت پوری کی۔
الزَّهْرُ: مینے کی پہلی تین راتیں (مانند غیر کے)۔
الزَّهْرَةُ: خوبصورتی۔
الزَّهْرَةُ: ایک سیارے کا نام جو کہ سورج سے ۱۰۸ ملین کلومیٹر دور ہے۔ اس کی چمک کبھی صبح کے وقت کبھی شام کے وقت بہت ہوتی ہے۔

بدی میں گھٹا گھٹکو میں زیادتی کرنا فی کلامہ: سختی کرنا اور آواز بلند کرنا۔

زہق (ف) زُهِقًا. العظم: بڑی کامفر سے پڑھنا الباطل: نیست و نابود ہونا۔ کمزور ہونا (زُهِقًا و زُهِقًا) النفس: روح کا جسم سے لگانا (الراحلة: سواری کا آگے بڑھنا الشئ: تباہ ہونا۔ ہلاک ہونا السہم: تیر کا نشانہ سے گزر جانا۔

أزھق: العظم: بڑی کامفر سے پڑھنا۔ الإناء: برتن بھرتا الباطل: باطل کو نیست و نابود کرنا السہم: تیر کا نشانہ سے گزارنا الناقۃ السرج: زین کو آگے بڑھا کر گردن پر ڈال لینا السیر: تیز چلنا۔

زأھق: الحق الباطل: حق کا باطل کو نیست و نابود کرنا الإناء: برتن کو اٹھ دینا۔ انزھق: آگے بڑھنا انزھقت الدابة: مار وغیرہ سے اچھلنا۔

الدأھق: پست زمین و (الذھق) گڑھا۔ الزأھق: فا۔ مونا جانور۔ قوی۔ لاغر (ضد) شکست خوردہ من السہام: نشانہ سے تجاوز کرنے والا تیر من البیاء: تیز بے والا پانی۔ ن زُھق و زُھق (والزُھوق) ہلاک ہونے والا۔ باطل۔ گہرا کنواں۔

الزھق: پھرتیلا۔ سب۔ فرس (زھقی) سبقت لے جانے والا گھوڑا۔

الزھاقۃ: الزأھق کا مؤنث۔ بشر زھاقۃ: گہرا کنواں۔

الزھاق والزھاق: مقدار۔ تقریباً۔ کہا جاتا ہے "عندی زھاق مائتہ دینار" میرے پاس تقریباً سو دینار ہیں۔

جاءت الخیل (ازأھق و ازأھیق" گھوڑوں کی متفرق جماعتیں آئیں۔

الزُھوقۃ: عجیب قسم کی دوڑ۔ ن ازأھیق کہا جاتا ہے "فرس ذات ازأھیق" عجیب قسم سے دوڑنے والا گھوڑا۔

المزھقۃ: سب بطلان۔ سب ہلاکت۔ کہا

الازھر: روشن۔ صاف رنگ والا۔ روشن چہرہ والا۔ جمع کادن۔ تازہ دودھ۔ سپید رنگ کا شیر۔ چاند۔ جنگلی تیل۔ مؤنث زھراء ج زھر۔

الزھار: بہت چمکدار۔ کہا جاتا ہے "نجم زھار و قمر نوار"۔ المزھر: فا۔ مہمانوں کیلئے آگ روشن رکھنے والا۔

المزھر: ایک قسم کا باجا۔ ج مزھر۔ زھرف: الشئ: کھونا پانا۔

زھرق: الرجل: بہت ہنسا۔ زھرقت الأم و ولدها: ماں کا بچہ کو کدانا۔ الزھرق: کینہ۔ فرومایہ۔

زھف (ف) زُھفًا. الرجل: ذلیل ہونا۔ ہلاک ہونا۔ جموت ہونا للموت او الی الموت: قریب المرگ ہونا۔

زھف (س) زُھفًا. الشئ: جلدی کرنا۔ چست ہونا۔

أزھف: الیہ الطعنة: قریب کرنا۔ أزھفته الطعنة: قریب پہ ہلاکت کرنا۔

أزھف علی الجریح: حملہ کر کے فوراً مار ڈالنا الرجل: جموت ہونا۔ خیانت کرنا۔ چغل خوری کرنا۔ بُرائی کی طرف جلدی کرنا فلاں۔

ذلیل کرنا۔ کسی کے ساتھ بدی کرنا۔ ہلاک کرنا الشئ: ڈھیلا کرنا۔ جلدی کرنا۔ لے جانا۔ خراب کرنا۔

ہ بالشئ: بُرائی پر آسانا بما طلبہ: پورا کرنا بالشئ: تعجب کرنا الخیر: خبر میں زیادتی کرنا حدیثا: جموتی بات بیان کرنا

الیہ حدیثا: قول رومی کی نسبت کرنا۔ انزھقت الدابة: مار وغیرہ سے اچھلنا۔ تزھف: عنہ: اعراض کرنا۔

أزھف: الی الموت: موت سے قریب ہونا عنہ: اعراض کرنا الشئ: منحرف ہونا

ہ: جلدی کرنا۔ ہلاک کرنا الدابة: جانور کا گرد یا الشئ: وہ لے جانا لعداوة و بہا: دشمنی اختیار کرنا الحمل: بوجھ اٹھانا فلاں:

شام اور عراق کے آس پاس باشندے اس کو پوجتے ہیں اوز اس کو اعزری کا نام دیتے ہیں۔ بعض قدماء کے نزدیک خوبصورتی کا دیوتا ہے۔

الزھرة: بادیاات الزھر: پھولوں میں اعضاء متاسل کا مجموعہ۔ بادیاات الزھر: انگریزوں کی ایک شاخ جن میں اعضاء متاسل ظاہر ہوں اور ان کو اللذھو کا نام دیا جاسکتا ہے۔

مستورات الزھر: انگریزوں کی وہ قسم جو کہ نہ پھول نکالیں اور نہ ان کا دانہ نکلے۔

زھرة اللام: زمین پر لگی ہوئی خوبصورت انگریز جس کے بڑے بڑے پھول ہوتے ہیں اس کے پھول مسک کو عذاب دینے کے اوزار کے مشابہ ہوتے ہیں خوبصورتی کے لئے بوئی جاتی ہے۔

زھرة الحواشی: خنڈیری پھولوں کی قسم ہے۔

زینت کے لئے اور جو شانہ کے لئے استعمال ہوتی ہے۔

زھرة الربیع: باغوں میں موسم ربیع میں لگائے جانے والا پھول جو کہ زینت کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اس قسم کے پھول کئی انواع پر ہیں۔

زھرة من فصيلة المُرکبات: ایک انگریز جس کے پتے زمین پر پھیل جاتے ہیں چھوٹا سا تباہ ہوتا ہے جس پر چھوٹے چھوٹے پھول ہوتے ہیں۔

زھرة العسل: ایک درخت جس کے پھول زرد یا سرخی مائل ہوتے ہیں۔

زھرة الضمد: خوبصورتی پتوں والا پودا۔ الزھیرة: ابتدائی چھوٹے چھوٹے پھول۔

المزھریة: شخصے کا برتن پھول سجانے کے لئے۔

الزھر: فا۔ خوشنابود۔ چمکدار صاف رنگ والا۔ کہا جاتا ہے "أحمر زھر" بہت سرخ۔

الزھریة: نازکی چال۔ کہا جاتا ہے "ھو یمشی الزھریة" وہ ناز سے چلتا ہے۔

جاتا ہے ”جمل مزہفة لا زواج المصطی“ اونٹ سواریوں کی روح کیلئے باعث بلاکت ہیں۔ یعنی سواریاں پوری کوشش کرتی ہیں اور اونٹوں کے ساتھ لاحق نہیں ہوتیں۔
زَهْلَقُ (ف) زَهْلَقًا. کوئیالریخ الارض:
ہوا کا خاک کو اڑانا۔

زَهْل (س) زَهْلًا. الشئ: سفید و چمکانا ہوتا۔

زَهْل (ف) زَهْلًا. عَنِ الشئ: دور ہونا۔
الزَهْل. فَا. مطین دل والا۔
الزَهْلُول. چمکانا۔ عَ هَالِيل.

زَهْل (زَهْلَب) سبک دماغی والا مرد۔
زَهْلَقُ. الشئ: چمکانا سفید کرنا۔ کہا جاتا ہے
”زَهْلَقُ لَهُ الْحَدِيثُ“ اس نے اس کو نرم
گفتگو سے مخاطب کیا۔

تَزَهْلَقُ. چمکانا و سفید ہونا و تَزَهْلَقُ
الْحَيَوَانَ“ مونا ہونا۔

الزَهْلِقُ. چمکانا۔ ہلکا ہلکا تیز آدمی۔ تیز ہوا۔
حق کی لو کی جگہ۔ حمار زَهْلِقُ۔ ہموار پیٹھ و
مونا گدھا۔ ج زَهْلِقُ.

الزَهْلُوقُ. مونا۔

زَهْم (ن) زَهْمًا وَازْهَمَ. العَظْمُ: ہڈی کا
پر مغز ہونا۔ زَهْمَهُ عَنْ كَذَا: روکنا۔ زَهْمُ
الرَّجُلِ عَلَيْهِ: بہت باتیں کرنا۔

زَهْم (س) زَهْمًا. بد ہضمی والا ہونا۔ صفت
(زَهْمَان) چمکانا ہوا چربی دار ہونا۔ صفت
(زَهْمٌ) موش زَهْمَةٌ.

زَاهِمَةٌ. باہم دشمنی کرنا۔ باہم دوستی کرنا۔
ایک دوسرے سے جدا ہونا۔ ایک دوسرے کے
قریب ہونا۔ (ضد)

الزَهْمُ. بدبودار ہوا۔ چربی۔ ایک خوشبو کا نام
جو الزباد کے نام سے مشہور ہے۔ (دیکھئے لفظ
الزَّبَاد)

الزُهْمَةُ وَالزُهْمَةُ وَالزَهْمُ. سڑے
ہوئے گوشت کی بدبو۔

زَهَا (ن) زَهْوًا وَزَهْوًا وَزَهَاءً. چمکانا۔
روشن ہونا۔ بوہنا۔ نشوونما پانا النخْل:

درخت خرما کا لمبا ہونا البُسْرُ: رنگ چمکانا
العَلَامُ: لڑکے کا جوان ہونا البَتُّبُتُّ: چمکل دار
ہونا البَشَاءُ بکری قریب ولادت کی وجہ سے
تھن والی ہونا البَرِيحُ: چمکانا الرِّجُلُ: جھوٹ
بولنا۔ تکبر کرنا۔ (زَهَا (ن) زَهْوًا فَلَانًا:
حقارت کرنا البَكْبُرُ فَلَانًا: خود پسند بنانا زَهَا
السِّرَاجُ: روشن کرنا۔

الرِّيحُ النِّبَاتُ: ترشہ گھاس میں ہوا کی وجہ
سے الہلہات ہونا الامْوَاجُ السَّفِينَةُ:
موجوں کا شتی کو بلند کرنا فَلَانٌ بِالسَّفِينِ:
تلوار چمکانا فَلَانًا بِالْعَصَا: لاشی سے مارنا

السَّرَابُ الاكْثَمَةُ يَزْهَاهَا: نمایاں کرنا۔
(يَزْهَوُهَا مستعمل نہیں ہے۔)
زَهِي. الرَّجُلُ بِكَذَا: تکبر کرنا۔

أَزْهَى. تکبر کرنا النخْلُ: لمبا ہونا البُسْرُ:
رنگ اختیار کرنا۔

زَهِي. البُسْرُ: رنگ اختیار کرنا۔ زَهَبْتُ
المِرْوَحَةُ الرِّيحُ: چمکے کا ہوا کو حرکت میں
لانا۔

إِزْهَى. الرَّجُلُ: مغرور بنانا۔ حقارت سے
دیکھنا علی الامر: مجبور کرنا۔ ہ و بہ:
حقارت کرنا۔

الزُهَاءُ. س۔ مقدار۔ تقریباً کہا جاتا ہے
”عِنْدِي زُهَاءٌ خَمْسِينَ دِرْهَمًا“ میرے
پاس تقریباً پچاس درہم ہیں۔

الزُهْوُ. س۔ فخر۔ تکبر۔ غرور۔ جھوٹ و
باطل۔ ظلم۔ سرسبز نباتات۔ زردیاسرخ کچی
کھجور۔

(وَالزُهَا) تروتازگی و خوبصورتی۔ زُهَا
الدُّنْيَا: دنیا کی زینت و آرائش۔
الزُهْوُ. زردیاسرخ کچی کھجور۔

الزَاهِي. فَا. پر رونق چمکدار چہرے والا۔
مؤنث زَاهِيَةٌ.
المَزْدَهِي وَالْمَزْهُو. متکبر و مغرور۔

زَاءٌ يَزُوذُ زَوْءًا. بہ الذَّهْرُ: زمانہ کا پلٹ
جانا۔
زَابٌ يَزُوبُ زَوْبًا. چمکے سے بھاگ جانا

المَاءُ: جاری ہونا۔

زَاج (ن) زَوْجًا. بَيْنَهُمْ: بھڑکانا۔ فساد
ڈالنا۔

زَوْجُهُ. امْرَأَةٌ أَوْ بامرأة اولامرأة: نکاح
کرنا الشئ بالشئ والیہ: ملانا۔

زَواجُهُ. باہم میل ملاپ رکھنا۔ باہم قریب
ہونا وَازْوَاجٌ بَيْنَهُمَا: قریب کرنا۔
تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ بامرأة: نکاح کرنا فی
قوم: کسی قوم میں نکاح کرنا۔ کہا جاتا ہے

”تَزَوَّجَةُ النُّومُ“ اس کو نیند آگئی۔
إِذْوَاجٌ وَتَزَوَّاجٌ. الكلام: کلام کا ایک
حصہ دوسرے حصہ کے حج یا وزن میں مشابہ
ہونا القوم: باہم شادی بیاہ کرنا۔

الزَواجُ. پھٹکری (کلمہ فارسی) عوام
”الجزاز“ کہتے ہیں۔

الزَواجُ: شوہر۔ بیوی۔ ساتھی۔ جوڑا۔ کہا جاتا
ہے ”عِنْدِي زَوْجًا حَمَامٌ“ میرے پاس
ایک جوڑا کبوتر ہے۔ وَاشْتَرَيْتُ زَوْجِي
بِعَالٍ“ میں نے ایک جوڑہ جو تا خرید۔ ہر چیز کی
قسم۔ جِ اَزْوَاجٌ وَ زَوْجَةٌ. حج زَواجِج.

الزَواجَةُ. بیوی۔ جِ زَواجَاتُ.
الزَواجُ: شادی بیاہ۔

زَاحٌ يَزُوحُ زَوْحًا وَ زَوْاحًا عَنِ
المَكَانِ: دور ہونا۔ ہٹنا۔ جانا العِلَّةُ: راسل
ہونا (زَوْحًا) الِابِلُ: پُر اگندہ کرنا۔ حج
کرنا۔ (ضد)

أَزَاحَهُ. جگہ سے ہٹانا الامر: کام کو پورا
کرنا۔ انجام کو پہنچانا۔ کہا جاتا ہے ”أَزَاحَهَا
اللَّهُ العِلَلُ“ اللہ تعالیٰ عتوں کو دور کریں۔

و ”أَزَاحَتْ عَلَيْهِ فِي مَا احتِجَاجُ إِلَيْهِ“ یعنی
میں نے اس کی ضرورت پوری کر دی۔

انزَاحُ. راسل ہونا۔
زَادَ يَزُوذُ زَوْذًا. توشہ لینا۔

أَزَادَهُ وَزَوَّدَهُ. توشہ دینا۔
إِزْدَادٌ وَاسْتِزَادَ. توشہ مانگنا۔
تَزَوَّدَ. توشہ لینا۔ کہا جاتا ہے ”تَزَوَّدَ مِنْ
الامِيرِ كِتَابًا إِلَى عَامِلِيهِ“ وہ امیر کا خط اس

جھاڑی جس میں پانی بھی ہو (والزاورۃ والزاورۃ والزاورۃ) پوانہ۔ زاورۃ القطا: قطا پرندہ کا وہ حصہ جس میں وہ اپنے بچوں کیلئے پانی لے جائے۔

الزور: سخت چال۔ سخت سفر کے لیے تیار کیا ہوا اونٹ (والزویب والزویب) سردار قوم۔ رئیس قوم۔

الزورۃ: زار کا اسم مرہ۔ دوری۔ اونٹنی جو شدت و صلابت کی وجہ سے سنگھویوں سے دیکھے۔

الآزور: ٹیڑھے سینے والا۔ باریک وسط سینہ والا۔ مائل ہونے والا۔ ترچھی نظر سے دیکھنے والا۔ مؤنت زوراء: ج زور۔ کہا جاتا ہے "فَقَمَّ عَنْ مَوَاقِفِ الْحَقِّ زُورًا" حق کے مواقع سے ہٹی ہوئی قوم۔

الزوراء: گہرا آنکوں۔ کمان۔ پیالہ۔ چاندی کا برتن۔ شہر بغداد۔ دجلہ بغداد۔ فَلَاقَةُ زُورَاءٍ: دور دراز بیابان۔ کَلِمَةُ زُورَاءٍ: گھسیابات۔ مَنَارَةُ زُورَاءٍ: ٹیڑھا منارہ۔

الزوراء والزورور: بہت ملاقات کرنے والا۔

المزار: س۔ ملاقات۔ زیارت کرنے کی جگہ۔ ج مزارات۔

الزورسبیراء: بحر اوقیانوس کے ساحل پر پیدا ہونے والا ایک پھول دار جس کو چھلی پسند کرتی ہے۔

الزورق: چھوٹی کشتی۔

الزوروش: کمینہ غلام۔

الآزوروش: منکبہر و مغرور۔

زوط: بڑے نفعے بنانا۔

الآزوط: جس کی ایک آنکھ تنگ سوراخ والی ہو۔

زَاع يَزُوعُ زَوْعًا. فَلَانًا: روکناد آگے

دھکیلتا الذبابة: جانور کو تیز چلانے کے لیے

لگام ہلانا الشی: موٹا لہ من البطحية

(زوعۃ) خربوے کی قاش اتار کر دینا

(وتزوع) اللحم: گوشت کا ٹھسے سے اتر

تَزَاوَرٌ: وہ آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں (وَأَزَوَّرَ وَأَزَوَّرَ) عَنْهُ: انحراف کرنا۔

استزارة: ملاقات کے لیے کہنا۔

الزور: س۔ سینہ کے درمیان کابلانی حصہ یا سینہ کی ہڈیوں کے ملنے کی جگہ اور اسی سے ہے "فَرَسٌ عَرِيضُ الزُّورِ" چوڑے سینہ والا گھوڑا اور کہا جاتا ہے "انفقی زورۃ" یعنی اس نے اقامت کر لی۔ الزور: پختہ ارادہ عقل۔

خیال جو خواب میں آئے۔ زیارت کرنے والا (واحد تشبیہ جمع مذکر مؤنث سب کیلئے) کہا جاتا ہے زَجَلُ زُورٍ امْرَأَةٌ زُورٌ وَرَجُلٌ زُورٌ وَنِسَاءٌ زُورٌ. سردار۔ رئیس۔ درخت خرما کی شاخ کہ جس میں پتے ابھی نہ نکلے ہوں۔ پتھر جو کنواں کھودتے وقت نکل آئے اور اس کو توڑ نہ سکیں اور چھوڑ دیں۔

الزور: عقل۔ جموت۔ باطل۔ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ قوت۔ کہا جاتا ہے "مَا لَهُ زُورٌ وَلَا صَبُورٌ" نہ تو اس کے اندر قوت ہے اور نہ کوئی رائے جس کی طرف رجوع کیا جائے۔ رائے۔ سردار۔ رئیس۔ کھانے کی لذت۔ کپڑے کی نرمی و صفائی۔ راگ و گانے کی مجلس۔ بیہودوں و فہرانیوں کی عیدیں۔

الزور: س۔ کچی۔ سینہ کے بالائی حصہ کی کچی۔ الزیور: منکا۔ کتاب۔ باریک تانت۔ عادت۔ عورتوں سے بغیر ارادہ و بدی کے بات چیت کرنے کو پسند کرنے والا۔ ج ازوار و ازیار و زیورۃ۔

الزیورۃ: ملاقات کی ہیئت۔ کتاب کا ٹکڑا۔

الزیار: دو گز پائیں جن سے سلوتری گھوڑے کے ہونٹوں کو دبا کر قابو میں کرتا ہے۔ اس سے

فصل کا اعتناق کرتے ہیں اور کہتے ہیں زَبِيرٌ الفرس (والزورار) ہر وہ چیز جس سے دوسری چیز کی درستی ہو۔ سینہ بند اور تنگ کے درمیان کی رشتی۔ ج ازورۃ۔

الزیر: غضبناک۔

الزورۃ: اونٹوں کا گلہ۔ بانس آنر کل وغیرہ کی

کے عامل کے پاس لے گیا تاکہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ "تَزَوَّرْتَنِي طَعْنَةً بَيْنَ اُذُنَيْهِ" یعنی میری جانب سے اس کو دونوں کانوں کے درمیان تیزے کا زخم لگا۔

الزاد: توشہ۔ زادراہ۔ ج ازورۃ و ازواد۔

المزود والمزاد والمزادة: توشہ دان۔ ج مزواد. نفاضة المزاد: توشہ دان کا بچا کچھا۔ یہ حسرت کے لیے ضرب المثل ہے۔ وَهُمْ مِلَاءُ الْمَزَادِ: وہ لوگ اغنیاء ہیں۔

زارہ يزورۃ زيارة و مزارا و زورا و زوارا و زوارۃ و ازدارۃ. ملاقات کیلئے جانا۔ صفت (زایر) ج زائران و زورور و زورار مؤنث زائرة ج زور و زور و زائرات۔

زار زوارا. الفرس: گھوڑے کے ہونٹوں میں تیار باندھنا۔ (دیکھئے لفظ زیار)

زور يزور زورا. کج ہونا۔ ٹیڑھے سینہ والا ہونا۔

زور: جموت کو آراستہ کرنا الكلام: باطل ٹھہرانا۔ جموت کی طرف نسبت کرنا الشہادة: شہادت کو باطل قرار دینا نفسه: جھوٹ و بہتان کی علامت لگانا عليه: کسی پر جھوٹ باندھنا عنه: کسی سے پھر جانا فلانا علی نفسه: کسی پر تہمت لگانا۔ الشی: درست کرنا۔ اسیدھا کرنا الشی لنفسه: کسی چیز کو پسند کر کے اپنے لیے خاص کر لینا الزائر: عزت و اکرام کرنا۔ تم کہتے ہو "زُرْتَهُمْ فزورزنی" میں نے ان لوگوں سے ملاقات کی اور انہوں نے میری تعظیم کی القوم صاحبہم: بھلائی کرنا۔

آزارۃ: زیارت کرنے پر براہمیت کرنا الشی: چلانا۔ ازدارۃ: ملاقات کے لیے جانا۔

تَزَوَّرَ: جھوٹ بولنا الشی: کسی چیز کو پسند کر کے اپنے لیے خاص کر لینا۔

تَزَاوَرَ: القوم: ایک دوسرے کی زیارت کرنا۔ کہا جاتا ہے "هُمْ يَتَزَاوَرُونَ وَيَنْتَهُمُ"

تَزَاوَرُوا: ملاقات کے لیے جانا۔

تَزَوَّرَ: جھوٹ بولنا الشی: کسی چیز کو پسند کر کے اپنے لیے خاص کر لینا۔

تَزَاوَرَ: القوم: ایک دوسرے کی زیارت کرنا۔ کہا جاتا ہے "هُمْ يَتَزَاوَرُونَ وَيَنْتَهُمُ"

تَزَاوَرُوا: ملاقات کے لیے جانا۔

تَزَوَّرَ: جھوٹ بولنا الشی: کسی چیز کو پسند کر کے اپنے لیے خاص کر لینا۔

تَزَاوَرَ: القوم: ایک دوسرے کی زیارت کرنا۔ کہا جاتا ہے "هُمْ يَتَزَاوَرُونَ وَيَنْتَهُمُ"

تَزَاوَرُوا: ملاقات کے لیے جانا۔

تَزَوَّرَ: جھوٹ بولنا الشی: کسی چیز کو پسند کر کے اپنے لیے خاص کر لینا۔

تَزَاوَرَ: القوم: ایک دوسرے کی زیارت کرنا۔ کہا جاتا ہے "هُمْ يَتَزَاوَرُونَ وَيَنْتَهُمُ"

تَزَاوَرُوا: ملاقات کے لیے جانا۔

جانہ۔
 زَوْعُ الْإِبِلِ: متفرق کرنا۔ پرانڈہ کرنا۔
 الزَّوْعَةُ: لوگوں کی ایک جماعت میں
 الطَّيْحَةُ و نَحْوَهَا: خریزہ وغیرہ کی
 چھانک یا قاش مِنَ النَّبْتِ: گھاس کا وہ حصہ جو
 خشک ہونے لگے۔
 الزَّاعَةُ: پولیس کی جماعت (جمع ہے مثل
 باعثة و سادة کے)
 الزُّوْعُ وَالزُّوْعُ: کڑی۔
 زَاغٌ يَزُوْعُ زَوْعًا: الشَّيْءُ: کسی چیز کا جھکانا
 الناقعة: اونٹنی کو مہار سے کھینچنا۔ (زَوْعًا
 و زَوْعَانًا) مائل ہونا۔ ظلم کرنا التيسر: نگاہ
 میں ہونا۔
 أَرَاغَهُ إِزَاعَةً: جھکانا۔
 الزواغ: کوا۔
 زَأَفَتْ تَزْوُفٌ زَوْفًا: الْحَمَامَةُ: کبوتر کا
 بازو دم کو پھیلانے پر کھینچنا الطائر: فی
 الهواء: پرندہ کا فضا میں گولائی میں اڑنا
 الرَّجُلُ: مرد کا ہاتھ پاؤں چھوڑ کر اعضاء ڈھیلے
 کر کے چلنا الماء: پانی کا پیلے والا ہونا
 (وتزأوف) اپنے آپ کو ہلکا چھلکا کرنے کے
 لیے ورزش کی مشق کرنا۔
 الزَّوُوفُ: چلنے میں ڈھیلپن۔
 الزَّوْفِيُّ وَالزَّوْفَاءُ: ایک دو کا نام۔
 زَوْقُ الْكَلَامِ: آراستہ کرنا۔ مزین کرنا
 البيت: نقش و نگار کرنا اللذہم: پارہ کا طبع
 کرنا۔
 الزَّوَاقُ: لڑکی کی زینت۔
 الزَّوْفَةُ: گھروں میں نقش و نگار کرنے
 والے۔
 الزَّوَوُقُ وَالزَّوَوُوقُ: پارہ۔
 زَاكَ يَزُوْكَ زَوْكًا وَزَوْكًا: مونڈھوں کو
 حرکت دینا اور ناگوں کو کشادہ کرنا۔ کبیر سے
 چلنا۔
 تَزَاوَكْتَ تَزَاوُكًا: شرم کرنا۔
 الزَّوُوكُ: سہ کوئی کھال۔
 زَالَ يَزُوْلُ زَوْلًا وَزَوْلًا وَرَوْلَانًا

وَزَوْلًا وَزَوْلًا وَزَوْلَانًا: جاتا رہنا۔ پھر
 جانا اور اسی سے ہے "زَالَ عَنْهُ مُلْكُهُ" اس
 کی سلطنت جاتی رہی۔ جدا ہونا۔ ہلاک ہونا
 (زَوْلًا) حرکت کرنا اور اسی سے ہے "أَزَى
 النُّجُومَ تَزْوُلٌ وَلَا تَغِيْبُ" یعنی میں دیکھ رہا
 ہوں کہ ستارے حرکت کر رہے ہیں اور غائب
 نہیں ہوتے۔ و "فَلَانٌ يَزُوْلُ فِي النَّاسِ"
 فلاں لوگوں میں بہت چلتا پھرتا ہے۔
 زَالَتْ (ن) زَوَالًا وَزَوُولًا وَزَوْلَانًا وَ
 زَفَالًا: النَّسْمُ: آفتاب کا ڈھلنا۔ انجیل
 پر کیا نبیہا لے کر اٹھنا اور اسی سے ہے "زَيْلٌ
 يَنْعَشُهُ" یعنی اس کی نش اٹھائی گئی۔ کہا جاتا
 ہے "زَالَ زَائِلُ الظِّلِّ" یعنی دوپہر ہو گئی۔
 و "زَالَ أَوْزَيْلُ زَوَيْلِهِ وَزَوَالُهُ" ڈر اور
 خوف کی وجہ سے اس کی جانب جھک گئی۔
 أَزَالُهُ وَزَوْلُهُ وَإِذَالُهُ: ہٹانا۔ کہا جاتا ہے
 "أَزَالَ اللَّهُ زَوَالَهُ" یعنی اللہ اسے ہلاک
 کرے۔ زَوَّلَ الشَّيْءُ: کسی چیز کو لانا۔
 زَاوَلَهُ: کوشش کرنا۔ قصد کرنا۔ تلاش کرنا۔
 تَزَوَّلَ الشَّيْءُ: کسی چیز کو لانا الغلام:
 لڑکے کا انتہائی زیرک و ظریف ہونا۔
 تَزَاوَلَ: القَوْمُ: باہم کوشش کرنا۔
 انزَالٌ: عُنْدَ: جدا ہونا۔
 إِزْوَالٌ إِزْوَالًا: الشَّيْءُ: زائل ہونا۔
 الزَّوَلُ: سہ۔ تعجب۔ عجیب۔ کہا جاتا ہے
 "تَسِيرُ زَوْلٌ" یعنی عجیب سیر و "شَتْوَةٌ
 زَوْلَةٌ" عجیب سردی۔ الزَّوَلُ: وجود انسانی۔
 فِائِشُ مَرْدَسِكٍ وَظَرِيفُ وَزَيْرِكٍ: بہادر۔ بلا۔
 سہا زوال۔
 الزَّوَالُ: سہ۔ سورج کا ڈھلنا۔ کہتے ہیں
 السَّاعَةُ الرَّابِعَةُ زَوَالِيَّةً"
 الزَّائِلُ: فا۔ کہا جاتا ہے "لَيْلٌ زَائِلٌ
 النُّجُومِ" یعنی لمبی رات۔
 الزَّوَالُ: بہت حرکت کرنے والا۔
 الزَّائِلَةُ: الزَّائِلُ: کامنٹ۔ زندہ یا متحرک
 چیز۔ سَزَوَائِلُ: الزَّوَائِلُ: ستارے۔
 عورتیں۔ شکار۔

الزَّوَيْلُ: سہ۔ حرکت۔ جانب۔
 المِزْوَالَةُ: دھوپ کھڑی۔ سَجَ مَزَاوِلُ
 زَامٌ يَزُوْمُ زَوْمًا: الرَّجُلُ: مرنا۔
 الزَّامُ: ہر چیز کی چوتھالی۔ زَامٌ مِنَ النَّهَارِ:
 دن کی چوتھالی۔ زَامَانٌ مِنَ النَّهَارِ: دن کا
 نصف حصہ۔
 الزَّامَةُ: جماعت۔ گروہ۔ سَجَ زَامَاتُ:
 الزَّوْمُ: عِنْدَ الْعَامَّةِ: عوام کے نزدیک کسی
 چیز کا تیرہ یا پندرہ ہونا اور اس کے لیے فصیح لفظ
 النسخہ ہے۔ وہ پانی جس سے کپڑا دھویا جائے
 اور اس کیلئے فصیح لفظ الغسالة ہے۔
 الزَّوَيْمُ: ہر چیز کا تیرہ۔
 زَوَمَلُ الْإِبِلِ: اونٹوں کو ہانکنا۔
 الزَّوَمَلَةُ: سہ۔ گدھے مع بو جھوں کے۔ کہا
 جاتا ہے "هُوَ ابْنُ زَوَمَلِيَّهَا" وہ اس کا جاننے
 والا ہے۔
 الزَّانُ: بد بھشی۔
 الزُّوْنُ وَالزُّوْنُ وَالزُّوْنُ: پستہ قد۔
 الزُّوْنُ: بنت یا مندر۔
 الزَّوْنَةُ: زینت۔ سمجھدار عورت۔
 الزَّوَانُ وَالزُّوَانُ وَالزُّوَانُ: دیکھتے الزُّوَانُ
 بِالْمَهْمَزَةِ:
 زَوَى يَزُوِي زَوِيًا وَزِيًا: الشَّيْءُ: جدا
 کرنا۔ یکسو کرنا۔ روٹنا۔ جمع کرنا۔ قبضہ کرنا
 الصَّالُ وغیرہ: اٹھا کرنا عِنْدَ السَّرِّ: راز کو
 پوشیدہ رکھنا عَنْهُ حَقُّهُ: کسی کا حق روک
 لینا۔
 الذَّهْرُ الْقَوْمُ: زمانہ کا قوم کو تباہ و برباد کرنا۔
 زَوَى وَ تَزَوَّى وَانزَوَى: گوشہ نشین
 ہونا۔ تَزَوَّى وَانزَوَى: سکڑنا۔ زَوَى
 الْكَلَامُ: دل میں سوچنا۔ انزَوَى الْقَوْمُ
 بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ: ستمنا۔ ایک دوسرے
 کے قریب ہونا۔
 الزَّوَابِيَةُ: مِنَ الْبَيْتِ: گوشہ۔ نچر وایا۔
 وَالزَّوَابِيَةُ: عِنْدَ الْحَجَارِيِّينَ وَالتَّجَارِيِيِّينَ
 وَغَيْرِهِمْ: دو مستقیم ضلعوں کا ایک آلہ کہ
 جس کے ضلعوں کا ایک ایک سر باہم اس طرح

جزا ہوا ہوتا ہے کہ ان کا درمیانی گوشہ زاویہ قائمہ بن جاتا ہے۔

تَزْيَبٌ لَحْمُهُ مَكُونُ كَلْبِ لَوْ تَهْرَمَ بَنًا۔

الزَيْبُ ہوا کی تیزی۔

رَجُلٌ زَيْبٌ وَأَزْبٌ مَهَادِرٌ وَلِيٌّ مَرْدٌ۔

الْأَزْيَبُ شَادِمًا۔ پست قدم۔ قریب

قریب قدم رکھنے والا۔ کینہ۔ منہ بولا بیٹا۔

الْحَسْبَىٰ أَمْرٌ بَدَلًا مَصِيبًا وَدَعْنَىٰ بَهْتٍ پَالِيٍّ۔

شادمانی۔ سہمی۔ جنونی ہوا۔

الْإَزْيَبُ شَدِيدٌ نَجِيلٌ۔

الزَيْبِيُّ پارہ۔

زَاتٌ يَزِيْبُ زَيْبًا وَزَيْبٌ الطَّعَامُ كِهَانِي مِّنْ زَيْبُونَ كَاتِلٌ وَالنَّاسِيُّ كَبِيٌّ كَبِيٌّ

پزیزون کا تیل لگانا القوم بوموں کو زیتون کا تیل کھانا یا توشہ دینا۔

أَزَاتٌ إِزَاتَةٌ بَهْتٌ تِيلٌ وَاللَّاهُ بَنَانٌ۔

إِزْدَاتٌ إِزْدِيَاتٌ رَوْغُنٌ زَيْبُونَ مَلَانٌ۔

إِسْتَزَاتٌ رَوْغُنٌ زَيْبُونَ مَلَبٌ كَرَانٌ۔

الزَيْبُتُ بِنُ زَيْبُونَ كَاتِلٌ۔ جِ زَيْبُونَ وَ

(الزَيْبَاتُ تَلِيٌّ) زَيْبٌ كَاتِلٌ مَطْلَقًا تِيلٌ كِيلِيٌّ

بھی ہوتا ہے۔ چاہے وہ کسی چیز کا ہو۔

الزَيْبُونَ زَيْبُونَ كَادِرٌ خَسْتٌ زَيْبُونَ كَا بَحْلٌ۔

واحد زَيْبُونَةٌ۔

الزَيْبُونَةُ زَيْبُونَ خَسْتٌ جِسْمٌ كَيْتٌ رَوْنُ خَسْتٌ

زیتون جسے ہوتے ہیں اس کے پھول زرد اور

خوشبودار ہوتے ہیں۔ وہ مشرق وسطیٰ میں بہت

پیدا ہوتا ہے لوگ دوران سفر اس کو استعمال

کرتے ہیں۔

الْمَزِيْبَةُ مَخْضُوعٌ تِيلٌ كَيْ طَوِيلٌ بُوْتَلٌ جِسْمٌ كَيْ

ساتھ اوزار کو تیل لگایا جاتا ہے۔

الزَيْبُونِيٌّ زَيْبُونَ كَيْ رَيْبٌ وَاللَّاهُ

المَزِيْبَةُ وَالْمَزِيْبُونَ جِسْمٌ مِّنْ تِيلٍ

استعمال کیا گیا ہو۔

الزَيْبِيُّ كَا زِيٌّ كَيْ مِيْرٌ جِسْمٌ كَيْ مِيْرٌ كَا زِيٌّ كَيْ

رفقار معلوم ہوتی ہے۔

الزَيْبِيُّ مَعْمَارُونَ كَيْ دَوْرِيٌّ جِسْمٌ كَيْ دَوْرِيٌّ

کی ہمواری کا اندازہ کرتے ہیں۔ علم نجوم کی

اصطلاح میں وہ جدول جو سیاروں کی رفتار بتاتی

ہے۔ جتزی۔ ج زَيْبَاتٌ وَزَيْبَةٌ خَيْلٌ

زَا حٌ يَزِيْحٌ زَيْحًا وَزَيْوْحًا وَرَيْوْحًا وَ

زَيْحَانًا وَانْزَا حٌ دَوْرٌ هَوْنًا۔ چلے جانا۔ زَا حٌ

اللتَّامُ قَهَابٌ أَتَارَانًا كَهْلَانًا۔

أَزَا حٌ دَوْرٌ كَرَانًا لَ جَانًا۔

المَزَا حٌ دَوْرٌ چلے جانے کی جگہ۔

زَا حٌ يَزِيْحٌ زَيْحًا وَزَيْحَانًا ظَلَمٌ كَرَانًا

علیحدہ ہونا۔

أَزَا حٌ عَلِيْحَةٌ كَرَانًا۔

تَزْيِيْحٌ فَرَوْتِيٌّ كَرَانًا۔

زَادٌ يَزِيْدُ زَيْدًا وَزَيْدًا وَزَيْدًا وَزَيْدًا وَ

مَزِيْدًا وَزَيْدَانًا بَرَهَانًا زَيْدًا هَوْنًا الشَّيْءُ

بَرَهَانًا زَيْدًا زَيْدًا كَرَانًا فُلَانٌ زَيْدًا دَرِيْدًا۔

زَايِدٌ بَرَهَانٌ مِّنْ مَّقَابِلِ كَرَانًا۔

الْمَزْيَادُ كَيْلِيٌّ كَيْ مِيْرٌ كَيْلِيٌّ كَيْ مِيْرٌ كَيْلِيٌّ كَيْ مِيْرٌ كَيْلِيٌّ

پیش کی جائے اس پر مختلف افراد زیادہ قیمت لگائی

جو زیادہ لگائے اس کو حق خرید مل جائے۔

تَزْيِدٌ السِّعْرُ بِيْهَادٌ كَرَانًا هَوْنًا الرَّجُلُ فِي

خَدِيْبِهِ وَاقِعٌ سَ زَيْدًا بِيْانٌ كَرَانًا فِي الشَّيْءِ

بَرَهَانًا مِّنْ تَكْلِفٍ كَرَانًا۔

تَزَايِدٌ فِي خَدِيْبِهِ وَاقِعٌ سَ زَيْدًا بِيْانٌ

کَرَانًا تَزَايِدُوا فِي ثَمَنِ السِّلْعَةِ اِيْكٌ

دوسرے سے بڑھ کر بولی دینا۔

إِذَا زَادَ زَيْدًا هَوْنًا زَيْدًا كَرَانًا زَيْدًا طَلَبٌ كَرَانًا

إِسْتَزَا دَةٌ زَيْدًا طَلَبٌ كَرَانًا كَوْتَا يُّ كَرَانًا

واللَّاهُ سَجْمًا أَوْ شَكَايَةً كَرَانًا۔

الزَّائِدُ فَابْوْنَتْ زَائِدَةٌ زَائِدَةُ الْكَبِدِ

جگر کا چھوٹا سا کرا جو اس کے ساتھ ایک جاب

میں ہوتا ہے۔ جِ زَوَائِدٌ وَزَوَائِدٌ مِّنْ

الْأَسْنَانِ كَيْلِيٌّ كَيْ قَرِيْبٌ وَاللَّاهُ دَانَتْ

الزِّيَادَةُ مِسْ جُو بِيْرٌ بَرَهَانًا جَانًا۔ جِ

زِيَادَاتٌ وَزِيَا نِدٌ وَزِيَادَةُ الْكَبِدِ بِمَعْنَى

زَائِدَةُ الْكَبِدِ

الزَّيْدُ وَالزَّيْدُ زِيَادَتِيٌّ بَرَهَانًا كَمَا جَانًا

”هَمُّ زَيْدٌ عَلَيَّ مَانَةٌ لَّاهُ سَوْ زَائِدَةٌ مِّنْ

الْمَزْيِدِ مِسْ مِسْ كَمَا جَانًا مِسْ” لَّا مَزْيِدٌ عَلَيَّ

هَذَا الْأَمْرُ لِحْتِجِي اس معاملہ میں زیادہ گنجائش

نہیں۔

الْمَزَا دَةُ تَوْشَةٌ دَانٌ۔ چمکے کے کنی نکلے

ملا کر ایک تھپسا سنا تے ہیں جس میں پائی رکھتے

ہیں۔

زَيْرٌ وَيَكْتَبُهُ نَادَةٌ (زور)

الزِّيْرُ اِيْكٌ كَبِيْرٌ جُو دَرِخْتُوْنَ پَر بَار كَرَانًا

زیر زریز کی آواز نکالتا ہے۔

الزِّيْرِيُّ وَزِيْرًا وَزِيْرًا وَزِيْرًا وَزِيْرًا

چھوٹا سائیلہ یا سخت زمین۔ پَر یا اس کے

کنارے۔ جِ الزِّيْرِيٌّ

الزِّيْرِيَّاتُ بَجْمُوْنَةٌ بَجْمُوْنَةٌ پَرُوْنٌ دَا لَے

کیرے۔

الزِّيْرِيَّةُ پَرِيْبَةٌ

الزِّيْرْفُوْنُ اِيْكٌ دَرِخْتٌ سَ جِسْمٌ كَيْ پَھول

کوپانی میں بھگو کر دوا استعمال کرتے ہیں۔ اور

امثال عرب میں سے ہے ”هُوَ كَالزِّيْرْفُوْنِ

يَزُھَرُ وَلَا يَشْمُرُ لَهْ زِيْرْفُوْنٌ كَيْ مَانَدٌ سَ پَھول

تو دیتا ہے پھل نہیں۔

زَا طٌ يَزِيْبُ زَيْبًا وَزِيَا طٌ شَوْرٌ مَجَانًا

اور بہت جھگڑتا۔ صفت (زِيَا طٌ)

زَا حٌ يَزِيْعٌ زَيْغًا وَزَيْغَانًا وَزَيْغُوْعَةٌ

جھلنا۔ زِيْرُ هَوْنًا بِيْضُوْعًا كَا تَهْلَانًا

زَيْغَةٌ زِيْرُ هَوْنًا كَيْ دَرِسْتٌ كَرَانًا

إِزَا حَةٌ عَنِ الطَّرِيْقِ بَدْرَاهُ كَرَانًا الرَّجُلُ

کَ بِيٌّ مِّنْ دَانًا۔

تَزَايِعٌ جھلنا۔

الزَّرَاغُ فَاجٌ زَاغَةٌ وَزَاغُوْنٌ

الزَّرَاغُ اِيْكٌ قَسْمٌ كَا كَوَا حِسٌّ كَيْ پِيْتٌ اور پینچ

کے پر کچھ سفیدی مائل ہوتے ہیں۔ اور اِيْكٌ

قَسْمٌ مِسْ۔ الزَّرَاغُ الْحَيْفِيُّ جُو مَرْدٌ كَمَا تَابَ۔

جِ زَرْغَانٌ

الزَّرِيْعُ مِسْ۔ حَقٌّ سَ اَحْرَافٌ شَكٌّ

الزَّرِيْعُ جھکاو۔

زَا فَتْ (ض) زُوْفًا الدِّرَا هَمٌ كَهْوَنَةٌ

ہونا۔ (زَا فَتْ زَيْفًا الدِّرَا هَمٌ كَهْوَنَةٌ كَرَانًا

یا كَهْوَنَةٌ بَجْمَانًا الْحَا بِيْطُ وَيُوَا رٌ بَجْمَانًا (زَيْفًا

الزينة. آرائجی جس سے زینت کی جائے۔
أَمْراضُ الزينة عند الأطباء: بال یا کمال یا
ناخن کے امراض۔

الزبان: خوبصورت۔ کہا جاتا ہے "قمر"
زبان خوبصورت چاند۔

الزبان: ہر وہ چیز جس سے زینت کی جائے۔
المزین: فائنٹی۔ (مولد)

زبانہ تزئینہ: پوشاک پہنانا۔ کہا جاتا ہے
"هذه زان فزینها" یعنی اس کو حرف زان سے
پڑھو۔

تزینا: آراستہ ہونا بزین القوم: قوم کا لباس
پہنانا۔

الزین: ہیئت۔ شکل۔ پوشش۔ کہا جاتا ہے
"أقبل بزین العرب" وہ عرب کے لباس
میں آیا و "جاءنا بزین عرب" وہ ہمارے
پاس عجیب لباس میں آیا۔ ج ازیاء۔

الزئیل: دونوں رانوں کے درمیان کی دھوری۔
الآزئیل: دونوں رانوں کے درمیان فاصلہ
والا۔ رَجُلٌ (مُزِيلٌ و مُزِيلٌ) خوش طبع۔
زیرک۔

زَامُ يَزِينُ وَيَزَامُ زَيْمًا: لِفَلَانٍ فَمَا سَكَنَهُ
ایک کلمہ بول کر خاموش کر دینا۔

تَزَيَّمَتِ: الخيلُ وغيرها: گھوڑے وغیرہ
کا پرانگندہ ہونا اللحم: گوشت کا ٹکڑے ٹکڑے
ہونا۔ آپس میں گتھا ہوا ہونا۔

الزينة: گوشت وغیرہ کا ٹکڑا۔ ج زینم۔ زانہ
يَزِينُهُ زَيْنًا: زینت دینا الشئ: خوبصورت
ہنانا۔ آراستہ کرنا۔

زَيْنُهُ تَزِينًا وَاَزَانَهُ اِزَانَةً وَاَزِينُهُ اِزِيَانًا
زینت دینا۔

تَزَيَّنَ تَزِينًا وَاَزَيْنَ اِزِيَانًا وَاَزْدَانُ اِزْدِيَانًا
وَاَزَيْنَ اِزِيَانًا وَاَزِيَانُ اِزِيِيَانًا: آراستہ
ہونا۔

الزائين: فا. امرأة زائين: آراستہ عورت۔
الزئين: من. آرائجی ج ازیان۔ الزين: ایک
درخت کا نام جس سے تیر بناتے ہیں۔ زين
الدينك: مرغ کی کلفتی۔

الزَّانُ: بلولا کی قسم سے ایک درخت جس کی
کڑی مضبوط ہوتی ہے اس کے پھول سے مفید
غذائی تیل نکالا جاتا ہے۔ اور وہ خوبصورتی کے
لئے پویا جاتا ہے۔

الزانية: بد ہنسی۔
الزينة: انتہائی خوبصورت پھول کی قسم جس کی
اہمیت باغوں میں بہت ہے۔

الزَّوِيَةُ: زاوية مستقيمة: وہ زاویہ جس کے
دونوں ضلع نقطہ زاویہ کے دونوں جانب برابر
ہوں۔ دونوں جانب کو دو ضلع کا نام دیا جاتا ہے۔

نقطہ کو رأس الزاویہ کہا جاتا ہے۔ زاویہ قائمہ
مستقیمہ کا نصب ہوتا ہے۔ زاویہ حادہ:
قائمہ سے زیادہ چھوٹا ہوتا ہے۔ زاویہ
منفرجہ: قائمہ سے بڑا اور مستقیمہ سے چھوٹا
ہوتا ہے۔ ناقرة: مستقیمہ سے چھوٹا ہوتا ہے۔
منعكسة: مستقیمہ سے چھوٹا ہوتا ہے۔

وزيفانا: ملک کرچنا البعير: اونٹ کا جھکتے
ہوئے دوڑنا۔

زَيْفٌ: الدرَاهِمُ: کھوٹے بنانا یا کھٹنا۔
الزَّيْفُ: خفارت کرنا البناء: بلند ہونا۔
تَزَيَّفَتْ: الدرَاهِمُ: کھوٹے ہونا۔

الزائف: فا. شير من الدرَاهِمُ: کھونا
درہم۔ ج زَيْفٌ و زَيْوْفٌ:

الزيف: جھجھ جو دیواری حفاظت کیلئے ہوتا
ہے۔ کنگرہ۔ بیڑھی کے پائے۔ ج زيف
وازياف و زيواف: اور کہا جاتا ہے "دِرْهَمٌ
زَيْفٌ" کھوٹا درہم۔

الزَيْفُ: مٹک کر چلنے والا۔ شیر۔ مؤنث
زَيْفَاةٌ:

زَيْقٌ: الثوب: کپڑے میں گوٹ لگانا۔

تَزَيَّقَتْ: المرأة: زینت کرنا۔ سرمہ لگانا۔

الزريق: من الثوب: کپڑے کی گوٹ۔

معماروں کی ذوری جس سے وہ دیواری سواری
کا اندازہ کرتے ہیں۔

زَاكٌ (ش) زَيْكَانًا: تازو تکبیر سے چلنا۔

الزئيك: چھوٹے جواہر جو بڑے جواہر کے گرد
گرد جڑے ہوتے ہوں۔


زَالَةٌ يَزَالُ و يَزِيلُ زَيْلًا: عن مكانه:
ہٹانا۔ علیحدہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "ما زَلْتُ
أَفْعُلُ" میں ہمیشہ کرتا رہا۔ و ما زَلْتُ يَزِيدُ
و ما زَلْتُ زَيْدًا حَتَّى فَعَلُ" میں ہمیشہ زید

کے ساتھ لگا رہا یہاں تک کہ اس نے کر دیا۔ و
"زَلْتُ أَفْعُلُ" بمعنی "ما زَلْتُ أَفْعُلُ"
حرف نئی کی تقدیر سے اور یہ قلیل الاستعمال
ہے۔

أَزَالُهُ إِزَالَةً وَاِزَالًا: عن مكانه: ہٹانا۔
زَيْلُهُ: متفرق کرنا۔ پرانگندہ کرنا۔

زَايِلُهُ: باہم گرد جدا ہونا۔

تَزَايَلُوا و تَزَايَلُوا: پرانگندہ ہونا۔ جدا ہونا
عَنْهُ: شرم کرنا۔ کہا جاتا ہے "أَنَا اِتْرَايِلُ
عَنْكَ: فلا اتخاسرُ حَظِيكَ" میں تم سے
شرم کرتا ہوں اس لیے میں تمہارے سامنے
دلیری نہیں کر سکتا۔



متعدی ہوتا ہے جیسے سَأَلْتَهُ عَنْ حَاجَتِهِ“ اور کبھی ہمزہ کی تخفیف ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے ”سَأَلَ سَأَلَ سَلًا“ مثل خاف يخاف خوف کے اور اسم مفعول ”مَسْئُولٌ“ مانند تخوف کے۔

سَأَلَهُ، وَسَأَلَهُ مَسْأَلَةً وَ مَسْأَلَةً وَ سَأَلَ عَنْهُ: بمعنی سال۔

أَسْأَلُ. سُؤْلُهُ وَ سُؤْلَتُهُ وَ مَسْأَلَتُهُ: حاجت پوری کرنا۔

تَسَأَلُ وَ تَسْأَلُ بِأَمْتَانٍ۔

تَسَاءَلَ وَ تَسَاءَلُوا. الْقَوْمُ: ایک دوسرے سے پوچھنا۔

السُّؤْلُ وَ السُّؤْلُ وَ السُّؤْلَةُ وَ السُّؤْلَةُ: درخواست۔ التجاء۔

السَّأَلُ وَ السُّؤْلَةُ وَ السُّؤُولُ: بہت سوال کرنے والا۔

السَّائِلُ. فَأَمَّا نَكْتُهُ وَاللَّحْيُ سَائِلُونَ وَ سُؤْلٌ وَ سُؤَالٌ وَ سَأَلَةٌ.

المَسْئَلَةُ: حاجت۔ مطلب۔ ج مسائل المسئولية ذمہ داری۔

سَبِمَ (س) سَامَةٌ وَ سَامًا وَ سَامَةٌ وَ سَامًا وَ سَامَةٌ الشئِ وَمِنْهُ: کسی چیز سے ملول ہونا۔ آگیا جانا۔ صفت (سؤذم)

أَسَامَهُ إِسَامًا بُولُ كَرَانَا (آگیا)

سَلَانَ (سَلَانَ) سَأَلُوا دُونَ الشئِ: کسی چیز کی نیت کرنا۔ قصد کرنا الرَّجُلِ: کسی کو تمسین

کرنا الثَّوْبُ: کپڑے کو سمجھ کر پھاڑنا۔

الْإِنَاءِ: کچھ باقی چھوڑنا۔ صفت (سَأَرَ) اور کہا جاتا ہے ”أَسَارَ الْحَاسِبُ فِي حِسَابِهِ“ حساب لگانے والے نے حساب کو پوری طرح سے نہیں کیا۔

سَبَّرَ (س) سَأَرَ. الشئِ: باقی رہنا۔

تَسَارَ. السَّبِيذُ: جھونٹا بیٹا۔

السُّؤْرُ: جھونٹا پانی وغیرہ۔ بقیہ۔ ج آسَارَ کہا جاتا ہے ”هُوَ سُؤْرٌ شَرٌّ“ وہ شریر ہے۔

السُّؤْرَةُ: بقیہ جوئی۔ مِنَ الْمَالِ: عمدہ مال۔ ج سُّؤْرُ.

السَّائِرُ. فَ: مِنَ الشئِ: بقیہ۔

سَأَسَا سَأَسَاءَةً. بِالْحِمَارِ: گدھے کو روکنے کیلئے ڈانٹنا یا پینے یا چلنے کیلئے آواز دینا۔

تَسَاءَسَاتِ. الْأُمُورُ: مختلف ہونا۔

سَأَفَتْ (ف) سَأَفًا وَ سَفَيْتَ (س) سَأَفًا يَذُّهُ: ناخن کے ارد گرد پھٹنا۔ ہاتھ کی صفت

(سَفَيْتَ) (سَفَيْتَ وَ انْسَأَفَ) لَيْفٌ النخيل يَهْتَلُ: پرانگندہ ہونا۔ پھلنا۔

السَّأَفُ: کھجور کی شاخ۔ دم کے بال۔

السَّائِفَةُ: ریت کے تودے کے نیچے کی باریک ریت۔ ج سَوَائِفُ.

سَأَلَ (ف) سُؤَالًا وَ سَأَلَةً وَ سَأَلَةً وَ مَسْأَلَةً وَ تَسْأَلًا: طلب کرنا۔ مانگنا۔

درخواست کرنا۔ اس کا تعدیہ دو مفعول کی طرف ہوتا ہے۔ جیسے ”سَأَلْتُ اللَّهَ نِعْمَةً“ اور جب استخبار کے معنی میں ہو تو مفعول اول کی طرف ہفتہ اور مفعول ثانی کی طرف عن سے

س: السین بنیادی حروف میں سے بار ہواں حرف ہے حرف اسلیہ میں سے ہے اور حسابِ جبل میں اس کا نمبر (۶۰) ہے۔

فعل مضارع کو مستقبل قریب کے معنی کے لیے خاص کر دیتا ہے۔

سَابَهُ (ف) سَابًا: گلا گھونٹنا السَّقَاءُ: مشک کو کشادہ کرنا (و سَبَّ (س) سَابًا) مِنَ الشَّرَابِ: آسودہ و سیراب ہونا۔

السَّابِ: بڑی مشک۔ ج سُوْؤِبُ السُّؤْبَانِ: بال کا بہترین منتظم۔

المَسَابُ: بڑی مشک۔ بہت پانی پینے والا۔ سَأَتَهُ (ف) سَأَنًا: گلا گھونٹنا۔ گلا گھونٹ کر مار ڈالنا۔

السَّاتِ: گلے کی ایک جانب۔

سَادَهُ (ف) سَادًا وَ سَادًا: گلا گھونٹنا۔ سَيْدٌ: کھاری پانی کے پینے سے بیمار ہونا۔

صفت (مسنود)

سَدَّ (س) سَادًا: جِثَا الْجُرْحِ: زخم ٹوٹ کر بہنا۔ صفت (سنید)

أَسَادَ إِسَادًا: ساری رات چلنا۔ کہتے ہیں

”أَسَعَدَ يَوْمَهُ إِسْعَادًا مِنْ أَسَا وَ لَيْلَةً إِسَادًا“ جو شخص ساری رات چلتا رہا اس نے اپنے دن کو کامیاب بنایا۔

السُّؤَادُ: کھاری پانی پینے کی وجہ سے بیماری۔ السُّؤْدَةُ: بقیہ جوئی۔

المَسْنَادُ: تیل یا شہد کی مشک۔ سَأَرَ (ف) سَأَرًا وَ أَسَارَ: الشَّرَابُ فِي

بَيْنَهُمْ لُؤُكُونَ فِي فِئَاؤِ الدِّنَارِ-

النَّسَاءُ-س۔ وطن۔ وہ جہت جہاں کا ارادہ کیا جائے اور کہا جاتا ہے ”هُوَ بَعِيدُ النَّسَاءِ“ وہ بڑی ہمت والا ہے۔

سَبَّ (ن) سَبًّا و سَبَّيًّا: سخت گالی دینا۔ مقعد میں نیزہ مارنا (سَبًّا) الْحَبَلُ: رستی کو کاٹنا۔ الْفَرَسُ: گھوڑے کو زخمی کرنا۔ کو نہیں کاٹنا۔

سَبَّيَّةٌ: بہت گالی دینا الْاَسْبَابُ: اسباب پانا لِلْمَاءِ مَجْرَى: پانی کے لیے نالی درست کرنا الْاَمْرُ: سبب بننا۔

سَابَهُ مَسَابَةً و سَبَابًا: گالی دینا۔ تَسَبَّبَ: اسباب ڈھونڈنا بِهِ اِلَيْهِ: وسیلہ بننا بِالْاَمْرِ: سبب ہونا۔

تَسَابَّ: الرَّجُلَانِ: باہم قطع تعلق کرنا اور گالی گلوچ کرنا۔

اِسْتَبَّ: الْقَوْمُ: باہم گالی گلوچ کرنا۔ اِسْتَسَبَّ: لَهُ: گالی کیلئے پیش کرنا۔ اِسْتَسَبَّ لَهُ الْاَمْرُ: کام کا درست ہونا۔

السَّبُّ و السَّبْبَةُ و الْمَسَبُّ و الْمَسْبَةُ: بہت گالی دینے والا۔ السَّبُّ: ج سُبُوْب: رسی۔ عامر۔ کھوٹی۔ کتاب کا باریک ٹکڑا۔ پردہ۔

السَّبْبَةُ: مِنَ الْحَرِّ او الْبَرْدِ او الدَّهْرِ: عرصہ مقعد۔

السَّبْبَةُ: اَكْثَرُ شَهَادَاتٍ عِنْدَ الْمُؤَدِّينَ: ہفتہ۔

السَّبْبَةُ: جَسْ كَوْلُوْغٍ بَهْتٍ گالی دیں۔ عار بے عزتی۔

السَّبْبُ: رستی۔ ذریعہ۔ راستہ۔ کہا جاتا ہے ”مَالِي اِلَيْهِ سَبْبٌ“ میرے لیے اس کی طرف کوئی راستہ نہیں۔ و ”قَطَعَ اللهُ بِهِ السَّبْبُ“ اللہ نے اس کی زندگی ختم کر دی۔

دوستی۔ رشتہ داری۔ فِي الْغُرُوضِ: دو حرف متحرک یا ایک متحرک اور ایک ساکن۔

ج اَسْبَابٌ: اَسْبَابُ السَّمَاءِ: آسمان کے اطراف یا آسمان میں چڑھنے کی جگہ اور کہا جاتا

ہے ”تَعَاطَى الْاَسْبَابُ“ اس نے امور معیشت کے اسباب حاصل کئے۔ و ”تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ“ ان کی دوستیاں اور تعلقات ختم ہو گئے۔

السَّبْبُ و السَّبْبَةُ: بالوں کا گچھا۔ مِنَ الْفَرَسِ: گھوڑے کے دم کے بال۔ گھوڑی کی پیشانی کے بال۔ ایل۔ ج سَبَائِبُ: کہا جاتا ہے ”فَقَدْ عَقَّدُوا سَبَائِبَ خَيْلِهِمْ“ انہوں نے اپنے گھوڑوں کے دم کے بال میں گرہ لگائی۔

السَّبْبَةُ: کتاب کا باریک ٹکڑا۔ السَّبَابُ: بہت گالی دینے والا۔ مَوْثُ سَبَابَةٍ:

الْاِسْتِوَابَةُ: باعث گالی۔ کہا جاتا ہے ”بَيْنَهُمْ اُسْبُوْبَةٌ يَتَسَابَوْنَ بِهَا“ ان کے درمیان گالی کا سبب ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں۔

السَّبَابَةُ و الْمَسْبَةُ: اَكْثَرُ شَهَادَاتٍ-

سَبًّا (ف) سَبًّا و سَبَاءً و مَسْبًا: الْخَمْرُ: شراب کو پینے کیلئے خریدنا۔ الْجِلْدُ: کھال اُتَارَا الْجِلْدَ بِالنَّارِ: کھال کو آگ میں جلانا۔

الرَّجُلُ: کوڑے مارنا۔ مَصَافِرُ: کرنا۔ النَّارُ الْجِلْدُ: آگ کا کھال کو جھلس دینا۔

اَسْبًا لِاَمْرِ اللهِ: حکم الہی کے لیے جھک جانا۔ عَلَي الشَّرِّ: مطع ہونا۔

اِنْسَبًا: الْجِلْدُ: کھال کا اُتارنا۔ چھل جانا۔ اِسْتَبًّا اِسْتِئَاءًا: الْخَمْرُ: شراب کو پینے کے لئے خریدنا۔

السَّبَا و السَّبْبَةُ: شراب۔ السَّبَاءُ: سے فروش۔ السَّبَابَةُ: دور کاسفر۔

السَّبْبِيُّ: مِنَ الْحَيَّةِ: سانپ کی کینچلی۔ الْمَسْبِيَّةُ: پہاڑی راستہ۔ راستہ۔

سَبَّتَ (ن ض) سَبَّتًا: ہفتہ کے دن میں داخل ہونا۔ سبت منانا۔ آرام لینا الشَّيْءُ: کسی چیز کو کاٹنا الرَّاسُ: سر مَوْثُ الرَّجُلُ: تیران

ہونا الشَّعْرُ: بال لُكْنَا عُنُقَهُ: گردن پر مارنا۔ سَبَّتَ: الرَّجُلُ: نیند کا آجانا۔ اَسْبَتَ: ہفتہ کے دن میں داخل ہونا۔ اِنْسَبَتَ: الشَّيْءُ: کسی چیز کا دراز ہونا۔ الْجِلْدُ: کھال کا ترم ہونا الْوَجْهُ: چہرہ کا لبا ہونا۔

اِسْتَبَّتَ: الْيَهُودُ: یہودیوں کا ہفتہ کا دن منانا۔ السَّبْتُ: س۔ سنجہ۔ شنبہ۔ ج اَسْبَتَ و سُبُوْتُ: السَّبْتُ: بہت سونے والا۔ عمدہ گھوڑا۔ دلیر لڑکا۔ چالاک مرد۔ زمانہ۔ ہفتہ۔ (السَّبْتُ) زمانہ کا ایک عرصہ۔ السَّبْتُ: پکائی ہوئی کھال۔ رنگی یا باغت دی ہوئی کھال۔

السَّبْتُ و السَّبْتِ: نخطی کی مانند ایک پودہ۔ السَّبَاتُ: نیند یا ادو گھ۔ زمانہ۔ چالاک مرد۔ اِنْسَابَاتُ: دن رات (السَّبَاتُ) ایک قسم کی سمندری مچھلی۔ السَّبَاتَانِ: بیوقوف۔ السَّبَاتَاءُ: بیابان۔ السَّبْتِيُّ: دلیر۔ پیش قدمی کرنے والا۔ چیتا۔ ج سَبَاتٍ و سَبَاتِي: مؤنث سَبْنَاتَةٌ: السَّبْنَاتَةُ: زبان دراز عورت۔ الْمُسَبَّتُ: فاء۔ وہ شخص جو مرض وغیرہ کی وجہ سے نہ حرکت کرے نہ آنکھیں کھولے۔ الْمَسْبُوتُ: م۔ میت یا بیہوش سر منڈا ہوا۔ تَسْبِجٌ: سیاہ میل اوڑھنا۔ السَّبْحَةُ: کالا کھیل۔ ج سُبْحٌ: بغیر آستین کا کرتا۔ السَّبْحُ: سیاہ مہرے۔ السَّبَّاجُ: کالا کھیل بیچنے والا۔ ثَوْبٌ (مُسَبَّجٌ) چوڑا کپڑا۔ سَبَّحَ (ف) سَبَّحًا: الرَّجُلُ: اپنی معاش کیلئے تصرف کرنا۔ سونا اور آرام لینا۔ دور تک نکل جانا عَنِ الْاَمْرِ: فارغ ہونا۔ فِي الْكَلَامِ: بہت بولنا فِي الْاَزْضِ: کھودنا

الْقَوْمِ: پھر تا اور زمین میں پھیلنا (سَبَّحًا و سَبَّاحًا فِي الْمَاءِ وَ بِالْمَاءِ) تیرا اور بطور استعارہ کے ہوڑے کی رفتار اور سیرے کی چال کیلئے بھی استعمال کیا جاتا ہے (سَبَّحَانًا) سبحان اللہ کہنا۔

سَبَّحَ تَسْبِيحًا نماز پڑھنا۔ سبحان اللہ کہنا اللہ و لله: خدا کی پائی بیان کرنا۔ اَسْبَحَ تیرانا۔

السَّبْحَةُ: سبح کا اسم مرہ۔ کھال کے کپڑے۔

السُّبْحَةُ: دعا۔ تم کہتے ہو "قَضَيْتُ سُبْحِي" میں نے اپنی دعا پوری کر لی۔ نقل نماز۔ سُبْحٌ: سُبْحَةُ اللّٰهِ: اللہ تعالیٰ کا جلال۔

سُبْحٌ و سُبْحَاتٌ و سُبْحَاتٌ وَجْهِ اللّٰهِ: اللہ تعالیٰ کے انوار یا وہ دلائل عظمت جن سے باری تعالیٰ کی تقدیس کی جائے۔

السُّبْحَةُ: رُؤْيَا كَأَنَّكَ السُّبْحَةُ: پتھر یا لٹری کے ٹکے جو کہ لڑی پروئے جاتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ مختلف اذکار کئے جائیں۔

سُبْحَانَ: من کہا جاتا ہے "سُبْحَانَ اللّٰهِ" یعنی میں اللہ تعالیٰ کی عیب و نقائص سے پاک بیان کرتا ہوں۔ و "سُبْحَانَ مِنْ كَذَّابٍ" موقع تعجب کیلئے اور یہ اضافت کے معنی میں ہے۔ لَيْكُنَّ السُّبْحَانَ اللّٰهِ مِنْ كَذَّابٍ" کے معنی میں۔ و "أَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا فِي سُبْحَانِكَ" یعنی جو کچھ تیرے لُحْس میں ہے اس کا تو زیادہ جاننے والا ہے۔

التسْبِيحَةُ: من تسبّح کے کلمات۔ ج تسابيح.

التسَابِيحُ: فاج۔ سابِحوں و سَبَّاح و سَبَّاحَاء مؤنث سَابِحَةٌ ج سَابِحات و سَوَابِحُ. والتسَابِيحُ مِنَ الخَيْلِ: تیز رفتار گھوڑا۔ السَوَابِحُ: تیز رفتار گھوڑے۔

التسَابِيحَاتُ: کشتیاں۔ ستارے یا مومنین کی ارواح جو آسانی سے قبض کی جاتی ہیں یا فرشتے جو آسمان وزمین کے درمیان سبّح کرتے رہتے

ہیں۔

التسَابِيحُ: سَابِیح کا مبالغہ بڑا تیراک۔ ج سَابِحوں. تیراک ج سُبْحَاء. قُرْسُ السُّبُوْح: تیز رفتار گھوڑا جو اپنی رفتار میں ادھر ادھر نہ ہوتا ہو۔

السُّبُوْح و السُّبُوْحُ: باری تعالیٰ کی صفات میں سے ہے۔ اس کی تسبیح کی جاتی ہے۔

ثَوْبٌ (مُسْبِحٌ) مضبوط کپڑا۔ الْمُسْبِحَةُ و التَّسْبِيْحَةُ: کثرت شہادت۔ الْمُسْبِيْحَةُ: عِنْدَ الْعَامَةِ: عوام کے نزدیک یعنی نقل نماز۔ سُبْحٌ يَأْتِي السُّبْحَانَ: سبحان اللہ کہنا۔

السُّبْحِلُ: مونا۔ حَارِبَةٌ: سَحْلَةٌ: موٹی بلی لڑکی۔

السُّبْحَانُ: سبحان اللہ کہنا۔ سُبْحٌ (ن) سُبْحًا: گہری نیند سونا۔ فارغ ہونا۔ دور ہونا۔

سُبْحٌ (س) سُبْحًا: الْمَكَانُ: شورے والی ہونا۔ صفت (سُبْحٌ) سُبْحٌ: عَنْهُ: ہلکا کرنا۔ کہا جاتا ہے "اللَّهُمَّ سُبْحٌ عَنِّي الْيَحْمَىٰ أَوِ الشَّدَّةُ" اے اللہ مجھ سے بخار یا سختی کو ہلکا کر دے۔ الْحَرُّ: ٹھنڈا کرنا الْقَطَنُ و نَحْوَهُ: روئی دھنا الرُّجْلُ: گہری نیند سونا۔ فارغ ہونا العِرْقُ: رگ کا ساکن ہونا الْحَرُّ: گرمی کا کم ہو جانا۔

أَسْبِخُ فِي الْحَفْرِ: کھودنے میں زمینی شور تک پہنچنا۔ الْمَكَانُ: زمین شور والی ہونا۔ تَسْبِيْحُ: الْحَرُّ أَوِ الْعُصْبُ: گرمی یا غصہ کا ٹھنڈا پڑنا۔

أَرْضٌ (سَبِيْحَةٌ) ج سَبَاخ (وَسَبِيْحَةٌ) ج سَبَاخَاتُ: زمین شور۔

السُّبْحَةُ و التَّسْبِيْحَةُ: نمکین و دلدلی زمین۔ کالی کی مانند جو پانی کے اوپر آجائے۔ ج سَبَاخُ السَّبَاخِ: من الارض: ویران کھیت جو جو تانہ گیا ہو۔

السَّبِيْحُ: روئی کا پھلایا کھڑے ہوئے پر وغیرہ۔

السَّبِيْحَةُ: دھکی ہوئی روئی کا گالا۔ ج سَبَاخٌ: تم کہتے ہو "طَارَت سَبَاخُ الْقَطَنِ" روئی کے گالے اڑے۔

السَّبْدُ (ن) سَبْدًا: الشَّعْرُ: بال موٹنا۔ شَارِبُهُ: مویجھوں کا بڑھ کر ہونٹوں کو کھینچ لینا۔

السَّبْدُ الشَّعْرُ: بال کا موٹنے کے بعد ٹکٹنا الفَرْخُ: چوڑے کے پر ٹکٹنا اور سخت ہونا الرُّجْلُ: سر میں تیل نہ لگانا۔ رَأْسُهُ: سر میں سنگھڑی کرنا اور تر کرنا پھر چھوڑ دینا۔

الشَّعْرُ: بال کو جڑ سے موٹنا الْعُشْبُ: پرالی گھاس میں نئی گھاس اگانا۔

أَسْبَدَ الشَّعْرُ: بال موٹنا الْعُشْبُ: پرالی گھاس میں نئی گھاس اگانا۔

السَّبْدُ: بھیر یا مصیبت۔ ج أَسْبَادُ الْأَسْبَادِ: کالے کپڑے۔ أَسْبَادُ الْعُشْبِ: گھاس کا سر البتدائی و نیندگی کے وقت۔ اور کہا جاتا ہے "هُوَ سَبْدٌ مِنَ الْأَسْبَادِ" وہ چوری میں بڑا ہوشیار ہے۔

السَّبْدُ: کم بال۔ کہا جاتا ہے "مَالَهُ سَبْدٌ وَلَا لَيْدٌ" اس کے پاس نہ تو بال ہیں نہ اونٹنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔

السَّبْدُ: سبز گھاس کا بقیہ۔ السَّبْدُ: چھتھرا جس سے حوش کی نالی بند کی جائے۔ بد بختی۔ ج سَبْدَانٌ: ایک قسم کا پرندہ جس کے پردھاری دار ہوتے ہیں اور اس کا منہ کشادہ اور سر و چوچ چوڑی ہوتی ہے۔ السَّبْدُ و السَّبْدَةُ: بیڑو۔

السَّبْدِيُّ: لبدا۔ دلیر۔ جیتا (الف الحاق کیلئے ہے تانیث کیلئے نہیں) ج سَبَانِدٌ و سَبَانْدَةُ: کھیل کود میں رہنے والے لوگ۔

سَبْرٌ (ن ض) سَبْرًا و أَسْبَرُ و أَسْبِرُ: الْجَوْرُ أَوِ الْبُرِّ أَوِ الْمَاءِ: گہرائی کی

آزمائش کرنا۔

الامر: تجربہ کرنا۔ آزمائش کرنا۔ کہا جاتا ہے
”هذه مفازة لآئسبو“ اس بیابان کی
وسعت کا اندازہ معلوم نہیں۔

السبر: شیر (والسبر) اصل۔ رنگ۔
جمال۔ بیت۔ مشابہت۔ کہا جاتا ہے ”فلان
حسن الجبر والسبر“ جبکہ اچھی بیت والا
اور جمیل ہو ”و رأيتہ سبی السبر“ جبکہ
لاغر اور رنگ بدلا ہوا ہو ”وقد غلب علیہ
سبر فلان“ اس پر فلاں کی مشابہت غالب
ہے۔ السبر: دشمنی۔ ج. اسبار۔

السبرة: مخدبی صبح۔ ج. سبرات۔
السبر والسبرة: ایک شکاری پرندہ۔

السبار: ج. سبرو (المسبر والمسبار)
ج. مسابر و مسابیر: زخم کی گہرائی معلوم
کرنے کی سلائی۔

السبار: افریقہ کے جنگلوں کا ایک درندہ جو
بجوع کے مشابہ ہوتا ہے۔

السبورة: مٹی وغیرہ اٹھانے کے لئے ٹوکرا۔
السبارة: ایک قسم کا جہاز۔

السباری: ساہو کی جانب منسوب۔ عمدہ
کھجور۔ باریک بنی ہوئی مضبوط زورہ۔

السبورة: سلیٹ۔ بلیک بورڈ۔
المسبر: بیت و حسن و جمال۔ کہا جاتا ہے

”حمدت مسبره و مخبره“
المسبار: زخم کی گہرائی معلوم کرنے والا۔

ج. مسابیر۔
مسبرة: الجرح: زخم کی گہرائی۔

المسبرة: آزمائش۔
المسبور: مٹی اچھی بیت والا۔

سبرت: الرجل: قناعت کرنا۔
السبرت والسبروت: المسبروت والمسبروت

و السبرات: مسکین و محتاج۔ ج. سباریت و
سبار: السبروت: تھوڑی چیز۔ امر دلکا۔

السبروت من الازض: چھیل بیابان۔
المسبرت: وہ شخص جس کے بال نہ ہوں۔

سبب: الماء: پانی بہانا الرجل: نرم و

آہستہ چلنا۔ بری گالی دینا۔

تسبب الماء: پانی بہنا۔

السبب: بیابان۔ دور کی ہموار زمین۔ ج.
سیاسب اور کہا جاتا ہے ”أرض سیاسب
او سیاسب“ بیابان۔ دور کی ہموار زمین۔

سبط (س) سبطا و سبطا و سبوطا و
سبطان) منبوطة و سباطة۔
الشعر: بالوں کا سیدھا ہونا۔

سبط (ک) سباطة المطر: بہت بارش
ہونا اور دور تک ہونا۔

سبط سبطا: بخار ہونا۔

سببت: الساقه او النعجة: اونٹنی یا بھیڑ
کا ناتمام بچہ گرا دینا۔ صفت (مسطط)

أسبط: خوف کی وجہ سے چپ رہنا۔ کمزور
ہونا۔ گر کر بے حس و حرکت ہونا بالآرض:
چمٹا فی نومہ: نیند میں آنکھیں بند کرنا عن
الامر: غفلت کرنا۔

السبط: اولاد کی اولاد۔ اس کا اطلاق اکثر
نواسوں پر ہوتا ہے جیسے خدی کا اطلاق پوتوں پر
من اليهود: یہ لفظ یہودیوں کے لیے ایسے ہی
مستعمل ہے جیسے عرب کیلئے قبیلہ کا لفظ۔ ج.

أسباط۔

السبط والسبط: من الشعر: سیدھے
بال۔ السبط من المطر: کثرت بارش۔
ج. سباط: کہا جاتا ہے ”هو سبط الیدین
أو سبط الینان“ یعنی وہ نیاض و کریم ہے۔ و
”سبط الجسم“ عمدہ قد و قامت والا۔

السبط: تروتازہ لٹی گھاس۔ چینا کی مانند ایک
پودہ۔ واحد (السبطة) شعر سبط:

سیدھے بال۔ السبط: درخت جس کی
ڈالیاں بہت ہوں اور جزایک ہو۔

سباط: بروزن نظام بمعنی بخار۔
سباط: ایک ترکی مہینہ مطابق ماہ فروری۔

اس کو شباط بھی کہتے ہیں (اور یہ منصرف اور غیر
منصرف دونوں ہے)۔
السباطة: بال جو گتھی کرنے سے گرے۔
کوڑا کرکٹ۔ کوڑا خانہ۔

السبوط: ایک سمندری جانور۔

السباط: حجت جو دو مکانوں کے درمیان
راستہ پر ہو۔ ج. سوابط و ساباتات۔

السبطانة: نے۔ جس میں گولی ڈال کر پرندہ
کومارتے ہیں۔

أسبطر أسبطاراً: دراز ہو کر لیٹنا۔
أسبطر الابل: تیز چلنا لہ البلاد: کسی
کیلئے ممالک و بلاد کا درست ہونا۔

السبطر: تیز خاطر و چالاک۔ لسا۔ اسد
سبطر: حملہ کرنے کے وقت دراز ہونے
والا۔ کہا جاتا ہے ”جمال سبطرات“ لیٹے

ہوئے اونٹ (اس میں تا تائیف کی نہیں بلکہ
ایسی ہی ہے جیسے حمامات اور رجالات
نذکر کی جمع میں)۔

السباطیر والسبیطر: لمبارد۔

السبیطر: متکبرانہ چال۔

سبع (ف ن) سبعا القوم: ساتواں
ہونا۔ مال کا ساتواں حصہ لینا الرجل: سات
لڑکی کی رسی بنانا الشی: سات بنانا الرجل:
غیبت کرنا۔ گالی دینا الشی: چرانا۔ الذنب
الغتم: بھیڑے کا کبریٰ کو چھڑانا۔

سبعت: الوحشیة: درندے کا بچے کو کھا
جانا۔ صفت (مسبوقة)

سبعة: سات بنانا یا سات گوشہ کا بنانا الإناة:
برتن کو سات مرتبہ دھونا اللہ لك: سات
مرتبہ یا سات گناد بنانا یا سات اولاد دینا المرأة:
عورت کا ساتویں مہینے بچہ جننا القوم: پورے
سات سو ہونا۔

سابعه مسابعة و سبأعا: گالی گلوچ کرنا۔
أسبغ: القوم: سات ہونا الراعی:
چرواہے کے جانوروں میں درندہ کا آڑ پڑنا

الشی: سات بنانا المكان: بہت درندوں
والی ہونا۔ درندے کا گوشت کھلانا الرجل:
گھٹ پر ساتویں دن جانے والے اونٹوں کا
مالک ہونا ایسے اونٹوں کو (سوابع) کہتے
ہیں۔

أسبغ الشی: کسی چیز کو چرانا الغتم:

بکری کو چھارنا القوم: سات ہونا۔

السابع: فا. ساتواں۔ ج سبعة و سابعون.

سبعة: سات۔ مؤنث۔ سبع.

السبع: سبعة کا مؤنث۔ یوم السبع:

قیامت کا دن۔ السبع المثانی: سورہ فاتحہ یا

پہلی سات سورتیں۔ کہا جاتا ہے "طاق

بالیب سبعة" اس نے بیت کا سات مرتبہ

طواف کیا۔

السبع والسبع والسبع: درندہ۔ ج

أسبع و سباع و سبوع و سبوع مؤنث

سبعة و سبعة السبع من الطیر: شکاری

پرندہ۔

السبع: ساتواں حصہ۔ ج أسباع و حمی

السبع: ساتویں روز کی باری کا بخار۔

السبع: اونٹوں کا ساتویں دن گھٹا پرانا۔

السباعی: سات گوشے والا۔ سات حروف

والالفاظ۔ بڑا اونٹ۔ سباعی البدن: پورے

قدو قامت والا۔ مولود سباعی: ساتویں

مہینے پیدا ہونے والا بچہ۔

السبعون: من العدد: ستر (مذکر مؤنث

دونوں کے لئے)

السبع: ساتواں حصہ۔

الأسبوع: ہفتہ۔ ج أسابيع أرض

(مسنبوع) بہت درندوں والی زمین۔

المسبح: ساتویں مہینے پیدا شدہ بچہ۔ وہ بچہ

جس کی ماں مرگئی ہو اور کوئی دوسری عورت

دودھ پلائے۔ منہ بولا بچہ۔

المسبوع: درندہ سے خائف۔

سبع (ن) سبوعا: العیش: زندگی کا

دسبج و فرائز ہونا القوب: کپڑے کا زمین تک

لبا ہونا الشی: A: پورا ہونا الی و طہ: مائل

ہونا المطر: بارش کا زمین سے فریب ہونا۔

السبع: اللہ علیہ العیمة: نعمت کا کامل

کرنا پوری کرنا القوب: کپڑے کا لبھا و کشادہ

کرنا الرجل: پوری زرہ پہنانا النفقة: کسی

کے لیے کشادگی سے خرچ کرنا اور تمام

ضروریات پوری کرنا۔

السابع: فا. ذرع سابعہ: پوری زرہ۔ ج

سوابع. ذنّب سابع: لمبی دم۔ سابع

الایّین: بڑے چوڑوں والا۔

السبعة: آسودگی و وسعت۔

التسبیح: علم عروض والوں کے نزدیک

فاعلاحن کے آخر میں حرف ساکن زائد کرنا

مقطع رمل کی قسم میں وہ فاعلاحن ہو جاتا

ہے۔

التسبیح والتسبیح: خود کا وہ حصہ جو زرہ کی

کڑیوں سے مل کر گردن کو چھپاتا ہے۔ ج

تسابع (دونوں لفظ نچرے سے بھی ہیں)۔

سبعل: استبعل القوب: کپڑے کا پالی سے

تر ہونا الشعری: بالوں کا تیل سے تر ہونا۔

المسبعل: فرائز دراز۔

سبقة (ن ض) سبقا: الی کذا: آگے

بڑھ جانا علی کذا: غالب ہونا۔ سبق

علی قومہ: قوم سے بخشش و کرم میں بڑھ

جانا۔ صفت (سابق) ج سابقون و سابق:

سبقة: شرط لینا یا دینا الشاة: بکری کا ناتمام

بچہ گرانا الطیر: پرندہ کے پیر میں بندھن

ذالک: سبق البدرۃ بین الشعراء: دس

ہزار کی تھیلی شعراء کے درمیان رکھنا تاکہ جو

غالب ہو وہ لے لے۔

أسبق القوم الی الأمر: سبقت کرنا۔

سابقہ سابقا و مسابقہ: آگے بڑھنے میں

مقابلہ کرنا۔ تم کہتے ہو "سابقث بین

الخیل" میں نے گھڑوں میں مقابلہ کرایا۔

تسابق واستبق: القوم: ایک دوسرے پر

آگے بڑھنے میں مقابلہ کرنا۔ استبقا الباب

او الی الباب: دونوں نے دروازے کی

طرف آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ استبقا

الصراط: دونوں آگے بڑھ گئے اور راستہ کو

چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ گمراہ ہو گئے۔

السبق: ج أسباق و (السبقة) شرط جو

آگے بڑھنے پر رکھی جاتی ہے۔

کہا جاتا ہے ہما (سبقان) وہ دونوں ایک

دوسرے پر سبقت کرنے والے ہیں۔

السابق: فا. گھڑ دوڑ کے میدان کا پہلا

گھوڑا۔ اس کو بھی بھی کہا جاتا ہے بقیہ گھوڑوں

کے نام ترتیب وار یہ ہیں۔ المصلی:

المسلی: التالی: المراتح: العاطف:

الحظی: المؤمل: اللطم: السکیت:

ج سابقون و سابق اور بھی اس کو اسم

قرار دے کر سابق جمع لاتے ہیں۔ جیسے

خاتم و خواتم.

السابقة: السابق کا مؤنث۔ اولیت۔ کہا جاتا

ہے "لذ سابقہ فی ہذا الامر" اس کو اس

معاملہ میں اولیت حاصل ہے۔ ج سابق و

سایقات: السابق: گھوڑے۔

السباق: بہت آگے بڑھنے والا۔

السباق: س۔ پائے بند۔ بندش۔ سباق

الخیل: گھڑ دوڑ۔

السبوق والمسبق: من الخیل: آگے

بڑھنے والا گھوڑا۔

سبک (ن ض) سبکا و سبک: الفضة:

پگھلا کر سانچہ میں ڈھالنا الکلام: کلام کو خشو

زوائد سے پاک کر کے عمدہ بنانا۔ سبکته

التجارب: مہذب بنانا۔

انسبک: الذهب و نحوہ: پگھلانا۔

ڈھلانا۔

السینک: پگھلا ہوا۔ میل پھیل سے صاف کیا

ہوا۔ کہا جاتا ہے "تیسر سینک"

السینک: چاندی وغیرہ کا ڈالا جو پگھلا کر

سانچہ میں ڈھالا گیا ہو۔ ج سبناک:

المسک: پگھلانے اور ڈھالنے کی جگہ۔ ج

مسابک: استبکر: دراز ہو کر لینا الأسد:

حملہ کے وقت دراز ہونا۔ استبکرت

الجاریۃ: پورے قد والی ہونا۔

سبل (ن) سبلا: گالی دینا۔

سبل: المال: اللہ کی راہ میں خیرات کرنا

الشی: مباح کرنا البستر: پردہ لگانا۔

أسبل: البستر: پردہ لگانا الذمغ: آنسو

بہانا الماء: پانی گرانا الطریق: بہت

السَّبِيُّ من قیدی۔ کہا جاتا ہے ”جاءوا
بِسَبِيٍّ كَثِيرٍ“، عموماً اس کا لفظ مردوں کیلئے
اور سَبِيٌّ کا اطلاق عورتوں پر ہوتا ہے۔ ج
سَبِيٌّ و سَبِيٌّ الْحَيَّةِ سانپ کی کینچلی جس
کو چھوڑ دے۔

السَّبِيَّةُ قیدی مرد۔ قیدی عورت۔ کہا جاتا
ہے ”غلام سَبِيٌّ و جارية سَبِيَّةٌ“ ج
سَبِيًّا سَبِيٌّ الْحَيَّةِ سانپ کی کینچلی جس کو
چھوڑ دے۔

السَّبِيَّةُ قیدی عورت۔ ایک شہر سے
دوسرے شہر میں بھیجی ہوئی شراب۔ موتی
جس کو غوطہ خور نکالے۔

السَّبِيُّ وَالسَّبَاءُ لکڑی جس کو سیلاب ایک
جلد سے دوسری جلد لے جائے۔

سَوَابِي السَّبَابِ: جنگلی چوہے کے سوراخ
کی مٹی۔

السَّتُّ حیب بُری گفتگو۔
السَّتَّةُ چھ۔ مذکر کے لیے مستعمل ہے اور
مؤنث کے لیے سَتٌّ۔

السَّاتُ چھٹا۔
السَّتُونُ ساٹھ (مذکر مؤنث)
السَّتَبُ ایک قسم کی تیز چال۔

سَتْرٌ (ن ض) سَتْرًا و سَتْرًا و سَتْرًا
الشَّيْءُ: کسی چیز کو چھپانا۔ ڈھانکنا۔
سَاتَرَهُ مَسَاتَرَةً العَدَاوَةُ: مخفی دشمنی
کرنا۔

تَسْتَرُ وَاَسْتَرُ وَاَسْتَرُ: چھپانا۔ ڈھک جانا۔
کہا جاتا ہے ”هُوَ لَا يَسْتَرُ مِنَ اللَّهِ بِسِتْرٍ“
یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں۔

السِتْرُ پردہ۔ خوف۔ حياء۔ ج سَتُور و
اَسْتَارُ کہا جاتا ہے ”مَالَهُ سِتْرٌ وَلَا حِجْرٌ“
یعنی اسے حیا و عقل نہیں۔ و ”هَتَكَ اللَّهُ
سِتْرَهُ“ اللہ نے اس کے پردہ کو پھاڑ دیا۔ یعنی
اس کی بُرائیاں ظاہر کر دیں۔

السَّتْرُ سر ڈھال۔
السَّتَارُ پردہ۔ ج سَتْرُ کہا جاتا ہے ”مَدَّ
اللَّيْلُ سِتْرَاهُ“ رات نے اپنے پردہ کو پھیلا

وَالْمُسْتَبَلُّ لَبِي مَوَجَّحُونَ وَاللَّـ الْمُسْتَبَلُّ:
گوہ۔ جوئے کے تیروں میں سے پانچواں یا چھٹا
تیر۔ ہاہزی الحجیر۔

اَسْتَبْتِ المَرَاةُ بِمِشَّةٍ سِيَاهَةٍ بِنَدْبَانِ دِهَانِ
السَّبِيَّةُ عورتوں کا سیاہ تہ بند۔

السَّبْنْتُ وَالسَّبْنِيَّةُ عرصہ۔ کہا جاتا ہے
”اَقْمْتُ عِنْدَهُ سَبْنًا“ اس کے پاس میں نے
عرصہ تک اقامت کی۔

السَّبْنِيُّ دلیر۔ پیش قدمی کرنے والا۔ چیتا۔
ج سَبَانٍ و سَبَاتٍ۔

السَّبْنَدِيُّ دلیر۔ جگ میں پیش قدمی کرنے
والا۔ ج سَبَانِدٍ۔

سَبِهَ سَبَهَا و سَبَّهَ تَسْبِيْهَا بڑھاپے کی
وجہ سے عقل زائل ہونا۔ صَفَتْ (مَسْبُوْهُ و
مُسَبَّهٌ)

السَّبِيَّةُ بڑھاپے کی وجہ سے زوال عقل۔
رَجُلٌ (سَبِيَّةٌ و سَبَاةٌ) مغرور مرد۔

السَّبَاةُ سکتہ۔ زوال عقل۔
رَجُلٌ (سَبَاهِيٌّ) بڑھاپے کی وجہ سے عقل
زائل شدہ مرد۔

السَّبِيَّةُ فصیح زبان والا۔
سَبَهَلٌ کہا جاتا ہے ”جَاءَ الرَّجُلُ
سَبَهَلًا“ مرد بغیر ہتھیار اور ڈنڈے کے آیا۔

یعنی لا پرواہی سے آیا یا بغیر کسی کام کے آیا
”هُوَ يَمَشِي سَبَهَلًا“ وہ بیکار آتا جاتا ہے۔
سَبِيٌّ سَبِيٌّ سَبِيًّا و سَبَاءٌ العَدُوُّ دشمن
کو قید کرنا الرَّجُلُ دور کرنا۔ جلا وطن کرنا
الخَمْرُ: شراب کو ایک شہر سے دوسرے شہر
لے جانا الحَافِرُ المَاءِ: پانی تک کھودنا

فَلَانًا: کسی کو اپنی محبت میں قید کرنا۔
اِسْتَبِيَّ اِسْتَبَاءً العَدُوُّ دشمن کو قید کرنا
قَلْبُ فَلَانٍ کسی کے دل کو اپنی محبت میں قید
کرنا الخَمْرُ: شراب ایک شہر سے دوسرے
شہر لے جانا۔

تَسَابَى القَوْمُ بعض کا بعض کو قید کرنا۔
تَسَبَى فَلَانٌ لِفَلَانٍ کسی کا کسی سے اظہار
محبت کرنا اور اپنی طرف مائل کرنا۔

أمدرفت والا ہونا السَّمَاءُ بِرَسْنَا الذَّمْعُ
او المَطَرُ بكثر انساو بہنایا بكثر بارش
ہونا الزَّوْعُ خوشہ نکلنا۔

عَلِيٌّ فَلَانٌ کسی کے خلاف بہت گفتگو کرنا۔
السَّبِيلُ بارش جو ابھی زمین تک نہ پہنچی ہو۔

آکھ کی ایک بیماری جس میں آنکھ پر پردہ ہو جاتا
ہے۔ سَبَّہُ وَاي بارش یا خون۔ خوشہ۔ ناک۔

اَسْبَلُ الذَّمْعُ او المَطَرُ کا اسم۔ کہا جاتا ہے
”سَبَلٌ مِنْ رِهَاحٍ“ تیزوں کا مجموعہ خواہ کم ہو
یا زیادہ ”قِيَابٌ سَبَلٌ“ لٹکائے ہوئے
کپڑے۔

السَّبَلَةُ مومچھ کے بال۔ اوپر کے لب کے
درمیان کا دائرہ۔ دائرہ کا اگلا حصہ۔ ج۔

سَبَالٌ (وَالسُّوْلَةُ وَالسُّوْلَةُ) خوشہ۔ کہا
جاتا ہے ”مَلَا الْاِنَاءَ اِلَى سَبَلَتِهِ“ اس نے

برتن کو کنارہ تک بھر دیا۔ و ”جَوَّ سَبَلَتَهُ“ اس
نے گلاب سے اپنے کپڑے بھینچے و ”بَغِيْرُ حَسَنُ
السَّبَلَةِ“ باریک کھال والا اونٹ۔ و ”جَاءَ
وَقَدْ نَشَرَ سَبَلَتَهُ“ وہ دھکی دیتا ہوا آیا۔

السَّبِيلُ راستہ یا واضح راستہ (مذکر مؤنث)
ج سَبُلٌ و سَبُلٌ و سَبُلٌ و اَسْبَلَةٌ و سَبُولٌ

اِبْنُ السَّبِيلِ: مسافر۔ سَبِيلُ اللّٰه: جہاد۔
طلب علم۔ ج۔ امور خیر جن کا اللہ نے حکم دیا
ہو۔ کہا جاتا ہے ”لَيْسَ لَكَ عَلَيَّ سَبِيلٌ“ تم

کو میرے اوپر مواخذہ کا کوئی حق نہیں۔ و
”لَيْسَ عَلَيَّ فِي كَذَا سَبِيلٌ“ میرے اوپر
اس میں کوئی مواخذہ نہیں اور مولدین کہتے ہیں

”مَا عَلَيَّ الْمُحْسِنِ سَبِيلٌ“ محسن پر کوئی
معارضہ نہیں۔ و ”سَبِيلُنَا اَنْ نَفْعَلَ كَذَا“
یعنی ہم اس کام کے لائق ہیں۔

السَّبِيْلَةُ راستہ یا واضح راستہ۔
السَّبَالَةُ رہ چلا راستہ۔ کہا جاتا ہے۔

”سَبِيلٌ سَابَلَةٌ“ راستہ پر گزرنے والے
لوگ۔ ج سَوَابِلُ۔

عَيْنٌ (سَبَالَةٌ) لمبے پلکوں والی آنکھ۔ اِمْرَاةٌ
سَبَالَةٌ مومچھوں والی عورت۔

الْاَسْبَلُ وَالْمُسْبِلُ وَالْمُسْبِلُ
السَّبِيلُ

دیا۔ یعنی تاریکی بھیل گئی۔

السُّتْرَةُ: سَتْرُو (السَّيْرَةُ) سَتَانِي: پرودہ۔ سْتْرَةُ السُّطْحِ: حِجَّتِ پَرِ پَرْدِهِ كِي دِيوار۔

السُّتَيْرُ: چھا ہوا پاکدامن۔ کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ سَيِّرٌ وَاِمْرَاةٌ سَيِّرَةٌ“ سْتْرَاءُ: مِثْلُ قُتْلَاءٍ وَ شُهْدَاءٍ وَ شَجَرِ سَيِّيرٍ: بہت ذالیوں والا درخت۔

المُسْتَوْرُ: مَفْع۔ پاك دامن۔ سَجِ الْمُسْتَوْرُونَ وَ مَسَاتِيرُ: السَّيْرَةُ: سَاتِرٌ اَكَا مَبَاهِغٍ اَوْ رِيهٍ صِفَاتِ بَارِي تَعَالَى مِيں سے ہے۔

الْإِسْتَارُ: مِنَ الْعَدَدِ: جَارِ فِي الْوِزْنِ: چار مثقال۔ سَاتِرٌ وَ أَسَاتِيرُ: الْمُسْتَرُ وَ الْإِسْتَارَةُ: پرودہ۔ الْمُسْتَرُ: جَارِيَةٌ مُسْتَرَّةٌ: پرودہ نشین لڑکی۔

المُسْتَعِ وَ الْمُسْتَعِ: چست و چالاک اور بہت کار گزار مرد۔ السُّتُوقُ وَ السُّتُوقُ: کھونا درہم جس پر چاندی کاغ ہو۔

المُسْتَقَّةُ وَ الْمُسْتَقَّةُ: لَبِ آسْتِنِ كِي پوسٹین۔ چنگ و غیرہ بجانے کا آلہ۔

سَتَل (ن) سَتَلًا وَ تَسَاتَلٌ وَ انْسَتَلٌ وَ انْسَتَلُ الْقَوْمُ: پے در پے کیے بعد دیگرے نکلنا اللؤلؤ: موتیوں کا لگا تار بکھرنا الذمغ: آنسو قطرہ قطرہ بہنا۔ صفت (سائل) سَتَلَهُ (س) كَسَتَلًا وَ سَاتَلَهُ: بیرونی کرنا۔

السَّتَلُ: عِقَابٌ يَأْكُلُ قِشْمَ كَامٍ پَرِ نَدِهِ جُو عِقَابٌ يَأْكُلُ كَدِّهِ كَيْ مَشَابِهُهُ هُوَ تَابِعٌ۔ سَتَلَانٌ وَ سِتَلَانٌ: رُوِي جِيز۔

المُسْتَلُ: تَلِكِ رِاسَةٍ۔ تَسَاتِلُ: أَسْتَنَ الرَّجُلُ فِي السَّنَةِ: قَطْعَ سَالِي مِيں پڑنا۔

الْإِسْتِنَ وَ الْآسْتِنَانُ: بُوَسِيدَهُ دَرِخْتِ كِي جُزْئِيں۔

الْإِسْتَانَةُ: شَهْرٌ۔

سَتَهُ (ف) سَتَهَا الرَّجُلُ: بِيحْيَى لَكْنَا۔ چوڑا پرانا۔

السَّتَهُ وَ السَّتَهُ وَ السَّتَهُ: سَرِين۔ سَجِ اسْتَاهُ:

الْآسْتَهُ وَ السَّتَاهِي: بَرِي سَرِينِ وَاللَا۔ سَجِ سَتَهُ وَ سَتَهَانٌ وَ سَتَاهِي: مَوْنِثُ سَتَهَاءِ: سَتَا (ن) سَتَوَا: جلدی کرنا۔

أَسْتَيْ وَ سَتَيْ: الْفُؤُبُ: كِطْرُ ابْنِي كَيْ لِي تَانِي كُو بِيحْيَلَانَا۔

السَّتَا: تَانَا۔ بَهْلَانِي: كَمَا جَاتَا بِهٖ ”نَالِ مِنْهُ سَتَا“ اس نے اس سے بھلائی حاصل کی۔

الْأَسْتِي: تَانَا تَانَا وَ اِپْتِرَا۔ سَتَاةُ الْفُؤُبِ: كِپْرُے كَا تَانَا۔ كَمَا جَاتَا بِهٖ ”مَا أَنْتَ لِحَمَّةٍ وَ لَا سَتَاةٍ“ نہ تو تونانا ہے اور نہ تانا۔ یعنی نہ تو تونانی ہے نہ نقصان رساں۔

سَج (ن) سَجًا: پتلا پتلا پاخانہ کرنا۔ الْحَائِطَةُ: دِيوَارِ لِيَبِنَا۔

السَّجَّةُ وَ السَّجَا: بِهٖتِ بَانِي وَالْوَادِدِ۔ السُّجُجُ: لِيَبِي هُوِي تَحْتِيں۔ پاك نفوس۔

المِسْجَةُ: كَلْبِي كَا اِيكِ اَوْ زَرِجُو لِيَابِي كَيْ كَامِ آتَا بِهٖ۔

السَّجَبُ: پَرَانِي مَشْكُ۔ تَلَجِبُ: سِقَاءُ (سَجَابُ) خَشْكُ مَشْكُ۔ سَسْوَابُ: سَجَحَت (ف) سَجَحًا: الْحَمَامَةُ: كِبُوْرَتَا كُو كُو كَرْنَا (وَسَجَحُ) لَهُ بَكْلَامُ: تَعْرِيفُ كَرْنَا۔ اِشَارَةُ كُنَا يَهٗ سِي بَاتِ كَرْنَا۔

سَجَح (س) سَجَحًا وَ سَجَاةُ: اِعْتِدَالُ كَيْ سَاتَهُ طَوْلُ هُوَانَا۔ كَمْ كُو شَوْتِ وَاللَا هُوَانَا الْخُدُ: رِخْسَارُهُ كَا مَلَامُ هُوَانَا خُلْفُهُ: اِخْلَاقُ كَا نَزَمُ هُوَانَا۔ كَمَا جَاتَا بِهٖ فِي عَقْلِهِ

رِجَاحَةٌ وَ فِي فِي خُلْفِهِ سَجَاةٌ“ اس کی عقل میں چمکی اور اخلاق میں نرمی ہے۔

أَسَجَحَ الْوَالِي: مَعَاذُ كَرْنَا الرَّجُلُ: نَزَمُ اَوْ طَلَاغَتِ اَمِيْرٍ كَقَوْلِهِ كَرْنَا۔ كَمَا جَاتَا بِهٖ

”اِذَا سَأَلْتَ فَاسْجَحْ“ یعنی جب تم سوال

کرو تو نرم الفاظ بولو۔

أَسَجَحَ: لَهُ بِكَذَا: سَخَاوَتِ وَ جَوَالِ مَرْدِي كَمَا جَاتَا۔

السُّجُحُ: نَزَمُ آسَانُ۔ كَمَا جَاتَا بِهٖ ”رَجُلٌ سَجُحٌ“ نَزَمُ اِخْلَاقُ كَا مَرْدُ۔ اِنْدَازَهُ كَمَا جَاتَا بِهٖ ”يُوْتِنِيْمُ عَلَيَّ سَجُحٌ وَ اِحِدٌ“ ان کے مکانات ایک اندازہ کے تیب (و السُّجُحِ) رِاسَتَهُ كَا دَرِمِيَانِي صَمَدُ۔

السُّجُحِ: نَزَمُ وَ آسَانُ۔ السُّجُحَةُ وَ السُّجُحِيَّةُ: عَادَتُ۔ فَطْرَتُ۔ طَبِيْعَتُ۔ السُّجُحِيَّةُ: اِنْدَازَهُ كَمَا جَاتَا بِهٖ

”رَكِبَ سَجُحِيَّةً رَاسِيَةً“ اس نے ایک رائے کو اپنے لئے پسند کیا اور اس پر چل پڑا۔

الْأَسْجُحُ: جُو بِيصُوْرَتِ تَنَاسُبِ اِعْضَاءِ وَاللَا۔ مَوْنِثُ سَجْحَاءِ: سَجُحِجُ:

بَرُوْدَانِ قَطَامُ۔ نَامُ اِيكِ عَوْرَتِ كَا جِسْمُ كَيْ حَضْرَتِ اَبُو بَكْرٍ صَدِيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَيْ عَمْدِ خِلَافَتِ مِيں دَعْوَةَ نُبُوْتِ كَمَا تَقَا۔

السَّجَا: سَانِي۔ كَمَا جَاتَا بِهٖ ”جَلَسْتُ بِسَجَا وَ جِهِيهِ“ مِيں اس کے منہ کے سانسے بیٹھا۔ السَّجَا: فِضَائِ آسَانِي۔

المَسْجُوحُ وَ الْمَسْجُوحَةُ: عَادَتُ۔

سَجَد (ن) سَجُودًا: فَرُوْتِي سِي بَهْلَانَا۔ عِبَادَتُ كَيْلِي زَمِيْنِ پَرِ پِيْشَانِي كُو رَكْعَانَا۔ صِفَتُ مَذْكُر (سَاجِد) سَجَدٌ وَ سَجُودٌ وَ صِفَتُ مَوْنِثُ (سَاجِدَةٌ) سَجَدَاتُ وَ سَوَاجِدُ:

كَمَا جَاتَا بِهٖ هُوَ سَاجِدُ الْمُنْحَرُ“ وہ پست و ذلیل ہے۔ ”عَيْنُ سَاجِدَةٍ“ چمکی ہوئی آنکھ۔ ”نَخْلَةُ سَاجِدَةٍ“ جھکا ہوا کھجور کا درخت۔

سَجَدَت (س) سَجَدًا: رَجُلُهُ: سَمِيْرَا كَا پھوٹنا۔

أَسَجَدُ: سَرِجْمَا تَا عَيْنَهُ: نَگَاہِ پَسْتِ كَرْنَا۔ الْاَسْجَدُ: پھولے ہوئے پاؤں والا۔ السَّجَادُ: بہت سجدہ کرنے والا۔

درمیانی چال چلنے والا۔ وَجْهٌ سَاجِعٌ: اچھی خلقت کا معتدل چہرہ۔ نَاقَةٌ سَاجِعَةٌ: طرب و نشاط کے ساتھ آواز نکالنے والی اونٹنی۔

السَّجْعُ: مقفی کلام۔ سَجَاعٌ: السَّجْعَةُ وَالْأَسْجُوعَةُ: قافیہ دار کلام کا ایک ٹکڑا۔ سَاجِعٌ: مقفد۔

سَجَفَ (ن) سَجَفًا وَ سَجَفًا: البَيْتُ: مکان کا پردہ لگانا۔

سَجَفَ (س) سَجَفًا: پتلی کروانا ہونا۔

أَسَجَفَ: البَيْتُ: پردہ لگانا۔ البَيْتُ: مکان کا پردہ لگانا اللیل: تار کی بڑھنا۔

السَّجْفُ وَالسَّجْفُ: سَجُوفٌ وَ أَسْجَافٌ وَ (السَّجَافُ وَالسَّجِيفُ) دروازے کے دو پردے جن کے بیچ میں کھلا ہوا ہو۔ پردہ۔ السَّجَافُ: گوٹ۔ سَجَافٌ: کہا جاتا ہے "أَزْحَى اللَّيْلُ سُجُوفُهُ" رات نے پردے ڈال لئے۔ یعنی تار کی پھیل گئی۔

السَّجْفَةُ: رات کا ایک حصہ۔

السَّجَافَةُ: پردہ حجاب۔

سَجَلٌ (ن) سَجَلًا: یہ: اوپر سے پھینکانا۔

المَاءُ: پانی کرنا الْكِتَابُ: لگانا پڑھنا۔

سَجَلٌ: بِالشَّيْءِ: اوپر سے پھینکانا۔ سَجَلُ الرَّجُلِ: عہد نامہ لکھنا الاوزاق: کچھری اور ٹکڑوں میں اوزاق کو تحریر میں لانا۔

القَاضِي عَلَيْهِ: فیصلہ کرنا عَلَيْهِ بِكَذَا: مشہور کرنا لَهُ بِمَا لَوْ: ثابت کرنا۔

سَاجِلُهُ مُسَاجِلَةٌ وَ سَجَالًا: مقابلہ کرنا۔ دوڑ یا شعر گوئی میں مقابلہ کرنا۔

الْأَشْجُرُ: آنکھوں میں سرخی والا۔ مَوْتٌ سَجْرَاءٌ: خالص کچھڑ والا تالاب۔ شِرٌّ: شَعْرٌ (مُسَجَّرٌ وَ مُنْسَجَّرٌ) لکھے ہوئے بال۔ الْمُسَجَّرُ: وہ دریا وغیرہ جس کا پانی کم ہو گیا ہو۔

الْمُسَجَّورُ: سنا ساکن اور بھرا ہوا۔ خَالٍ (خُذ) زیادہ پانی ملا ہوا دودھ۔ اللُّو الْمُسَجَّورُ: پروئے ہوئے موتی۔ لَازِي سے بکھرے ہوئے موتی۔ لَوْلُوَةٌ مُسَجَّورَةٌ: بہت آبدار موتی۔

السَّجُورِيُّ: بیوقوف۔

سَجَسَ (س) سَجَسًا: المَاءُ: گدلا اور متغیر ہونا۔ صفت (سَجَسٌ وَ سَجَسٌ وَ سَجِسٌ) سَجِسٌ: المنهَلُ چشمہ کا بدبودار و خراب ہونا۔

السَّجَسُ: سنا۔ فساد۔ گدلا پن۔ کہا جاتا ہے "أَلَا أَمِيكَ سَجِسٌ اللَّيْلِيُّ" میں تیرے پاس کبھی نہیں آؤں گا۔

السَّجَسَجُ: زمین جو نہ سخت ہو نہ نرم۔ پو پھنے اور آفتاب نکلنے کے درمیان کا وقت۔ کہا جاتا ہے "يَوْمٌ سَجَسَجٌ" دن کہ جس میں نہ تو تکلیف دہ گرمی ہو اور نہ سخت سردی ہو۔ و "هَوَاءٌ سَجَسَجٌ" گرم اور سرد کے درمیان معتدل فضا۔ و "رَيْحٌ سَجَسَجٌ" نرم و معتدل ہوا۔ سَجَسَجٌ وَ سَجَسَجٌ: مقفی

سَجَعٌ (ف) سَجَعًا: الخَطِيبُ: مقفی کلام بولنا۔ صفت (سَاجِعٌ وَ سَجَاعٌ وَ سَجَاعَةٌ) الحَمَامَةُ: کبوتر کا کو کو کرنا۔

صفت (سَاجِعَةٌ وَ سَجُوعٌ) سَجْعٌ وَ سَوَاجِعُ النَاقَةُ: اونٹنی کا لمبی آواز نکالنا اور یہ کمان کے لیے بھی مستعمل ہے) کہا جاتا ہے "سَجَعُ فَلَانٍ ذَلِكَ الْمَسْجَعُ" فلاں نے اس مقصد کا ارادہ کیا۔

سَجَعٌ: الخَطِيبُ وَ الحَمَامَةُ: بھمنی سَجَعٌ (تشدید مبالغہ کے لیے ہے) السَّاجِعُ: فَا: لُفْتُكُو: رفتار وغیرہ میں

السَّجْدَةُ سَجْدٌ كَالِاسْمِ۔

السَّجَادَةُ وَ الْمَسْجِدَةُ: جائے نماز۔

الْمَسْجِدُ وَ الْمَسْجِدُ: سجدہ گاہ۔ عبادت گاہ۔ مَسَاجِدُ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ: بیت اللہ شریف۔ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى: مسجد بیت المقدس۔ الْمَسْجِدَانِ: مکہ و مدینہ کی مسجدیں۔

الْمَسْجِدُ: آدمی کی پیشانی۔ مَسَاجِدُ: سَجْرٌ (ن) سَجْرًا: التَّنُورُ: تنور میں ایندھن ڈال کر گرم کرنا الْمَاءُ الْهَيَّو: پانی کا دریا کو بھرنا السَّجْرُ: سمندر کا جوش میں آنا الْمَاءُ فِي حَلِقِهِ: پانی پکانا الْكَلْبُ: گلے میں لکڑی باندھنا الشَّيْءُ: بھینچنا (سَجْرًا وَ سَجُورًا) النَاقَةُ: لمبی آواز نکالنا۔

سَجْرٌ: الْمَاءُ: پانی جاری کرنا التَّنُورُ: تنور میں ایندھن ڈال کر گرم کرنا النَاقَةُ: اونٹنی کا لمبی آواز نکالنا۔

سَجْرٌ: السَّجْرُ: سمندر کا چڑھنا۔ بلند موجوں والا ہونا۔

سَاجِرَةٌ: مخلص دوست بنتا۔

الْأَسْجُرُ: الْإِنَاءُ: برتن کا بھر جانا الْإِبِلُ فِي سَبِيلِهَا: اونٹوں کا لگانا تار پلانا۔

السَّجْرُ: سنا۔ بادل کی گرج۔ بِنْتُ سَجْرٍ: بھرا ہوا کواں۔

السَّجْرَةُ: پانی جو دریا کو بھر دے۔ سَجْرٌ (وَالسَّجْرُ) فِي الْعَيْنِ: سرخی ملی ہوئی سپیدی۔

السَّاجِرُ: فا۔ سیلاب جو ہر چیز کو بھر دے۔ وہ جگہ جس کو سیلاب آکر بھر دے۔

السَّاجُورُ: لکڑی جو کتے کے گلے میں لٹکانی جاتی ہے۔ سَجَاجِيرٌ: اور اسی سے ہے "سَوَاجِرُ الْكَلْبِ" یعنی اس نے کتے کے گلے میں لکڑی لٹکانی اور کہا جاتا ہے "فِي أَعْنَاقِهِمْ سَوَاجِرٌ" ان کے گلوں میں طوق ہیں۔

الْمَسْجِرُ وَ السَّجُورُ: تنور میں جمبوکتے کی لکڑی وغیرہ۔

السَّجِيرُ: مخلص دوست۔ سَجْرَاءٌ

کھیت میں جانوروں کو آزادانہ چھوڑنا۔

تَسَاجِلًا: باہم مقابلہ کرنا۔

اِنْسَجَلٌ: اوپر سے گرنا۔ کہا جاتا ہے 'سَجَلُ

الماءِ فَانْسَجَلُ' اس نے پانی گر لیا جس وہ

گرا۔

السَّجَلُ: س۔ بڑا ڈول جس میں پانی ہو۔ ڈول

بھر۔ عطیہ۔ سختی مرد۔ بڑا تھن۔ سَجَالٌ و

سُجُونٌ اور کہا جاتا ہے 'الْحَرْبُ بَيْنَهُمْ

سَجَالٌ' یعنی لڑائی میں غلبہ کبھی ایک کو ہوتا

ہے کبھی دوسرے کو۔ السَّجَلُ: حصہ۔ کہا

جاتا ہے 'اَغْطَاهُ سَجَلَهُ مِنْ كَذَا' اس نے

اس کو اس کا حصہ فلاں چیز سے دیا۔

السَّجَلُ: معاہدات کا رجسٹر۔ احکام کا رجسٹر۔

قاضی کا رجسٹر جس میں دعوے اور احکام وغیرہ

لکھے جاتے ہیں تاکہ قاضی کے پاس محفوظ

رہے۔ سَجَلَاتٌ:

السَّجِيلُ: نکر۔

عَيْنٌ (سُجُونٌ) بہت آنسو بہانے والی

آنکھ۔

السَّجِيلُ: حصہ۔ کہا جاتا ہے 'اَغْطَاهُ

سَجَلَهُ مِنْ كَذَا' اس نے اس کو اس کا حصہ

فلاں چیز سے دیا۔ شئیء سَجِيلٌ: بہت سخت

چیز۔ ضَرْعٌ سَجِيلٌ: لٹکا ہوا برا تھن۔ دَلْوٌ

سَجِيلٌ و سَجِيلَةٌ: بڑا ڈول۔ نَاقَةٌ

سَجَلَاءٌ: بڑے تھنوں والی اونٹنی۔

السَّوَجَلَةُ و السَّوَجَلُ و السَّاجُولُ:

شیشی کا غلاف۔ سَجُولٌ:

مُتَسَجِّلٌ: منع۔ ہر ایک نیکے جائز۔ کہا جاتا

ہے 'فَعَلْنَا وَ الذَّهْرُ مُسَجَّلٌ' ہم لوگوں

نے اس کام کو ایسے وقت میں کیا کہ کوئی کسی

سے نہیں ڈرتا تھا۔

السَّجَلَاتُ: چنبلی۔

سَجَمٌ (ن) سَجُونًا و سَجَامًا: الذَّمْعُ:

آنسو بہنا۔ صفت (ساجم)

سَجَمٌ (ن) ض) سَجَمًا و سُجُونًا عَنِ

الْأَمْرِ دِر کرنا۔ (ض) سَجَمًا و سُجُونًا

و سَجَمَانَا عَيْنٌ أَوْ السَّحَابَةُ الْمَاءِ:

آنکھ کا آنسو یا بادل کا پانی بہنا۔

سَجَمٌ تَسَجَامًا و تَسَجِيمًا و سَجَمٌ:

الماءِ: پانی گرنا۔ اَنْجَمَتِ السَّحَابَةُ: دیر

تک برساتا۔

اِنْسَجَمَ الْمَاءُ: پانی گرنا۔ بَهْنَا الْكَلَامُ:

کلام کا مرتب ہونا۔

تَسَاجَمَتِ الدَّمُوعُ: آنسو بہنا۔ گرنا۔

اَسَجَمَ: پانی۔ آنسو۔

عَيْنٌ (سُجُونٌ) آنسو بہانے والی آنکھ۔ سَج

سُجُونٌ: نَاقَةٌ (سُجُونٌ و مَسْجَامٌ) بہت

دودھ والی اونٹنی۔ سُجُونٌ و مَسْجِيمٌ:

مَكَانٌ (مَسْجُونٌ) بارش شدہ جگہ۔

سَجَنَةٌ (ن) سَجَنًا: قید کرنا۔ سَجَن

الْهَمِّ: غم پوشیدہ کرنا۔

سَجَنٌ: الشَّيْءُ: پھڑٹا۔

السَّجَنُ: قید خانہ۔ سَجُونٌ:

السَّجَانُ: داروغہ نیل۔

السَّجِينُ: قیدی۔ سَجِنَاءٌ و سَجِنِي:

مؤنث سَجِينٌ و سَجِينَةٌ سَجِنِي و

سَجَانِنٌ: ضَرْبٌ سَجِينٌ: سخت مار جو

مضر و ب کوز میں پر بھادے۔

اَلْمَسْجُونُ: مفتح۔ قیدی۔

السَّاحِيَةُ: السَّاجِنُ کا مؤنث۔ پہاڑ میں پانی

بہنے کی جگہ۔ سَجَوَانٌ:

السَّجِينُ: ہمیشہ سخت۔ وہ شخص جو ہمیشہ بلا

بیوی کے رہے۔ ایک مقام کا نام جس میں کفار و

فجار کے اعمال تھے ہیں۔ جہنم کی ایک وادی کا

نام۔ بر ملا و اعلانیہ۔ کہا جاتا ہے 'جَاءَ سَجِينًا'

وہ بر ملا آیا۔ کھجور کے درخت کے ارد گرد کا

گڑھا۔

السَّجَنَجَلُ: آئینہ۔ چاندی کا ٹکڑا۔ سَج

سَنَاجِلُ:

سَجَا يَسْجُو سَجُونًا و سُجُونًا: اللَّيْلُ:

رات کا سناں ہونا۔ ہمیشہ رہنا۔ النَاقَةُ: کبھی

آواز نکالتا۔

سَجِي تَسْجِيَةٌ: المَيِّتُ: میت کو کپڑے

سے ڈھلانا۔ اور اسی سے ہے 'سَجَّ مَعَابِدُ

أَخْيَك' اپنے بھائی کے عیوب کو چھپاؤ۔

اَسَجَّتِ اِسْجَاءً: النَاقَةُ: اونٹنی کا زیادہ

دودھ والی ہونا۔ اَسْجَى الْبَحْرُ: سمندر کی

موجوں میں سکون ہونا الرَّجُلُ: کسی چیز کو

چھپانا۔

سَاجَاهُ کسی کام کو ہمیشہ کرنا۔ کہا جاتا ہے

'اَنَا بَالطَّعَامِ فَمَا سَاجِيْنَا' وہ ہمارے

پاس کھاتا ایا ہم نے اس کو نہیں چھوڑا۔

السَّاجِي: فَاسَاكُنْ: قرار یافتہ۔ نرم۔ کہا

جاتا ہے 'عَيْنٌ سَاجِيَةٌ' جھگی ہوئی آنکھ۔ و

'لَيْلَةٌ سَاجِيَةٌ' سناں رات۔ بہت تاریک

رات جو بر چیز کو ڈھانک لے۔

اِمْرَأَةٌ (سَجَوَاءٌ) الطَّرْفُ: جھگی ہوئی نگاہ

والی عورت۔ نَاقَةٌ سَجَوَاءٌ: دوشے کے

وقت خاموش رہنے والی اونٹنی۔ رِيحٌ

سَجَوَاءٌ: نرم ہوا۔

السَّجِيَّةُ: طَبِيعَتٌ عَادَتٌ تَسْجِيَاتٌ وَ

سَجَايَا

سَجَ (ن) سَجَا: بہت موٹا ہونا۔

الماءِ: پانی کو لگا تا بہت گرانا اور اسی سے ہے

'اِسْتَشَدَّتْهُ قَصِيْدَةٌ فَسَجَّهَا عَلَيَّ

سَجًا' میں نے اس سے قصیدہ پڑھوایا اس نے

میرے سامنے لگا تا پر زہا۔ مارنا۔ کہا جاتا ہے

'سَجَّ مَاتَهُ سَوَطٌ' اس نے اس کو سو

کوڑے مارے (سَجًا و سُجُوْحًا و

تَسْجِيحٌ) بہت بہنا۔

سَجَّتْ (ض) سُجُوْحًا و سُجُوْحَةٌ:

الشَّاةُ: بہت موٹی ہونا گویا کہ موٹاپے کی وجہ

سے چربی بہانی ہے۔ صفت (سَاحٌ و سَاحَةٌ)

سَاحٌ و سَاحَةٌ:

اِنْسَجَّ: اِبْطُ الْبَعِيْرِ عَرْفًا: اونٹ کی بغل

سے پسینہ بہنا۔

السَّحُّ و السَّحُّ: خشک متفرق کھجوریں۔

السَّحَاحُ: قِطَاعٌ آسَانِيٌّ:

سَحَابَةٌ (سَحُوْحٌ) بہت بارش والا بادل۔

عَارَةٌ (سَحَاءٌ) اچانک دشمن پر مصیبت

لانے والی لوٹ۔

عَيْنٍ (سَحَاةٌ) بہت آنسوؤں والی آنکھ۔
 قُرْسٌ (سَح) تیز رفتار عمدہ گھوڑا۔
 سَحْبَةٌ (ف) سَحْبًا زمین پر گھینٹا۔
 الرَّجُلُ: بہت کھانا پیانا کہا جاتا ہے "جاءَ
 بِسَحْبٍ ذِيْلَهُ" وہ منگھبرانہ چال چلتا ہوا آیا۔
 تَسَحَّبَ عَلَيْهِ: ناز کرنا من الاکل او
 الشُّرْبُ: بہت کھانا پینا ہی حتی فُلَانٍ
 چھین کر اپنے حق میں ملا لیا۔
 السَّحْبُ گھینٹا۔
 السُّحْبَةُ آنکھ کا پردہ (السُّحَابَةُ) تالاب
 کا پانی مانہ پانی۔

السَّحَابُ بادل۔ نَسُحِبُ واحد
 (سَحَابَةٌ) نَسَحَابٍ کہا جاتا ہے
 "اَقَمْتُ عِنْدَهُ سَحَابَةً يَوْمَنَا" میں نے اس
 کے پاس پورے دن اقامت کی۔

السَّحْبِلُ کشادہ وادی۔ بڑا ڈول۔ بڑی
 منگ۔ بڑا پیٹ۔ بڑی گوہ۔

سَحَتٌ (ف) سَحْتًا وَسَحَتٌ حرام مال
 کمانا۔ ہلاک کرنا۔ جڑ سے اکھیرتا۔ ذن کرنا۔

سَحَتٌ الشَّخْمُ عَنِ اللِّحْمِ: چربی کو
 گوشت سے علیحدہ کرنا۔ جُحَةُ الْأَرْضِ: مٹانا۔
 أَسْحَتَهُ خراب کرنا۔ ہلاک کرنا۔ جڑ سے
 اکھیرنا۔ أَسْحَتَتْ تِجَارَتُهُ: تجارت میں
 حرام داخل ہونا۔

أَسْحَتَ مَالٌ ضَالَعٌ هَوَانًا۔

السَّحْتُ مصل۔ بوسیدہ کپڑا۔ عذاب۔ اور
 کہا جاتا ہے "يَالَهُ أَوْ ذِمَّةُ سَحْتٌ" اس کا مال
 یا خون اس شخص کیلئے جو ان کو معدوم کرے

مباح ہے۔ السَّحْتُ وَالسُّحْتُ حرام۔
 ہر وہ مکان جو غیبت و فحش ہو اور اس سے عار
 لازم آئے۔ جیسے رشوت وغیرہ۔ نَجْ
 أَسْحَاتُ۔

مَالٌ (سُحْتٌ وَ سَحْتٌ وَ سَحِيحٌ وَ
 مُسْحَتٌ وَ مَسْحُوتٌ) تلف شدہ مال۔
 ہلاک شدہ مال۔ رَجُلٌ سُحْتٌ وَ سَحِيحٌ:
 بڑا پیٹو۔ آسودہ ہونے والا۔ عَامٌ (أَسْحَتٌ)
 وَ أَرْضٌ (سَحْتَاءٌ) بے نباتات والا سال یا

زمین۔
 السُّحُوتُ وَالسُّحِيحَةُ کم روشن اور
 زیادہ پانی والا ستو۔ تھوڑی چیز۔

السُّحُوتُ وَالسُّحِيحَةُ: پرانا کپڑا۔
 السُّحِيحَةُ: سب کچھ بہا لے جانے والا بادل۔
 مَسْحَاتٌ۔

مَسْحُوتٌ: الْجَوْفُ وَالْمَعْدَةُ: آسودہ
 ہونے والا۔ زیادہ بد بھسی ہونے والا۔ (ضد)
 سَحِيحَةٌ (ف) سَحِيحًا وَ سَحِيحَةٌ: چھیلنا
 الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ: کسی چیز کو کسی چیز سے رگڑ کر
 چھیلنا۔ مَفْتُ مَفْعُولٌ (مَسْحُوجٌ وَ
 سَحِيحٌ)

سَحِيحَةُ الذَّابِيَةِ: چوپایہ کا جلدی چلنا۔

تَسْحُجٌ وَنَسْحُجٌ: چھلنا۔
 السَّحَّاجُ: بہت چھلنے والا۔ کہا جاتا ہے
 "لَمَنْ سَحَّاجٌ" بہت سخت زمانہ جو ہر چیز کو
 چھیل کر رکھ دے۔

السُّحُوجُ وَالْمَسْحَاجُ: بہت قسم کھانے
 والی عورت۔

الْمَسْحُجُ وَالْمَسْحَاجُ: مِنَ الدَّوَابِّ:
 تیز چلنے والا جانور۔ دانٹوں سے بہت کاٹنے
 والا۔ الْمَسْحَاجُ: لکڑی کا کاٹنے کا اوزار۔

زَمَنٌ مَسْحَاجٌ: بہت سخت زمانہ جو ہر چیز کو
 چھیل دے۔

سَحْرَةٌ (ف) سَحْرًا: دھوکا دینا۔ جادو
 کرنا۔ فَرِيْقَةٌ كَرَاهَ عَنْ كَذَا: پھیرنا۔ دور
 کرنا۔ سَحْرٌ عَنِ الْأَمْرِ: کسی معاملہ سے دور
 ہونا۔ سَحْرُ الْفِضَّةِ: چاندی پر سونے کا
 جمبول چڑھانا۔

سَحْرَةٌ (ف) سَحْرًا: پھیرنے پر مارنا۔
 مَفْتُ مَفْعُولٌ (مَسْحُورٌ وَ سَحِيحٌ) الْمَطْرُ
 الطَّيْنُ: خراب کرنا۔

سَحْرٌ (س) سَحْرًا: صُحُورِے آنا۔ ڈول
 وغیرہ کھینچنے سے پھیرنے کا کٹ جانا۔ مَفْتُ
 (سَحْرٌ وَ سَحِيحٌ)

سَحْرَةٌ: جادو کرنا۔ سَحْرِي دینا یا کھانا۔ غذا
 دینا۔ مَشْغُولٌ کرنا۔

السُّحْرُ: صبح کے وقت جانا۔

تَسْحَرُ: سحری کھانا۔

اِمْتَسَحَرُ: صبح کے وقت میں داخل ہونا یا صبح
 کے وقت لٹکانا۔ اَلدِّيْكُ: مرغ کا صبح کے وقت
 بانگ دینا۔

السُّحْرُ: مس۔ وہ چیز جس کا ماخذ لطیف و دقیق
 ہو۔ باطل کو حق کی صورت میں ظاہر کرنا۔
 جادو۔ دھوکا۔ حیلہ۔ فساد۔ ہر وہ چیز جس کے
 حاصل کرنے میں شیطانی تقرب کی ضرورت
 ہو۔ نَسْحَارٌ وَ سُحُورٌ: السُّحْرُ
 الکلامی: کلام کی لطافت جو جادو کا کام کرے
 اور خیالات کو پلٹ دے اور اسی سے ہے "اِنَّ

مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا"

السُّحْرُ: صبح سے کچھ پہلے۔ السُّحُورُ
 الاغلی: صبح کا ذب۔ والسُّحْرُ الْآخِرُ: صبح

صادق۔ السُّحْرُ: ہر چیز کا کنارہ۔ مَسْحَارُ:
 السُّحْرُ وَالسُّحْرُ وَالسُّحْرُ: پھیرنا۔ نَجْ

سُحُورٌ وَ سَحْرٌ وَ اَسْحَارٌ اور کہا جاتا ہے
 "اِنْفِطَعْ مِنْهُ سَحْرِي" میں اس سے ناامید

ہو گیا۔ "اِنْفِطَحَ سَحْرُهُ" وہ بزدل ہو گیا۔
 گویا خوف کی وجہ سے اس کا پھیرنا بھول گیا۔ و

"مَاتَ فَلَاحٌ بَيْنَ سَحْرِي وَ نَحْرِي"
 فلاں کا انتقال میرے سینے سے ٹیک لگائے
 ہوئے ہوا۔

السُّحْرِي وَالسُّحْرِيَّةُ: صبح سے کچھ پہلے۔
 السُّحْرَةُ: صبح کا ذب۔

السُّحَارَةُ: پھیرنا۔ اَلشَّائِخُ: بکری کے
 پھیرنے اور نرخرہ کا وہ حصہ جس کو قصاب
 کاٹ لیتا ہے۔

السُّحُورُ: سحری۔ وہ کھانا جو صبح سے کچھ پہلے
 کھایا جائے۔

السُّحِيْرُ: پیٹ کی بیماری والی نخیل۔
 بڑے پیٹ والا گھوڑا۔

السُّحَارُ: جادوگر۔

السَّاحِرُ: فَا۔ عالم۔ مَسْحُورَةٌ وَ سَحَارٌ وَ
 سَحَارٌ وَ سَاحِرُونَ: مؤنث السَّاحِرَةُ: نَجْ
 سَاحِرَاتٌ وَ سَوَاحِرُ۔

”سحالة“ یعنی اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے۔

السحیق: دور مسک سحیق: باریک پس ہوئی مشک۔

السووق: لبایا البارد۔

السحافة: بہت پینے والا۔ امر اسحافة۔

عورت جس کی پستانیں لمبی ہوں اور ٹک آتی ہوں۔

السحقة: حقیق کا موٹ۔ زور کی بارش جو ہر چیز کو بہا لے جائے۔ ج سحاق۔

دمع (منسحق) ہے ہوئے آنسو۔ ج

مساحیق (نادر) کہا جاتا ہے ”جوت من عینہ مساحیق الدموع“ اس کی آنکھ سے آنسو کی قطاریں بہہ پڑیں۔

الاشحن: دور۔

المسحق: جس سے پیسا جائے۔

سحل (ف) سخلا: الشی: چھینا۔

پینا۔ کونا الرجل: گالی دینا۔ ملامت کرنا۔

الغریب مائة درهم: قرش خواہ کو نقد ادا کرنا۔

ه ماة سوط: مارنا الثوب: کچے دھاگے سے بنا۔ لخیل: رشی کو اکہر اٹھانا۔

سحل: سخلا و سحولا: العین: روٹا۔

سحل (ض) سحیلا و سخالا: البعل: خچر کا ہنپانا۔

ساحله: ایک دوسرے کو گالی دینا۔ ایک دوسرے کو ملامت کرنا۔ ساحل القوم: باؤلا دھس: ساحل پر لانا۔

أسحله: گالی خورد ہنپانا۔

انسحل: چھلانا پینا۔ باریک ہونا۔

بالکلام: گفتگو جاری کرنا۔ انسحلت الذراهم: چکدرا ہونا۔

السحل: من (السحل) ج اسحال و سحول و سحل و (السحیل) کپڑا جس کا سوت کچا ہو۔ اکہری یعنی ہوئی رسی۔

الساحل: فاعل: سمندر کا کنارہ۔ ج صواحل

اونٹنی جس کے تھن لمبے ہوں اور تھن کے سوراخ تنگ ہوں۔ جمل أو ناقة سحوف: زیادہ چربی والا اونٹ یا اونٹنی۔

مصحف: النحیة: زمین پر سانپ کے چلنے کے نشانات۔

المصحفة: گوشت چھیلنے اور چمرا کر چنے کا آلہ۔

رجل (مصحوف) سل کی بیماری والا۔

أرض (مصحفة) باریک گھاس والی زمین۔

سحفة (ف) سحفا: بہت زیادہ کوشا۔

باریک کرنا۔ ہلاک کرنا الريح الارض: ہوا کا تیز چلنے کی وجہ سے صاف کر دینا الرأس: سر موٹنا الشی الشدید: نرم کرنا

القملة: جوں کو مار ڈالنا الثوب: کپڑے کا پرانا بوسیدہ کرنا العین ذمعا: آنکھ کا آنسو بہانا۔ کہا جاتا ہے ”سحفة اللذ“ اللہ نے اس کو دور کر دیا۔

سحق (س) وسحق (ک) سحفا: دور ہونا۔

سحق (ک) سحوفة: الثوب: کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔ پرانا ہونا النخلة: درخت خرما کا طویل ہونا۔ صفت (سحوق) ج سحق۔

سحق: بہت باریک پینا۔

أسحفة: دور کرنا۔ ہلاک کرنا الثوب: کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔ باوجود نئے ہونے کے رواں گر جانا خف البعیر: گھس جانا۔

الضرع: دودھ خشک ہو جانا اور تھن کا پیٹ سے لگ جانا۔

انسحق: باریک ہونا القلب: دل کا ٹکنت ہونا الشی: کشادہ ہونا۔ دور ہونا الثوب: باوجود نئے ہونے کے رواں گر جانا۔

الدلو: ڈول کا خالی ہو جانا۔

السحق: سر۔ بوسیدہ کپڑا۔ کہا جاتا ہے ”ثوب سحق و سحق ثوب“ باعتبار وصف یا صافت کے۔ تیز کہا جاتا ہے ”سحق درهم“ ٹھونڈا رہم ج سحق۔

السحق والسحق: دوری۔ کہا جاتا ہے

السوحر: بید کا درخت۔

المسحر: وہ شخص جس کا بھیجھو دادور کر دیا گیا ہو۔ خوب دلایا ہوا۔ جادو کیا ہوا۔ کھوکھلا۔

المسحورة: مفع۔ جراب کیا ہوا کھانا۔

کثرت بارش یا کسی اور وجہ سے خراب جگہ۔

عنز مسحورة: کم دودھ والی بھیڑ۔ أرض مسحورة: بجز زمین۔

تسحیح: الماء: پانی کا ور سے بہنا۔

السحیح والسحیحة: گھر کا صحن (السحیح والسحیحة) من المطر:

بہت سخت بارش جو زمین کے ٹکڑے پتھر وغیرہ کو بہا لے جائے۔

سحط (ف) سحطا و مسحطا: جلدی زخ کرنا ه الطعام: پھندا لگانا سحط

الشراب: پانی لانا السحل: بکری کے بچے کو پالنے کے ساتھ چھوڑنا۔

انسحط: من یدہ: ہاتھ سے پھسل کر گرنا

عن النخلة ونحوها: لگنا اور بغیر ہاتھ سے پکڑے ہوئے اترنا۔

المسحط: حلق۔

شاة (سحیط و سحوظة) زخ کی ہوئی بکری۔

سحف (ف) سحفا: الشعر عن الجلید: بال کو کھال سے زائل کرنا الرأس: سر موٹنا (أسحفت) الريح السحاب:

ہوا کا بادلوں کو اڑا دینا۔ وأسحفت السحفة: پیٹھ کی چربی کو بیچنا۔

السحفة: پیٹھ کے اوپر کی چربی۔ ج سحاف و سحف:

السحاف: سل کی بیماری۔

السحیف: چکی کی آواز پینے کے وقت۔

دودھ دوہنے کی آواز۔

السحیفة: سخت بارش جو ہر چیز کو بہا لے جائے۔ چربی جو چھیل کر جدا کی جائے۔ ج سحائف:

السحوف: سخت بارش جو ہر چیز کو بہا لے جائے ”ناقة سحوف“ بے چربی والی اونٹنی۔

دور تک جانا یا کھودنا۔ سَخَاخَ زرم عمدہ زمین۔ سَخَا (ف) كَسَخَا النَّارُ تَحْتَ الْقَدْرِ: ہانڈی کے نیچے آگ جلانا۔ سلگانا۔ السَّخْبُ شور۔ السَّخَابُ لوگت وغیرہ کا بار جس میں موتی جو اہر وغیرہ نہ ہوں۔ کہا جاتا ہے وَجَدْتُكَ وَارِثَ السَّخَابِ یعنی میں نے تم کو مانند بچے کے نا سمجھ پایا۔ كَسَخَبَ إِسْحَابًا إِسْحَابًا الْجَوْحُ زخم کے ورم کا ہلکا ہونا۔	السَّخْمُ لوباء والسَّخِيمُ وَالْإِسْحَمَانُ ایک درخت کا نام۔ السَّخْمَةُ بوسے کا ٹکڑا۔ السَّخْمُ لوباء کے بھوڑے۔ سَخَنَ (ف) سَخِنَا الْحَجَرُ: پتھر توڑنا كَلَزَى كَوْرُزُكَ زَرْمٌ وَجَمْدَارٌ بَنَانَا السَّخْبَةُ: باریک پینا۔ السَّخِيُّ: ملاقات کرنا۔ بہتر میل ملاپ سے سَاخَنَهُ: رہنا۔ سَاخَنَهُ الشَّخْصِيَّ كَسَى فِيهِ مِثْلَ شَرِكَةٍ كِرَانًا وَتَسَخَنَهُ: چہرہ مہرہ رنگ و روغن کو دیکھنا۔	السَّحَالُ لگام۔ السَّحْلَةُ چھوٹا خرگوش جو اپنی ماں سے جدا ہو گیا ہو۔ السَّحَالَةُ چاندی سونے کا برادہ۔ گیبوں ا جو کی بھوس۔ ناکارہ لوگ۔ الْإِسْحَالُ ایک درخت کا نام جس کی سواکھیں بنائی جاتی ہیں۔ الْأَسْحَالُ پانی کی نالیوں۔ الْمَسْحَلُ سبک تراشی کا اوزار۔ ریتی۔ زبان۔ لگام۔ بلیغ خطیب۔ بہادر۔ چست۔ سانی۔ جلاد۔ حدود کو قائم کرنے والا۔ پختہ ارادہ۔ اکبری بی ہوئی رتی۔ گمراہی۔ کہا جاتا سَبْرًا كَيْفَ فُلَانٌ مَسْحَلَةٌ فُلَانٌ نے گمراہی اختیار کی۔ الْمَسْحَلُ: شیطان۔ داڑھی کی ایک جانب چٹائی۔ نوشتہ وان کا منہ۔ بہت پانی والا۔ پر نالہ۔ بہت بارش۔ خیس آدمی۔ سخاوت و فیاضی۔ گدھے کا بچہ۔ گورخر۔ ماہر قرآن۔ روئی کا پائیزہ پیرا۔ نَسْحَالُ السَّحَالُ وَالسَّحِيلُ۔ پہنناہٹ۔ شَابٌ (مُسْحَلَانٌ وَمُسْحَلَانِيٌّ لِسَابِيَا سیدھے بالوں والا جوان۔ مَوْنُثٌ مُسْحَلَانَةٌ وَمُسْحَلَانِيَّةٌ) مفع۔ چھوٹا۔ حقیر۔ ہموار کشتادہ جگہ۔ السَّحْلِيَّاتُ: سحلی انگوریاں جو کہ اپنی ترکیب میں بے مثل ہیں ان کے پھول مرغوب ہوتے ہیں چائے کی طرح ان کا مشروب پیا جاتا ہے۔ السَّحْلَالُ بڑے پیٹ والا۔ سَخْمٌ (س) وَسَخْمٌ (ك) كَسَخَمًا كَالَا هَوْنًا صَفْتٌ (أَسْحَمٌ) مَوْنُثٌ سَخْمَاءُ ج
السُّخْتُ وَالسُّخَيْتُ سخت۔ السُّخْتُ کھر دار جانوروں کے پیٹ سے جو کچھ نکلے لبل اس کے کہ کچھ کھائیں۔ الْمُسْخُوتُ تباہاں۔ چمکیلا۔ السُّخَيْتُ بلند اٹھا ہوا غبار۔ سفید آٹا۔ سخت۔ کلمھی والا ستور۔ السُّخَيْتَانِ وَالسُّخَيْتَانِ دباغت دی ہوئی بکری کی کھال۔ سَخْرَةٌ (ف) سَخْرِيًّا وَ سَخْرِيًّا وَ سَخْرَةٌ وَ تَسَخْرَةٌ وَ اسْتَسَخْرَةٌ بِيَارٍ لِيْنًا مَغْلُوبٌ كِرَانًا ذَيْلٌ كِرَانًا۔ سَخْرَتٌ (ف) كَسَخَرْنَا السَّفِينَةَ: کشتی کا عمدہ رفتار سے چلانا۔ صفت (سَاخِرَةٌ) ج سَوَاخِرٌ۔ سَخِرَ (س) كَسَخَرْنَا سَخْرًا وَ سَخْرًا وَ مَسَخَرْنَا وَ تَسَخَّرْنَا وَ اسْتَسَخَّرْنَا بِهِ وَ مِنْهُ: ٹھٹھا کرنا۔ تم سے ہوا اَنَا اَقُولُ هَذَا وَلَا اسْتَخَرْنَا، میں اس کو کہتا ہوں اور کسی نہیں کرتا ہوں۔ یعنی بالکل سچی بات کہہ رہا ہوں۔ السُّخْرَةُ جس سے ٹھٹھا کیا جائے۔ بیگار ا بیگار کی (وَالسُّخْرِيَّةُ) ٹھٹھا۔ الْمَسْخَرَةُ وہ جس سے ٹھٹھا کیا جائے۔ (لغت عامیہ) سَخَطٌ (س) كَسَخَطَا الرَّجُلُ وَ عَلَيْهِ غَضَبًاكَ هُوَ الشَّيْءُ نَاطِقٌ كِرَانًا۔ أَسْخَطُهُ: غضبناک کرنا۔	السُّخْنَةُ وَالسُّخْنَةُ وَالسُّخْنَةُ السُّخْنَةُ: بیت رنگ کھال کی تابی۔ السُّخْنَةُ: پتھروں کو توڑنے کا اوزار۔ ج مَسَاخِنٌ۔ سَخَاهُ يَسْخَاهُ وَ يَسْخُفُو وَ يَسْخِنُهُ سَخِيًّا: چھیلنا الطين: کھرچنا۔ صفت سَخَاةٌ وَ سَخَاةٌ وَ سَخَاوُنٌ مَوْنُثٌ سَاخِيَّةٌ الشَّعْرُ: مَوْنُثٌ (وَأَسْحَى إِسْحَاءً وَسَحَى تَسْحِيْفًا) خط پر کی چیز سے مہر کرنا۔ الْكِتَابُ: خط پر کی چیز سے مہر کرنا۔ إِسْحَى إِسْحَاءً الشَّيْءُ: چھیلنا۔ الشَّعْرُ: مَوْنُثًا (وَأَسْحَى مِنْهُ: شرم کرنا۔ السَّخَاءُ مِنَ الْكِتَابِ: خط پر مہر کرنے کی چیز۔ واحد سَخَاءَةٌ السَّخَاءَةُ: دماغ کی جھلی۔ نَسْحَايَا۔ السَّخَاءَةُ میدان۔ جانب۔ ایک قسم کی خاردار گھاس۔ چمگادڑ۔ نَسْحَى: بادل کا ٹکڑا۔ دماغ کی جھلی۔ کسی چیز کا برادہ۔ بچپے بنانے کا پیشہ۔ السَّخِيَّةُ سیلاب زور کی بارش۔ السَّخَاءُ بچلہ بنانے والا۔ الْأَسْحَاوَانُ بہت کھانے والا۔ بے قد کا خوبصورت۔ الْمَسْحَاةُ بچلے۔ کدال۔ نَسْحَاجٌ سَخَّتْ (ن) كَسَخَا الْجَوَادَةُ: مڈی کا زمین میں دم چھوٹنا فِي السَّيْرِ أَوْ الْحَفْرِ:	
سَخْمٌ وَسَخْمٌ (ك) كَسَخَمًا كَالَا هَوْنًا صَفْتٌ (أَسْحَمٌ) مَوْنُثٌ سَخْمَاءُ ج	سَخْمٌ وَسَخْمٌ (ك) كَسَخَمًا كَالَا هَوْنًا صَفْتٌ (أَسْحَمٌ) مَوْنُثٌ سَخْمَاءُ ج	سَخْمٌ وَسَخْمٌ (ك) كَسَخَمًا كَالَا هَوْنًا صَفْتٌ (أَسْحَمٌ) مَوْنُثٌ سَخْمَاءُ ج

تَسَخَطَهُ نارض ہو کر غضبناک ہونا اور ناپسند کرنا العطاء: کم سمجھنا۔
 السُّخُطُ وَالسُّخُطُ وَالسُّخُطُ نارضی اور بقول بعض بڑے لوگوں کی نارضی۔
 الْمَسْخُوطُ: مرنے ناپسندیدہ۔
 الْمَسْخُطُ وَالْمَسْخُطَةُ سبب نارضی۔
 نَحْ مَسَاخُطٍ سَخَفَ (ک) سَخَفًا وَسَخَافَةً كَزُورِ عَقْلِ وَاللَّاهُونَ سَخَفَ الْعَزَلَ بَارِكٌ هُوَ الْمَسَاءُ: كَزُورِ هُوَ سَخَفَهُ كَمْ عَقْلٌ قَرَارِدِيَا۔
 سَخَافَةً: يُوَقُو فِي مِثْلِ مَدْرِيَا۔
 السُّخْفَةُ وَالسُّخْفَةُ لِأَعْرَى كَزُورِي كَمْ عَقْلِي كَمَا جَاءَ فِي "هَذَا مِنْ سُخْفِيَةِ عَقْلِكَ" يَهْتَمُّ بِهِيَ كَمْ عَقْلِي كَمْ وَجْهٌ سَهْوِيٌّ السُّخْفُ نَجْ كِزَارَةُ كِي زِنْدُكِي (وَالسُّخْفُ) كَمْ عَقْلِي۔
 السُّخْفِيَّةُ كَمْ عَقْلِي۔ تَوْبٌ سَخِيْفٌ: بَارِكٌ جَمْرٌ جَمْرًا كِيْزَارَةُ رَجُلٌ سَخِيْفٌ كَزُورِ عَقْلِي وَاللَّاهُونَ سَخِيْفُ الْعَقْلِ: تَاغِيْبُ عَقْلِي وَاللَّاهُونَ زَائِي سَخِيْفٌ: كَزُورِ رَائِي۔
 سَخَابٌ سَخِيْفٌ: يَتَلَابَدُ۔
 السَّخَاةُ: مَرْحَلَةُ كِي كَزُورِي۔
 أَرْضٌ (مُسَخَّفَةٌ) كَمْ كِهَاسُ وَالِي زَمِيْنِ۔
 سَخَلَهُ (ف) سَخَلًا صَافٌ كَرَامَةٌ مَحَامَتٌ دِيَا۔ سَخَلَ الشَّيْءُ: فَرِيْبٌ سَيَلَمَا۔
 سَخَلَهُ عِيْبٌ لَكَانَ كَزُورِ كَرَامَتِهَا۔
 أَسْخَلَ: الْأَمْرُ: يَجِيْحُ كَرَامَتِهَا۔
 السَّخَلُ: كَزُورٌ مِّنَ الْقَوْمِ: رُوِيْلُ۔ نَحْ سَخْلٌ وَسَخَالٌ السَّخَلَةُ: كَبْرِي كَا نَجِيْحٌ۔ نَحْ سَخَلٌ وَ سَخَالٌ وَسُخْلَانٌ وَسَخَلَةٌ السَّخَالَةُ: يَجِيْحُوْنَ۔ يَجِيْحُونَ۔
 الْمَسْخُولُ: فَرْدِيَا۔ يَضِيْفُ: مَجْمُوعٌ۔
 أَيْ سَهْوِيٌّ سَهْوِيٌّ مَسْخُولَةٌ: يَعْني مَجْمُوعٌ سَتَارَةٌ۔
 سَخَمَ: اللَّحْمُ: كُوْشَتٌ كَا بَدِيْدَارٌ هُوَا۔

الماء: پانی گرم کرنا الله وجهه: سياه رو کرنا
 ه بصذره: غضبناک کرنا۔
 تَسَخَّمَ عَلَيْهِ: كِينَةُ رَكْنًا۔ غَضَبًا هُوَا۔
 الْمَسَخِمُ (يَسَخِمُ) السُّخْمَةُ: سِيَاهِي۔ كِينَةُ: غَضَبٌ۔
 السُّخَامُ: كُوْشَتٌ۔ بَانْدِي كِي سِيَاهِي۔ پَرْنَدُهُ كِي بَارُوْدِي كِي يِيْحِي كِي نَرْمِ پَر۔ لَيْلٌ سَخَامٌ: كَالِي رَاتِ (السُّخَامِي وَالسُّخَامِيَّة) خُوْشْخُوَارِ شَرَابٍ۔
 الْأَسْخِمُ: كَالَا۔ مَوْنَتٌ سَخْمَاءُ: نَحْ سُنْخِمُ السُّخَامِيُّ: كَالَا۔
 السُّخِيْمَةُ: كِينَةُ كَمَا جَاءَ فِي "سَلَلْتُ سَخِيْمَتَهُ بِاللَطْفِ وَالتَّرَضِي" مِيْن نِي اس كِي كِينَةُ كُوْلُفِ وَرَضَامِنِي سِي نَكَالِ لِيَا۔
 يَأْخُذَانِدُ: حَدِيْثٌ مِيْن سَهْوِيٌّ سَخِيْمَتُهُ عَلِيٌّ طَرِيْقِي فَعَلِيْبُهُ لَعْنَةُ اللَّهِ" جِسْمٌ نِي رَاسْتَهُ پَرِيَاخَانَهُ كِيَا اس پَرِاللَّهِ كِي لَعْنَتُ هُو۔ نَحْ سَخَانِمُ الْمُسَخَّمُ: مَرِيْكِينَةُ وَر۔
 سَخْنُ (ن) وَ سَخْنُ (س) وَ سَخْنُ (ك) سَخُوْنَةٌ وَ سَخَانَةٌ وَ سَخْنَا وَ سَخْنَا وَ سَخْنَةُ: كَرْمٌ هُوَا۔
 سَخْنَةٌ (ن) سَخْنَا بِالضَّرْبِ: تَكْلِيْفُهُ طُوْرٌ پَرِ بَارِنَا اُوْر اِي سِي سَهْوِيٌّ "مَا أَسَخَّنَ ضَرْبُهُ" اس كِي مَارِكُ قَدْرُ تَكْلِيْفُهُ دِه سَخْنَتُ (س) سَخْنَا وَ سَخُوْنَا وَ سَخْنَةُ: عَيْنُهُ: أَكَلَهُ كَالْكَلِيْفِ سِي مَلِّ الْأَمْتَانِ۔
 أَسَخَّنَ وَ سَخَّنَ الشَّيْءُ: كَرْمٌ كَرَامَتِهَا كَمَا جَاءَ فِي "أَسَخَّنَ عَيْنُهُ وَ بَعِيْنُهُ" يَعْني اس نِي سِي رَلَا دِيَا۔
 السَّخْنُ وَالسَّخْنَةُ وَالسَّخْنَةُ وَالسَّخْنَةُ وَالسَّخْنَةُ وَالسَّخْنَةُ: كَرْمِي۔ نَجَارٌ كَمَا جَاءَ فِي "عَلَيْكَ بِالْأَمْرِ عِنْدَ سَخْنَةٍ" مَعَامَلَةٌ كُوَا سِي اِهْتِدَائِي مِيْن مَشْنَدِ اِهْوَانِي سِي سِي سَبِيْلِي لُو۔
 السَّخْنُ وَالسَّخْنَانُ وَالسُّخْنَانُ وَ

السُّخْنَانُ: كَرْمٌ۔
 مَاءٌ (سَخِيْنٌ) كَرْمٌ پَانِي: ضَرْبٌ سَخِيْنٌ: تَكْلِيْفُ دِه مَارِ السَّخِيْنِيْنُ: كَدَالٌ۔ يِيْحِي۔ قَضَائِيُوْ كِي كِيْمَرِي۔ مَلِّ كَا دِسْتَةُ نَحْ سَخَائِيْنُ۔
 السَّخَانُ: فَا: كَرْمٌ۔ نَحْ سَخَانٌ: مَوْنَتٌ سَخَانَةٌ: كَمَا جَاءَ فِي "لَيْلَةٌ سَخَانَةٌ" كَرْمٌ رَاتِ۔
 السُّخَائِيْنُ: كَرْمٌ۔ كَمَا جَاءَ فِي "مَاءٌ سَخَائِيْنٌ" كَرْمٌ پَانِي (كَلَامٌ عَرَبِيٌّ مِيْن مَفَاعِيْلِ كَا وَرَنَ اس كِي عِلَاوَهُ كُوْلِي نِيْمِيْنِ)۔
 السَّخِيْنُ: هَرْدُهُ جِيْزٌ جُوْنُهُ كَرْمٌ هُوْنَدُ مَشْنَدِي۔
 السَّخِيْنَةُ: اِيْكُ قَسْمٌ كَا كَلْهَانَا جُوْاْنِي سِي تِيَارِ كِيَا جَاتَا هِي كَرْمٌ كَهَانَا۔
 التَّسَخِيْنُ: بَانْدِيَا۔ مَوْزِي۔ چَادِرِ كِي مَانِدِ اِيْكُ كِيْزَارِجِسُ كُو عِلَاءِ مَرْپُوْرَتِي هِي۔ (نَجْ هِي جِسْمٌ كَا وَاحِدٌ نِيْمِيْنِ اُوْر اِيَا تَسَخْنُ يَا تَسَخَانُ وَاحِدٌ هِي)۔
 الْمِسْخَانَةُ: بَانْدِي۔ نَحْ مَسَاخِنُ السَّخَائِيْنُ وَ سَخِي سَخِي وَ سَخُو سَخُو يَسْخُو سَخَا وَ سَخَاءٌ وَ سَخَاوَةٌ وَ سَخُوَا وَ سَخُوَةٌ: فَيَاضٌ هُوَا۔ نَحْ هُوَا۔ كَمَا جَاءَ فِي "سَخِيْتٌ نَفْسِي وَ بِنَفْسِي عِيْنِ الشَّيْءِ" يَعْني مِيْن نِي سِي اِسِي سِي جِيْمُوْرْدِيَا اُوْر مِيْرِي سِي نَفْسٌ كَا مِيْلَانٌ اَدِهَرُ نِيْمِيْنِ هُوَا۔
 سَخَا النَّارُ يَسْخُوْهَا سَخُوَا وَ يَسْخَاهَا سَخُوَا وَ سَخِيَا: رَاكُهُ نَكَالٌ كَرَاكٌ جَلَانَا الْقِدْرُ: بَانْدِي كِي يِيْحِي آكُ جَلَانَا الرَّجُلُ حَرَكَتُ سَكُوْنِ اَقْتِيَارِ كَرَامَتِهَا۔
 تَسَاخِي وَ تَسَخِي: يَجَلْفُ فَيَاضٌ بِنَمَا السَّخَاوَةُ: فَيَاضِي۔ يَجِيْحُشُ۔
 السَّخَاءَةُ: اِيْكُ قَسْمٌ كِي بِنَزِي۔ نَحْ سَخَاءٌ السَّخِيُّ: فَيَاضٌ۔ نَحْ أَسْخِيَاءٌ وَ سَخُوَا مَوْنَتٌ سَخِيِيَّةُ: نَحْ سَخَائِيَا وَ سَخِيَاتِ الْأَرْضُ (السَّخَوَاءُ) كَشَادَةُ نَرْمِ زَمِيْنِ۔ نَحْ سَخَاوِي وَ سَخَاوُ الْأَرْضُ (سَخَاوِيَّةُ) نَرْمُ كَشَادَةُ زَمِيْنِ۔ نَحْ

سَخَاوِيٌّ

مَسْحِيٌّ. النَّارُ: وہ جگہ جو ہانڈی کے نیچے کشادہ کی جائے تاکہ آگ جلنے میں آسانی ہو۔
الْمَسْحَاةُ: چھٹی۔ آگ کی کرپنی۔

سَدَّ (س) سَدًّا. الْاِنَاءُ: برتن بند کرنا
الْقَلَمَةُ: رخت درست کرنا الْبَابُ: دروازہ بند کرنا۔

سَدَّ (س ض) سَدَّدًا و سَدَادًا. درست ہونا۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ يَسُدُّ فِي قَوْلِهِ“ وہ ٹھیک بات کہتا ہے ”وَقُلْتُ لَهُ سَدَادًا مِنْ الْقَوْلِ و سَدَدًا“ میں نے اس سے ٹھیک بات کہی الشُّيْ: سیدھا ہونا۔

سَدَّدَ الرُّوحُ: سیدھا کرنا: راہ راست کی طرف رہنمائی کرنا۔

أَسَدَّ الشُّيْ: سیدھا ہونا الرَّجُلُ: راہ راست کو پہنچنا یا طلب کرنا۔

تَسَدَّدَ سیدھا ہونا الشُّيْ: درست ہونا۔
اِنْسَدَّ و اِنْسَدَّ اِنْسَدَادًا و اِنْسَدَادًا. بند ہونا۔

اِنْسَدَّ الشُّيْ: درست ہونا۔

السَّدُّ و السَّدُّ: سَدَادًا: دو چیزوں کے درمیان آڑ پہاڑ کہا جاتا ہے ”ضَرْبَتٌ عَلَيْهِ الْأَرْضُ بِالْاِسْدَادِ“ یعنی اس کے اوپر راستے بند ہو گئے۔ و السَّدُّ: سَدَّدًا عَيْبٌ مَثَلٌ اِنْدَهْ پِن کے۔ و السَّدُّ: سَدَادًا: کالا بادل جس نے افق کو گھیر لیا ہو اور کہا جاتا ہے ”جَرَادٌ سَدٌّ“ یعنی ٹڈی دل۔ و السَّدُّ: سَدَادًا: وادی جس میں پتھر اور چٹان ہوں اور پانی اس میں مدت تک رہے۔ وادی۔

مَسَايَةٌ
كَلَامٌ (سَدٌّ) صَحِيحٌ و دَرَسْتُ كَلَامَ السَّدِّ. س. درستی۔ جو درست ہو۔
السَّدَادُ. س. درستی و راستی۔ ہدایت۔
السَّدَادُ. ڈھلنا۔ دودھ جو گھن کے سورانخ میں خشک ہو جائے اور دودھ کی نالی کو بند کر دے۔

السَّدَادَةُ. ڈھلنا۔

السَّدَادُ. ناک کی بیماری جس کی وجہ سے سانس لینی دشوار ہو۔

رَجُلٌ (سَدَادٌ) رَاهِ اسْتِ بَرَّعِنِ و الْاِمْرَدُ السَّدَّةُ. دروازہ۔ برآمدہ۔ بیٹھنے کی جگہ جیسے منبر۔ ناک کی بیماری جس کی وجہ سے سانس لینی دشوار ہو۔ سَدَّدُ.

عَيْقِنِ (سَادَةٌ) اِحْتِ طَرَحَ نَدِ كَيْفَ سَكَنَ وَاَلِ اَكْمَ: سَدَّدُ.

الْاِسْدُ: سَدَّدُ (السَّدِيدُ) ٹھیک درست۔ حق کا تصد کر کے والا۔

الْمَسَدُّ. بند کرنے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے ”سَدَّ مَسَدًا“ یعنی قائم مقام۔

سَدَّجَ (ن) سَدَّجًا. بِاللَّشْيِ: گمان کرنا۔ (و تَسَدَّجَ) جھوٹ بولنا۔ جھوٹی باتیں گھڑنا۔ صفت (سَدَّجَ)

اِنْسَدَّجَ. اوندھا کرنا۔

سَدَّحَهُ (ف) سَدَّحًا. ذَبْحَ كَرَّكَ زَمِينٍ بِرِ بَحِيلَانَا. پھیلانا۔ پھاڑنا النَّاقَةَ: اونٹنی کو بٹھانا

الْقَرْيَةَ: منگ بھرنا۔ سَدَّحَ بِالْمَكَانِ. اقامت کرنا (سَدَّحَهُ و سَدَّحَهُ) قتل کرنا۔

اِنْسَدَّحَ. چت لیٹ کرنا گلیں پھیلانا۔
السَّدَادُ. فَا. مالدار۔ صاحب فرانی و ارزانی۔ مَوْنَتْ سَادِحَةَ. السَّدَادَةُ: گھٹا ٹوپ بادل۔

السَّدِيحُ و الْمَسْدُوْحُ. چت لینا ہوا۔
اِنْسَدَّحَ. پھیلانا۔

سَدَّرَ (ن ض) سَدَّرًا و سَدَّرًا. الشَّعْرُ: بال لٹکانا الثَّوْبُ: کپڑا پھاڑنا۔ لبا لٹکانا۔

الرَّجُلُ فِي الْبِلَادِ: جا کر واپس نہ آنا۔
سَدَّرَ (س) سَدَّرًا و سَدَادَةً. حیران ہونا۔

لا پورا ہونا الْبَعِيْرُ: شرت گرمی کی وجہ سے چندھیا جانا۔ صفت (سَادَرٌ) کہا جاتا ہے ”تَكَلَّمَ سَادَرًا“ اس نے بغیر تحقیق کے گفتگو کی۔

اِنْسَدَّرَ. الشَّعْرُ: بال لٹکانا اور کہا جاتا ہے ”اِنْسَدَّرَ يَرْكُضُ“ وہ آہستہ دوڑا۔ نیچے آرتا

اور ہمیشہ چلنا۔

تَسَدَّرَ. بِتَوْبِهِ: اوڑھ لینا۔

السَّدْرُ. بَیْرٌ كَادِرْخْتِ: سَدَّوْرُ.

السَّدْرَةُ. بَیْرٌ كَادِرْخْتِ: سَدَّوْرَاتِ و سَدْرَاتِ و سَدْرَاتِ و سَدْرَاتِ و سَدْرَاتِ و سَدْرَاتِ الْمُنْتَهِي. ساتویں آسمان میں عرش اعظم کی داہنی جانب بَیْرٌ كَادِرْخْتِ جو لوگوں کے اعمال کے لیے معہا ہے اور طلائعہ وغیرہ کے علم کی انتہا وہیں تک ہے۔

السَّدْرُ. حِیرَانُ. سَمْدَرُ نَاقَةَ سَدْرَةَ: بوڑھی اونٹنی۔

السَّدَارُ. پردہ کی مانند جو خیمہ کے عرش میں لگایا جاتا ہے۔

السَّدَارُ. بَیْرٌ كَ تَیْرٍ كَ اِیْتِجِیْهِ وَاَلَا۔

السَّدِيْرُ. تازہ گھاس۔ حیرہ کے اطراف میں ایک دریا کا نام۔ شاہ نعمان کے ایک محل کا نام۔

بَیْنِ مِیْنِ اِیْکِ جَگَہِ کَانَامِ جَہَاں سَے بَیْنِیْ نَپَاوَرِیْں آتی تھیں۔ سَدِيْرُ التَّخْلِ: وہ جگہ جہاں درخت خرابیت سے ہوں۔

الْاِسْدَرَانُ. آکھ کی دو رگیں۔ دُونوں موندھے۔ کہا جاتا ہے ”جَاءَ يَضْرِبُ اِسْدَرِيَةً“ وہ ہے حصول مقصود خالی ہاتھ آیا۔

سَدَسٌ (ض) سَدَسًا. الْقَوْمُ: چمٹا ہونا۔

سَدَسٌ (ن) سَدَسًا. الْقَوْمُ: چمٹا ہونا۔

لَیْمًا۔

سَدَسٌ. الشُّيْ: چھ پہل بنانا۔

اِسْدَسٌ. الْقَوْمُ: چھ ہونا۔ چھ روز گھاٹ پر آنے والے اونٹوں والا ہونا الْبَعِيْرُ: آٹھویں سال میں دانت گرنا۔

السَّدَسُ. اونٹ کے لیے چھ روز پانی پینے کی باری۔ ست کی اصل سدس ہے۔

السَّدَسُ و السَّدَسُ. چمٹا ہونا۔ سَجَّ اِسْدَاسٌ اور کہا جاتا ہے ”هُوَ يَضْرِبُ اِحْمَاسًا لِاِسْدَاسٍ“ وہ کمزور و فریب کی کوشش کرتا ہے۔

السَّدَسُ. آٹھویں سال کی عمر کا اونٹ۔

السَّدَاسُ. فَا. چمٹا۔ مَوْنَتْ سَادِسَةً.

السَّداسِيُّ جُحٌّ مِنْ مَرْكَبٍ - جُحٌّ حُرُوفٌ وَاللَّامُ كَلِمَةٌ مِثْلُ زَنْجٍ بَيْتَلٌ - كَمَا جَاءَتْ فِي جَاءُوا (سُدَّاسٌ) كَمَا لَوْ كُتِبَ جُحٌّ مَوْكِرًا أَوْ يَدٌ كَلِمَةٌ عَدَلٌ أَوْ صِفِيَّةٌ كِي وَجْهٌ مِنْ غَيْرِ مُضَرَّفٍ - السُّدُوسُ وَالسُّدُوسُ سَبْزٌ رَمَلٌ كِي جَادِرٌ - السُّدُوسُ جِرَاعٌ كِي سَابِيٌّ - السُّدَيْسُ جُحٌّ صَاحِصٌ - جُحٌّ سُدُوسٌ جُحٌّ مِنْ مَرْكَبٍ - أَتْهَوِي سَالٌ كِي عَمْرٌ كَاوْنَتٌ - جُحٌّ سَالٌ وَابِي كَبْرِي -

السُّدُوسُ بَشْشٌ بَابِلٌ - وَهُوَ سَطْحٌ جُحٌّ بِأَهْمٍ بَرَابِرٌ خَلُوعٌ مِنْ مَهْرِي هُوَ - السُّدُوسُ رِبَاوَالرَّجْسُ فِي جُحٍّ كَارْتُوسٌ هُوَتِي هُنَّ - سَدْعَلَفٌ (سَدْعَلَفٌ) سَدْعَاوْنٌ كَرَكِي مَحِيلَانَا الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ مَكْرَانَا - سُدْعُ رَجٌّ وَابِيَّةٌ مَبْجُوبَا جَانَا - السَّدْعَةُ رَجٌّ وَابِيَّةٌ -

السُّدْعُ - اسْپِنِي ارادِي پَر طَلِي وَاللَّامُ هَادِي رَهْمَا - سَدْفٌ (ض) سَدْفًا. القَوْمُ تَارِكِي فِي مِثْلٍ دَاخِلٌ هُونَا الْحِجَابُ: پَرِدِي لُكَا نَا - صِفَتٌ مَفْعُولِي (مَسْدُوفٌ) -

أَسْدَفٌ سَوْنَا - مَجْهُوكٌ يَبْزُهَابِي كِي وَجْهِي سِي نَگَاهَا كَادِهْتَلَا هُونَا القَوْمُ تَارِكِي فِي مِثْلٍ دَاخِلٌ هُونَا اللَّيْلُ تَارِكِي هُونَا - صِفَتٌ (أَسْدَفٌ) مَوْنَتٌ سَدْفَانِجٌ سُدْفٌ الفَجْرُ زُرُوشٌ هُونَا البِئْرُ: پَرِدِي أَهْمَانَا المَرْأَةُ القِنَاعُ: بَرَقِي ذَالَا - أَسْدَفٌ عَن كَدَا اَلْجُ كَدَا هُونَا - كَمَا جَاتِي فِي "أَسْدَفُ البَابُ" بِعِنِي دَرُوزَاهَا كَهُولٌ دُو يَادِرُوزَاهَا سِي هَمْتٌ جَاوَتَا كِه مَهْرِي فِي رُوشَنِي هُو كَلِي -

سَدْفَةٌ كَلَزِي كَلَزِي كَرْنَا - السَّدْفُ تَارِكِي - رُوشَنِي (ضد) مَبْجُورِي - جُحٌّ أَسْدَفٌ - السَّدْفُ وَجُودٌ جُودِرٌ سِي دَكْهَانِي دِي - جُحٌّ سُدُوفٌ - السَّدْفَةُ وَالسَّدْفَةُ تَارِكِي - رُوشَنِي (ضد) السَّدْفَةُ: دَرُوزَاهَا - دَرُوزَاهَا كَا هَمْتٌ جُو

اس کو بارش سے بچائے۔ السَّدَيْفُ كُوبَانُ كِي چَرَبِي كَا اِيكٌ كَلَزِي - جُحٌّ سِدَافٌ وَسَدَافٌ - السَّدَافَةُ پَرِدِي - السَّدَقُ وَالسُّودُقُ سَدَقٌ وَسُودُقٌ كِي تَقِيْفٌ هِي -

سَدَلُ (سَدَلُ) سَدَكَا وَ سَدَكَا بِاللَّامِ: لَازِمٌ هُونَا - چُشْتَا - صِفَتٌ (سَدَلُ) بِهَكَا جَاتَا هِي "هُوَ سَدَلٌ بِالرَّمْحِ" بِهَمْتٌ نِيْزِي مَارَنِي وَاللَّامُ -

سَدَلُ (ن ض) سَدَلَا وَ سَدَلٌ الشَّعْرُ أَوْ الثُّوبُ بَالٌ يَكْبُرُ الكَانَ - سَدَلُ الثُّوبُ: كَبُرُ اِيچَا زَانَا فِي البِلَادِ جَانَا - سَدَلُ (س) سَدَلَا خَلْقَةٌ: جَهَاوُ وَاللَّامُ هُونَا -

تَسَدَّلُ وَإِنْسَدَلُ لُكَا نَا - سَوْدَلُ الرَّجُلُ لَمِي مَوْنَجُوهَا وَاللَّامُ هُونَا - السِّدَلُ بَارِجُوسِيْئِي تِك لَمِي هُو -

(وَالسُّدَلُ) پَرِدِي - جُحٌّ أَسْدَالٌ وَأَسْدَلٌ وَسُدُولٌ كَمَا جَاتَا هِي أَرْخِي اللَّيْلُ سُدُولُهُ رَاتِي نِي اسْپِنِي پَرِدِي لُكَا نَا بِعِنِي تَارِكِي مَحِيلَانِي -

السُّدَلُ جَهَاوُ مِيلَانَا - كَمَا جَاتَا هِي "فِيهِ سَدَلٌ اِلِي جَانِبِ اسْ كِي اِنْدَرَا اِيكٌ جَانِبٌ مِيلَانَا هِي -

السُّدَيْلُ هُو دِي پَرِجُورُوكَا جَانَا - يَا كِي وَغَيْرِي كَاهَا پَرِدِي - جُحٌّ سُدُلٌ وَأَسْدَالٌ وَسَدَائِلٌ - شَعْرٌ (مُسَدَّلٌ) بِهَمْتٌ لِيْجِي بَالٌ - السُّودُلُ مَوْنَجُوهَا -

سَدَمٌ (ن) سَدَمًا البَابُ: دَرُوزَاهَا بِنْدٌ كَرْنَا - مَبْجُورَانَا -

سَدَمٌ (س) سَدَمًا نَدَامَتُ كِي سَاتِهِي عَمَلْمِيْنٌ هُونَا - عَمٌ كِي سَاتِهِي غَضْبَانُكٌ هُونَا - بِالشَّيْءِ: بِهَمْتٌ خَوَابِشٌ مَنْدٌ هُونَا - حَرِيصٌ هُونَا المَاءُ يَانِي كَا بِهَمْتٌ دُونُو كِي وَجْهِي سِي تَغْيِيرِي هُونَا اُو رُكَا نِي سِي دُهَكٌ جَانَا -

سَدَمٌ المَاءُ طُولٌ عَهْدِي: تَغْيِيرِي كَرُودِي نَا -

مَاءٌ (سَدَمٌ وَ سَدَمٌ وَ سَدَمٌ وَ سَدَمٌ) كَانِي سِي دُهَكٌ هُو اِيلا زِيَادِي دُونُو كِي وَجْهِي سِي تَغْيِيرِي يَانِي جَمْعٌ لِيْجِي كَمَا جَاتَا هِي -

مِيَادٌ سَدَمٌ وَأَسْدَامٌ وَسِدَامٌ رَجُلٌ سَدَمٌ غَضْبَانُكٌ مَرُودٌ -

السَّدَامُ: نَدَامَتُ كِي سَاتِهِي عَمٌ - عَمٌ كِي سَاتِهِي عَمْتٌ -

السَّدَمَانُ نَدَامَتُ كِي سَاتِهِي عَمَلْمِيْنٌ - عَمٌ كِي سَاتِهِي غَضْبَانُكٌ - كَمَا جَاتَا هِي "هُوَ سَدَمَانٌ نَدَمَانٌ" -

السَّدِيمُ كَرِي آسْمَانِي پَر كَمُورٌ رُوشَنَانِي وَاللَّامُ سَتَارِي - السَّدِيمُ نِيْزِي تَلَوَارِي اِياس كِي دِهَارِي -

السَّدِيمُ جُحٌّ سِدَامٌ بِهَمْتٌ يَادِرُنِي وَاللَّامُ - جُحٌّ سُدَمٌ كَبُرُ اِيلا بَارِكِي كَبُرَانَا -

سَدَنٌ (ن ض) سَدَنًا وَ سَدَانَةٌ كَبُرِي يَا بِيْتِ خَانِي كِي خَدْمَتُ كَرْنَا - دَرَبَانٌ هُونَا - صِفَتٌ (سَادِنٌ) سَدَنَةً كَمَا جَاتَا هِي "هُوَ سَادِنٌ فَلَانٌ وَ اَذْنُهُ" بِعِنِي فَلَانٌ كَا دَرَبَانٌ هِي -

سَدَنٌ لِسْتِرٌ پَرِدِي لُكَا نَا - السَدَنُ وَالسَّدَنُ جُحٌّ أَسْدَانٌ وَ (السَّدَرَانُ) پَرِدِي -

سَدَانَةٌ الكَعْبَةُ كَبُرِي كِي خَدْمَتُ - السَّدِنُ چَرَبِي - اُونٌ - خُونٌ - پَرِدِي - السَّدَانُ نَهَابِي (سَجٌّ لَفْظِي سَدَانٌ هِي) -

سَدَا سَدُوٌ وَ سَدُوَا: بِيْدِي نَحْوُ الشَّيْءِ: كَمِي چِيْزِي كِي طَرَفِي بَاتِهِي بَزُهَانَا الصَّيْبُ بِالْحَوْرِ: اَخْرُوثُ سِي كَهِيلَانَا - سَدَتُ النَّاقَةُ فِي الشَّيْءِ: كَشَادِي قَدَمٌ رَكْنَا اُو رَكْنَا جَاتَا هِي "سَدَا سَدُوَةٌ" اِسْنِي نِي اسْ كِي جِي مَاتَقَصْدٌ كَمَا

اُو رَا س كِي بِيْرُو كِي - اَسْدِي اِسْدَاءٌ: النُّخْلُ غُلَافٌ خَرْمَا كَا دِهِيلَا پَرِنَا - اِسْتَدِي اِسْتِدَاءٌ: بِيْدِي: بَاتِهِي بَزُهَانَا الصَّيْبُ بِالْحَوْرِ: اَخْرُوثُ سِي كَهِيلَانَا الفَرَسُ سِيْبِيْنِي وَاللَّامُ هُونَا - السَادِي: فَا چِيْجَا: مَوْنَتٌ سَادِيَّةٌ جُحٌّ سَوَادٌ النُّوقُ السَّوَادِي: كَشَادِي قَدَمٌ

”قَوْمٌ بَرُّونَ سُرُونٌ“ نیکی کر کے خوش ہونے والے لوگ۔

السِّرُّ: سچ، اسرار، عہد، راز۔ کہا جاتا ہے

”صُدُّوا الْأَحْرَارَ فَيُؤَنِّ الْأَسْرَارَ“ احرار کے سینے عہد کے لیے کھلے ہیں۔ ”وَرَجُلٌ

سِرِّي“ کاموں کو پوشیدہ طور پر کرنے والا مرد۔ ”فَلَنْ سِرٌّ هَذَا الْأَمْرَ فَلَان“ اس

امر کا جاننے والا ہے۔ السِّرُّ: سچ، عہد، راز۔

وادئی کا درمیان۔ خالص چیز۔ عمدہ و افضل چیز۔

پاک و عمدہ زمین۔ قمری مہینہ کی پہلی رات یا

آخری رات یا درمیان مہینہ۔ اصل ہر چیز کا

جوف و مغز۔ سِرٌّ: جیسے فن کی جمع افئفہ۔

السِّرُّ وَالسَّرُّ: پھیلنے یا پیشانی کے خطوط۔ سچ

اسرار، سچ اسرار، الاسرار: چہرہ کی

خوبیاں۔ السِّرُّ: نال جس کو دانی جنائی ولادت کے

وقت سچ کی ناف سے کاٹی ہے۔ سِرٌّ: سچ اور

سِرٌّ: کا اطلاق سرور کے معنی پر بھی ہوتا ہے۔

السَّرُّ وَالسَّرُّ: پھیلنے اور پیشانی کے

خطوط۔ ناف کا وہ حصہ جس کو دانی جنائی کے

وقت کاٹی ہے۔ السَّرُّ: قمری مہینے کی

آخری رات۔ کسی چیز کا ٹھکانا ہونا۔

السَّرَّةُ: گلدستہ۔

السَّرَّةُ: نال جس کے ذریعہ سے جنین کے

پیٹ میں غذا پہنچتی ہے۔ ناف۔ سُرَاتٌ و

سُرُّرٌ: سُرُّرٌ الوادئ: وادئ کا درمیان یا وادئ

کی بہترین جگہ۔ سُرُّرٌ الْبَلَدِ: وسط شہر۔

سُرُّرٌ الْحَوْضِ: حوض کی تین تالی پانی ٹھہرنے

کی جگہ۔ سُرُّرٌ الْفَرَسِ: ایک ستارہ۔ امرأة

سُرُّرٌ: لوگوں کو خوش کرنے والی عورت۔

السُرُّورُ: خوشی۔

السُرُّورُ: خوشی۔ نازبوکی شاخیں۔

السُرُّورُ: تخت۔ عموماً تخت شاہی کہلنے والا جاتا

ہے۔ کہا جاتا ہے: زَالَ عَنِ سُرِّيُوهُ“ یعنی

اس کی عزت جاتی رہی۔ خواب کا وہ مردان اور

سر کے ٹٹ کی جگہ۔ کہا جاتا ہے: ضَرِبُوا

أَمِيرَةً رُؤُوسَهُمْ“ انہوں نے ان کی سردن

وَالسِّدْقَانِ: شکر۔ السُّودَقِ: زنجیر کا حلقہ۔

السُّودَقِيُّ: چست۔ چالاک۔ شکر۔

السُّدَائِقُ وَالسُّودَيْقُ وَالسُّودَائِقُ: شکر۔

سِرَّةٌ (ن) سُرُّورٌ و سِرَّةٌ و سُرٌّ و سُرِّي و تَسِرَةٌ: خوش کرنا۔

سِرَّةٌ (ن) سُرٌّ: ناف میں نیزہ مارا۔

الصَّبِيُّ: بچے کا نال کا ٹٹا۔ پھولوں کا

گلدستہ دے کر مبارکباد دینا۔

سُرٌّ (س) سُرٌّ: ناف میں درد ہونا۔

سُرٌّ سُرُّورٌ: خوش ہونا۔ صفت (مَسْرُورٌ)

الصَّبِيُّ: ولادت کے وقت نال کا ٹٹا۔

أَسْرَةٌ اسْرَارٌ: خوش کرنا۔ أَسْرَ السِّرِّ:

عہد چھپانا۔ عہد ظاہر کرنا (ضد) إِلَيْهِ يَكْدَأُ:

چپکے سے بیان کرنا۔ إِلَيْهِ الْمَوَدَّةُ و بِالْمَوَدَّةِ:

اپنی دوستی کو پہنچانا۔

سُرَّةٌ: خوش کرنا۔ سُرَّةٌ سُرِّيَّةٌ: لونڈی

سے شادی کرنا۔ اس میں ایک لغت سُرَّاه بھی

ہے۔

سَارَةٌ: پوشیدہ بات کرنا۔ کان میں بات کرنا۔

تَسْرُرٌ: لونڈی بنانا۔ ایک لغت اس میں

تَسْرِيٌّ بھی ہے جیسے تَطْنُنٌ میں تَطْنِيٌّ

الْقَوْمُ: کپڑے کا پھٹنا۔

تَسَارٌ الْقَوْمِ: باہم سرگوشی کرنا اور ایک

دوسرے کے عہد پر مطلع ہونا۔ کہا جاتا ہے

”تَسَارَ زَيْدٌ إِلَى مَاتِكْرَةَ“ یعنی جس سے تم

کو نفرت ہے زید کو اس سے خوشی حاصل ہوتی

ہے۔

إِسْتَسْرَ اسْتَسْرَارًا: لونڈی کو ہم خوابی کے

لیے مخصوص کرنا۔ عتد: چھپنا۔ القمور: چاند کا

ایک دو راتیں پوشیدہ رہنا (یہ سرار سے ماخوذ

ہے) الشَّبِيُّ: چھپانے میں مبالغہ کرنا

الرَّجُلُ: خوش ہونا۔ الرَّجُلُ: اپنے عہد کو کسی

سے ظاہر کرنا۔

السَّرُّ: کہا جاتا ہے: رَجُلٌ بَرٌّ سِرٌّ، نیکی

کرنے خوش ہونے والا مرد۔ اور اسی طرح

رکھے والی اونٹیاں۔

سِدْيٌ سِدْيٌ سِدْيٌ: غلاف خرما

کا ڈھیلا پڑنا۔ صفت (سِدٌّ) الْأَرْضِ: زمین کا

بہت نمنناک ہونا الْيَلَّةُ: بہت نمن والی ہونا۔

صفت (سِدْيَةٌ)

سِدْيٌ سِدْيٌ سِدْيًا: الثُّوبُ: تانا تانا۔

سِدْيٌ: الثُّوبُ (تَسْدِيَةٌ) تانا تانا۔

إِلَيْهِ: احسان کرنا مَعْرُوفًا: بھلائی کرنا

الْأَرْضِ: نمنناک کرنا۔

أَسْدِيٌّ اسْدَاءٌ: الثُّوبُ: تانا تانا۔ کہا جاتا

ہے ”الْحَمُّ مَا اسْدَيْتُ“ یعنی جس احسان کو

تم نے شروع کیا ہے اسے پورا کرو إِلَيْهِ:

احسان کرنا الْإَرْضِ: نمنناک کرنا بینہما:

اصلاح کرنا الْإَمْرَ: بیکار چھوڑنا۔

تَسْدِيٌّ تَسْدِيًا: الشَّيْءُ: سوار ہونا۔

چڑھنا۔ اوپر سے پکڑنا الثُّوبُ: تانا تانا۔

السِّدْيُ: تانا۔ تَسْدِيَةٌ: شہم۔ شہد۔

بھلائی (وَالسَّدَاءُ) سَبْرِيٌّ بھجور۔

السَّدَاءُ: مِنَ الثُّوبِ: تانا کہا جاتا ہے۔ مَا

أَنْتَ بِلُحْمَةٍ وَلَا سَدَاءٍ“ یعنی تم سے نہ کچھ

لے رہے نہ نقصان۔

إِبِلٌ (سِدْيٌ و سِدْيٌ) بیکار چھوڑے ہوئے

اونٹ (واحد جمع کے لئے) کہا جاتا ہے ذَمَبٌ

كَلَامُهُ سِدْيٌ“ اس کی گفتگو لغو و بیکارگی۔

الْأَسْدِيُّ وَالْأَسْدِيُّ: وہ کپڑا جس کا تانا کیا

گیا ہو۔

المِسْدَاءُ: تانا تانے کا آلہ۔

السَّدَابُ: ایک بدبودار پودہ جس کے پتے

صقری طرح ہوتے ہیں۔

السَّدْبَةُ: ایک قسم کا برتن۔

السَّدَاجُ: سادہ کا معرب۔ ایک قسم کی گھاس

جو بغیر جڑ کے پانی کے اوپر پھلتی ہے۔ تیز بات۔

السَّدَاجَةُ: سادگی۔

السَّدَقُ: سدہ کا معرب۔ ایرانیوں کا ایک

جشن ہے جس میں رات کے وقت صحرا یا بیابان

میں آگ جلائی کرتے تھے۔

السُّودَقُ السِّدْقُ وَالسِّدْقَانُ

السَّرَب وحشی جانور کا سوراخ۔ تہ خانہ۔ نالی جس سے پانی آئے۔ منک سے بننے والا پانی اور کہا جاتا ہے ”طریق سَرَب“ چلتا ہوا راستہ۔ ج سَرَاب۔

السَّرَب۔ بننے والا پانی۔ مَزَادَة سَرِبَة: بننے والی منک۔

السَّرِبَة قریب کا سفر۔ منک کی سیون۔

السَّرِبَة۔ ہرن | اونٹ وغیرہ کا رپوڑ۔ طریقہ۔ انگوڑی کی تیل کی قطار۔ گھجور کے درختوں کا جھنڈ۔ سینہ کے درمیان میں پیٹ تک کے بال۔ ج سَرَب۔

السَّرَاب۔ وہ ریگستانی ریت جو دوپہر کے وقت دھوپ کی تیزی کی وجہ سے پانی جیسا نظر آتا ہے اور اس میں مکانوں اور درختوں کا سایہ عکس کی طرح معلوم ہوتا ہے۔ جھوٹ اور کمرو فریب کے لیے اس سے مثال دی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ أَخَذَ مِنَ السَّرَابِ“ وہ سَرَاب سے زیادہ فریبی ہے۔

السَّرَابِ۔ فَا كَهْلَم كَلَا ظَاهِر۔ ظَنِيَّة سَارِبَة: چراگاہ میں جانے والی ہرن (و السَّرَابِ) سیدھا جانے والا۔

والمَسْرَبِ ج مَسَارِب: جانے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے ”لِلوَحْشِ وَالنَّعَمِ مَسَارِبٌ وَحَشِي جَانُورٍ اور چوپاؤں کے لیے چلنے پھرنے کی جگہیں ہیں۔ مَسْرَبِ الْمَاءِ پانی پینے کی جگہ۔

المَسْرِبَة وَالْمَسْرِبَة: چراگاہ۔ سینہ کے درمیان میں پیٹ تک کے بال۔ آسُونِ لَنْكَةِ كِي جگہ۔ در۔ ج مَسَارِبِ۔

المُنْسَرِبِ بہت لمبا۔ تیز بننے والا پانی۔

مَسْرِبَخِ۔ الرُّجُلُ: خفیف و سبک ہونا۔ آہستہ چلنا۔ دوپہر میں چلنا۔

السَّرْبِخِ: کشادہ زمین جس میں آدمی گم ہو جائے۔

قَفْر (سَرْبَاخٌ وَ مَسْرِبَخٌ) بیابان دور دراز جس میں آدمی گم ہو جائے۔

سَرِبْنَه: کرتا پہنانا۔

سَرَاتٌ (ف) سَرَأٌ وَ سَرَاتٌ تَسْرِيَةٌ الْجَوَادَةُ او السَّمَكَةُ او الضَّبَّةُ بُدِي ياً مَجْهَلِي ياً كَوَه كَانُوا دِينَا الْمَرَاةُ بِيَتْ اَوْلَادِ وَا لِي هُوَا۔

أَسْرَابُ السَّمَكَةِ اَنْدَع دِيَتْ وَا لِي هُوَا۔ السَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ مَثَلِي اِكُوَه غَيْرَه كَا اَنْدَا۔

السَّرَوَاءُ مِنَ السَّمَكِ وَ نَحْوَهَا بِيَتْ اَنْدَع وَا لِي ج سَرَوَاءٌ وَسَرَأٌ اَزْهَقٌ (مَسْرُوَةٌ اَمْزِيوِي وَا لِي زِيْمِن۔

سَرَبِن) سَرَوَاءٌ الْمَاءِ پَانِي كَا جَارِي هُوَا الرُّجُلُ مَحْتَمِي چلے جانا۔

الْاِبِلُ: چرنے کے لیے جانا (سَرَبًا) الْقَرْبَةَ: منک سینا۔

سَرَبٌ (س) سَرَبًا۔ الْاِنَاءُ: برتن نیکنا الْمَاءِ مِنَ الْاِنَاءِ برتن سے پانی کا بہنا۔

سَرَبِ: ناک کے نتھوں میں چاندی کا دھواں بچھنے سے گھٹن لاحق ہونا۔ صفت مَسْرُوبٌ۔

سَرَبِ: الْاِبِلُ: گرہ گرہ بھیجنا۔

الْمِي الْأَشْيَاءُ: ایک کے بعد ایک دینا الْحَافِرُ: دائیں بائیں کھودنا الْقَرْبَةَ: منک میں پانی ڈالنا (وَأَسْرَبِ) الْمَاءِ مِنَ الْاِنَاءِ: برتن سے پانی بہانا۔

تَسْرَبِ: مِنَ الْمَاءِ پَانِي سے بھر جانا۔ الْوَحْشِ فِي حُبْرَه: وحشی جانور کا اپنے سوراخ میں داخل ہونا۔

إِنْسَرَبِ: سوراخ میں داخل ہونا۔

الْمَاءِ مِنَ الْاِنَاءِ: برتن سے پانی بہنا۔

السَّرَبِ: مں۔ جانور۔ جانب۔ سینہ۔ راستہ۔ کہا جاتا ہے ”فَلَانٌ مَحْلِي السَّرَبِ“ فلاں پر کوئی تنگی نہیں کی گئی ہے۔ ”خَلَّ لَهُ سَرِبَه“ اس کا راستہ چھوڑ دو۔

السَّرِبِ: ہرنوں کا گگہ۔ پرندوں کی ڈار۔ عورتوں کی جماعت۔ گھجور کے درختوں کا جھنڈ۔ راستہ۔ ول۔ کہا جاتا ہے ”فَلَانٌ وَا سَبِغِ السَّرِبِ“ فلاں کشادہ ول ہے۔ ج سَرَابِ۔

میں سر کے تلے کی جگہ پر بار۔ نعت۔ فراخی زندگی۔ نلہ پر کی ریت۔ ج أَسْرَبَةٌ وَ سُرُوبٌ السَّرِيْرَةُ: بھید۔ راز۔ وہ امر جس کو پوشیدہ رکھا جائے۔ نیت۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ طَيِّبُ السَّرِيْرَةُ“ وہ پاک دل صاف نیت والا ہے۔ ج سَرَانِيْرُ۔

السَّرِيْرَةُ بونڈی جو ہم خوابی کے لیے مخصوص کی جائے۔ ج سَرَارِيْ: غالب یہی ہے کہ اس کا اہتمام سسرے ہے اور بعضوں کے نزدیک سرور ہے۔

السَّرِيْرُ: بھائیوں سے اچھا سلوک کرنے والا اور ان کو خوش رکھنے والا۔

السَّرَاءُ: خوشی۔ خوش حالی۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ صَدِيْقٌ لَهُمْ فِي السَّرَاءِ وَالضَّرَاءِ“ وہ ان لوگوں کا خوش حالی و بد حالی میں دوست ہے۔

سَكْرِيْرَه وَا لِي زِيْمِن۔ اَزْهَقٌ سَرَاءٌ: عمدہ زمین۔ السَّرِيْرَةُ: بچوف نالی۔

السَّرَارِ: پھیلنے یا پیشانی کے خطوط۔ لکیریں۔ ج أَسْرَبَةٌ: السَّرَارِ: قمری مینے کی آخری رات۔

السَّرَارِ: خالص نسب۔ سَرَارُ الشَّهْرِ: قمری مینے کی آخری رات۔ سَرَارُ الْوَادِي: وادی کی عمدہ جگہ۔

السَّرَارَةُ: خالص نسب۔ وادی کا درمیان۔ سَرَارَةُ الشَّيْ: عمدہ خالص۔ ج سَرَارِيْ السَّرَارِيْ: خلوص۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ سَرِيْبِيْنُ السَّرَارَةُ“ وہ خالص ہے جس کا خالص ہونا ظاہر ہے۔ ”هُوَ فِي سَرَارَةٍ مِنْ عَيْشِهِ“ وہ اچھی زندگی میں ہے۔

السَّرَارُورَاءُ: خوشی و خوش حالی۔ الْأَسْرَارُ: کھوکھلا چمقان۔ مِنَ الرِّجَالِ: اچھی۔ زیادہ موٹا۔

المَسْرَرَةُ: مں۔ خوشی۔ تازگی کی شاخیں۔ ج مَسْتَارُ۔

المَسْرَرَةُ: ایک بچوف دار آلہ جس کو سننے والے کے کان میں لگا کر بات کرتے ہیں۔ الْمَسْرُورُ: خوش۔ مؤنث مَسْرُورَةٌ۔

نہیں۔
 الْمَسْرُوحُ: سرج مسارح و (المسرحة)
 نکھی۔ بال یا کتاب وغیرہ کے جدا جدا کرنے کا
 اوزار۔

المسرح: چراگاہ۔ مسارح۔
 المسرخ: وہ جگہ جہاں کہانیوں کو ذرا موں
 میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس کو المرسح پڑھنا
 غلط ہے۔

المسرح: اوزان شعر کا ایک وزن
 (المسرح) من الخيل: تیز رفتار گھوڑا۔
 رجل مسرخ: لمبا مرد۔ المسرخ:
 نڈی۔

السراج: تسريح کا اسم۔ کہا جاتا ہے
 "افعله في سراج و رواج" یعنی اس کو
 آسانی سے کرو۔

السرحوب: گیدڑ۔ لہا تناسب الاعضاء
 سراجيب۔
 السرحال: بھیڑیا۔

سرد (نض) سردا و سردا: الجلد:
 چمڑے کو بیٹا الشی: کسی چیز میں سوراخ کرنا
 اللدغ: زہر بنا الحديث او القراءة:
 اچھی طرح بیان کرنا یا پڑھنا الصوم: بے
 درپے روزے رکھنا کتاب: جلدی سے
 پڑھنا۔

سرد و سرد (س) سردا: لگاتار روزے
 رکھنا۔
 سرد و سرد: الايديم و نحوه: چمڑے
 وغیرہ میں سوراخ کرنا اور بیٹا النخل:
 درخت خرما کا پانی نہ ملنے سے مر جھانا۔

تسرد: اللدغ: موتیوں کا لڑی میں ترتیب
 وار ہونا۔ کہا جاتا ہے "تسرد دمنه کما
 يتسرد اللؤلؤ" اس کے آنسو موتیوں کی
 طرح ترتیب وار ہیں۔

السرد: سرد ہر زہر اور حلقہ کے لیے اسم
 ہے۔ کہا جاتا ہے "نحوم سرد"
 السرد: سرد لگاتا ہونا۔
 السرد: پھل کو پانی نہ ملنے سے پڑمردگی۔

سرح (س) سرحا: الرجل: کسی کا اپنے
 امور کے لیے نکلنا۔

سرح المواشي: جانوروں کو چرنے کیلئے
 چھوڑنا القوم: آزاد کرنا چھوڑ دینا
 الزوجة: طلاق دینا۔ اسم (السراج) ہے۔
 اليه رسولا: پیغامبر بھیجنا الامر: آسان کر
 دینا۔

الله فلانا للخير: بھلائی کی توفیق دینا۔
 الشعو: نکھنا کرنا عنہ: کشادگی کر دینا۔
 انسرحت: الذابة: جانور کا نرم ہونا اور تیز
 چلنا الرجل: چت لینا اور ناکلیں کشادہ کرنا۔
 ننگا ہونا۔

تسرح من المكان: نکلنا عنہ: کشادگی
 کیا جاتا الكتاب: کتاب کے اجزاء کا علیحدہ علیحدہ
 ہونا۔

السرح: مصل۔ جانور۔ گھر کے سامنے کا
 صحن۔ ہر لمبا درخت۔ بے کانوں کا درخت۔
 واحد (سرحة) سرح:

السرحة: جوان گدھی جو ابھی حاملہ نہ ہوئی
 ہو۔

خيل (سرح و ناقة سرح) تیز اور نرم
 رفتار گھوڑا یا اونٹنی۔ مشية سرح: نرم
 چال۔ عطاء سرح: بغیر مال منول کے فوری
 بخشش۔

السرحان: بھیڑیا۔ شیر۔ حوض کا وسط۔ سرح
 سراج و سراج و سراجين: ذنب
 السرحان: فخر کا ذب۔

السرحانة: سرحان کا مؤنث۔
 التسريح: من الامور: آسان۔ جلدی کیا
 ہوا۔ جدی۔ والتسريح من الخيل: نکلی
 پیڑھ کا گھوڑا۔

السرحية: تمہ جس سے جو تہ وغیرہ سیا
 جائے۔ کپڑا کا کٹلا۔ تک زمین کا روشن راستہ۔
 سرحانج:

السراج: فا۔ چرواہا جو اونٹوں کو چرائے۔
 جانور۔ مؤنث سارحة اور کہا جاتا ہے "ما له
 سارحة ولا رائحة" یعنی اس کے پاس کچھ

تسربل: بالسر بال: کرتا پہننا۔

المسربال: کرتا یا ہر وہ لباس جو پہنا جائے۔ سرح
 سراييل:

سرح (ن) سرحا: جھوٹ بولنا المرأة
 شعرها: چوٹی بنانا۔

سرح (س) سرحا: جھوٹ بولنا۔
 خوبصورت چہرہ والا ہونا۔

سرح الشی: خوبصورت بنانا۔ سرحة
 الله: توفیق دینا۔ سرح الشعو: چوٹی بنانا۔
 الحديث: گھڑنا۔ کہا جاتا ہے "سرح علی
 أسروجة" اس نے میرے اوپر جھوٹ گھڑا۔
 و"انه ليسر سرح الأحاديث تسريحا" وہ
 جھوٹی باتیں گھڑتا ہے۔ عوام کہتے ہیں۔
 "سرح الثوب" اس نے دور دور سلائی کی
 اور سرح شین مجھ سے ہے۔

أسرح: الفرس: گھوڑے پر زین کسنا۔
 السراج: چراغ روشن کرنا۔
 تسرح: علیہ: جھوٹا گمان کرنا۔

السرح: زین۔ سرح:
 السراج: چراغ۔ سرح: سراج
 اللیل: جگنو۔

السیرج: تل کا تیل۔ اس کو شیرج بھی کہا
 جاتا ہے۔
 السراج: جھوٹا۔ زین سازو (السراجة)
 زین سازی کا پیشہ۔

السرجيات: سرج کو ہار کی طرف منسوب
 گواریں۔

المسرحة: چراغ دان۔ سرح مسارح:
 المسرحة: چراغ۔ مسارح:
 المسرجن والمسرجين والمسرجون:
 گوار۔

سرحت (ف) سرحا و سرحا:
 المواشي: جانوروں کو چرنے کے لیے جانا۔
 السيل: سیلاب کا آہستہ بہنا (سرحا)
 المواشي: جانوروں کو چرنے کے لیے
 چھوڑنا۔ سرحة: بھیجنا۔ سرح ما شی
 صدرہ: دل کی بات ظاہر کر دینا۔

السرداد والسريد والمنزود. ستالی۔
المنزود زبان۔ دہرا سلا ہوا جوتا۔
السارد مویٹی۔

السراد زره بنانے والا۔
المنزود والمنزودة۔
زرہ۔

السرداب تہ خانہ۔ ج سردایب۔
سردحہ بیکار چھوڑنا۔
السرداح والسرداحة۔ لمبی اونٹنی اور
بقول بعض مضبوط پر گوشت اونٹنی۔

السرداح کیلے کے درختوں کا جھنڈ۔
واحد سرداحة۔ أرض سرداحة۔ ہموار
زمین۔ دور کی زمین۔ ج سرداح و
سردایح۔

سردق البیت پردہ لگانا۔ شامیانہ لگانا۔
خیمہ لگانا۔
السرداق شامیانہ۔ خیمہ۔ بلند غبار یا
دھواں جو کسی چیز کو محیط ہو۔ ج
سرداقات۔

سرس (س) سرسسا۔ بد خلق ہونا۔
جہالت کے بعد ادا ہوشیار ہونا۔
السرس عقل مند۔ زیرک۔ مقبوضہ
چیز کا محافظ۔

سرسر الشفرة۔ دھار تیز کرنا۔
السرسور زیرک۔ محبوب۔ خالص
ساقی کہا جاتا ہے۔ ”هو سر سور مال“
وہ مال کا بہتر منتظم ہے۔

السرسام ایک دماغی بیماری کا نام۔
سرط (ن) و سرط (س) سرطا و
سرطاناً و تسرط و استرط۔ الشی:
لگانا۔

انسرط۔ الشراب فی حلقہ: حلق میں
آسانی سے اترنا۔

السراط واضح راستہ۔
السراط من السیوف: بہت کاٹنے والی
تلواریں۔

السراطی بہت کاٹنے والی تلوار۔

(والسرط والسرواط والسرطاة)
والسرط والسرطیط جلدی لگنے والا۔
بہت کھانے والا۔ السرط تیز چلنے والا۔
السرطی اسم ہے سرط کا۔ لگانا۔

السرطان سر نیکڑا اور اس کا نام
عقرب الماء بھی ہے اور عوام اس کو
السلطعون کہتے ہیں۔ السرطان ایک
برج آسانی کا نام ہے۔ ایک پھوڑے کا نام
جس میں نیکڑے کی ٹانگوں کی طرح رگیں

دکھائی دیتی ہیں اور کہا جاتا ہے ”فوس
سرطان او سرطان الجوی“ یعنی تیز
دوڑنے والا گھوڑا۔

المنسرط والمنسرط حلق۔ المنسرط:
جلدی کھانے والا۔

سرطع گھبراہٹ کی وجہ سے تیز دوڑنا۔
السرطل والسرطم بے ڈول۔ لمبا۔

السرطم والسرطم بہت کھانے والا۔
سرع (س) وسرع (ک) سرعة و
سرعا و سرعا و سرعا و سرعا و
سرعة جلدی کرنا۔

سارع الیہ: سبقت کرنا فی الامر:
کوشش کرنا۔

اسرع فی المشی: جلدی چلنا۔
تسارع و تسرع الی الامر: سبقت
کرنا۔ جلدی کرنا۔ (تسرع بالامر):

سبقت کرنا۔ تسرع الامر: جلدی ہونا۔
التسرع والتسرع انگور کی تازہ شاخ۔ ہر
ترشاخ۔ جسرع۔

سرعان و سرعان و سرعان اسم فعل
مبنی بر فیتہ۔ یعنی اسرع یعنی جلدی کرو۔
کہا جاتا ہے ”سرعان القوم“ یعنی اے
قوم جلدی کرو۔ اور کبھی تعجب کے لیے آتا
ہے۔ جیسے ”لسرعان ما فعلت“ یعنی تو

نے کس قدر جلدی کی۔
سرعان و سرعان القوم او الخیل:
سب سے آگے کے لوگ یا گھوڑے۔ کہا
جاتا ہے ”جاء فی سرعان الناس“ وہ

سب سے آگے کے لوگوں میں آیا۔
السريع جلد باز۔ جسرعان مؤنث
سرعة جسرع اشعار کے اوزان میں
ایک وزن۔

السريع والسرعان جلد باز۔ مؤنث
سرعی۔

ساربع کمان کی لکیریں۔ کہا جاتا ہے
”فوس ذات اساربع“ لکیروں والی کمان۔
سفید جسم اور سرخ سر والے کپڑے۔ واحد
(السروع و يسروع)

السرع والمسراع خیر یا شر کی
طرف جلدی لپکنے والا۔ ج مسراع و
مساربع۔

کالی کے بڑے پودے سمندری کناروں پر
ہوتے ہیں ان کو لندروغا بولتے ہیں۔

السرعوس: مچھلی کی ایک قسم۔
السرعوف نازک و سبک گوشت۔

مؤنث سرعوفة السرعوفة: لمبے قد کی
نازک بدن عورت۔ نڈی۔ کپڑے کو چاٹنے
والا کپڑا۔

سرفت (ن) سرفا السرفة الشجرة:
کپڑے کا درخت کے پتوں کو چاٹ جانا
الاد ولدها: مال کا بچہ کو زیادہ دودھ پلا کر
بیمار کرنا۔

سرف (س) سرفا الامر: بیکار چھوڑنا۔
جاہل ہونا۔ خطا کرنا۔ کہا جاتا ہے ”ما فی
عظانہم من ولا سرف“ یعنی وہ لوگ داد
و دہش کے موقع پر غلطی نہیں کرتے ہیں
طور کہ غیر مستحق کو دے دیں اور مستحق کو

محروم کر دیں۔ سرف القوم: تجاوز کرنا
الطعام: گھن لگنا لرجل بالحسر: شراب
کا حریص ہونا۔

اسرف المال: فضول خرچی کرنا فی
کذا: حد سے تجاوز کرنا۔ زیادتی کرنا۔ خطا
کرنا۔ جاہل ہونا۔ غافل ہونا۔ صفت
(فسرف)

السرفة: گھن۔ سرخ جسم اور کالے سر

السَّرْمَقِيَّاتُ اَلْغُورِي كِي اِيك قِسم۔
 سَرْهَدُ السَّنَامِ: كُوبَان كُو كَاثَا الصَّبِي:
 بچے كُو اچھی خوراك كھلانا۔
 السَّرْهَدُ كُوبَان كِي چَرْپِي۔ مَاءُ سَرْهَد:
 بہت پانی۔
 الْمُسْرَهْدُ: ث۔ مَوَاہ۔
 سَرْهَفُ الْغِذَاءِ: غِذَا كُو عَمْدَ بَنَانَا۔
 الصَّبِي: بچے كُو اچھی خوراك كھلانا۔
 سِرْ اِيَسْرُو سِرْوَا۔ سِرْتُ الْحِرَادَةِ:
 ٹڈی كَا اٹلے دینا (و سِرِي تَسْرِيَةِ
 وَاسْرِي اَسْرَاءِ) الثَّوْبُ عِنْدَ كَپْرِي
 اُتْرانا۔
 سِرَا يَسْرُو وَسِرِ وَيَسْرُو وَسِرِي
 يَسْرِي سِرْوَا، وَسِرَاوَةٌ وَسِرَاوَةٌ
 صَاحِبِ مِرْوَتٍ وَتَخَاتٍ هُوَا۔
 سِرِي وَاسْرِي اَسْرَاءِ عِنْدَ الْهَمِّ: غَمُّ
 زَاكِلٍ هُوَا۔ دُورِ هُوَا۔ سِرِي الْقَوْمِ: سِرْدَارِ
 قَوْمِ كَا مَارَا جَانَا۔
 سَارَاهُ مَسَارَاةً اِيك دُوسْرِي پَر فَخْرٍ
 كَرْنَا۔
 تَسْرِي تَسْرِيَا۔ يَتَكَلَّفُ مِرْوَتٍ وَتَخَاتٍ
 كَرْنَا۔ لُوثِي كُو هَمَّ خَوَابِي كِي لِيْے مَقْرَرٍ
 كَرْنَا۔
 اسْتَرِي اسْتَرَاةً اِخْتِيَارِ كَرْنَا۔ چِنَانَا۔
 اَلْمَوْتُ الْقَوْمِ: قَوْمِ كِي سِرْدَارِوِي مِيں
 مَوْتِ وَقَعِ هُوَا۔
 السَّرْوُ: سِر۔ فَضْل۔ مِرْوَتٍ وَتَخَاتٍ۔
 اِيك دِرْخْتِ كَا نَام۔ وَاحِدُ (سِرْوَةٍ) اَبُو
 السَّرْوِ: تَجْوَر۔
 السَّرْوُ: آوازِ وَالِي صَنْدُوقِ اِيك سِيْدِهَا
 سِرَاخ۔
 السَّرْوِيَّةُ: اِيك پودے كَا نَام۔
 السَّرْوَةُ وَالسَّرْوَةُ وَالسَّرْوَةُ: چھوٹا تير
 اور بَقُولِ بَعْضِ چوڑے پھل كَا تير۔ ج
 سِرِي وَ سِرِي السَّرْوَةُ: ٹڈی كَا بچے جو
 اچھی كِيڑے كِي شِكْلِ كَا هُو۔
 السَّرَاةُ: پيٹہ۔ دِن كِي چَرْهَانِي مَن

اَسْرَقَتْ مَفَاصِلَهُ: جُوڑُوں كَا سِتْ هُو
 جَانَا۔
 اسْتَرْقَ مِنْهُ الشَّيْءُ: چَرَانَا السَّمْعُ:
 چھپ كَر سِنَا الْكَاتِبِ بَعْضِ
 الْمَحَاسِبَاتِ: چھپا لِيْنَا۔ ظَاہِرًا كَرْنَا۔
 السَّرْقَةُ: سِر۔ چَرَانِي هُوئي چِيْز۔
 السَّارِقُ: فَارِجٌ سَرَقَ وَسَّرَاقٌ وَ
 سَارِقُونَ مَوْتٌ سَارِقَةُ السَّارِقَةِ: لوے
 يَا چِيڑے كَا طُوق۔ جِ سَوَارِقُ. السَّوَارِقُ:
 تالے كِي زَاكِدِ جَمْر۔
 السَّرْقَةُ: سِر۔ حَرِيْرٌ كَا بَكْلُو۔ جِ سَرَقَ (يِ
 كَلِمَةٌ اس مَعْنَى كِي لِحَاطِے فَا رِسِي هِي۔)
 السَّرَاقُ: بہت چَرَانے والا۔
 السَّرْوُوقُ: چور۔ جِ سَرِقَ.
 السَّرَاقَةُ: چَرَانِي هُوئي چِيْز۔
 الْمُسْتَرْقُ: فَارِجٌ كَزُورٍ مُسْتَرْقٍ
 الْعَنْقُ: چھوٹی گردن والا۔
 السَّرْفُوعُ: تَرَشٌ نَبِيْذ۔
 السَّرْفِيْنُ وَالسَّرْفِيْنُ: گور۔ كھاد۔
 سَرْكُ (س) سَرْكِي: قُوْتٌ وَتَوَانِي كِي
 بَعْدَ كَزُورِ جِسْمِ والا هُوَا۔
 السَّرْوُكُ وَتَسْرُوْكُ: لاغْرِي يَا تَحْمِكُنْ كِي
 وَجْدے آہٹہ چلانا۔
 سَرْهَمٌ: كَلْبَةٌ كَلْبِي كَرْنَا۔
 تَسْرَمٌ: كَلْبَةٌ كَلْبِي هُوَا۔
 السَّرْمُ: مَسْتَقِيْمٌ اَنْتَ كَا كِنَارَمُ جِ اسْرَامِ.
 السَّرْمُ: دِر كَا دَرَب۔
 السَّرْمَانُ وَالسَّرْمَانُ: زَرْدِ وَسِيَاہِ بھڑ۔
 السَّرْمَدُ: هَيْمَش۔ لَيْلِ سَرْمَدِي لَيْسِي رَاَت۔
 السَّرْمَدِي: جِس كِي اِبْتِدَاؤِ اِحْتِمَانِ هُو۔
 تَسْرَمَطُ الشَّعْرِ: بَالِ بَلْكِي اَوْر كَمِ هُوَا۔
 السَّرْمَطُ وَالسَّرْمَطُ وَالسَّرْمَطُ
 وَالسَّرْمَطُ وَالسَّرْمَطُ: ہر اِيك لَبِي
 چِيْز۔ السَّرْمَطُ: ہر كَمْبِلِ وَغِيْرِهِ جِس مِيں
 كُوئي چِيْز لِيْجِي جَاے۔ رَجُلٌ سَرْمَطٌ: ہر
 چِيْز كُو نِگْلنے والا مرد۔
 السَّرْمُقُ: اِيك گھاس كَا نَام۔

والا كِيْزَا جو چھوٹی كَلْبِيُوں كُو اِسْنِي لَعَابِ
 سے جوڑ كَر گھربناتا ہے اور اس مِيں دَاخِلِ
 هُو كَر مَر جَانَا ہے۔ اِسی سے مِثَالِ ہے "هُوَ
 اَضْعُجٌ مِّنْ سَرْفَةٍ" وَہ سَرْفِے سے زيادہ
 كَارِيْگَر ہے۔
 السَّرْفُ: حُدُودِ اِعْتِدَالِ سے تَجَاوُزِ كَرْنَا۔
 زِيَادَتِي۔ خَطَا۔ كَہَا جَانَا ہے "اَكَلَهُ سَرْفًا"
 اس نے جلدی سے كھايَا۔
 السَّرَافُ: سَرْفَةٌ (مذْكَورَةٌ بِالْاَكْثَرِ) كَا
 دِرْخْتِ كِي پُتُوں كُو چَاثِ جَانَا۔
 رَجُلٌ (سَرْفٌ) الْفَوَادِ: فَاعِلٌ مَرْد۔
 سَرْفُ الْعَقْلِ: خَرَابٌ يَا كَمِ عَقْلِ والا۔
 اَرْضٌ (سَرْفَةٌ) زَمِيْنٌ جِس مِيں سَرْفِے
 كِيڑے بہت هُوں۔
 السَّرْوُوفُ: سَخْتٌ اَوْر بَزَا۔
 السَّرِيْفُ: اِگُورِي كِي تِيْلِ كِي قَطَار۔
 سَرَقَ (ض) سَرْقًا وَسَرْقًا وَسَرْفَةً وَ
 سَرْقَةً وَسَرْقَانًا. مِنْهُ الشَّيْءُ وَسَرْقَهُ
 الشَّيْءُ: چَرَانَا۔ كَہَا جَانَا ہے "سَرْقُوا لَيْلَةَ
 مِيْنِ الشَّهْرِ" جبكہ اس رَاَتِ مِيں عِيْشِ كِي
 سَاتھ رَہِيں۔ وَ"سَرْقَتْنِي عَيْنِي" مِيْرِي
 آنكھ مِيْرِي اَوْر غَايَبِ هُوئي۔
 سَرَقَ الرَّجُلُ: كَسِي كِي مَالِ وَتَخَاتِ كَا
 چُورِي هُو جَانَا صَوْتُهُ: آوازِ پڑنَا۔ گَلَا بِيْطْ
 جَانَا۔ صَفْتِ مَسْرُوْفِ الصَّوْتِ
 سَرَقَ (س) سَرْقًا الشَّيْءُ: پُوْشِيْدَ هُوَا۔
 سَرَقَتْ مَفَاصِلَهُ: جُوڑُوں كَا سَخْتِ سِتْ هُو
 جَانَا۔
 سَرْقَهُ: چُورِي كِي نَسْبِ كَرْنَا۔ سَرَقَ
 الشَّيْءُ: چَرَانَا۔
 سَارِقَةُ النِّظَرِ: اِيك دُوسْرِي كُو دَرِيْدِہ
 نِگَاہِ سے دِيكھنا اس طَرَحِ پَر كَر كَبِي اَوْر كُو عِلْمِ
 نِہ ہُو۔ سَارِقُ النِّظَرِ اِيْہ: كَسِي كُو دَرِيْدِہ
 نِگَاہِ سے دِيكھنا۔
 تَسْرَقَ تَحْوَرًا تَحْوَرًا: چَرَانَا النِّظَرِ
 وَالسَّمْعِ: چُورِي سے دِيكھنا يَا سِنَا۔
 اَسْرَقَ عَنْهُ: جَانِي كِيْلِي چِيْجِي ہُنَا۔

الطریق: در میانہ راہ۔ ج سزوات۔
سزوات القوم: سرداران قوم۔

السری: صاحب شرف و مروت یا صاحب مروت و سخاوت۔ شریف مخی
سردار ہر چیز میں عمدہ۔ سسری و سسراة
وسراة و اسریاء و سزواء مؤنث سسریة
سسریات و سسرایا۔
سزولة: پاجامہ پہنانا۔
سسزول: پاجامہ پہنانا۔

السزوال و السزوال و السزویل۔
پاجامہ۔ ازار۔ کلمہ فارسی ہے اور مؤنث ہے
اور کبھی مذکر استعمال کیا جاتا ہے۔ ج
سزویل۔ فرس (سزول) بازوؤں اور
راٹوں تک سفیدی والا کھوڑا۔
حمامة (سزولة) ناگوں پر پر والا
کبوتر۔

سری سسری و سسری و سسریة و سسریة
وسسریة و سسریانا و سسری و اسسری۔
رات میں چلنا۔ صفت (سار) ج سسراة
وسسری بہ: رات میں سفر کرنا و سسری
عروق الشجرة: درخت کی جڑ کا زمین
کے نیچے چل پڑنا۔ سسری الدم فی
الغروق: خون کا رگوں میں دوڑنا الھم
عم زائل ہونا اور کہا جاتا ہے "سسری
الجرح الی النفس" یعنی زخم نے اثر کیا
یہاں تک کہ ہلاکت واقع ہوگئی۔

سری عنہ: غصہ یا غم کا زائل ہونا۔
اسسری اسراء: رات میں چلنا الرجل
کشادہ زمین کی طرف جانا۔
سسری عنہ اور عن قلبہ: کسی سے غم
دور کرنا قائد الجيش: کمانڈر کا دستہ فوج
بھیجنا۔

ساری: صاحبہ: ساتھ ساتھ رات میں
چلنا۔

سسری و اسسری دیکھئے ماہ س رو۔
السری و السریان و السسریة: مصادر۔
رات کا سفر اور عرب کا قول "عند

الصباح یخمد القوم السری" مثال ہے
جو ایسے موقع پر بولتے ہیں کہ مشقت
برداشت کرنے میں راحت کی امید ہو۔
ابن السری: رات کا مسافر۔

السریة: ٹڈی کا بچہ جو ابھی کیڑے کی
شکل کا ہو۔

السراة: ہر چیز کا بالائی حصہ۔ سسراة
الجبل: پہاڑ کی چوٹی۔ سسراة الضحی:
ابتداءً وقت چاشت۔

السراء: رات میں بہت چلنے والا۔
الساری: فا۔ ج سسراة (والمساری و
المسری) شیر۔

الساریة: ساری کا مؤنث۔ رات کو چلنے
والی جماعت۔ رات کو آنے والا بادل۔ ستون
عند الملاحین: مستول۔ سسوار۔
الساریة: متعدی مرض

السریالیة: ایک ادنی نظریہ جس میں
منطق کو کلی طور پر ترک کرنے کا نظریہ
پیش کیا گیا۔

السرایة و السرایا: شاہی محل (کلمہ
فارسیہ ہے)۔

السری: چھوٹی ٹڈی۔ ج اسسریة
وسسریان۔

السریة: دستہ فوج۔ تیر کا چھوٹا اور گول
پھل۔ سسرایا۔

الساسب و السینب و السینب:
ایک درخت کا نام جس کی لکڑی سے تیر
بناتے ہیں۔

السینبان: ایک درخت جس کے پتے
چوڑے اور پھول سفید ہوتے ہیں اور اس کا
دانہ مٹانہ کی پتھری کو توڑنے کے لیے
استعمال کرتے ہیں۔

الاسط: لمبی ناگوں والا مرد۔
السطط: ظالم لوگ۔

المنسطبة و المنسطبة: چبوترہ۔ نہائی
کہکشاں۔ فقراء اور سالمین کے جمع ہونے
کی جگہ۔ سسراے۔ ج مساطب (صاد کے

ساتھ الٹ ہے)۔

سطحہ (ف) سطح: بچھانا۔

بچھاڑنا۔ "لانا۔ کہا جاتا ہے "ضریہ
فسطحہ" اس نے اس کو ماتے ماتے بچھا

دیلا (سطح) البیت: چھت کو ہموار کرنا۔
سطح و سطح الناقة: اونٹنی کو بٹھانا۔

تسطح: ہموار ہونا۔
انسطح: بغیر کسی حرکت کے چت لیٹنا۔
بچھانا۔

السطح: سر۔ چھت۔ چوڑی چوٹی۔ ج
سطوح۔

السطیح: پھیلا ہوا کمزوری یا بیماری کی
وجہ سے سستی سے اٹھنے والا

(والمسطیحة) توشہ دان۔

السطح: ایک قسم کی گھاس۔ زمین پر
پھیلی ہوئی نیل۔ واحد (سطاحة)

المسطح: ہموار کرنے کا اوزار۔ نیل۔
خیر کا ستون۔ کھلیان۔ کھجوروں کے خشک

کرنے کی جگہ (والمسطح) کھجور کی
شاخوں کی چٹائی۔ کہا جاتا ہے "زایت

الأرض مسطح" میں نے زمین کو چراگاہ
سے خالی دیکھا۔

المسطح: وہ شکل جس کو ایک خط گھیرے۔
آفت (مسطح) بہت پھیلی ہوئی ناک۔

المسطوح: مقتول لمبا پڑا ہوا۔

سطر (ن) سطر: کھنڈہ بالسیف
تلواریں کاٹنا۔ سطر الرجل: پچھاڑنا۔

سطر بے اصل باتیں جمع کرنا علیہ:
گھڑی ہوئی باتیں بیان کرنا القراطس:
سیدھی سطر ہونے کیلئے لکیریں بھینچنا۔

اسطر پڑھنے میں غلطی کرنا۔

استطر: لکھنا کہا جاتا ہے "هذا
مسطر" یہ لکھا ہوا ہے۔

السطر و السطر: قطار۔ لکیر۔ کہا جاتا

ہے "کب سطر" و "غرس سطر" و
بنی سطر من بنانہ" ج اسطر و سطور
و اسطار و اسطایر اور کہا جاتا ہے

الْأَسْطُون. من الجمال: لمبي گردن کا اونٹ۔

الْأَسْطَوَانَةُ: کھمبہ ستون۔ جانور کی ٹانگ۔ ج اسطین (مکہ لاجیم ہے) کہا جاتا ہے "هم أسطين الزمان" وہ لوگ زمانہ کے یکتا ہیں۔ و "أسطين مسطنة" مضبوط کھمبہ۔

المُسطن: لمبی ٹانگوں والا۔

سَطَا يَسْطُو سَطْوًا وَسَطْوَةً. بہ و غلبہ: کسی پر حملہ کرنا۔ مغلوب کرنا۔ مضبوط پلڑنا۔

الفرس: خود سری سے دور دور قدم رکھنا الماء: بہت ہونا۔ کہا جاتا ہے "ما سَطَوْتُ فِي الطَّعَامِ" میں نے کھانے کو نہیں چکھا۔

أَسْطَى اسطاءً عَلَيْهِ: بمعنی سلا۔

سَاطَى الرَّجُلُ: سختی برتا۔ نرمی کرنا۔ (ضد)

السَّاطِي: فادور دور قدم رکھ کر چلنے والا گھوڑا۔ وہ گھوڑا جو چلنے میں دم کو اٹھائے۔

تَسَعَّبَ الشَّيْءُ: تار سا کھینچنا (جیسے شہد شیرہ وغیرہ سے)

انْسَعَبَ الماءُ يَأْتِي: بہنا۔

السَّعْبُ: ہر لزوجت والی چیز جس سے تار کی مانند کھینچے۔

السُّعْبُوبُ: شہد۔ شیرہ۔ لعاب عطمی وغیرہ کا تار۔ ج سعابیب۔

المُسْعَبُ: جائز۔ کہا جاتا ہے "هُوَ مُسْعَبٌ لَه" وہ اس کے لیے جائز ہے۔

السَّعْبِرُ: بہت پانی والا کتواں۔ ماءً سَعْبِرٌ بہت پانی۔ سَعْبِرٌ سَعْبِرٌ: ارزاں نرخ۔ ج

سَعَابِرُ سَعَابِرِ الطَّعَامِ: کیموں کا پھجوزن۔ السَّعْتَرُ: پہاڑی پودینہ (لغت جیدہ صغتر بالصا ہے۔)

السَّعْتَرِيُّ او الصَّغْتَرِيُّ: بہادر۔ سختی۔

چالاک۔

سے لمبا ستون۔ اونٹ کی گردن یا پہلو میں لمبا داغ۔ ج سَطْع و اسطعة۔

السَّطِيعُ: صج۔ لب۔

المسَطِيعُ: فصیح۔ خوش بنیان۔ کہا جاتا ہے "حَطِيبٌ مَسَطِعٌ وَ مَضْمَعٌ" یعنی بلخ پیکر چرار۔

سَطَلَا (سَطَلَا ض) سَطَلًا: الدواءُ بدهوش کرنا۔

انْسَطَل و اسْتَطَل: بدهوش ہونا (لغت عوام ہے) کہا جاتا ہے جَاءَ (بِئْسَطَلٌ) وہ تنہا آیا اس کے ساتھ کچھ نہ تھا۔

السَّاطِلُ: مِنَ الْغَبَارِ: بلند غبار۔

السَّطَلُ: ایک تانے کا برتن جس میں دستہ لگا ہوا ہوتا ہے جس کو پکڑ کر اٹھاتے ہیں۔ ج اسَطَال و سَطُول: مرد دراز قامت۔

السَّيْطَلُ: بمعنی سَطَل اور بقول بعض بمعنی طشت۔

الْأَسْطُولُ: جہازوں کا بیڑا۔ ج اسَاطِيلُ (مکہ عجیبی ہے)

سَطَمَ (ن) سَطْمًا: الْبَابُ: دروازہ بھیڑنا۔ بند کرنا۔

السَّطَامُ: آگ کی کرلین۔ شیشی کی ڈاٹ۔ تلوار کی دھار۔

السَّطْمُ: تلوار کی دھار۔

السَّطْمُ: جڑیں۔

الانْسَاطِمُ: آگ ہلانے کی کرلین۔

الانْسَطْمُ و الْاَسْطَمَةُ: مِنْ مَحَلِّ شَيْءٍ: درمیان۔ بڑا حصہ مِنَ الْبَحْرِ: سمندر کا بڑا

حصہ اور اسی سے ہے "وَلَيْلٌ طَمًا اُسْطَمَةٌ" رات کی تاریکی بہت بڑھ گئی۔

اُسْطَمَةُ الْقَوْمِ: قوم کے جمع ہونے کی جگہ۔ اشراف قوم۔ کہا جاتا ہے "هُوَ فِي اُسْطَمَةِ قَوْمِهِ" وہ اپنی قوم کے درمیان

میں ہے۔ ج اسَاطِمُ۔

السَّاطِنُ: خمبش۔ پلید۔

الاسْطَانُ: ایک پتیل کا برتن۔

"إِنَّ هَذَا الْأَسَاطِيرَ الْأَوَّلِينَ" یہ تو کچھ بھی نہیں۔ صرف بے سند باتیں ہیں جو

پہلے سے چلی آ رہی ہیں۔ السَطْرُ: تحریر و کتابت۔ یک سالہ کبری۔

السَطْرُ: آرزو۔

السَطْرُ: چکنی چڑی باتیں۔

الاسْطَارُ و الْاَسْطَارُ و الْاَسْطُورُ و الْاَسْطِيرُ: و اَيْضًا بِالْهَاءِ فِي كَلِمَاتِهَا: ہر وہ چیز جو لکھی جائے۔ ج اسَاطِيرُ۔

الْاَسْطُورَةُ و الْاَسْطِيرَةُ: بے اصل بات۔ السَاطِرُ و السَّاطِرُ: تھاب۔

السَّاطُورُ: گوشت کاٹنے کی چھری۔ ج سَوَاطِيرُ۔

الْمَسْطَرَةُ و الْمَسْطَرَةُ: لکیروں کے کھینچنے کا رول۔ ج مَسَاطِرُ۔

المُسْطَارُ و الْمُسْطَارَةُ و الْمَسْطَارُ: و الْمَسْطَارَةُ: تیز شراب جو پینے والے کو

پھچاڑ دے۔ شیرہ انگور پکانے سے پہلے بلند غبار۔

سَطَعَ (ف) سَطْعًا و سَطُوعًا و سَطْعًا: الْغَبَارُ او الرَّاحَةُ و النَّوْرُ: غبار یا بویا روشنی کا بلند ہونا۔ پھیلنا اور اسی سے

ہے "سَطَعَتْ رَاحَةُ الْمَسْكِ" یعنی مکہ کی خوشبو پھیلی بیدیدہ تالی بجانا۔ تم

کہتے ہو "سَطَعْتَنِي رَاحَةُ الْمَسْكِ" جبکہ مکہ کی خوشبو تمہاری ناک میں پہنچے

(سَطْعًا) راسہ گردن لمبی کر کے سر اٹھانا البعيرُ: گردن یا پہلو پر لمبا داغ لگانا۔

سَطَعَ (س) سَطْعًا: دراز گردن ہونا۔

مفت (اسطع) اونٹ (سَطْعَاء) سَطْعًا: بلند کرنا۔ اٹھانا۔ پھیلاتا البعيرُ: گردن یا پہلو پر لمبا داغ لگانا۔

السَّطْعُ: ہر وہ چیز جو بلند ہو اور پھیلے عام اس سے کہ غبار ہو یا روشنی یا بجلی۔

السَّطْعُ: تالی۔ تالی بجانے یا تیر پھینکنے کی آواز۔

السَّطَاعُ: لمبا اونٹ۔ خمیر یا گھر کا سب

آواز۔

سعد (ف) سعدا و سعودا اليوم:

مبارک ہونا۔

سعد (س) وسعد سعادة نیک بخت

ہونا۔ صفت (سعيد) ج سعداء و

(مسعود) ج مساعيد

ساعده۔ علی الامر کسی کی کسی کام پر

مرد کرتا۔

اسعده۔ علی الامر مرد کرتا۔ اسعده

اللہ نیک بخت بنانا۔ صفت (مسعود)

مسعد نہیں کہا جاتا۔

تسعد۔ مبارک ہونا الراعی: سعدان

گھاس کی چراگاہ تلاش کرتا۔

استسعد بالشئ اپنے لیے مبارک

سمجھنا۔ کہا جاتا ہے "استسعد فلان"

برویة فلان" فلان نے فلان کے دیکھنے کو

اپنے لیے مبارک سمجھا۔

السعد۔ برکت۔ خوش بختی۔ ج اسعد

سعود۔ کہا جاتا ہے "لیک و سعديک"

یعنی میں تمہاری خدمت کے لیے بار بار

حاضر ہوں۔ سعود النجوم: دس ستارے

ہیں جن میں سے ہر ایک کو سعد کہا جاتا

ہے۔

السعد: سعدی پودے کی ایک قسم ہے اس

سے اچھے قسم کے پیاز پیدا ہوتے ہیں۔

الساعد۔ فاسر دار۔ کہا جاتا ہے "مالهم

ساعدا يعتمدونہ" ان کے لیے کوئی

سردار نہیں جس پر اعتماد و بھروسہ کریں۔

بازو۔ کہا جاتا ہے "شد اللہ علی

ساعديک" اللہ تعالیٰ تمہارے بازو کو مضبوط

کریں۔ ساعدا الطير: پرندے کے بازو۔

ج سواعد۔ کہا جاتا ہے طائر شديد

السواعد: مضبوط بازو والا پرندہ۔

الساعدة: چرخی کا ڈنڈا۔ ج سواعد

السواعد: دریا یا سمندر کی طرف پانی

جانے کے نالے۔ بڑی میں مفرخ نالی۔

شخن میں دودھ نکلنے کے سوراخ۔

الساعدا: سونے یا چاندی کا بازو بند۔

شیر۔

السعدان: بندر

السعادة: نیک بختی۔

السعادی: موم تھا جو ایک قسم کی خوشبو دار

گھاس ہے جو زخموں کے لیے بہت مفید

ہے۔

السعدان: ایک خار دار پودہ جو اونٹوں

کے لئے بہتر چارہ ہے اور اسی سے مثل

ہے "مزعی ولا كمال السعدان" اس شخص

کے حق میں بولتے ہیں جو کم پر قناعت کر

لے۔

سعدان: اسعاد کا اسم ہے۔ کہا جاتا ہے

"سبحان الله وسعدانه" یعنی میں خدا کی

پاکی بیان کرتا ہوں اور اس کی تابعداری

کرتا ہوں۔

السعدانة: کبوتر۔ پستان کا سرا یا پستان

کے سر کی ارد گرد کی سیاہی۔ حلقہ ڈبر۔

ترازو کی رتن کی گرہ۔

السعودة: نیک بختی۔

سعاد و سعدي: فرضی محبوبہ کے نام۔

جن کو قدیم شعراء تشبیب میں استعمال

کرتے تھے۔

سعر (ف) سعرا و اسعر النار: آگ

بھڑکانا البعير الانبل بحربة: کھلی پھیلا نا۔

سعر القوم شرًا: ساری قوم میں بدی

پھیلا دینا۔ سعراهم بالنبل: جلانا۔

پیوست کرنا۔ سعر الليل بالمطی: بٹے

کرتا۔ سعرت الناقة فی سیرها اونٹنی کا

تیز دوڑنا۔ صفت (سعر) کہا جاتا ہے

"سعرت اليوم فی حاجتی سعرة" یعنی

میں آج اپنی ضرورت سے تمام دن چکر

لگاتا رہا۔

سعر (س) سعرانا الفرس: گھوڑے کا

تیز دوڑنا۔

سعر البعير: اونٹ کا پاگل ہونا۔ صفت

(مسعر) الرجل: گرم ہوا سے جھلس

جانا۔

سعر النار: آگ بھڑکانا الشئ: کسی چیز

کا بھاؤ مقرر کرنا یا بھاؤ کا اندازہ کرنا۔

القوم: بھاؤ پر اتفاق کرنا۔

ساعرة مساعرة: بھاؤ سمجھنا۔

تسعرت النار: آگ بھڑکانا الحطب:

کڑی کا جل اٹھنا۔

استسعر: بھڑکانا البشر: بُرائی کا پھیلنا

الحرب فی البعير: اونٹ کی بغل وغیرہ

میں ٹھہلی شروع ہونا۔

السعر: رسم رقمی سعر: سخت تکلیف وہ

تیر اندازی۔

السعر: نرخ۔ ج اسعار

السعر: گرمی۔ سخت بھوک (و السعير)

دیوانگی۔ السعير: رنج و عذاب۔

السعر: پاگل۔ دیوانہ۔ ج سعری۔

السعرة: کام کی ابتداء اور اس کی تیزی۔

کھانسی۔

حرارت کی پیمائش میں اکیلی۔

السعر والسعرة: سیاہی مائل رنگ۔

السعير: آگ کی لپیٹ۔ ج سعر

السعار: گرمی۔ بھوک کی تیزی۔ پیاس کی

شدت۔

الساعور: آگ۔ تور۔

الساعورة: آگ۔

الاسعر: دہلا پتلا جس کے پٹھے ظاہر

ہوں۔ سیاہی مائل رنگ والا۔ مؤنث سعراء

ج سعر

المسعر: آگ جلانے والا۔ کہا جاتا ہے

"هو مسعر حرب" وہ لڑائی بھڑکانے والا

ہے۔ سخت۔ لمبی گردن۔ کلب مسعر:

دیوانہ کتا (و المسعار) آگ جلانے کی

چیز۔

المسعر: باوجود شکم سیری کے کھانے کا

حریص۔ ناقة مسعور: دیوانہ اونٹنی۔

مساعر البعير: اونٹ کی ران کی جڑیں

اور بغل۔ کہا جاتا ہے "اخذ الحرب فی

مساعر البعير" اونٹ کی ران کی جڑوں

السعن. منك جس کا نصف حصہ کاٹ کر ڈول بنالیں۔ ج. سعنة.

السعنة. مبارک۔ منحوس (ضد) کھانے کی کثرت یا قلت۔ کہا جاتا ہے "مالہ سعنة ولا معنة" یعنی اس کے پاس کچھ نہیں۔

السعنة. سائبان۔ اونٹ کے بالائی ہونٹ کا لٹکا ہوا حصہ۔ ج. سعن.

المسعن. بڑا ڈول۔

السعائین. عیسائیوں کا تہوار جو عید فصح سے پہلے ہوتا ہے۔ مشہور الشعائین معجمہ سے ہے۔ (مغرب)

السعور السعور والسعور والسعورة والسعواء والسعواء. رات کا ایک حصہ السعواء والسعواء. بد زبان طلع کرنے والی عورت۔

الاسعاء. رات کے حصے۔

السعورة. ہوم۔

السعواوی. بیداری اور سفر پر صبر کرنے والا۔

سعی. سعی سعیا عمل کرنا۔ چنانہ دوڑنا الیہ قصد کرنا فی حاجة الرجل کسی کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کرنا۔

للأمر: حاصل کرنے کے لیے اہتمام کرنا۔

لعیالہ کمائی کرنا (سعایہ صدقات وغیرہ وصول کرنا (سعایہ وسعیا) بفلان عند الأمير: چٹل خوری کرنا۔ سعت الأمة: بدکاری کرنا۔ زنا کرنا۔

ساعی: ہ کوشش کرنے میں مقابلہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "ساعانی فلان فسعینہ" فلان نے کوشش کرنے میں مقابلہ کیا میں اس پر غالب رہا۔

أسعی: استعواء. الرجل کوشش کرانا۔ استعواہ: تلاش کرنا۔

استسعی: استسعاء. الرجل: وصول صدقات کے لیے مقرر کرنا العبد: آزادی

استعفت الحاجة: حاجت کا قریب پہنچنا۔

وقت آنا الیہ: توجہ کرنا۔ قصد کرنا۔

تسعتت: اظفارہ: پھینا۔

السعف: سن۔ سامان۔ کینہ آدی۔

السعفة: پھنیاں جو منہ یا سر میں نکلتی ہیں۔

السعف: سن۔ دلہن کا جہیز۔ سامان خانہ۔

ج سعوف: کھلی کی مانند اونٹ کے منہ کا ایک مرض۔ کھجور کی شاخ۔ واحد (سعفة) انسانی

السعوف: بڑے پیالے۔ انسانی خصلتیں۔ مثل جود و کرم۔ گھریلو سامان (اس کے لیے واحد نہیں)

الاسعف: من الابل: منہ کی بیماری والا اونٹ من الخیل: سفید پیشانی والا گھوڑا۔

مؤنت سعفاء: ج. سعف۔

السعاف: ناخن کے ارد گرد چٹ اکھڑنا۔

المساعف: نا۔ قریب۔ کہا جاتا ہے "مکان مساعف" قریب جگہ۔

سعل (ن) سعالاً و سعلة: کھانسا (سعالاً کام وغیرہ کے لیے چست ہونا۔

أسعله: چست بنانا۔ کھانسی پیدا کرنا۔

استسعلت: المرأة: بھتی جیسی ہونا۔

السعال: کھانسی۔ قصب السعال: پیچھڑے کی رگیں۔

السعلاء والسعلاة والسعلی: بھتی یا بھوت۔ ج. سعالی و سعلیات۔

السعالی: پودہ کا نام جو حشیشة السعال کے نام سے بھی مشہور ہے۔

الساعل والمسعل: حلق یا حلق میں کھانسنے کی جگہ۔

سعمف (س) سعمفا: ناخن کے ارد گرد پھٹی ہوئی انگلیوں والا ہونا۔

سعیف: الوجه: پھنسیوں والا ہونا۔ صفت (مسعوف)

سعیف: المسنک: منک کو دوسری خوشبوؤں سے ملانا۔

ساعفه: موافقت کرنا۔ مدد دینا۔

أسعفه: بحاجتہ کسی کی حاجت پوری کرنا۔

ہ علی الأمر: مدد کرنا۔ أسعف بالرجل: کسی کے قریب ہونا النسئ: قریب ہونا۔

أسعف له الصيد: شکار کا موقع دینا۔

میں کھلی شروع ہوگئی۔

السفرارة والسعوروة: صبح۔ شعاع۔ آفتاب جو روشن دان میں داخل ہو۔

سنعع و تسنعع: بہت پوڑھا ہونا۔

الشیخ: بڑھاپے کی وجہ سے لڑکھانا۔

قریب قریب قدم رکھنا۔ سنسعع: اسہ: سر کو تیل سے تر کرنا۔

السنعع: بھیڑیا۔

سعطہ (ف ن) سعطاً و سعطاً و أسعطه: الدواء: تاک میں ڈالنا۔ کہا جاتا ہے "أسعطه الریح" اس نے تاک میں تیزہ مارا و "أسعطه علماً" اس نے اس کو علم سمجھانے میں بہت کوشش کی۔

استعط: الدواء: تاک میں چڑھانا۔

استسعطه: تاک میں دو چڑھانے کو کہنا۔

السعیط: خوشبو۔ بان کا درخت۔ بان کا تیل۔ رائی کا تیل (والسعات) بو کی تیزی۔

السعوط: تاک میں چڑھانے کی دوا۔

نوار (مولدہ) اور عوام "عطوس" کہتے ہیں۔

المسعط والمسعط: نوار کی ڈبیا۔

سعیفہ (ف) سعفا: بحاجتہ کسی کی حاجت پوری کرنا۔

سعیف (س) سعفا: ناخن کے ارد گرد پھٹی ہوئی انگلیوں والا ہونا۔

سعیف: الوجه: پھنسیوں والا ہونا۔ صفت (مسعوف)

سعیف: المسنک: منک کو دوسری خوشبوؤں سے ملانا۔

ساعفه: موافقت کرنا۔ مدد دینا۔

أسعفه: بحاجتہ کسی کی حاجت پوری کرنا۔

ہ علی الأمر: مدد کرنا۔ أسعف بالرجل: کسی کے قریب ہونا النسئ: قریب ہونا۔

أسعف له الصيد: شکار کا موقع دینا۔

حاصل کرنے کے لیے کام کرانا۔

السَّاعِيَةُ - من جَعل خوري -

السَّاعِي. فَا. مَحْصَل. خَرَجَ وَصَدَقَاتِ وَصُولِ كَرْنِي وَاللَّاحِ سَاعَاةً. السَّاعِي:

ذَاكِرٌ -

السَّاعِي. كَوَشَشَ - مَسَكَ - تَصَرَّفَ - ج مَسَاعٍ.

سَعَبَ (ن) وَسَعَبَ (س) سَعْبًا وَ سَعُوبًا وَسَعْبًا وَسَعَابَةً وَسَعْبَةً بَهْوِكَ

هَوْنًا - مَفْت (سَاعَبٌ وَسَعِبٌ وَسَعْبَانٌ) مَوْنَتٌ سَعْبِي. ج سَعَابٌ.

أَسْعَبَ الْقَوْمَ: قَوْمٌ كَا قَطْمٍ فِي بَطْنِ بِلَالٍ هَوْنًا -

السَّعَابُ: بَهْوِكَ -

المُسْعَبُ: جَائِزٌ -

سَعَدَ سَعْدًا: سَوَّجْنَا -

فِصَالٌ (سَاعِدَةٌ وَمُسْعِدَةٌ وَمُسَاعِدَةٌ) اَوْنَتُ كَالدَّوْهِ سَعْدًا مَوْنَتٌ يَنْجِي -

السَّعْدُ: نَزْمٌ وَ بَهْلِي بَارَشٌ (أَسْ كَا تَهَا اسْتِعْمَالٌ نَيْسٌ هَوْنًا) كَمَا جَاتَا هُوَ "أَعْضَهُ اللّٰهُ بِسَعْدٍ مَعْدٌ" يَعْنِي اللّٰهُ تَعَالَى اس كُو نَزْمِ بَارَشٍ سَعْدًا تَاوَهُ رَكْعَةً -

سَعَلٌ (س) سَعْلًا: لَاغِرٌ هَوْنًا - جَمْرِي وَ

وَاللَّاحِ هَوْنًا - مَفْت (سَعَلٌ)

سَعْمَةٌ: الْمَاءُ: كَهَوْنَتُ كَهَوْنَتِ بَابِي بِلَانَا - سَعْمٌ الْوَالِدُ: بَيْتٌ كُو اَجْحَى نَعْدَا دِينَا - پَرُورَشِ كَرْنَا -

أَسْعَمَهُ: تَكْلِفٌ يَبْتَلِي فِي مِثْلِهِ كَرْنَا - أَسْعَمَ وَسَعَمَ: اَجْحَى نَعْدَا دِينَا -

المُسْعَمُ وَ الْمُسْعَمُ: اَجْحَى نَعْدَا دِينَا - نَاوُ نَعْمَتٍ سَعْدًا بِلَا هَوْنًا فَرَبِي لَزَاكَ -

السَّاعُو: كَهَوْرُ كَسْتِي سَعْدًا بَارِكِ مَعْرُجُو كَرْنَا نَشْرُ آوَرُ هَوْنًا -

السَّاعُوِيَّةُ: كَهَوْرُ كِي اِيكِي تَمُّ جُو كَرْنَا آسَامِ اَوَرُ اَنْدُو نِيْشَاةً فِي مِثْلِ بَابِي جَانِي هُو -

سَفَنٌ (ن) سَفِينًا: الطَّائِرُ اَوِ السَّحَابُ: زَمِيْنٌ سَعْدًا بَارِكِ اَنْزَا يَا كَرْنَا -

الْخَوْصُ: كَهَوْرُ كِي تِيْمِي سَعْدًا بِنَا الْمَاءُ:

بِهْتِ بَابِي يَبِيْنَا اَوَرِ سِيْرَابٍ نَهْ هَوْنًا -

سَفَّ (س) سَفًّا: الدَّوَاءُ السَّوْفِيُّ وَ نَحْوَهُمَا: دَوَا يَاسْتُو وَغَيْرُهُ يَهْتَلِكُنَا -

أَسَفَّ اسْفَافًا الْخَوْصُ: بِنَا الرَّجُلُ: بَهَا كَرْنَا اَوْتِي كَامُوْنِ كِي بِيْجِي بِيْزَانَا - اَوَرِ كَمَا جَاتَا هُو "أَسَفَّ اِلَى الْاُمُوْرِ الدِّيْنِيَّةِ" يَعْنِي

دَوِ اَوْتِي كَامُوْنِ كِي قَرِيْبٌ هُوَا الْبَعِيْرُ: نَشْتَكُ چَارَادِيْنَا الْفَرَسَ الْلِجَامُ: كَهَوْرُو سَعْدًا مَنَدُ

مِيْنِ رَكْمٍ لَكَا الطَّائِرُ اَوِ السَّحَابُ: زَمِيْنٌ سَعْدًا قَرِيْبٌ هُو كَرْنَا يَازَا كَرْنَا - كَمَا جَاتَا هُو

"مَا أَسَفَّ مِنْهُ بَشِيْ" اَسْنِي سَعْدًا كِي كِي حَاصِلٌ نَيْسٌ كِيَا - أَسَفَّ النَّظْرُ: تِيْزُ نَفْرٍ سَعْدًا دِيْكِيْنَا الشَّيْءُ: بَعْضُ كُو بَعْضٍ سَعْدًا مَلَا

كِرْ جُوْرُنَا الْاَمْرُ: قَرِيْبٌ هَوْنًا - أَسَفَّ وَجْهَهُ: رَنَكٌ بَدَلُ جَانَا كُو يَا كَرْنَا خَاكُ اَلُوْدِ

هُو -

اَسْتَفَّ: الدَّوَاءُ: دَوَا يَهْتَلِكُنَا -

السِّفُّ وَ السَّفُّ: اِيكِي تَمُّ كَا بَارِيكِ لَمَا سَاوِي جُو رِيْكَتَانُوْنِ اَوَرِ چَانُوْنِ كِي دَرْمِيَانِ اَجْحَلَا هُو جَسُ كِي دَجِي سَعْدًا عَرَبُو كَا كَمَانِ

تَهَا كَرْنَا وَ اَنْزَا هُو اَوَرِ اَسْ كِي نَامُ الْفَقَاةُ وَ الطَّقَاةُ يَهِي مِيْنِ -

السُّفَّةُ: كَهَوْرُ كِي چِيُوْنِ كِي نُوكْرِي - اِيكِي مُشِي كِيُوْنِ يَاسْتُو وَغَيْرُهُ - مَوْبَانِ وَ السُّفُوْفُ: دَوَا وَغَيْرُهُ كِي بِيْجِي -

السَّفِيْفُ: مَسْرٌ - اَلِيْسُ كَا نَامٌ - كَهَوْرُ كِي چِيُوْنِ كِي نُوكْرِي - كَمَاوَهُ اَوَرِ هُوَدُو كَا تَنَكٌ -

السَّفِيْفَةُ: كَمَاوَهُ بَانَدِيْسِي كِي چُوْرِي تَنَكٌ مِيْنِ الْخَوْصُ: كَهَوْرُ كِي چِيُوْنِ كِي بِنِي هُوْتِي چِيَزِي - ج سَفَانِيْفٌ -

سَفَّتَ (س) سَفْتًا: بِيْهْتِ يَبِيْنَا اَوَرِ سِيْرَابِ نَهْ هَوْنًا -

السَّفِيْتُ: بِيْ بَرَكْتِ كَهَانَا - سَفْتَجَةٌ: بَهْنَدِي دِيْنَا -

السَّفْتَجَةُ: بَهْنَدِي ج سَفَاتِيَجٌ - سَفْحٌ (ف) سَفْحًا وَ سَفُوْحًا: الدَّمُ اَوِ الدَّمْعُ: خُوْنٌ يَاسْتُو بَهَانَا - كَرْنَا (سَفْحًا وَ

سَفُوْحًا وَ سَفْحَانًا) الدَّمْعُ: اَنْسُو كَرْنَا - صَفْتٌ (سَافِحٌ) ج سَوَافِيِحٌ (جِيْسِي فَايَسُ كِي جَمْعُ فَوَاسِرُ) -

سَفْحٌ: الرَّجُلُ: غَيْرُ مَفِيْدِ كَامُ كَرْنَا - سَافِحًا وَ تَسَافِحًا: زَنَا كَرْنَا - بَدَكَرِي كَرْنَا -

سَفْحُ الْجَبَلِ: دَاوَمِنُ كُوَهُ ج سَفُوْحٌ - الْاِسْفَحُ: وَهُ فَخْصٌ جَسُ كِي سَرُ كِي اَكْغِي هَصَّةُ كِي بَالُ كَرْنِي هُو -

السَّفْحَا: بِيْهْتِ خُوْنٌ بَهَانِي وَ اَلَا - بِيْهْتِ دِيْنِي وَ اَلَا - قَادِرُ الْكَلَامِ نَفْسٌ -

السَّفِيْحُ: مَوْتَا كَمَلٌ - جُوْنِي كِي تِيْرُوْنِ مِيْنِ سَعْدًا اِيكِي تِيْرُ جَسُ كَا كُوْنِي هَصَّةُ نَيْسِي -

بُوْرَا - كُوْنِ - السَّفْحَا: مَسْرٌ - كَمَا جَاتَا هُو "بَيْنَهُمْ سَفْحًا" اِن كِي دَرْمِيَانِ خُوْرِيْزِي هُو - زَنَا كَارِي - كَمَا جَاتَا هُو "تَزُوْجُ الْمَرْأَةِ سَفْحًا" اَسْنِي نِي عُوْرَتِ سَعْدًا زَنَا كَارِي كِي -

سَفْدٌ (ض) الذَّكْرُ اَنْثَاةً وَ سَفْدٌ (س) سَفْدًا وَ سَفْدٌ عَلَيْهَا وَ سَافِدْهَا سَفَادًا وَ مُسَافِدَةٌ: جَفْتِي كَرْنَا -

سَفْدٌ: اللَّحْمُ: كُوْشَتُ كُو بَهُوْنِي كِي لِي سَخِي مِيْنِ پَرُوْدَا -

أَسْفَدٌ: جَفْتِي كَرْنَا - اَسْتَسْفَدُ: الْبَعِيْرُ: اَوْنَتُ كِي بِيْجِي سَعْدًا كَرَسُوْرٌ هَوْنًا -

السَّفُوْدُ: كُوْشَتُ بَهُوْنِي كِي سَخِي - ج سَفْفِيْدٌ -

سَفْرَانٌ (ن) سَفْرًا: سَفْرٌ كِي لِي رُوَاةً هُوَا الْمَرْأَةُ: چِيْرُو كَهَوْنَا - مَفْت (مَسَافِرُ) الصَّبِيْحُ: رُوْشَنٌ هُوَا الْخَرْبُ: اِلْرَاةِي كَا خَتْمُ هُوَا (سَفْرًا) الْبَيْتُ: كَهَرُ كُو كَهَاوُ دِيْنَا

الرِّيْحُ الْغَيْمُ: هُوَا كَا بَادِلُ كُو اَزَادِيْنَا - الْكِتَابُ: لَكَمْنَا الشَّيْءُ يَهْدَا اَجْدَا كَرْنَا -

الْبَعِيْرُ: نَاكٌ مِيْنِ كَمِيْلٍ لَكَا - كَهِيْتُ كِي نَجْلِي هَصَّةُ كُو چِرَانَا -

سَفْرَانٌ (ض) سَفْرًا وَ سَفَارَةً وَ سَفَارَةً

بَيْنَ الْقَوْمِ: لوگوں میں صلح کرنا۔ صفت (سَفِيرٌ) ج سَفْرَاءُ۔
 اَسْفَرُ: چہرہ کھولنا الصُّبْحُ: روشن ہونا۔
 الْوَجْهُ: چہرہ خوبصورت و منور ہونا۔
 الْحَرْبُ: لڑائی سخت ہونا مَقْدَهُ: راسبہ۔
 سِرٌّ: اگلے حصہ کے پال جھڑنا اَسْفَرُ الشَّجَرُ: پتے گرنا البَعِيرُ: بمعنی سفرہ۔
 سَفَرٌ: الرجل: سفر کے لیے بھیجا۔
 البَعِيرُ: کلیل لگانا النَّارُ: آگ بھڑکانا۔
 سَافِرٌ: سَفَارًا و مَسَافَرَةً: اِلَى بَدَا كَذَا: روانہ ہونا فَلَانٌ: مرنا۔ سَافَرْتُ عَنْهُ: الحَمَى: بخار چھوٹنا۔
 تَسَفَّرَ: ابتدائی رات میں آنا یا چرانا۔
 شَيْئًا مِنْ حَاجَتِهِ: کچھ حاصل کرنا الْجِلْدُ: کھال کا اثر پذیر ہونا الْمَرْأَةُ: عورت سے چہرہ کھولنے کو کہنا۔
 اَسْفَرُ: شَعْرَهُ عَنْ رَاسِهِ: سر سے بال جھڑنا۔
 الْغَيْمُ: بادلوں کا پراگندہ ہونا۔
 الْاِبْلُ: جانا۔
 اِسْتَسْفَرُ: الْمَرْأَةُ: عورت سے چہرہ کھولنے کو کہنا۔
 السَّفَرُ: سر: جسم انسانی کا داغ۔ ج سَفُورٌ اور کہا جاتا ہے "رَجُلٌ سَفُورٌ" یعنی مسافر و "قَوْمٌ سَفُورٌ" یعنی مسافرین۔ و "نَاقَةٌ سَفُورٌ": سفر کرنے والی اونٹنی۔ اور سفر جمع سافر کی ہے جیسے صاحب کی جمع صَحْبٌ۔
 السِّفَرُ: بڑی کتاب۔ توریت کے اجزاء میں سے ایک جز۔ ج اَسْفَارٌ۔
 السَّفَرُ: مسافت کو طے کرنا۔ غروب آفتاب کے کچھ بعد کا وقت۔ ج اَسْفَارٌ۔
 السَّفْرَةُ: مسافر کا کھانا۔ زاد سفر۔ دستر خوان۔ ج سَفْرٌ۔
 السِّفَارُ و السِّفَارَةُ: مہار۔ چڑایا لوہا جس کو اونٹ کی ناک پر رکھتے ہیں۔ ج اَسْفِرَةُ و سَفْرٌ و سَفَائِرٌ۔

السَّافِرُ: فا۔ مسافر۔ ج اَسْفَارٌ و سَفْرٌ و سَفْرَةٌ و سَفَارٌ و ج اَسْفَارٌ و السَّافِرُ: كاتب۔ ج سفرہ۔
 السَّافِرَةُ: السَّافِرُ كَمَوْثَفٍ: ج سَوَافِرٌ: مسافرین۔ کہا جاتا ہے "كَثُرَتِ السَّافِرَةُ هُنَا" یہاں سفر کرنے والے بہت ہیں اور کہا جاتا ہے "قَوْمٌ سَافِرَةٌ" سفر کرنے والی قوم۔
 السَّفِيرُ: دو قوموں کے درمیان صلح کرانے والا۔ ج سَفْرَاءُ۔ اپنی۔ گرے ہوئے پال یا پتے۔ کھیتی کا نچلا حصہ۔
 السَّفِيرَةُ: چاندی یا سونے کا پار۔ ج سَفَائِرٌ۔
 السَّفَارَةُ و السَّفَارَةُ: اپنی گری۔ قوموں کے درمیان اصلاح۔
 السَّفَارَةُ: جھاڑو دینے سے جمع کیا ہوا کوڑا کرکٹ۔
 السَّفَارَةُ: مسافر لوگ۔
 السَّفُورُ: کرہ کی شکل کی ایک مچھلی جس میں کانٹے بہت ہوتے ہیں اور اس کو "فَنْدُ الْمَاءِ" بھی کہتے ہیں۔
 السَّقُورَةُ: سختی کہ جس پر حساب لکھیں اور نقل کرنے کے بعد مٹادیں۔
 الْمَسَافِرُ: جنگلی تیل۔ الْمَسَافِرَةُ: گائے۔
 الْمَسْفَرُ و الْمَسْفَرُ: بہت سفر کرنے والا۔ مَوْثَفٌ مَسْفَرَةٌ۔
 الْمَسْفُورُ: سفر سے تھکا ہوا۔
 الْمَسْفَرَةُ: جھاڑو۔ ج مَسَافِرٌ و مَسَافِرٌ الْوَجْهُ: چہرہ کے وہ حصے جو نمایاں ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے "مَا أَحْسَنَ مَسْفَرِ وَجْهِهِ" ان کے چہرہ کا نمایاں حصہ کس قدر خوبصورت ہے۔
 السَّفْرَجَلُ: بھی۔ ج سَفَائِحٌ اور کبھی سَفَارِلٌ بھی کہا جاتا ہے۔ واحد (سَفْرَجَلَةٌ) السِّفْسِيرُ: دلال۔ خادم۔ تنظّم۔ ظریف و زیرک۔ ماہر لوہار۔ داروحد۔ ج سَفَائِرَةُ

و سَفَائِرٌ۔

السَّفْسَفَةُ و السَّفْسَفَةُ: استدلال و قیاس جس کی بنیاد مغالطہ پر ہو۔ ج سَفْسَطَاتٌ اور نسبت کے لیے (سَفْسَطِيٌّ و سَفْسَطَانِيٌّ) السُّوفْسَطَانِيَّةُ: ایک فرقہ جو محسوسات و بدیہیات کا انکار کرتا ہے۔

الْعَمَلُ: کام کو ابھی طرح سے نہ کرنا۔ سَفْسَفَتَهُ الرِّيحُ: رخ زمین سے اُڑانا۔
 الْمُسْفِسْفَةُ: ہوا جو غبار کو اُڑائے۔
 الْمُسْفِسْفُ: مرد کم عطاء و لیسیم۔
 سَفْسَقٌ: الطَّائِرُ: پرندہ کا بیٹ کرنا۔
 السَّفْسَقَةُ و السَّفْسَقَةُ: من السِّيفِ: تلوار کا جوہر۔ ج سَفَاسِقٌ: کہا جاتا ہے "طَرِيقٌ وَاضِحٌ السَّفَاسِقُ" واضح نشانات کا راستہ۔

السَّفَاسِقُ: ہر لمبی چیز۔
 السَّفْسُوقَةُ: راستہ کا درمیان۔ مشابہت۔ کہا جاتا ہے "فِيهِ سَفْسُوقَةٌ مِنْ اَبِيهِ" اس میں اس کے باپ کی مشابہت ہے۔ و "سَفْسُوقَةُ السِّيفِ": تلوار کا جوہر۔
 سَفْطٌ (ن): سَفْطًا: السَّمَكَةُ: مچھلی کے سنے اُتارنا۔
 سَفْطٌ (ن): سَفَاطَةٌ: جی و پاکیزہ نفس ہونا۔

سَفْطٌ: الْحَوْضُ: حوض کو درست کرنا اور بلند بنانا۔
 تَسَفْطُهُ: تھوڑا تھوڑا پینا۔ جذب کرنا۔
 اِسْتَفْطُ: الشَّيْءُ: کل لے لینا۔ کل پی جانا۔
 السَّفْطُ: مچھلی کا سفنا۔ ٹوکری۔ جامہ دان۔
 ج اَسْفَاطٌ۔
 السَّفَاطُ: ٹوکری بنانے والا۔
 سَفَاطَةٌ: الْبَيْتُ: سامان خانہ۔
 السَّفِيْطُ: پاکیزہ نفس۔ سخی۔ کہا جاتا ہے "هُوَ سَفِيْطٌ النَّفْسِ" وہ سخی و پاکیزہ نفس ہے۔ کمینہ اور ہر بے قدر چیز (ضد)

حصہ۔ کہا جاتا ہے ”ما عالیۃ الرُمح کسافلنبہ“ سافلۃ النہر: ندی کا نشیبی حصہ۔ کہا جاتا ہے ”مرزت بعالیۃ النہر و سافلنبہ“ میرا گزر ندی کی بلند و پست جگہ پر ہوا۔

الاسفل پست تر۔ ج اسافل کہا جاتا ہے ”ردذناہ اسفل سافلین“ ہم اس کو پستی کی حالت والوں سے بھی پست تر کر دیتے ہیں۔

السفلی والسفلیۃ والسفول صد العلوی والعلویۃ والعلو۔
المسفلۃ پست تر۔ کہتے ہو ”انا اسکن فی معلقۃ المدینۃ و فلان فی مسفلتہا“ میں شہر کے بالائی حصہ میں اور فلاں نشیبی حصہ میں رہتا ہے۔

سفتت (ن) و سفتت (س) سفنا الریح ہوا کا سطح زمین پر چلنا۔
سفن (ض) سفنا الشی چھیلنا۔
سفنہ تراشا اور نرم کرنا۔

السفن کھردری کھال جس کو تلواری کے قبضہ پر لگاتے ہیں۔ چوب تراشی کا اوزار۔
السافنۃ والسفون من الریح: سطح زمین پر چلنے والی ہوج سوا فن۔

السفین چینی۔ (دخیل)
السافین باطن۔ پشت کی ایک لمبی رگ کا نام جو دل کی رگوں کی ساتھ متصل ہے۔

السفینہ کشتی۔ ج سفن و سفین سفانین و (السفان) کشتی ساز و (السفانۃ) کشتی سازی۔ سفانین البرادون۔
السفانۃ موتی۔

المسفن چوب تراشی کا اوزار۔
سفنح جلدی کرنا۔۔۔ بفلان النفذ جلدی دینا۔
السفنح والسفنحج والسفنحج السخن۔ مردہ بال۔

السفنحج تیز۔ لمبا۔ مؤنث سفنحۃ۔
الاسفاناخ پاک کا ساگ۔

السففقہ طمانچہ۔ تھپڑ۔
السفیق گف کپڑا۔ رجل سفیق الوجہ بے حیا مرد۔

السفیقۃ سونے وغیرہ کا باریک تار۔
کلزی کا چوڑا لمبا ٹکڑا جس پر چٹائی وغیرہ لپیٹی جاتی ہے۔

سفل (ض) سفکا۔ الماء او الدم پانی یا خون بہانا۔ الکلام بہت بولنا۔
سفکۃ کسی کے سامنے سفلہ پیش کرنا۔ (دیکھئے سفکۃ)

انسفک کرنا۔ بہنا۔
السفوک والسفک۔ بہت خون گرانے والا۔ اور کہا جاتا ہے ”مسفوک و سفک“ بالکلام وہ بڑا جھوٹا ہے۔

السفیک گریا ہوا۔ بہایا ہوا۔
رجل (مسفک) بڑا باتنی مرد۔
السفکۃ وہ چیز جو مہمان کے سامنے غذا سے پہلے دل بہلاؤ اور وقت گزاری کے لیے پیش کی جائے۔

سفل (ن) و سفل (س) و سفل (ک)
سفولاً و سفلاً پست ہونا۔ نچا ہونا۔
حقیر ہونا۔ صفت (سافل) ج سافلون و سفلة و سفل و سفال و سفلان (سفل) (ک) سفلا و سفلاً و سفلاً فی علمہ أو خلقہ اوتی ہونا (سفولاً) فی الشیء۔ نیچے اترنا۔

سفلۃ نیچے اترنا (سافلۃ) کینتکی کے افعال میں مقابلہ کرنا۔
تسفل آہستہ آہستہ نیچے اترنا۔
انسفل اترنا۔

السفل و السفل پستی۔
السفلۃ و السفالۃ سب سے نچلا حصہ۔
سفالۃ کل شیء۔ پیڑا۔ (سفلة القوم و سفلتہم اوتی) درجہ کے لوگ۔ سفالۃ الریح ہوا کے چلنے کی ٹپکی جگہ۔

السفالۃ کینتکی و خست۔
السفالۃ دبر۔ من الرُمح نیزے کا نچلا

درخت سے گری ہوئی ہبز کھجور۔
مُسْفَطُ الراس بڑے سر والا۔

سفعۃ (ف) سفعا طمانچہ مارنا۔ الشیء نشان لگانا بناصیحتہ: پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچنا (و سفعت) السُموم و جھہ لو کا چہرہ کو مجلس کر رنگ بدل دینا۔

سفع (س) سفعا سرفی مائل سیاہ ہونا۔
سافعۃ ایک دوسرے کو تھپڑ مارنا۔ سینہ سے لگانا۔ ایک دوسرے کو ہٹانا۔ لڑائی کرنا۔

تسفع بالنار: آگ تاپنا۔
استفع الرجل کپڑا پہننا۔
استفع لونه خوف وغیرہ سے رگ بدل جانا۔

السفع سر۔ کپڑا۔ رنگا ہوا کپڑا۔ ج سفوع۔
السفع و السفعۃ سرفی مائل سیاہی۔
السفع و السفعۃ دانہ اندرائن۔
السفع: آہنی دیگ دان۔

سفع الشمس: آفتاب کا سیاہ داغ۔
سفع الثور: بیل کے چہرہ کی سیاہ چھیاں۔
السوافع: بوکی لپٹیں۔ مفرد (سافعۃ)
الاسفع سرفی مائل سیاہ رنگ والا۔ مؤنث سفعاء ج سفعا شمرات جنگلی بیل۔
السفعاء دیگ دان کا ایک پایہ۔ حمامۃ سفعاء ہبز گردن والا کبوتر۔

مسفوع العین: دھنسی ہوئی آنکھ والا۔
ثور (مسفع) چہرہ میں سیاہ چھپوں والا بیل۔
کیمی مسفع: آہن پوش بہادر جو لوہے کے رنگ سے کالا پڑ گیا ہو۔

سفقۃ (ن) سفقا طمانچہ مارنا۔ سفق الباب دروازہ بھینرنا۔
انسفق الباب دروازہ بند کرنا الحانک الثوب جلاہے کا کپڑے کو گف بنا۔
سفق (ک) سفافۃ الثوب: کپڑے کا گف ہونا۔

انسفق الباب دروازہ کا بھینرا جانا۔

<p>در میان نوزائیدہ بچوں سے زیادہ ذلیل۔۔۔</p> <p>ج سقبان و (السقبیة) خیمہ کا ڈنڈا۔</p> <p>السقب: لمبی موٹی سرسبز شاخ۔ منزل (سقب) قریب منزل۔</p> <p>الساقب: فاقہ قریب۔ دور (ضد)</p> <p>المسقب و المسقبا: نوزائیدہ اونٹ کے بچے کی ماں۔ المسقبا: اکثر زرتچے جننے والی اونٹنی۔</p> <p>سقد (ض) سقدا و سقد و اسقد۔ الفرس: ڈبلا کرنا۔ چھریرا کرنا۔</p> <p>السقدة: ج سقدا (السقيدة) ج سقيدات: سرخ رنگ کا ایک پرندہ جس کو فارسی میں زورک کہتے ہیں۔</p> <p>سقرثة (ن) سقرا الشمس: جملنا۔ اسقوت: الخلة: درخت خرما سے شیرہ بہتا۔</p> <p>السقر: سن شکر۔ شیرہ۔</p> <p>سقر: دوزخ کا علم (کلمہ غیر منصرف ہے) کہا جاتا ہے "جاء" (باسقرو) البقر و بنات غیر "اس نے سفید جموٹ کہا۔</p> <p>السقرة: سورج کی تخت تپش۔ ج سقرات</p> <p>الساقور: گرمی۔ جانوروں کو داغنے کا لولہ۔</p> <p>السقار: غیر مستحق کو بہت لعنت کرنے والا کافر۔ ج سقارة۔</p> <p>سقط (ن) سقوطا و مسقطا: گرنے کہا جاتا ہے "سقط من عینی" وہ میری آنکھوں سے گر گیا۔ یعنی حقیر ہو گیا۔ سقط فی الکلام: غلطی کرنا۔۔۔ النجم: غائب ہونا۔۔۔ الحر: گرمی پڑنا۔۔۔ الحرعنا: دور ہونا۔۔۔ علی ضالته: موقع بازیافت سے مطلع ہونا۔۔۔ القوم الی: نازل ہونا۔</p> <p>آرتنا۔۔۔ الولد من بطن امه: نکلنا۔ باہر آنا۔ سقط فی یدہ: نادم ہونا۔ کہتے ہیں "علی الخبیر سقطت" حقیقت کار کے جاننے والے کے پاس تم پہنچے۔</p> <p>سقط و اسقط: فی یدہ: لغزش کرنا۔</p>	<p>سفایسفو سفوا: تیز چلنا یا تیز اڑنا۔</p> <p>سفی (س) سقا و سقاء: پیشانی میں کم بال والا ہونا۔۔۔ الرجل: بیوقوف ہونا۔</p> <p>صفت (سفی) سقت یدہ: ہاتھ کا پھٹنا۔</p> <p>اسفی: بیوقوف ہونا۔۔۔ فلانا: طیش پر آدہ کرنا۔۔۔ بہ: بُرائی کرنا۔ اسفت الناقة: دہلی ہونا۔ اسفی الزرع: خوشہ کے خشک اطراف والی ہونا۔۔۔ الریح: ہوا کا چلنا۔</p> <p>سافی الرجل: گالی دینا۔ علاج کرنا۔</p> <p>السفا: پیشانی میں بالوں کی کمی۔ مٹی۔ ڈبلا پن۔ ہر خاردار درخت۔ واحد (سفاة) و السفا من السنبل: خوشہ کا خار۔</p> <p>السفاء: دوا۔</p> <p>بعل (اسفی) پیشانی میں کم بال والا نچر۔ تیز رفتار۔ مؤنث سفواء: ریح سفواء: غیر ہموار تیز چلنے والی ہوا۔</p> <p>سفی یسفی سفیا و اسفی اسفاء۔ سقت و اسقت الریح التراب: خاک اڑانا۔ صفت (سافیة) ج سافیات و سواف۔</p> <p>سفی یسفی سفیا: التراب: غبار اڑنا۔</p> <p>السافیاء: غبار۔</p> <p>السفی: ہوا جس کو اڑائے۔</p> <p>السفی: پر آگندہ غبار۔</p> <p>الاسفی من الخیل: پیشانی میں کم بال والا گھوڑا۔ مؤنث سفیاء ج سفی۔</p> <p>المسفی: چغل خور۔</p> <p>سقت (س) سقا و سقوبا: الذار: قریب ہونا۔</p> <p>اسقت الناقة: اکثر زرتچے جتنا۔</p> <p>تساقبت: البیوت: قریب قریب ہونا۔</p> <p>السقب: ج اسقب و سقاب و سقوب۔</p> <p>سقبان: اونٹنی کا نوزائیدہ بچہ اور مثل میں بولا جاتا ہے "اذل من السقبان بین الحلاب" دودھ دینے والی اونٹیوں کے</p>	<p>الاسفط و الاسفط: خوشبودار انگری شراب۔ (ذخیل)</p> <p>سفه (ن) سفها: الرجل: گالی دینے میں غالب آنا۔ بیوقتی پر بھیجتے کرنا۔۔۔ یا بیوقتی کی طرف نسبت کرنا۔۔۔ نفسہ: ذلیل کرنا۔ اپنے آپ کو ہلکا سمجھنا۔ سفہ نصیہ: اپنا حصہ بھولنا۔</p> <p>سفه (س) سفها: غیر۔ بردبار یا جاہل یا ردی اخلاق والا ہونا۔ صفت (سفیہ) ج سفیة و سفهاء: مؤنث سفیة ج سفیة و سفہ و سفانہ و سفیہات: سفہ الطعنة: جلدی خون بہنا۔ سفہ الشراب: بہت پینا۔۔۔ نصیہ: اپنا حصہ بھولنا۔</p> <p>سفه (ک) سفاهة و سفاها: جاہل ہونا۔ بیوقوف ہونا۔</p> <p>سفه الرجل: بیوقوف بنانا۔ بیوقتی کی طرف نسبت کرنا۔ کہا جاتا ہے "سفه الجهل حلمة" اس کی جہالت نے اس کی عقل کو طیش میں مبتلا کر دیا۔</p> <p>سافہة: گالی گلوچ کرنا۔۔۔ الذن: منکے کے پاس بیٹھ کر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پینا۔ پینے میں زیادتی کرنا اور انکل سے بغیر اندازہ کے پینا۔</p> <p>اسفه: اللہ فلانا الماء: بہت پلانا اور سیر نہ ہونے دینا۔</p> <p>تسفه: الرجل: مختلف بیوقوف بننا۔</p> <p>الریح: ہوا کا غیر ہموار چلنا۔۔۔</p> <p>الریح الغصون: شاخوں کو جھکا دینا۔۔۔</p> <p>فلانا عن ماله: فریب دینا۔</p> <p>تسافة: علینا: نادانی کرنا۔ جہالت کا سلوک کرنا۔</p> <p>السفه: سن جہالت۔ عدم و بردباری۔ □ بد اخلاق۔</p> <p>السافة: فاقہ۔ بیوقوف۔ بہت پیاسا۔</p> <p>واد (مسفة) بھری ہوئی وادی۔</p> <p>المسفة: بہت پانی پلانے والی خوراک۔ کہا جاتا ہے "طعام مسفة"</p>
--	--	--

دروازے میں لوہے کی بلی لگانا۔۔۔ النهر
کنواں کھودنا۔۔۔ اذنیہ کان کو جڑ سے
اکھیرنا۔۔۔ النعام ما فی ظنہ تہی پتلہ بیت
کرنا کہا جاتا ہے "ماسک سمعی مثل
ذلك الکلام" اس جیسی گفتگو میرے کانوں
میں نہیں پڑی "واین تنسک" تو کہاں جاتا
ہے۔

سک (س) سککا چھوٹے کانوں والا
ہوتا۔ صفت (سک) مؤنث سکاء ناسک
کہتے ہیں "کُلُّ سِکَاءٍ بِنُوضٍ وَ کُلُّ
شَرْفَاءٍ وَلُودٌ" ہر چھوٹے کان والی انٹے
دیتی ہے اور ہر بڑے کان والی بچتی ہے۔

اسک استکسا النبات گنجان ہونا۔
استکت المسامع بہرا ہونا۔ البیت بند
جمہری والا ہونا۔ کہا جاتا ہے "ما استک فی
مسامعی مثله" میرے کانوں میں اس جیسی
بات نہیں پڑی۔

السک والسک بئسکاک و سکوک
تک معہ کا کنواں۔ تک حلقوں والی زرہ۔ بند
راستہ۔ السک کیل۔ سیدی و درست
عمارت۔ السک بد طہیجی۔ چھو کا سوراخ۔
کڑی۔ ایک قسم کی خوشبو۔ کہا جاتا ہے
"ضربوا بیوتہم سکاکی" انہوں نے
اپنے مکانات ایک قطار میں بنائے۔

السکک سر۔ بہرا پن۔
السکاء تک حلقوں والی زرہ۔
السکة سیدھا راستہ۔ تل کا پھار۔

السکة درختوں کی قطار۔ سک ڈھانکے کا
سانچہ۔ پیغام رساں کا گھر۔ سقا سکک
اصحاب السکک: وہ وظیفہ یاب پیغام
رساں جو اہم امور کے لئے بھیجے جاتے تھے۔ کہا
جاتا ہے "فلان صعب السکک" فلان سب
کی عقل کی وجہ سے ایک پر نہیں ٹھہرتا۔

السککی دینار۔ قاصد۔
السکی کیل۔
السکک فضائے آسانی۔ تیر میں پر کی جگہ۔
السکوک تک خند والا کنواں۔

واستسقی الرجل: بیماری کی وجہ سے پیٹ
جسم میں پانی جمع ہونا۔۔۔ استسقی
الرجل: کسی سے "سفاک اللہ یا سقیا
لک" کہنا۔

السقی والسقی وہ پانی جو مرض کی وجہ
سے پیٹ میں جمع ہو جائے۔ السقی سیراب
کی ہوئی تھیتی یا زمین۔ پانی کا حصہ۔ کہا جاتا ہے
"کم سقی ارضک" تمہاری زمین کے لئے
پانی کا کتنا حصہ ہے۔ بال۔ ساقیة۔

سقیًا و سقیًا لفلان دعا کے موقع پر
بولتے ہیں۔ تقدیر عبارت یہ ہے "سفاک اللہ
سقیًا" اللہ اس کو سیراب کرے۔

السقاء ملک۔ ساقیة و ساقیات و
اساق۔

السقایة والسقایة پانی پلانے کی جگہ۔ پانی
پینے کا برتن (..... والسقایة) پانی جمع
کرنے کی جگہ۔ حوض۔

الساقی فا سقفاة و ساقون و سقواء
و سقی۔

الساقیة المساقی کا موٹ □ چھوٹی
ندی۔ سقواق و ساقیات۔

السقیا السقی والاستسقاء کا اسم۔
السقی دریاؤں کے پانی سے سیراب کیا
ہوا۔ تیز بارش والا بلبل۔ درخت خرما اور
بروی۔ واصر سقیة)

السقواء بہت پلانے والا۔ مؤنث سقواء و
سقایة۔

الاستسقاء پانی طلب کرنا۔۔۔ عند
الشرع: پانی طلب کرنے کیلئے نماز پڑھنا اور
دعا کرنا۔۔۔ عند الأطباء: ایک بیماری کا
نام۔

المسقی سیرابی کا وقت۔
المسقوی دریا کے پانی سے سیراب کی
ہوئی تھیتی۔ (اور سقما) بارش کے پانی سے
سیراب کی ہوئی۔)

المسفاة والمسفاة پانی پلانے کی جگہ۔
سک (ن) سککا النبات دروازہ بند کرنا۔

الرجل: بیمار گھروالا ہونا۔
السقم و السقم سج اسقام و (السقام)
بیماری۔

السقم و السقیم بیمار۔ کلام سقیم: نا
درست کلام۔ مکان سقیم: خوفناک جگہ۔
کہا جاتا ہے "هو سقیم الصدر علی احدہ"
وہ اپنے بھائی سے کیڑہ رکھتا ہے۔

المسقام بکثرت بیمار رہنے والا۔
ارض (مسقمة) بہت بیماریوں والی زمین۔
السقفور ایک جانور کا نام ہے۔

سقی (ش) سقیًا الرجل: پلانا۔ کسی سے
"سفاک اللہ یا سقیًا لک" کہنا۔ عیب لگانا۔
غیبت کرنا۔۔۔ الثوب: گہرا رنگنا۔

سقاہ اللہ العیث: بارش بھیجنا۔۔۔

بطنہ: بیماری کی وجہ سے پیٹ میں پانی جمع ہونا۔
سقی قلبہ عداوة: دل کا دشمنی سے
بھر پور ہونا۔۔۔ بطنہ: بیماری کی وجہ سے
پیٹ میں پانی جمع ہونا۔

سقی تسقی الرجل: بہت پلانا۔ کسی سے
"سقیًا لک" کہنا۔۔۔ الثوب: □ □
کپڑے کو بار بار رنگ میں ڈوبانا۔

اسقی اسقاء الرجل: پانی پینے کیلئے دینا۔
پانی کی طرف رہنمائی کرنا۔ جانوروں کو بارش میں کو
سیراب کرنا۔ کسی سے "سفاک اللہ" یا
"سقیًا لک" کہنا۔ اسقاء اللہ العیث:
بارش بھیجنا سقی فلان: عیب لگانا۔ غیبت
کرنا۔

ساقاه و ساقیا: ایک دوسرے کو پلانا۔
و ساقاه فی ارضہ: کسی کو زمین کی دیکھ بھال
کے لئے مقرر کرنا اس شرط پر کہ زمین کا کچھ غلہ
ملے گا اور اسی سے سحرکة مساقاة ہے۔

تسقی تسقیًا سیراب ہونا۔ کہا جاتا ہے
"تسقی الصنع" اس نے رنگ کو جذب کر
لیا۔

استسقی استسقاء و استسقی
استسقاء منہ: کسی سے پانی طلب کرنا۔
استسقی من النهر: دریا سے پانی لینا۔

سکب (س) سکرا، الحوض، حوض کا بھر جانا۔
 الرجل عليه غصباک ہونا (.....)
 سکرا و سکرا و سکرا و سکرا و سکرا
 سکرا، من الشراب: مست ہونا۔
 مدہوش ہونا۔ صفت مذکر (سکر) و
 سکرا، و صفت مؤنث (سکرة) و
 سکری و سکرا، ن سکری و
 سکری و سکری۔
 سکرة کھوٹنا۔۔۔۔۔ الباب: دروازہ بند کرنا۔
 اسکرود: الشراب: مدہوش کرنا۔ مست کرنا۔
 مستی ظاہر کرنا۔ نشہ آور چیز استعمال کرنا۔
 اسکر: شراب اور ہر نشہ آور چیز۔ سرکہ۔
 اسکر: دریا کا بند۔ جس چیز سے دریا کو بند کیا جائے۔ ن سکور۔
 اسکر: نشہ۔ مستی۔
 اسکر: الموت او الهم: موت یا غم کی نشہ۔ ن سکرات۔
 اسکر: ایک قسم کا دانہ جو گیہوں کے کھیت میں ہوتا ہے اور گیہوں کے مثابہ مگر اس سے کچھ چھوٹا ہوتا ہے اور اس کے کھانے سے نیند بہت آتی ہے۔
 اسکر: شکر (سکرة) اس سے خاص ہے۔
 اسکر: فال: لیل ساکر: بے ہوا والی رات۔ مؤنث ساکر۔
 اسکر: نشہ آور چیزوں کا بنانے والا اور بیچنے والا۔
 اسکر: و السکور و المسکر: بہت نشہ والا۔
 اسکر: ایک قسم کی گھاس جو ہمیشہ بزر رہتی ہے اور اس کے دانہ کو کھایا جاتا ہے۔
 اسکر: و السکر: چھوٹی پیالی۔
 سکع (ف) سکع (س) سکعا و سکعا: لاعلمی میں پھرنا۔ کہا جاتا ہے "ما

سکتا سکتا لاحق ہونا۔ صفت (منسکوت)
 اسکت: کلام منقطع ہونا۔۔۔۔۔ عن الشیء
 امراض کرنا (اسکنہ و سکنہ) چپ کرنا۔
 ساکنہ فسکنہ: چپ رہنے میں مقابلہ کرنا اور قاب رہنا۔
 السکنہ: ایک مشہور بیماری کا نام جس میں سارے اعضاء بے حس و حرکت ہو جاتے ہیں۔
 سکت کا اسم۔
 السکنہ: برتن میں باقی ماندہ۔ بچہ وغیرہ کو چپ کرانے کی چیز۔ سکت کا اسم۔
 السکنہ: بچہ وغیرہ کو چپ کرانے کی چیز۔
 السکات: س۔ ایک بیماری جو بولنے سے روک دیتی ہے۔ السکات من العیات:
 وہ سانپ جو بے خبری میں ڈس لے۔ کہا جاتا ہے "هو علی سکات الامر" وہ کام کے پورا کرنے کے قریب ہے (.....)
 و السکات: من الجواب: خاموش کر دینے والا جواب۔ کہا جاتا ہے "رماہ بسکاتہ و صماتہ" اس نے اس کو خاموش کر دیا۔
 السکت و السکوت و الساکوت و الساکوتة و السکیت و السکیت و السکیت: بہت چپ رہنے والا۔
 السکیت: گھڑ دوڑ کے میدان کا آخری گھوڑا۔
 اسکات: القوم: قوم کے اوباش لوگ۔
 الشیء: چیز کا بقید۔ گرمی کے آخر کے معتدل ایام۔
 المسکت: جوئے کے کھیل کا آخری تیر۔
 سکر (ن) سکرا: الاناء: برتن بھرنا۔
 السکر: دریا میں بند لگانا۔۔۔۔۔ الباب: دروازہ بند کرنا (..... سکور و سکرا) الریح: ہوا کا رگ جانا۔۔۔۔۔ الحر: گرمی کا کم ہو جانا۔
 (.....) و سکر و سکر: بصرہ: نگاہ دھندلی ہونا۔

السکاکة: فضاے آسانی۔ خود رائے چھوٹے کان والا۔
 السکاک: سکہ ساز۔
 السکاکة: مسافرن۔
 سکب (ن) سکبا و تسکابا: الماء و نحوہ: پانی وغیرہ بہانا۔ گرانہ۔
 سکب (ن) سکوبا و انسکب: الماء: پانی بہنا۔
 تسکب: الذمغ: آنسو بہنا۔
 السکب: س۔ لگاتار بارش۔۔۔۔۔ من الخیل: تیز دوڑنے والا گھوڑا۔ ماء سکب: پینے والا پانی۔ امر سکب: امر لازم رجل سکب: سبک روح چست و پھر تیار مرد (.....) و السکب: تانبا یا سید۔
 السکب: ایک خوشبودار درخت۔ واحد (سکبة) السکبة: سر کی بھوی۔
 السکبة: سکب کا اسم مرہ پکڑنے کا گول ٹکڑا جو سر کے لئے قطع کیا جائے۔ باریک جھلی جو جنین کے چہرے پر ہوتی ہے۔
 الساکب و السکوب و السکین و الاسکوب: بیٹے والا۔
 الاسکوب: لگاتار بارش۔ موچی۔ لوہار۔
 درخت خرما کی ایک قطار۔۔۔۔۔ من البوق: زمین کی جانب کوندنے والی بجلی۔
 الاسکاب: موچی۔
 الاسکوب و الاسکاب: لکڑی کا ٹکڑا جس کو منک کے ڈکاف میں ڈال کر اس پر کچھ بانڈھ دیتے ہیں تاکہ اس میں سے کچھ نہ نکلے۔
 الاسکبة: چوکھٹ۔
 المسکبة: بہانے یا بیٹے کی جگہ۔ ن مساکب۔
 السکباج: سان جو سرکہ اگوشت اور خوشبودار مصالح سے تیار کرتے ہیں۔
 سکت (ن) سکتا و سکوتا و سکاتا و ساکوتة: چپ رہنا۔ مرنا۔۔۔۔۔
 الغضب: غصہ کا ٹھنڈا پڑنا۔۔۔۔۔ الحر: ہوا رکنے کے ساتھ گرمی تیز ہونا۔۔۔۔۔ الحر: الحر:

مزل۔ جمسکن۔ المسکنة۔ فقیری۔ ذلت۔ کمزوری۔ المسکین۔ وہ شخص جس کے پاس کچھ نہ ہو یا وہ شخص جس کے پاس اتنا نہ ہو جو اس کے عیال کے لئے کافی ہو۔ ذلیل و مغلوب۔ ج مسکینوں و مساکین مؤنث مسکین و مسکينة۔	الدار و فی الدار۔ اقامت کرنا۔ رہنا۔ صفت مساکین۔ مسکین و مسکون۔ سکن (ن) سکونا و سکن (ک) سکونة: مسکین ہونا۔ سکن المتحرك: ٹھہرانا۔۔۔۔ الحرف: بزم دینا۔ ساکنہ فی دار واحدة: ساتھ ہو دو باش گرتا۔ اسکن الرجل مسکین ہونا۔۔۔۔۔ غریب و مسکین بنانا۔۔۔۔۔ الدار: کسی کو بودو باش کرنا۔۔۔۔۔ الفقر فلانا: بے حرکت بنانا۔ تسکن و تمسکن مفل و مسکین ہونا۔ تسکن: مطمئن و صاحب وقار ہونا۔ (مکینہ سے ماخوذ ہے۔) تسکونا فی الدار: باہم مل کر رہنا۔ استکان استکانة و استکن: ذلیل و عاجز ہونا۔ السکن: گھروالے گھر۔	اذری این سکع“ میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں گیا۔ تسکع فی امره او سیره: حیران پھرنا۔ مدت تک باطل میں رہنا۔۔۔۔۔ الظلمة: اندھیرے میں ٹاپک ٹوپیاں مارنا۔ السکع: فاء (....) والسکع) مرو مسافر اجنبی۔ رجل (سکع) تخیر مرد المسکع: ایک قسم کی نباتات۔ المسکعة: وہ معاملہ جس میں کوئی تدبیر بجھائی نہ دے۔ ارض (مسکعة) بغیر کسی علامت و نشان کے زمین۔ سکف (س) سکفا: الباب: دروازے میں چوکت لگانا۔ تسکف: الباب: چوکت پر قدم رکھنا۔ اسکف: موچی بنا۔ السکاف: فاء: دروازہ کے اوپر والی کڑی جو دہلیز کے مقابل ہوتی ہے۔ الاسکف: من العین: پلکوں کے اگنے کی جگہ یا پتلا پونا کہا جاتا ہے“ وقفت الذمعة علی اسکف عینه“ آسوس کی آنکھوں میں پلک اگنے کی جگہ ٹھہر گیا۔ الاسکفة و الاسکوفة: دہلیز۔ الاسکف و الاسکاف و الاسکوف و السکاف و السکف: موچی۔ و (السکافة) موچی کا پیشہ۔ الاسکولاسکیت: دینی تعلیم جس کی بنیاد یونانی فلسفہ ہو۔ سکم (ن) سکما: کمزوری سے چھوٹے چھوٹے قدم رکھنا۔ صفت (سکم) الاسکیم: راہب کا کپڑا یا راہب کا سر پر ڈالنے کا کپڑا۔ (کلمہ مرہب ہے) سکن (ن) سکونا: ٹھہرنا۔۔۔۔۔ بالیہ: آرام لینا۔۔۔۔۔ عنة الوجع: درد کا دور ہونا۔۔۔۔۔ الحرف: بغیر حرکت کے ہونا۔ بزم والا ہونا۔۔۔۔۔ سکنا و سکنی)
سل (ن) سلا و استل: الشی من الشی: کسی چیز میں سے آہستہ آہستہ نکالنا۔ السیف: تلوار سونٹا۔ کہا جاتا ہے ”استل فلان بكذا“ فلاں شخص فلاں چیز کو چپکے سے لے گیا۔ سل (ض) سلا: گرے ہوئے دانتوں والا ہونا۔ صفت مذکر (سل) و صفت مؤنث (سلّة) سل: سہل کی بیماری میں مبتلا ہو کر ڈبلا ہونا۔ صفت: مسلول اسل اسلا: اللہ فلانا: سہل کی بیماری میں مبتلا کرنا۔۔۔۔۔ الشی: چپکے سے چرانا۔ تسلل و انسل: من الزحام: بھیڑ میں چپکے سے کھسک جانا۔ کہا جاتا ہے ”انسل قید الفرس من یدہ“ اس کے ہاتھ سے گھوڑے کی رسی نکل گئی۔ السل: سر عطر فروشن کا ڈبہ۔۔۔۔۔ سلال السل و السل: لاغری سہل کی بیماری۔ السلّة: پوشیدہ چوری۔ سل کی بیماری۔ حوض کا نقص۔ ٹوکری عطر فروشن کا ڈبہ۔ ج سال: کہا جاتا ہے انساہم عند السلّة و عند السلّة“ یعنی ان کے پاس ہم تلوار کھینچنے کے وقت پتھر سلّة بالفتح اسم مرة اور سلّة بالکسر اسم نوع ہے) ذفرس سریع السلّة تیز دوڑنے والا گھوڑا۔ السلیل: کھینچا ہوا۔ سونٹا ہوا۔ ولد۔ کہا جاتا ہے ”هو سلیل الاکاره“ وہ بزرگوں کی اولاد ہے۔ خاص شراب۔ حرام مغز۔ کوہان۔ وادئ میں پانی بہنے کی جگہ۔ گھوڑے کا مغز۔	الدار و فی الدار۔ اقامت کرنا۔ رہنا۔ صفت مساکین۔ مسکین و مسکون۔ سکن (ن) سکونا و سکن (ک) سکونة: مسکین ہونا۔ سکن المتحرك: ٹھہرانا۔۔۔۔ الحرف: بزم دینا۔ ساکنہ فی دار واحدة: ساتھ ہو دو باش گرتا۔ اسکن الرجل مسکین ہونا۔۔۔۔۔ غریب و مسکین بنانا۔۔۔۔۔ الدار: کسی کو بودو باش کرنا۔۔۔۔۔ الفقر فلانا: بے حرکت بنانا۔ تسکن و تمسکن مفل و مسکین ہونا۔ تسکن: مطمئن و صاحب وقار ہونا۔ (مکینہ سے ماخوذ ہے۔) تسکونا فی الدار: باہم مل کر رہنا۔ استکان استکانة و استکن: ذلیل و عاجز ہونا۔ السکن: گھروالے گھر۔	الاسکف: من العین: پلکوں کے اگنے کی جگہ یا پتلا پونا کہا جاتا ہے“ وقفت الذمعة علی اسکف عینه“ آسوس کی آنکھوں میں پلک اگنے کی جگہ ٹھہر گیا۔ الاسکفة و الاسکوفة: دہلیز۔ الاسکف و الاسکاف و الاسکوف و السکاف و السکف: موچی۔ و (السکافة) موچی کا پیشہ۔ الاسکولاسکیت: دینی تعلیم جس کی بنیاد یونانی فلسفہ ہو۔ سکم (ن) سکما: کمزوری سے چھوٹے چھوٹے قدم رکھنا۔ صفت (سکم) الاسکیم: راہب کا کپڑا یا راہب کا سر پر ڈالنے کا کپڑا۔ (کلمہ مرہب ہے) سکن (ن) سکونا: ٹھہرنا۔۔۔۔۔ بالیہ: آرام لینا۔۔۔۔۔ عنة الوجع: درد کا دور ہونا۔۔۔۔۔ الحرف: بغیر حرکت کے ہونا۔ بزم والا ہونا۔۔۔۔۔ سکنا و سکنی)